



جلد: 1

# احیاء العلوم (مترجم)

مصنف

حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ  
الکافی



مزار امام غزالی

مکتبۃ المدینہ  
(دعوتِ اسلامی)  
MC 1286

مکتبۃ المدینہ  
(دعوتِ اسلامی)  
شعبۃ ترجمہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ آمَنَّا بِكَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## کتاب پڑھنے کی دعا


دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے  
جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمہ: اے اللہ عزوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما!

اے عظمت اور بزرگی والے!

(مُسْتَعْرِفٌ ج ۱ ص ۴۰ دار الفکر بیروت)



(اول آخرا یک بار دُرُود شریف پڑھ لیجئے)

## قیامت کے روز حسرت

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: سب سے زیادہ حسرت  
قیامت کے دن اُس کو ہوگی جسے دُنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اُس نے حاصل  
نہ کیا اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سُن کر نَفْع  
اُٹھایا لیکن اس نے نہ اُٹھایا (یعنی اس علم پر عمل نہ کیا)۔

(تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵۱ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت)

## کتاب کے خریدار متوجہ ہوں

کتاب کی طباعت میں ٹمپاں خرابی ہو یا صفحات کم ہوں یا باسٹڈنگ میں  
آگے پیچھے ہو گئے ہوں تو مکتبۃ المدینہ سے رُجوع فرمائیے۔

شیخ طریقت، امیر اہلسنت،  
بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال  
محمد الیاس عطار قادری رضوی علیہ السلام کا ایک مکتوب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْسَلِينَ آمَنَّا بَعْدَ قَاعُونَ يَا لَيْلِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِشَرِّهِ وَاللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے وہاں باطن کی اصلاح میں حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہی کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہی کی منہاج العابدین اور اِحیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے، گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ ”بڑا نیک بنا پھر تانا ہے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ اچھے میں تو یہ بھی خرابی ہے اور تیرے اندر تو وہ بھی بُرائی ہے، نیز جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے کہ روح کو کئی نئی غذا نہیں مل رہی ہیں، ان کی کُتُب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہیں۔“ سرکار اعلیٰ حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمہما اللہ تعالیٰ کی مبارک کتابیں اگر مٹا لے میں نہ آتیں تو شاید میں برباد ہو جاتا! خدا کی قسم اِحیاء الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہی نے اِحیاء الْعُلُوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کے تمام جامعہ المَدینہ اور مدارس المَدینہ کے جملہ اساتذہ، تالیمین و ناظمات، طلبہ و طالبات، سبھی مُبْلِغین و مبلغات تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مَدَنی جَمیل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مَدَنی التجاہ ہے کہ اِحیاء الْعُلُوم کا نطاع نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرمائیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہی حاضمی اَلْمَدْحِب تھے لہذا آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ کے بیان کردہ فقہی مسائل میں حنفی، مالکی اور حنبلی حضرات اپنے اپنے علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ طوس (ایران) میں اپنے مزارِ فائض الانوار میں آرام فرمانے والے میرے آقا و امام حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الہی پر ہر آن کروڑوں روستوں کا نُوْل فرمائے اور ان کے طفیل مجھ گنہگاروں کے سردار کو بے حساب بخشے۔

أَمِينُ بَيْتِ النَّبِيِّ الْأَكْمَنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



طلب نمبر ۵۵  
تبع و طبع و  
بے حساب  
انفرادی نمبر ۵۵  
کارڈ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ  
03-04-2012

ایک چپ تنوسکھ

حلال و حرام کی پہچان کے لئے اَحْيَاءُ الْعُلُومِ اسلام کی اعلیٰ ترین کتب میں سے ہے۔ (فرمان علامہ عراقی)  
اگر تمام علوم ناپید ہو جائیں تو میں اَحْيَاءُ الْعُلُومِ سے سب کو نکال لوں گا۔ (فرمان امام کازرونی)  
اگر کافر اَحْيَاءُ الْعُلُومِ کی ورق گردانی کر لے تو مسلمان ہو جائے۔ (فرمان امام سقاف)

# اِحْيَاءُ الْعُلُومِ مترجم (جلد: 1)

مُصَنِّف

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سَيِّدُنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي (الْمُتَوَفَّى ٥٠٥ هـ)

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة  
(شعبہ تراجم کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

وعلمی (اصحاب) با حبیب اللہ

الصلوة والسلام علیہ با رسول اللہ

نام کتاب	:	احیاء العلوم مترجم (جلد: 1)
مؤلف	:	حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی (المتوفی ۵۰۵ھ)
مترجمین	:	مدنی علما (شعبہ تراجم کتب)
سن طباعت	:	ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ بمطابق فروری 2012ء
قیمت	:	

### مکتبہ المدینہ کی شاخیں

فون: 021-32203311	.....کراچی: شہید مسجد، کھارادر
فون: 042-37311679	.....لاہور: دادا دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ
فون: 041-2632625	.....سردار آباد: (فیصل آباد) امین پور بازار
فون: 058274-37212	.....کشمیر: چوک شہیداں، میرپور
فون: 022-2620122	.....حیدرآباد: فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن
فون: 061-4511192	.....ملتان: نزد پینٹل والی مسجد، اندرون بوہڑ گیٹ
فون: 044-2550767	.....اوکاڑہ: کالج روڈ، بالقتل غوثیہ مسجد، نزد تحصیل کونسل ہال
فون: 051-5553765	.....راولپنڈی: فضل داد پلازہ، کمیٹی چوک، اقبال روڈ
فون: 068-5571686	.....خان پور: ڈرائی چوک، نہر کنارہ
فون: 0244-4362145	.....نواب شاہ: چکر بازار، نزد MCB
فون: 071-5619195	.....سکھر: فیضان مدینہ، بیراج روڈ
فون: 055-4225653	.....گوجرانوالہ: فیضان مدینہ، شیخوپورہ موڑ
	.....پشاور: فیضان مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور سٹریٹ، صدر

[E.mail.ilmia@dawateislami.net](mailto:E.mail.ilmia@dawateislami.net)

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں۔





## ضمیمہ فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
119	پہلی فصل: بعض علوم کے مذموم ہونے کا سبب	5	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
126	دوسری فصل: الفاظ علوم میں تبدیلی کا بیان	6	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ كَاتِعَارَف (ازامیرالہسنت دامت برکاتہم العالیہ)
148	تیسری فصل: اچھے علوم کی قابل تعریف مقدار کا بیان	8	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
	باب نمبر 4: لوگوں کے اختلاف میں پڑنے کی وجہ، مناظرہ	14	تعارف مصنف
155	کی آفات کی تفصیل اور اس کے جواز کی شرائط	36	ابتدائیہ
	پہلی فصل: مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور اسلاف کے	42	<b>علم کا بیان</b>
157	مذاکروں سے مشابہت دینا دھوکا ہے		باب نمبر 1: علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت اور اس کے عقلی و
	دوسری فصل: مناظرے کی آفات اور اس سے جنم لینے والی	42	نقلی دلائل کا بیان
164	ہلاکت خیز عادات	42	پہلی فصل: علم کی فضیلت
173	باب نمبر 5: شاگرد اور اُستاد کے آداب	55	دوسری فصل: علم حاصل کرنے کی فضیلت
173	پہلی فصل: طالب علم کے آداب	59	تیسری فصل: علم سکھانے کی فضیلت
190	دوسری فصل: راہنما اُستاد کے فرائض	66	چوتھی فصل: علم کی فضیلت پر عقلی دلائل
191	اُستاد کے آداب	71	باب نمبر 2: محمود و مذموم علوم اور ان کی اقسام و احکام
	باب نمبر 6: علم کی آفات، علمائے آخرت اور علمائے سوء کی	71	پہلی فصل: فرض عین علم کا بیان
201	علامات کا بیان	78	دوسری فصل: فرض کفایہ علم کا بیان
201	پہلی فصل: علمائے سوء کی نشانیاں	87	تیسری فصل: علم طریق آخرت کی اقسام
207	دوسری فصل: علمائے آخرت کی 12 نشانیاں	100	سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے فضائل و مناقب
283	باب نمبر 7: عقل، اس کی عظمت، حقیقت اور اقسام کا بیان	111	سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے فضائل و مناقب
283	پہلی فصل: عقل کی عظمت	115	سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے فضائل و مناقب
289	دوسری فصل: عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام	118	مناقب امام احمد بن حنبل اور امام ثوری
296	تیسری فصل: عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں تفاوت	119	باب نمبر 3: ان مذموم علوم کا بیان جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
431	باب نمبر 3: ظاہری نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا	301	<b>عقائد کا بیان</b>
454	<b>نماز کا بیان</b>		پہلی فصل: پہلے اسلامی رکن کلمہ شہادت کے متعلق عقیدہ
455	باب نمبر 1: نماز، ہجود، جماعت اور اذان وغیرہ کے فضائل	301	اہلسنت کی وضاحت
455	پہلی فصل: اذان کی فضیلت	302	کلمہ شہادت کے پہلے جز عقیدہ توحید کی وضاحت
457	دوسری فصل: فرض نماز کی فضیلت	306	کلمہ شہادت کے دوسرے جز کی وضاحت
460	تیسری فصل: ارکان نماز پورا کرنے کی فضیلت		دوسری فصل: مرحلہ وار رہنمائی کرنے کی وجہ اور اعتقاد کے
462	چوتھی فصل: نماز باجماعت کے فضائل	310	درجات کا بیان
465	پانچویں فصل: فضائل سجدہ	313	علم کلام اور متکلمین کے بارے میں علما کی آرا
467	چھٹی فصل: خشوع کی فضیلت	346	تیسری فصل: الرسالة القدسیہ فی قواعد العقائد
474	ساتویں فصل: مسجد اور جائے نماز کی فضیلت	346	ایمان کے چار بنیادی ارکان
477	باب نمبر 2: ظاہری اعمال کی کیفیت و آداب کا بیان		چوتھی فصل: ایمان اور اسلام کے مابین اتصال و انفصال،
	پہلی فصل: نماز میں ظاہری اعمال کی کیفیت اور تکبیر تحریمہ	438	ان کے گھٹنے بڑھنے اور اسلاف کا اس میں (ﷻ) اور (﷼) کے ساتھ) استثنا کرنے کی وجہ کا بیان
477	سے ابتدا کرنا	365	
487	دوسری فصل: ممنوعات نماز	396	<b>طہارت کا بیان</b>
491	تیسری فصل: فرائض و سنن میں فرق	405	باب نمبر 1: نجاست سے طہارت حاصل کرنا
495	باب نمبر 3: اعمال قلب کی باطنی شرائط	405	پہلی فصل: زائل کی جانے والی نجاست کا بیان
495	پہلی فصل: خشوع، خضوع اور حضور قلب کی شرائط	408	دوسری فصل: نجاست زائل کرنے والی چیز
501	دوسری فصل: نماز مکمل کرنے والے باطنی امور	409	تیسری فصل: نجاست زائل کرنے کے طریقے
507	تیسری فصل: حضور قلب میں نفع بخش دوا	410	باب نمبر 2: نجاست حکمی سے پاکی حاصل کرنا
512	چوتھی فصل: نماز میں حضور قلب کی تفصیل	410	قضائے حاجت کے آداب
512	نماز کی شرائط و فرائض	416	وضو کا طریقہ
529	پانچویں فصل: خشوع، خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی حکایات	427	غسل کا طریقہ
535	باب نمبر 4: امامت کا بیان	429	تیمم کا بیان

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
612	شب جمعرات کے نوافل		پہلی فصل: امام پر نماز سے پہلے کے، نیز قراءت، ارکان اور سلام کے بعد کے لازم امور
612	شب جمعہ کے نوافل	535	دوسری فصل: قراءت میں امام کی ذمہ داری
613	شب ہفتہ کے نوافل	542	تیسری فصل: ارکان نماز میں امام و مقتدی کی ذمہ داریاں
618	ماہ رجب المرجب کے نوافل	545	چوتھی فصل: سلام پھیرنے کے بعد امام کی ذمہ داری
619	ماہ شعبان المعظم کے نوافل	548	باب نمبر 5: جمعۃ المبارک کا بیان
620	(1)..... گریہ کی نماز	550	پہلی فصل: جمعہ کی فضیلت
621	(2)..... نماز استسقا	550	دوسری فصل: جمعہ کی شرائط
622	(3)..... نماز جنازہ	554	تیسری فصل: عادت کی ترتیب کے مطابق آداب جمعہ کا بیان
625	(4)..... تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ	557	چوتھی فصل: جمعہ کی سنتیں اور آداب
627	(5)..... تَحِيَّةُ الْوُضُو	573	باب نمبر 6: متفرق مسائل کا بیان
627	(6)..... گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کے نوافل	584	باب نمبر 7: نوافل کا بیان
628	(7)..... نماز استخارہ	594	اتوار کے نوافل
629	(8)..... نماز حاجت	605	پیر کے نوافل
631	(9)..... صَلَاةُ التَّسْبِيحِ اور اس کی فضیلت	606	منگل کے نوافل
635	<b>زکوٰۃ کا بیان</b>	607	بدھ کے نوافل
637	پہلی فصل: زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے وجوب کے اسباب	607	جمعرات کے نوافل
646	دوسری فصل: زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی ظاہری و باطنی شرائط	608	جمعہ کے نوافل
608	تیسری فصل: زکوٰۃ لینے والا، مستحق ہونے کے اسباب اور قبضہ کے وظائف	609	ہفتہ کے نوافل
672	چوتھی فصل: نفلی صدقہ کے فضائل اور لینے دینے کے آداب	609	شب اتوار کے نوافل
684	<b>روزوں کا بیان</b>	610	شب پیر کے نوافل
700	پہلی فصل: روزے کے واجبات، ظاہری سنتیں اور روزہ توڑنے والے لازم امور کا بیان	610	شب منگل کے نوافل
705		611	شب بدھ کے نوافل

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
907	باب نمبر 2: استغفار، درود اور دعا کے فضائل و آداب	712	دوسری فصل: روزے کے اسرار اور اس کی باطنی شرائط
907	پہلی فصل: دُعا کی فضیلت	720	تیسری فصل: نقلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب
908	دوسری فصل: دُعا کے دس آداب	726	<b>حج کا بیان</b>
919	<b>قحط سالی کے متعلق 12 حکایات</b>	727	باب نمبر 1: فضائل حج کا بیان
924	تیسری فصل: درود پاک کی فضیلت اور عظمتِ مصطفیٰ	727	پہلی فصل: حج، بیت اللہ، مکہ و مدینہ کے فضائل اور مساجد کی جانب سفر کرنے کا بیان
929	چوتھی فصل: استغفار کی فضیلت	727	دوسری فصل: وجوب حج کی شرائط، ارکان کی درستی اور واجبات و ممنوعات کا بیان
937	باب نمبر 3: انبیائے کرام و بزرگان دین سے منقول 16 دعائیں	744	باب نمبر 2: ابتدائے سفر سے واپسی تک کے دس آداب طواف کا طریقہ
952	باب نمبر 4: قرآن وحدیث میں وارد نماز کے بعد کی دعائیں	753	باب نمبر 3: حج کی باریکیاں اور باطنی اعمال
964	باب نمبر 5: مختلف مسنون دعائیں	765	<b>تلاوت قرآن کا بیان</b>
	<b>اوراد کی ترتیب اور شب بیداری کی تفصیل کا بیان</b>	793	باب نمبر 1: قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت
981	باب نمبر 1: اوراد کی فضیلت اور ترتیب و احکام کا بیان	821	باب نمبر 2: تلاوت کے ظاہری آداب
983	اوراد کی تعداد اور ترتیب کا بیان	823	باب نمبر 3: تلاوت کے باطنی آداب
989	دن کے وظائف کی تفصیل	831	باب نمبر 4: فہم قرآن اور تفسیر بالرائے کا بیان
1014	رات کے وظائف کا بیان	846	<b>ذکر اللہ اور دُعاؤں کا بیان</b>
1034	احوال بدلنے سے وظائف کا بدل جانا	875	باب نمبر 1: قرآن وحدیث اور اقوالِ اسلاف سے ذکر اللہ کے فضائل و فوائد کا بیان
	باب نمبر 2: قیام اللیل میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب، شب بیداری کے لئے مستحب راتیں، مغرب و عشا کے درمیانی وقت اور شب بیداری کی فضیلت اور رات کے اوقات کی تقسیم کا بیان	885	پہلی فصل: ذکر اللہ کی فضیلت
1045	حکایات کی فہرست	886	دوسری فصل: مجالس ذکر کی فضیلت
1077	تفصیلی فہرست	891	تیسری فصل: کلمہ توحید پڑھنے کے فضائل
1078	ماخذ و مراجع	893	چوتھی فصل: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اور دیگر اذکار کے فضائل
1114	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کتب کا تعارف	896	پانچویں فصل: حقیقت ذکر اور اس کے فوائد
1119		901	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ  
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط  
 ”فیضانِ امامِ غزالی جاری رہے گا“ کے 23 حُرُوف کی نسبت سے  
 اس کتاب کو پڑھنے کی ”23 عتیمیں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: نَبِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔  
 (المعجم الكبير للطبرانی، الحدیث ۵۹۴، ج ۶، ص ۱۸۵)

دومدنی پھول: ﴿۱﴾ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

﴿۲﴾ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و (۲) صلوٰۃ اور (۳) تَعُوْذُ و (۴) تَسْمِیَہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اُوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا)۔ (۵) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۶) حتّٰی اَلْوَسْعِ اس کا باؤضو اور (۷) قبلہ رُوْمُطْلَعہ کروں گا۔ (۸) قرآنی آیات اور (۹) احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۱۰) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ اور (۱۱) جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اور (۱۲) جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ اور رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۱۳) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلف کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۱۴) (اپنے ذاتی نئے پر) عِنْدَ الضَّرْوَرَتِ خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (۱۵) (اپنے ذاتی نئے کے) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۶) اولیا کی صفات کو اپناؤں گا۔ (۱۷) اپنی اصلاح کے لئے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۸) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۹) اس حدیث پاک ”تَهَادَوْا تَحَابُّوْا“ ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ ﴿مؤطا امام مالک، الحدیث: ۷۳۱، ج ۲، ص ۴۰﴾ پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ (۲۰) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا۔ (۲۱) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا کروں گا اور ہر مدنی (اسلامی) ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا اور (۲۲) عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۲۳) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مُطَّلَع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ

مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَبْلِيغِ قُرْآنِ وَسُنَّتِ كِي عَالَمِيَرِ غَيْرِ سِيَا سِي تَحْرِيكِ  
”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علمِ شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مصمم  
رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک  
مجلس ”المدينة العلمية“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علما و مفتیانِ کرام کَثْرَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ پر مشتمل ہے،  
جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کتبِ علیحضرت (۲) شعبہ تراجم کتب (۳) شعبہ درسی کتب

(۴) شعبہ اصلاحی کتب (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”المدينة العلمية“ کی اولین ترجیح سرکارِ علیحضرت امامِ اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت،  
پروانہ شمعِ رسالت، مجتہدِ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالمِ شریعت، پیرِ طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت  
علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ كِي رگراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں  
کے مطابق حتیٰ الوسع سہل اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی  
کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی  
اس کی ترغیب دلائیں۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ”دُعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”المدينة العلمیہ“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرِ شہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم



رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

### ..... تین پیسے کا وبال ..... ❖

دُعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ صَفْحَہ 900 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دُعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: میرے آقا علی حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل (ح-بی-ن) و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، کذاب، مستحق عذاب ہے اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے! اگر اس حالت میں مر گیا اور دین (قرض) لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان (قرضو اہوں) کے مطالبہ میں دی جائیں گی۔ کیونکر دی جائیں گی (یعنی کس طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیجئے!) تقریباً ”تین پیسے“ دین (قرض) کے عوض (یعنی بدلے) سات سو نمازیں باجماعت (دینی پڑیں گی)۔ جب اس (قرض دہالینے والے) کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اُن (قرضو اہوں) کے گناہ اس (مقرض) کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۶۹، ملخصاً)

## پہلے اسے پڑھ لیجئے!

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عالم دنیا کو وجود بخشا، اس میں قسم قسم کی مخلوق پیدا فرمائی۔ حضرت انسان کی تخلیق فرما کر اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ موت و حیات کو پیدا کر کے تخلیق انسانی کا مقصد بھی بیان فرما دیا تاکہ کوئی کم عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد محض کھانا پینا، سونا، جنسی خواہشات کی تکمیل، فتح و نصرت، غلبہ و اقتدار اور دوسروں پر تسلط قائم کرنا ہے، یہ سوچ و نظریہ بالکل فاسد ہے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں تو پھر اس میں انسان کی خصوصیت کیا معنی رکھتی ہے۔ انسان کی بادشاہی و سرفرازی کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک ایسی صفت عطا کی گئی ہے جو اس کا بنیادی کمال ہے اور وہ ہے عقل، جس کے ذریعے وہ شیطان و نفسانی خواہشات پر قابو پا کر دیگر مخلوقات پر رفعت پاتا اور معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کے درست استعمال کے سبب بعض انسان بعض فرشتوں سے افضل اور غلط استعمال کے باعث جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تخلیق انسانی کا مقصد تو یہ تھا جسے قرآن حکیم نے بیان فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (پہ ۲، الذریت: ۵۶)

چاہے تو یہی تھا کہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عقل کا درست استعمال کیا جاتا لیکن انسان اس مقصد سے رو گرداں ہے۔ مگر ایسے ماحول میں کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں جو اس مقصد کو پانے کے لئے کوشاں ہیں اور اس کے لئے حصول علم کے بعد شارع عمل پر گامزن ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے بھی زیادہ تر اپنے ظاہر کو سنوارنے کی کاوش میں ہیں اور باطن کی پاکیزگی کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ علم و عمل ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ جیسا کہ حضرت سید علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”عمل بغیر علم کے عمل نہیں کہلاتا کیونکہ عمل اس وقت تک عمل نہیں بنتا جب تک اسے علم کی تائید حاصل نہ ہو اور عمل کا ثواب علم ہی کی وجہ سے ملتا ہے، لہذا عمل بغیر علم کے عمل نہیں بلکہ بد عملی ہے اور یوں ہی عمل کو علم سے جدا سمجھنا جہالت ہے اور یہ خیال کرنا کہ محض علم عمل سے افضل ہے، درست نہیں کیونکہ عمل کے بغیر علم، علم نہیں کہلاتا اور علم پر عمل نہ ہو تو حصول علم کا ثواب نہیں ملتا۔“ (۱)

① ..... کشف المحجوب، باب اثبات العلم، ص ۱، ملخصاً۔

معلوم ہوا کہ علم و عمل ناگزیر ہیں مگر فقط ظاہری علم اور ظاہری عمل حقیقی فائدہ نہیں دے سکتا، باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جو ظاہر کو سنوارے لیکن باطن گندگیوں سے آلودہ ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو دعوت دینے کے بعد صرف اپنے گھر کے بیرونی حصے کی صفائی و ستھرائی پر توجہ دے مگر اندرونی حصے میں گندگیوں کے ڈھیر لگے رہنے دے۔ ایسے شخص کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ اسی طرح حصول علم کے بعد اگر بندہ صرف ظاہر کو خوب مزین و آراستہ کرے اور باطن کو نہ سنوارے تو وہ بھی عقل کا درست استعمال کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ پھر یہ کہ جس قدر باطن کی اصلاح اور طہارت و صفائی زیادہ ہوتی جائے گی علم کا نفع بھی اسی قدر بڑھتا جائے گا۔

حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیْیِ فرماتے ہیں: ”طہارت کے چار درجے ہیں: (۱) ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں وغیرہ سے پاک کرنا (۲)..... اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا (۳)..... دل کو برے اخلاق اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک کرنا (۴)..... باطن کو غیر اللہ سے پاک کرنا۔“

چوتھے درجے کے متعلق فرماتے ہیں: ”اس سے مقصود دل میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی جلالت و عظمت کا ظہور اور معرفت خداوندی کا حصول ہے اور باطن میں معرفت الہی اس وقت تک جاگزیں نہیں ہو سکتی جب تک اسے غیر خدا کے خیال سے پاک نہ کر لیا جائے۔ نیز بندہ اس وقت تک باطن کو مذموم صفات سے پاک اور اچھی عادات سے آباد نہیں کر سکتا جب تک دل کو بری عادت سے پاک اور اچھے اخلاق سے مزین نہ کر لے اور جو شخص اعضاء کو ممنوعات سے بچا کر عبادات سے معمور نہ کر لے وہ بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب مطلوب قابلِ عز و شرف ہو تو اس کا راستہ دشوار اور طویل ہوتا ہے اور اس میں گھاٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ محض خام خیالی ہے کہ باطن کی پاکیزگی با آسانی حاصل ہو جائے گی۔“<sup>(۱)</sup>

واضح ہوا کہ باطن کی اصلاح و صفائی کے لئے مجاہدات کی مشقت برداشت کرنا، نفس کا محاسبہ کرنا اور اس کے ساتھ جہاد لازم ہے اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضور رحمت عالم، ہادی برحق، مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ”ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر (یعنی جہاد بالنفس) کی طرف لوٹے۔“<sup>(۲)</sup>

①..... احیاء علوم الدین، کتاب الطہارت، ج ۱، ص ۱۷۴، ۱۷۵، ملخصاً۔ ②..... احیاء العلوم، ج ۲، ص ۳۰۴۔



حضرت سیدنا علامہ سید محمد بن محمد حسینی مرتضیٰ زبیدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِدِیْ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”جہاد بالنفس سے مراد یہ ہے کہ نفس کو رضائے الہی کے لئے عبادت پر مجبور کیا جائے اور نافرمانی سے روکا جائے، اسے جہاد اکبر اس لئے فرمایا گیا کہ جو اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا اس کے لئے خارجی دشمن سے جہاد کرنا بھی ممکن نہیں کیونکہ جو دشمن دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور غالب ہے، جب اس سے جہاد نہیں ہو پارہا تو خارجی دشمن سے جہاد کیونکر ممکن ہوگا لہذا خارجی کے مقابلے میں باطنی دشمن سے جہاد جہاد اکبر ہے۔“ (۱)

پھر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی کا عمل قبول فرماتا ہے جس کا باطن پاک اور تقویٰ و پرہیزگاری سے مزین و آراستہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَنْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَ لَكِنْ يَبْتَلِي التَّقْوَى مِنْكُمْ ط (ب ۱، الحج ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

اور یوں ہی اس سلسلے میں یہ فرمان مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے: ”اِنَّ اللہَ لَا یَنْظُرُ اِلٰی صُوْرَکُمْ وَلَا اِلٰی اَمْوَالِکُمْ وَلٰکِنْ یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ وَاَعْمَالِکُمْ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ صرف تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ فقط صورت نہیں دیکھتا سیرت بھی دیکھتا ہے۔ (۲)

زیر نظر کتاب حُجَّةُ الْاِسْلَام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن احمد غزالی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی (متوفی ۵۰۵ھ) کی تصوف پر مشہور و معروف اور معرکتہ الآراء تصنیف ”اِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّیْنِ“ مطبوعہ: دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان ۲۰۰۸ء کی پہلی جلد کا ترجمہ ہے۔ یوں تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کی ہر تصنیف علم و عرفان کا بیش بہا خزانہ ہے مگر اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ ایسی کتاب ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا گہرا مطالعہ اور پھر بیان کردہ باتوں پر عمل تزکیہ نفس کے لئے اسیب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام ہی معاملات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الغرض قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ اور سلف صالحین کی زندگیوں کا حاصل یہ کتاب انسان کو ”کامل انسان“ بنانے میں بے حد معاون ہے۔

①.....اتحاد السادة المتقين، ج ۱، ص ۱۱۳۔ ②.....مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۱۲۸۔

چار جلدوں پر محیط یہ عظیم الشان کتاب اعمال کی چار اقسام پر مشتمل ہے، ہر جلد میں ایک قسم کے ظاہری و باطنی احکام مذکور ہیں۔ کتاب میں ایک مقدمہ، ایک خاتمہ اور 40 ابواب ہیں۔

پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے جس میں درج ذیل 10 ابواب ہیں: (۱) علم کا بیان (۲) عقائد کا بیان (۳) طہارت کا بیان (۴) نماز کا بیان (۵) زکوٰۃ کا بیان (۶) روزہ کا بیان (۷) حج کا بیان (۸) آداب تلاوت قرآن کا بیان (۹) دعا و اذکار کا بیان (۱۰) اور ادکی ترتیب اور اوقات کا بیان۔

دوسری جلد میں عادات کا ذکر ہے جو درج ذیل 10 ابواب پر مشتمل ہے: (۱) آداب طعام کا بیان (۲) نکاح کا بیان (۳) روزگار کے احکام کا بیان (۴) حلال و حرام کا بیان (۵) آداب صحبت کا بیان (۶) گوشہ نشینی کا بیان (۷) آداب سفر (۸) وجد و سماع کا بیان (۹) اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ کا بیان (۱۰) آداب زندگی کا بیان۔

تیسری جلد میں مہلکات (ہلاکت میں ڈالنے والی باتوں) کا بیان ہے اس میں درج ذیل 10 ابواب ہیں: (۱) عجائبات قلب کا بیان (۲) ریاضت نفس کا بیان (۳) پیٹ اور نفس کی خواہشات کا بیان (۴) زبان کی آفات کا بیان (۵) غصہ، کینہ، حسد اور ان کے نقصانات کا بیان (۶) دنیا کی مذمت کا بیان (۷) مال کی محبت اور بخل کی مذمت کا بیان (۸) حب جاہ اور ریاکاری کا بیان (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا بیان (۱۰) غرور کی مذمت کا بیان۔

چوتھی جلد میں منجیات (نجات دلانے والے امور) کا بیان ہے اس میں بھی درج ذیل 10 ابواب ہیں: (۱) توبہ کا بیان (۲) صبر و شکر کا بیان (۳) خوف ورجا کا بیان (۴) فقر و زہد کا بیان (۵) توحید و توکل کا بیان (۶) شوق و محبت اور انس و رضا کا بیان (۷) نیت، اخلاص اور صدق کا بیان (۸) مراقبہ و محاسبہ کا بیان (۹) فکر و عبرت کا بیان (۱۰) موت اور ما بعد الموت کا بیان۔

اس سے قبل اِحْيَاءُ الْعُلُومِ کے خلاصے ”لَبَابُ الْاِحْيَاءِ“ کا ترجمہ بنام ”اِحْيَاءُ الْعُلُومِ كَاخْلَاصِ“ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے ”مکتبۃ المدینہ“ سے طبع ہو کر عوام و خواص میں مقبول ہو چکا ہے۔ ”اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کے عظیم جذبہ کے تحت دعوتِ اسلامی کی خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی مجلس ”الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ“ کے شعبہ تراجم کتب (عربی سے اردو) کے مدنی علما کثرتہمُ اللہُ تَعَالَى نے اس ترجمہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ مدنی علما اپنی مسلسل کاوشوں سے اب تک (ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ) 27 عربی کتب کے اردو میں تراجم پیش کر چکے ہیں جو انتخاب عنوان

اور حسن صوری و معنوی کے اعتبار سے منفرد و ممتاز ہیں، ان کی فہرست کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے۔ ان تراجم اور پیش نظر ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں یقیناً رب رحیم عزوجل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں، اولیائے کرام رَحْمَتُ اللّٰهِ السَّلَامِ کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْعَالِیَہ کی شفقتوں اور پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہیں اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری لاشعوری کوتاہی کا دخل ہے۔

## الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ وَرَاحِيَاءُ الْعُلُومِ

الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ سے کسی بھی عربی کتاب کا ترجمہ کم و بیش 16 مراحل سے گزر کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے۔ جن میں تخریج، ترجمہ، تقابل آیات و ترجمہ، فارمیٹنگ، پروف ریڈنگ، تفتیش تخریج، مفید و ناگزیر حواشی، آیات قرآنیہ کی پیسٹنگ، شرعی تفتیش اور مشکل الفاظ کی تسہیل و اعراب، فائنل پروف ریڈنگ وغیرہ ایسے کٹھن مراحل شامل ہیں۔ پیش نظر ترجمہ پر مذکورہ مراحل کے ساتھ ساتھ درج ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے:

﴿1﴾..... آیات مبارکہ کا ترجمہ امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کے ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے لیا گیا ہے۔

﴿2﴾..... احادیث کریمہ کی تخریج اصل ماخذ سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور باقی حوالہ جات میں جو کتب دستیاب ہو سکیں ان سے تخریج کی گئی ہے۔

﴿3﴾..... حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیِ چونکہ شافعی المذہب ہیں اس لئے فقہی اعتبار سے اختلافی مسائل میں حتی المقدور احناف کا موقف حاشیہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔

﴿4﴾..... جن مقامات پر انتہائی پیچیدہ و مشکل ابحاث آئی ہیں، ان میں جہاں ممکن تھا وہاں آسان انداز میں بیان کر دیا گیا اور کہیں ان کا خلاصہ لکھا گیا اور جہاں ممکن نہ تھا ان ابحاث کو حذف کر دیا گیا ہے، اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

﴿5﴾..... جہاں کہیں لغوی ابحاث نفس مضمون کے لئے لازم و ملزوم تھیں وہاں انہیں برقرار رکھا گیا ہے ورنہ حذف کر دی گئی ہیں۔ یوں ہی روایات وغیرہ میں جہاں کہیں تکرار تھا وہاں باعتبار ضرورت باقی رکھا گیا ہے ورنہ حذف کر دیا گیا ہے اور یہ گنتی کے چند مقامات ہیں۔

- ﴿6﴾..... اہلسنت کے اکابر مترجمین شکر اللہ تعالیٰ سعیہم کے دستیاب اردو تراجم سے بھی مدد لی گئی ہے۔
- ﴿7﴾..... اَحْيَاءُ الْعُلُومِ کی شرح ”اِتِّخَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ“ کو بالالتزام سامنے رکھا گیا ہے۔
- ﴿8﴾..... احادیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے وقت اکابر مترجمین اہلسنت کے اردو تراجم سے بھی راہ نمائی لی گئی ہے۔
- ﴿9﴾..... کتاب کم و بیش 2300 حوالہ جات سے مزین و آراستہ ہے۔
- ﴿10﴾..... حتی الامکان آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کئے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی مستفید ہو سکیں۔
- ﴿11﴾..... اگر کہیں مشکل اور غیر معروف الفاظ ضروری تھے تو ان پر اعراب لگا کر ہلا لین میں معانی و مطالب لکھ دیئے ہیں۔
- ﴿12﴾..... کوشش کی گئی ہے کہ پڑھنے والوں تک وہی کیفیت پہنچے جو اصل کتاب میں جلوے لٹا رہی ہے۔
- ﴿13﴾..... عربی عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقل اردو عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔
- ﴿14﴾..... روایت کے مضمون و مفہوم کے پیش نظر ذیلی عنوانات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔
- ﴿15﴾..... علامات ترقیم (رموز اوقاف) کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔
- ﴿16﴾..... بطور وضاحت مفید و ضروری حواشی بھی تحریر کئے گئے ہیں۔
- ﴿17﴾..... ماخذ و مراجع کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔
- ﴿18﴾..... کتاب کی تین فہرستیں بنائی گئی ہیں: (۱)..... ضمنی (۲)..... تفصیلی (۳)..... حکایات، ضمنی فہرست آغاز کتاب میں اور تفصیلی و حکایات آخر میں دی گئی ہے۔

بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص علمائے کرام کثرہم اللہ السلام کو تحفہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نیز ہمیں ”اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کرنے کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیۃ کو دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقی عطا فرمائے۔

أَمِينُ بَجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

شعبہ تراجم کتب (مجلس المدینۃ العلمیہ)

## تعارفِ مُصَنِّف

### نام و نسب اور ولادتِ باسعادت:

آپ کی کنیت ابو حامد، لقب حُجَّةُ الْإِسْلَام اور نام نامی، اسم گرامی محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی شافعی رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ہے۔ آپ ۴۵۰ھ میں خراسان کے ضلع طُوس کے علاقے طابِرَآن میں پیدا ہوئے۔<sup>(۱)</sup> خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا۔ موجودہ خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں، کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔<sup>(۲)</sup>

### ابتدائی حالات:

آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا محمد بن محمد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الصَّمَدِ شہر خراسان ہی میں اُون کات کر بیچا کرتے تھے یعنی پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے، اسی نسبت سے آپ کا خاندان ”غزالی“ کہلاتا ہے۔ ابھی امام صاحب اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا احمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِ کم عمر ہی تھے کہ ۴۶۵ھ میں والد محترم وصال فرما گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے ایک صوفی دوست حضرت سیدنا ابو حامد احمد بن محمد راذ کانی قُدَسَ سِرُّهُ النَّوَرِیِّ کو وصیت کی تھی کہ ”میرا تمام اثاثہ میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم و پرورش پر خرچ کر دیجئے گا۔“ وصیت کے مطابق ان کے والد گرامی کا سرمایہ ان کی تعلیم و پرورش پر صرف کر دیا گیا۔<sup>(۳)</sup>

### عالمِ اولاد کی تمنا:

حضرت سیدنا تاج الدین سبکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیِّ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِ کے والد ماجد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِ بڑے نیک انسان تھے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے یعنی اُون کات کر فروخت کرتے تھے۔ حضراتِ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامِ کی مجالس میں حاضر ہوتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے حتی المقدور اُن

①..... اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۹۔

②..... اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ، ج ۸، ص ۹۰۷۔

③..... اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۹۔

پر خرچ کرتے اور ان کی مجالس میں خوفِ خدا سے تضرع و زاری کرتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے کہ ”مجھے بیٹا عطا کرو اور اسے فقیہ (عالم) بنا۔“ نیز اسی طرح مجالسِ وعظ میں حاضر ہوتے۔ وہاں بھی رُو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرتے کہ ”مجھے بیٹا عطا کرو اور اسے داعظ بنا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔<sup>(۱)</sup>

## علمی زندگی

### تعلیم کے لئے سفر:

ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد رازدکانی قدس سرہ السنورانی سے پڑھیں..... ابھی عمر شریف 20 سال سے کم ہی تھی کہ (ایران کے مشرقی شہر) جرجان تشریف لے گئے وہاں حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے۔ پھر اپنے شہر طوس لوٹ آئے..... ۴۳ھ میں (ایران کے قدیم شہر) نیشاپور میں حضرت سیدنا امام الحرمین امام عبدالملک بن عبداللہ جو نبی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۴۸ھ) کی بارگاہ میں زانوئے تلمذ طے کیا اور ان سے اصولِ دین، اختلافی مسائل، مناظرہ، منطق اور حکمت وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کی..... ۴۸ھ میں حضرت سیدنا امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد ان کی جگہ آپ کو اس منصب اعلیٰ پر فائز کیا گیا..... ۴۸ھ میں وزیر نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ (و اُس چانسلر) کا عہدہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کیا جسے آپ نے قبول فرمایا..... چار سال بغداد میں تدریس و تصنیف میں مشغولیت کے بعد حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ بقول علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۹۷ھ) ”بغداد میں آپ کی مجلس درس میں بڑے بڑے علمائے کرام حاضر ہوتے جیسے امام الحنابلہ حضرت سیدنا ابو الخطاب محفوظ بن احمد (متوفی ۵۱۰ھ) اور عالم العراق و شیخ الحنابلہ علی بن عقیل بغدادی (متوفی ۵۱۳ھ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما وغیرہ۔ یہ حضرات آپ سے اکتساب فیض کرتے اور آپ کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپ کے کلام کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے۔“<sup>(۲)</sup>..... ۴۸۹ھ میں دمشق پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ ایک عرصہ بیت المقدس میں

①..... طبقات الشافعیة الكبرى، ج ۶، ص ۱۹۴۔

②..... المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج ۱، ص ۱۶۸۔

گزارا۔ پھر دوبارہ دمشق تشریف لائے اور جامع دمشق کے مغربی منارے پر ذکر و فکر اور مراقبے میں مشغول ہو گئے دمشق میں زیادہ تر وقت حضرت سیدنا شیخ نصر مقدسی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی کی خانقاہ میں گزرتا تھا..... ملک شام میں 10 سال قیام فرمایا، اسی دوران احیاء العلوم (۴ جلدیں)، جواهر القرآن، تفسیر یاقوت التاویل (۴۰ جلدیں) اور مشکاة الأنوار وغیرہ مشہور کتب تصنیف فرمائیں۔ پھر حجاز، بغداد اور نیشاپور کے درمیان سفر جاری رہا اور بالآخر اپنے آبائی شہر طوس واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور تادم آخر وعظ و نصیحت، عبادت و ریاضت اور تصوف کی تدریس میں مشغول رہے۔<sup>(۱)</sup>

### اساتذہ کرام:

آپ کے مشہور اساتذہ کرام کے اسمائے گرامی یہ ہیں: فقہ میں حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد راذکانی..... حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی..... حضرت سیدنا امام الحرمین ابو المعالی امام جوینی۔ تصوف میں حضرت سیدنا ابو علی فضل بن محمد بن علی فارمدی طوسی..... حضرت سیدنا یوسف سجّاج۔ حدیث میں حضرت سیدنا ابو سہل محمد بن احمد حفصی مروزی..... حضرت سیدنا حاکم ابو الفتح نصر بن علی بن احمد حاکمی طوسی..... حضرت سیدنا ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن احمد خواری..... حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ سجّاجی زوزنی..... حضرت سیدنا حافظ ابو فتیان عمر بن ابوالحسن رواسی دہستانی..... اور حضرت سیدنا نصر بن ابراہیم مقدسی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا علامہ سید مرتضیٰ رَبِیْدِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی (متوفی ۱۲۰۵ھ) ”اتحاف السادة المتّقین“ کے مقدمے میں لکھتے ہیں: ”علم کلام وجدل میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی کے مشائخ کے بارے میں علم نہ ہو سکا اور فلسفہ میں آپ کا کوئی استاذ نہ تھا جیسا کہ اپنی کتاب ”المنقذ من الضلال“ میں آپ نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے۔“<sup>(۳)</sup>

①..... اتحاف السادة المتّقین، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۹ تا ۱۱۔

شذرات الذهب، ج ۴، ص ۴۴ تا ۱۲۵۔

②..... اتحاف السادة المتّقین، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۲۶۔

③..... اتحاف السادة المتّقین، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۲۶۔

## تلامذہ:

حُجَّةُ الْإِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَةِ کے بے شمار شاگرد تھے جن میں سے اکثر مُتَبَحَّرِ عَالِمِ، فقیہ، محدث، مفسر اور مصنف کی حیثیت سے معروف ہیں۔ چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

قاضی ابونصر احمد بن عبداللہ مُتَمَكِّرِي (متوفی ۵۵۴ھ)..... ابوالفتح احمد بن علی حنبلی (متوفی ۵۱۸ھ) [مدرسہ نظامیہ میں متعدد علوم کے مدرس تھے]..... ابومنصور محمد بن اسماعیل عطّاری طُوسِي (متوفی ۴۸۶ھ)..... ابوسعید محمد بن سعد نو قانی (متوفی ۵۵۴ھ)..... ابوعبداللہ محمد بن ثُوَمَرْت [انہوں نے اسپین میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی]..... ابو حامد محمد بن عبدالملک جو ز قانی اِسْفَرَايِنِي..... ابوعبداللہ محمد بن علی عراقی بغدادی (متوفی بعد ۵۴۰ھ)..... ابوسعید محمد بن علی جاوانی کُرْدِي..... امام ابوسعید محمد بن یحییٰ نیشاپُورِي (متوفی ۵۴۸ھ)..... ابوطاہر ابراہیم بن مطہر شیبانی (متوفی ۵۱۳ھ) [امام صاحب نے ایک خط میں لکھا کہ میرے شاگردوں میں سب سے ممتاز ہیں]..... ابوالفتح نصر بن محمد مرّاغی صوفی..... ابوعبداللہ حسین بن نصر مؤصّلی (متوفی ۵۵۲ھ)..... ابوالحسن سعد الخیر بن محمد انصاری (متوفی ۵۴۱ھ) [یہ علامہ ابن جوزی اور امام سمعانی کے شیخ ہیں]..... ابوعبداللہ شافع بن عبدالرشید جنبلی (متوفی ۵۴۱ھ) [یہ امام ابن سمعانی کے شیخ ہیں]..... ابو عامر غُشّ بن علی نعیمی (متوفی ۵۴۲ھ)..... ابوطالب عبدالکریم بن علی رازی (متوفی ۵۲۸ھ) [یہ احیاء العلوم کے حافظ تھے]..... ابومنصور سعید بن محمد رَزَّاز (متوفی ۵۰۳ھ)..... ابوالحسن علی بن محمد جوینی صوفی..... ابومحمد صالح بن محمد..... ابوالحسن علی بن مطہر دیوبُورِي (متوفی ۵۳۳ھ) [یہ 80 جلدوں پر مشتمل کتاب ”تاریخ دمشق“ کے عظیم مصنف امام ابن عساکر کے استاذ و شیخ ہیں]..... مروان بن علی طَنْزَرِي (متوفی بعد ۵۴۰ھ)..... جمال الاسلام ابوالحسن علی بن مسلم سُلمِي [مؤرخ الذکر دونوں حضرات بھی امام ابن عساکر کے شیوخ میں سے ہیں] [رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ]۔<sup>(۱)</sup>

## روحانیت کی طرف سفر

## شیخ کامل کی بیعت:

حضرت سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَةِ نے دورِ طالب علمی میں حضرت سیدنا شیخ ابوعلی فضل بن محمد بن علی فارمَذِي طُوسِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَةِ (متوفی ۴۷۷ھ) کے ہاتھ پر (27 سال کی عمر میں) بیعت کی۔ شیخ موصوف بہت عالی

①..... اتحاف السادة المتّقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۶۰ تا ۶۲۔



مرتب، فقہ شافعی کے زبردست عالم اور مذاہب سلف سے باخبر تھے اور حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۱۷ھ) کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## باطنی علوم کی تلاش:

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ۴۷۸ھ تا ۴۸۴ھ سرتاجِ مدارسِ اسلامیہ مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں ”امامُ الْحَرَمِین“ پھر ۴۸۴ھ تا ۴۸۸ھ مرکز علومِ اسلامیہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ”مدرسِ اعلیٰ“ کے منصب پر فائز رہے۔ سلطانِ وقت اور ملک بھر کے علما و فضلا آپ کے تبحر علمی کے قائل ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہِ وقت سے زیادہ امام صاحب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ سلطنتِ سلجوقیہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی تو آپ کے بڑے معتقد تھے اور وہ بنفسِ نفیس امور مملکت میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ تمام علوم کی تکمیل کے بعد اولاً امام الحرمین پھر مدرسِ اعلیٰ جیسے عہدوں پر متمکن رہنے کے باوجود آپ کو جس باطنی و روحانی سکون کی تلاش تھی وہ حاصل نہ ہو سکا۔ بغداد جو اس وقت مختلف فرقوں اور باطل مذاہب کے بے جا مناظروں اور مجادلوں کا دنگل بنا ہوا تھا اور دار الخلافہ پر انتشار اور فتنہ و فساد کی کیفیت طاری تھی۔<sup>(۲)</sup> اس وقت چار فرقے زیادہ شہرت کے حامل تھے متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ، آپ نے ان فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق و جستجو سے اضطراب اور بڑھ گیا مگر جب تصوف پر موجود کتب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت۔ چنانچہ،

آپ اپنی کتاب ”الْمُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ وَالْمُفْصِّحُ عَنِ الْأَحْوَالِ“ میں خود فرماتے ہیں: ”ان واقعات سے تحریک پیدا ہوئی کہ تمام تعلقات کو ترک کر کے بغداد سے نکل جاؤں، نفس کسی طرح بھی ترک تعلقات پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کو شہرت عامہ اور شان و شوکت حاصل تھی۔ رجب ۴۸۸ھ میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن نفس کے لیت و لعل (ٹال مٹول) کے باعث اس پر عمل نہ کر سکا۔ اس ذہنی اور نفسانی کشمکش نے مجھے سخت بیمار کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ زبان کو یارائے گویائی نہ رہا قوت ہضم بالکل ختم ہو گئی طبیبوں نے بھی صاف جواب دے دیا اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخر کار میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔ امرائے وقت، ارکانِ سلطنت اور

①..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۲۶۔

②..... مقدمہ احیاء العلوم (مترجم از علامہ محمد صدیق ہزاروی مدظلہ العالی) ج ۱، ص ۱۹، ملخصاً۔

علمائے کرام نے نہایت خوشامد و اکرام سے روکا لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اس لئے سب کو چھوڑ چھاڑ کر شام کی راہ لی (اور پھر ایک وقت آیا کہ شام سے اپنے آبائی وطن ”طوس“ تشریف لے گئے)۔<sup>(۱)</sup>

الغرض روحانی سکون کی خاطر آپ نے منصب تدریس چھوڑ دیا۔ دنیا کی گونا گوں مصروفیات اور رنگارنگی سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی حتیٰ کہ لباس فاخرہ کے بجائے ایک کمبل اوڑھا کرتے تھے اور لذیذ غذاؤں کی جگہ ساگ پات پرگزر بسر ہونے لگی۔ اپنے شہر طوس پہنچ کر صوفیا کے لئے ایک خانقاہ اور شوق علم رکھنے والوں کے لئے ایک مدرسہ تعمیر کیا اور پھر تادم حیات اور ادو وظائف، ریاضت و عبادت، گوشہ نشینی اور تدریس تصوف میں مشغول رہے۔<sup>(۲)</sup>

## پانچ سو دینار کے لباس و سواری:

فقیر ابن رزّاز ابو منصور سعید بن محمد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الصَّمَد (متوفی ۵۳۹ھ) بیان فرتے ہیں: ”جب پہلی بار حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی عالمناہ شان و شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس و سواری کی قیمت لگائی تو وہ 500 دینار بنی پھر جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے زہد و تقویٰ اختیار کیا اور بغداد چھوڑ دیا، مختلف مقامات کا سفر کرتے رہے اور دوبارہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت لگائی تو وہ پندرہ قیراط (یعنی چند معمولی سکے) بنی۔“<sup>(۳)</sup>

## زهد و تقویٰ

### آپ کی سادگی اور یاد آخرت:

حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی ایک بار مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ چونکہ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے۔ اس لئے آپ نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن طوسی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے عرض کی: ”آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ امام وقت اور پیشوائے قوم

①..... مقدمہ احیاء العلوم (مترجم از علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) ج ۱، ص ۲۰۔

تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء علی ہامش احیاء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۶۵ تا ۳۶۸، ملخصاً۔

②..... مرآة الجنان و عبرة اليقظان، ج ۳، ص ۱۳۷، ملخصاً۔

③..... المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج ۴، ص ۱۷۰۔

ہیں ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں؟“ آپ نے جواب دیا: ”ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے۔ جب والی دو جہاں، رحمتِ عالمیاں صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زرا کٹھانہ کیا تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔“ (۱)

## شہرت و ناموری سے دوری:

ایک بار آپ جامع اموی میں تشریف فرما تھے۔ مفتیان کرام کی ایک جماعت صحن مسجد میں موجود تھی۔ ایک دیہاتی نے آکر مفتیان کرام سے کوئی سوال پوچھا مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جبکہ حضرت امام صاحب خاموش تھے پھر جب آپ نے دیکھا کسی کے پاس اس کا جواب نہیں اور جواب نہ ملنا اس پر شاق گزرا ہے تو اس دیہاتی کو اپنے پاس بلا کر سوال کا جواب بتایا۔ مگر وہ دیہاتی مذاق اڑانے لگا کہ ”جس سوال کا جواب بڑے بڑے مفتیوں نے نہیں دیا یہ عام فقیر کیسے دے رہا ہے۔“ اس وقت وہ مفتیان کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دیہاتی جب آپ سے بات کر کے فارغ ہوا تو ان مفتیان عظام نے اسے بلا کر پوچھا: ”اس عام سے آدمی نے کیا جواب دیا؟“ جب اس نے حقیقت حال واضح کی تو یہ حضرات امام صاحب کے پاس گئے اور جب ان سے متعارف ہوئے تو ان سے درخواست کی کہ ”آپ ہمارے لئے ایک علمی نشست کا انعقاد کریں۔“ آپ نے اگلے دن کا فرما دیا مگر اسی رات وہاں سے سفر کر گئے۔ (۲)

## خود پسندی کا خوف:

ایک بار اتفاقاً حضرت سپیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیِ دِمَشْق کے مدرسہ ”امینینہ“ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک استاذ کہہ رہے تھے: قَالَ الْغَزَالِیُّ یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ پر خود پسندی (میں گرفتار ہونے) کا خوف طاری ہو گیا تو آپ نے دمشق چھوڑ دیا۔ (۳)

## دنیا سے بے رغبتی اور عاجزی:

”شَدْرَاتُ الدَّهَبِ“ میں ”زَادُ السَّالِكِیْنَ“ کے حوالے سے مذکور ہے: حضرت سپیدنا قاضی ابوبکر بن عربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ

①..... مقدمہ کیمیائے سعادت (مترجم از مولانا محمد سعید احمد نقشبندی) ص ۳۱۔

②..... طبقات الشافعیة الكبرى، ج ۶، ص ۱۹۹۔

③..... طبقات الشافعیة الكبرى، ج ۶، ص ۱۹۹۔

اللہ الٰہی بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو لوگوں کے درمیان اس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، پیوند دار لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور کندھے سے پانی کا برتن لٹک رہا تھا اور میں دیکھا کرتا تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس علم میں 400 کے قریب خوشحال اور بڑے بڑے عالم و فاضل لوگ حاضر ہوتے اور آپ کے علم سے فیض یاب ہوتے۔“ (۱)

## مقام و مرتبہ

### بارگاہ رسالت میں مقبولیت:

حضرت سیدنا علامہ اسماعیلؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر روح البیان، ج 5، ص 374، سورہ طہ، آیت نمبر 18 کے تحت نقل فرماتے ہیں: حضرت سیدنا امام رابع اصفہانی قدس سرہ النورانی نے محاضرات میں ذکر فرمایا کہ صاحب جزب البحر، عارف باللہ حضرت سیدنا امام شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: میں مسجد اقصیٰ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر گروہ درگروہ داخل ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا: ”یہ جمع غفیر کن لوگوں کا ہے؟“ بتایا گیا: ”یہ انبیائے کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جو حضرت سیدنا حسین حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔“ پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہیں اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی زیارت کرنے اور ان کا کلام سننے لگا۔ اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: آپ کا فرمان ہے: ”عَلَمَاءُ اُمَّتِي كَانِبِيَاءِ بَنِي اِسْرَائِيْلَ يَعْنِي مِيْرِي اُمَّتِ كَعَلَمَانِي اِسْرَائِيْلَ كَعَلَمَانِي اِسْرَائِيْلَ كَعَلَمَانِي اِسْرَائِيْلَ“ لہذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیں۔ تو حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک

①.....شذرات الذهب، ج ۴، ص ۱۴۶۔

سوال کیا، آپ نے 10 جواب دیئے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”جواب سوال کے مطابق ہونا چاہئے، سوال ایک کیا گیا اور تم نے 10 جواب دیئے۔“ تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے عرض کی: جب اللہ عزوجل نے آپ سے پوچھا تھا: ”وَمَا تِلْكَ بَيِّنَاتِكَ لِيُؤْمِلُوا“ (ب ۱۶، ط ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور تیرے دابنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔“ تو اتنا عرض کر دینا کافی تھا کہ ”یہ میرا عصا ہے۔“ مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائیں۔ (۱)

حضرات علمائے کرام کثرتہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ”جب آپ کا ہم کلام باری تعالیٰ تھا تو آپ نے دفور محبت اور غلبہ شوق میں اپنے کلام کو طول دیا تا کہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے اور اس وقت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے اور کلیم خدا سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے اس لئے میں نے اس شوق و محبت سے کلام کو طوالت دی ہے۔“ (۲)

### قابل فخر ہستی:

حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں: میں خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: ”کیا تمہاری امتوں میں غزالی جیسا عالم ہے۔“ دونوں نے عرض کی: ”نہیں۔“ (۳)

### امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کی سعادت:

حضرت سیدنا جمال حرم ابوالفتح عامر بن نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوا

①..... فتاویٰ رضویہ، ج ۲۸، ص ۴۱۰، اشارہ۔

②..... کوثر الخیرات، ص ۴۰۔

③..... النبراس شرح شرح العقائد، ص ۲۴۔

اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۱۲۔

تعريف الاحياء بفضائل الاحياء على هامش احیاء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۶۳۔

تو مجھے اُوٹھ آگئی۔ اسی حال میں زیارتِ رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مشرف ہوا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے انتہائی خوبصورت گرتا اور عمامہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ پھر دیکھا کہ ائمہ اربعہ (حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام شافعی اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) نے ایک ایک کر کے اپنا فقہی مذہب (یعنی قرآن و سنت اور اجماع و اجتہاد سے ماخوذ نقطہ نظر) پیش کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہر ایک کی تصدیق فرمائی۔ پھر بد مذہبوں کے ایک لیڈر نے اس مقدس حلقے میں داخل ہونا چاہا تو حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حکم سے اسے ذلت کے ساتھ وہاں سے دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے آگے بڑھ کر عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میرے پاس یہ کتاب یعنی اِحْيَاءُ الْعُلُومِ ہے، اس میں میرا اور اہلسنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟“ اجازت ملنے پر میں نے کتاب کے باب ”قواعد العقائد“ سے پڑھنا شروع کیا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، كِتَابٌ قَوَاعِدِ الْعُقَايِدِ وَفِيهِ اَرْبَعَةٌ فُصُولٌ: الْفَصْلُ الْاَوَّلُ فِي تَرْجَمَةِ عَقِيدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ..... پڑھتے پڑھتے جب میں اس عبارت پر پہنچا: وَاِنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الْقُرَشِيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى كِفَاةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَالْبَجِينِ وَالْاَنْدُسِ..... تو میں نے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے چہرہ اقدس پر خوشی و مسرت کے آثار دیکھے۔ پھر ارشاد فرمایا: ”غزالی کہاں ہے؟“ تو حضرت سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نے اسی وقت حاضر ہو کر عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! غلام حاضر ہے۔“ اور آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سلام کا جواب دے کر اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو حضرت سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نے اسے بوسہ دیا اور اس سے برکت حاصل کی۔ حضرت جمال حرم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَمِ فرماتے ہیں: ”میں نے اس دن پیارے آقا، مدینے والے مصطفےٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بہت زیادہ مسرور پایا۔“ جب میری اُوٹھ کی کیفیت ختم ہوئی تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ مزید فرماتے ہیں: ”مکی مدنی سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا حضرات ائمہ اربعہ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اللهُ تَعَالَى کے مذاہب کی تصدیق فرمانا اور (احیاءِ العلوم میں مذکور) امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کے عقیدہ کو پسند فرما کر اس کی تصدیق کرنا اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی ایک عظیم نعمت اور بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے سنتوں بھری زندگی کا سوال کرتے اور ملتِ اسلام پر خاتمہ کی دعا مانگتے ہیں۔“ امین۔ (۱)

①.....تعريف الاحياء بفضائل الاحياء على هامش احیاء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۵۸۔

## 70 حجابات عبور کر لئے:

حضرت سیدنا عارف کبیر قطب ربانی احمد صیاد یعنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِيّی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں آسمان کے دروازے کھلے دیکھے۔ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت سبز حلے (یعنی جنتی لباس) اور سواری لئے اتری۔ وہ ایک قبر کے سرہانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس قبر والے کو باہر نکال کر حلہ پہنایا، سواری پر سوار کیا اور ایک ایک کر کے تمام آسمانوں سے گزرتے گئے یہاں تک کہ اس شخص نے 70 حجابات کو بھی عبور کر لیا۔ میں ان حجابات تک تو انہیں دیکھ سکا مگر ان کی انتہا کہاں تک تھی یہ نہ جان سکا۔ پس جب ان کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا: ”یہ امام غزالی ہیں۔“<sup>(۱)</sup>

## کرامات و کمالات

### بعد وصال ایک کرامت:

حضرت سیدنا شیخ اکبر موصی الدین ابن عربی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی (متوفی ۷۳۸ھ) اپنی کتاب ”رَوْحُ الْقُدُسِ فِی مَنْاصِحَةِ النَّفْسِ“ میں حضرت سیدنا ابو عبد اللہ ابن زین یابری اِشْبِیْلِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی کے حالات لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: آپ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی کے رد میں ابو القاسم بن حمدین کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے تھے کہ بینائی چلی گئی۔ آپ نے اسی وقت بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر گریہ وزاری کی اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بھی اس کتاب کو نہ پڑھوں گا، اسے اپنے آپ سے دور رکھوں گا۔ اسی وقت بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی کی کرامت ہے جو ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو عبد اللہ ابن زین یابری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی کے ذریعے ظاہر ہوئی۔<sup>(۲)</sup>

### گستاخ کا انجام:

حضرت سیدنا تاج الدین عبدالوہاب بن علی سبکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِی (متوفی ۷۷۱ھ) فرماتے ہیں: ایک فقیہ نے

①.....تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء علی ہامش احیاء علوم الدین ، ۵، ص ۳۶۴۔

طبقات الشافعیة الكبرى للسبکی، ۶، ص ۲۵۸۔

②.....کشف النور عن الاصحاح القبور مع الحدیقة الندیہ، ۶، ص ۸۔

مجھے بتایا کہ ایک شخص نے فقہ شافعی کے درس میں حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِّ کو برا بھلا کہا تو میں بڑا غمگین ہوا، رات اسی غم کی حالت میں نیند آگئی خواب میں حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِّ کی زیارت ہوئی، میں نے برا بھلا کہنے والے شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا: ”فکر نہ کرو وہ کل مر جائے گا۔“ چنانچہ صبح جب میں حلقہ درس میں حاضر ہوا تو اس شخص کو ہشاش بشاش دیکھا مگر جب وہ وہاں سے نکلا تو گھر جاتے ہوئے راستے میں سواری سے گر گیا اور زخمی حالت میں گھر پہنچا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔<sup>(۱)</sup>

## پانچ کوڑوں کی سزا:

حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن اسعد یافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَیِّ (متوفی ۷۶۸ھ) نقل کرتے ہیں کہ مشہور مغربی فقیہ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن حرزہم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ (متوفی ۵۵۹ھ) شروع میں اِحیاء العلوم کا بہت رد کیا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک بار انہوں نے اس کتاب کے کئی نسخے جمع کر کے جمعہ کے دن جامع مسجد میں جلا ڈالنے کا ارادہ کیا مگر اسی جمعہ کی شب خواب دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مسجد میں جلوہ فرما ہیں اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بھی موجود ہیں اور سامنے حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِّ کھڑے ہیں۔ جب یہ سامنے ہوئے تو سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِیِّ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یہ مجھ سے جھگڑتے ہیں، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا یہ گمان کرتے ہیں تو میں بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں اور اگر میرا موقف آپ کی برکت اور اتباع سنت سے حاصل شدہ ہے اور میں حق پر ہوں تو ان سے میرا حق دلائیے۔“ یہ سن کر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اِحیاء العلوم لی اور ایک ایک صفحہ کر کے مکمل ملاحظہ فرمائی پھر ارشاد فرمایا: ”خدا کی قسم! یہ تو بہت اچھی ہے۔“ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے دیکھی تو فرمایا: ”جی ہاں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً یہ بہت اچھی ہے۔“ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر

①..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۱۴۔

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج، ص ۲۱۹۔



فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ملاحظہ کی اور یہی فرمایا، پس حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فقیہ علی بن حرزہم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو کوڑے لگانے کا حکم دیا، جب پانچ کوڑے لگ چکے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سفارش کرتے ہوئے عرض کی: ”یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! شاید انہوں نے اپنے گمان میں اس کتاب کو آپ کی سنت کے خلاف سمجھا تو غلطی کر گئے۔“ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي اس پر راضی ہو گئے اور وہ سفارش قبول کر لی گئی۔ حضرت سیدنا علی بن حرزہم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جب بیدار ہوئے تو کوڑوں کا اثر پیٹھ پر موجود تھا۔ آپ نے یہ خواب اپنے اصحاب کو بیان کیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے اس عمل کی معافی طلب کی مگر طویل عرصے (یعنی ایک مہینے) تک کوڑوں کا درد محسوس کرتے رہے۔ اس دوران بارگاہ الہی میں گڑگڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا اور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے شفاعت کا سوال کرتے رہتے یہاں تک کہ دوبارہ خواب میں زیارت سرکار اعظم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مشرف ہوئے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنا دستِ کریمانہ ان کی پیٹھ پر پھیرا تو درد جاتا رہا اور انہیں حکم الہی معافی و شفاعت مل گئی۔ اس کے بعد سے انہوں نے اِحْيَاءُ الْعُلُومِ کے مطالعے کو خود پر لازم کر لیا تو اللہ عَزَّوَجَدَّ نے ان پر باطن کے دروازے کھول دیئے، انہوں نے معرفت الہی سے وافر حصہ پایا، اکابر مشائخ کی صف میں شمار ہوئے اور ظاہری و باطنی علوم والے بن گئے۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي (متوفی ۹۱۱ھ) نقل کرتے ہیں کہ ”جس دن حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن حرزہم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (متوفی ۵۵۹ھ) کا انتقال ہوا تو کوڑوں کا نشان اُن کی پیٹھ پر موجود تھا۔“<sup>(۲)</sup>

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①.....تعريف الاحياء بفضائل الاحياء على هامش احیاء علوم الدین ج ۵، ص ۳۵۔

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج ۶، ص ۲۵۸۔

②.....تشبيد الاركان على هامش احیاء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۹۴۔

## تعریفی کلمات

- ﴿1﴾..... حضرت سیدنا امام ابوالحسن شاذلی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کے شاگرد عارف باللہ ابو العباس مَرَسِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں کہ ”حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي صدیقیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے۔“ (۱)
- ﴿2﴾..... حضرت سیدنا شیخ اکبر مَحْمُودِي الدِّين، ابن عربی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي قطب کے درجے پر فائز تھے۔“ (۲)
- ﴿3﴾..... بعض بزرگوں سے منقول ہے: ”قطب تین ہوتے ہیں: (۱)..... علوم کے قطب جیسے حضرت سیدنا امام غزالی (۲)..... احوال کے قطب جیسے حضرت سیدنا بایزید بسطامی اور (۳)..... مقامات کے قطب جیسے حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ۔“ (۳)
- ﴿4﴾..... حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ نیشاپوری علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرماتے ہیں: ”میرے استاذ محترم حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کے مقام و مرتبہ کو صرف کامل عقل والا ہی پہچان سکتا ہے۔“ (۴)
- ﴿5﴾..... حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کے استاذ محترم امام الحرمین عبدالملک بن عبداللہ جوینی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”غزالی، علم کے بحر ذخار (یعنی علم کا موجیں مارتا سمندر) ہیں۔“ (۵)
- ﴿6﴾..... خطیب نیشاپوری امام ابوالحسن حضرت سیدنا عبدالغافر بن اسماعیل علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي (متوفی ۵۲۹ھ) فرماتے ہیں: ”امام غزالی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي اسلام اور مسلمانوں کے لئے حجت اور ائمہ دین کے پیشوا ہیں۔ فصاحت و بلاغت، انداز بیان و طرز گفتگو اور تیز فہمی و ذہانت میں ان جیسا آنکھوں نے نہیں دیکھا۔“ (۶)
- ﴿7﴾..... حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد المعروف ابن خَلِّكَانِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن (متوفی ۶۸۱ھ) فرماتے ہیں:

①..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۱۳۔

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج، ص ۲۵۷۔

②..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۱۳۔

③..... المرجع السابق - ④..... المرجع السابق - ⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج، ص ۱۳۷۔

”شوافع میں ان کے زمانے کے آخر تک ان کا کوئی مثل نہیں تھا۔“<sup>(۱)</sup>

﴿8﴾..... نیشاپور کے رئیس الشافعیہ حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (متوفی ۵۴۸ھ) نے فرمایا: ”امام

غزالی امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا کے ثانی ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

﴿9﴾..... حضرت سیدنا امام ابن عساکر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (متوفی ۵۷۱ھ) فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا امام غزالی

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي جیسا ذہین و فطین آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا۔“<sup>(۳)</sup>

﴿10﴾..... سیدنا حافظ ابوالفضل عبدالرحیم عراقی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَاقِي (متوفی ۶۰۸ھ) فرماتے ہیں: ”علمائے کرام رَحْمَهُمُ

الله السَّلَام کے نزدیک حضرت سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي پانچویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔“<sup>(۴)</sup>

﴿11﴾..... محدث صوفی شیخ ابوالعباس اقلشی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي اشعار میں خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں:

أَبَا حَامِدٍ أَنْتَ الْمُخَصَّصُ بِالْحَمْدِ      وَأَنْتَ الَّذِي عَلَّمْتَنَا سُنَنَ الرَّشْدِ  
وَضَعْتَ لَنَا الْإِحْيَاءَ يُحْيِي نَفُوسَنَا      وَيُنْقِدُنَا مِنْ طَاعَةِ الْمَارِدِ الْمُرْدِي

**ترجمہ:** اے امام غزالی! آپ تعریف میں منفرد و ممتاز ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے۔

ہمارے لئے اِحیاء العلوم لکھی جو ہماری جانوں کو زندگی دیتی اور ہمیں سرکش و نافرمان کی پیروی سے روکتی ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿12﴾..... حضرت سیدنا امام ابوالحسن شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي سے منقول ہے کہ ”جسے اللہ عزوجل سے کوئی حاجت

ہو وہ امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کے وسیلے سے دعا کرے۔“<sup>(۶)</sup>

﴿13﴾..... حضرت سیدنا امام ذہبی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي (متوفی ۷۴۸ھ) ان القابات سے یاد فرماتے: الشیخ الامام

البحر، حجة الاسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي،

①..... وفيات الاعيان، ج ۴، ص ۵۸۔

②..... طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج ۳، ص ۲۰۲۔

③..... تاريخ مدينة دمشق، ج ۵۵، ص ۲۰۰۔

④..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۳۵۔

⑤..... امرأة الجنان وعبرة اليقظان، ج ۳، ص ۱۳۷۔

⑥..... امرأة الجنان وعبرة اليقظان، ج ۳، ص ۲۴۹۔

الغزالی، صاحب التصانیف، والذکاء المفرط۔<sup>(۱)</sup>

﴿14﴾..... حضرت سیدنا تاج الدین عبدالوہاب بن علی سبکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی (متوفی ۷۷۱ھ) ان القابات کے ساتھ

ذکر فرماتے: الامام الجلیل ابو حامد الغزالی حجة الاسلام ومحجة الدین جامع اشتات العلوم۔<sup>(۲)</sup>

﴿15﴾..... حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سبوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکافی (متوفی ۹۱۱ھ) ان الفاظ سے تذکرہ

فرماتے: الامام حجة الاسلام ولی اللہ ابی حامد الغزالی رضی اللہ عنہ۔<sup>(۳)</sup>

﴿16﴾..... مُجَدِّدِ اعْظَم، فقیہِ اَفْخَم، امام اہلسنت، سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن

(متوفی ۱۳۴۰ھ) آپ کا قول نقل کرتے ہوئے ان الفاظ سے یاد فرماتے ہیں: الْاِمَامُ حُجَّةُ الْاِسْلَامِ حَکِیْمُ الْاُمَّةِ

كَاشِفُ الْغَمِّ ابُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِي (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ)۔<sup>(۴)</sup>

## تصنيف وتالیف

حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی نے کئی علوم و فنون میں سینکڑوں کتب و رسائل تصنیف کیے، جن کے

نام مل سکے وہ درج ذیل ہیں: (۱) اِحیاءُ عُلُومِ الدِّینِ (۲) الْاِمْلَاءُ عَلٰی مُشْکَلِ الْاِحْيَاءِ وَ یَسْمٰی اِیضًا "الْاَجْوِبَةُ

الْمُسْکِتَهٗ عَنِ الْاَسْئَلَةِ الْمُبْهِتَهٗ" (۳) الْاَرْبَعِیْنَ (۴) الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (۵) الْاِقْتِصَادُ فِی الْاِعْتِقَادِ (۶) الْجَامِ

الْعَوَامِ عَنْ عِلْمِ الْکَلَامِ (۷) اَسْرَارُ مَعَامَلَاتِ الدِّینِ (۸) اَسْرَارُ الْاَنْوَارِ الْاِلَهِيَّةِ بِالْاَيَاتِ الْمَتْلُوَّةِ (۹) اَخْلَاقُ

الْاَبْرَارِ وَالنَّجَاةُ مِنَ الْاَشْرَارِ (۱۰) اَسْرَارُ اِتِّبَاعِ السُّنَنِ (۱۱) اَسْرَارُ الْحُرُوفِ وَالْکَلِمَاتِ (۱۲) اَيْهَا الْوَلَدِ

(۱۳) بَدَايَةُ الْهِدَايَةِ (۱۴) الْبَسِیْطُ فِی فُرُوعِ الْمَذْهَبِ (۱۵) بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ (۱۶) بَيَانُ فَضَائِحِ الْاِبَاحِيَّةِ

(۱۷) بَدَائِعُ الصَّنِيعِ (۱۸) تَنْبِيْهُ الْعَافِلِيْنَ (۱۹) تَلْبِیْسُ اِبْلِیْسَ وَ فِیْ هَدِيَةِ الْعَارِفِيْنَ: تَلْبِیْسُ اِبْلِیْسَ (۲۰) تَهَافُتُ الْفَلَاسِفَةِ

(۲۱) التَّعْلِيْقَةُ فِی فُرُوعِ الْمَذْهَبِ (۲۲) تَحْصِيْنُ الْمَاخَذِ (۲۳) تَحْصِيْنُ الْاَدِلَّةِ (۲۴) تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

①..... سير اعلام النبلاء، الرقم ۴۶۰، ج ۱، ص ۳۲۰۔

②..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۸۔

③..... تشييد الاركان على هامش احياء علوم الدين، ج ۵، ص ۳۷۱۔

④..... فتاوى رضويه، ج ۴، ص ۵۲۸۔

(٢٥) التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالزُّنْدَقِ وَفِي هَدْيَةِ الْعَارِفِينَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالزُّنْدَقِ (٢٦) جَوَاهِرُ الْقُرْآنِ  
 (٢٤) حُجَّةُ الْحَقِّ (٢٨) حَقِيقَةُ الرُّوحِ (٢٩) حَقِيقَةُ الْقَوْلَيْنِ (٣٠) خُلَاصَةُ الرَّسَائِلِ إِلَى عِلْمِ الْمَسَائِلِ  
 (٣١) رِسَالَةُ الْأَقْطَابِ (٣٢) رِسَالَةُ الطَّيْرِ (٣٣) الرَّدُّ عَلَى مَنْ طَعَنَ (٣٤) الرِّسَالَةُ الْقُدْسِيَّةُ بِأَدْلَتِهَا الْبُرْهَانِيَّةِ  
 (٣٥) السِّرُّ الْمَصُونُ (٣٦) شَرْحُ دَائِرَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [الْمُسَمَّاهُ "نُخْبَةُ الْأَسْمَاءِ"] (٣٧) شِفَاءُ الْعَلِيلِ  
 فِي بَيَانِ مَسْئَلَةِ التَّعْلِيلِ (٣٨) عَقِيدَةُ الْمُصْبَاحِ (٣٩) عُنُقُودُ الْمُخْتَصَرِ (٤٠) غَايَةُ الْغُورِ فِي مَسَائِلِ الدُّورِ  
 (٤١) غُورُ الدُّورِ (٤٢) الْفَتَاوَى [مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مِائَةٍ وَتِسْعِينَ مَسْئَلَةً غَيْرُ مُرْتَّبَةٍ] (٤٣) فَاتِحَةُ الْعُلُومِ (٤٤) فَضَائِحُ  
 الْإِبَاحِيَّةِ (٤٥) فَوَاتِحُ السُّورِ (٤٦) الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّالِحِ وَغَيْرِ الصَّالِحِ (٤٧) الْقَانُونُ الْكُلِّيُّ (٤٨) قَانُونُ الرَّسُولِ  
 (٤٩) الْقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ (٥٠) الْقِسْطُ الْمُسْتَقِيمُ (٥١) قَوَاعِدُ الْعَقَائِدِ (٥٢) الْقَوْلُ الْجَمِيلُ فِي الرَّدِّ عَلَى  
 مَنْ غَيَّرَ الْإِنْجِيلَ (٥٣) كِيمِيَاءُ السَّعَادَةِ (٥٤) كَشْفُ عُلُومِ الْآخِرَةِ (٥٥) كَنْزُ الْعُدَّةِ (٥٦) اللَّبَابُ الْمُنْتَخَلِ  
 فِي الْجَدَلِ (٥٧) الْمُسْتَصْفَى (٥٨) الْمَنْخُولُ فِي الْأُصُولِ (٥٩) الْمَأْخِذُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ (٦٠) الْمَبَادِيءُ  
 وَالغَايَاتُ فِي أَسْرَارِ الْحُرُوفِ الْمَكْنُونَاتِ (٦١) الْمَجَالِسُ الْغَزَالِيَّةُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَتَمَانِينَ مَجْلِسًا (٦٢) مَقَاصِدُ  
 الْفَلَاسِفَةِ (٦٣) الْمُنْقَدِمُ مِنَ الضَّلَالِ وَالْمُفْصَحُ عَنِ الْأَحْوَالِ (٦٤) مَعْيَارُ النَّظَرِ (٦٥) مَعْيَارُ الْعِلْمِ فِي  
 الْمَنْطِقِ (٦٦) مَحَلُّ النَّظَرِ وَفِي سَيْرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: مَحَكُّ النَّظَرِ (٦٧) مَشْكَاةُ الْأَنْوَارِ فِي لَطَائِفِ الْأَخْيَارِ  
 (٦٨) الْمُسْتَظْهَرِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْبَاطِنِيِّ (٦٩) مِيزَانُ الْعَمَلِ (٧٠) مَوَاهِمُ الْبَاطِنِيِّ (٧١) الْمَنْهَجُ الْأَعْلَى  
 (٧٢) مِعْرَاجُ السَّالِكِينَ (٧٣) الْمَكْنُونُ فِي الْأُصُولِ (٧٤) مُسَلِّمُ السَّلَاطِينِ (٧٥) مُفْصَلُ الْخِلَافِ  
 فِي أُصُولِ الْقِيَاسِ (٧٦) مِنْهَاجُ الْعَابِدِينَ إِلَى جَنَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٧) نَصِيحَةُ الْمَلُوكِ (٧٨) الْوَجِيزُ فِي  
 الْفُرُوعِ (٧٩) الْوَسِييُ فِي فُرُوعِ الْفِقْهِ (٨٠) يَاقُوتُ التَّأْوِيلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ لِارْبَعِينَ مَجْلَدًا [١]  
 (٨١) أَسْرَارُ الْمَلَكُوتِ (٨٢) الْإِنْتِصَارُ لِمَا فِي الْأَجْنَاسِ مِنَ الْأَسْرَارِ (٨٣) الْأَنْبِيَاءُ فِي الْوَحْدَةِ (٨٤) الْبُدُورُ  
 فِي أَحْبَارِ الْبُعْثِ وَالتَّنْشُورِ (٨٥) الْبَيَانُ فِي مَسَالِكِ الْإِيمَانِ (٨٦) تَعْلِيْقُ الْأُصُولِ (٨٧) حُجَّةُ الشَّرْعِ  
 (٨٨) حَقِيقَةُ الْقَوَانِينِ (٨٩) حَلُّ الشُّكُوكِ (٩٠) حَدَائِقُ الدَّقَائِقِ (٩١) حَيَاةُ الْقُلُوبِ (٩٢) خَزَائِنُ الدِّينِ

(۹۳) اَلدَّرُّ الْمَنْظُومُ وَالسِّرُّ الْمَكْتُومُ (۹۴) خَاتَمٌ فِي عِلْمِ الْحُرُوفِ (۹۵) اَلذَّهَبُ الْاِبْرِيْزُ (۹۶) اَلرِّسَالَةُ اَللِّدِّيَّةُ  
 (۹۷) رِسَالَةُ التَّصْرِِيْحِ (۹۸) رِسَالَةُ اَلْحُدُوْدِ (۹۹) اَلرِّسَالَةُ الْمُسْتَرْشِدِيَّةُ (۱۰۰) رَوْضَةُ الطَّالِبِيْنَ وَعُمْدَةُ السَّالِكِيْنَ  
 (۱۰۱) زَادُ الْمُتَعَلِّمِيْنَ (۱۰۲) زَادُ الْاٰخِرَةِ (۱۰۳) زَجْرُ النَّفْسِ (۱۰۴) سُبُلُ السَّلَامِ (۱۰۵) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى  
 (۱۰۶) سِرُّ الْعَالَمِيْنَ وَكَشْفُ مَا فِي الدَّارِيْنَ (۱۰۷) صِرَّةُ الْاَنَامِ (۱۰۸) عُنُقُوْدُ الْمُخْتَصِرِ وَنِقَاوَةُ الْمُفْتَقِرِ  
 [وَفِي كَشْفِ الطُّنُوْنِ: عُنُقُوْدُ الْمُخْتَصِرِ وَنِقَاوَةُ الْمُعْتَصِرِ (۱۰۹) غَايَةُ الْفُصُوْلِ (۱۱۰) غَايَةُ الْوُصُوْلِ فِي الْاَصُوْلِ  
 (۱۱۱) غُرَّرُ الدَّرْرِ فِي الْمَوَاعِظِ (۱۱۲) فَرَضُ الدِّيْنِ (۱۱۳) فَرَضُ الْعَيْنِ (۱۱۴) اَسَاسُ الْقِيَاسِ (۱۱۵) كِتَابُ  
 التَّوْحِيْدِ وَاثْبَاتِ الصِّفَاتِ (۱۱۶) كِتَابُ اَلْحُدُوْدِ (۱۱۷) مُرْشِدُ الطَّالِبِيْنَ (۱۱۸) مُرْشِدُ السَّالِكِيْنَ  
 (۱۱۹) مَدْخَلُ السُّلُوْكِ اِلَى مَنَازِلِ الْمُؤْمِنِ (۱۲۰) اَلْمَقْصِدُ الْاَقْصَى (۱۲۱) يَوَاقِيْتُ الْعُلُوْمِ (۱۲۲) مَقَامَاتُ  
 الْعُلَمَاءِ بَيْنَ يَدَيِ الْخُلَفَاءِ وَالْاُمَرَاءِ (۱۲۳) مَعْرِفَةُ النَّفْسِ [۱] (۱۲۴) اَلْمَقْصِدُ الْاَسْنَى فِي شَرْحِ اَسْمَاءِ الْحُسْنَى  
 (۱۲۵) مَعَارِجُ الْقُدُسِ فِي اَحْوَالِ النَّفْسِ (۱۲۶) اَلْوَقْفُ وَالْاِبْتِدَاءُ (۱۲۷) اَلْمَعَارِفُ الْعَقْلِيَّةُ (۱۲۸) عَقِيْدَةُ  
 اَهْلِ السُّنَّةِ [۲] (۱۲۹) الْاَدَبُ فِي الدِّيْنِ (۱۳۰) اَلْقَوَاعِدُ الْعَشْرَةُ (۱۳۱) قَانُوْنُ التَّوَابِلِ (۱۳۲) اَلْمَوَاعِظُ فِي  
 الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَّةِ (۱۳۳) اَلْمَضْنُوْنُ بِهٖ عَلٰى غَيْرِ اَهْلِ [۳] (۱۳۴) مِنْهَاجُ الْعَارِفِيْنَ (۱۳۵) مُكَاشِفَةُ الْقُلُوْبِ  
 (۱۳۶) عَجَائِبُ صَنَعِ اللّٰهِ

## کچھ ”احیاء العلوم“ کے بارے میں

### احیاء العلوم علماء و مشائخ کی نظر میں:

حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الٰہی نے اپنے سفر بیت المقدس کے سلسلہ میں ”الْمُنْقَذُونَ مِنَ الضَّلَالِ وَالْمُقَصِّصَ عَنِ الْاَحْوَالِ“ میں صراحت کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اس مسافرت کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں بسر ہوا اور اس سفر کا بہترین علمی سرمایہ اور آپ کی سب سے بلند پایہ کتاب ”احیاء العلوم“ ہے جس کی مثال دنیا کی

①..... ہدیة العارفين، ج ۲، ص ۸۰ تا ۸۱۔

②..... الاعلام للزرکلی، ج ۷، ص ۲۲۔

③..... فہرس مجموعة رسائل الامام الغزالی۔

اخلاقی کتابوں میں ملنا مشکل ہے۔ اخلاقیات کے موضوع پر یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ بعد کے مصنفین نے اخلاقیات کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ اِحیاء العلوم ہے۔ مشہور ہے کہ آپ نے اس کی تصنیف کے لیے بیت المقدس میں جو جگہ منتخب کی تھی وہ قُبَّةُ الصَّخْرَةِ کا مشرقی گوشہ تھا اور آپ اس گوشہ میں معتکف تھے۔<sup>(۱)</sup> ویسے تو حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیِّ کی تمام ہی کتب علم کے درنایاب اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں مگر سب سے زیادہ شہرت پانے والی کتاب اِحیاء العلوم اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا پورا نام ”اِحیاء علوم الدین“ ہے مگر مشہور اِحیاء العلوم کے نام سے ہے۔ یہ کتاب ہر دور میں مشائخ و عارفین، اقطاب و اولیا اور علما و صوفیا کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور یہ معتبر ہستیاں اس کی قصیدہ خوانی میں رطب اللسان نظر آتی ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، چند اقوال ملاحظہ فرمائیے:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا حافظ ابو الفضل عبدالرحیم عراقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَاقِی (متوفی ۶۰۸ھ) فرماتے ہیں: ”حلال و حرام کی پہچان کے لئے اِحیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین کتب میں سے ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿2﴾..... حضرت سیدنا سید کبیر علی بن ابوبکر سَقَاف عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّار (متوفی ۸۹۵ھ) فرماتے ہیں: ”اگر کافر اِحیاء العلوم کی ورق گردانی کر لے تو مسلمان ہو جائے۔ اس میں ایسا مخنی راز ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿3﴾..... امام المکاشفین حضرت سیدنا شیخ اکبر مُحْی الدین ابن عربی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی (متوفی ۶۳۸ھ) فرماتے ہیں: میں اِحیاء العلوم کو کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔<sup>(۴)</sup>

﴿4﴾..... امام الحرمین کے شاگرد حضرت سیدنا عبدالغافر بن اسماعیل فارسی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی (متوفی ۵۲۹ھ) فرماتے ہیں: ”اِحیاء العلوم جیسی کتاب پہلے کسی نے نہیں لکھی۔“<sup>(۵)</sup>

﴿5﴾..... حضرت سیدنا امام یحییٰ بن شرف تَوَوِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی (متوفی ۶۷۶ھ) نے فرمایا: ”اِحیاء العلوم قرآن کریم

1..... مقدمة احياء العلوم (مترجم از علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) ج ۱، ص ۲۱، ملخصاً۔

2..... تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء علی ہامش احياء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۵۸۔

3..... المرجع السابق، ج ۵، ص ۳۶۱۔

4..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۳۸۔

5..... تاریخ مدینة دمشق، ج ۵۵، ص ۲۰۱۔

سے بہت قریب ہے۔“ (۱)

﴿6﴾..... تاج العارفین قطب الاولیا حضرت سیدنا عبد اللہ عیدروس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاَحِبَّاءُ الْعُلُومِ تقریباً پوری حفظ تھی۔ آپ فرماتے ہیں: ”اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ کو لازم پکڑ لو۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نظرِ رحمت اور رضا کا ذریعہ ہے تو جس نے اس سے محبت کی اور اس کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کیا اس نے اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اور ملائکہ وانبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کی محبت کو پالیا اور اس نے شریعت، طریقت اور حقیقت کو دنیا و آخرت میں جمع کر لیا اور وہ ملک و ملکوت میں عالم ہو گیا۔“ نیز فرمایا: ”ہمارے لئے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی راستہ و معیار نہیں اور ان کی مکمل تشریح و تفصیل سید المصنِّفین بَقِیَّةُ الْمُجْتَهِدِیْنَ حُجَّةُ الْاِسْلَامِ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیْ نے اپنی عظیم الشان تصنیف اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ میں فرمادی ہے۔“ (۲)

﴿7﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ عیدروس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے بھائی حضرت سیدنا شیخ علی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ کو 25 مرتبہ بالاستیعاب پڑھا۔ آپ ہر بار ختم کر کے فقرا و طلبا کی دعوت کرتے تھے۔ (۳)

﴿8﴾..... حضرت سیدنا شیخ ابو محمد کازر رُوْنِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کا دعویٰ تھا کہ ”اگر تمام علوم ناپید ہو جائیں تو میں اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ سے سب کو نکال لوں گا۔“ (۴)

## اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ کی روایت کرنے والے:

اَحِبَّاءُ الْعُلُومِ کی روایت جن حضرات عالیہ نے فرمائی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ﴿1﴾ حضرت سیدنا عبد الحاق بن احمد بغدادی ﴿2﴾ حضرت سیدنا محمد بن ثابت بن حسن خُجَنْدِی، ان کی سند روایت میں علامہ ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) اور حافظ شمس الدین سخاوی (متوفی ۹۰۲ھ) جیسی عظیم ہستیاں بھی ہیں ﴿3﴾ حضرت سیدنا ابو الفتوح اسعد بن احمد اسفرائینی ﴿4﴾ حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد الماسکی، ان کی سند روایت میں سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی (متوفی ۹۱۱ھ) اور حافظ عبدالرؤف مناوی (متوفی ۱۰۰۳ھ) جیسی عظیم و معتبر شخصیات بھی ہیں ﴿5﴾ حضرت سیدنا قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ عربی ﴿6﴾ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد ﴿7﴾ حضرت سیدنا

1..... تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء علی ہامش احیاء علوم الدین، ج ۵، ص ۳۵۹۔

2..... المرجع السابق 3..... المرجع السابق، ص ۳۶۰۔ 4..... المرجع السابق، ص ۳۵۹۔



حافظ ابوطاہرا احمد بن محمد سلفی اور ﴿۸﴾ حضرت سیدنا ابوسعید محمد بن اسعد نو قانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ (۱)

## احیاء العلوم کا خلاصہ لکھنے والے:

سب سے پہلے ”لَبَابُ الْإِحْيَاءِ“ کے نام سے احیاء العلوم کا خلاصہ کرنے والے حضرت سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي کے بھائی حضرت سیدنا احمد بن محمد غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي (متوفی ۵۲۰ھ) ہیں۔ دیگر علمائے کرام نے بھی اس کا خلاصہ فرمایا جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں:..... محمد بن سعید یمنی (متوفی ۵۹۵ھ)..... یحییٰ بن ابوالخیر..... علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ)..... محمد بن عمر بکھی..... عبدالوہاب بن علی مراغی..... مصر کے شیخ خانقاہ محمد بن علی عجلونی (متوفی ۸۱۲ھ) رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ (۲)

ایک خلاصہ عینُ الْعِلْمِ کے نام سے ہوا جس کی شرح حضرت سیدنا علامہ مولانا علی بن سلطان ہروی حنفی المعروف ”ملا علی قاری“ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي نے فرمائی۔ اس خلاصہ کے متعلق علامہ ابن حجر کی جرحی رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي (متوفی ۹۷۴ھ) فرماتے ہیں: یہ احیاء العلوم کا بے مثال خلاصہ ہے جو کسی ہندی عالم نے کیا ہے۔ (۳)

## احیاء العلوم کی شرح کرنے والے:

احیاء العلوم کی بہترین شرح حضرت سیدنا علامہ سید مرتضیٰ حسن زبیدی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي (متوفی ۱۲۰۵ھ) نے ”اتِّحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ“ کے نام سے لکھی ہے جو ۱۴ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

## احادیث احیاء کی تخریج کرنے والے:

احیاء العلوم میں مذکور احادیث مبارکہ کی تخریج کرنے والے علما میں سرفہرست حضرت سیدنا حافظ ابوالفضل عبدالرحیم عراقی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَاقِي (متوفی ۶۰۸ھ) ہیں جنہوں نے احادیث احیاء کی تخریج میں کئی جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی پھر ”الْمَغْنِي عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ“ کے نام سے اس کا اختصار کیا..... حافظ عراقی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَاقِي ہی کے شاگرد

①..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۶۲ تا ۶۵۔

②..... كشف الظنون، ج، ص ۲۳۔

..... اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج، ص ۵۶۔

③..... الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان، المقدمة الاولى، ص ۱، ملخصاً۔

امام ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی (متوفی ۸۵۲ھ) نے ایک جلد میں احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کی اور اس میں ان احادیث کو بیان کیا جن کے متعلق ان کے استاذ محترم نے توقف کیا تھا..... اور حضرت سیدنا علامہ قاسم بن قطلوبغا حنفی علیہ رحمۃ اللہ الغنی (متوفی ۸۷۹ھ) نے ”تحفة الاحیاء فی ما فات من تخریج احادیث الاحیاء“ کے نام سے تخریج کی۔<sup>(۱)</sup>

## سفر آخرت:

عمر کے آخری حصہ میں اگرچہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا اور شب و روز مجاہدات و ریاضات میں بسر کرتے تھے مگر تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ فرمایا۔ اصول فقہ میں آپ کی اعلیٰ درجہ کی تصنیف ”المستصفی“ ۵۰۴ھ کی تصنیف ہے۔ اس کے ایک برس بعد آپ نے 55 سال کی عمر میں بروز پیر ۱۳ جمادی الآخر ۵۰۵ھ میں بمقام طابران (طوس) میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ وراثت میں اس قدر مال چھوڑا جو آپ کے اہل و عیال کے لئے کافی تھا حالانکہ آپ کو بہت زیادہ مال و زر پیش کیا گیا مگر آپ نے قبول نہ کیا اور کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا۔ اولاد میں صرف بیٹیاں ہی سوگوار چھوڑیں۔

حضرت سیدنا امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۵۹۷ھ) نے ”النبات عند الممات“ میں آپ کے وصال کا واقعہ حضرت سیدنا احمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۵۲۰ھ) کی زبانی یہ لکھا ہے کہ پیر کے دن حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی صبح کے وقت بستر سے اٹھے۔ وضو کر کے نماز پڑھی پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا: ”میرے رب عزوجل کا حکم سر آنکھوں پر۔“ اتنا کہا اور چہرہ قبلہ رو کر کے پاؤں پھیلا دیئے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح قفسِ غضری سے پرواز کر چکی تھی۔<sup>(۲)</sup>

﴿اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كِيَانِ انْ طَرَحَتْ هُوَ اَوْرَانِ كِ صَدَقْتِ هَمَارِي مَغْفَرْتِ هُوَ- اَمِيْنِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ﴾



①..... كشف الظنون، ج ۱، ص ۲۲۔ اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۵۵۔

②..... النبات عند الممات، ص ۱۷۸۔ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج ۱، ص ۲۱۱۔

اتحاف السادة المتقين، مقدمة الكتاب، ج ۱، ص ۱۲۔

## ابتدائیہ

سب سے پہلے میں اللہ جلَّ شَانَهُ کی بے حساب اور مسلسل حمد و ثنا کرتا ہوں اگرچہ اس کی شانِ عظمت کے سامنے تمام حمد کرنے والوں کی حمد ناقص ہے۔ اس کے بعد اس کے رسولوں پر ہدیہ دُرود و سلام بھیجتا ہوں جو سید البشر کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام رسولوں کو بھی شامل ہو۔ پھر خدا سے خیر طلب کرتا ہوں اپنے اس ارادے پر جو میں نے احیائے علوم دین (یعنی دینی علوم کو زندہ کرنے) کے بارے میں کتاب لکھنے کا کیا ہے۔ اس کے بعد اے دیدہ و دانستہ انکار کرنے والوں کے گروہ میں شامل شدت سے ملامت کرنے والے اور نادانستہ انکار کرنے والوں کے طبقات میں انکار اور لعن طعن میں حد سے بڑھنے والے! تیرے تعجب و حیرت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور کلام و گفتگو کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا ہے کیونکہ تو نے باطل کی مدد اور جہالت کو اچھا قرار دینے میں ہٹ دھرمی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ واضح حق سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور ان لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے جو (بری) رسموں سے تھوڑا بہت نکلنا چاہتے یا ان رسموں سے تعلق توڑ کر علم پر عمل پیرا ہونے کی کچھ نہ کچھ خواہش رکھتے ہیں۔ اس امید پر کہ تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کا اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے حکم دیا ہے اور تمام عمر کی جانے والی کوتاہیوں کے تدارک سے ناامید ہو کر زندگی کی بعض کوتاہیوں کا تدارک کر لیں اور لوگوں کے اس ہجوم سے بچ جائیں جن کے بارے میں آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اُس عالم کو ہوگا جسے اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اُس کے علم سے نفع نہ دیا۔“<sup>(۱)</sup>

## وجہ تصنیف:

میری زندگی کی قسم<sup>(۲)</sup> تیرے تکبر پر اڑنے کا سبب اس بیماری کے سوا کوئی نہیں جس نے بہت سے لوگوں کو گھیر رکھا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۷۷، ج ۲، ص ۲۸۵۔

المجالسة وجواهر العلم للدينوري، الحدیث: ۹، ج ۱، ص ۵۔

②..... مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان مرآة المناجیح، ج ۴، ص ۳۳۷ پر فرماتے ہیں: لَعْبُدِي (یعنی میری عمر

کی قسم) قسم شرعی نہیں، وہ تو صرف خدا کے نام کی ہوتی ہے، بلکہ قسم لغوی ہے جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ (پ ۳۰، التین: ۱) انجیر اور زیتون کی قسم۔ لہذا یہ اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں ارشاد ہوا کہ غیر خدا کی قسم نہ کھاؤ۔

ہے بلکہ تمام لوگ ہی اس میں ملوث ہیں یعنی آخرت کی عظمت جاننے سے قاصر اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ آخرت کا معاملہ بہت سنگین اور مصیبت سخت ہے۔ آخرت سامنے آرہی اور دنیا پیٹھ پھیرے جا رہی ہے۔ موت قریب ہے۔ سفر دور کا اور ذراہ معمولی ہے۔ خطرہ بہت زیادہ اور راستہ بھی بند ہے اور پرکھنے والے صاحب بصیرت کے نزدیک وہ علم و عمل نامقبول ہے جو خالص رضائے الہی کے لئے نہ ہو۔ کثیر ہلاکتوں اور مصیبتوں کی موجودگی میں آخرت کے راستے پر بغیر کسی راہنما اور رفیق کے چلنا بہت مشکل اور باعثِ تھکن ہے۔ اس راستے کے راہنما علما ہیں جو انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے وارث ہیں۔ لیکن اب زمانہ ان سے خالی اور صرف رسمی لوگ باقی ہیں۔ ان میں سے اکثر پر شیطانیت کا غلبہ ہے اور سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ہر ایک فوری فائدے کے حصول کی کوشش میں نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھتا ہے یہاں تک کہ علم دین ناپید ہو گیا اور زمین سے ہدایت کے نشانات مٹ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ علم حکومت کا فتویٰ ہے کہ جب احمقوں میں فساد ہو جاتا ہے تو قاضی جھگڑوں کے فیصلوں میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا بحث و مباحثہ اور مناظرے کا نام علم ہے جسے فخر و بڑائی کا طالب مخالف پر غلبہ پانے اور اس کو ساکت و لا جواب کرنے کے لئے زرہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یا مقفی و مسجع کلام کرنے کا نام علم ہے جس کے ذریعے واعظ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان تین کے سوا حرام مال اور سامان دنیا اکٹھا کرنے کا کوئی جال نہیں۔

راہِ آخرت کا علم جس پر سلف صالحین چلا کرتے تھے، جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں فقہ، حکمت، علم، روشنی، چمک اور رشد و ہدایت کا نام دیا ہے وہ مخلوق کے درمیان سے لپیٹ دیا گیا اور اسے بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ بات دین میں مضبوط رخنہ اور نہایت تاریک مصیبت ہے اس لئے میں اس کتاب کو لکھنے میں مشغول ہوا تا کہ دینی علوم کو زندہ کروں اور متقدمین ائمہ کے راستوں اور انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِین کے نزدیک نفع مند علوم کی عظمت کو واضح کروں۔

## کتاب کی ترتیب اور ابواب بندی:

میں نے اس کتاب کو بنیادی طور پر چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) عبادات (۲) عادات (۳) مہلکات (یعنی

ہلاک کرنے والے امور کا بیان) اور (۴) مُفْجِیَات (یعنی نجات دلانے والے امور کا بیان)۔ لیکن علم کی اہمیت کے پیش نظر کتاب کے شروع میں علم کا باب قائم کیا ہے اور اس میں بھی پہلے اس علم کو واضح کروں گا جسے طلب کرنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زبان سے حکم دیا ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔“ (۱)  
پھر نفع بخش علم کو نقصان دہ علم سے ممتاز کروں گا کیونکہ حضور پر نور، شافعِ یومِ النُّشُور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ہم ایسے علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے۔“ (۲)

اس کے بعد ثابت کروں گا کہ اس زمانے کے لوگ صحیح راستے سے پھر گئے ہیں اور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر دھوکے کا شکار ہیں اور علوم کے معاملے میں مغز کو چھوڑ کر چھلکے پر اکتفا کئے بیٹھے ہیں۔

### کتاب کے مشمولات پر ایک نظر:

**عبادات:** کا بیان دس ابواب پر مشتمل ہے: (۱) علم (۲) قواعد عقائد (۳) طہارت کے اسرار (۴) نماز کے اسرار (۵) زکوٰۃ کے اسرار (۶) روزے کے اسرار (۷) حج کے اسرار (۸) تلاوت قرآن کے آداب (۹) اذکار اور دعائیں (۱۰) اوقات کے اعتبار سے وظائف کی ترتیب۔

**عادات:** کا بیان بھی دس ابواب پر مشتمل ہے: (۱) کھانے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) کمانے کے احکام (۴) حلال و حرام (۵) مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ صحبت اور معاشرت کے آداب (۶) گوشہ نشینی (۷) سفر کے آداب (۸) سماع اور وجد کا بیان (۹) نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا (۱۰) آدابِ معیشت اور اخلاقی نبوت۔

**مہلکات:** کا بیان بھی دس ابواب پر مشتمل ہے: (۱) عجائباتِ قلب کی شرح (۲) نفس کی ریاضت (۳) پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کی آفات (۴) زبان کی آفات (۵) غصہ، کینہ اور حسد کی آفات (۶) دنیا کی مذمت (۷) مال اور بخل کی مذمت (۸) حُبِّ جاہ اور ریا کی مذمت (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت (۱۰) غرور کی مذمت۔

**منجیات:** کا بیان بھی دس ابواب پر مشتمل ہے: (۱) توبہ (۲) صبر و شکر (۳) خوف ورجا (۴) فقر و زہد (۵) توحید

①..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فضل العلم والحث..... الخ، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۱۴۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل..... الخ، الحدیث: ۲۷۲، ص ۱۴۵۔

اور توکل (۶) محبت، شوق، اُنس اور رضا (۷) نیت، سچائی اور اخلاص (۸) مراقبہ اور محاسبہ (۹) تفکر (۱۰) موت کو یاد کرنا۔

## مزید تفصیل:

**عبادات:** کے بیان میں عبادت کے پوشیدہ آداب، اس کے طریقوں کی باریکیاں اور اس کے معانی کے اسرار بیان کروں گا جن کی ایک باعمل عالم کو ضرورت ہوتی ہے بلکہ جو انہیں نہیں جانتا اس کا شمار علمائے آخرت میں نہیں ہوتا اور ان میں اکثر وہ باتیں ہیں جنہیں فقہ کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا گیا۔

**عادات:** کے بیان میں لوگوں کے درمیان جاری معاملات کے اسرار، ان کی گہرائیاں، ان کے طریقوں کی باریکیاں اور ان کے جاری ہونے کے مقامات کی پوشیدہ پرہیزگاری بیان کروں گا جن کی ہر دین دار کو ضرورت ہوتی ہے۔

**مہلکات:** کے بیان میں ہر اس بری صفت کو بیان کروں گا جسے قرآن پاک نے مٹانے اور نفس اور دل کو اس سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ہر عادت کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اس سبب کا ذکر کروں گا جس سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ آفات جو اس پر مرتب ہوتی ہیں۔ پھر وہ نشانیاں جن سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ اور اس کا علاج بیان کروں گا۔ ان سب پر آیاتِ مقدسہ، احادیث مبارکہ اور آثار سے دلائل نقل کروں گا۔

**مُنْجِیَات:** کے بیان میں ہر اس قابلِ تعریف خصلت کو بیان کروں گا جس میں رغبت کی جاتی ہے۔ یعنی مقررین اور صدیقین کی عادات جن کے ذریعے بندہ ربَّ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نیز ہر خصلت کی تعریف، اس کی حقیقت، اسے حاصل کرنے کا طریقہ، پھر اس سے حاصل ہونے والے فوائد، اسے پہچاننے کی علامت اور وہ فضیلت جس کی وجہ سے اس میں رغبت کی جاتی ہے نقلی و عقلی دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔

## کتاب کی چند خصوصیات:

مذکورہ امور میں سے بعض پر کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ کتاب ان کتابوں سے پانچ وجہ سے ممتاز ہے:

﴿1﴾..... جس چیز کو انہوں نے پیچیدہ رکھا میں نے اُسے حل کیا اور جسے انہوں نے اجمالاً بیان کیا میں نے اُسے

وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

﴿2﴾..... جس چیز کو انہوں ترتیب سے بیان نہیں کیا میں نے اُس کی ترتیب قائم کی اور جسے انہوں نے علیحدہ علیحدہ بیان کیا میں نے اسے یکجا ذکر کیا ہے۔

﴿3﴾..... جس چیز کو انہوں نے طوالت سے لکھا میں نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔

﴿4﴾..... جو بات انہوں نے بار بار نقل کی میں نے تکرار کو حذف کر دیا اور اصل مقصود کو باقی رکھا ہے۔

﴿5﴾..... جن پیچیدہ باتوں کا سمجھنا دشوار ہے انہوں نے انہیں بالکل نہیں چھیڑا اگرچہ انہوں نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہے لیکن کوئی بعید نہیں کہ کسی سالک کو کوئی ایسی خاص بات پتا چل جائے جس سے اس کے رفتابے خبر ہوں یا وہ بے خبر تو نہ ہوں مگر اسے لانا بھول گئے ہوں یا بھولے بھی نہ ہوں لیکن کسی مانع (رُکاوٹ) کی وجہ سے اس سے پردہ نہ اٹھایا ہو۔ یہ اس کتاب کی خصوصیات ہیں مزید یہ کتاب ان علوم کی تفصیل پر بھی مشتمل ہے۔

## کتاب چار حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ:

دو باتوں نے مجھے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کی طرف راغب کیا:

**پہلی وجہ:** حقیقت میں یہی اصل وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تحقیق و تفہیم میں یہ ترتیب علم ضروری کی طرح ہے کیونکہ جس علم کے ذریعے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) علم معاملہ اور (۲) علم مکاشفہ۔

## علم مکاشفہ و علم معاملہ کی تعریف:

**علم مکاشفہ:** سے مراد وہ علم ہے جس میں صرف معلومات کا پتا چلتا ہے اور علم معاملہ: سے مراد وہ علم ہے جس میں معلومات جاننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مقصود صرف علم معاملہ ہے علم مکاشفہ اس کا موضوع نہیں کیونکہ اسے کتابوں میں لانے کی اجازت نہیں اگرچہ یہ علم طالبانِ حق کا بڑا مقصد اور صدیقین کا اصل مقصود ہے اور علم معاملہ اس تک لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ لیکن انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے لوگوں کے ساتھ صرف علم طریقت و ہدایت میں بات کی ہے اور علم مکاشفہ میں اشارے اور مثال و اجمال کے طور پر گفتگو فرمائی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کی عقلیں ان کی متحمل نہیں ہو سکیں گی اور علما تو انبیاء کے وارث ہیں اس لئے ان

کے لئے اس راستے سے پھرنے کی گنجائش نہیں۔

## علم معاملہ کی اقسام:

علم معاملہ کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... علم ظاہر یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال کا علم اور (۲)..... علم باطن یعنی دل کے اعمال کا علم۔ ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والا عمل یا عبادت ہوگا یا عادت اور دل جو جو اس سے پردے میں ہے اس پر عالم ملکوت سے جاری ہونے والا عمل محمود ہوگا یا مذموم۔ لہذا اس علم کی دو قسمیں ہوں گی ظاہر و باطن۔ ظاہری حصہ جو اعضاء سے متعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) عادت (۲) عبادت۔ باطنی حصہ جو دل کے احوال اور نفس کے اخلاق سے متعلق ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: (۱) مذموم (۲) محمود۔ چنانچہ، مجموعی طور پر یہ چار قسمیں ہوں گی۔ علم معاملہ میں ان اقسام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

**دوسری وجہ:** یہ ہے کہ میں نے طلبا میں اُس فقہ کی سچی رغبت دیکھی جو ان لوگوں کے نزدیک صحیح ہے جو خوف خدا نہیں رکھتے۔ وہ اسے فخر کرنے اور مقابلوں میں اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لئے زہر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ محبوب کے لباس میں ملبوس بھی محبوب ہوتا ہے اس لئے میں نے کتاب کو فقہ کی ترتیب پر لانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی تاکہ لوگوں کے دلوں کو آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے امرا کے دلوں کا طب کی طرف میلان چاہا انہوں نے اپنی کتابوں کو ستاروں کی تقویم کی صورت میں جدو لوں اور ہندسوں میں لکھا اور اس کا نام تقویمِ صحت رکھا تاکہ اس جنس سے امرا کے اُنس کے باعث انہیں اس کے مطالعہ کی طرف متوجہ کریں اور وہ علم کہ جس میں ابدی زندگی کا فائدہ ہو اس کی طرف لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کا حیلہ اس حیلے سے اہم ہے جو طب کی طرف کھینچتا ہے کیونکہ طب تو صرف جسمانی صحت کا فائدہ دیتی ہے جبکہ علم دلوں اور روحوں کا علاج ہے اس کے ذریعے انسان ابدی زندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس کے مقابلے میں طب کی کیا حیثیت کہ جس کے ذریعے صرف جسمانی علاج ہوتا ہے اور جسم تو کچھ ہی دنوں میں خراب ہو جائیں گے۔ ہم اللہ عزوجل سے توفیق، ہدایت اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں وہی کریم اور جواد ہے۔





## علم کا بیان

یہ سات ابواب پر مشتمل ہے: (۱) علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت (۲) فرض عین اور فرض کفایہ علوم، علم فقہ اور علم کلام کے علم دین ہونے کی حد اور علم آخرت و علم دنیا کا بیان (۳) ان مذموم (قبیح) علوم کا بیان جنہیں عوام علم دین سمجھتے ہیں نیز اس بات کا بیان کہ کون سا علم کتنا مذموم ہے (۴) آفات مناظرہ اور لوگوں کے اختلافات اور جھگڑوں میں مشغول ہونے کی وجوہات کا بیان (۵) استاذ و شاگرد کے آداب (۶) علم اور علما کی آفات اور علمائے دنیا و علمائے آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامات کا بیان اور (۷) عقل، اس کی فضیلت، اس کی اقسام اور اس کے بارے میں وارد روایات کا بیان۔

## باب نمبر ۱: علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت اور اس کے عقلی و نقلی دلائل کا بیان

پہلی فصل: علم کی فضیلت

علم کی فضیلت پر مشتمل ۱۴ فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ  
أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِمَا يَقْسُطُ<sup>ط</sup> (پ ۳، ال عمران: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر دیکھے! اللہ عزوجل نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا پھر ملائکہ اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا۔

شرف و فضیلت اور عظمت و کمال کے لئے یہی کافی ہے۔

﴿۲﴾

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ<sup>ط</sup> (پ ۲۸، المجادلة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

علماء کی عام لوگوں پر فضیلت: حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: ”علمائے کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔“ (۱)

﴿۳﴾

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ<sup>ط</sup> (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

﴿۴﴾

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ<sup>ط</sup> (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

﴿۵﴾

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ<sup>ع</sup> (پ ۱۳، الرعد: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔

﴿۶﴾

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ (پ ۱۹، النمل: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا۔

اس میں تشبیہ ہے کہ علم کی طاقت سے وہ اس پر قادر ہوا (یعنی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے وزیر حضرت سیدنا آصف بن برخیا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے علم کی طاقت سے پلک جھپکنے میں تخت لانے پر قادر ہوئے)۔

﴿۷﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ أَمْنٌ وَعَمِلَ صَالِحًا<sup>ط</sup> (پ ۲۰، القصص: ۸۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کیلئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔

اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، بیان آخرفی فضل العلم..... الخ، ج ۱ ص ۲۴۔

﴿۸﴾

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا  
إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿۸۳﴾ (پ ۲۰، العنکبوت: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے  
ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

﴿۹﴾

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعَلَّهِ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ  
(پ ۵، النساء: ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں  
کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان  
لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

واقعات کے فیصلے کو علمائے کرام کے اجتہاد کی طرف لوٹا کر حکم الہی کے اظہار میں ان کا درجہ انبیائے کرام علیہم  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے درجے سے ملایا۔

﴿۱۰﴾

يَبْنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي  
سَوَاتِكُمْ وِرَافًا ۖ وَ لِبَاسِ التَّقْوَى ۗ  
ذَلِكَ خَيْرٌ ۖ (پ ۸، الاعراف: ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے آدم کی اولاد بیشک ہم نے تمہاری طرف  
ایک لباس وہ اُتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ  
تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں لِبَاسًا سے علم، وِرَافًا سے یقین اور لِبَاسِ التَّقْوَى سے حیا مراد ہے۔

﴿۱۱﴾

وَلَقَدْ جِئْتُم بِكُتُبٍ فَاذْكُرُونَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ  
(پ ۸، الاعراف: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب  
لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔

﴿۱۲﴾

فَلتَقَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔

﴿۱۳﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں

جن کو علم دیا گیا۔

أوتوا الْعِلْمَ ط (پ ۲۱، العنکبوت: ۴۹)

﴿۱۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان وما  
یکون کا بیان انہیں سکھایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(پ ۲، الرحمن: ۳، ۴)

علم کی فضیلت پر مشتمل 28 فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾ ..... اللہ عزوجل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾ ..... علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔<sup>(۲)</sup>

اس سے پتا چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں اسی طرح نبوت کی وراثت (یعنی علم) سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔

﴿3﴾ ..... زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لئے استغفار کرتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

لہذا اُس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لئے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں۔ یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لئے استغفار میں مشغول ہیں۔

﴿4﴾ ..... بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پالیتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

اس حدیثِ پاک میں علم کے دنیوی فوائد بیان کئے گئے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہتر اور باقی

①..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب النهی عن المسألة، الحدیث: ۱۰۳، ص ۵۱۶۔

الزهد للامام احمد بن حنبل، فی فضل ابی ہریرة، الحدیث: ۸۸۵، ص ۱۸۲۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلم والحث..... الخ، الحدیث: ۲۴، ج ۱، ص ۱۴۶۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلم والحث..... الخ، الحدیث: ۲۴، ج ۱، ص ۱۴۶۔

④..... المجروحین لابن حبان، الرقم: ۴۸۸، صالح بن بشیر المری، ج ۱، ص ۴۷۲۔

جامع بیان العلم وفضله، باب قوله: لا حسد الا فی اثین، الحدیث: ۶۳، ص ۳۰، بتغییر۔

رہنے والی ہے۔

﴿5﴾..... دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتیں: حسنِ اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔<sup>(۱)</sup>

(حضرت سیّدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَالِیُّ فرماتے ہیں:) موجودہ زمانے کے بعض فقہاء کے نفاق کی وجہ سے اس حدیث میں ہرگز شک نہ کرنا کیونکہ اس حدیث میں فقہ سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، عنقریب ہم فقہ کا معنی بیان کریں گے اور فقیہ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور اگر اس پر اس بات کی معرفت سچی اور غالب ہوگی تو اس کی برکت سے وہ نفاق اور ریا سے پاک ہو جائے گا۔

﴿6﴾..... لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔<sup>(۲)</sup>

﴿7﴾..... ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا اور شمرہ علم ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿8﴾..... لوگوں میں سے علماء و مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرتے ہیں اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت (کی حفاظت) کے لئے تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿9﴾..... ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10﴾..... لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں جبکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔<sup>(۶)</sup>

①..... سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹، ج ۶، ص ۳۱۳۔

②..... تاریخ دمشق لابن عساکر، عمر بن علی بن ابی طالب، الحدیث: ۹۸۸، ج ۴۵، ص ۳۰۳۔

مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الحدیث: ۲۵، ج ۱، ص ۶۷، بتغییر۔

③..... الفقیہ والمففقہ، ذکر احادیث و اخبار شتی..... الخ، الحدیث: ۱۲۹، ج ۱، ص ۱۴۶۔

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۳۲، ص ۱۴۸۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، فضل فی فضل العلم و شرف مقداره، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۲۶۴۔

⑥..... صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب الارواح جنود مجنّدة، الحدیث: ۲۶۳، ص ۱۴۱۸۔

- ﴿11﴾..... قیامت کے دن علما کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿12﴾..... جس نے میری امت کے لئے احکام کی 40 حدیثیں یاد کیں اور ان تک پہنچا دیں میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔<sup>(۲)</sup>
- ﴿13﴾..... میرا جو امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔<sup>(۳)</sup>
- ﴿14﴾..... جو علم دین حاصل کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی مشکلات کو آسان فرمادے گا اور اُسے وہاں سے رِزق عطا فرمائے گا جہاں اُس کا گمان بھی نہ ہوگا۔<sup>(۴)</sup>
- ﴿15﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم! میں علیم ہوں اور ہر صاحبِ علم کو پسند کرتا ہوں۔<sup>(۵)</sup>
- ﴿16﴾..... عالم زمین میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا امین ہوتا ہے۔<sup>(۶)</sup>
- ﴿17﴾..... اگر میری امت کے دو گروہ اُمر اور علما ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے۔<sup>(۷)</sup>
- ﴿18﴾..... جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دے اُس دن کے روشن ہونے میں میرے لئے کوئی برکت نہیں۔<sup>(۸)</sup>

①..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب تفضیل العلماء علی الشهداء، الحدیث: ۱۳، ص ۴۸۔

②..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حفظ علی امتی..... الخ، الحدیث: ۱۸۵، ص ۶۳۔

③..... جامع بیان العلم وفضلہ، الحدیث: ۱۸۴، ص ۶۲۔

④..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۱۹، ص ۶۶۔

⑤..... جامع بیان العلم وفضلہ، الحدیث: ۲۱۳، ص ۷۰۔

⑥..... جامع بیان العلم وفضلہ، الحدیث: ۲۲۵، ص ۷۲۔

⑦..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب ذم العالم علی مداخلۃ السلطان الظالم، الحدیث: ۷۱، ص ۲۳۱۔

حلیۃ الاولیاء، میمون بن مهران، الحدیث: ۳۸۹، ج ۴، ص ۱۰۱۔

⑧..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۲۳۶، ج ۵، ص ۷۹۔

حلیۃ الاولیاء، عبداللہ بن المبارک، الحدیث: ۱۱۸۴، ج ۸، ص ۲۰۳۔

﴿19﴾..... تاجدارِ رسالت، ماونبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے علم کو عبادت اور شہادت سے افضل قرار دیتے

ہوئے ارشاد فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنیٰ صحابی پر۔<sup>(۱)</sup>

(پیارے اسلامی بھائیو!) غور کیجئے! مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کیسے علم سے خالی عمل کے مرتبے کو گھٹا دیا اگرچہ عابد جس عبادت پر موافقت اختیار کئے ہوتا ہے وہ علم سے خالی نہیں ہوتی ورنہ وہ عبادت ہی نہیں جو علم سے خالی ہو۔

﴿20﴾..... عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔<sup>(۲)</sup>

﴿21﴾..... قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے: انبیاء، علماء اور شہدا۔<sup>(۳)</sup>

لہذا معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ مرتبہ شہادت سے بڑھ کر ہے اگرچہ شہادت کی فضیلت میں بھی کثیر احادیث مروی ہیں۔

﴿22﴾..... اللهُ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو اور ایک فقیہ

شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿23﴾..... تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿24﴾..... مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔<sup>(۶)</sup>

﴿25﴾..... بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علما زیادہ، قرآن اور خطبا تھوڑے ہیں۔ دینے والے زیادہ اور

مانگنے والے کم ہیں۔ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علما کم اور خطبا زیادہ ہوں گے۔ دینے والے

①..... سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹، ج ۲، ص ۳۱۴، بتغییر۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب الحث علی طلب العلم، الحدیث: ۳۶۴، ج ۳، ص ۲۲۲۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۴، ج ۴، ص ۵۲۶۔

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۱۶۶، ج ۴، ص ۳۳۔

جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحدیث: ۱، ص ۲۲۔

⑤..... جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحدیث: ۸، ص ۳۴۔

⑥..... جامع بیان العلم وفضله، الحدیث: ۸۴، ص ۳۶۔

کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

﴿26﴾..... عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدا ہایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿27﴾..... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اَلْعِلْمُ بِاللَّهِ - عرض کی گئی: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی ذات کا علم۔ عرض کی گئی: ہمارا سوال عمل کے متعلق ہے جبکہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علم کا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا: یہ (یعنی ذات باری تعالیٰ کا) علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی ہوتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿28﴾..... اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا پھر علما کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا: اے علما کے گروہ! میں تمہیں جانتا ہوں اسی لئے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لئے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جاؤ! میں نے تمہیں بخش دیا۔<sup>(۴)</sup>

ہم اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے حسنِ خاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔

## علم کی فضیلت پر مشتمل 20 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے حضرت سیدنا کمیل بن زیاد نخعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَكْبِي سے فرمایا: اے کمیل! علم مال سے بہتر ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی

①..... المعجم الكبير، الحديث؛ ۳۱۱، ج ۳، ص ۱۹۷۔

جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحديث؛ ۹، ص ۳۸۔

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحديث؛ ۱۱، ص ۴۳۔

③..... جامع بیان العلم وفضله، الحديث؛ ۱۹، ص ۶۵، بتغییر۔

④..... جامع بیان العلم وفضله، الحديث؛ ۲۱، ص ۶۹۔

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، طلحة بن یزید الرقی، ج ۵، ص ۱۷۷۔



ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔<sup>(۱)</sup>  
مزید فرمایا: رات بھر عبادت کرنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے اور عالم کی موت سے اسلام میں ایسا رخنہ (شکاف) پڑتا ہے جسے اس کے نائب کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔<sup>(۲)</sup>  
آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے: فخر علما ہی کو لائق ہے کیونکہ وہ خود ہدایت پر ہیں اور ہدایت کے طلبگاروں کے لئے راہنما ہیں۔ ہر شخص اُسی چیز کی قدر کرتا ہے جو اُسے اچھی لگتی ہے اور جاہل علما کے دشمن ہیں۔ علم کے ذریعے کامیابی حاصل کرو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ لوگ مرجاتے ہیں جبکہ علما زندہ رہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابواسود علیہ رَحْمَةُ اللهِ الصَّمَد نے فرمایا: علم سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علما بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿3﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم، مال اور بادشاہت میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا لہذا علم کے ساتھ انہیں مال اور حکومت بھی عطا کر دی گئی۔<sup>(۵)</sup>

﴿4﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہیں؟ فرمایا: علما۔ پھر پوچھا گیا: بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا: پرہیزگار۔ پھر پوچھا گیا: گھٹیا لوگ کون ہیں؟ فرمایا: جو دین کے بدلے دنیا حاصل

①..... الفقیہ والمتفقہ، ذکر تقسیم علی بن ابی طالب احوال الناس..... الخ، الحدیث: ۱۷۱، ج ۱، ص ۱۸۲۔

عیون الاخبار للدينوري، كتاب العلم والبيان، ج ۳، ص ۱۳۵، ۱۳۶۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بين علماء الدنيا..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۔

الفقیہ والمتفقہ، باب تعظیم المتفقہ الفقیہ، الحدیث: ۸۵، ج ۲، ص ۱۹۸، بالفاظ مختلفہ۔

③..... الفقیہ والمتفقہ، الحدیث: ۷۹، ج ۲، ص ۱۵۰۔

④..... الحث علی طلب العلم لابی ہلال العسکری، ص ۵۳۔

جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۵۳، ص ۸۴۔

⑤..... تاریخ دمشق لابن عساکر، سلیمان بن داود، الحدیث: ۹۴، ج ۲، ص ۲۷۵۔

کرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا کیونکہ علم ہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پس انسان اس وصف کے ذریعے انسان ہے جس کے باعث اسے عزت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسمانی قوت کی وجہ سے انسان نہیں ورنہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ جسمت کی وجہ سے انسان ہے ورنہ ہاتھی کا جسم اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ نہ بہادری کے سبب ورنہ درندے اس سے بڑھ کر بہادر ہیں۔ نہ اس لئے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے کیونکہ بیل کا پیٹ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ جماع کرتا ہے کیونکہ اس معاملے میں چھوٹی سی چڑیا اس سے بڑھ کر طاقتور ہے بلکہ انسان علم ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

﴿5﴾..... ایک عالم کا قول ہے کہ کاش! مجھے معلوم ہو جائے کہ جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جسے قرآن دیا گیا اور اس نے یہ خیال کیا کہ کسی کو اس سے بہتر دیا گیا ہے تو اس نے اس چیز کو حقیر سمجھا جسے اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے عظیم کیا۔<sup>(۲)</sup>

﴿6﴾..... حضرت سیدنا فتح موصلی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: اگر مریض کو کھانے، پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: دل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر تین دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بالکل سچ فرمایا کیونکہ جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے اسی طرح علم و حکمت دل کی غذا ہے جن کی بدولت وہ زندہ رہتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں اس کا دل بیمار اور اس کی موت لازمی ہے لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی محبت اور اس میں مشغولیت اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے جیسا کہ خوف کے غلبہ

①..... المجالسة وجواهر العلم للدينوري، الجزء الثاني، الرقم: ۳۰، ج ۱، ص ۱۶۰۔

شعب الايمان للبيهقي، باب في نشر العلم، الرقم ۱۸۴، ج ۲، ص ۲۹۸۔

②..... الزهد لابن المبارك، باب ماجاء في ذنب التنعم في الدنيا، الحديف ۹۹، ص ۲۷۵، بتغير۔

③..... التذكرة في الوعظ لابن الجوزي، المجلس الثالث: فضل العلم والعلماء، ط ۵۔

کے وقت زخم کی تکلیف کا احساس نہیں رہتا اگرچہ تکلیف موجود ہوتی ہے۔ پھر جب موت اس سے دنیا کے بوجھ اُتارتی ہے تب وہ اپنی ہلاکت محسوس کر کے بہت پچھتا تا ہے لیکن پھر یہ اس کے حق میں بے سود ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے مدہوش کونٹے اور خوف کی حالت میں لگے زخموں کا احساس اُس وقت ہوتا ہے جب اسے خوف اور نشتے سے نجات ملتی ہے۔ ہم پردے کھلنے کے دن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مر میں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: علما کی سیاہی کا شہدا کے خون سے وزن کیا جائے گا تو علما کی سیاہی شہدا کے خون سے بھاری ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

﴿8﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹھایا جائے۔<sup>(۲)</sup> اور علم کا اٹھایا جانا یہ ہے کہ علما وفات پا جائیں گے۔ اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! راہ خدا میں مارے جانے والے شہدا جب علما کا مقام دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش! انہیں بھی عالم اٹھایا جاتا۔ کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوتا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿9﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا نے فرمایا: رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری سے زیادہ محبوب ہے۔<sup>(۴)</sup> اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل سے بھی منقول ہے۔

﴿10﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اس ارشاد باری تعالیٰ:

رَبِّا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰﴾ (پ۲، البقرة: ۲۰۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

①..... العلل المنناہیة لابن الجوزی، کتاب العلم، باب وزن حبر العلماء..... الخ، الحدیث: ۸۵، ج ۱، ص ۸۱۔

②..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث..... الخ، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۱۵۰، عن ابی امامة۔

③..... الزهد للامام احمد بن حنبل، فی فضل ابی ہریرة، الحدیث: ۸۹۹، ص ۱۸۴۔

④..... جامع معمر بن راشد مع مصنف عبدالرزاق، باب العلم، الحدیث: ۲۰۶۳، ج ۱، ص ۲۳۸۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: دنیا میں حَسَنَةً سے مراد علم اور عبادت ہے جبکہ آخرت میں اس سے مراد جنت ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿11﴾..... کسی دانا سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہئیں؟ جواب دیا: وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیر نے لگیں یعنی علم۔<sup>(۲)</sup>

بعض نے کہا: کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔

﴿12﴾..... کہا گیا ہے کہ جو حکمت کو لگام بنا لیتا ہے لوگ اسے امام بنا لیتے ہیں اور جو حکمت کو سمجھ لیتا ہے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿13﴾..... حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی نے فرمایا: علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہو خواہ چھوٹی سی بات میں، تو وہ خوش ہوتا ہے اور جس سے اسے اٹھایا جاتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿14﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: اے لوگو! تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ بے شک اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی ایک چادرِ محبت ہے اور جو علم کا ایک باب حاصل کر لیتا ہے اللہ عزَّ وَّجَلَّ اُسے وہ چادر پہنا دیتا ہے۔ پھر اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے اپنی رضا والے کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ چادرِ محبت اس سے سلب نہ کرے اگرچہ یہ سلسلہ اتنا طویل ہو کہ اسے موت آجائے۔<sup>(۵)</sup>

﴿15﴾..... حضرت سیدنا اخف رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ کا قول ہے کہ جلد ہی علما مالک بن جائیں گے اور ہر اس عزت کا انجام کارِ زلت ہوتا ہے جسے علم سے مضبوط نہ کیا جائے۔<sup>(۶)</sup>

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسییح بالید، الحدیث: ۳۲۹، ج ۵، ص ۲۹۵۔

②..... الحث علی طلب العلم لابی ہلال العسکری، ص ۶۔

جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴، ص ۸۰۔

③..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴، ص ۸۰۔

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۴، ص ۸۳، بتغییر۔

⑤..... المرجع السابق، الحدیث: ۲۵۱۔

⑥..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، ج ۱، ص ۱۳۷۔

﴿16﴾..... حضرت سیدنا سالم بن ابوجعد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَحَدُ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے 300 درہم میں خرید کر آزد کر دیا تو میں نے سوچا کہ اب کون سا پیشہ اختیار کروں؟ بالآخر حصولِ علم میں مشغول ہو گیا۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شہر کا حاکم مجھ سے ملنے کے لئے آیا لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔<sup>(۱)</sup>

﴿17﴾..... حضرت سیدنا زبیر بن ابوبکر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو! اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے اور اگر غنی ہو تو تمہارا جمال ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿18﴾..... منقول ہے کہ حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا علما کی صحبت میں بیٹھا کرو، اپنے زانوان کے زانوسے ملا دو کیونکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نُوْرِ حِكْمَتِ سِے دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے زمین کو مسلسل بارش سے۔<sup>(۳)</sup>

﴿19﴾..... کسی دانا کا قول ہے کہ عالم کی وفات پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے روتے ہیں۔ عالم کا چہرہ اوجھل ہو جاتا لیکن اس کی یادیں باقی رہتی ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿20﴾..... حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي نے فرمایا: علم نر ہے اور آدمیوں میں مرد ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

{..... صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْبِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ.....}

①..... فیض القدير، حرف الحاء، فصل فی المحلی بأل..... الخ، تحت الحدیث: ۳۸۲، ج ۳، ص ۵۵۲۔

②..... حدیث ابی نعیم الاصبهانی، الحدیث: ۲، ص ۷۔

③..... الموطا امام مالک، کتاب العلم، باب ماجاء فی طلب العلم، الحدیث: ۱۹۴، ج ۲، ص ۷۸۔

④..... فردوس الاخبار، باب العین، الحدیث: ۲۰۲، ج ۲، ص ۸۴، باختصار۔

⑤..... حلیۃ الاولیاء، الزہری، الرقم: ۲۲۸، ج ۳، ص ۲۱۸۔

## دوسری فصل: علم حاصل کرنے کی فضیلت حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 2 فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (پ ۱۰، التوبة: ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

﴿۲﴾

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

## حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ:

- ﴿1﴾..... جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ عزوجل اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿2﴾..... بے شک ملائکہ طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>
- ﴿3﴾..... تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے سو رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔<sup>(۳)</sup>
- ﴿4﴾..... علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اس کے لئے دنیا و ما فیہا (یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے) سے بہتر ہے۔<sup>(۴)</sup>
- ﴿5﴾..... علم کی جستجو کرو اگرچہ چین میں ہو۔<sup>(۵)</sup>
- ﴿6﴾..... علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔<sup>(۶)</sup>

- 1..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابی الدرداء، الحدیث: ۲۱۷۷، ج ۸، ص ۱۶۷۔
- 2..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم/فصل فی فضل العلم وشرف مقداره، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۲۶۲۔
- 3..... جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحدیث: ۱۰، ص ۴۰۔
- سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فی فضل من تعلم القرآن وعلمه، الحدیث: ۲۱، ج ۱، ص ۱۴۲۔
- 4..... روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، ذکر الحث علی لزوم العلم والمداومة علی طلبه، ص ۴، مفہومًا۔
- 5..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، الحدیث: ۱۶۶، ج ۲، ص ۲۵۴۔
- 6..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنة، باب فضل العلماء والحث..... الخ، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۱۴۶۔

﴿7﴾..... علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ خبردار! تم سوال کیا کرو کیونکہ اس میں چارکواجر دیا جائے

گا: (۱) سوال کرنے والے کو (۲) عالم کو (۳) غور سے سننے والے کو اور (۴) ان سے محبت کرنے والے کو۔<sup>(۱)</sup>

﴿8﴾..... جاہل اپنی جہالت پر اور عالم اپنے علم پر خاموش نہ رہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿9﴾..... حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: عالم کی مجلس

میں حاضر ہونا ہزار رکت (نفل) پڑھنے، ہزار مریضوں کی عیادت کرنے اور ہزار نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ عرض کی گئی: یا رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اور قرآن کی تلاوت سے (بھی افضل ہے)؟ ارشاد فرمایا: قرآن بھی تو علم کے ساتھ ہی نفع دیتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿10﴾..... جسے اس حالت میں موت آئی کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لئے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اُس کے اور

انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے درمیان ایک درجہ کافرق ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

## حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 11 اقوالِ بزرگانِ دین:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: علم طلب کرتے وقت میری اتنی عزت نہیں تھی لیکن

جب علم سکھانے لگا تو لوگوں میں عزت ہونے لگی۔<sup>(۵)</sup>

حضرت سیدنا ابن ابی مُلَیْکَہ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

عَنْهُمَا جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں جب ان کی زیارت کرتا ہوں تو سب سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو

سب سے زیادہ فصیح اور فتویٰ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ صاحبِ علم ہوتے ہیں۔<sup>(۶)</sup>

①..... حلیۃ الاولیاء، محمد بن علی الباقر، الحدیث: ۳۷۸، ج ۳، ص ۲۲۴، بتغییر۔

②..... المعجم الاوسط، الحدیث ۵۳۶۵، ج ۶، ص ۱۰۶۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۷۔

④..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی فضل العلم والعالم، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۱۱۲۔

⑤..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، ج ۱، ص ۱۳۷۔

⑥..... العقد الفريد للاحمد بن محمد الاندلسي، کتاب المجنبۃ فی الاجوبۃ، جواب ابن عباس، ج ۱، ص ۹۴۔

﴿2﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتا وہ عزت کی خواہش کیسے کرتا ہے۔ (۱)

﴿3﴾..... کسی دانا کا قول ہے کہ مجھے دو شخصوں پر جتنا رحم آتا ہے اتنا کسی پر نہیں آتا ایک وہ جو علم حاصل کرتا ہے مگر سمجھتا نہیں اور دوسرا وہ جو سمجھ سکتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا۔ (۲)

﴿4﴾..... حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ایک مسئلہ سیکھنا مجھے رات بھر کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ (۳)

﴿5﴾..... انہی سے منقول ہے کہ عالم اور علم سیکھنے والا دونوں بھلائی میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے علاوہ تمام لوگ بے وقوف ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔ (۴)

﴿6﴾..... نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عالم بن یا علم حاصل کرنے والا یا علم کی باتیں سننے والا اور ان کے علاوہ چوتھا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ (۵)

﴿7﴾..... حضرت سیدنا عطاء رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: علم کی ایک مجلس غفلت کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے۔ (۶)

﴿8﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے ایک ہزار عبادت گزاروں کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے جو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے حلال اور حرام کردہ امور کا علم رکھتا ہے۔ (۷)

1..... المجالسة وجواهر العلم، الحديث ۳۰۴، الجزء الثاني، ج ۱، ص ۱۶۳۔

2..... جامع بيان العلم وفضله، باب جامع في الحال التي يسال بها العلم، الحديث: ۴۶، ص ۱۴۴۔

3..... الفقيه والمتفقه، فضل التفقه على كثير من العبادات، الحديث: ۵۵، ج ۱، ص ۱۰۳۔

4..... الزهد لابن المبارك، باب هوان الدنيا على الله، الجزء الرابع، الحديث: ۵۴، ص ۱۹۲۔

5..... سنن الدارمی، باب في ذهاب العلم، الحديث: ۲۴۸، ج ۱، ص ۹۱۔

صفة الصفة، ابوالدرداء، ج ۱، ص ۱۹، "كن" بدله "اعد"، عن عبد الله بن مسعود۔

6..... قوت القلوب، الفصل الحادي والثلاثون، باب ذكر الفرق بين العلماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۷، بتغير۔

7..... جامع بيان العلم وفضله، باب تفضيل العلم على العبادة، الرقم: ۱، ص ۴۲، بتغير۔



- ﴿9﴾..... حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي نے فرمایا: علم کی طلب نفل نماز سے افضل ہے۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿10﴾..... حضرت سیدنا ابن عبدالحکم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِق کے پاس علم حاصل کر رہا تھا، ظہر کا وقت ہوا تو میں کتابیں سمیٹنے لگا تاکہ نماز پڑھوں۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے فرمایا: اگر نیت صحیح ہو تو جس کی طرف تم جا رہے ہو (یعنی نماز) وہ اس سے افضل نہیں جس (علم) میں تم مصروف تھے۔<sup>(۲)</sup>
- ﴿11﴾..... حضرت سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جو یہ سمجھے کہ صبح کے وقت علم کی طلب میں جانا جہاد نہیں اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔<sup>(۳)</sup>

### ﴿..... فضائل قرآن کریم .....﴾

فرمان مصطفیٰ:

”یہ قرآن مجید اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ضیافت ہے تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اُس کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک یہ قرآن مجید، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مضبوطی، نورِ مُبِیْن، نفع بخش شفاء، جو اسے اختیار کرتا ہے اس کے لئے ڈھال اور جو اس پر عمل کرے اُس کے لئے نجات ہے۔ یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لئے تھکانا پڑے اور یہ ٹیرھی راہ نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے اور کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا (یعنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے)۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ ”الف“ ایک حرف ”لاہ“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے۔“

(المستدرک، الحدیث: ۲۰۸، ج ۲، ص ۲۵۶)

1.....مسند الشافعی، کتاب الصداق والایلاء، ص ۲۳۹۔

2.....جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحدیث: ۱۰، ص ۲۰۔

3.....جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلماء علی الشهداء، الحدیث: ۱۴، ص ۲۹۔

## تیری فصل: علم سکھانے کی فضیلت

### علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل 6 فرامین باری تعالیٰ:



﴿۱﴾ وَلَيُنذِرُنَا وَقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۷۷﴾ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) پرکہ وہ بچیں۔  
ترجمہ کنز الایمان: اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنا میں اس امید

اس آیت مبارکہ میں قوم کو ڈرانے سے مراد نہیں علم سکھانا اور ان کی راہنمائی کرنا ہے۔



﴿۲﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُ سِرًّا  
ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا

اور نہ چھپانا۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۸۷)

اس آیت مبارکہ سے علم سکھانے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔



﴿۳﴾ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۴۶) حق چھپاتے ہیں۔  
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر

اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ علم چھپانا حرام ہے۔ جیسا کہ شہادت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿۴﴾ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل

گنہگار ہے۔

(پ ۳، البقرة: ۲۸۳)



﴿۵﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا  
ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔

(پ ۲، حم السجدة: ۳۳)

﴿۵﴾

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔

﴿۶﴾

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پ ۱۲۹، البقرة: ۱۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔

## علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل 17 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾.....اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے جسے بھی علم عطا فرمایا اس سے وہ عہد لیا جو انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے لیا کہ وہ اسے لوگوں سے بیان کرے اور نہ چھپائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... نبی مدنی سرکار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سَيِّدُنَا مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لئے دُنْيَا وَمَا فِيهَا (یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے) سے بہتر ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿3﴾..... جس نے علم کا ایک باب اس لئے سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے گا تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

حضرت عیسیٰ رُوحِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے منقول ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا تو آسمانوں کی سلطنت میں اسے عظیم کہا جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿4﴾..... جب قیامت کے دن اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عابدوں اور مجاہدوں سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو علماء عرض کریں گے: ہمارے علم کے طفیل وہ عابد اور مجاہد بنے (وہ جنت میں گئے اور ہم رہ گئے)؟ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تم

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۲۹۔

الفرردوس الاخبار، باب المیم، الحدیث ۶۶۱۹، ج ۲، ص ۳۳۲۔

②..... الزهد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، الجزء العاشر، استعنت باللہ، الحدیث ۱۳، ص ۴۸۴۔

③..... الترغیب والترہیب، کتاب العلم، الترغیب فی العلم..... الخ، الحدیث ۱، ج ۱، ص ۶۸۔

④..... الزهد للامام احمد بن حنبل، مواعظ عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۳۳، ص ۹۷۔

میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو، تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ چنانچہ، وہ شفاعت کریں گے پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

یہ اس علم کی بدولت ہوگا جو دوسروں کو سکھایا ہوگا، اس کے بدلے نہیں جو دوسروں تک نہیں پہنچایا۔

﴿5﴾..... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لوگوں کو علم عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لے گا بلکہ علما کے اٹھ جانے سے علم جاتا رہے گا۔ پس جب کبھی کوئی عالم دنیا سے جائے گا اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جائے گا یہاں تک کہ صرف جاہل سردار رہ جائیں گے۔ اگر ان سے مسائل پوچھے جائیں تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔<sup>(۲)</sup>

﴿6﴾..... جس نے علم سیکھ کر چھپایا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے بروز قیامت آگ کی لگام ڈالے گا۔<sup>(۳)</sup>

﴿7﴾..... علم و حکمت کی بات بہترین ہدیہ و تحفہ ہے جسے سن کر تو یاد کر لے پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے تو یہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿8﴾..... دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس کے جو قرب الہی کا سبب بنے اور علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9﴾..... بے شک اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں لوگوں کو بھلائی (یعنی علم دین) سکھانے والے پر رُو د بھیجتے ہیں۔<sup>(۶)</sup>

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الاول، ج، ص ۱۶۲۔

②..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم..... الخ، الحدیث ۲۶۷۴، ص ۱۳۳۶۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو، الحدیث: ۶۹۱، ج ۲، ص ۶۲۸۔

③..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب من سئل عن علم فکتّمه، الحدیث: ۲۶۶/۲۶۵، ج ۱، ص ۱۷۲۔

④..... الزهد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللّٰہ، الجزء العاشر، الحدیث: ۱۳۸، ص ۴۸۷۔

جامع بیان العلم وفضلہ، باب تفضیل العلم علی العبادۃ، الحدیث: ۸، ص ۳۶۔

⑤..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب مثل الدنیا، الحدیث: ۴۱۱، ج ۴، ص ۴۲۸۔

شرح السنۃ، کتاب الرقاق، باب ہوان الدنیا علی اللّٰہ، الحدیث: ۳۹۲، ج ۷، ص ۲۸۰۔

⑥..... سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ، الحدیث: ۲۶۹، ج ۴، ص ۳۱۴۔

المعجم الکبیر، الحدیث: ۷۹۱، ج ۸، ص ۲۳۳۔

﴿10﴾..... مسلمان اپنے بھائی کو اس سے زیادہ افضل فائدہ نہیں دے سکتا کہ اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو وہ اپنے بھائی کو پہنچا دے۔<sup>(۱)</sup>

﴿11﴾..... نیکی کی بات جسے مسلمان سنے پھر دوسروں کو سکھائے اور اس پر عمل کرے اس کے لئے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿12﴾..... ایک دن حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے دیکھا کہ دو حلقے ہیں۔ ایک حلقے کے لوگ اللہ عزوجل سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں جبکہ دوسرے حلقے والے لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا: یہ لوگ اللہ عزوجل سے مانگ رہے ہیں، وہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور چاہے تو نہ کرے اور یہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں اور مجھے معلّم بنا کر بھیجا گیا ہے۔<sup>(۳)</sup> پھر ان کی طرف چل دیئے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔

﴿13﴾..... جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ عزوجل نے مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی تو ایک حصے نے اسے جذب کر کے گھاس اور بہت سا چارا اُگایا، ایک حصے نے اسے جمع کر لیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اُٹھایا کہ اس میں سے پیا، پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا جبکہ ایک حصہ چھٹیل میدان تھا کہ جس میں نہ تو پانی جمع ہوتا ہے اور نہ ہی گھاس اُگتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

پہلی مثال نفع اٹھانے والے شخص کی ہے، دوسری جس نے دوسروں کو نفع پہنچایا اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جو دونوں سے محروم رہا (یعنی خود نفع اٹھایا نہ دوسروں کو پہنچایا)۔

﴿14﴾..... جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (ان میں سے ایک)

①..... جامع بیان العلم وفضله، باب دعاء رسول اللہ لمستمع العلم وحافظه ومبلغه، الحدیث ۱۸۵، ص ۶۲۔

②..... الزهد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، الحدیث ۱۳۸، ص ۴۸۔

③..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث..... الخ، الحدیث ۲۴، ج ۱، ص ۱۵۰۔

سنن الدارمی، المقدمة، باب فی فضل العلم والعالم، الحدیث ۳۴، ج ۱، ص ۱۱۱۔

④..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، الحدیث ۷، ج ۱، ص ۴۶۔

جامع بیان العلم وفضله، باب طلب العلم فریضة، الحدیث ۴۴، ص ۲۴۔

علم نافع ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿15﴾..... بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿16﴾..... دو کے علاوہ کسی پر رشک جائز نہیں ایک وہ شخص جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پختہ علم سے نوازا وہ اس سے فیصلہ کرتا اور لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مال دیا پھر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔<sup>(۳)</sup>

﴿17﴾..... حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دعا فرمائی کہ میرے نائبوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو۔ کسی نے عرض کی: آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے نائبین کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ جو میری سنت سے محبت کرتے اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

## علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل 12 اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: جس نے حدیث بیان کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس بیان کرنے والے کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔<sup>(۵)</sup>

﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: لوگوں کو علم دین سکھانے والے کے لئے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔<sup>(۶)</sup>

﴿3﴾..... بعض علما نے فرمایا: عالم اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے تو اسے غور کرنا چاہئے کہ

①..... صحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب ما يلحق الانسان..... الخ، الحدیث: ۱۶۳، ص ۸۸۶۔

②..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب العیال، باب صلاح الولد، الحدیث: ۴۳، ج ۸، ص ۱۰۰۔

③..... سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی ان الدال علی..... الخ، الحدیث: ۲۶۷، ج ۴، ص ۳۰۵۔

④..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب الاغتباط فی العلم والحکمة، الحدیث: ۷۴، ج ۱، ص ۴۳۔

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۶۵، ج ۲، ص ۲۹۔

⑥..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۰، ص ۶۶۔

⑦..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۲، ص ۷۵۔

⑧..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی فضل العلم والعالم، الحدیث: ۳۴۳، ج ۱، ص ۱۱۱۔

واسطہ کیسا ہونا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

﴿4﴾..... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفَوْی عسقلان تشریف لائے اور کچھ عرصہ ٹھہرے رہے لیکن کسی نے بھی آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کوئی مسئلہ دریافت نہیں کیا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: مجھے کراہیہ دوتا کہ میں اس شہر سے چلا جاؤں کیونکہ یہاں علم مرچکا ہے۔<sup>(۲)</sup> یہ اس لئے فرمایا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ علم سکھانے کی فضیلت حاصل کرنے اور اس کے ذریعے بقائے علم کی حرص رکھتے تھے۔

﴿5﴾..... حضرت سیدنا عطاء رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا: کوئی مجھ سے مسئلہ دریافت نہیں کرتا۔<sup>(۳)</sup>

﴿6﴾..... منقول ہے کہ علما زمانوں کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے جس سے اس کے اہل زمانہ (علم کی) روشنی حاصل کرتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿7﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفَوْی نے فرمایا: اگر علما نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی مثل ہوتے۔<sup>(۵)</sup> مطلب یہ کہ علما لوگوں کو علم سکھا کر حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں داخل کرتے ہیں۔

﴿8﴾..... حضرت سیدنا کرمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: بے شک اس علم کی قیمت ہے۔ پوچھا گیا: اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اسے اُس شخص تک پہنچاؤ جو اسے اچھی طرح یاد رکھے اور ضائع نہ کرے۔<sup>(۶)</sup>

﴿9﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: علما اس اُمت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ پوچھا گیا: وہ کیسے؟ فرمایا: اس لئے کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں جبکہ علما انہیں آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔

①..... الفقیہ والمتفقہ، باب الزجر عن التسرع الی الفتوی مخافة الزلل، الحدیث: ۱۰۸۵، ج ۲، ص ۳۵۴۔

حلیۃ الاولیاء، محمد بن المنکدر، الحدیث: ۳۶۱، ج ۳، ص ۱۷۹۔

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب ماروی فی قبض العلم وذہاب العلماء، الحدیث: ۶۷، ص ۲۱۸۔

③..... المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الرابع فی العلم والأدب..... الخ، ج ۱، ص ۴۱۔

④..... التذکرۃ فی الوعظ، فضل العلم والعلماء، ص ۵۔

⑤..... جامع بیان العلم وفضله، باب آفة العلم وغائلته..... الخ، الحدیث: ۴۸، ص ۱۵۲۔

⑥..... الکامل فی صفعاء الرجال لابن عدی، عکرمۃ مولیٰ ابن عباس: ۱۴۱، ج ۶، ص ۴۷۔

﴿10﴾..... منقول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر غور سے سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا۔<sup>(۱)</sup>

﴿11﴾..... منقول ہے کہ اپنا علم اُسے سکھاؤ جسے علم نہیں اور خود اُس سے سیکھو جو اُن باتوں کو جانتا ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس طرح تم جو نہیں جانتے اسے جان لو گے اور جو جانتے ہو اسے یاد کر لو گے۔<sup>(۲)</sup>

﴿12﴾..... حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ علم سیکھو! کیونکہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی رضا کے لئے علم سیکھنا خشیت، اس کی جستجو عبادت، اس کی تکرار تسبیح، اس کے متعلق بحث کرنا جہاد، جو نہیں جانتا اسے علم سکھانا صدقہ اور اسے اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ علم تنہائی میں مونس، خلوت میں رفیق، دین پر راہنما، خوشی و تنگی میں صبر دینے والا، دوستوں کے ہاں نائب، اجنبیوں کے پاس رشتہ دار اور راہِ جنت کا روشن مینار ہے۔ علم کے ذریعے اللہ عزَّ وَّجَلَّ قوموں کو بلندی عطا فرما کر انہیں نیکی میں مقتدا و پیشوا اور راہنما بنا دیتا ہے۔ ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ انہیں نیکی کی راہ دکھانے والا بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کے افعال کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے اور اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں۔ ہر خشک و ترحتی کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے، جانور، آسمان اور اس کے ستارے علم سیکھنے والے کے لئے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ کیونکہ علم دلوں کو اندھے پن سے جلا بخشتا ہے۔ آنکھوں سے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنی دیتا ہے۔ بدنوں کی کمزوری دور کر کے انہیں طاقتور بناتا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا رزوں کے برابر اور اس کی تکرارات کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے۔ اسی سے خوف خدا ملتا ہے۔ اسی سے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی بزرگی اور وحدانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے پرہیزگاری ملتی ہے۔ اسی سے صلہ رحمی کا جذبہ ملتا ہے۔ یہی حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ علم امام ہے اور عمل اس کے تابع۔ علم خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے جبکہ بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

ہم اللہ عزَّ وَّجَلَّ سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

①..... حلیۃ الاولیاء، سفیان الثوری، الرقم: ۹۱۰، ج ۶، ص ۴۰۱۔

②..... عیون الاخبار للدينوري، كتاب العلم والبيان، العلم، ج ۳، ص ۱۳۹۔

③..... جامع بيان العلم وفضله، باب جامع في فضل العلم، الحديث: ۲۴، ص ۷۷۔

قوت القلوب، الفصل الحادي والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ذكر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۳۔



## چوتھی فصل: علم کی فضیلت پر عقلی دلائل

یاد رہے! اس باب کا مقصود یہ ہے کہ علم کی فضیلت اور عمرگی معلوم ہو اور درحقیقت فضیلت کا مفہوم اور مراد جانے بغیر یہ معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ فضیلت کا ہونا علم کے لئے یا کسی اور خصلت کے لئے وصف ہے۔ پس وہ شخص ضرور بہک جاتا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ زید حکیم ہے یا نہیں لیکن وہ ابھی تک حکمت کے معنی اور اس کی حقیقت سے نابلد ہے (اس لئے ہم پہلے فضیلت کا معنی اور مراد بیان کرتے ہیں)۔ چنانچہ،

### فضیلت کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

فضیلت فضل سے ماخوذ ہے اور فضل زیادتی کو کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں کسی بات میں مشترک ہوں اور ان میں ایک کسی اضافی بات سے خاص ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے افضل ہے اور اسے اس پر فضیلت حاصل ہے جبکہ وہ اضافی بات اس میں موجود ہو جو اس کے لئے کمال کی بات ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: گھوڑا گدھے سے افضل ہے۔ کیونکہ بوجھ اٹھانے کی قوت میں تو گھوڑا گدھے کا شریک ہے لیکن حملہ کرنے، دوڑنے، سخت حملہ آور ہونے کی قوت اور حسن صورت کی خوبیاں گھوڑے میں اضافی ہیں۔ اب اگر بالفرض گدھے کو اضافی سامان کے ساتھ خاص کیا جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ گھوڑے سے افضل ہو گیا کیونکہ یہ جسمانی اضافہ ہے جبکہ حقیقت میں کمی جو کہ کوئی کمال کی بات نہیں، اس لئے کہ حیوان میں جسم نہیں بلکہ معنویت (یعنی اصلیت) اور اس کی صفات مقصود ہوتی ہیں۔

### علم کی عقلی فضیلت:

یہ سمجھنے کے بعد تم پر پوشیدہ نہ رہا کہ علم کی نسبت اگر دوسرے اوصاف کی طرف کی جائے تو اس کی ایک فضیلت ہے جس طرح دیگر تمام حیوانوں کی نسبت گھوڑے کی ایک فضیلت ہے، بلکہ سخت حملہ آور ہونا گھوڑے کی (اضافی) فضیلت ہے مطلق فضیلت نہیں جبکہ علم کو اپنی ذات کے اعتبار کسی کی طرف اضافت کئے بغیر مطلقاً فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ عزوجل کا وصف کمال، انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا شرف ہے بلکہ سدھایا ہوا گھوڑا بے سدھائے گھوڑے سے اچھا ہے۔ لہذا علم کو بغیر کسی اضافت کے مطلقاً فضیلت حاصل ہے۔

## مرغوب اشیاء کی اقسام اور ان کی مثالیں:

جان لیجئے! عمدہ اور نفیس چیز جس میں رغبت کی جاتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... جس کی طلب کا سبب کوئی امر غیر ہو (۲)..... جس کی طلب کا سبب خود اس کی ذات ہو اور (۳)..... جس کی طلب خود اس کی ذات کی وجہ سے بھی ہو اور کسی دوسرے سبب کی وجہ سے بھی۔ دوسرا پہلے سے افضل و اشرف ہے۔ پہلے کی مثال: درہم و دینار ہیں کہ یہ درحقیقت دو بے فائدہ پتھر ہیں اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ذریعے حاجات کی تکمیل کو آسان نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر اور کنکر برابر ہوتے۔ دوسرے کی مثال: اُخروی سعادت اور دیدارِ الہی کی لذت ہے۔ تیسرے کی مثال: بدن کی سلامتی ہے: مثلاً پاؤں کی سلامتی اس لئے مطلوب ہوتی ہے کہ بدن تکلیف سے بچے اور اس لئے بھی کہ اس کے ذریعے چل کر ضروریات تک رسائی ہو۔

اب اس اعتبار سے علم کو دیکھو تو وہ فی نفسہ (یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے) لذیذ ہے لہذا وہ دوسری قسم میں شامل ہے (جو پہلی سے افضل ہے) نیز وہ آخرت اور اس کی سعادت کا وسیلہ اور قربِ الہی کا ذریعہ ہے کہ بغیر اس کے قربِ الہی حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی کے حق میں سعادتِ ابدی کا مرتبہ سب سے بلند ہے اور اس کا وسیلہ سب چیزوں سے افضل ہے اور سعادتِ ابدی بغیر علم و عمل کے حاصل نہیں ہو سکتی اور عمل کی کیفیت کا علم نہ ہو تو عمل تک رسائی نہیں ہوتی۔ پتا چلا کہ دنیا و آخرت کی اصل سعادت علم ہے اسی لئے یہ سب سے افضل ہے۔

## علم کا اخروی فائدہ:

علم اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ تم جانتے ہو کسی چیز کا نتیجہ جتنی عظمت و شان والا ہو گا وہ شے بھی اتنی ہی فضیلت والی ہوگی اور تم جان چکے ہو کہ علم کا اخروی فائدہ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَزَّوَجَلَّ کا قرب اور فرشتوں اور ملاءِ اعلیٰ (یعنی آسمانی مخلوق) سے مل جانا ہے جبکہ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ عزت و وقار میں اضافہ، بادشاہوں پر حکم کا نفاذ اور طبیعتوں میں ضروری طور پر احترام کرنا پایا جاتا ہے حتیٰ کہ ترکی کے گند ذہن اور عربوں کے سخت مزاج لوگ بھی طبیعتوں کے ہاتھوں اپنے بڑوں کی عزت و توقیر کرنے پر مجبور ہیں اس لئے کہ وہ تجربے سے حاصل ہونے والے زیادہ علم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں بلکہ جانور بھی طبعی تقاضوں کی وجہ سے انسان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا شعور ہے کہ انسان

کمال کی وجہ سے ان سے زیادہ درجے کا حامل ہے۔

یہ مطلق علم کی فضیلت ہے۔ پھر علوم مختلف ہیں جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ان کے فضائل بھی مختلف ہوں۔ علم سکھانے اور سیکھنے کی (منقولی) فضیلت تو اس سے ظاہر ہے جو ہم بیان کر آئے۔ (اور عقلی فضیلت یہ ہے کہ) جب علم افضل امور میں سے ہے تو اسے حاصل کرنا افضل کام کی جستجو کرنا اور سکھانا افضل کام کا فائدہ پہنچانا ٹھہرا۔

## بارگاہِ الہی تک رسائی کا ذریعہ:

مخلوق کو دینی و دنیوی دونوں طرح کی حاجات درپیش ہوتی ہیں۔ دنیا کا نظام چلے بغیر دین کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچانے کا ذریعہ اور اپنی منزل قرار دے یہ اسی کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نہ کہ اس کے لئے جو اسے اپنا مستقل ٹھکانا اور وطن بنالے۔ دنیا کا انتظام انسانوں کے اعمال سے ہی چلتا ہے اور انسانوں کے اعمال، پیشے اور صنعتوں کی تین قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... اصول جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ چار ہیں: (۱)..... زراعت: کھانے کے لئے۔  
 (۲)..... کپڑا بنائی: پہننے کے لئے ہے۔ (۳)..... تعمیر: رہائش کے لئے اور (۴)..... حکمت عملی و تدبیر: باہمی الفت، اتحاد اور اسبابِ معیشت کی مضبوطی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لئے بنیاد ہے۔

﴿2﴾..... وہ امور جو ان تمام صنعتوں کی تیاری کے کام آتے اور ان کے لئے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں: جیسے آہن گری (یعنی لوہار کا پیشہ) زراعت بلکہ دیگر صنعتوں کے بھی کام آتا ہے کہ کھیتی باڑی کرنے کے اوزار اسی سے تیار ہوتے ہیں اور جیسے رُوئی دھکننا اور دھاگے بنانا یہ دونوں کپڑا بننے کی صنعت میں کام آتے ہیں کہ اس کے لئے اشیاء تیار کرتے (یعنی سوت وغیرہ مہیا کرتے) ہیں۔

﴿3﴾..... وہ امور جو اصول کو پورا کرتے اور ان کی آرائش و زیبائش کرتے ہیں: جیسے آٹا اور روٹی زراعت کے لئے اور کپڑوں کی سفید کاری اور سلائی کا پیشہ کپڑے بنائی کے لئے۔

## انسانی اعضاء کی اقسام:

مذکورہ تین امور کی نسبت دنیا کے ضروری انتظام کی طرف ایسی ہے جیسی انسان کے اعضاء کی اس کے پورے

بدن کی طرف۔ کیونکہ اعضائے انسانی بھی تین طرح کے ہیں: (۱)..... اصول: جیسے دل، جگر، دماغ (۲)..... جو اصول کے خادم ہیں: جیسے معده، رگیں، شریانیں، پٹھے اور گردن کی رگیں (۳)..... انہیں مکمل کرنے والے اور ان کی زینت کا باعث بننے والے: جیسے ناخن، انگلیاں اور ابرو۔

ان تینوں میں افضل صنعت اصول (بنیاد) ہیں اور اصول میں افضل حکمت عملی اور تدبیر ہے جس سے لوگوں میں اُنس و محبت پیدا ہو اور ان کی اصلاح ہو۔ اسی لئے جیسا کمال اس صنعت والے کے لئے درکار ہوتا ہے دوسری صنعت والوں میں مطلوب نہیں ہوتا نیز اس صنعت کا مالک دوسری صنعت والوں سے خدمت لیتا ہے۔

## حکمت عملی کے مراتب:

مخلوق کی اصلاح چاہنے اور دنیا و آخرت میں نجات دینے والے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرنے والی حکمت عملی کے چار مراتب ہیں:

﴿۱﴾..... انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی حکمت عملی اور تدبیر: یہ سب سے بلند ہے۔ ان کا حکم ہر خاص و عام کے ظاہر و باطن پر چلتا ہے۔

﴿۲﴾..... خلفا اور بادشاہوں کی حکمت عملی: ان کا حکم بھی ہر عام و خاص پر جاری ہوتا ہے لیکن صرف ظاہر پر نہ کہ باطن پر۔

﴿۳﴾..... ذات باری تعالیٰ اور دین اسلام کا علم رکھنے والے وارثین انبیا کی حکمت عملی: ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہی چلتا ہے۔ عام لوگوں کی سمجھ ان سے استفادہ کرنے تک رسائی نہیں پاتی اور نہ ہی انہیں لوگوں کے ظاہر پر کوئی حکم نافذ کرنے یا کسی چیز سے منع کرنے یا کوئی حکم جاری کرنے کی قوت حاصل ہے۔

﴿۴﴾..... واعظین کی حکمت عملی: ان کا حکم صرف عوام کے باطن پر چلتا ہے۔

## نبوت کے بعد سب سے افضل عمل:

ان چاروں میں سے نبوت کے بعد سب سے افضل عمل، علم کا فائدہ پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو ہلاک کر دینے والی بری عادتوں سے پاک کرنا، اچھی اور باعث سعادت خصلتوں کی طرف ان کی راہنمائی کرنا ہے۔ علم سکھانے سے یہی مراد ہے۔ ہم نے اسے تمام صنعتوں اور پیشوں سے افضل اس لئے کہا کیونکہ کسی بھی صنعت و حرفت کی عظمت تین باتوں

سے پہچانی جاتی ہے: (۱)..... یا تو اس خصلت و فطرت کو دیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اس فن کی معرفت حاصل ہوتی ہے: جیسے علوم عقلیہ علوم لغویہ سے اس لئے افضل ہیں کہ حکمت کے حصول کا ذریعہ عقل ہے جبکہ لغت سماعی چیز ہے (یعنی اس کا تعلق قوت حسیہ سے ہے) اور عقل سماعت سے افضل ہے۔ (۲)..... یا نفع کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کا نفع زیادہ ہے: جیسے زراعت زرگری (سنار کے پیشے) کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (۳)..... یا اس جگہ محل کو دیکھا جاتا ہے جس میں تصرف ہوتا ہے: جیسے زرگری چڑارنگنے کے پیشے سے افضل ہے کیونکہ زرگری کا محل سونا ہے جبکہ چڑرا رنگنے کا محل مردار کی کھال ہے۔ نیز یہ بات ظاہر ہے کہ علوم دینیہ جو طریقی آخرت کو سمجھنے کا نام ہیں ان کا حصول کمال عقل اور ذہن کی صفائی کے ذریعے ہوتا ہے اور عقل انسانی صفات میں سے سب سے افضل ہے جیسا کہ اس کا بیان آگے آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت کو قبول کیا جاتا اور اسی سے قرب الہی تک رسائی ہوتی ہے۔ جہاں تک نفع عام ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کا نفع کثیر ہے کیونکہ اس کا نفع اور نتیجہ آخرت کی سعادت ہے اور رہا اس کے محل کا معزز ہونا تو یہ بات کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے کیونکہ معلم (یعنی علم سکھانے والا استاذ) انسانوں کے دلوں اور نفوس میں تصرف کرتا ہے نیز زمین پر موجود ہر چیز سے زیادہ شرف انسان کو حاصل ہے اور اس کے اعضاء میں سے سب سے افضل اس کا دل ہے اور معلم اس کی تکمیل کرنے، اسے روشنی پہنچانے، (گناہوں کی غلاظت سے) پاک و صاف کرنے اور قرب خداوندی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہے۔

## عبادت الہی اور خلافت الہی:

علم سکھانا ایک حیثیت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اور ایک اعتبار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خلافت ہے۔ بلکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بہت بڑی خلافت ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت (یعنی علم) کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عمدہ خزانوں کا خازن (خزانچی) ہے اور اسے خزانہ علم کو ہر محتاج علم پر صرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا اس سے بڑھ کر کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ بن کر بندوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دے اور جنت کی طرف لے جائے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان میں سے کر دے اور ہر نیک بندے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو۔ (امین)

## محمود و مذموم علوم اور ان کی اقسام و احکام

باب نمبر ۲:

اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کون سا علم فرض عین ہے اور کون سا فرض کفایہ؟ علم کلام اور علم فقہ کے علم دین ہونے کی کیا حد ہے؟ نیز علم آخرت کی کیا فضیلت ہے؟

### پہلی فصل: فرض عین علم کا بیان

معلم کائنات، شاہ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے: ”أَطْلَبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْلِ“ یعنی علم کی جستجو کرو اگر چہ چین میں ہو۔<sup>(۲)</sup>

### کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟

اس بات میں علما کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں ۲۰ گروہ ہیں۔ ہم تفصیل نقل کر کے کتاب کو طویل نہیں کرنا چاہتے، البتہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر گروہ نے اسی علم کو فرض کہا جس پر وہ خود کار بند ہے۔ چنانچہ،

متکلمین نے کہا: وہ علم کلام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی وحدانیت و یکتائی کا ادراک ہوتا اور اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

فقہانے کہا: وہ علم فقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے عبادات، حلال و حرام اور جائز و ناجائز معاملات کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے ان کی مراد وہ مسائل ہیں جن کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے نہ کہ نوپید شاذ و نادر مسائل۔

مفسرین و محدثین نے کہا: اس سے قرآن و سنت کا علم مراد ہے، کیونکہ انہیں کے ذریعے تمام علوم تک رسائی ہوتی ہے۔

①..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث..... الخ، الحدیث: ۲۲، ج ۱، ص ۱۴۶۔

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، الحدیث: ۱۶۶۴، ج ۲، ص ۲۵۴۔

صوفیاء نے کہا: اس سے مراد علم تصوف ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے کہا: وہ علم یہ ہے کہ بندہ اپنے حال کو جانے اور اللہ عزوجل کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ معلوم کرے۔

کسی نے کہا: وہ اخلاص، نفس کی آفات اور فرشتے کے الہام اور شیطان کے وسوسے کے درمیان فرق کرنے کا علم ہے۔ بعض نے لفظ کو اس کے عموم سے پھیرتے ہوئے کہا کہ وہ علم باطن ہے اور خاص قسم کے لوگوں پر فرض ہے جو اس کے اہل ہیں۔

حضرت سپیدنا ابوطالب کی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: اس سے مراد ان چیزوں کا علم ہے جنہیں وہ حدیث شامل ہے جس میں اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہے اور وہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا)۔“<sup>(۱)</sup>

چونکہ یہ پانچوں فرض ہیں اس لئے ان پر عمل کی کیفیت اور فرضیت کی کیفیت کا علم بھی فرض ہے۔ جس علم کے بارے میں علم حاصل کرنے والے پر واجب ہے کہ اس میں یقین رکھے اور شک نہ کرے یہ وہ ہے جسے ہم اب بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائیہ میں بھی بیان کیا کہ اس علم کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... علم معاملہ اور (۲)..... علم مکاشفہ: اس سے علم معاملہ ہی مراد ہے۔ نیز عاقل بالغ کو جس معاملے پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے وہ تین ہیں: (۱) اعتقاد (۲) فعل (یعنی کرنا) اور (۳) ترک (یعنی نہ کرنا)۔ لہذا عقل مند شخص اگر چاشت کے وقت احتلام ہونے یا (بلوغت کی) عمر پوری ہونے کے سبب بالغ ہوا<sup>(۲)</sup> تو اس پر سب سے پہلے یہ واجب ہوگا کہ وہ کلمہ شہادت

①..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الایمان..... الخ، الحدیث ۸، ج ۱، ص ۱۴۔

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 397 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 71، 72 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلبل محمد الیاس عطّار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: سوال: لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ جواب: بجز بی سن کے حساب سے 12 اور 15 سال کی عمر کے دوران جب بھی (جماع یا منث زنی وغیرہ کے ذریعے) انزال ہو یا سوتے میں احتلام ہو یا اُس کے جماع سے عورت حاملہ ہوگی تو اُس وقت بالغ ہو گیا اور اُس پر غسل فرض ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو بجز بی سن کے مطابق 15 برس کا ہوتے ہی بالغ ہو گیا۔ سوال: لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ جواب: بجز بی سن کے حساب سے 9 اور 15 سال کی عمر کے دوران احتلام ہو یا حیض آجائے یا حمل ٹھہر جائے تو بالغ ہوگی ورنہ بجز بی سن.....

سیکھے اور اس کے معنی سمجھے جو یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (یعنی: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس کے رسول ہیں) اس پر یہ واجب نہیں کہ اس میں غور و فکر، بحث اور دلائل لکھ کر وضاحت چاہے بلکہ اتنا کافی ہے کہ اس کی تصدیق کرے، اس کا اعتقاد رکھے اور اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرے اور یہ بات بغیر بحث و دلائل کے محض تقلید و سماع سے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عرب کے کندز ہنوں سے تصدیق اور اقرار کروانے پر اکتفا کیا دلیل نہیں سکھائی۔<sup>(۱)</sup>

لہذا جب اس نے کلمہ شہادت سیکھ کر اس کے معنی سمجھ لئے تو اس نے اس وقت کے واجب کو ادا کر دیا کیونکہ اس وقت اس پر صرف دو کلموں کو سیکھنا اور سمجھنا فرض عین ہے کچھ اور فرض نہیں۔ اس دلیل کی بنا پر کہ اگر وہ اس کی ادائیگی کے بعد مر گیا تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا مطیع و فرمانبردار ہو کر مرے گا نہ کہ نافرمان ہو کر۔ کوئی دوسرا امر اس وقت فرض ہوگا جب عوارض (کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا باعث بننے والے امور) پائے جائیں اور یہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے کہ بعض میں یہ عوارض نہ پائے جائیں۔

### عوارض کی اقسام اور مثالیں:

عوارض کی تین قسمیں ہیں: (۱) یا تو فعلیہ ہوں گے (یعنی ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا) (۲) یا ترکیبہ ہوں گے (یعنی ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہوگا) (۳) یا اعتقادیہ ہوں گے (کہ ان پر یقین رکھنا ضروری ہوگا)۔

**پہلے کی مثال:** (وقت چاشت بالغ ہونے والا) چاشت سے وقت ظہر تک زندہ رہا تو وقت ظہر داخل ہونے سے اس پر طہارت اور نماز کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے پھر اگر وہ تندرست ہے اور زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے گا تو وقت میں سیکھ کر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا بلکہ سیکھنے میں ہی وقت جاتا رہے گا تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا زندہ رہنا ظاہر ہے اس لئے اس پر فرض ہے کہ (ظہر کا) وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے ضروری مسائل سیکھ لے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ علم جو عمل کی شرط ہے عمل کے فرض ہونے کے بعد ہی فرض ہوگا اس لئے (طہارت اور نماز کے ضروری مسائل) زوال آفتاب سے پیشتر سیکھنا فرض نہیں۔ اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی ہوگا۔

..... کے مطابق 15 سال کی ہوتے ہی بالغ ہے۔ (ذُرِّمُخْتار، ج ۹، ص ۲۵۹، ملخصاً)

①..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ماجاء فی العلم..... الخ، الحدیث ۶۳، ج ۱، ص ۳۹۔



پھر اگر وہ ماہِ رمضان تک زندہ رہا تو سبب پائے جانے کی وجہ سے روزے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے اور وہ یہ کہ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ اس وقت میں بنیّتِ روزہ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا فرض ہے اور اس کی مدت عید کا چاند دیکھنے یا دو گواہوں کی گواہی تک ہے۔

پھر اگر اسے مال حاصل ہو یا بلوغت کے وقت اس کے پاس مال تھا تو یہ جاننا فرض ہے کہ اس مال پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے لیکن یہ اسی وقت فرض نہیں بلکہ اسلام لانے کے وقت سے سال پورا ہونے پر فرض ہوگا۔ اگر وہ صرف اونٹوں کا مالک ہے تو انہیں کی زکوٰۃ کا جاننا فرض ہوگا۔ اسی طرح مال کی دیگر اقسام میں بھی۔

پھر حج کے مہینے شروع ہونے پر فوری اس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہوگا کیونکہ حج کی ادائیگی عَلٰی التَّارِخِی (یعنی تاخیر سے) فرض ہے<sup>(۱)</sup> لیکن علما کو چاہئے کہ وہ اسے اس بات سے آگاہ کر دیں کہ حج ہر اُس شخص پر عَلٰی التَّارِخِی فرض ہے جو زائر اور سوار کا مالک ہو اور اس پر قادر بھی ہو کیونکہ بسا اوقات کوئی جلدی کرنے کی محتاط رائے رکھتا ہے۔ بہر حال جب وہ حج کا پختہ ارادہ کر لے گا تو اس پر حج کے فرائض و واجبات کا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا جبکہ نوافل کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں۔ اگر حج نفل ہو تو اس کا علم بھی نفل ہوگا اس وقت اسے سیکھنا فرض عین نہیں ہوگا اور یہ کہنا کہ ”اصل حج فوراً واجب ہے پر آگاہ نہ کرنا حرام ہے“ اس میں نظر (یعنی غور فکر کی ضرورت) ہے جس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ دیگر تمام فرض افعال میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔

دوسرے کی مثال: حالات کی تبدیلی کے مطابق تروک (یعنی جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے ان) کا علم سیکھنا فرض ہے اور یہ ہر شخص کی حالت کے پیش نظر مختلف ہے۔ چنانچہ، گونگے پر حرام باتوں کا علم سیکھنا فرض نہیں اور اندھے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے۔ جنگل میں رہنے والے پر یہ سیکھنا فرض نہیں کہ کن کن مجلسوں میں بیٹھنا حرام ہے کیونکہ تروک کا علم بھی حسبِ حال ہی فرض ہوتا ہے۔ الغرض جو چیزیں ضروریات (دین) سے نہیں ان کا علم سیکھنا

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت جلد اول، صفحہ 1036 پر صَدْرُ الشَّرِيعَةِ، بَدْرُ الطَّرِيقَةِ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ نقل فرماتے ہیں: ”جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اُسی سال میں اور اب تاخیر گناہ ہے اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مرد و مگر جب کرے گا ادائیگی ہے قضا نہیں۔“

فرض نہیں اور جن کے بارے میں معلوم ہو کہ بغیر اس کے چارہ نہیں اس کی آگہی حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ اسلام لاتے وقت کسی نے ریشم پہن رکھا تھا یا غصب شدہ زمین پر بیٹھا تھا یا غیر محرم کو دیکھ رہا تھا تو اسلام لاتے ہی اس پر فرض ہو جائے گا کہ وہ ان کا علم حاصل کرے اور جن کی اسے ابھی ضرورت نہیں لیکن عنقریب ضرورت پڑے گی جیسے کھانا پینا تو ان کے بارے میں بھی سیکھنا فرض ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں شراب پینے اور خنزیر کھانے کا رواج ہو تو اس پر (حسب استطاعت) فرض ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائے اور تنبیہ کرے۔ بہر حال ہر وہ کام جس کا سکھانا فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔

تیسرے کی مثال: اعتقادات اور اعمالِ قلب کا علم بھی قلبی خیالات کے مطابق فرض ہوگا۔ لہذا اگر کسی کے دل میں ان معانی کے بارے میں شک واقع ہو جن پر شہادت کے کلمے دلالت کرتے ہیں تو اس پر ان باتوں کا علم حاصل کرنا فرض ہوگا جن کے ذریعے شک زائل ہو۔ اگر کسی کو اس بات میں شک نہیں ہو اور وہ اس کا اعتقاد رکھے بغیر وفات پا گیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام قدیم ہے، اسے دیکھا جاسکتا ہے، وہ حوادث (یعنی تغیر پذیر امور) کا محل نہیں وغیرہ جنہیں عقائد کے باب میں ذکر کیا جائے گا تو بے شک بالاتفاق اس کی موت اسلام پر ہوئی۔ اعتقادات کے لئے ضروری قلبی خیالات بعض ایسے ہیں جو طبیعت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بعض شہر کے لوگوں سے سن کر۔ اگر کوئی ایسے شہر میں ہو جہاں علمِ کلام عام ہو اور لوگ بدعتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں تو بالغ ہوتے ہی سب سے پہلے اسے حق کی تلقین کر کے (بری) بدعتوں<sup>(۱)</sup> سے بچانا چاہئے کیونکہ اگر اس کے سامنے باطل کو پیش کر دیا گیا تو اس کے دل

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت کے صفحہ 1109 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہِہِ دَعْتِ کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو، جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ بدعتِ سنیہ یعنی بُری بدعت ہے جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو اور جس کی اصل دین سے ثابت ہو وہ بدعتِ حسنہ یعنی اچھی بدعت ہے۔“ (نیز) حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِیِّہِ حدیث پاک، ”وَسُئِلُ صَلَاةٌ فِی النَّارِ“ کے تحت فرماتے ہیں، جو بدعت کہ اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے (یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی) اُس کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعتِ ضالالت یعنی گمراہی والی بدعت کہلاتی ہے۔ (أَشْعَةُ اللَّمَعَاتِ، ج اول، ص ۱۳۵) نوٹ: مزید معلومات کے لئے فیضان سنت کے صفحہ 1104 تا 1113 کا مطالعہ کیجئے!

سے زائل کرنا فرض ہو جائے گا اور بعض اوقات یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر یہ مسلمان تاجر ہے اور شہر میں سود کا معاملہ بہت زیادہ ہے تو اس پر سود سے بچنے کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور فرضِ عین علم میں یہی حق ہے اور اس کا مطلب فرضِ عمل کے طریقے کو جاننا ہے۔ لہذا جس نے فرضِ عمل کا علم اور اس کا وقتِ فرضیت جان لیا تو بے شک اس نے فرضِ عین علم حاصل کر لیا۔

نیز صوفیا کا یہ قول کہ ”شیطان کے وسوسوں اور فرشتوں کے الہام کو سمجھنا بھی ضروری ہے“ یہ بھی حق ہے لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو صوفیا کے طریقے پر ہو۔

عام طور پر انسان شر کے دواعی (یعنی برائی کی طرف لے جانے والے امور)، ریا، حسد وغیرہ سے بچ نہیں پاتا اس لئے اس پر فرض ہے کہ مہلکات (یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں) میں سے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے اس کا علم حاصل کرے اور یہ کیونکر فرض نہ ہوگا۔

### ہلاکت میں ڈالنے والے امور:

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”تین چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں: ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔“<sup>(۱)</sup> ان سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ہم عنقریب دل کے باقی مذموم احوال (بری حالتیں) بیان کریں گے جیسے تکبر، عجب اور اس کی مثل دوسرے احوال جو ان تین مہلکات کے تابع ہیں جن کا ازالہ فرضِ عین ہے اور ان کی تعریفات، اسباب، علامات اور علاج جانے بغیر ان کا ازالہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو برائی کو نہیں پہچانتا وہ اس میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ ہر سبب کا اس کی ضد سے مقابلہ کیا جائے اور یہ سبب اور مسبب کی پہچان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مہلکات کے بیان میں اکثر فرضِ عین علوم نقل کئے ہیں جبکہ کئی لوگوں نے لایعنی امور میں مشغول ہو کر انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔

وہ شخص کہ جو ایک دین سے دوسرے دین میں داخل نہ ہو (بلکہ کفر سے اسلام میں آیا ہو) تو اسے جنت، دوزخ،

①.....مسند البزار، مسند عبداللہ بن ابی اوفی، الحدیث: ۳۳۶، ج ۸، ص ۲۹۵۔

المعجم الاوسط، الحدیث: ۵۷۵۴، ج ۴، ص ۲۱۳۔

حشر و نشر پر ایمان لانے کے بارے میں تعلیم دینے میں جلدی کرنی چاہئے تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق کرے۔ یہ شہادت کے دو کلموں کی تکمیل ہے۔ کیونکہ حضور سید عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو رسول مان لینے کے بعد رسالت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت کی اس کے لئے جنت ہے اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جب بتدریج تمہیں ان باتوں پر آگہی حاصل ہو گئی تو جان لو کہ یہی مذہبِ حق ہے اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ دن اور رات کے احوال میں کوئی بھی شخص عبادات اور معاملات میں نئے مسائل سے خالی نہیں تو اس پر لازم ہے کہ جو مسئلہ واقع ہو اس کے بارے میں سوال کرے اور عنقریب واقع ہونے والے مسائل کا علم حاصل کرنے میں بھی جلدی کرے۔

مذکورہ تمام بحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول خدا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان عالیشان: ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“<sup>(۱)</sup> میں الْعِلْم سے اس عمل کا علم مراد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مسلمانوں پر فرض ہے نہ کہ کچھ اور، نیز وجہ تدریج اور وقت و جو ب بھی خوب روشن ہو گئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جاننے والا ہے۔

### ..... تعریف اور سعادت ..... ❁

حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ اور اس کے رسول عَزَّوَجَلَّ و صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی فرمانبرداری کرتا ہے دُنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔“

(تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۱، ج ۴، ص ۳۸۸)

①..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فضل العلماء والحث..... الخ، الحدیث: ۲۴، ج ۱، ص ۱۴۶۔

## فرض کفایہ علم کا بیان

دوسری فصل:

جان لو! علوم کی اقسام ذکر کئے بغیر فرض علوم کو ان کے غیر سے ممتاز نہیں کیا جاسکتا اور علم کی نسبت فرض کی طرف کی جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں: (۱) علوم شرعیہ اور (۲) غیر شرعیہ، شرعیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے حاصل کئے گئے ہیں عقل ان کی طرف راہنمائی نہیں کرتی جیسا کہ حساب اور نہ تجربہ اس کی جانب راہنمائی کرتا ہے جیسے طب اور نہ ہی وہ سماع سے حاصل ہوتے ہیں جیسے لغت۔

## غیر شرعی علوم کی اقسام:

اس کی تین قسمیں ہیں: محمود، مذموم اور مباح۔

﴿1﴾ ..... محمود علوم: وہ ہیں جن سے دنیوی کاموں کی مصلحتیں وابستہ ہیں مثلاً طب اور حساب۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں: فرض کفایہ اور مستحب۔ (۱) فرض کفایہ: وہ علم جس کے بغیر دنیا کے کاموں کا انتظام نہ ہو سکے جیسا کہ طب کیونکہ یہ بدنوں کی بقا کے لئے ضروری ہے اور حساب کیونکہ یہ معاملات، وصیتوں اور ترکے وغیرہ کی تقسیم میں ضروری ہے۔ یہ وہ علوم ہیں کہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی انہیں حاصل نہ کیا تو پورے شہر والے گنہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے سیکھ لیا تو کافی ہے دوسروں سے فرض ساقط ہو جائے گا اور ہمارے اس قول سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہئے کہ ”طب اور حساب فرض کفایہ ہیں۔“ کیونکہ صنعتوں کے اصول بھی فرض کفایہ علوم میں سے ہیں جیسا کہ کاشت کاری، کپڑا بنائی اور حکمت عملی و تدبیر بلکہ چھپنے لگانا اور کپڑا اسلامی بھی۔ کیونکہ اگر سارے شہر میں کوئی بھی چھپنے لگانے والا نہیں ہوگا تو ہلاکت ان کی طرف جلدی کرے گی اور وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے کیونکہ جس نے بیماری نازل کی ہے اس نے اس کی دوا بھی اتاری ہے اور اسے استعمال کرنے کی راہنمائی بھی فرمائی ہے اور اسے حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کئے ہیں اس لئے انہیں چھوڑ کر ہلاکت سر لینا جائز نہیں۔

(۲) مستحب: حساب کی باریکیوں اور طب کی حقیقتوں میں غوطہ زنی کرنا (یعنی گہرائی میں جانا) ہے اور ان کے علاوہ وہ چیزیں جن کی حاجت تو نہیں لیکن جتنی مقدار کی حاجت ہے اس میں اضافی قوت کے لئے مفید ہیں ان کے بارے میں جانا بھی مستحب ہے۔

﴿2﴾..... مذموم علوم: جیسے جادو، کرشمات، شعبدہ بازی اور تلیسیات کا علم۔

﴿3﴾..... مباح علوم: جیسے ان اشعار کا علم جو بے ہودہ نہ ہوں اور تواریخ وغیرہ کا علم۔

## علوم شرعیہ کی اقسام:

جہاں تک علوم شرعیہ کا تعلق ہے اور یہی ہمارے بیان کا مقصود ہے یہ تمام کے تمام محمود ہیں لیکن کبھی ان میں شبہ ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ ہیں حالانکہ وہ مذموم ہوتے ہیں۔ چنانچہ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں: (۱)..... محمودہ (۲)..... مذمومہ۔ علوم شرعیہ محمودہ کے کچھ اصول (بنیاد)، فروع (جزئیات)، مقدمات (یعنی آلات کے قائم مقام اشیاء) اور مَتَمِّمَات ہیں (یعنی وہ علوم جو مکمل کرنے والے ہیں) یوں اس کی چار قسمیں ہوں گی:

پہلی قسم اصول: یہ چار ہیں: (۱) کِتَابُ اللّٰہ (۲) سُنَّتِ رَسُوْل (۳) اِجْمَاعِ اُمَّت اور (۴) اَثَارِ صَحَابہ۔

اجماع اس اعتبار سے اصل ہے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے اور وہ تیسرے درجے کا اصل ہے اسی طرح اثر کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن نے وحی و تنزیل کے مشاہدے کئے اور احوال کے قرآن سے ان باتوں کو جان لیا جو ان کے علاوہ دوسروں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کبھی عبارات ان باتوں کا احاطہ کرنے سے قاصر رہتی ہیں جو قرآن سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔ اسی لئے علما کی رائے یہ ہے کہ ان کی اقتدا کی جائے اور ان کے آثار کو مضبوطی سے تھاما جائے اور جنہوں نے انہیں دیکھا ان کے نزدیک یہ خاص شرط کے ساتھ خاص صورت پر ہیں لیکن اس کا بیان اس فن کے لائق نہیں۔

دوسری قسم فروع: اس سے مراد وہ ہیں جو بیان کردہ اصولوں سے سمجھے جائیں۔ اصولوں کے الفاظ کے تقاضے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان معانی کی وجہ سے جن پر عقلمیں آگاہ ہوں تو اس کے سبب مفہوم وسیع ہو گیا یہاں تک کہ بولے گئے لفظ سے وہ باتیں بھی معلوم ہو گئیں جن کے لئے لفظ کو نہیں لایا گیا جیسا کہ اس فرمان مصطفیٰ کہ ”قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔“<sup>(۱)</sup> سے سمجھا گیا ہے کہ وہ خوف زدہ ہونے یا بھوکا ہونے یا کسی مرض میں مبتلا ہونے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک کا تعلق دنیوی منافع سے ہے۔ کتب فقہ اس پر مشتمل اور فقہا اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ علمائے دنیا ہیں۔ دوسری کا تعلق آخرت کے منافع سے ہے اور یہ قلبی احوال، اچھے برے

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب لایحکم الحاکم وهو غضبان، الحدیث: ۲۳۱، ج ۳، ص ۹۳۔

اخلاق اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور کا علم۔ ”اَحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ“ کا نصف اخیر اسی پر مشتمل ہے جبکہ نصف اول ان امور کے علم پر مشتمل ہے جو عبادات اور عادات میں دل سے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔

تیسری قسم مقدمات: یہ وہ ہیں جو آلات کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ علم لغت و نحو کہ یہ دونوں کِتَابُ اللّٰہ اور سنت رسول کے علم کے لئے آلہ ہیں۔ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم میں سے نہیں، البتہ ان میں غور و خوض سبب شرعی کی وجہ سے لازم ہے کیونکہ شریعت لغت عرب پر اُتری ہے اور کوئی بھی شریعت لغت کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی اس لئے لغت کو سیکھنا آلہ بن گیا۔ لکھنے کا علم بھی آلات کی قسم میں سے ہے مگر اس کا سیکھنا ضروری نہیں کیونکہ رسول خدا صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُمی تھے (یعنی آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھا، لکھا نہیں یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے) (۱) اور اگر مستقل طور پر جو سنا جائے اسے زبانی یاد کر لینا ممکن ہوتا تو لکھنے کی حاجت نہ پڑتی لیکن بدابہتہ غالب اکثریت اس سے عاجز ہے۔

چوتھی قسم مَتَمِّمَات: یہ علم قرآن سے متعلق ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱)..... وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے جیسا کہ قرأتیں اور مخارج حروف سیکھنا۔

(۲)..... وہ جس کا تعلق معانی سے ہے جیسا کہ تفسیر۔ اس میں بھی نقل ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ محض لغت

تفسیر بتانے میں مستقل نہیں۔

(۳)..... وہ جس کا تعلق احکام قرآن سے ہے جیسا کہ ناسخ و منسوخ، عام و خاص اور نص و ظاہر کی پہچان نیز ان

میں سے بعض کو بعض کے ساتھ استعمال کرنے کا طریقہ۔ یہی وہ علم ہے جسے اصول فقہ کہا جاتا ہے اور یہ سنت کو بھی شامل ہے۔

آثار و اخبار میں مَتَمِّمَات علم رجال ہے یعنی راویوں کے بارے میں جاننا، ان کے نام، ان کے نسب، صحابہ کرام رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے نام، ان کا تعارف، راویوں میں عدالت اور ان کے احوال کا علم تاکہ ضعیف کو قوی سے ممتاز کیا جاسکے، ان کی عمروں کا علم تاکہ مرسل و مسند میں فرق کیا جاسکے اور اسی طرح وہ علوم جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ یہ علوم شرعیہ ہیں اور تمام کے تمام محمود ہیں بلکہ سب کے سب فرض کفایہ علوم میں سے ہیں۔

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی بعد التشہد، الحدیث: ۹۸، ج ۱، ص ۳۶۹۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمرو، الحدیث: ۶۲۱، ج ۲، ص ۵۸۱۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ تم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہا کو علمائے دنیا کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ تو جان لو! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور آپ کی اولاد کو چنی ہوئی مٹی اور اچھلتے پانی سے نکالا پھر پشتوں (باپوں کی پیٹھوں) سے (ماؤں کے) رحموں میں، رحموں سے دنیا میں، دنیا سے قبر میں، قبر سے محشر میں پھر محشر سے جنت یا دوزخ کی طرف بھیجے گا۔ یہ ہے ان کی ابتدا و انتہا اور منزلیں۔ دنیا کو آخرت کی تیاری کے لئے پیدا فرمایا تاکہ دنیا سے وہ لیا جائے جو سفر آخرت کے لئے زادِ راہ بن سکے۔ لہذا اگر لوگ عدل و انصاف کے ساتھ دنیا سے لیتے تو نہ جھگڑوں کی نوبت آتی اور نہ ہی فقہا کی ضرورت پیش آتی لیکن انہوں نے خواہشات کے مطابق لیا جس سے جھگڑوں نے جنم لیا تو بادشاہ کی ضرورت پڑی جو ان کے معاملات سنبھالے اور بادشاہ کو قانون کی ضرورت پڑی جس کے مطابق وہ لوگوں کا انتظام کرے پس فقیہ قانون سیاست کا عالم اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہے۔ جب لوگوں میں خواہشات کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو فقیہ بادشاہ کو لوگوں کے معاملات کو سنبھالنے اور کنٹرول کرنے کے طریقے بتاتا ہے تاکہ وہ ان کے دنیوی معاملات کا صحیح انتظام کر سکے۔

میری زندگی کی قسم! اس کا تعلق بھی دین سے ہے لیکن فی نفسہ (یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے) نہیں بلکہ دنیا کے واسطے سے۔ کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دین دنیا ہی سے مکمل ہوتا ہے، سلطنت اور دین ایک ہی ہیں۔ دین اصل ہے اور بادشاہ نگہبان۔ جس کی اصل نہ ہو وہ گر جاتا ہے اور جس کا کوئی محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نیز ملک اور اس کا انتظام سلطان کے بغیر نہیں چل سکتا اور جھگڑوں کے فیصلوں میں کنٹرول کا طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ جس طرح سلطنت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح و بہتری کے طریقے جاننا کا حکم ہے جو پہلے درجے کا علم دین نہیں بلکہ یہ اس پر معین و مددگار ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اسی طرح سیاست کے طریقے جاننے کا حکم ہے۔

## علم فقہ کا حاصل:

چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اگر راستے میں عرب کے (راہزنوں سے بچاؤ کے لئے) محافظین نہ ہوں تو حج مکمل نہیں ہو سکتا لیکن حج اور شے ہے اور اس کے لئے راستہ طے کرنا دوسری شے اور جن حفاظتی اقدامات کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا



ان کا قیام تیسری شے ہے اور حفاظت کے طریقوں، تدبیروں اور قوانین کا جاننا چوتھی شے ہے۔ تو فنِ فقہ کا حاصل یہ ہے کہ سیاست اور حفاظت کے طریقے جانے جائیں۔ اس پر وہ حدیثِ دلالت کرتی ہے جو مسندِ مروی ہے کہ لوگوں کو فتوے نہیں دیتے مگر تین طرح کے لوگ: امیر، مامور یا مُتکَلِّف۔<sup>(۱)</sup>

امیر سے مراد حاکم ہے اور یہی فتویٰ دیتے تھے اور مامور سے مراد اس کا نائب ہے اور متکلف ان دونوں کے علاوہ ہے اور یہ وہ ہے جو بلا ضرورت اس عہدے کی خواہش کرتا ہے حالانکہ صحابہ کرام رَضَوُا اللّٰهَ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ فتویٰ دینے سے بچتے تھے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ والے کی طرف پھیر دیتا اور جب ان سے راہِ آخرت یا علمِ قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا تو احتراز نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں اَلْمُتکَلِّف کے بجائے المرائی (یعنی ریاکار) ہے کیونکہ جو فتوے کے خطرے کو سہل لیتا ہے جبکہ وہ اس کے لئے خاص بھی نہیں تو لامحالہ فتویٰ دینے سے اس کا مقصود حُبِّ جاہ و مال ہی ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ تمہاری یہ تقریر زخموں، حدود اور تاوان کے احکام اور جھگڑوں کے فیصلوں میں تو درست ہو سکتی ہے لیکن عبادات یعنی نماز، روزے اور عادات و معاملات یعنی حلال و حرام کے احکام کے بیان میں درست نہیں۔ تو جان لو! فقیہ جن اعمال کے بارے میں کلام کرتا ہے ان میں اعمالِ آخرت کے سب سے زیادہ قریب تین اعمال ہیں: (۱) اسلام (۲) نماز و زکوٰۃ اور (۳) حلال و حرام۔ جب تم ان اعمال میں فقیہ کی انتہائی نظر کو ملاحظہ کرو گے تو یہ بات جان لو گے کہ فقیہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف نہیں بڑھتا اور جب تم نے ان تین اعمال میں اس بات کو جان لیا تو ان کے علاوہ اعمال میں تو یہ زیادہ ظاہر ہے۔

اسلام: میں فقیہ صرف اس بارے میں کلام کرتا ہے کہ کس کا اسلام درست ہے اور کس کا نہیں؟ اور اسلام کی شرطیں کیا ہیں اور اس میں وہ صرف زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے دل تو اس کے اختیار میں نہیں کیونکہ کئی مدنی سرکار صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے تلوار اور سلطنت والوں کو اس سے الگ کر دیا ہے جیسا کہ جب جنگ کے دوران ایک شخص

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عوف بن مالک، الحدیث ۲۴۰۲، ج ۹، ص ۲۵۳۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۸۔

نے کلمہ پڑھا تو صحابی نے اس بنا پر اسے قتل کر ڈالا کہ اس نے یہ کلمہ تلوار کے خوف سے پڑھا ہے۔ جب دربار رسالت میں یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا: ”هَلَّا شَقَّقْتَ عَنْ قَلْبِهِ یعنی کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟“<sup>(۱)</sup> بلکہ فقیہ تلواروں کے سائے میں بھی اسلام کے صحیح ہونے کا حکم دے گا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار نہ تو اس کی نیت کو ظاہر کرتی ہے اور نہ ہی اس کے دل سے جہالت و ترڈ و کا پردہ ہٹاتی ہے۔ البتہ وہ تلوار والے کو اشارہ دیتا ہے کیونکہ تلوار اس کی گردن کی طرف اور ہاتھ اس کے مال کی طرف بڑھے ہوتے ہیں اور زبان سے یہ کلمہ کہہ دینا اس کی گردن اور مال کو بچا لیتا ہے جب تک اس کی گردن اور مال رہتے ہیں اور یہ صرف دنیا میں ہے۔ اسی لئے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ کہیں۔ جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور اموال بچالیں گے۔<sup>(۲)</sup> لہذا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا اثر خون اور مال میں رکھا جبکہ آخرت میں اموال نہیں بلکہ دلوں کے انوار و اسرار اور اخلاص نفع دیں گے اور ان چیزوں کا تعلق فقہ سے نہیں۔ اگر فقیہ اس میں غور و فکر کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے وہ علم کلام اور طب میں غور و خوض کرتا ہے اور اپنے فن سے نکل جائے گا۔

نماز: کے معاملے میں بھی فقیہ صحیح ہونے کا حکم دے گا جب تک نماز پڑھنے والا اسے ظاہری شرائط کے ساتھ اعمال کی صورت میں ادا کرے گا اگرچہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ از اوّل تا آخر پوری نماز میں غافل رہے اور بازار کے معاملات میں غور و فکر کرتا رہے۔ حالانکہ آخرت میں ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ اسلام میں صرف زبانی قول نفع نہیں دیتا۔ البتہ فقیہ صحیح ہونے کا ہی حکم دے گا یعنی جو عمل اس نے کیا اس سے حکم پر عمل ہو گیا اور اس سے قتل اور تعزیر کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ رہا خشوع و خضوع کا معاملہ تو یہ اُخروی عمل ہے۔ ظاہری عمل کا فائدہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، فقیہ کو اس سے غرض نہیں ہوتی اور اگر وہ اس کے درپے ہوگا تو اپنے فن سے نکلنے والا کہلائے گا۔

یونہی زکوٰۃ: کے معاملے میں فقیہ یہ دیکھے گا کہ اس شخص سے حاکم کا مطالبہ کیسے ختم ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی اور حاکم نے زبردستی زکوٰۃ وصول کر لی تو فقیہ اسے زکوٰۃ سے بری الذمہ ہونے کا حکم دے گا۔

①..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب السير، باب قول المشرك لا اله الا الله، الحديث: ۸۵، ج ۵، ص ۱۷۶۔

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله، الحديث: ۹، ص ۶۳۔

②..... سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، الحديث: ۳۹۷، ص ۶۵۰۔

## تقویٰ کے مراتب:

اور جہاں تک حلال و حرام کی بات ہے تو حرام سے بچ کر تقویٰ اختیار کرنا دین سے ہے لیکن اس ورع و تقویٰ کے 4 درجے ہیں:

﴿1﴾..... ظاہری حرام سے بچنا: یہ وہ تقویٰ ہے جو عدالت و شہادت میں شرط ہے اسے ترک کرنے کے سبب انسان قضا و شہادت اور ولایت کی اہلیت سے نکل جاتا ہے۔

﴿2﴾..... صالحین کا تقویٰ: یہ ان شہادت سے بچنے کا نام ہے جن میں احتمالات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کرو۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے: ”گناہ دلوں میں کھٹکتا ہے۔“ (۲)

﴿3﴾..... پرہیزگاروں کا تقویٰ: یہ خالص حلال کو ترک کر دینے کا نام ہے جس کے بارے میں خوف ہو کہ وہ حرام کی طرف لے جائے گا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”آدمی اس وقت تک پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں اس خوف سے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں حرج ہے۔“ (۳)

اس کی مثال: لوگوں کے احوال کے بارے میں اس لئے گفتگو کرنے سے گریز کرے کہ کہیں اس کی وجہ سے غیبت میں نہ پڑ جائے اور خواہشات کے مطابق کھانے سے اس خوف سے باز رہے کہ کہیں طبیعت میں تکبر و نشاٹ نہ آجائے اور وہ ممنوعات میں نہ جا پڑے۔

﴿4﴾..... صدیقین کا تقویٰ: یہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا ہر چیز سے کنارہ کش ہو جانے کا نام ہے اس خوف سے کہ کہیں

①..... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، الحديث: ۲۵۲، ج ۴، ص ۲۳۲۔

②..... المعجم الكبير، الحديث: ۸۷۴، ج ۹، ص ۱۴۹۔

شعب الايمان للبيهقي، باب في تحريم الفروع، الحديث: ۵۲۳، ج ۴، ص ۳۶۷۔

③..... سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، الحديث: ۲۲۱، ج ۴، ص ۴۷۵۔

زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب میں اضافے کا فائدہ نہ دے۔ اگرچہ وہ جانتا ہے کہ یہ اسے حرام کی طرف نہیں لے جائے گا۔

پہلے دَرَجے کے علاوہ بقیہ تینوں فقیہ کی نظر و فکر سے خارج ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو شہادت و قضا کا تقویٰ ہے جو عدالت اور اس کے قیام میں عیب ہے۔ یہ آخرت میں گناہ ہونے کے منافی نہیں۔

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا وابصہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو اگرچہ لوگ تمہیں (کچھ) فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تمہیں (کچھ) فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تمہیں (کچھ) فتویٰ دیں۔“<sup>(۱)</sup>

اور فقیہِ خطراتِ قلب اور ان پر عمل کی کیفیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ فقط اس چیز کے بارے میں کلام کرتا ہے جو عدالت میں عیب ہو۔ مختصر یہ کہ فقیہ کی نظر دنیا کے معاملات سے وابستہ ہوتی ہے جس سے راہِ آخرت بہتر ہو اور اگر وہ دل کی صفات اور احکامِ آخرت میں کچھ کلام کرے تو یہ ضمناً اس کے کلام میں داخل ہوگا جس طرح اس کی گفتگو میں طب، حساب، نجوم اور علمِ کلام داخل ہو جاتے ہیں اور جس طرح نحو و شعر میں حکمت داخل ہو جاتی ہے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”علم حدیث<sup>(۲)</sup> کی طلب زواہرِ آخرت سے نہیں۔“<sup>(۳)</sup> اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تمام علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضیلت اسی علم کی ہے جس پر عمل کیا جائے تو پھر کیونکر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ظہار، لعان، سلم، اجارہ اور صرف کا علم ہے اور جس نے ان امور کو اس نیت سے سیکھا کہ ان کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کر لے گا تو وہ پاگل ہے۔ عبادات میں عمل کا تعلق تو صرف دل اور اعضاء سے ہی ہے اور فضیلت بھی انہی اعمال کی ہے۔

①.....المسند لامام احمد بن حنبل، حدیث وابصہ بن معبد، الحدیث: ۱۸۰۲، ج ۶، ص ۲۹۳۔

②..... کیونکہ ایسے شخص کے دل پر اسناد کی محبت اور کثرتِ روایت غالب آ جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ضعیف اور غیر مستند راویوں سے بھی روایت کرتا ہے۔

(اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الثانی، ج ۱، ص ۲۵۱)

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی الثلاثون: کتاب العلم و تفضیلہ، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۳۳۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ فقہ اور طب کو برابر کیوں کر دیا جبکہ طب کا تعلق بھی دنیا سے ہے اور اس سے آدمی کے بدن کی تندرستی ہے اور بدن کی تندرستی سے بھی دین کی بہتری کا تعلق ہے اور یہ برابری مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں برابری لازم نہیں آتی بلکہ ان کے درمیان فرق ہے۔

## فقہ کی طب پر فضیلت:

فقہ تین وجہ سے طب سے افضل ہے:

- ﴿1﴾..... فقہ علم شرعی ہے کیونکہ یہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے حاصل ہوتا ہے جبکہ طب علم شرعی نہیں۔
  - ﴿2﴾..... راہِ آخرت کے سالکین میں سے کوئی بھی علم فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا نہ مریض اور نہ ہی تندرست جبکہ علم طب کی حاجت صرف بیماروں کو ہوتی ہے اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔
  - ﴿3﴾..... علم فقہ علم طریقِ آخرت کے مشابہ ہے کیونکہ اس میں اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کی بنیاد اور مقصد صفاتِ قلب ہیں۔ لہذا عمدہ اعمال وہ ہیں جو آخرت میں نجات دلانے والی اچھی صفات سے صادر ہوں اور برے وہ جو بری صفات سے صادر ہوں اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہر حال تندرستی اور بیماری کا منشا طبیعت کا نکھار اور خلط ملط ہو جانا ہے اور یہ بدن کے اوصاف ہیں نہ کہ دل کے۔ لہذا جب فقہ کی نسبت طب کی طرف کی جائے تو فقہ کی فضیلت عیاں ہوتی ہے اور جب علم طریقِ آخرت کی نسبت فقہ کی طرف کی جائے تو علم طریقِ آخرت کی فضیلت ظاہر ہو جاتی۔
- اب اگر تم کہو کہ علم طریقِ آخرت کی ایسی تفصیل بیان کر دیجئے کہ اس کے عنوانات کی طرف اشارہ ہو جائے اگرچہ اس کی مکمل تفصیل بیان نہیں کی جاسکتی۔

تو جان لو کہ علم طریقِ آخرت کی دو قسمیں ہیں:

(۲)..... علم معاملہ۔

(۱)..... علم مکاشفہ

## تیسری فصل: علم طریق آخرت کی اقسام

پہلی قسم: علم مکاشفہ ہے اور یہ علم باطن ہے جو تمام علوم کی انتہا ہے۔ چنانچہ، ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ ”جسے اس علم سے حصہ نہیں ملا مجھے اس کے برے خاتمے کا خوف ہے اور اس کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اسے سچا جانے اور اس کے اہل کو تسلیم کرے۔“ (۱)

ایک اور عارف کا قول ہے کہ ”جس میں دو (بری) خصلتیں بدعت اور تکبر ہوں گی اسے اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔“ (۲)

منقول ہے کہ جو دنیا سے محبت یا خواہش پر اصرار کرے گا وہ اس علم کی حقیقت نہیں پاسکے گا (۳) اگرچہ باقی تمام علوم میں مہارت حاصل کر لے اور اس کا انکار کرنے والے کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ چکھ پائے گا۔ اسی پر یہ شعر کہا گیا ہے:

وَأَرْضٍ لَمَنْ غَابَ عَنْكَ غَيْبَتَهُ  
فَذَاكَ ذَنْبٌ عَقَابُهُ فِيهِ

ترجمہ: جو تجھ سے پوشیدہ ہے اس کے پوشیدہ رہنے پر راضی رہ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اسی میں ہے۔

## علم مکاشفہ کا نور جب دل میں ظاہر ہوتا ہے تو!

علم مکاشفہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے جو اس نور کا نام ہے جو دل میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اسے تمام بری صفات سے پاک و صاف کر لیا جائے اور اس سے کثیر امور ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ان کے نام سنا کرتا تھا پھر ان کے لئے غیر واضح اور مختصر معانی کا تصور قائم کرتا تھا اور (اس نور کے دل میں ظاہر ہونے کے بعد) اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی باقی رہنے والی کامل صفات، اس کے افعال کی معرفت حاصل ہوتی اور دنیا و آخرت کو پیدا کرنے میں اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے آخرت کو دنیا پر کیوں مُرتب کیا ہے۔ نبوت اور نبی، وحی اور شیطان، لفظ ملائکہ اور شیاطین کے معانی معلوم ہوتے ہیں۔ شیاطین انسانوں سے کس طرح دشمنی کرتے ہیں۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۴۔

②..... المرجع السابق۔

③..... المرجع السابق۔

فرشتے نبیوں کے سامنے کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کے عجائبات، دل کی معرفت، فرشتوں کے لشکر اور شیطانوں کے گروہ دل کے معاملے میں کیسے جھگڑتے ہیں۔ فرشتے کے الہام اور شیطان کے وسوسے میں کیا فرق ہے۔ آخرت، جنت و دوزخ، عذابِ قبر، پل صراط، میزان اور حساب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ان ارشادات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ (چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

اِقْرَأْ كِتَابَكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝۱۵ (پ ۱۵، یعنی اسرائیل: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ (اعمال) پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۴ (پ ۲۱، العنکبوت: ۶۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے۔

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات، دیدارِ الہی، اس کا قرب پانے اور اس کے جو رحمت میں آنے، مقرب فرشتوں کی رفاقت اور انبیاء و ملائکہ سے ملاقات کی سعادت ملنے اور جنیتوں کے درجات میں تفاوت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض جنتی بعض کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان کے بیچ میں چمکتا ستارہ دکھائی دیتا ہے ان کے علاوہ اور بے شمار معلومات جن کی بڑی تفصیل ہے کیونکہ ان امور کے اصول کی تصدیق کے بعد انہیں سمجھنے میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ چنانچہ، بعض کا خیال ہے کہ ”یہ تمام مثالیں ہیں اور جو انعامات اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار فرمائے ہیں انہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ مخلوق کے لئے سوائے صفات اور ناموں کے جنت میں سے کچھ نہیں ہے۔“ بعض کا اعتقاد ہے کہ ”ان میں سے کچھ تو مثالیں ہیں اور کچھ الفاظ سے سمجھے جانے والے حقائق کے موافق ہیں۔“ بعض کا یہ گمان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت کی حد یہ ہے کہ ”اس کی معرفت سے عاجز ہونے کا اقرار کر لیا جائے۔“ بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت کی انتہا وہ ہے جہاں تمام عوام کے اعتقاد کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ موجود ہے۔ عالم ہے۔ قادر ہے۔ سنتا، دیکھتا اور کلام فرماتا ہے۔“ (۱)

①.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی الایمان باللہ، الحدیث: ۱۲، ج ۱، ص ۱۳۶۔

## علم مکاشفہ سے مقصود:

علم مکاشفہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ پردہ اٹھ جائے اور ان امور میں حق کھل کر ایسا واضح ہو جائے گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور اگر آئینہ دل دنیا کی گندگیوں کے بجوم سے ناپاک اور زنگ آلود نہ ہو تو یہ چیز انسان کے جوہر (یعنی ذات) میں ممکن ہے اور علم طریق آخرت سے ہماری مراد یہی ہے کہ ایسا طریقہ بنا جائے جس سے دل کا آئینہ ان تمام خباثتوں سے پاک و صاف ہو کر چمک اٹھے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور افعال کی معرفت میں حجاب ہیں۔

## آئینہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ:

آئینہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ خواہشات سے رُک جائے اور انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے تمام احوال میں ان کی پیروی کرے۔ جس قدر دل کی صفائی ہوتی جائے گی اور اس میں حق کا حصہ آتا جائے گا اسی قدر اس میں حقائق چمک اٹھیں گے اور یہ اس ریاضت کے بغیر نہیں ہو سکتا جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ علم و تعلیم بھی اس کا ذریعہ ہیں۔ یہ علوم کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان علوم میں سے کچھ انعام فرمایا ہو وہ انہی لوگوں کو بیان کرتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں اور وہ گفتگو کے ذریعے اور رازدار بن کر اس میں شریک ہوتا ہے اور یہی وہ مخفی علم ہے جو سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اس فرمان سے مراد ہے کہ ”بے شک کچھ علوم چھپے خزانوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جب وہ ان علوم کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دھوکے میں رہنے والے ہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا تم ایسے کسی عالم کو حقیر نہ جانو جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان علوم میں سے کچھ عطا فرمایا ہو کیونکہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ یہ علم عطا فرماتا ہے اسے حقیر نہیں رہنے دیتا۔“ (۱)

## برے افعال کی بنیادیں اور نیک اعمال کا سرچشمہ:

(علم طریق آخرت کی) دوسری قسم: علم معاملہ ہے اور یہ دل کے احوال کا علم ہے۔ ان احوال میں جو اچھے ہیں:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج، ص ۲۹۶۔



جیسے صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، زہد، تقویٰ، قناعت، سخاوت، ہر حال میں اللہ عزوجل کے احسانات کو پہچانا، احسان، حسن ظن، حسن اخلاق، حسن معاشرت، سچائی، اخلاص، ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت، تعریفات اور جن اسباب سے یہ حاصل ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ، علامت، ان میں جو کمزور ہو اس کا علاج کہ جس سے وہ قوی ہو جائے اور جو ختم ہو چکے وہ حاصل ہو جائیں ان تمام باتوں کی معرفت علمِ آخرت میں سے ہے۔ ان احوال میں جو برے ہیں: غربت کا ڈر، جو مقدر میں ہے اس پر ناخوش ہونا، کینہ، بغض، حسد، دھوکا، بلندی کی خواہش، تعریف چاہنا، دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لئے زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی خواہش، تکبر، ریا، غصہ، نفرت، عداوت، دشمنی، لالچ، بخل، خواہش، اترانا، انتہائی شریر ہونا، سست ہونا، مالداروں کی تعظیم کرنا، غریبوں کو حقیر جاننا، فخر کرنا، خود پسندی، آگے بڑھنے کی خواہش، حسن و جمال میں مقابلہ کرنا، عناد و تکبر کی وجہ سے حق کو نہ ماننا، فضولیات میں غور و غوض کرنا، زیادہ باتیں پسند کرنا، شیخی مارنا، لوگوں کے لئے زینت اختیار کرنا، چالپوسی کرنا، غرور کرنا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا، دل سے رنج و غم مٹ جانا اور خوفِ خدا نکل جانا، نفس کو جب ذلت پہنچے تو اس کے لئے شدت سے مقابلہ کرنا اور حق کی مدد میں کمزور رہنا، بظاہر دوست بنا کر دل میں دشمنی رکھنا، اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے اس بارے میں بے خوف رہنا کہ جو اس نے عطا فرمایا وہ سلب نہ کر لے، عبادت میں سستی کرنا، فریب، خیانت، دھوکے بازی اور لمبی امیدیں، دل کی سختی، بھونڈا پن، دنیا ملنے پر خوش ہونا اور چھن جانے پر افسوس کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنے سے مانوس ہونا ان کے جدا ہونے سے وحشت و گھبراہٹ محسوس کرنا، بدخلق و تند مزاج ہونا، غصہ، جلد بازی، بے شرمی و بے حیائی اور سنگدلی و بے رحمی۔ یہ اور اس طرح کی دیگر مذموم قلبی صفات بے حیائیوں اور حرام و ممنوع افعال کی بنیادیں ہیں اور ان کے مقابل جو اچھے اخلاق ہیں وہ طاعتوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ان امور کی تعریفات، حقیقتوں، اسباب، نتائج اور علاج کا علم علمِ آخرت ہے اور علمائے آخرت کے فتوے کے مطابق فرضِ عین ہے۔ ان سے اعراض کرنے والا آخرت میں قہر الہی سے ہلاک ہوگا جیسا کہ علمائے دنیا کے فتوے کے مطابق ظاہری اعمال سے اعراض کرنے والا دنیوی بادشاہوں کی تلواروں سے ہلاک ہوتا ہے۔

فرضِ عین میں فقہاء کی نظر دنیوی مفاد کی نسبت سے ہوتی ہے جبکہ یہ علمِ آخرت کی بہتری کے لئے ہے۔ اگر کسی

فقہ سے ان صفات میں سے کسی کا معنی پوچھا جائے حتیٰ کہ اگر مثال کے طور پر اخلاص یا توکل یا ریاکاری سے بچنے کی صورت ہی کے متعلق پوچھ لیا جائے تو وہ بتانے میں ضرور توقف کرے گا حالانکہ یہ اس پر فرض عین ہے اور اس سے غفلت برتنے میں آخرت میں اس کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر اس سے لعان، ظہار، گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی باریک و دقیق کئی جزئیات بیان کر دے کہ کئی زمانے گزر جائیں مگر ان کی ضرورت نہ پڑے اور اگر ضرورت پڑے بھی تو شہران کے جاننے والوں سے خالی نہ ہوگا اور وہ اسے مشقت سے بچالے گا تو یہ ان جزئیات میں رات دن مشقت اٹھاتا رہے گا اور انہیں یاد کرنے اور پڑھنے میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جائے گا جو دین کے معاملے میں اس کے لئے اہم ہے۔ اگر اس بارے میں اس سے رجوع کیا جائے تو کہے گا کہ میں اس میں اس لئے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہے۔ اس طرح یہ خود کو اور دوسروں کو اس کے سیکھنے میں دھوکا دیتا ہے۔ حالانکہ عاقل جانتا ہے کہ اگر اس سے اس کا مقصد فرض کفایہ میں اپنا حق ادا کرنا ہوتا تو وہ ضرور فرض عین کو اس پر مقدم کرتا۔ بلکہ وہ تو کئی فرض کفایہ پر اسے مقدم کئے ہوئے ہوتا ہے کہ کتنے ہی شہر ایسے ہیں کہ جن میں ذمی کفار کے سوا کوئی مسلم طبیب نہیں حالانکہ اطبا کے متعلق جو فقہی احکام ہیں ان میں کفار کی گواہی قبول نہیں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسے سیکھنے میں مشغول نہیں ہوتا اور علم فقہ بالخصوص اختلافی اور نزاعی مسائل میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں حالانکہ شہر ایسے فقہا سے بھرے پڑے ہیں جو فتویٰ دینے اور نوپید مسائل کا حل بتانے میں مصروف ہیں۔ کاش! میں جان لوں کہ علمائے دین اس فرض کفایہ کو سیکھنے کی کیسے اجازت دیتے ہیں جسے ایک گروہ قائم رکھے ہوئے ہے اور اسے چھوڑنے کی کیسے رخصت دیتے ہیں جسے قائم کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں؟ اس کا سبب اس کے سوا کوئی نہیں کہ طب کے ذریعے اوقاف و وصیتوں کا متولی ہونا، یتیموں کے مال کا محافظ بننا، قاضی و حاکم بننا اور اس کے ذریعے اپنے ہم زمانہ لوگوں سے آگے بڑھنا اور دشمنوں پر غلبہ پانا میسر نہیں۔

ہائے افسوس! علمائے سوء (یعنی برے علما) کے دھوکے کی وجہ سے علم دین ناپید ہو گیا۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دھوکے سے پناہ میں رکھے جس میں رَحْمٰنٌ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور شیطان کی خوشی ہے۔

## متقین علمائے ظاہر کی عاجزی:

علمائے ظاہر میں سے اہل تقویٰ علمائے باطن اور دل والوں کی فضیلت کے معترف تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی شیبان راعی کے سامنے اس طرح بیٹھے جس طرح طالب علم مکتب میں بیٹھتا ہے اور پوچھتے کہ ”اس اس معاملے کا حکم کیا ہے؟“ کسی نے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ”حضور! آپ جیسا عظیم شخص اس بدوی سے پوچھتا ہے؟“ فرمایا: ”بے شک اسے اس چیز کی توفیق ملی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمُبِیْن حضرت سیدنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کے پاس آتے جاتے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے حالانکہ وہ علم ظاہر میں ان دونوں کے ہم مرتبہ نہیں تھے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ جب آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ پائیں تو کیا کریں؟“ آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نیک لوگوں سے پوچھ لیا کرو اور ان سے مشورہ کیا کرو۔“ (۲)

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں جبکہ علمائے باطن آسمانوں اور ملکوت کی زینت ہیں۔ (۳)

## علم حدیث کے بعد علم تصوف حاصل کرو:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْہَادِی فرماتے ہیں: ایک دن مجھ سے میرے شیخ حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے استفسار فرمایا کہ ”جب تم میرے پاس سے جاتے ہو تو کس کی مجلس اختیار کرتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”محاسبی کی۔“ فرمایا: ”ٹھیک ہے۔ ان کے علم و ادب سے سیکھنا اور وہ علم کلام اور متکلمین کا جو رد کریں اسے چھوڑ دینا۔ جب میں لوٹنے لگا تو انہیں فرماتے سنا کہ ”اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ تجھے حدیث والا صوفی بنائے اور ایسا

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۷۰۔

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب اجتہاد الرأی علی الاصول، الحدیث: ۹۱، ص ۳۲۱۔

قوت القلوب الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۷۱۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۷۰۔

صوفی نہ بنائے جو (بعد میں علم) حدیث حاصل کرے۔“ (۱)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو حدیث اور علم حاصل کرنے کے بعد صوفی بناوہ کامیاب ہے اور جو علم حاصل کرنے سے پہلے ہی صوفی بن بیٹھا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ علم کلام اور فلسفہ کو علوم کی اقسام میں کیوں بیان نہیں کیا اور اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ یہ دونوں اچھے ہیں یا برے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کلام جن مفید دلائل پر مشتمل ہوتا ہے ان کا حاصل قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں موجود ہوتا ہے اور جو ان دونوں سے خارج ہے وہ یا تو برا جھگڑا ہے اور وہ بدعتیں ہیں جنہیں عنقریب بیان کیا جائے گا یا مختلف فرقوں کے اختلافات سے متعلق لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں اور ان مقالات کو نقل کرنا (بلاوجہ) کتاب کو طول دینا ہے کہ یہ اکثر ان لغویات اور بیہودہ باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں طبیعتیں حقیر سمجھتی اور کان ان سے بیزار ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن میں غور و خوض کرنے کا دین سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھیں نیز ان میں غور و خوض کرنا مکمل طور پر بدعت تھا لیکن اب ان کا حکم بدل چکا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے تقاضوں سے پھرنے والی بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں اور ایک گروہ ایسا ظاہر ہوا ہے کہ جس نے بدعت میں جھوٹ گھڑ لئے اور اس میں کلام مرتب کر لئے جس کی وجہ سے اس ممنوع کام کی ضرورت کی بنا پر اجازت دی گئی بلکہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن اتنی مقدار میں کہ جب بدعتی بدعت کی طرف مائل کرے تو اس کا مقابلہ کیا جاسکے اور اس کی ایک خاص حد ہے جسے ان شاء اللہ عزوجل ہم آئندہ باب میں بیان کریں گے۔

## فلسفہ اور اس کی اقسام:

جہاں تک فلسفے کا معاملہ ہے تو یہ مستقل علم نہیں بلکہ اس کے چار حصے ہیں:

﴿1﴾..... ہندسہ اور حساب: یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے، ان سے صرف اُسی کو روکا جائے گا جس کے

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۲، ص ۲۷۱۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، علی بن ابراہیم بن یوسف ۳۸۰، ج ۱، ص ۲۵۲۔

بارے میں ڈر ہو کہ وہ ان سے برے علوم کی طرف چلا جائے گا کیونکہ ان میں مہارت رکھنے والے اکثر لوگ ان سے نکل کر بدعتوں کی طرف چلے گئے، اس لئے جو کمزور (ایمان والا) ہے اُسے ہندسہ اور حساب سے روکا جائے گا اس لئے نہیں کہ یہ علوم برے ہیں بلکہ جس طرح بچے کو نہر میں گر جانے کے خوف سے نہر کے کنارے کھڑا ہونے سے روکا جاتا ہے اور نو مسلم کو کفار کی صحبت سے محض ڈر کی وجہ سے روکا جاتا ہے اور جو مضبوط (ایمان والا) ہے وہ خود ہی ان سے ملنا اچھا نہیں سمجھتا۔

﴿2﴾..... منطق: اس میں دلیل و تعریف اور ان کی شرائط سے بحث کی جاتی ہے اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں۔

﴿3﴾..... الہیات: اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات کے متعلق بحث کی جاتی ہے اور یہ بھی علم کلام میں داخل ہے۔ فلاسفہ نے اس کے لئے علم کی علیحدہ قسم نہیں بنائی بلکہ ان کے مذہب الگ الگ ہیں ان میں سے کچھ تو اہل کفر ہیں اور کچھ بدعتی۔ جس طرح اعتزال ایک مستقل علم نہیں بلکہ معتزلین و متکلمین ہی کا ایک گروہ ہے اور بحث و نظروالوں نے الگ باطل مذاہب بنائے ہیں اسی طرح فلاسفہ کا معاملہ ہے۔

﴿4﴾..... طبیعیات: اس کی بعض قسمیں شریعت اور دین حق کے خلاف ہیں جس کی وجہ سے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ لہذا انہیں علوم کی اقسام میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ طبیعیات کی بعض اقسام میں جسموں کی صفات، ان کے خواص اور ان کے تغیر و تبدل کی کیفیت کے بارے میں بحث ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے اطبا غور و فکر کرتے ہیں مگر یہ کہ طبیب خاص بدنِ انسانی کو بیماری اور صحت کی جہت سے دیکھتا ہے جبکہ طبیعیات والے تمام اجسام کو ان کے تغیر و تبدل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن علمِ طب طبیعیات سے افضل ہے کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ طبیعیات کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔

## علم کلام کی حیثیت:

اس تمام گفتگو سے پتا چلا کہ علم کلام ان پیشوں میں سے ہے جو فرضِ کفایہ ہیں تاکہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے تخیلات سے محفوظ رکھا جاسکے اور یہ علم بدعتوں کے ظہور کی وجہ سے ظاہر ہوا جیسا کہ راہِ حج میں اہل عرب کے ظلم

وزیادتی اور لوٹ مار کی وجہ سے محافظ کو کرائے پر لینے کی ضرورت پڑی اور اگر عرب ظلم و زیادتی چھوڑ دیں تو راہ حج میں محافظ کو کرائے پر لینا شرط نہ رہے گا۔ اسی طرح اگر بدعتی اپنی بکواس ترک کر دے تو اس سے زیادہ علم کی ضرورت نہ رہے گی جتنا صحابہ کرام رَضُوا اللہ تَعَالَى عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن کے زمانے میں تھا۔ لہذا علم کلام والے کو جان لینا چاہئے کہ اس علم کے دین ہونے کی یہی حد ہے اور اس کی حیثیت وہی ہے جو راہ حج میں محافظ کی ہے تو جس طرح محافظ محض حفاظت کر کے حاجی نہیں بن جائے گا اسی طرح علم کلام والا اگر صرف مناظرے اور لوگوں کا بچاؤ ہی کرتا رہا، نہ راہِ آخرت طے کیا اور نہ ہی دل کی حفاظت و اصلاح کی تو ہرگز وہ عالم دین نہیں بن سکے گا۔ دین میں سے اس کے پاس صرف عقیدہ ہی ہے جو عام لوگوں کے پاس بھی ہے یہ تو دل اور زبان کے ظاہری اعمال میں سے ہے۔ اس میں اور عام لوگوں میں فرق صرف یہی ہے کہ یہ حفاظت کر سکتا اور مخالف سے بحث مباحثہ کر سکتا ہے اور رہا معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات اور افعال کی معرفت اور ان تمام باتوں کا جنہیں ہم نے علم مکاشفہ میں بیان کیا تو یہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ یہ اس میں حجاب اور رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں ان تک رسائی تو مجاہدے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہدایت کے لئے پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔  
(پ ۲۱، العنکبوت: ۶۹)

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم ہو کہ تم نے متکلم کی تعریف یہ کی کہ متکلم وہ ہوتا ہے جو عوام کے عقیدے کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے بچاتا ہے جس طرح محافظ کی تعریف یہ ہے کہ وہ حجاج کی سفر و حضر کی ضروریات کو عرب کی لوٹ مار سے بچاتا ہے اور فقیہ کی تعریف یہ کی کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو اس قانون کا حافظ ہوتا ہے جس کے ذریعے بادشاہ لوگوں سے ظالموں کے ظلم کو روکتا ہے اور یہ دونوں مرتبے علم دین کے مرتبے سے کم ہیں جبکہ اُمت کے علما جو فضیلت میں مشہور ہیں وہ فقہا اور متکلمین ہی ہیں اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں لوگوں میں سب سے افضل ہیں پھر ان کا مرتبہ علم دین کے مقابلے میں کیونکر کم ہو سکتا

ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حق کی پہچان بندوں کے ذریعے کرتا ہے وہ گمراہی کے جنگلوں میں بھٹکتا ہے۔ اس لئے اگر تو راہِ حق کا مسافر ہے تو حق کو پہچان اہل حق کو بھی پہچان جائے گا اور اگر تو تقلید و پیروی پر قناعت کرتا اور لوگوں کے درمیان فضیلت کے مشہور درجات کو دیکھتا ہے تو حضراتِ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے بلند مراتب سے بے خبر نہ رہ۔ جن لوگوں (یعنی فقہاء و متکلمین) کا تم نے ذکر کیا ہے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضراتِ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے اور دین میں کوئی ان کے مرتبے کو تو کیا ان کی گروہ کو بھی نہیں پاسکتا۔

### صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ کی افضلیت کا ایک سبب:

صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کو بلند مقام و مرتبہ علم کلام یا علم فقہ کی وجہ سے نہیں بلکہ علمِ آخرت اور طریقِ آخرت پر چلنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تمام لوگوں پر نہ تو کثرتِ صوم و صلوة یا کثرتِ روایت کی وجہ سے افضل ہوئے اور نہ ہی فتویٰ دینے یا علم کلام کی وجہ سے بلکہ اس چیز کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں راسخ تھی جیسا کہ خود سرور کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس بات کی شہادت دی۔<sup>(۱)</sup>

لہذا تمہیں اس راز کی تلاش و جستجو میں حریص ہونا چاہئے کیونکہ وہ عمدہ جوہر اور چھپا ہوا موتی ہے اور اس چیز کو خود سے دُور کر دو جسے اکثر لوگ متفقہ طور پر کچھ ایسے اسباب اور وجوہات کی بنا پر افضل و عظیم سمجھتے ہیں جن کی لمبی تفصیل ہے۔ بیشک اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے وقت ہزاروں صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ تھے جو تمام کے تمام ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے۔ ان میں کوئی ایک بھی علم کلام کا ماہر نہ تھا اور نہ ہی سوائے دس سے کچھ زائد صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ کے کسی نے اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے مقرر کر رکھا تھا یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے: ”فلاں حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ بوجھ اسی کی گردن پر ڈالو۔“<sup>(۲)</sup> اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قضا یا اور احکام میں فتویٰ دینا امورِ سلطنت اور امورِ حاکمیت میں سے ہے۔

①..... المقاصد الحسنة، حرف الميم، الحديث: ۹۷، ص ۳۷۶، باختصار۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، باب ذكر فضل علم المعرفة، ليج ص ۲۲۸۔

## علم کے دس حصوں میں سے نو حصے اٹھ گئے:

جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم کے دس حصوں میں سے نو حصے اٹھ گئے۔“ کسی نے عرض کی: ”حضور! یہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جلیل القدر صحابہ موجود ہیں؟“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں فتویٰ اور احکام کے علم کی بات نہیں کر رہا بلکہ میری مراد معرفتِ الہی ہے۔“ (۱)

تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا انہوں نے علمِ کلام و جدل مراد لیا تھا؟ (نہیں) تو پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم اس علم کو جاننے کے حریص کیوں نہیں بنتے جس کے دس میں سے نو حصے وصالِ عمر کے ساتھ رخصت ہو گئے اور امیر المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے تو علمِ کلام و جدل کا دروازہ بند کر دیا تھا اور جب حضرت ضبیع نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے قرآنِ پاک کی دو آیتوں میں تعارض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے انہیں کوڑے سے مارا اور ان سے کلام کرنا بند کر دیا بلکہ لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔

بہر حال تمہارا یہ کہنا کہ علمائے اُمت میں سے مشہور فقہاء اور متکلمین ہیں تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں افضل ہونا اور بات ہے اور لوگوں کے درمیان مشہور ہونا اور بات۔

## شہین کریمین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کی شہرت و فضیلت:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مشہور تو خلافت کی وجہ سے ہوئے لیکن افضل اس راز کی وجہ سے ہوئے جو ان کے دل میں راسخ تھا اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شہرت تو حکومت کی وجہ سے ہے مگر فضیلت اس علم کی وجہ سے ہے جس کے دس میں سے نو حصے ان کی وفات کے ساتھ اٹھ گئے۔ نیز حکومت اور لوگوں پر عدل و شفقت کرنے سے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مقصود قربِ الہی کا حصول تھا اور یہ ایک باطنی معاملہ ہے جو آپ کے دل میں تھا۔ اس وصف کے علاوہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے باقی افعالِ عزت و نام اور شہرت چاہنے والوں سے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔

①.....المعجم الكبير، الحديث: ۸۸۱، ج ۹، ص ۱۲۳، باختصار۔



## شہرت اور فضیلت میں فرق:

شہرت اس میں ہوتی ہے جو ہلاکت و بربادی کا سبب ہوتا ہے اور فضیلت اس کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک راز ہوتا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔

## فقہا اور متکلمین کی اقسام:

فقہا اور متکلمین بادشاہوں، قاضیوں اور علما کی مثل ہیں اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ بعض کا اپنے علم و فتوے سے مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا اور حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے وہ نہ ریا کاری کرتے ہیں اور نہ ہی شہرت کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہیں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ راضی ہوتا ہے اور یہ بارگاہِ الہی میں اس وجہ سے مقبول ہوتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور فتویٰ و دلیل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زیادہ خوشنودی چاہتے ہیں۔

## عمل کا دار و مدار نیت پر ہے:

ہر علم عمل ہے کیونکہ علم ایک فعل ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے لیکن ہر عمل علم نہیں۔ طیب اگر رضائے الہی کی خاطر کام کرے تو اپنے علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ بادشاہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا اور اس کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے علم کے مطابق ایسا عمل کرے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب مقصود ہو۔

## جن اعمال سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے:

جن اعمال سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ تین قسم کے ہیں: (۱)..... محض علم: اور یہ علم مکاشفہ ہے۔ (۲)..... محض عمل: اس کی مثال بادشاہ کا عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے معاملات کا انتظام کرنا ہے۔ (۳)..... علم و عمل کا مرکب: اس سے مراد علم طریق آخرت ہے کیونکہ ایسا شخص عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی۔ اب تم اپنے بارے

میں غور کر لو کہ تم قیامت کے دن محض علما کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو یا عالمین کے گروہ میں یادوںوں کے۔ پس تم ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ تقسیم کر لو یہ تمہارے لئے محض شہرت کے لئے پیروی کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحْلِ

**ترجمہ:** جسے تم دیکھتے ہو اسے اختیار کرو اور جو سنتے ہو اسے چھوڑ دو سورج طلوع ہے تو زحل (سیارے) کی کیا حاجت ہے۔

اب میں فقہائے سلف کی سیرت کے چند وہ گوشے بیان کروں گا جن سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے خود کو ان کے مذہب کی طرف غلط منسوب کر رکھا ہے انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے اور بروز قیامت یہ ان کے سخت مخالف ہوں گے کیونکہ علم سے ان کا مقصود محض رضائے الہی کا حصول تھا اور ان کے جو احوال معلوم ہوئے ہیں وہ ہیں جو علمائے آخرت کی علامات میں سے ہیں جیسا کہ علمائے آخرت کی علامت کے باب میں بیان ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو محض علم فقہ میں نہیں لگا رکھا تھا بلکہ وہ علم قلوب میں بھی مشغول تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے لیکن انہیں اس علم کی تدریس و تصنیف سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فقہ سے باز رکھا تھا حالانکہ وہ علم فتویٰ میں کامل فقہا تھے۔ مواعظ و بواعث یقیناً ہوتے ہیں انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

اب میں فقہائے اسلام کے وہ احوال بیان کروں گا جن سے تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا بیان کردہ کلام ان پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر طعن ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ان کی پیروی میں مشہور کر رکھا اور ان کے مذہب و مسلک کی طرف منسوب کر رکھا ہے حالانکہ وہ اعمال و سیرت میں ان سے یکسر مختلف نظر آتے ہیں۔

### مقتدا و پیشوا فقہا:

وہ فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ جو فقہ کے امام اور مخلوق کے مقتدا و پیشوا ہیں یعنی جن کے مذاہب کے پیروکار کثیر ہیں، پانچ ہیں: (۱)..... حضرت سپیدنا امام محمد بن ادریس شافعی (۲)..... حضرت سپیدنا امام مالک (۳)..... حضرت سپیدنا امام احمد بن حنبل (۴)..... حضرت سپیدنا امام اعظم ابوحنیفہ اور (۵)..... حضرت سپیدنا سفیان ثوری رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ۔ ان میں سے ہر ایک عابد و زاہد، علومِ آخرت کا عالم، لوگوں کے دنیوی منافع کا فقیہ اور اپنی فقہ سے

رضائے الہی چاہنے والا تھا اور موجودہ زمانے کے فقہانے ان پانچ خصلتوں میں سے صرف ایک خصلت یعنی فقہ کی جزئیات میں محنت و مبالغہ میں ان کی پیروی کی ہے۔ کیونکہ باقی چار خصلتیں صرف آخرت کے لئے نفع مند ہیں اور یہ ایک خصلت آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لئے بھی نفع مند ہے۔ اگر اس سے آخرت کی نیت کی جائے تو دنیوی نفع کم ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے فقہانے اس خصلت کے لئے خوب کوشش کی اور اس کے سبب ان ائمہ دین کے مشابہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہائے افسوس! ملائکہ کو لوہاروں پر قیاس کیا گیا۔ اب مذکورہ پانچوں فقہا کے وہ احوال بیان کئے جاتے ہیں جو چار خصلتوں پر دلالت کرتے اور فقہ میں ان کا مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہے۔

## سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے فضائل و مناقب

### ﴿۱﴾..... عبادت و ریاضت:

حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا: ایک تہائی علم کے لئے، ایک تہائی عبادت کے لئے اور ایک تہائی آرام کے لئے۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا ربیع علیہ رحمۃ اللہ البدیع فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور سب نماز میں ختم کرتے۔<sup>(۲)</sup> آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد بویطلی ماہ رمضان میں ہر دن ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

### تمام مسلمانوں کے لئے رحمت و نجات کی دعا:

حضرت سیدنا حسن کراہی علیہ رحمۃ اللہ الوکی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے ساتھ کئی راتیں گزاری ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً ایک تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور میں نے انہیں 50 سے زیادہ آیات پڑھتے نہیں دیکھا، اگر زیادہ پڑھتے تو 100 پڑھ لیتے اور کسی بھی آیت رحمت پر پہنچتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے رحمت کی دعا مانگتے اور جب بھی کوئی عذاب (کے تذکرے) والی آیت پڑھتے

①..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۴۳، ج ۹، ص ۱۴۳۔

②..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۴۲، ج ۹، ص ۱۴۲۔

③..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۹۳۔

تو اس سے پناہ مانگتے پھر اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس سے نجات مانگتے تھے۔<sup>(۱)</sup> گویا ان کے لئے خوف ورجا کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ پس تم دیکھو کہ 50 آیات پر اقتصار کرنا حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَى کے قرآن عظیم کے اسرار پر گہری نظر اور اس میں غور و فکر کرنے پر دلیل ہے۔

## شکم سیری کی آفات:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَى فرماتے ہیں: ”میں نے 16 سال سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ شکم سیری بدن کو بھاری اور دل کو سخت کر دیتی، عقل کو زائل کرتی، نیند لاتی اور عبادت میں کمزوری کا باعث ہے (۲)۔ (۳) تم غور کرو کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے کیسی حکمت کے ساتھ شکم سیری کی آفات بیان فرمائیں۔ پھر عبادت میں ان کی کوشش کو دیکھو کہ عبادت کی وجہ سے شکم سیری سے کنار کش ہو گئے کیونکہ عبادت کی بنیاد کم کھانے پر ہے۔

## عظمتِ الہی:

مزید فرماتے ہیں کہ ”میں نے کبھی بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم نہیں کھائی، نہ سچی نہ جھوٹی۔“<sup>(۴)</sup> یہ قول آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حد درجہ تعظیم و توقیر بجالانے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز اس بات پر دلیل ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ عظمتِ الہی کا علم رکھتے تھے۔

## زبان کی حفاظت:

ایک بار حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَى سے کچھ پوچھا گیا تو خاموش رہے۔ کسی نے عرض کی: ”حضور!

①.....معرفة السنن والآثار، مقدمة المؤلف، باب ما استدلل به علی اجتهاده فی طاعة ربه، ج ۱، ص ۱۱۵۔

تاریخ بغداد، محمد بن ادریس الشافعی، ۴۵۴، ج ۲، ص ۶۱۔

②.....حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۳۸، ج ۹، ص ۱۳۵۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی، ۶۰۷، ج ۵، ص ۳۹۴۔

③.....شکم سیری کی آفات اور بھوک کے فضائل کی تفصیلی معلومات کے لیے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے باب ”پیٹ کا قفل مدینہ“ کا مطالعہ کیجئے۔

④.....حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۳۹، ج ۹، ص ۱۳۶۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے! آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟“ فرمایا: ”پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا خاموش رہنے میں۔“ (۱)

دیکھو! آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ زَبَانِ كِیسی نگہبانی فرماتے تھے۔ حالانکہ فقہا پر زبان کا تسلط تمام اعضاء سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ بے قابو اور نافرمان ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فضل و ثواب کے حصول کے لئے ہی کلام کرتے تھے۔

### کانوں اور زبان کا قفل مدینہ (۲):

حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ بن وزیر عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَدِيْرُ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام شافعی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكِنَانِيّ قندیلوں کے بازار سے گزرے، ہم بھی پیچھے ہوئے، اچانک دیکھا کہ ایک شخص کسی عالم سے یہودہ باتیں کر رہا ہے، آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”جس طرح اپنی زبانوں کو فحش گوئی سے بچاتے ہو اسی طرح کانوں کو بھی فحش باتیں سننے سے بچاؤ کیونکہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ بے وقوف جب اپنے برتن میں کوئی بدترین چیز دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اگر اس کی بات کو لوٹا دیا جائے تو لوٹانے والا خوش بخت ہے جیسے وہ بات کہنے والا بد بخت ہے۔“ (۳)

آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ ایک دانا (عقل مند) نے کسی دانا کو لکھا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی ظلمت سے آلودہ نہ کرنا ورنہ تم اس دن اندھیرے میں کھڑے رہو گے جس دن صاحب علم اپنے علم کے نور

①..... حاشیة اعانة الطالبین، خطبة المؤلف، ج، ص ۲۸۔

②..... ”قفیل مدینہ“ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح ہے کسی بھی عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچانے کو قفیل مدینہ لگانا کہتے ہیں۔ مثلاً فضول گوئی سے جو پرہیز کرتا ہے اور خاموشی کی عادت ڈالنے کے لئے حسب ضرورت اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے زبان کا قفیل مدینہ لگایا ہے۔

دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ

③..... حلیة الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث ۱۳۳۶۳، ج ۹، ص ۱۳۰۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ابراہیم بن احمد بن اسحاق ۶۰۲، ج ۵۱، ص ۱۸۳۔

میں چلتے ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

## ﴿2﴾..... زہد و تقویٰ:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے دل میں دنیا اور خالق دنیا کی محبت کو جمع کر لیا ہے بیشک وہ جھوٹا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

## آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ کی سخاوت:

حضرت سیدنا حمیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی بعض حکام کے ساتھ یمن تشریف لے گئے پھر وہاں سے 10 ہزار درہم لئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً سے باہر ہی ایک مقام پر ان کے لئے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ لوگ ملاقات کے لئے آنے لگے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام درہم تقسیم نہ کر دیئے۔<sup>(۳)</sup> ایک مرتبہ حمام سے نکلے تو اس کے مالک کو کثیر مال عطا فرمایا۔<sup>(۴)</sup> ایک بار آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کوڑا گر گیا، ایک شخص نے اٹھا کر دیا تو اسے اس کے بدلے میں 50 دینار عطا فرمادیئے۔<sup>(۵)</sup>

## زہد کی حقیقت و بنیاد:

آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی سخاوت بہت مشہور ہے بیان کرنے کی حاجت نہیں اور زہد کی بنیاد سخاوت ہے اس لئے کہ جو جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسے روک لیتا ہے اور مال کو وہی جدا کرتا ہے جس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہی زہد کی حقیقت ہے۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۴۹، ج ۹، ص ۱۵۵۔

②..... فیض القدر، حرف الدال، فصل فی المحلی بأل..... الخ، تحت الحدیث: ۲۲۶:۹، ج ۳، ص ۷۷۔

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الجود والسخاء، الحدیث: ۱۰۹۶، ج ۷، ص ۴۵۲۔

حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث: ۱۳۴۰، ج ۹، ص ۱۳۸۔

④..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۲۰۱۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الجود والسخاء، الرقم: ۱۰۹۶، ج ۷، ص ۴۵۲، بتغییر ”تسعة دنانیر او سبعة“۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۹۹۔

## زمانے کا افضل شخص:

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ زہد میں کتنے مضبوط تھے، اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا کس قدر خوف رکھتے تھے اور آخرت کی تیاری میں کس طرح مشغول رہتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے رقت قلبی کے متعلق ایک حدیث بیان کی تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کہا: ”وفات پا گئے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”اگر وفات پا گئے ہیں تو اس زمانے کے افضل شخص کا وصال ہو گیا۔“ (۱)

## کامل الایمان ہونے کی علامت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن محمد بلوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمر بن نباتہ عابدین و زاہدین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ عمر نے کہا: میں نے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَی سے بڑا فصیح اور پرہیزگار شخص نہیں دیکھا کیونکہ ایک بار میں، حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَی اور حارث بن لبید صفا (پہاڑی) کی طرف گئے حارث صالح مری کے شاگرد تھے۔ خوش کن آواز کے مالک تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جب یہ آیات مبارکہ تلاوت کیں:

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤَدُّنْ لَهُمْ  
فِيَعْتَدِرُونَ ﴿٣٦﴾ (پ ۲۹، المرسلت: ۳۶، ۳۵) اجازت ملے کہ عذر کریں۔

تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَی کا رنگ تبدیل ہو گیا، بدن کانپنے لگا، شدید بے قرار ہو گئے اور بیہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر دعا فرمانے لگے کہ ”اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! میں جھوٹوں کے مقام اور خانہ فلوں کے اعراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے پروردگار عَزَّ وَجَلَّ! اہل معرفت کے دل تیری بارگاہ میں جھک گئے، تیرے آگے طالبین کی گردنیں خم ہو گئیں۔ اے میرے رب عَزَّ وَجَلَّ! مجھے اپنا جو دو کریم عطا فرما، اپنی شان ستاری سے مجھے عظمت

①..... معرفة السنن والآثار، مقدمة المؤلف، باب شهادة الأئمة للشافعي، ج ۱، ص ۱۱۶۔

حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الرقم ۱۳۲۲، ج ۹، ص ۱۰۲۔

عطا فرما اور اپنے کرم سے میرے گناہ معاف فرما۔“ (۱)

پھر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ تَشْرِيفَ لے گئے اور ہم بھی چلے گئے۔ جب میں بغداد آیا اس وقت آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ عراق میں تھے۔ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے کہا: ”بیٹا! وضو اچھے طریقے سے کرو! اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔“ میں نے اس طرف توجُّہ کی تو وہ ایک بارعب شخص تھا جس کے پیچھے کئی لوگ تھے۔ میں جلدی سے وضو کر کے ان کے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”کیا تمہیں کوئی کام ہے؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تصدیق کرے گا نجات پاجائے گا، جو اپنے دین کے معاملے میں خوف زدہ رہے گا ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہے گا اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا کل بروز قیامت اس کی آنکھیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی۔“ پھر فرمایا: ”کیا میں تمہیں مزید نہ بتاؤں؟“ میں نے کہا: ”جی بتائیے!“ فرمایا: ”جس میں تین خصلتیں پائی گئیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا: (۱)..... نیکی کا حکم دینا اور اس پر عمل کرنا (۲)..... برائی سے منع کرنا اور خود بھی باز رہنا اور (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حدود کی محافظت کرنا۔“ پھر فرمایا: ”کیا میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں؟“ میں نے کہا: ”کیوں نہیں۔“ فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، آخرت میں رغبت رکھو اور ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سچا جانو نجات پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔“ یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا: ”یہ کون تھے؟“ تو لوگوں نے بتایا کہ ”یہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي تھے۔“ (۲) تم ان کے بے ہوش ہو کر گرنے پر غور کرو پھر ان کے وعظ کے بارے میں سوچو کہ کس طرح یہ چیز ان کے زہد اور خوفِ خدا رکھنے پر دلالت کرتی ہے۔ خوفِ خدا اور زہد معرفتِ الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ کیونکہ قرآنِ پاک میں ارشادِ رب العباد ہے:

رَاتِبًا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے

ہیں جو علم والے ہیں۔

(پ: ۲۲، فاطر: ۲۸)

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۳۶۔

②..... تہذیب الاسماء واللغات، الامام الشافعی، ج ۱، ص ۷۶-۷۷، باختصار۔



حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَاْفِی نے یہ خوفِ خدا اور زہد و تقویٰ بیعِ سلم اور اجارہ کے مسائل یا اس کے سوا دوسرے ابوابِ فقہ کے مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ یہ سب کچھ علومِ آخرت سے حاصل کیا تھا اور علومِ آخرت قرآن و سنت سے مستفاد ہوتے ہیں کیونکہ تمام اگلوں پچھلوں کی حکمتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔

### ﴿3﴾..... اسرارِ قلب اور علومِ آخرت کے عالم:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَاْفِی کے حکمت بھرے ارشادات و ملفوظات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اسرارِ قلب اور علومِ آخرت کے کیسے زبردست عالم تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَاْفِی سے ریا کے بارے میں پوچھا گیا تو بلا توقف جواب دیا کہ ”ریا ایک فتنہ ہے جسے خواہشِ نفس نے علما کے دلوں کی آنکھوں کے سامنے باندھ دیا انہوں نے برائی پسند نفس کے ساتھ اس میں دلچسپی لی تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔“ (۱)

### خود پسندی میں مبتلا کو نصیحت:

مزید فرماتے ہیں کہ ”جب تجھے اپنے عمل میں خود پسندی کا خوف ہو تو اس بات کو پیشِ نظر رکھ کہ تو کس کی رضا کا طالب ہے، کس ثواب کی خواہش رکھتا ہے، کس سزا و عذاب سے ڈرتا ہے، کس نعمت پر شکر کرتا ہے اور کون سی مصیبت کو یاد کرتا ہے۔ جب تو ان میں سے کسی ایک خصلت میں غور و فکر کرے گا تو تجھے اپنا عمل چھوٹا لگے گا۔“ (۲)

غور کرو کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْہ نے کس انداز سے ریا کی حقیقت اور خود پسندی کے علاج کو آشکار کیا اور یہ دونوں دل کی بہت بڑی آفتیں ہیں۔

### علم کسے نفع نہیں دیتا؟

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَاْفِی فرماتے ہیں کہ ”جو اپنے نفس کی نگہبانی نہیں کرتا اس کا علم اسے نفع نہیں دیتا۔“ (۳) جو علم کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرے گا اس کا پوشیدہ علم اسے نفع دے گا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی، ج ۵، ص ۳۳۴۔

②..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵، ص ۴۱۳۔

③..... الفقیہ والمتفقہ، ذکر احادیث و اخبار شتی..... الخ، الجزء الأول، الرقم ۱۳۹، ج ۱، ص ۱۵۱۔

دوست اور دشمن ہوتا ہے اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانبرداروں کے ساتھ رہو۔“ (۱)

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی سے تقویٰ کے بارے میں مسائل پوچھا کرتے تھے اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان پر خاص توجہ فرماتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا کہ ”امتحان، صبر اور تمکین (مرتبہ و عزت) میں سے کیا افضل ہے؟“ تو حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی نے جواب دیا کہ ”تمکین انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کا درجہ ہے لیکن تمکین سے پہلے امتحان ہوتا ہے، امتحان پر صبر ہو تو پھر تمکین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کا امتحان لیا پھر انہیں تمکین سے نوازا، حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کا امتحان لیا پھر انہیں تمکین عطا فرمائی اور سلطنت سے نوازا۔“ (۲) تمکین تمام درجوں میں افضل درجہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَكُلِّكَ مَكَّنَّا یُوسُفَ فِی الْأَرْضِ ۚ  
ترجمہ کنز الایمان: اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر  
قدرت بخشی۔  
(پ ۱۳، یوسف: ۵۶)

اور حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کو بڑے امتحان کے بعد تمکین (مرتبہ و عزت) سے نوازا۔ چنانچہ،  
اللہ رَبُّ الْعِبَادِ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:  
وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان  
کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کئے۔  
(پ ۱، الانبیاء: ۸۴)

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی کا یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن پاک کے اسرار میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی گہری نظر تھی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے والے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام اور اولیائے عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے مقامات و مراتب کا علم تھا۔ ان سب باتوں کا تعلق علمِ آخرت سے ہے۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث ۱۳۳۴، ج ۹، ص ۱۲۴۔

②..... ذم الہوی لابن الجوزی، الباب التاسع والاربعون فی ذکر ادویۃ العشق، الرقم: ۱۲۶، ص ۴۳۳، باختصار۔

## آدمی عالم کب بنتا ہے؟

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَاي سے پوچھا گیا کہ آدمی عالم کب بنتا ہے؟ فرمایا: جب وہ علم دین اچھے طریقے سے حاصل کر کے دوسروں کو سکھائے پھر دوسرے علوم کی طرف متوجہ ہو اور جو علم اس کے پاس نہیں اس میں غور و فکر کرے تب وہ عالم ہوگا۔ حکیم جالینوس<sup>(۱)</sup> سے کسی نے پوچھا کہ ”تم ایک بیماری کے لئے زیادہ دوائیں کیوں تجویز کرتے ہو؟“ تو حکیم صاحب نے جواب دیا: ”ان میں سے مقصود ایک ہی ہے لیکن اس ایک کے ساتھ دوسری دوائیں اس کی حرارت کو ختم کرنے کے لئے ہوتی ہیں کیونکہ اگر ایک ہی دوائی دے دی جائے تو وہ ہلاک کر دے گی۔“ یہ اور اس طرح کے بے شمار حکمت بھرے اقوال اس بات پر دلیل ہیں کہ علوم آخرت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت میں حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَاي کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔

### ﴿4﴾..... علم فقہ سے مقصود:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَاي فقہ اور مناظرہ میں رضائے الہی کے ہی طالب تھے۔ اس پر کئی روایات دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ، مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے نفع اٹھائیں لیکن اس میں سے میری طرف کچھ منسوب نہ کریں۔“<sup>(۲)</sup>

پس تم غور کرو کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کو علم اور علم کے سبب نام وری کی آفت پر کیسی آگاہی تھی۔ ان کا دل اس طرف توجہ کرنے سے کیسا پاک تھا۔ محض رضائے الہی ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ ”میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا تو یہ پسند نہیں کیا کہ وہ غلطی کرے“<sup>(۳)</sup>

①..... جالینوس کا اصلی نام گلاڈیسنگین تھا۔ یہ ہمارے پیارے آقا کی بعثت سے بھی پہلے گزرا ہے۔ 131ء میں پیدا ہوا 201ء میں فوت ہوا۔ قدیم یونان کا نہایت ہی ماہر طبیب تھا اور فن طب میں تمام اطباء یونان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یونان کی طبابت شہرہ آفاق ہے۔ یہ شخص اتنا ماہر طبیب مانا جاتا تھا کہ آج اٹھارہ سو سال کے بعد بھی اس کا دنیا میں نام ہے۔ (فیضان سنت، ج ۱، ص ۵۸۲)

②..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الحدیث ۱۳۳۴، ج ۹، ص ۱۲۶۔

تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعی: ۶۰۷، ج ۱، ص ۳۶۵۔

③..... صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، باب فرض متابعة الامام، تحت الحدیث ۲۱۲۴، ج ۳، ص ۲۸۲۔

بلکہ جب بھی کسی سے کلام کیا تو یہ پسند کیا کہ اسے سمجھنے کی توفیق ملے اور سیدھے راستے پر رہنے کے لئے اس کی مدد ہو۔ نیز میں نے کبھی بھی کسی سے گفتگو کرتے وقت اس بات کی پروا نہیں کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ میری زبان سے حق ظاہر کرے یا اس کی زبان سے۔<sup>(۱)</sup> جب میں کسی کے سامنے دلیل کے ساتھ حق بیان کرتا ہوں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا اور اس سے محبت کرتا ہوں اور جو میرے سامنے حق سے انکار کر دے اور دلیل کو نہ مانے تو وہ میری نظروں سے گرجاتا ہے اور میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔<sup>(۲)</sup>

یہ علامات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِیِ فقہ اور مناظرہ میں رضائے الہی کے طالب تھے۔ اب تم دیکھو کہ ان پانچ خصلتوں میں سے لوگ صرف اس ایک خصلت میں ان کی متابعت و پیروی کے دعویدار ہیں پھر اس میں بھی وہ ان سے کتنے مختلف ہیں۔ اسی لئے حضرت سیدنا ابو ثور رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کہا کہ ”میں نے اور دیکھنے والوں نے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِیِ کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔“<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلِ نے فرمایا کہ ”40 سال سے میں نے جو بھی نماز پڑھی اس میں حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِیِ کے لئے ضرور دعا کی۔“<sup>(۴)</sup>

پس تم دعا کرنے والے کے انصاف اور حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَافِیِ کے درجہ کو ملاحظہ کرو پھر اس زمانے کے علما کو دیکھو کہ ان میں کس طرح بغض و عناد پایا جاتا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ یہ لوگ ان بزرگوں کی اقتدا و پیروی کرنے کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔

## دُنیا کے لئے آفتاب اور لوگوں کے لئے عافیت:

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَوَّلِ کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا: ”یہ شافعی کون ہیں جن

①..... الفقیہ و المتفقہ، باب ادب الجدل، الجزء السابع، الرقم: ۶۷، ج ۲، ص ۴۹۔

②..... حلیۃ الاولیاء، الامام الشافعی، الرقم ۱۳۳۳، ج ۹، ص ۱۲۵۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۸۳۔

③..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۳۲۔

④..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادریس الشافعی: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۲۶۔

کے لئے آپ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”اے میرے بیٹے! حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی دُنْیَا کے لئے آفتاب کی مانند اور لوگوں کے لئے عافیت ہیں۔ پس تم دیکھو کہ کون ان دو باتوں میں ان کا نائب ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل فرمایا کرتے تھے کہ ”جس نے بھی دوات کو ہاتھ لگایا اس پر حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کا احسان ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں کہ ”40 سال سے میں نے جو بھی نماز پڑھی اس میں حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے لئے ضرور دعا مانگی کیونکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر علم کے دروازے کھول دیئے تھے اور انہیں علم میں پختگی کی توفیق مرحمت فرمائی تھی۔“ (۳)

ہم حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے انہی احوال کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ آپ کے احوال تو بی شمار ہیں۔ یہاں ذکر کردہ بیشتر مناقب و فضائل ہم نے حضرت سیدنا شیخ نصر بن ابراہیم مقدسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَسْطٰی کی کتاب سے نقل کئے ہیں جو انہوں نے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے فضائل و مناقب میں تصنیف فرمائی ہے۔

### ﴿..... علم سیکھنے سے آتا ہے.....﴾

فرمان مصطفیٰ: ”علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جس کے ساتھ بھلائی

کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم

والے ہیں۔“ (المعجم الكبير، الحدیث ۴۳۱۲، ج ۱۹، ص ۵۱۱)

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعي: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۲۸۔

②..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعي: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۲۹۔

③..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن ادريس الشافعي: ۶۰۷، ج ۵۱، ص ۳۲۵۔

## سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے فضائل و مناقب

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق بھی ان پانچ اوصاف سے متصف تھے۔ چنانچہ، کسی نے ان سے عرض کی: ”اے مالک! آپ طلب علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“ فرمایا: ”یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن تم اس پر غور کرو جو صبح سے شام تک تمہارے لئے ضروری ہے اور اسے لازم پکڑ لو۔“<sup>(۱)</sup>

### حدیث رسول کی تعظیم:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے وضو کرتے، چٹائی بچھاتے، اپنی داڑھی سنوارتے، خوشبو لگاتے پھر عزت و وقار کے ساتھ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔<sup>(۲)</sup> کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا: ”میں پسند کرتا ہوں کہ حدیث رسول کی تعظیم کروں۔“<sup>(۳)</sup> آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ ”علم زیادہ روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ علم تو نور ہے اللہ عزوجل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔“<sup>(۴)</sup>

حدیث رسول کا یہ ادب و احترام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عزوجل کے جلال کی معرفت میں کتنے مضبوط تھے۔

### حصول علم دین سے مقصود:

علم دین حاصل کرنے سے حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کا مقصد محض رضائے الہی ہوا کرتا تھا۔ اس پر ان کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ ”دین میں جھگڑا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔“<sup>(۵)</sup>

①..... حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس، الحدیث ۸۸۴، ج ۶، ص ۳۴۹۔

②..... حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس، الحدیث ۸۸۵، ج ۶، ص ۳۴۷۔

جامع الاصول فی احادیث الرسول لابن اثیر، الباب الرابع فی ذکر الائمة، الامام مالک، ج ۱۲۰۔

③..... حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس، الحدیث ۸۸۵، ج ۶، ص ۳۴۷۔

④..... حلیۃ الاولیاء، مالک بن انس، الحدیث ۸۸۶، ج ۶، ص ۳۴۸۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حسن الخلق، فصل فی الحلم والتؤدۃ، الحدیث ۸۴۸، ج ۶، ص ۳۵۴۔

## عالم کی شان:

حضرت سپیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي کا یہ فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ میری موجودگی میں حضرت سپیدنا امام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِق سے 48 مسائل پوچھے گئے جن میں سے 32 کے بارے میں آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے فرمایا: ”میں نہیں جانتا۔“<sup>(۱)</sup> اور علم سے جس کا مقصد رضائے الہی کے علاوہ کچھ اور ہو تو اس کا نفس اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کرے کہ وہ نہیں جانتا۔

## حکمتے ستارے:

حضرت سپیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي جب علما کا تذکرہ کرتے تو فرماتے: ”حضرت سپیدنا امام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ خوب حکمتے ستارے ہیں اور مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔“<sup>(۲)</sup>

## کوڑے کھا کر بھی حدیث بیان کی:

منقول ہے کہ ابو جعفر منصور نے حضرت سپیدنا امام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کو مکہ (یعنی مجبور کئے جانے والے) کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان کرنے سے منع کیا پھر خفیہ طور پر کسی کو بھیجا کہ ان سے یہی سوال کرے تو آپ نے لوگوں کے مجمع میں بیان کر دیا کہ جسے مجبور کیا جائے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی<sup>(۳)</sup> تو ابو جعفر منصور نے آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کو کوڑے لگوائے لیکن آپ نے حدیث بیان کرنا نہ چھوڑی۔<sup>(۴)</sup>

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے فرمایا: ”جو شخص بھی حدیث بیان کرنے میں سچا ہوگا اور جھوٹ نہیں بولے گا اس کی عقل سلامت رہے گی کہ بڑھاپے میں نہ تو اسے کوئی آفت پہنچے گی اور نہ ہی اس کی عقل میں کسی قسم کا فتور آئے گا۔“<sup>(۵)</sup>

①..... سیر اعلام النبلاء للذہبی، مالک الامام: ۱۱۸، ج ۷، ص ۴۰۱۔

②..... جامع الاصول فی احادیث الرسول لابن اثیر، الباب الرابع فی ذکر الائمة، الامام مالک، ج ۱ ص ۱۲۱۔

③..... احناف کے نزدیک: طلاق واقع ہو جائے گی۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، ص ۱۹۴)۔

④..... جامع الاصول فی احادیث الرسول لابن اثیر، الباب الرابع فی ذکر الائمة، الامام مالک، ج ۱ ص ۱۲۱۔

⑤..... طبقات المحدثین لابن الشیخ الاصبہانی، الطبقة التاسعة، بقية الطبقة التاسعة، الرقم: ۴۲، ج ۳، ص ۵۱۔

الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، باب تحری المحدث الصدق فی مقابله، الرقم: ۱۰۱، ج ۳، ص ۱۷۱۔

## زہد و تقویٰ:

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے زہد پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ خلیفہ مہدی نے آپ سے پوچھا: ”کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟“ فرمایا: ”نہیں، لیکن میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے حضرت سپید ناربیجہ بن ابی عبد الرحمن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو فرماتے سنا کہ آدمی کا نسب ہی اس کا گھر ہے۔“

## میں چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا:

خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے پوچھا: ”کیا آپ کا کوئی گھر ہے؟“ فرمایا: ”نہیں۔“ تو اس نے آپ کی خدمت میں تین ہزار دینار پیش کرتے ہوئے کہا کہ ”ان سے گھر خرید لیجئے!“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے دینار لے کر رکھ لئے اور انہیں خرچ نہ کیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید مدینہ منورہ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا سے جانے لگا تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ”آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ میں نے عزم کیا ہے کہ لوگوں کو موطا پر جمع کروں جس طرح امیر المؤمنین حضرت سپیدنا عثمان بن عفان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا تھا۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: لوگوں کو صرف موطا پر اکٹھا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں کیونکہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے بعد صحابہ کرام رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ مختلف شہروں میں چلے گئے وہاں انہوں نے احادیث بیان فرمائیں جس کی وجہ سے اب مصر کے ہر شخص کے پاس احادیث کا علم ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔“<sup>(۱)</sup> اور رہا (مدینہ چھوڑ کر) تمہارے ساتھ جانا تو اس کی بھی کوئی صورت نہیں کیونکہ فرمانِ مصطفیٰ ہے کہ ”مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں۔“<sup>(۲)</sup> ایک روایت میں ہے: ”مدینہ (گناہوں کے) میل کو ایسے چھڑاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ دور کرتی ہے۔“<sup>(۳)</sup> پھر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے خلیفہ ہارون الرشید سے فرمایا: ”یہ رہے تمہارے دینار چاہو تو انہیں

①.....جامع الاصول فی احادیث الرسول لابن اثیر، الباب الرابع فی ذکر الائمة، الامام مالک، ج ۱ ص ۱۲۱۔

②.....صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة، الحدیث ۱۳۶۲، ص ۱۰۔

③.....صحیح مسلم، کتاب الحج، باب المدینة تفغی شرارها، الحدیث: ۱۳۸، ص ۱۶۔

حلیة الاولیاء، مالک بن انس، الحدیث: ۸۹۴، ج ۶، ص ۳۶۱۔



لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔“ یعنی تم مجھے اسی وجہ سے مدینہ چھوڑنے پر پابند کرتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو (سنو!) میں مدینہ منورہ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔

یہ تھی حضرت سیدنا امام مالک عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کی دنیا سے بے رغبتی۔ جب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے علم اور شاگردوں کے دور دراز علاقوں میں پھیل جانے کی وجہ سے مختلف شہروں سے آپ کے پاس کثیر مال آنے لگا تو آپ اسے نیکی کے مختلف کاموں میں خرچ کر دیتے۔ یہ چیز آپ کے زہد اور دنیا سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ مال نہ ہونے کو زہد نہیں کہتے بلکہ زہد یہ ہے کہ دل میں مال کی رغبت نہ ہو۔

### مدینے کی مٹی کا ادب و احترام:

حضرت سیدنا سلیمان عَلِي نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنی بادشاہت میں زاہد تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ دنیا کو کتنا حقیر سمجھتے تھے اسے اس روایت سے سمجھئے کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَاغِي فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا امام مالک عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کے دروازے پر خراسان اور ایک قول کے مطابق مصر کے عمدہ گھوڑے دیکھے، ان سے خوبصورت گھوڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے تو میں نے عرض کی: ”یہ کتنے عمدہ ہیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ!“ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”ان میں سے کوئی آپ اپنی سواری کے لئے بھی رکھ لیں۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میں اس زمین کو جانور کے پاؤں سے روندوں جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تشریف فرما ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام مالک عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْخَالِقِ کی سخاوت دیکھو کہ ایک ہی بار میں سارا مال ہبہ کر دیا اور مدینے کی مٹی کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے۔

### پیا سا کنویں کے پاس جاتا ہے نہ کہ کنواں:

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ علم سے محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے اور دنیا کو حقیر جانتے تھے۔

①.....الشفاء، الباب الثالث، ج ۲، ص ۵۷۔

جامع الاصول فی احادیث الرسول لابن اثیر، الباب الرابع فی ذکر الائمة، الامام مالک، ج ۱ ص ۱۲۱۔

اس پر یہ روایت دلالت کرتی ہے، آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ ہمارے پاس آیا کریں تاکہ ہمارے بچے آپ سے موطا پڑھیں۔“ میں نے کہا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ امیر کو عزت دے! یہ علم آپ لوگوں سے نکلا ہے۔ اگر آپ اسے عزت دیں گے تو عزیز ہوگا اور سوا کریں گے تو ذلیل ہوگا اور (ہاں) علم کسی کے پاس نہیں آتا بلکہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔“ خلیفہ نے کہا: ”آپ نے سچ فرمایا۔“ پھر اپنے بچوں سے کہا کہ ”مسجد میں جا کر دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر موطا سنا کرو۔“ (۱)

## سَيِّدِنَا اِمَامِ اعْظَمِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَكْرَمِ كَيْ فِضَائِلِ وَ مَنَاقِبِ

حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بھی عابد و زاہد، عارف باللہ، خوف خدا رکھنے والے اور اپنے علم سے رضائے الہی چاہنے والے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”حضرت سیدنا امام اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَكْرَمِ صاحبِ مروت اور کثرت سے عبادت کرنے والے تھے۔“ (۲)

## ساری رات عبادت:

حضرت سیدنا حماد بن ابوسلیمان عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَكْرَمِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَكْرَمِ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ پہلے آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ کسی کو یہ کہتے سنا کہ یہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ پس اس کے بعد سے پوری رات عبادت کرنے لگے اور فرماتے: ”مجھے اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میرے بارے میں اس کی عبادت کے متعلق ایسی بات کہی جائے جو مجھ میں نہ ہو۔“ (۳)

①..... آداب العلماء و المتعلمین، آداب العالم فی علمہ، ص۱۔

مرقاۃ المفاتیح، شرح مقدمة المشكاة، ج ۱، ص ۶۲۔

②..... تاریخ بغداد، النعمان بن ثابت ۷۲۹ھ، ج ۱۳، ص ۳۵۲۔

③..... تاریخ بغداد، النعمان بن ثابت ۷۲۹ھ، ج ۱۳، ص ۳۵۳، ۳۵۴۔

## زہد و تقویٰ:

حضرت سیدنا ربیع بن عاصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَاطِمِ بیان کرتے ہیں کہ ”مجھے یزید بن عمر بن ہبیرہ نے حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ کو بلانے کے لئے بھیجا تو میں انہیں بلا لایا، اس نے آپ کو بیت المال کا حاکم بنانا چاہا آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے انکار پر اس نے آپ کو 20 کوڑے لگوائے۔“ (۱)

پس تم غور کرو کہ حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ نے اذیت تو برداشت کر لی لیکن عہدہ قبول نہ کیا۔

## آخرت کی سزا پر دنیاوی سزا کو ترجیح:

حکم بن ہشام ثقفی کا بیان ہے کہ مجھے ملک شام میں حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حاکم وقت نے چاہا کہ آپ اس کے خزانوں کی کنجیوں کے ذمہ دار بن جائیں ورنہ آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے لیکن آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عذاب الہی کے مقابلے میں دنیاوی سزا کو اختیار کر لیا۔ (۲)

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا: ”تم ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہو جس پر دنیا تمام مال و اسباب کے ساتھ پیش کی گئی لیکن اس نے پھر بھی اسے قبول نہ کیا۔“ (۳)

## 10 ہزار درہم قبول نہ کئے:

حضرت سیدنا محمد بن شجاع رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ایک شاگرد نے بتایا کہ کسی نے استاذ صاحب سے کہا: ”خليفة ابو جعفر منصور نے آپ کے لئے 10 ہزار درہم کا حکم دیا ہے۔“ راوی کا بیان ہے کہ اس پر آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پھر جب وہ دن آیا جس میں مال دیا جانا تھا تو

①..... تاریخ بغداد، النعمان بن ثابت ۲۹۷ھ، ج ۱۳، ص ۳۲۸۔

الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء لابن عبد البر، ص ۱۷۔

②..... تاریخ بغداد، النعمان بن ثابت ۲۹۷ھ، ج ۱۳، ص ۳۵۰۔

③..... مرقاة المفاتیح، شرح مقدمة المشكاة: ترجمة الامام ابی حنيفة و مناقبه، ج ۱، ص ۷۷۔

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے نماز فجر ادا کی پھر کپڑے سے منہ چھپالیا اور کوئی بات نہ کی۔ حسن بن قُطْبَةَ کا قاصد مال لے کر حاضر ہوا تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس سے بھی کوئی بات نہ کی۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا: ”یہ ہم سے بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں یعنی یہ ان کی عادت ہے۔“ پھر آپ نے مال لانے والے سے فرمایا: ”مال کی تھیلی گھر کے ایک کونے میں رکھ دو۔“ اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اپنے گھر کے سامان کی وصیت فرمائی اور بیٹے سے فرمایا: ”جب میں میرا انتقال ہو جائے اور مجھے دفن کر چکو تو یہ تھیلی حسن بن قُطْبَةَ کو دے آنا اور کہنا کہ یہ تمہاری امانت ہے جو تم نے ابوحنیفہ کے پاس رکھی تھی۔“ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے ایسا ہی کیا۔“ حسن بن قُطْبَةَ نے کہا: ”تمہارے والد پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو، بے شک وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔“ (۱)

### منصب و عہدہ قبول نہ کیا:

منقول ہے کہ جب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو عہدہ قضا کی ذمہ داری سونپی گئی تو فرمایا: ”میں اس کے لائق نہیں۔“ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ”اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس عہدے کے لائق نہیں اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی بننے کے ویسے ہی لائق نہیں ہوتا۔“ (۲)

### طریقِ آخرت کے عالم:

حضرت سیدنا امام اعظم عَلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمُ طَرِيقِ آخِرَتِ اور امور دین کا علم بھی رکھتے تھے۔ معرفت الہی بھی حاصل تھی۔ اس پر آپ کا خوف خدا اور دنیا سے بے رغبتی دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن جریج رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا بیان ہے کہ ”مجھے حضرت سیدنا امام اعظم عَلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمُ کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں۔“ (۳)

①..... الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء لابن عبدالبر، ذکر طرف من فطنة ابي حنيفة، ص ۱۶۹۔

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة..... الخ، الرقم: ۲۰۲۳، ج ۱، ص ۱۶۸۔

③..... الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء لابن عبد البر، قول الشافعي فيه، ص ۱۳۔

## ہمیشہ فکر آخرت میں مگن:

حضرت سیدنا شریک نخعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي بیان کرتے ہیں کہ ”حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْبَرِ اکثر خاموش رہتے، ہمیشہ فکر آخرت میں مگن رہتے اور لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے۔“ (۱)

یہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے علم باطن اور دین کے اہم امور میں مشغول رہنے پر واضح دلائل ہیں کیونکہ جسے خاموشی اور زہد عطا کیا گیا بے شک اسے سارا علم عطا کر دیا گیا۔ تینوں ائمہ کے یہ مختصر احوال ہیں۔

## مناقب امام احمد بن حنبل اور امام ثوری:

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمَا کے متبعین مذکورہ تینوں ائمہ کے مقلدین سے بہت کم ہیں اور حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے مقلدین حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَوَّل کے مقلدین سے بھی کم ہیں لیکن ان دونوں کا زہد و تقویٰ مشہور ہے اور یہ کتاب انہی کے اقوال و افعال کی حکایات سے مزین ہے، مزید تفصیل کی حاجت نہیں۔ اب آپ ان تینوں ائمہ کرام رَحْمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام کی سیرتوں میں غور کیجئے اور سوچئے کہ کیا دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے یہ احوال، اقوال، افعال اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہر چیز سے بیگانہ ہو جانا فقہ کی جزئیات یعنی بیع سلم، اجارہ، ظہار، ایلاء اور لعان کو جاننے سے حاصل ہوتے ہیں یا یہ کسی اور علم کا نتیجہ ہیں جو اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر انہیں دیکھو جو ان کی اقتدا و پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے؟



①..... الانتقاء فی فضائل الثلاثة الفقہاء لابن عبد البر، یحییٰ بن سعید القطان، ط ۱۳۔

## باب نمبر 3: ان مذموم علوم کا بیان جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں

اس باب میں بیان ہوگا کہ بعض علوم برے کیوں ہیں؟ اور یہ کہ بعض علوم مثلاً فقہ، علم، توحید، تذکیر اور حکمت کے نام تبدیل ہو گئے ہیں اور علوم شرعیہ کس قدر اچھے ہیں اور کس قدر برے؟

### پہلی فصل: بعض علوم کے مذموم ہونے کا سبب

شاید تم کہو کہ علم کسی چیز کو اس طرح جان لینے کا نام ہے جیسی وہ ہے اور علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات میں سے بھی ہے پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز علم بھی ہو اور بری بھی؟ تو یاد رکھو! علم کو علم ہونے کی وجہ سے برا نہیں کہا جاتا بلکہ بندوں کے حق میں تین میں سے ایک وجہ سے برا ہوتا ہے۔

**پہلی وجہ:** یہ ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کے لئے یا اس کے سوا کسی دوسرے کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے جیسا کہ جادو اور طلسمات کی برائی بیان کی جاتی ہے حالانکہ یہ حق ہے کیونکہ قرآن حکیم نے اس کی گواہی دی ہے اور یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر بھی جادو کیا گیا تھا جس کے سبب آپ بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے اس کی خبر دی تو کنوئیں میں پتھر کے نیچے سے جادوئی اشیاء کو نکالا گیا۔<sup>(۱)</sup>

### جادو کے برا ہونے کا سبب:

جادو علم ہی کی ایک قسم ہے جو جو اہر کے خواص اور ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہوں میں حسابی امور سے حاصل ہوتا ہے۔ ان جو اہر سے اس شخص کی شکل و صورت پر اس کا پتلا بنایا جاتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے پھر ستاروں کے طلوع کے خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اور وقت آنے پر اس پتلے پر کفریات اور خلاف شرع بے حیائی کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عادت جاریہ کے حکم سے جس شخص پر جادو کیا جائے اس پر عجیب و غریب احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو جاننا بحیثیت

①..... صحیح البخاری، کتاب الطب، باب السحر، الحدیث: ۵۷۶، ج ۴، ص ۴۰۔

علم ہونے کے برائیں لیکن چونکہ یہ علم لوگوں کو نقصان دینے اور برائی پہنچانے والی شے خود بری ہوتی ہے۔ لہذا یہ جادو کے برا علم ہونے کا سبب ہے۔

### جھوٹ بولنا کیسا؟<sup>(۱)</sup>:

یونہی جو شخص کسی ولی کو شہید کرنے کے درپے ہو اور ولی کسی جگہ چھپ جائے پھر ظالم کسی سے اس کے متعلق پوچھے تو اسے اس کے بارے میں نہ بتانا جائز ہے بلکہ اس موقع پر خلاف واقع بات بولنا واجب ہے حالانکہ اس جگہ کا بتانا دینا راہ دکھانا اور کسی چیز کا بتانا ہے لیکن چونکہ یہ نقصان کا ذریعہ ہے اس لئے برا ہے۔

دوسری وجہ: بعض اوقات علم اپنے صاحب کو اکثر نقصان دیتا ہے جیسا کہ علم نجوم، یہی نفسہ (یعنی اپنی ذات کی وجہ سے) برائیں کیونکہ اس کی دو قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... حساب: اسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے کہ سورج اور چاند کا چلنا حساب سے ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾ (پ ۲، الرحمن: ۵) ترجمہ کنز الایمان: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَالْقَمَرَ قَدَرًا مَّزَالًا حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾ (پ ۲۳، یس: ۳۹) یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال (ٹہنی)۔

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 517 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ”تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے، جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لئے بھی (جھوٹ بولنا) جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلاً ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بی بی (بیوی) کو خوش کرنے کے لئے کوئی بات خلاف واقع کہدے۔

﴿2﴾..... احکام: علم نجوم کا حاصل، اسباب کو دیکھ کر واقعات کا اندازہ لگانا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے طبیب نبض دیکھ کر عنقریب پیدا ہونے والے مرض کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے اور یہ اس بات کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عادت اور سنتِ جاریہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کی مذمت بیان کی۔ چنانچہ، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تقدیر کی بات ہو تو خاموش ہو جاؤ اور جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو اور جب میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو ہو تب بھی چپ رہو۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”مجھے اپنے بعد امت پر تین چیزوں کا خوف ہے: (۱) ائمہ کے ظلم (۲) ستاروں پر ایمان لانے اور (۳) تقدیر کے جھٹلائے جانے کا۔“ (۲)

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”ستاروں کا صرف اتنا علم حاصل کرو جس سے خشکی اور تری میں راہ پاسکو۔“ (۳)

## علم نجوم سے ممانعت کی وجوہات:

علم نجوم سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں:

﴿1﴾..... یہ اکثر لوگوں کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے یوں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ستاروں کی گردش کے نتیجے میں یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ستارے ہی مؤثر ہیں اور یہی معبود ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں کیونکہ یہ معزز آسمانی جواہر ہیں، ان کی تعظیم دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر دل انہی کی طرف متوجہ رہتا اور خیر و شر کے آنے یا نہ آنے کو انہی کی جانب سے تصور کرتا ہے۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر دل سے مٹ جاتا ہے کیونکہ کمزور ایمان والے کی نظر اسباب و وسائل پر ہی ہوتی ہے جبکہ مضبوط ایمان والا عالم جانتا ہے کہ سورج، چاند اور

①..... المعجم الكبير، الحديث ۱۴۲، ج ۲، ص ۹۶۔

جامع بيان العلم وفضله، باب العبارة عن حدود علم الديانات، الحديث ۸۳، ص ۲۹۷۔

②..... جامع بيان العلم وفضله، باب العبادة عن حدود علم الديانات، الحديث ۸۳، ص ۲۹۸۔

معرفة الصحابة لابی نعيم الاصبهاني، الحديث ۲۰۵، ج ۵، ص ۳۲۔

③..... جامع بيان العلم وفضله، باب العبارة عن حدود علم الديانات، الحديث ۸۳، ص ۲۹۶۔

المصنف لابن ابی شيبه، كتاب الادب، في تعليم النجوم ما قالوا فيها، الحديث، ج ۶، ص ۱۲۹۔



ستارے حکم الہی ہی کے تابع ہیں۔ کمزور ایمان والے کی مثال کہ طلوع آفتاب کے وقت جس کی نظر روشنی کا حصول ہو چوٹی کی مانند ہے کہ اگر اسے عقل دی جائے اور وہ صفحے پر ہو اور اس پر مرتب ہونے والی خط کی سیاہی کو دیکھ رہی ہو تو وہ یہ اعتقاد رکھے گی کہ یہ قلم کا فعل ہے، اس کی نظر انگلیوں کو نہیں دیکھ سکے گی پھر انگلیوں سے ہاتھ پھر اس سے ہاتھ کو حرکت دینے کے ارادے پھر ارادے سے قدرت و ارادے کے مالک کا تب پھر کا تب سے ہاتھ، قدرت اور ارادے کو پیدا کرنے والے کی طرف بھی نہیں پہنچے گی کیونکہ اکثر لوگوں کی نظر قریبی اور نیچے کے اسباب پر ٹھہر جاتی ہے اور مسبب الاسباب تک رسائی نہیں پاتی۔ یہ علم نجوم سے منع کرنے کا ایک سبب ہے۔

﴿2﴾..... علم نجوم کے احکام محض تخمینی (یعنی قیاس پر مبنی) ہوتے ہیں۔ کسی خاص شخص کے بارے میں نہ یقینی حکم معلوم ہوتا ہے نہ ظنی۔ لہذا اس کی وجہ سے حکم لگانا جہالت سے حکم لگانا ہے۔ اس صورت میں علم نجوم کی مذمت و برائی جہالت ہونے کے اعتبار سے ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ علم ہے۔ حالانکہ یہ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ ہے جیسا کہ منقول ہے۔ لیکن اب یہ علم مٹ گیا اور ناپید ہو گیا ہے۔ نجومی کی بات اگر کبھی درست ہوتی بھی ہے تو وہ نادر اور اتفاقی ہے کیونکہ نجومی بسا اوقات ایک سبب پر مطلع ہوتا ہے لیکن اس سبب کے بعد مسبب نہیں پایا جاتا جب تک کثیر شرائط نہ پائی جائیں اور وہ شرائط ایسی ہیں کہ جن کی حقیقتوں سے آگہی انسانی طاقت سے باہر ہے۔ لہذا اگر اتفاقاً اللہ عزوجل قادر مطلق دوسرے اسباب کو بھی مقدّر فرمادے تو نجومی کی بات درست ہوتی ہے اور اگر مقدّر نہ فرمائے تو غلط اور یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان جب دیکھتا ہے کہ بادل اکٹھے ہو رہے اور پہاڑوں سے اٹھ رہے ہیں تو وہ اندازہ لگا کر کہتا ہے کہ آج بارش ہوگی لیکن اکثر سورج نکل آتا ہے اور بادل غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ الغرض! صرف بادلوں کا ہونا بارش برسنے کے لئے کافی نہیں جب تک دوسرے اسباب معلوم نہ ہوں۔ اسی طرح ملاح (کشتی بان) ہواؤں کے متعلق اندازہ لگا کر بطور عادت کہہ دیتا ہے کہ کشتی سلامت رہے گی حالانکہ ان ہواؤں کے کچھ مخفی اسباب بھی ہیں جن کی اسے خبر نہیں جس کی وجہ سے کبھی اس کا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی غلط۔ اسی وجہ سے مضبوط اور قوی (ایمان والے) شخص کو بھی علم نجوم سیکھنے سے روکا گیا ہے۔

﴿3﴾..... علم نجوم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کم از کم حالت یہ ہے کہ یہ ایک فضول اور بے مقصد بات میں غور و خوض

کرنا ہے اور انسان کے سب سے قیمتی سرمایہ یعنی عمر کو ایک ایسے کام میں ضائع کرنا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے۔

**بے فائدہ علم:**

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے آس پاس لوگ جمع تھے۔ استفسار فرمایا: ”یہ کیا؟“ لوگوں نے بتایا: ”بہت بڑا عالم ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”کس چیز کا؟“ عرض کی: ”شعر اور عربوں کے نسب کا۔“ ارشاد فرمایا: ”یہ ایسا علم ہے جس کا فائدہ نہیں اور ایسی جہالت ہے جس کا نقصان نہیں۔“<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”علم تو پختہ آیت، سنت قائمہ یا عدل و انصاف پر مبنی فریضہ ہے۔“<sup>(۲)</sup> لہذا پتا چلا کہ علم نجوم اور اس جیسے دیگر علوم میں غور و خوض کرنا خطرہ مول لینا اور بے فائدہ جہالت میں غور و فکر کرنا ہے کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اس سے بچنا ممکن نہیں۔ لیکن علم طب کا معاملہ اس کے برعکس ہے اس لئے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے اکثر دلائل پر اطلاع مل جاتی ہے۔ اسی طرح تعبیر کا معاملہ بھی علم نجوم کے برعکس ہے۔ اگرچہ یہ بھی تخمینہ (قیاسی) ہے لیکن یہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی خطرہ نہیں۔

**تیسری وجہ:** ایسے علم میں غور و خوض کرنا جس میں غور و خوض کرنے والے کو کوئی علمی فائدہ حاصل نہ ہو، یہ اسی کے حق میں برا ہے۔ جیسے علوم کی واضح اور عام فہم باتیں سیکھنے سے پہلے اس کی باریکیوں اور پوشیدہ باتوں کو سیکھنا اور اسرارِ الہیہ میں بحث کرنا کیونکہ فلاسفہ اور علم کلام والوں نے ان کو جاننے کی کوشش کی مگر وہ ان تک رسائی نہیں پاسکے اور انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سوا کوئی بھی ان تک رسائی نہیں پاسکتا اور نہ ان کے بعض طریقوں کو جان سکتا ہے۔ اس لئے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے باز رہیں اور جو شریعت نے بیان کیا اس کی طرف رجوع کریں۔ توفیق یافتہ کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کتنے لوگوں نے علوم میں غور و خوض کیا مگر انہیں نقصان ہوا، اگر وہ ان میں غور و فکر نہ کرتے تو دین میں اس سے اچھی حالت پر ہوتے۔ نیز اس

①.....جامع بیان العلم وفضلہ، باب معرفة اصول العلم و حقیقتہ، الحدیث: ۷۷۷، ص ۲۷۷۔

②.....سنن ابی داؤد، کتاب الفرائض، باب ماجاء فی تعلیم الفرائض، الحدیث: ۲۸۸، ج ۳، ص ۱۶۴۔

بات کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ علم بعض لوگوں کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے جس طرح پرندے کا گوشت اور خوشگوار حلوے کی بعض اقسام دودھ پیتے بچے کو نقصان دیتی ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا بعض باتوں سے جاہل رہنا ہی ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے۔

### حکایت: موٹاپے کا نقصان:

چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم کو شکایت کی کہ اس کی بیوی بانجھ ہے اولاد نہیں ہوتی۔ حکیم نے عورت کی نبض دیکھ کر کہا: ”تجھے اب بچہ پیدا کرنے کے لئے دوا کی ضرورت نہیں کیونکہ نبض دیکھنے سے پتا چلا ہے کہ تو 40 دن کے اندر مر جائے گی۔“ وہ عورت بہت خوفزدہ ہوئی، اس کی زندگی تلخ ہو گئی، اس نے اپنے اموال نکال کر تقسیم کر دیئے، وصیت کی اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا یہاں تک کہ 40 روز کی مدت گزر گئی لیکن اسے موت نہ آئی، اس کا شوہر حکیم کے پاس گیا اور کہا: ”وہ مری نہیں۔“ حکیم نے کہا: ”مجھے پتا ہے، اب تم اس سے جماع کرو وہ بچہ جنے گی۔“ اس نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ حکیم نے کہا: ”میں نے دیکھا کہ وہ موٹی تھی اور اس کے رحم (بچہ دانی) کے منہ پر چربی چڑھ گئی تھی (جو ولادت سے مانع تھی) تو میں نے جانا کہ یہ صرف موت کے خوف سے کمزور ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اسے موت سے ڈرایا یہاں تک کہ اب وہ کمزور ہو چکی ہے اور ولادت کی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔“ اس حکایت سے معلوم ہو گیا کہ بعض علوم حاصل کرنے میں خطرہ ہوتا ہے نیز اس فرمانِ مصطفیٰ کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ”ہم ایسے علم سے اللہ عزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں جو نفع نہ دے۔“

### اتباع سنت میں سلامتی ہے:

اس حکایت سے عبرت حاصل کرو اور ان علوم کے متعلق بحث نہ کرو جنہیں شریعت نے مذموم قرار دیا اور ان سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پیروی کو لازم پکڑ لو اور اتباع سنت پر اکتفا کرو کیونکہ اتباع میں سلامتی ہے جبکہ اشیاء کے بارے میں بحث و تحقیق کرنے میں خطرہ ہے۔ اپنی رائے، عقل، دلیل اور برہان کے ذریعے زیادہ جھگڑانہ کرو اور تمہارا یہ گمان کہ میں اشیاء کی ماہیت و حقیقت جاننے کے لئے ان کے متعلق بحث کرتا ہوں تو علم میں غور و تفکر کا کیا نقصان ہے؟ تو سنو! اس کا جو نقصان تمہیں پہنچے گا وہ بہت زیادہ ہے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر

مطلع ہونا تمہیں ایسا نقصان پہنچائے گا جو تمہیں آخرت میں تباہ و برباد کر ڈالے گا مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں اپنی رحمت سے نواز دے اور جان لو! جس طرح ماہر طبیب معالجات کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے اور جو ان اسرار سے بے خبر ہو وہ انہیں بعید سمجھتا ہے اسی طرح انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ دلوں کے طبیب اور حیاتِ اُخرویہ کے اسباب سے باخبر ہیں اس لئے تم اپنی عقل کو ان کے طریقوں پر ترجیح نہ دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی انگلی میں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو ان کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ انگلی پر لپک کر دیا جائے جبکہ طبیبِ حاذق انہیں بتاتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انگلی کی دوسری جانب لپک کیا جائے تو وہ اسے بہت زیادہ بعید سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پٹھوں کے پھوٹنے اور نکلنے کی کیفیت اور ان کے بدن پر پھیلنے کی صورت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی طرح طریقِ آخرت، شریعت کے طریقوں اور آداب کی باریکیوں کا معاملہ ہے اور جو عقیدے لوگوں کے لئے مقرر ہیں ان میں ایسے اسرار اور باریکیاں ہیں کہ ان کا احاطہ عقلِ انسانی کی قوت و وسعت سے باہر ہے۔ جیسا کہ پتھروں کے خواص میں بعض ایسی عجیب باتیں ہوتی ہیں جو اہل فن کو بھی معلوم نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ کوئی یہ نہیں جان سکا کہ مقناطیس لوہے کو کیوں کھینچتا ہے۔

عقائد و اعمال کے عجائب و غرائب اور فوائد و اؤں اور جڑی بوٹیوں کے فوائد سے زیادہ اور عظیم ہیں۔ یہ دلوں کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت و تزکیہ کا فائدہ دیتے ہیں۔ انہیں سنوارنے سے قربِ خداوندی میں ترقی ہوتی اور فضلِ الہی کی خوشبوئیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس طرح عقلیں ادویات کے فوائد کا ادراک نہیں کر سکتیں حالانکہ ان کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ان عقائد و اعمال کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہیں جو آخری زندگی میں نفع دیں گے جبکہ ان کا تجربہ بھی نہیں کیا جاسکتا اور ان کا تجربہ محض یوں ہو سکتا ہے کہ کوئی مردہ ہمارے پاس آ کر ہمیں بتا دے کہ یہ اعمال مقبول، نفع مند اور قربِ الہی کا ذریعہ ہیں اور یہ اعمال رحمتِ الہی سے دوری کا باعث ہیں۔ اسی طرح عقائد کے بارے میں بھی بتا دے لیکن اس کی امید نہیں کی جاسکتی اس لئے تمہیں عقل کا اتنا فائدہ کافی ہے کہ وہ تمہیں رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو سچا جاننے کی ہدایت دے اور ان کے اشاروں کے مقاصد سمجھائے۔ بس اس کے بعد عقل کا عمل ترک کر دو اور اتباع کو لازم کر لو۔ اسی اتباع اور تسلیم کرنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ اسی لئے مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بعض علم جہالت ہوتے ہیں اور بعض باتیں

تھکاوٹ (کاباعث) ہوتی ہیں۔“ (۱)

ظاہر ہے کہ علم جہالت نہیں ہوتا لیکن نقصان دینے میں وہ جہالت جیسا اثر کرتا ہے۔ نیز آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”تھوڑی توفیق زیادہ علم سے بہتر ہے۔“ (۲)

## علوم درختوں اور پھلوں کی مانند ہیں:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحُ اللهِ عَلَيَّ نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: ”درخت کتنے زیادہ ہیں لیکن سب پھل نہیں دیتے اور نہ ہی سب پھل عمدہ ہوتے ہیں اسی طرح علوم کتنے زیادہ ہیں لیکن سب نفع نہیں دیتے۔“ (۳)

## دوسری فصل: الفاظِ علوم میں تبدیلی کا بیان

جان لو! برے علومِ علومِ شرعیہ کے ساتھ اس لئے مل گئے ہیں کہ لوگوں نے اغراضِ فاسدہ کی وجہ سے اچھے ناموں میں تحریف کر کے انہیں بدل دیا اور سلفِ صالحین وقرنِ اول والے ان کے جو معانی مراد لیتے تھے انہیں ان کے علاوہ دوسرے معانی کی طرف منتقل کر لیا۔ ایسے پانچ الفاظ کہ جنہیں لوگوں نے برے معانی کی طرف پھیر لیا: (۱) فقہ (۲) علم (۳) توحید (۴) تذکیر (وعظ و نصیحت) اور (۵) حکمت۔ یہ نام اچھے ہیں اور ان سے متصف لوگوں کا دین میں بڑا مقام ہے لیکن اب انہیں برے معانی میں منتقل کر لیا گیا ہے اور چونکہ یہ نام ان لوگوں پر بولے جاتے تھے اس لئے اب جو لوگ ان سے متصف ہیں ان کی مذمت سے دل نفرت کرتے ہیں۔

## تفصیل:

﴿1﴾.....فقہ: اسے دوسرے معنی کی طرف منتقل کرنے کی تحریف تو نہیں کی لیکن اسے اس کے ساتھ خاص کر لیا جو فتاویٰ کی نادر جزئیات کو جانے، ان کی علتوں کی باریکیوں پر مطلع ہو، اس میں بہت زیادہ کلام کرتا اور اس کے متعلق مقالے یاد کرتا ہو۔ جو ان میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا اور زیادہ مشغول رہتا ہے اسے بڑا فقیہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے

①.....سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ماجاء فی الشعر، الحدیث ۵۰۱۲، ج ۴، ص ۳۹۴۔

②.....کشف الخفاء، حرف القاف، الحدیث ۱۸۸، ج ۲، ص ۹۱۔

③.....تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، حواریو عیسی ابن مریم علیہ السلام: ۸۹۹، ج ۶۸، ص ۶۶۔

ربیع الابرار، باب العلم والحکمة.....الخ، ص ۳۱۔

زمانے میں مطلقاً علمِ طریقِ آخرت، آفاتِ نفس کی باریکیوں کی معرفت، مفسداتِ اعمال، دنیا کی تحارت کا پورا احاطہ کرنے، آخرت کی نعمتوں سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف کے غالب رہنے کا نام فقہ تھا۔ اس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ ارشاد ہے:

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔

لہذا جس فقہ سے ڈرانا اور خوف دلانا حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے نہ کہ طلاق، عتاق، لعان، سلم اور اجارہ کے مسائل کیونکہ ان سے ڈرانا اور خوف دلانا حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اسی میں لگے رہنے سے دل سخت ہوتا اور دل سے خوفِ خدا نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کا حال دیکھتے ہیں جو صرف اسی کے ہو کر رہ گئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (پ ۹، الاعراف: ۱۷۹) ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ اس میں ایمان کے معانی نہ سمجھنا مراد ہے، فتاویٰ کو نہ سمجھنا مراد نہیں۔ میری زندگی کی قسم! لغت میں فقہ اور فہم دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور پہلے اور اب بھی عادتاً ان کا استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (پ ۲۸، الحشر: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے یہ اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں۔

اس آیت میں ان کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کم ڈرنے اور لوگوں کے دبدبے کو زیادہ جاننے کی وجہ ان کی قلتِ فقہ بتایا۔ لہذا تم غور کرو کہ یہ فتاویٰ کی تفریعات یاد نہ کرنے کا نتیجہ ہے یا جو علوم ہم نے بیان کئے ان کے نہ ہونے کا۔ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ وفد کی صورت میں حاضر ہوتے تھے ان کے لئے ارشاد فرمایا: ”یہ اہلِ علم، دانا اور سمجھدار ہیں۔“ (۱)

①..... الفقیہ والمتفقہ، ذکر تقسیم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب..... الخ، الرقم ۱۷۹/۱، ج ۱، ص ۱۸۵۔

سنن دارمی، المقدمة، باب فی فضل العلم والعلم، الرقم ۳۲۰۳/۳۳۰، ج ۱، ص ۱۰۷۔

## سب سے بڑا فقیہ:

حضرت سپید ناسعد بن ابراہیم زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ سے پوچھا گیا کہ ”اہل مدینہ میں بڑا فقیہ کون ہے؟“ فرمایا: ”وہ جوان میں سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ ڈرتا ہے۔“ (۱)

اس میں گویا فقہ کے نتیجے کی طرف اشارہ ہے اور تقویٰ علم باطن کا ثمرہ ہے نہ کہ فتاویٰ اور قضایا کا۔ چنانچہ، رسولوں کے سالار، محبوب پروردگار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں کامل فقیہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟“ عرض کی گئی: ”کیوں نہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”وہ جو لوگوں کو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کرے، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے فیضانِ رحمت سے ناامید نہ کرے اور قرآنِ پاک سے کسی اور چیز کی طرف رغبت نہ کرے۔“ (۲)

## غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل:

حضرت سپید نانس بن مالک رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ انبیا، محبوب کبریا صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ صبح سے طلوع آفتاب تک بیٹھنا مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“ (۳)

راوی فرماتے ہیں: یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت سپید نانس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یزید رقاشی اور زیاد نمیری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”اس وقت ذکر کی محافل تمہاری محفلوں جیسی نہ تھیں۔ تمہاری محافل تو ایسی ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے رفقا کو وعظ کرتا ہے اور بہت تیز بولتا ہے جبکہ ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ایمان کا تذکرہ کرتے، قرآنِ حکیم میں غور و فکر کرتے، دین سمجھتے اور دین کی سمجھ کے لئے خود پر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کو شمار کرتے تھے۔“ (۴)

①..... سنن الدارمی، المقدمة، باب من قال: العلم، الخشية، وتقوى الله، الرقم: ۲۹، ج ۱، ص ۱۰۱۔

②..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب من يستحق أن يسمى فقیها او عالماً، الحدیث: ۸۵، ص ۳۰۴۔

③..... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶، ج ۳، ص ۴۵۲۔

کتاب الدعاء للطبرانی، باب فضل ذکر اللّٰہ من صلاة الصبح الی..... الخ، الحدیث: ۱۸۴، ص ۵۲۴۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹۔

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے قرآنِ پاک میں غور و فکر کرنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتیں شمار کرنے کو فقہ کا نام دیا۔ سردارِ مکہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ اس وقت تک کامل فقیہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر لوگوں کو ناراض نہ کر لے اور قرآنِ پاک کے لئے کئی وجوہ کا اعتقاد نہ رکھے۔“ (۱)

یہ حدیثِ پاک حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے بھی موقوفاً مروی ہے اور اس میں اتنا زائد ہے کہ ”پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہو۔“ (۲)

## کامل فقیہ کی علامات:

حضرت سیدنا فرقد سخی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا تو انہوں نے عرض کی: ”فقہا تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا حسن بصری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي نے فرمایا: ”اے فریقہ! (یہ فرقد کی تصغیر ہے) تجھے تیری ماں روئے! کیا تو نے اپنی آنکھوں سے کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھتا ہو۔ اپنے دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر ہیشتگی اختیار کرتا ہو۔ پرہیزگار ہو۔ مسلمانوں کی عزتوں کے درپے ہونے سے خود کو بچاتا ہو۔ ان کے مالوں پر نظر نہ رکھے اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔“ (۳)

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے یہ نہیں فرمایا کہ فتاویٰ کی فروعات کا حافظ ہو، میں نہیں کہتا کہ لفظ فقہ ظاہری احکام کے فتاویٰ کو شامل نہیں بلکہ بطریقِ عموم و شمول اور بالتبع انہیں بھی شامل ہے لیکن اسلاف اس کا اطلاق اکثر علمِ آخرت پر کرتے تھے۔ اس تخصیص سے ان لوگوں کا فریب ظاہر ہو گیا جو دل کے احکام اور علمِ آخرت سے غافل ہو کر محض اسی

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب من يستحق ان يسمى فقيها او عالماً، الحديث: ۸۵، ص ۳۰۵۔

②.....جامع معمر بن راشد مع مصنف عبدالرزاق، باب العلم، الرقم: ۲۰۶۲، ج ۱۰، ص ۲۳۹۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، عویمر بن زید ابوالدرداء: ۵۲۶، ج ۲، ص ۱۷۳۔

③.....سنن الدارمی، المقدمة، باب من قال: العلم، خشية وتقوى الله، الرقم: ۲۹، ج ۱، ص ۱۰۱۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۳۔



کے ہو کر رہ گئے اور انہوں نے اس پر صرف طبیعت کو معاون پایا کیونکہ علم باطن گہرا، اس پر عمل کرنا مشکل اور اس کے ذریعے حکومت، عہدہ فضا اور عزت و مال کا حصول دشوار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان نے اس (یعنی ظاہری فقہ) کو لوگوں کے دلوں میں عمدہ بنانے کا موقع پایا وہ یوں کہ فقہ جو شرع میں ایک پسندیدہ نام ہے اسے خاص کر دیا۔

﴿2﴾..... علم: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات، اس کی نشانیوں اور بندوں کے بارے میں اس کے افعال (کی حکمتوں) کو جاننے پر بولا جاتا تھا یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے وصال پر ملال پر حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم کے دس میں سے نو حصے چلے گئے۔“<sup>(۱)</sup> انہوں نے لفظ علم کو الف لام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات کے علم کے ساتھ اس کی وضاحت کی۔ لوگوں نے تصرف کر کے اس میں بھی تخصیص کر دی وہ یوں کہ انہوں نے اس لفظ کو اس کے ساتھ مشہور کر دیا ہے جو فقہی مسائل میں دم مقابل سے مناظرہ کرنے میں مشغول ہو۔ چنانچہ، (مناظر کے بارے میں) کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں عالم تو وہ ہے۔ وہ علم میں مرد ہے اور اس کے برعکس جو اس فن میں مہارت نہیں رکھتا اور نہ اس میں مشغول ہوتا ہے اسے کمزوروں میں شمار کیا جاتا ہے، اہل علم کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی تخصیص کے ذریعے تصرف ہے لیکن علم اور علما کے متعلق مروی فضائل اکثر ان کے بارے میں ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات، اس کے احکام و افعال اور صفات کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن اب مطلقاً اس کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے جنہیں شرعی علوم میں سے کسی میں بھی مہارت حاصل نہ ہو بلکہ صرف اختلافی مسائل میں جھگڑنے کے طریقے جانتا ہو، اس کا شمار بڑے بڑے علما میں کیا جاتا ہے حالانکہ وہ تفسیر، احادیث اور علم مذہب وغیرہ سے جاہل ہوتا ہے اور کثیر طلبہ علم کی ہلاکت و بربادی کا سبب یہی چیز ہے۔

﴿3﴾..... توحید: اب حالت یہ ہے کہ علم کلام اور مناظرہ کرنے کے طریقوں کو جاننے، مخالف کے اعتراضات توڑنے کے طریقوں کا احاطہ کرنے، کثرت سوال کے لئے بتکلف فصاحت کا اظہار کرنے، شبہات ڈالنے اور الزام تراشی کرنے کا نام توحید رکھ دیا گیا۔ حتیٰ کہ بعض گروہوں نے اپنا لقب اہل عدل اور اہل توحید رکھ لیا ہے اور متکلمین کو علمائے توحید کہا جانے لگا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں علم کلام کی خاص باتوں میں سے کسی چیز کو نہیں پہچانا جاتا تھا بلکہ وہ

①..... المعجم الكبير، الحديث ۸۸۱، ج ۹، ص ۱۶۳۔

لوگ اختلافات اور جھگڑوں کا دروازہ کھولنے والے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ بہر حال جن ظاہری دلائل پر قرآن پاک مشتمل ہے اور پہلی سماعت پر ہی جنہیں قبول کرنے میں ذہن جلدی کرتے ہیں، وہ سب کو معلوم تھے اور قرآن پاک کا علم ہی تمام علم تھا۔ ان کے نزدیک توحید کسی اور چیز کا نام تھا جسے اکثر علم کلام والے نہیں سمجھتے اور اگر سمجھیں تو اس سے متصف نہیں ہوتے۔

## حقیقی توحید:

تمام امور کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہونے کا ایسا اعتقاد رکھا جائے کہ اسباب و وسائل کی طرف بالکل توجہ نہ رہے۔ ہر خیر و شر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے جانا جائے۔ یہ ایک معزز مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے نتائج و فوائد میں سے ایک تو کل بھی ہے جس کا بیان ”کتاب التَّوْحِيدِ“ میں آئے گا۔

## توحید کے فوائد و ثمرات:

توحید کے ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مخلوق کی شکایت نہ کی جائے، ان پر غصہ نہ کیا جائے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر رضامندی کا اظہار کیا جائے، اسی کے ثمرات میں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا یہ قول ہے کہ جب بیماری میں آپ سے عرض کی گئی: ”کیا ہم آپ کے لئے طبیب کو لے آئیں؟“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔“<sup>(۱)</sup> نیز یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور پوچھا گیا کہ ”طبیب نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے؟“ تو فرمایا: ”طبیب نے کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔“<sup>(۲)</sup>

عَنْ قُرَيْبٍ ”كُتِبَ التَّوْحِيدُ“ اور ”كُتِبَ التَّوْحِيدُ“ میں اس کے دلائل بیان ہوں گے۔

توحید ایک نفیس جوہر ہے اور اس کے دو پوست (چھلکے) ہیں ایک دوسرے کی نسبت مغز سے زیادہ دور ہے۔ لوگوں نے لفظ توحید کو پوست (چھلکے) اور اس کی حفاظت کے کام کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور مغز کو (جو کہ خالص توحید

①..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، زهد أبي بكر الصديق، الرقم ۵۸، ص ۱۴۲۔

②..... المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام أبي بكر الصديق، الحديث: ۱، ج ۸، ص ۱۴۶۔

ہے (اسے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ توحید کا پہلا پوست تو یہ ہے کہ تو اپنی زبان سے کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اللہ عزَّ وَجَلَّ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس توحید کو تثلیث (یعنی خداتین ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) کے خلاف توحید کہا جاتا ہے جس کے نصاریٰ قائل ہیں لیکن کبھی اس منافق سے بھی اس توحید کا صدور ہو جاتا ہے جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ توحید کا دوسرا پوست یہ ہے کہ دل میں اس قول کی مخالفت اور اس کا انکار نہ ہو بلکہ ظاہر دل بھی اس کے اعتقاد اور تصدیق کو شامل ہو اور یہ عام لوگوں کی توحید ہے۔ علم کلام والے اسی پوست کو اہل بدعت کی گڑ بڑ سے بچاتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا۔ تیسری چیز مغز توحید ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام امور کے اللہ عزَّ وَجَلَّ کی طرف سے ہونے کا ایسا اعتقاد رکھا جائے کہ اسباب و وسائل کی طرف بالکل توجہ نہ رہے۔ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے غیر کی عبادت نہ کی جائے۔

### حقیقی توحید سے خارج امور:

(۱) اس توحید سے خواہشِ نفس کی پیروی خارج ہے اور ہر وہ شخص جس نے خواہشِ نفس کی پیروی کی اس نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنالیا۔ اللہ رَبُّ الْعِبَادِ عزَّ وَجَلَّ کا ارشادِ حقیقت بنیاد ہے:

أَفْرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ  
ترجمہ کنز الایمان: بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا  
خدا ٹھہرا لیا۔ (پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۳)

تاجدارِ انبیا، محبوبِ کبریا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزَّ وَجَلَّ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ معبود زمین پر جس کی پرستش کی جائے وہ خواہشِ نفس ہے۔“<sup>(۱)</sup>

**مثال:** تحقیق یہ ہے کہ جو غور کرے گا وہ جان لے گا کہ بت کی پوجا کرنے والا درحقیقت بت کو نہیں بلکہ اپنی خواہشِ نفس کو پوجتا ہے کیونکہ اس کا نفس اس کے آباء و اجداد کے دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اس میلان کی اتباع کرتا ہے اور نفس کا اپنی پسندیدہ باتوں کی طرف مائل ہونا انہی معانی میں سے ایک ہے جنہیں خواہشاتِ نفسانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

①..... المعجم الكبير، الحديث ۷۵۰۲، ج ۸، ص ۱۰۳۔

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، حُصَيْبُ بْنُ جَحْدَرِ البصری، ۶۱، ج ۳، ص ۵۲۲۔

(۲) لوگوں سے ناراض ہونا اور ان کی طرف متوجہ ہونا بھی اس توحید سے خارج ہے کیونکہ جو تمام امور کو مینُ  
جانبِ اللہ جانے گا وہ کسی سے ناراض کیوں ہوگا۔ حقیقی توحید اسی مقام کا نام ہے اور یہ صدیقین کا مقام ہے۔

پس تم غور کرو کہ اسے کس معنی کی طرف بدل دیا گیا اور اس کے کس پوست پر قناعت کر لی گئی۔ کس طرح لوگوں  
نے اپنی تعریف اور فخر میں اس نام سے استدلال کیا جو محمود ہے لیکن اس معنی سے خالی ہے جس کی وجہ سے حقیقی تعریف  
کا استحقاق ہے۔ یہ اس افلاس (غربت) کی طرح ہے کہ کوئی صبح سویرے اٹھے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَنِيفًا  
ترجمہ کنز الایمان: میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے  
آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر۔<sup>(۱)</sup>

اب اگر اس کا دل خاص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ نہیں تو وہ ہر دن کا آغاز اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جھوٹ بول کر کرتا  
ہے۔ کیونکہ اگر منہ سے اس کی مراد ظاہری چہرہ ہے تو وہ تو کعبہ شریف کی طرف ہے کہ اسے اس نے باقی تمام جہتوں  
سے پھیر دیا لیکن کعبہ اس کی جہت نہیں جس نے آسمان و زمین بنائے کہ اس کی سمت توجہ کرنے سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی  
طرف متوجہ ہونے والا کہلائے، وہ تو اس سے پاک اور بلند ہے کہ سمتوں اور کناروں سے اس کا تعین کیا جائے اور اگر  
اس کی مراد قلبی توجہ ہے جو عبادت میں اصل مطلوب ہے تو پھر اس حالت میں اس کے قول کی تصدیق کیسے کی جاسکتی  
ہے جبکہ اس کا دل دنیوی اغراض و حاجات میں لگا ہو اور مال و جاہ اور کثرتِ اسباب کو جمع کرنے کے حیلوں کی تلاش  
میں مصروف ہو اور مکمل طور پر انہی کی طرف متوجہ ہو تو پھر کب اس نے اپنی توجہ اس کی طرف کی جس نے آسمان و زمین  
بنائے۔ یہ آیت توحید کی حقیقت کا بیان ہے۔

### توحید کا مرکز و سرچشمہ:

پس موحد وہ ہے جس کی نظر صرف ایک خدائے بزرگ و برتر کی طرف ہو اور وہ اپنی توجہ اسی کی جانب لگائے  
رکھے اور یہ اس ارشادِ باری تعالیٰ کی تعمیل ہے:

قُلِ اللّٰهُ لَا شَئْءَ دَرَّهُمْ فِيْ حَوْضِهِمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگی  
میں کھیلتا۔<sup>(۱)</sup> (پ، الانعام: ۹۱)

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامہ، الحدیث: ۷۷، ص ۳۹۰۔

اس سے مراد محض زبان سے کہہ دینا نہیں کیونکہ زبان تو دل کی ترجمان ہوتی ہے کبھی سچ بولتی ہے تو کبھی جھوٹ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نظر کا مقام تو وہ ہے جس کی ترجمانی زبان کرتی ہے اور وہ دل ہے اور یہی توحید کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔

﴿4﴾..... ذکرتذکیر: اللہ ربُّ الْعِبَادِ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

وَذَكَرْنَا الذِّكْرَ إِذْ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ (پ ۲، الذریت: ۵۵)

### محافل ذکر کی فضیلت:

ذکر کی محافل کی فضیلت میں کثیر احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چن لیا کرو۔“ عرض کی گئی: ”جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”ذکر کے حلقے۔“ (۱)

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں سیاحت (سیر) کرتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفلیں دیکھتے ہیں تو ان میں سے بعض بعض کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں: آؤ! اپنے مقصود کی طرف۔ وہ وہاں آتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ سنو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرو اور اپنے آپ کو نصیحت کیا کرو۔ (۲)

اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے بدل دیا گیا ہے کہ اب اس کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے جسے اکثر واعظین ہمیشہ بیان کرتے ہیں اور وہ قصے، اشعار، شطح اور طامات ہیں (مؤخر الذکر دونوں کی وضاحت آگے آرہی ہے)۔ قصے بدعت ہیں اور اسلاف نے قصہ گو کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ قصے نہ تو زمانہ رسالت میں تھے اور نہ ہی شیخین یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے زمانے میں یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو ظاہر ہوئے۔ (۳)

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ۸۴، الحدیث: ۳۵۲۱، ج ۵، ص ۳۰۴۔

②..... سنن الترمذی، باب ماجاء ان الله ملائكة سياحين فى الارض، الحدیث: ۳۶۱۱، ج ۵، ص ۳۴۴۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب القصص، الحدیث: ۳۷۵۴، ج ۴، ص ۲۲۷۔

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الادب، من کره القصص و ضرب فيه، الحدیث: ج ۶، ص ۱۹۶۔

## قصہ گووا عظیمین کی مذمت:

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (اچانک) مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا: ”میں قصہ گو کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو میں باہر نہ آتا۔“ (۱)

حضرت سیدنا زمرہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَيَان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي سے پوچھا: ”کیا ہم قصہ گو کی طرف منہ کر سکتے ہیں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”بدعتیوں سے اپنی پٹھیں پھیر لو۔“ (۲)

حضرت سیدنا ابن عمون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَيَان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِين کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا: ”آج کی کیا خبر ہے؟“ میں نے عرض کی: ”حاکم نے قصہ گو لوگوں کو قصے بیان کرنے سے روک دیا ہے۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”حاکم کو درست بات کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔“ (۳)

حضرت سیدنا امام اعمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو ایک قصہ گو کو قصے بیان کرتے ہوئے دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ ”ہمیں حضرت سیدنا امام اعمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بیان کیا۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حلقے کے بیچ میں جا بیٹھے اور بغل کے بال اکھیڑنے لگے۔ قصہ گو نے کہا: ”اے شیخ! کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟“ فرمایا: ”کس وجہ سے، میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں جبکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اعمش ہوں اور میں نے تو تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔“

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل نے فرمایا: ”لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے قصہ گو اور بھکاری ہیں۔“ (۴)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم نے بصرہ کی جامع مسجد سے قصہ گو لوگوں کو نکال دیا۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کا کلام سنا تو انہیں نہ نکالا کیونکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ علم

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۰۔

②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق، بدون: وفق اللصواب۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۰۔

آخرت، موت کو یاد دلانے، نفس کے عیبوں پر آگاہ کرنے، اعمال کی آفات، شیطانی وسوسوں اور ان سے بچنے کے طریقے بیان کر رہے تھے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کو یاد دلانے اور اس کا شکر کرنے میں بندے کے کوتاہ ہونے کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ دنیا کی حقارت، اس کے عیوب، اس کی ہلاکتوں اور اس کے بے وفا ہونے کی پہچان کروا رہے تھے۔ آخرت کے خطرات اور اس کی ہولناکیاں بیان کر رہے تھے۔ یہ اندازِ نصیحت شریعت کو پسند ہے اور حضرت سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی حدیث میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ چنانچہ،

### ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی فضیلت:

مروی ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار مریضوں کی عیادت کرنے اور ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ عرض کی گئی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”کیا تلاوت قرآن علم کے بغیر نفع مند ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا عطاء رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”ذکر کی مجلس غفلت کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے۔“ (۲)

چکنی چڑی باتیں کرنے والوں نے ان احادیث کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی و صفائی پر حجت بنا لیا اور لفظ تذکیر کو اپنی خرافات کی طرف پھیر لیا اور شرعاً پسندیدہ ذکر کے راستے سے ہٹ کر ان قصوں میں مشغول ہو گئے جن میں اختلافات اور کمی بیشی ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات ان قصوں سے خارج اور زائد ہیں کیونکہ بعض قصے سننے سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض کا سننا نقصان کا باعث ہے اگرچہ وہ سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو خود پر یہ دروازہ کھولتا ہے اس پر سچ اور جھوٹ، نفع بخش اور نقصان دہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے اور یہی سبب ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل نے فرمایا: ”لوگوں کو سچے واقعات بیان کرنے والے کی کتنی ضرورت ہے۔“ (۳)

اگر قصہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے دینی امور سے متعلق ہو اور قصہ بیان کرنے والا بھی سچا اور صحیح راوی ہو تو میں اسے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا۔ اسے چاہئے کہ جھوٹ سے بچے اور ان احوال کو بیان نہ کرے

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۷۔

②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق، ص ۲۶۰۔

جن میں لغزشوں یا سستیوں کی طرف اشارہ ہو یا عوام جن کے مطالب نہ سمجھ سکیں یا یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ لغزش نادر تھی اور اس کے بعد اس کے کفارے میں کئی نیکیوں کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا کیونکہ عام شخص اپنی لغزشوں اور سستیوں میں اس کا سہارا لے گا اور اس میں اپنے لئے بہانے تلاش کرے گا اور اس سے دلیل پکڑے گا کہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض بزرگان دین اور بعض اکابرین سے فلاں فلاں خطائیں ہوئی ہیں، ہم سب گناہوں کی راہ پر ہیں اس لئے اگر مجھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی ہوگئی ہے تو کیا تعجب ہے جبکہ جو مجھ سے بڑے ہیں ان سے بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں اور یہ چیز غیر شعوری طور پر اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی پر دلیر کر دے گی۔ اگر ان دو ممنوع باتوں سے بچا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس وقت یہ اچھے واقعات اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی صحیح کتب میں بیان کردہ قصوں کی طرف مراجعت کرے گا۔ بعض لوگوں نے طاعات کی رغبت دلانے والی حکایات وضع کرنے (گھڑنے) کی اجازت دی ہے۔ ان کا گمان ہے کہ ایسی حکایات وضع کرنے کا مقصد لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، لیکن یہ شیطانی وسوسوں میں سے ہے کیونکہ سچ میں جھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نصیحت کے لئے جو بیان فرمادیا وہی کافی ہے، وضع کرنے اور گھڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نیز اس کی اجازت کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ مُقَفِّيٌّ وَمُسَجِّعٌ کَلَامَہُ کرنے کا تکلف بھی ناپسندیدہ ہے اور اسے تَصْنَعُ (بناوٹ) شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

### تکلف سے کلام کرنے کی ممانعت:

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بیٹے عمر کو مُسَجِّعٌ کَلَامَہُ کرتے سنا تو فرمایا: ”اسی چیز نے تجھے میری نظر میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، میں اس وقت تک ہرگز تیری کوئی حاجت پوری نہیں کروں گا جب تک تو اس سے توبہ نہ کر لے۔“ حالانکہ اس وقت وہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس کسی کام سے آئے تھے۔

حضور نبی کریم، رَأَوْهُ رَجِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے تین مُسَجِّعٌ کَلِمَاتِہُ سنے تو فرمایا: ”اے ابن رواحہ! مُسَجِّعٌ کَلَامَہُ سے بچو۔“ (۱)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۸۶۔

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند عائشہ، الحدیث: ۴۴۵، ج ۴، ص ۸۸۔



سَجَع (قافیہ دار) وہ منع ہے جس میں تکلف ہو اور وہ کلام دو کلموں سے زیادہ پر مبنی ہو۔ اسی وجہ سے جب کسی شخص نے جنین (یعنی پیٹ کے بچے) کی دیت کے بارے میں (مُسَجَعُ کَلَامٍ کرتے ہوئے) کہا: ”كَيْفَ نَدَى مَنْ لَشَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاغَ وَلَا اسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ يَعْنِي: ہم اس کی دیت کیوں ادا کریں جس نے کھایا نہ پیا، چینا نہ بولا، اور اس جیسے کا خون تو معاف ہوتا ہے۔“ تو پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”دیہاتوں کی طرح مُسَجَعُ کَلَامٍ کرتا ہے۔“ (۱)

جہاں تک اشعار کا تعلق ہے تو وعظ و نصیحت میں ان کی کثرت مذموم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۶﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تم  
فِي كُلِّ وَاذِیہِیْمُونَ ﴿۲۷﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۲۲۳، ۲۲۵)

نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان  
کی شان کے لائق ہے۔ (پ ۲۳، یس: ۶۹)

واعظین کو اکثر وہ اشعار زیادہ پڑھنے کی عادت ہے جن میں عشق، معشوق کے حسن و جمال، وصالِ یار کی راحت اور فراق کی تکلیف کا بیان ہوتا ہے اور مجلس جاہل عوام سے بھری ہوتی ہے۔ ان کے باطن خواہشات سے لبریز ہوتے ہیں۔ ان کے دل خوبصورت چہروں کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس طرح کے اشعار ان میں چھپی شہوت کو بھڑکاتے ہیں۔ ان میں خواہشات کی آگ جل اٹھتی ہے پھر وہ چیختے اور وجد میں آجاتے ہیں۔ ان میں اکثر یا تمام شعر فساد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لئے دلیل پکڑنے یا لوگوں کی بوریات کا خاتمہ کرنے کے لئے حکمت یا نصیحت پر مشتمل شعر ہی استعمال کیا جائے۔ (اسی وجہ سے) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بعض شعر ضرور حکمت ہیں۔“ (۲)

اگر مجلس میں خاص لوگ ہوں جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں مستغرق ہیں،

①..... صحیح مسلم، کتاب القسامۃ والمحاربین..... الخ، باب دية الجنین، الحدیث ۱۶۸۴، ص ۹۲۲۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ما يجوز من الشعر..... الخ، الحدیث ۶۱۴۵، ج ۴، ص ۱۳۹۔

ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں وہ شعر کہنا نقصان دہ نہیں جس کے ظاہر میں مخلوق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سننے والا جو کچھ سنتا ہے اسے اس مفہوم پر ڈھال لیتا ہے جو اس کے دل پر غالب ہو۔ جیسا کہ اس کی تحقیق ”کِتَابُ السَّمَاءِ“ میں آئے گی۔

## میرے رفقا تو خاص لوگ ہیں:

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی دس سے کچھ زائد لوگوں کے سامنے وعظ فرماتے، اگر اس سے زیادہ ہو جاتے تو وعظ نہ کرتے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں کبھی بیس شخص پورے نہ ہوئے۔ ایک بار ابن سالم کے گھر کے دروازے پر ایک جماعت حاضر ہوئی، کسی نے عرض کی: ”حضور! آپ کے رفقا حاضر ہیں انہیں وعظ فرمائیے۔“ فرمایا: ”نہیں، یہ میرے رفقا نہیں یہ تو مجلس والے ہیں۔ میرے رفقا تو خاص لوگ ہیں۔“

## شَطْح سے کیا مراد ہے؟

شَطْح سے مراد دو قسم کا کلام ہے جو بعض صوفیا کی ایجاد ہے: (۱)..... اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور وصال کے لمبے چوڑے دعوے، جس کی وجہ سے انہیں ظاہری اعمال کی حاجت نہیں رہتی یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اتحاد کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ حجاب اٹھ گیا، وہ اپنی آنکھوں سے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کو دیکھتے ہیں اور انہیں براہِ راست خطاب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے اور ہم نے یوں کہا۔ وہ اس میں حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الرَّزَّاق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہیں اس قسم کے کلمات کہنے کی وجہ سے سولی چڑھایا گیا اور ان کے قول اَنَا الْحَقُّ (۱) سے

①..... عوام میں مشہور ہے کہ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الرَّزَّاق نے اَنَا الْحَقُّ (یعنی میں حق ہوں) کہا تھا اس کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فتاویٰ رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت سیدی حسین بن منصور حلاج قَدِیْسَ سِدِّہٖ جن کو عوام منصور کہتے ہیں، منصور ان کے والد کا نام تھا، اور ان کا اسم گرامی حسین۔ (آپ) اکابر اہل حال سے تھے، ان کی ایک بہن ان سے بَدْرَجَہا مرتبہ ولایت و معرفت میں زائد تھیں۔ وہ آخر شب کو جنگل تشریف لے جاتیں اور یادِ الہی میں مصروف ہوتیں۔ ایک دن ان کی آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا، اُن کو موسمہ گزرا، دوسری شب میں قصدِ آسوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے۔ وہ اپنے وقت پر اُٹھ کر چلیں، یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو لئے، دیکھتے رہے۔ آسمان سے سونے کی زنجیر میں یا قوت کا جام اُترا اور ان کے دہن مبارک (یعنی منہ شریف) کے برابر آگاہ، انہوں نے پینا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت نہ ملے۔ بے اختیار کہہ اُٹھے کہ بہن! تمہیں اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کہ تھوڑا.....

دلیل پکڑتے ہیں اور اسے دلیل بناتے ہیں جو ابویزید بسطامی قَدَسَ سِرُّهُ النُّورَانِی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سُبْحَانِی سُبْحَانِی<sup>(۱)</sup> کہا تھا۔ علم کلام کے اس فن سے عوام کو بہت نقصان پہنچا یہاں تک کہ کسانوں کی ایک جماعت

..... میرے لئے چھوڑ دو، انہوں نے ایک جُرْعَہ (یعنی ایک گھونٹ) چھوڑ دیا، انہوں نے پیا، اس کے پیتے ہی ہر بڑی بوٹی، ہر درو پوار سے ان کو یہ آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، ”أَنَا الْحَقُّ“ بیشک میں سب سے زیادہ اس کا سزاوار (یعنی حق دار) ہوں۔ لوگوں کے سننے میں آیا، أَنَا الْحَقُّ (یعنی میں حق ہوں)۔ وہ (لوگ) دعویٰ خدائی سمجھے، اور یہ (یعنی خدائی کا دعویٰ) کفر ہے اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب استنابہ المرتدین والمعاندین و قتالہم، ج ۴، ص ۷۸، ۳، حدیث: ۶۹۲۴ پر ہے کہ) رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فرماتے ہیں: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ترجمہ: جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۶، ص ۴۰۰)

①..... مجدد اعظم، سیدنا علی حضرت امام احمد رضا خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن (متوفی 1340ھ) اس کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: حضرت سیدنا بایزید بسطامی اور ان کے امثال و نظائر (یعنی ان جیسے دیگر اولیا) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وقت ورودِ مَجْلَى خاص (یعنی خاص مَجْلَى وارد ہونے کے وقت) شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں سیدنا موسیٰ كَلِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ کو درخت میں سے سنائی دیا: **يُمُوَلِّي رَأِيَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** (یعنی) اے موسیٰ! بیشک میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ کیا یہ ہر پھوٹ (یعنی درخت) نے کہا تھا؟ **حَاشَا لِلَّهِ** (یعنی ہرگز نہیں) بلکہ واحدِ قہار (اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) نے جس درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب بایزید پر نہیں؟ نہیں نہیں! وہ ضرور تجلی ربانی تھی کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا جیسے درخت سے سنا گیا اور متکلم (یعنی کلام فرمانے والا) اللہ عَزَّ وَجَلَّ تھا، اسی نے وہاں فرمایا: **يُمُوَلِّي رَأِيَّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** (ترجمہ: اے موسیٰ! میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔) اسی نے یہاں بھی فرمایا: **سُبْحَانِی مَا عَظَّمُ شَانِی** (ترجمہ: میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔)

سیدنا علی حضرت رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مزید ارشاد فرماتے ہیں: حضرت مولوی قَدَسَ سِرُّهُ الْمُعْتَمَدِی نے مشنوی شریف میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور تسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے اور رب عَزَّ وَجَلَّ اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے جو اس کی زبان سے سننے میں آئے، بلاشبہ اللہ قادر ہے اور معترض کا اعتراض باطل۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بسطامی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زمانہ میں ہو چکا تھا ہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ آپ سُبْحَانِی مَا عَظَّمُ شَانِی کہا کرتے ہیں۔ فرمایا: **حَاشَا** (یعنی ہرگز) میں نہیں کہتا۔ کہا: آپ ضرور کہتے ہیں ہم سب سنتے ہیں۔ فرمایا: جو ایسا کہے واجب القتل (یعنی اسے قتل کرنا واجب) ہے۔ میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں جب مجھے ایسا کہتے سنو بے دریغ خنجر مار دو۔ وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے۔ یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا: **سُبْحَانِی مَا عَظَّمُ شَانِی** (یعنی) مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے میری شان کیا ہی بڑی ہے۔ وہ لوگ چار طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کئے جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا اور حضرت پر خط (یعنی خراش) بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں۔ فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بجا۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۴، ص ۶۶۵، ۶۶۶)

نے کاشتکاری چھوڑ کر اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیئے۔ کیونکہ اس قسم کے کلام سے طبیعتیں لطف اندوز ہوتی ہیں کہ اس میں مقامات اور احوال کے حصول کے لئے اعمال اور تزکیہ نفس کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو پھر غبی لوگ اپنے لئے اس کا دعویٰ کرنے سے کیوں باز رہیں اور من گھڑت و مہمل باتیں کیوں نہ کہیں اور جب ان پر کوئی اعتراض کرے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس اعتراض کا سبب علم اور مناظرہ ہے۔ علم تو حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا عمل ہے اور یہ باتیں تو نوری حق کے مشاہدے کے ساتھ باطن سے اٹھتی ہیں۔ پس یہ اور اس قسم کی باتوں کا شرشہروں میں عام ہو گیا اس سے عوام کو بہت نقصان پہنچا یہاں تک کہ جو اس قسم کی کوئی بات کہے تو دین اسلام میں اسے قتل کر دینا دس کوزندہ رکھنے سے افضل ہے اور حضرت سپدنا ابو یزید بسطامی قُدس سرُّہ النُّورانی کے بارے میں جو منقول ہے وہ صحیح نہیں اور اگر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے یہ بات سنی بھی گئی ہے تو وہ گویا آپ اپنے دل میں جو کلام بار بار کہتے اس کی حکایت کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے جیسا کہ کوئی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو یہ کہتے ہوئے سنے:

رَبِّیْ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا عَبْدُہٗ لَا  
ترجمہ کنز الایمان: بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا  
کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر۔  
(ب ۱۶، طہ: ۱۴)

تو ضروری ہے کہ اسے بطور حکایت ہی سمجھا جائے۔

(۲)..... شطح کی دوسری قسم وہ الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں، ان کے ظاہر تو اچھے ہوں لیکن ان کے معانی ہولناک ہوں اور ان میں کوئی فائدہ نہ ہو نیز وہ کلمات ایسے ناقابل فہم ہوں کہ یا تو ان کے کہنے والے کو سمجھ میں نہ آتے ہوں بلکہ عقل کی خرابی اور خیال کی پریشانی کے باعث اس سے صادر ہوتے ہوں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کلام اس کی سماعت سے ٹکراتا ہے وہ اس کے معنی کا احاطہ نہیں کرتا اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا پھر وہ الفاظ ایسے ہوں کہ خود کہنے والے کو تو سمجھ میں آئیں لیکن دوسروں کو سمجھانہ پائے اور مَصَافِی الصَّمِیْمِ بیان کرنے کے لئے کوئی عبارت نہ لاپائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے علم سے شغف نہیں ہوتا اور نہ اس نے معانی کو عمدہ الفاظ سے تعبیر کرنے کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے۔ اس طرح کے کلام کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایسا کلام دلوں کو پریشان اور عقلوں اور ذہنوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یا ایسے کلام کا محمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ معانی سمجھ لئے جائیں جو مقصود نہیں اور ہر ایک اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق سمجھ لے۔

## لوگوں کے لئے فتنہ:

مروی ہے کہ نبی مدنی سرکار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرے جسے وہ سمجھ نہ پائیں تو وہ ان کے لئے فتنہ ہے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو جنہیں وہ مان لیں اور وہ باتیں بیان نہ کرو جن کا وہ انکار کریں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تکذیب ہو؟“ (۲)

یہ ارشاد ان باتوں کے بارے میں ہے جنہیں خود کہنے والا سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو تو پھر ان باتوں کو بیان کرنے کا کیا حال ہوگا جنہیں خود کہنے والا ہی نہ سمجھے۔ اگر کہنے والا سمجھتا ہو اور سننے والا نہ سمجھے تو ایسی بات بیان کرنا جائز نہیں۔

## جاہل اور ظالم:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْح اللہ عَلَیْہِ نَبِیْنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”کسی نااہل کو حکمت سکھانا ظلم اور اہل سے اسے روک رکھنا بھی ظلم ہے۔ تم اس طبیب کی طرح بن جاؤ جو بیماری کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے۔“ (۳)

ایک روایت میں ہے کہ ”جو کسی نااہل کو حکمت سکھائے وہ جاہل ہے اور جو اہل سے اسے روکے وہ ظالم ہے۔ بے شک حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اس کے اہل ہیں لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔“ (۴)

## طامات کیا ہیں؟

طامات میں وہ سب باتیں داخل ہیں جو ہم نے شطح کے بیان میں ذکر کیں اور مزید اس میں خاص بات یہ ہے کہ

①..... صحیح مسلم، المقدمة، باب النهی عن الحدیث بكل ماسمع، الحدیث: ۵، ص ۹۔

②..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیة ان لا یفہموا، ج ۳، ص ۹۳۔

③..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیة ان لا یفہموا، ج ۳، ص ۹۳۔

④..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیة ان لا یفہموا، ج ۳، ص ۹۳۔

شرعی الفاظ کو ان کے ظاہری مفہوم سے باطنی امور کی طرف پھیر دینا جن کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا جیسے فرقہ باطنیہ (۱) کی عادت ہے کہ وہ تاویل کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جب الفاظ کو کسی نقلی شرعی دلیل اور ضرورت کے بغیر ان کے ظاہری معانی سے پھیر دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے الفاظ سے اعتماد جاتا رہے گا اور اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے کلام کا نفع ختم ہو جائے گا اس لئے کہ ظاہر سے جو سمجھ میں آیا اس کا اعتماد نہ رہا اور باطن سب کا یکساں نہیں بلکہ اس میں خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور مختلف صورتوں پر الفاظ کو ڈھالا جاسکتا ہے۔ یہ بھی عام بدعتوں میں سے ایک ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہے اور طامات والوں کا مقصد عجیب و غریب باتیں ہیں کیونکہ نفس ان کی طرف مائل ہوتے اور ان سے لذت پاتے ہیں اس طریقے سے فرقہ باطنیہ الفاظ کے ظاہری مفہیم میں تاویلات کر کے اپنی رائے کے مطابق ان کے مفہیم بنا کر ساری شریعت کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ جیسا کہ ہم نے باطنیہ کے رد میں جو کتاب المستظهری تصنیف کی اس میں ان کے مذاہب بیان کئے ہیں۔

## اہل طامات کی تاویلات کی مثالیں:

بعض اس آیت میں تاویل کرتے ہیں:

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿۱۷﴾ (پ ۳۰، النزول: ۱) ترجمہ کنز الایمان: فرعون کے پاس جا اس نے سراٹھایا۔

کہتے ہیں: ”اس میں دل کی طرف اشارہ ہے اور فرعون سے دل مراد ہے، وہی ہر انسان پر سرکشی کرتا ہے۔“

اس آیت میں بھی تاویل کرتے ہیں:

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۰، القصص: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔

کہتے ہیں: ”اس میں عصا سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر وہ چیز ہے جس پر بندہ اعتماد کرتا اور اس کا سہارا لیتا ہے

اسے چاہئے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔“

①..... اہل تشیع کا ایک فرقہ جس کا لیڈر حسن بن صباح تھا، اس کے اعتقاد میں ہر شرعی امر کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور دوسرے

باطنی۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کو فریب سے قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کو حشیشین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھنگ پیا کرتے تھے۔

اس فرمانِ مصطفیٰ ”تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً“ یعنی سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔“ (۱) میں بھی تاویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں: ”اس میں تَسْحَرُوا سے سحری کے اوقات میں استغفار کرنا مراد ہے۔“

اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں یہاں تک کہ انہوں نے شروع سے آخر تک پورے قرآن مجید کو اس کے ظاہری معانی سے پھیر دیا ہے اور اس تفسیر سے بھی پھیر دیا جو حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اور دیگر علما سے منقول ہے۔

## مذکورہ تاویلوں کا بطلان:

ان میں سے بعض تاویلوں کا باطل ہونا تو قطعی طور پر معلوم ہے جیسا کہ فرعون سے دل مراد لینا کیونکہ فرعون ایک محسوس شخص ہے۔ اس کے موجود ہونے اور حضرت سیدنا موسیٰ کَلِيمُ اللهُ عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے اس کو دعوت دینے کی خبریں تو اتر سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل اور ابولہب وغیرہ کفار کی اخبار۔ نیز یہ شیاطین یا ملائکہ کی جنس سے نہیں کہ انہیں محسوس نہ کیا جاسکے حتیٰ کہ ان الفاظ میں تاویل کی ضرورت پیش آئے۔ اسی طرح سحری کو استغفار پر محمول کرنا بھی باطل ہے کیونکہ آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کھانا تناول فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ”سحری کھاؤ اور اس مبارک کھانے کی طرف آؤ۔“ (۲)

یہ وہ تاویلات ہیں کہ خبر متواتر اور جس سے ان کا باطل ہونا واضح ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن کا بطلان ظن غالب کے طور پر معلوم ہے اور یہ تاویلات ان امور میں ہوتی ہیں جن کو محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ الغرض سب کی سب حرام، گمراہی اور لوگوں کے سامنے دین کو بگاڑنا ہے۔ ان میں سے کوئی بات صحابہ کرام اور تابعین عظام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ سے منقول نہیں اور نہ ہی حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي سے منقول ہے حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لُغُوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے بڑے حریص تھے۔ اس فرمانِ مصطفیٰ کہ ”جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔“ (۳) کا معنی و مفہوم یہی ہے۔ وہ یوں کہ اس کا مقصد اور رائے کسی چیز کو ثابت کرنا ہو اور اس پر قرآن سے دلیل لائے اور اسے اس چیز پر محمول کرے حالانکہ اس معنی پر محمول کرنے کی

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب بركة السحور من غير ايجاب، الحديث ۱۹۲۴، ج ۱، ص ۶۳۳۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حديث العرياض بن سارية، الحديث ۱۷۱۵، ج ۶، ص ۸۵۔

③..... سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ماجاء فی الذی یفسر القرآن براهیه، الحديث: ۲۹۶، ج ۴، ص ۴۳۹۔

لفظی یعنی لغوی یا نقلی دلیل نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن پاک کی تفسیر اجتہاد اور غور و فکر سے نہ کرنا واجب ہے کیونکہ صحابہ کرام اور مفسرین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بعض آیات کے پانچ پانچ، چھ چھ اور سات سات معانی منقول ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ تمام معانی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنے کیونکہ بعض اوقات وہ معانی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ان میں تطبیق نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ عمدہ فہم اور طویل غور و فکر سے اخذ کئے گئے ہیں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے دعا فرمائی کہ ”اے اللہ عزوجل! ابن عباس کو دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا فرما۔“ (۱)

اہل طامات میں سے جو اس طرح کی تاویلات کو یہ جانتے ہوئے بھی جائز قرار دیتا ہے کہ وہ الفاظ کی مراد نہیں اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو اللہ عزوجل کی طرف بلانا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو اصدق الصادقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ اور من گھڑت بات منسوب کرنے کو جائز قرار دیتا ہے حالانکہ وہ بات فی نفسہ درست ہوتی ہے لیکن شرع نے اسے بیان نہیں کیا، جیسے وہ شخص جو ہر مسئلے میں جسے وہ حق جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث گھڑتا ہے تو یہ ظلم، گمراہی اور اس وعید میں داخل ہے جو اس فرمان عالی سے مفہوم ہوتی ہے کہ ”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔“ (۲)

بلکہ ان الفاظ کی تاویل کا شرع سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس سے الفاظ پر اعتماد اٹھ جاتا اور قرآن حکیم سمجھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ بالکل ہی کٹ جاتا ہے۔ اب تم نے جان لیا کہ شیطان نے کس طرح لوگوں کے ارادوں کو اچھے علوم سے برے علوم کی طرف پھیر دیا۔ یہ سب علمائے سوء (برے علما) کی طرف سے ناموں کے بدلنے کی وجہ سے ہوا اور اگر تم مشہور نام پر اعتماد کرتے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے چلو گے اور پہلے زمانے میں جو معروف تھا اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو تم اس کی طرح ہو گے جو حکمت کے شرف کو اس کی پیروی میں تلاش کرتا ہے جسے حکیم کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں حکیم کا اطلاق طبیب، شاعر اور نجومی پر ہوتا ہے اور یہ الفاظ کی تبدیلی سے غفلت کا نتیجہ ہے۔

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۳۰۳، ج ۱، ص ۷۰۳۔

②.....صحیح البخاری، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی، الحدیث: ۱۱، ج ۱، ص ۵۷۔



﴿5﴾..... حکمت: پانچواں لفظ حکمت ہے۔ چنانچہ، حکیم کا نام اب طیب، شاعر، نجومی یہاں تک کہ اس شخص پر بھی بولا جاتا ہے جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں پر قرعہ ڈالتا ہے حالانکہ حکمت تو وہ ہے جس کی تعریف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ط (ب ۳، البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”حکمت کی بات جسے آدمی سیکھے وہ اس کے لئے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔“ (۱)

پس تم غور کرو کہ حکمت کس چیز کا نام تھا اور اب اسے کس معنی میں منتقل کر لیا گیا ہے۔ اسی پر دوسرے الفاظ کو قیاس کر لو اور علمائے سوء کے دھوکے و فریب سے بچو کیونکہ دین کے معاملے میں ان کا شر شیطین کے شر سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ شیطان انہی کے واسطے سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکالتا ہے۔

### بدترین مخلوق:

جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے بدترین مخلوق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے خاموشی اختیار فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ، بخش دے۔ جب بار بار پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”بدترین مخلوق برے علماء ہیں۔“ (۲)

جب تم اچھے برے علم کو جان چکے اور ان کے گڈ بڈ ہونے کی وجہ بھی معلوم کر چکے تو اب تمہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلاف کی پیروی کرو یا پچھلے لوگوں کی طرح دھوکے کی رسی سے لٹکے رہو۔ اسلاف کے پسندیدہ تمام علوم مٹ گئے اور لوگ جن علوم میں مشغول ہیں ان میں سے اکثر بدعت اور نوپید ہیں۔

①..... الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الرقم ۱۴۶، ص ۲۷۱، عن الحسن بن ابی الحسن۔

المدخل، فصل فی العالم و کیفیتہ نیتہ..... الخ، ج ۱، ص ۵۱۔

②..... مسند البزار، مسند معاذ بن جبل، الحدیث ۲۶۴۹، ج ۷، ص ۹۳۔

## غربا کون ہیں؟

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غیوب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمان مکرم ہے کہ ”اسلام غریب الوطنی میں شروع ہوا اور جیسے شروع ہوا ویسے ہی (غریب الوطنی کی حالت میں) لوٹ جائے گا تو غربا کے لئے خوشخبری ہے۔“ کسی نے عرض کی: ”غربا کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے بگاڑ دیں گے اور وہ جو میری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”غربا وہ ہیں جو اس چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے جس پر آج تم لوگ قائم ہو۔“ (۲)  
ایک مقام پر فرمایا: ”غربا کثیر لوگوں میں قلیل صالح لوگ ہیں۔ ان سے نفرت کرنے والے ان کے چاہنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔“ (۳)

## حقیقی عالم کی ایک علامت:

یہ علوم غریب ہو گئے یوں کہ جو انہیں یاد کرتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نے فرمایا: ”جب تم دیکھو کہ کسی عالم کے دوست زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے کیونکہ اگر وہ خالصتاً حق ہی بیان کرتا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔“ (۴)

﴿.....صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ.....﴾

①.....صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بدا غریبا.....الخ، الحدیث ۱۴۵، ص ۸۸۔

سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء ان الاسلام بدا غریبا.....الخ، الحدیث ۲۶۳۹، ج ۴، ص ۲۸۶۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا.....الخ، ج ۲، ص ۲۴۸۔

②.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا.....الخ، ج ۲، ص ۲۴۸۔

③.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث ۷۰۹، ج ۲، ص ۶۸۸۔

④.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا.....الخ، ج ۲، ص ۲۴۸۔

## تیسری فصل: اچھے علوم کی قابلِ تعریف مقدار کا بیان

جان لو! اس اعتبار سے علم کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... وہ علم جو برا ہے کم ہو یا زیادہ (۲)..... وہ علم جو قلیل ہو یا کثیر اچھا ہے اور جب بھی وہ زیادہ ہوتا ہے بہتر و افضل ہوتا ہے اور (۳)..... وہ علم جو بقدر کفایت اچھا ہے اور ضرورت سے زائد اچھا نہیں نیز اس میں بحث و تحقیق کرنا بھی اچھا نہیں اور یہ بدن کے احوال کی طرح ہے۔ ان میں بعض قلیل ہوں یا کثیر اچھے ہیں جیسے تندرستی اور خوبصورتی اور بعض وہ ہیں کہ کم ہوں یا زیادہ برے ہیں جیسے بد صورتی اور بد اخلاقی اور بعض احوال میں میانہ روی اچھی ہے جیسے مال خرچ کرنا کہ اس میں زیادہ خرچ کرنا اچھا نہیں حالانکہ وہ بھی خرچ ہی ہے اور جیسا کہ شجاعت کہ اس میں ہلاک کر دینا اچھا نہیں اگرچہ ہلاک کرنا بھی شجاعت ہی سے ہے۔ اسی طرح علم کا معاملہ ہے۔

**مذموم علم:** وہ علم جو برا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ، یہ وہ ہے جس کا نہ تو کوئی دنیوی فائدہ ہے اور نہ ہی دینی کیونکہ اس کا ضرر اس کے نفع پر غالب ہے جیسے جادو، طلسمات اور علم نجوم کہ ان میں سے کسی کا تو بالکل ہی فائدہ نہیں اور اس کے لئے عمر صرف کرنا انسان کا اپنے سب سے قیمتی سرمائے کو ضائع کرنا ہے اور قیمتی چیز کو ضائع کرنا برا ہے اور بعض وہ ہیں کہ ان کا ضرر دنیا میں کسی مقصد کے پورا ہونے کی امید سے بڑھ کر ہے۔ پس ان سے حاصل ہونے والے ضرر کی بنسبت یہ فائدہ قابل شمار نہیں۔

**محمود علم:** جو علم سارے کا سارا اچھا ہے، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات، افعال و مخلوق کے بارے میں اس کی عادتِ جاریہ اور آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی حکمت کا علم ہے۔ یہ علم اپنی ذات کی وجہ سے بھی مطلوب ہے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس کے حصول میں جتنی بھی کوشش کر لی جائے حد واجب سے کم ہے کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک رسائی نہیں اور گھومنے والے اس کے ساحلوں اور کناروں پر ہی بقدر سہولت گھومتے ہیں۔ اس میں انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اولیائے عظام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ اور مضبوط علما ہی غوطہ لگاتے ہیں۔ البتہ ان کے درجات ان کی قوتوں کے اختلاف کے اعتبار سے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے حق میں جو مقدر فرمایا اس کے تفاوت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہی وہ پوشیدہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ اس پر

آگہی حاصل کرنے کے لئے علم سیکھنا اور علمائے آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرنا مفید ہے جیسا کہ عنقریب علمائے آخرت کی علامات بیان کی جائیں گی۔ یہ ابتدا میں ہے اور آخر میں مجاہدہ و ریاضت، تصفیہ قلب اور علاقہ دنیا سے دل کو فارغ کرنا اور اس میں انبیائے کرام اور اولیائے عظام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے مشابہت اختیار کرنا اس علم کے حصول کے لئے مفید ہے۔ اس طرح جو بھی اس علم کو پانے کی کوشش کرے گا وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا نہیں بلکہ اپنے نصیب کے مطابق اسے پالے گا۔ البتہ اس کے لئے مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ مجاہدہ ہی ہدایت کی چابی ہے، اس کے سوا ہدایت کی کوئی چابی نہیں۔

**مخصوص مقدار میں محمود علوم: جو علوم ایک خاص مقدار میں اچھے ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے فرض کفایہ علوم میں نقل کیا ہے۔**

## علم کے درجات:

ہر علم کے تین درجے ہیں: (۱)..... بقدر ضرورت۔ یہ ادنیٰ درجہ ہے (۲)..... میانہ روی۔ یہ درمیانہ درجہ ہے اور (۳)..... درمیانی مقدار سے زیادہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آخر عمر تک حاصل کیا جائے تو تم دو شخصوں میں سے ایک بنو یا اپنی اصلاح میں مشغول رہو یا اپنی اصلاح سے فراغت پا کر دوسروں کی اصلاح کرو لیکن اپنی اصلاح سے قبل دوسروں کی اصلاح میں مشغول مت ہونا۔ اگر تم اپنی اصلاح میں مشغول ہو تو صرف اسی علم کو سیکھو جو تمہارے حال کے مطابق تم پر فرض ہے اور ظاہری اعمال سے متعلقہ علوم میں سے نماز، طہارت، روزے کے مسائل سیکھو اور سب سے اہم دل کی صفات کا علم ہے جسے سب نے چھوڑ دیا ہے اور یہ کہ دل کی کون سی صفات اچھی ہیں اور کون سی بری؟ کیونکہ بری صفات ہر انسان میں ہوتی ہیں جیسے حرص، حسد، ریا، تکبر اور خود پسندی وغیرہ یہ سب ہلاک کر دینے والی صفات ہیں، ان سے بچنا واجبات میں سے ہے اور اس کے ساتھ ظاہری اعمال میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے خارش اور پھوڑوں کی تکلیف میں ظاہری بدن پر لپ کرنا مگر سچھے یا سینگے کے ذریعے فاسد مواد بدن سے نکالنے میں غفلت برتنا۔

## نام نہاد علما اور علمائے آخرت:

جیسے راستوں میں بیٹھے طبیب ظاہری بدن کو لپ کرنے کا کہتے ہیں ایسے ہی نام نہاد علما ظاہری اعمال کا مشورہ

دیتے ہیں جبکہ علمائے آخرت باطن کی صفائی کا مشورہ دیتے اور فاسد مواد کو نکال کر دل سے خرابیوں کو جڑ سے اُکھاڑ دینے کا حکم دیتے ہیں۔

## باطنی کے بجائے ظاہری اعمال اختیار کرنے کی وجہ:

اکثر لوگ دلوں کی صفائی کرنے کے بجائے ظاہری اعمال کی طرف اس لئے بھاگتے ہیں کہ ظاہری اعمال آسان ہیں اور دل کے اعمال مشکل جیسے کڑوی دوائی پینے سے گھبرانے والا ظاہری لپ کو اختیار کرتا ہے، وہ لپ کرنے میں تھکتا رہتا اور مواد بڑھاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں دُگنی ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر تم آخرت کے طالب اور نجات کے خواہش مند ہو اور ہمیشہ کی بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو باطنی بیماریوں اور ان کے علاج کا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ ہم نے مہلکات کے باب میں انہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ علم ضرور تمہیں ان پسندیدہ مقامات تک لے جائے گا جو منجیات کے باب میں ذکر کئے گئے ہیں کیونکہ جب دل بری صفات سے خالی ہوگا تو اچھی صفات سے بھر جائے گا جیسا کہ زمین کو جب گھاس سے صاف کیا جائے تو اس میں طرح طرح کی فصلیں اور پھول اُگتے ہیں اور اگر صاف نہ کیا جائے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتیں۔

## سب سے بڑا احمق:

تم فرض کفایہ علوم کو سیکھنے میں مشغول نہ ہو بالخصوص جب انہیں قائم کرنے والا لوگوں میں کوئی موجود ہو کیونکہ دوسرے کی اصلاح کرنے میں خود کو ہلاک کرنے والا بیوقوف ہے۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا کہ جس کے کپڑوں میں سانپ اور بچھو گھس گئے ہوں اور اسے مار ڈالنے کے درپے ہوں مگر وہ پنکھا ڈھونڈنے میں مصروف ہوتا کہ اس کے ذریعے دوسروں سے کھیاں دور کرے جبکہ جسم سے چپکے ہوئے سانپ بچھو اس کے درپے ہوں اور وہ لوگ اس کے کام آئیں نہ اسے ان سے بچائیں۔ اگر تم اپنے نفس کو پاک کرنے سے فراغت پاؤ اور ظاہری و باطنی گناہوں کو ترک کرنے پر قادر ہو جاؤ، یہ تمہاری دائمی عادت بن جائے، تمہارے لئے ایسا کرنا آسان ہو جائے اور یہ بات کچھ بعید بھی نہیں تو پھر تم فرض کفایہ علوم کے حصول میں مشغول ہو جاؤ لیکن اس میں درجہ بندی کا لحاظ رکھو۔ کِتَابُ اللہ سے شروع کرو پھر حدیث نبوی پھر علم تفسیر اور باقی قرآن پاک کے علوم جیسے نسخ و منسوخ، مفسول و موصول، محکم و متشابہ کا علم

سیکھو۔ اسی طرح حدیث میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اس کے بعد فروع سیکھو یعنی علم فقہ سے مذاہب کا علم، نہ کہ اختلافی مسائل کا علم پھر اصول فقہ سیکھو۔ اسی طرح بقیہ علوم حاصل کرتے رہو جہاں تک عمر میں گنجائش ہو اور وقت ساتھ دے، مگر کسی ایک فن میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ساری عمر مت لگاؤ کیونکہ علوم زیادہ ہیں اور عمر کم اور یہ علوم آلات و مقدمات ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے مطلوب ہیں اور ہر وہ چیز جو غیر کی وجہ سے مطلوب ہو اس میں اصل مقصود کو بھول جانا اور آلات کی کثرت کرنا مناسب نہیں۔ لہذا امر وجہ علم لغت سے اتنا سیکھ لو کہ عربی سمجھ اور بول سکے اور لغت نادرہ میں سے صرف قرآن حکیم اور احادیث کے غریب الفاظ جان لو پھر اس کی زیادہ گہرائی میں مت جاؤ۔ علم نحو سے بس اتنا سیکھو جتنے کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے۔ یاد رکھو! ہر علم کے تین درجے ہیں: بقدر ضرورت، متوسط اور درجہ کمال۔ ہم حدیث و تفسیر، فقہ اور کلام میں ان تینوں درجوں کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے علوم کو تم اسی پر قیاس کر لو۔ چنانچہ،

### تفسیر میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ:

تفسیر میں بقدر کفایت مقدار یہ ہے کہ قرآن پاک سے دگنی ہو جیسا کہ حضرت سپدنا امام علی واحدی نیشاپوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کی تصنیف ”الوجیز“ متوسط درجہ یہ ہے کہ اس سے تین گنا ہو جیسا کہ تفسیر ”الوسیط“ اور درجہ کمال اس سے زائد ہے۔ اس کی حاجت نہیں اور نہ ہی ساری عمر اس کی کوئی حد ہوگی۔

### حدیث میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ:

حدیث میں بقدر کفایت یہ ہے کہ صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) کے مضامین متن حدیث سے باخبر شخص سے نسخے کی تصحیح کے ساتھ پڑھ لو۔ راویوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کام تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں تمہیں ان کی کتب پر اعتماد کرنا چاہئے، بخاری و مسلم کا متن زبانی یاد کرنا بھی ضروری نہیں بلکہ ان کے متون اتنے سیکھ لو کہ حاجت پڑے تو ضرورت کی بات ان سے تلاش کر سکو۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں موجود صحیح احادیث کو بھی سیکھو اور درجہ کمال یہ ہے کہ ہر ضعیف، قوی، صحیح اور معلل حدیث کو سیکھو، نقل حدیث کے طرق کثیرہ (یعنی کئی اسناد)، راویوں کے حالات، ان کے نام اور اوصاف کی پہچان حاصل کرو۔

## فقہ میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ:

فقہ میں بقدر کفایت اتنی ہے جس پر ”مختصر مزنی“ مشتمل ہے اور اسے ہم نے خلاصۃ المختصر میں مرتب کیا ہے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ اس کتاب سے تین گنا زیادہ ہو یعنی اتنی مقدار جتنی ہم نے ”الوسیط“ میں لکھی ہے اور درجہ کمال وہ ہے جسے ہم نے ”الوسیط“ میں لکھا ہے اور اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں۔

## علم کلام کا مقصود:

علم کلام کا مقصد صرف سلف صالحین سے منقول عقائد اہل سنت کی حفاظت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ امور کے حقائق کا کشف ہے لیکن یہ طریقہ کشف کے بغیر ہے۔ سنت کی حفاظت بطریق اختصار عقائد کی مختصر سی کتاب سے ہو سکتی ہے اور یہ مقدار وہ ہے جسے ہم نے اسی کتاب میں ”قواعد العقائد“ کے تحت بیان کیا ہے۔ متوسط درجہ 100 ورق کی مقدار ہے، اسے ہم نے اپنی کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں بیان کیا ہے۔ اس علم کی حاجت اس لئے ہے کہ بدعتی سے مناظرہ کیا جائے اور ایسی باتوں سے اس کی بدعت کا مقابلہ کیا جائے جو بدعت کو توڑ دیں اور عام آدمی کے دل سے اسے نکال دیں یہ بات صرف عوام کو نفع بخش ہے جبکہ وہ تعصب میں شدت کو نہ پہنچے ہوں اور بدعتی جب مناظرہ سیکھ لیتا ہے اگرچہ کم ہو تو اسے علم کلام بہت کم نفع دیتا ہے، اگر تم اسے ساکت ولا جواب بھی کر دو پھر بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اسے اپنا تصور ٹھہرائے گا اور فرض کرے گا کہ کسی دوسرے کے پاس اس کا جواب ہے جس سے وہ عاجز آ گیا ہے اور تم نے قوتِ مناظرہ سے اس کو مغالطہ میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ عام آدمی کو اگر اس طرح کے مناظرے کے ذریعے حق سے پھیر دیا جائے تو اسی کی مثل مناظرے سے اسے واپس لایا جاسکتا ہے جب تک کہ وہ تعصب میں متشدد نہ ہو اور اگر ان کا تعصب حد سے بڑھ جائے تو پھر ان سے ناامیدی ہو جاتی ہے کیونکہ تعصب کی وجہ سے عقائد دلوں میں پختہ ہو جاتے ہیں اور یہ برے علما کی آفات میں سے ہے کیونکہ وہ حق کے لئے سخت تعصب سے کام لیتے اور مخالفین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں مقابلے اور جوابی کارروائی کا جذبہ جوش مارتا ہے اور وہ باطل کی مدد کرنے پر زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے وہ اس پر قائم رہنے میں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔

## علمائے تعصب کو عادت و آلہ کار بنا لیا:

اگر علماء تعصب سے بالاتر ہو کر حقارت کی نظر پھیر کر تنہائی میں پیار و محبت اور خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں سمجھاتے تو ضرور کامیابی پاتے۔ لیکن چونکہ لوگوں کی پیروی کے بغیر مقام و مرتبہ نہیں ملتا اور جب تک مخالف پر لعن طعن نہ کی جائے، اسے برا بھلا نہ کہا جائے تب تک لوگ پیروی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے تعصب کو اپنی عادت اور آلہ کار بنا لیا اور اس کا نام دین کی حفاظت اور مسلمانوں کی حمایت رکھ دیا حالانکہ درحقیقت یہ لوگوں کی بربادی اور دلوں میں بدعت کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ بہر حال جو اختلافات ان آخری زمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں اور ان میں ایسی تحریرات، تصنیفات اور مناظرے نکلے ہیں جن کی مثال اسلاف میں نہیں ملتی تم ان کے گرد گھومنے سے بچو اور ان سے ایسے بچو جیسے زہر قاتل سے بچتے ہیں کیونکہ یہ لاعلاج مرض ہے اور اسی نے فقہاء کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے اور باہم فخر کرنے پر لگا دیا ہے جیسا کہ عنقریب اس کی ہلاکتوں اور آفتوں کا بیان آئے گا۔ المختصر یہ کہ دانش مندوں کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ تم سمجھو دنیا میں تمہارا نفس صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے۔ تمہارے سامنے موت، ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ ہیں پھر غور کرو اور سوچو کہ تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں ان میں سے کون سی تمہارے لئے مددگار ہے، اس کے علاوہ سب چھوڑ دو تو تم سلامتی پر ہو۔

## صرف دو رکعت نے فائدہ دیا:

کسی بزرگ نے ایک عالم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”جن علوم میں تم جھگڑے اور مناظرے کرتے تھے ان کا کیا ہوا؟“ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، اس پر پھونک ماری اور کہا: ”سب کچھ خاک ہو کر اڑ گیا اور مجھے صرف ان دو رکعتوں سے فائدہ ہوا جو میں نے رات کی تنہائی میں پڑھی تھیں۔“ (۱)

حدیث مبارکہ میں ہے: ”کوئی بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑنے والے۔“ (۲)

پھر یہ آیات مقدسہ تلاوت کیں:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفزیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۵، ص ۲۲۹۔

②..... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الزخرف، الحدیث ۳۲۶۶، ج ۵، ص ۱۷۰۔



ترجمہ کنز الایمان: انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے  
کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑا لو لوگ۔

خَصُونٌ ﴿۵۸﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۵۸)

(ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ — الایة

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔

(پ ۳، آل عمران: ۷)

حدیث مبارکہ میں ہے کہ مذکورہ آیت میں مناظرہ بازوں (یعنی جھگڑنے والوں) کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق اللہ  
عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا: فَاحْذَرُهُمْ <sup>ط</sup> (پ ۲۸، المنفقون: ۳) تو ان سے بچتے رہو۔<sup>(۱)</sup>

بعض بزرگوں نے فرمایا: ”آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا اور  
جھگڑے کا دروازہ کھل جائے گا۔“<sup>(۲)</sup>

بعض روایتوں میں ہے: ”بے شک تم اس زمانے میں ہو کہ جس میں تمہیں عمل کا شوق نصیب ہوا عنقریب ایسے  
لوگ آئیں گے جن کے دلوں میں جھگڑے کا شوق پیدا ہوگا۔“<sup>(۳)</sup>

مشہور حدیث میں ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو بہت  
جھگڑا ہو۔“<sup>(۴)</sup>

یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ ”جس قوم کو بولنے کی قوت دی گئی وہ عمل سے روک دی گئی۔“<sup>(۵)</sup>

وَاللَّهُ أَعْلَمُ



①..... صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورة آل عمران، الحدیث ۴۵۴، ج ۳، ص ۱۸۹۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر بیان تفضیل علوم الصمت..... الخ، ص ۲۳۹۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر بیان تفضیل علوم الصمت..... الخ، ص ۲۳۹۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر بیان تفضیل علوم الصمت..... الخ، ص ۲۳۹۔

④..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب فی الألد الخضم، الحدیث ۲۶۶، ص ۱۴۳۳۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر بیان تفضیل علوم الصمت..... الخ، ص ۲۳۹۔

## باب نمبر 4: لوگوں کے اختلاف میں پڑنے کی وجہ، مناظرہ کی آفات کی تفصیل اور اس کے جواز کی شرائط

مقدمہ: لوگ اختلافات کی طرف کیوں مائل ہوئے؟

جان لیجئے! حضور نبی اکرم، رسولِ مُحْتَشَمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بعد خلافت کا سہرا خلفائے راشدین مہدیین کے سر سجا۔ یہ حضرات عَالِمِ بِاللَّهِ تھے۔ احکاماتِ الہیہ کو سمجھتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں میں فتاویٰ کے ماہر تھے۔ فقہا سے کم ہی مدد لیتے تھے سوائے ان واقعات کے جن میں مشورے کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اس لئے علما علمِ آخرت کے لئے فارغ ہوتے اور محض اس میں مشغول رہتے تھے۔ یہ حضرات فتاویٰ اور لوگوں کے دنیوی احکام کو دوسروں کی طرف ٹال دیتے اور مکمل طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہتے جیسا کہ ان کی سیرتوں میں منقول ہے۔ پھر ان کے بعد جب حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جو فتاویٰ اور احکام میں غیر مستقل تھے تو وہ فقہا سے مدد لینے اور احکامات جاری کرنے میں ان سے فتوے لینے کے لئے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت کچھ تابعی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ موجود تھے جو پہلے کے طور طریقوں پر کاربند تھے۔ خالص دین سے وابستہ تھے۔ ہمیشہ علمائے سلف کے نقشِ قدم پر چلتے تھے۔ جب انہیں طلب کیا جاتا تو بھاگ جاتے اور رُخ پھیر لیتے جس کی وجہ سے حکمرانوں کی مجبوری بن گئی کہ وہ انہیں طلب کریں اور قضا و دیگر حکومتی عہدوں کے لئے اصرار کریں۔ جب اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ علما کا اس قدر مقام و مرتبہ ہے اور حکمرانوں کا طبقہ ان کی طرف متوجہ ہے حالانکہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں تو وہ حکمرانوں کی طرف سے عزت اور مقام و مرتبہ پانے کے لئے طلبِ علم میں مشغول ہو گئے۔ علمِ فتاویٰ میں منہمک ہو گئے اور اپنے آپ کو حکمرانوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اپنا تعارف کروایا اور ان سے انعامات اور عہدوں کے مطالبات کئے۔ چنانچہ،

## طالب مطلوب اور معزز ذلیل ہو گئے:

ان میں سے کئی تو محروم رہے اور کئی کامیاب ہو گئے لیکن جو کامیاب ہوئے وہ بھی مانگنے اور طفیلی ہونے کی ذلت و رسوائی سے دامن نہ بچا سکے۔ بس پھر فقہا جو پہلے مطلوب تھے، اب طالب بن گئے۔ پہلے حکمرانوں سے منہ موڑ کر معزز تھے اب ان کی طرف متوجہ ہو کر ذلیل ہو گئے۔ مگر یہ کہ ہر زمانے میں ایسے علمائے دین ہوئے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔

## اختلافی مسائل و مناظروں میں مشغول ہونے کی وجہ:

الغرض اس زمانے میں لوگوں کی زیادہ تر توجہ فتاویٰ اور مقدمات کے فیصلوں کے علم کی طرف رہی کیونکہ حکمرانوں کو اس کی سخت حاجت تھی پھر ان کے بعد کچھ اُمرا اور رئیس ایسے ظاہر ہوئے جو عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو سنتے۔ ان کے دل عقائد کے دلائل سننے کی طرف مائل ہوئے اور علم کلام میں مناظرہ و مجادلہ کی طرف ان کی رغبت غالب ہو گئی تو لوگ علم کلام میں منہمک ہو گئے۔ اس میں کثیر کتابیں لکھ ڈالیں، مناظرے کے طریقے مرتب کر دیئے اور گفتگو میں مخالف کی بات توڑنے کے گرنکالے اور گمان یہ کیا کہ ان کا مقصد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین کی حمایت، سنت کی حفاظت اور بدعت کی بیخ کنی ہے جیسا کہ ان سے پہلوں کا گمان تھا کہ ہمارا فتاویٰ میں مشغول ہونے اور احکام مسلمین کا کفیل ہونے کا مقصد لوگوں کی خیر خواہی کرنا اور ان پر شفقت کرنا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ ظاہر ہوئے جنہوں نے علم کلام میں غور و خوض کرنے اور اس میں مناظرے کا دروازہ کھولنے کو درست نہ سمجھا کیونکہ اس کے سبب لوگوں میں سخت تعصب اور جھگڑوں کی فضا قائم ہو گئی تھی اور نوبت خونریزی اور شہروں کی بربادی تک آ پہنچی تھی، اس لئے ان کے دل فقہ میں مناظرہ کرنے اور خاص طور پر فقہ شافعی و فقہ حنفی میں کس کی بات اولیٰ ہے، اسے بیان کرنے کی طرف مائل ہو گئے تو لوگ علم کلام اور فنون علم کو چھوڑ کر بالخصوص حضرت سیدنا امام شافعی اور حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے مابین اختلافی مسائل پر توجہ دینے لگے اور حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ ائمہ کے درمیان اختلافی مسائل کو نظر انداز کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ ان کا مقصد شریعت کی باریکیوں کا استنباط، مذہب کی علتوں کو ثابت کرنا اور فتاویٰ کے

اصول تیار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کثیر کتابیں لکھیں، اجتہادات کئے اور مناظرے کی اقسام و تصانیف کو مرتب کیا، وہ اب (یعنی امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیِ کے دور) تک اسی حالت پر ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں کیا حالات ہوں گے۔ اختلافی مسائل اور مناظروں میں لوگوں کے مشغول ہونے کی یہی وجہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں اور اگر دنیا داروں کے دل کسی دوسرے امام کے ساتھ اختلاف یا کسی دوسرے علم کی طرف مائل ہوتے ہیں تو لوگ بھی ان کے ساتھ اسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور یہ بہانہ کرنے سے باز نہیں آتے کہ جس میں وہ مشغول ہیں وہ علم دین ہے اور ان کا مقصد صرف اللہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ عَزَّ وَجَلَّ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

## پہلی فصل: مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور اسلاف کے مذاکروں سے مشابہت دینا دھوکا ہے

جان لو! یہ لوگ عوام کو رفتہ رفتہ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ مناظروں سے ہمارا مقصد حق کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا ہے تاکہ وہ واضح ہو کیونکہ حق مطلوب ہے اور علم میں غور و فکر کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا نیز کئی آرا کا متفق ہو جانا مفید ہے۔ مشوروں میں صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کی عادت بھی یہی تھی جیسا کہ دادا کی موجودگی میں بھائیوں کے (وراثت سے) محروم ہونے، شراب پینے کی حد، حاکم اگر خطا کرے تو اس پر تاوان واجب ہونے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کے خوف سے ایک عورت کا حمل ضائع ہو جانے اور وراثت کے مسائل میں صحابہ کے باہم مشورے منقول ہیں۔ نیز جس طرح حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام محمد بن حسن، حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ وغیرہ علما سے منقول ہے۔

## طلب حق کے لئے مناظرے کی شرائط و علامات:

جو میں بیان کروں گا اس سے تمہیں اس دھوکے کی خبر ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ طلب حق پر تعاون کرنا دینی کام ہے مگر اس کی آٹھ شرائط و علامات ہیں:

﴿1﴾..... مناظرہ چونکہ فرض کفایہ ہے اس لئے جو فرض عین علوم کو حاصل نہ کر چکا ہو وہ اس میں مشغول نہ ہو اور جس

کے ذمے فرض عین ہوں اور وہ فرض کفایہ میں مشغول ہو جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کا مقصد طلبِ حق ہے تو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خود نماز کو ترک کر کے کپڑوں کو حاصل کرنے اور بننے میں لگا ہو اور کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس شخص کے ستر کو ڈھاپوں جس کے پاس لباس نہیں اور وہ برہنہ نماز پڑھتا ہے کیونکہ کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے اور اس کا وقوع ممکن ہے جیسا کہ فقہ سبھتا ہے کہ ان نوادرات کا وقوع ممکن ہے جن کے اختلاف میں وہ بحث کرتا ہے۔ مناظرہ میں مشغول ہونے والے ان امور کو چھوڑ دیتے ہیں جو بالاتفاق فرض عین ہیں اور جس شخص پر فوراً امانت لوٹانا واجب ہو اور وہ نماز شروع کر دے جو عمدہ عبادات میں سے ہے تو اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی۔ لہذا معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع فرمانبردار ہونے کے لئے یہ کافی نہیں کہ جو عمل وہ کرے وہ عبادت و طاعت ہو جب تک کہ وہ اس میں وقت، شرائط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے۔

﴿2﴾..... اس کے سامنے مناظرے سے اہم کوئی دوسرا فرض کفایہ نہ ہو کیونکہ جو اہم کام کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی کام کرے گا وہ اپنے اس عمل میں گنہگار ہوگا۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیاسے لوگوں کا ایک گروہ دیکھے کہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں اور لوگوں نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے جبکہ یہ انہیں پانی پلا کر ان کی زندگی بچانے پر قادر ہے مگر چھپنے لگانے کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائے اور کہے کہ یہ فرض کفایہ میں سے ہے اگر شہر میں کوئی بھی چھپنے لگانے والا نہیں ہوگا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اس سے کہا جائے کہ شہر میں چھپنے لگانے والوں کا ایک گروہ موجود ہے اور وہ کافی ہیں تو وہ کہے کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہونا ختم تو نہیں ہو گیا۔

الغرض جو اس کام کو کرے اور مسلمانوں کے پیاسے گروہ کو پانی پلانے جیسے اہم کام کو چھوڑ دے تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو مناظرہ میں مشغول ہوتا ہے حالانکہ شہر میں کئی فرض کفایہ ایسے ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور انہیں کوئی قائم کرنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر فتویٰ جسے ایک جماعت قائم کئے ہوئے ہے اور شہر میں کئی ایسے فرض کفایہ ہیں جنہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے لیکن فقہا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے زیادہ قریب طب ہے کہ اکثر شہروں میں مسلمان طبیب موجود نہیں کہ طبی امور میں جن کی گواہی شرعاً مقبول ہو اور کوئی بھی فقہ اس میں مشغول ہونے کو تیار نہیں اس طرح اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا) بھی فرض کفایہ ہے

جبکہ مناظر بعض اوقات اپنی مجلس مناظرہ میں کسی کوریشم پہنے یا ریشمی بچھونے پر بیٹھے دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے اور اس مسئلہ میں مناظرہ کرتا ہے جس کے کبھی بھی واقع ہونے کا اتفاق نہ ہو اور اگر وہ واقع ہو بھی سہی تو فقہا کی ایک جماعت اس کے لئے موجود ہو۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ فرض کفایہ سے اس کا مقصد اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے جبکہ حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ كَوَيْبِ جَهْوُورٍ دِيَا جَائِئٍ؟“ ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے نیک لوگوں میں مدابنت (خوشامد) کا ظہور ہوگا اور بدوں میں بے حیائی پائی جائے گی اور حکومت تمہارے چھوٹوں کے پاس چلی جائے گی جبکہ فقہ ذلیل لوگوں کے سپرد ہو جائے گی۔“<sup>(۱)</sup>

﴿3﴾..... مناظر مجتہد ہو جو اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب شافعی یا مذہب حنفی وغیرہ پر فتویٰ نہ دے حتیٰ کہ اگر اسے حق مذہب حنفی میں معلوم ہو تو مذہب شافعی کے موافق رائے کو ترک کر دے اور جو اس پر ظاہر ہو اس کے مطابق فتویٰ دے جس طرح صحابہ کرام اور ائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔

﴿4﴾..... مناظرہ اسی مسئلہ میں کرے جو واقع ہو چکا ہو یا غالب گمان ہو کہ عنقریب واقع ہوگا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نئے مسائل ہی میں مشورہ کرتے تھے یا ان میں جو اکثر واقع ہوتے جیسے وراثت کے مسائل اور آپ دیکھو گے کہ اب مناظرین ان مسائل میں تحقیق کا اہتمام نہیں کرتے جن میں عوام مبتلا ہو اور فتوے کی حاجت ہو بلکہ ایسے مسائل ڈھونڈتے ہیں جن میں کسی طرح بحث مباحثے کی گنجائش زیادہ ہو اور بعض اوقات بکثرت واقع ہونے والے مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کا تعلق حدیث سے ہے یا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منفقہ ہے، اختلافی مسائل میں سے نہیں تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ مقصود طلب حق ہے تو وہ مسئلہ کو یہ کہہ کر کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سے متعلق ہے حالانکہ حق احادیث ہی سے حاصل ہوتا ہے یا اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں کہ ہم اس میں طویل کلام کریں حالانکہ طلب حق میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ مختصر کلام کر کے جلد مقصد کو پہنچا جائے، لمبا کلام نہ کیا جائے۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم، الحديد ۱۰، ج ۴، ص ۳۶۵۔

﴿5﴾..... وہ تنہائی میں مناظرہ کرنے کو، محفل میں، امرا اور بادشاہوں کے سامنے مناظرہ کرنے سے زیادہ پسند اور اہم جانے کیونکہ تنہائی میں ذہن مجتمع ہوتا، ذہن و فکر کی صفائی جلد ہو جاتی اور حق کو جلد پایا جاسکتا ہے جبکہ مجمع میں ریاکاری کے اسباب متحرک ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنی برتری کا حریص ہوتا ہے حق پر ہو چاہے باطل پر اور آپ جانتے ہیں کہ محفلوں اور مجموعوں میں ان کی خواہش رضائے الہی نہیں ہوتی اور یہ کہ ان میں سے کوئی ایک طویل مدت تک اپنے رفیق کے ساتھ تنہا ہوتا ہے مگر اس سے بات نہیں کرتا۔ کبھی اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتا۔ جب کسی عہدے دار کے سامنے ہو یا لوگوں کا اجتماع ہو تو وہ تقریر میں اپنی انفرادیت منوانے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتا۔

﴿6﴾..... طلب حق میں مناظر کا حال اس شخص کی طرح ہو جو گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو، وہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ گمشدہ چیز براہ راست اسے ملے یا اس کے معاون و مددگار کے ذریعے ملے۔ وہ اپنے رفیق (یعنی مد مقابل) کو مددگار سمجھتا ہے مخالف نہیں اور اگر اس کا رفیق اسے اس کی غلطی بتائے اور اس کے سامنے حق کو واضح کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جیسا کہ اگر وہ اپنی گمشدہ چیز کی تلاش میں ایک راستے کو اختیار کرے تو اس کا رفیق اسے بتائے کہ اس کی گمشدہ چیز دوسرے راستے میں ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی برائی نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کی مشاورتیں ایسی ہی تھیں جیسا کہ،

### طالب حق ایسا ہوتا ہے:

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لوگوں کے مجمع میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک عورت نے آپ کی کسی بات کا انکار کیا اور حق بات پر آگاہ کیا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”عورت نے درست کہا اور مرد سے خطا ہوگئی۔“ (۱)

ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا تو اس نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! یوں نہیں بلکہ اس طرح ہے۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے

①.....جامع بیان العلم وفضلہ، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، فصل فی الانصاف فی العلم، الحدید ۵۸، ص ۱۷۹۔

فرمایا: ”تم نے ٹھیک کہا اور میں نے غلطی کی اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو وہ بات بتائی جو ان سے رہ گئی تھی تو انہوں نے فرمایا: ”جب تم میں یہ بڑے عالم موجود ہوں تو مجھ سے نہ پوچھا کرو۔“ (۲)

واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جواب دیا: ”وہ جنتی ہے۔“ اس وقت آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو فہ کے امیر تھے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کھڑے ہو کر فرمایا: ”دوبارہ پوچھو شاید امیر سوال نہیں سمجھے۔“ لوگوں نے دوبارہ پوچھا مگر امیر کو فہ نے وہی جواب دیا تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا: ”میں کہتا ہوں، اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تو جنتی ہے۔“ امیر کو فہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”حق وہ ہے جو انہوں نے کہا۔“ (۳)

طالب حق کا انصاف ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی ادنیٰ فقیہ کو بھی اس طرح کہا جائے تو وہ اس کا انکار کرے گا اور اسے بعید سمجھے گا اور کہے گا کہ ”یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ اگر وہ حق کو پہنچا“ کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے۔ پس تم آج کل کے مناظرین کا حال دیکھو کہ اگر حق کسی مخالف کی زبان سے ظاہر ہو جائے تو کس طرح اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور کیسے وہ اس کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا انکار کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے اور طویل عرصے تک اس کی برائی کرتا ہے پھر حق پر غور و فکر کرنے پر مدد کرنے میں اپنے آپ کو صحابہ کرام رَضَوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے ساتھ تشبیہ دینے میں حیا بھی نہیں کرتا۔

﴿7﴾..... وہ مناظرے میں شریک دوسرے شخص کو ایک دلیل سے دوسری دلیل اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف جانے سے منع نہ کرے۔ اسلاف کے مناظرے ایسے ہی ہوتے تھے۔ اپنی گفتگو سے جھگڑے کی تمام نئی باریکیوں کو خارج کر دے خواہ وہ اس کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف۔ مثلاً اس کا یہ کہنا کہ ”اسے بیان کرنا

①..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، الحدیث: ۵۸، ص ۱۷۹۔

②..... الموطا للامام مالک، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی الرضاعۃ بعد الکبر، الحدیث: ۱۳۲، ج ۲، ص ۱۴۷۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۵ تا ۲۵۶۔



مجھ پر لازم نہیں، یہ بات تمہاری پہلی بات کے خلاف ہے لہذا قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ حق کی طرف رجوع کرنا باطل کو توڑ دیتا ہے اور اسے قبول کرنا واجب ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مجلسیں جھگڑوں اور ایک دوسرے کا رد کرنے میں ختم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ جب کوئی دلیل دینے والا کسی اصل کی ایک علت ٹھہرا کر کلام کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ”تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس حکم کی اصل میں علت یہی ہے؟“ وہ کہتا ہے: ”مجھے تو یہی معلوم ہوئی ہے اگر تمہیں اس سے زیادہ واضح اور بہتر علت معلوم ہے تو وہ بیان کرو تا کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔“ تو معترض مصررہتا ہے اور کہتا ہے کہ ”جو تم نے بیان کیا اس کے علاوہ اس کے کئی معانی ہیں جو میں جانتا ہوں لیکن میں وہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر انہیں بیان کرنا لازم نہیں۔“ دلیل دینے والا کہتا ہے: ”اس کے علاوہ جس علت کا تم دعویٰ کرتے ہو اسے بیان کرو۔“ لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف پر بضد رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ”مجھ پر بیان کرنا لازم نہیں۔“ اس طرح کے سوالات سے مناظرے کی مجالس شور شرابے کی نذر ہو جاتی ہیں اور یہ بیچارہ نہیں جانتا کہ اس کا یہ کہنا کہ ”میں جانتا ہوں مگر بیان نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر لازم نہیں۔“ شریعت پر جھوٹ ہے کہ اگر وہ اس کے معنی نہیں جانتا اور محض مخالف کو عاجز کرنے کے لئے کہتا ہے تو وہ فاسق، کذاب ہے، اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کی اور ایسی بات کا دعویٰ کر کے جو اسے معلوم نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کو دعوت دی اور اگر سچا ہے تو شریعت کی بات جسے وہ جانتا ہے چھپانے کی وجہ سے فاسق ہو گیا جبکہ اس کے مسلمان بھائی نے اس سے پوچھا تا کہ وہ اسے سمجھے اور اس میں غور و فکر کرے، اگر وہ قوی ہے تو اس کی طرف رجوع کرے اور اگر ضعیف ہے تو اس کے سامنے اس کا ضعف بیان کر کے اسے جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی دے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دین کی جو بات وہ جانتا ہے جب اس سے پوچھی جائے تو اس پر بتانا واجب ہے تو پھر اس کی اس بات کہ مجھ پر لازم نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑے کی شریعت، جسے ہم نے خواہشات اور حیلہ سازی اور کلام کے ذریعے نچا دکھانے کے طریقوں میں رغبت کی وجہ سے نکالا ہے اس کے مطابق لازم نہیں ورنہ شرعی طور پر یہ لازم ہے کیونکہ اسے بیان کرنے سے رکنے کے سبب وہ کاذب ہے یا فاسق۔ پس تم صحابہ کرام رَضُوا اللہ تَعَالَى عَلَیْہُمْ اَجْمَعِیْن کی مشاورتوں اور اسلاف کے مذاکروں کے متعلق تحقیق کر لو کیا وہ ایسے تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک دلیل

سے دوسری دلیل کی طرف، قیاس سے اثر کی طرف یا حدیث سے آیت کی طرف جانے سے منع کیا؟ (نہیں) بلکہ ان کے تمام مناظرے اسی قسم کے تھے کہ جو کچھ ان کے دل میں آتا وہ سب کچھ ذکر کر دیتے اور سب اس میں غور و فکر کرتے۔

﴿8﴾..... مناظرہ اس شخص سے کیا جائے جو علم سیکھنے میں مشغول ہو اور اس سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو لیکن اب مناظرین غالباً بڑے بڑے علما کے ساتھ مناظرہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اس ڈر سے کہ ان کی زبانوں پر حق جاری ہو جائے گا اور ان سے مناظرہ کرنا پسند کرتے ہیں جو علم میں کمتر ہوں تاکہ ان پر باطل کو رواج دیں۔

### شیطان کا کھلونا:

ان کے علاوہ بھی بہت سی باریک شرائط ہیں لیکن ان آٹھ شرائط میں جو بیان ہو اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون رضائے الہی کے لئے مناظرہ کرتا ہے اور کون اس کے سوا کسی اور مقصد کے لئے۔ مختصر یہ کہ یاد رکھو جو شیطان سے مناظرہ نہیں کرتا حالانکہ وہ اس کے دل پر مسلط اور اس کا سب سے بڑا دشمن اور اسے ہلاکت کی طرف بلاتا رہتا ہے، وہ اس کے علاوہ لوگوں سے ان مسائل میں مناظرہ کرتا ہے جن میں مجتہد راہِ راست پر ہوتا ہے یا اجر و ثواب میں درست راہ پانے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ ایسا شخص شیطان کے لئے کھلونا اور مخلص لوگوں کے لئے عبرت ہے۔ اسی لئے شیطان اس پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے اسے ان آفات کے اندھیروں میں غوطہ دے رکھا ہے جنہیں ہم ذکر کریں گے اور ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھی مدد و توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

### ﴿..... ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال.....﴾

فرمانِ مصطفیٰ:

”ہلاکت میں ڈالنے والے سات گناہوں سے بچتے رہو، وہ یہ ہیں: (۱) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شریک ٹھہرانا (۲) جادو کرنا (۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا (۴) یتیم کا مال کھانا (۵) سود کھانا (۶) میدانِ جہاد سے فرار ہونا اور (۷) سیدھی سادی، پاک دامن، مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔“ (صحیح البخاری، الحدیث ۲۷۶۶، ص ۲۲۲)

دوسری فصل: مناظرے کی آفات اور اس سے جنم لینے والی

## بلاکت خیز عادات

جان لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ جو مناظرہ غالب آنے، سامنے والے کو خاموش و لاجواب کرنے، اپنی فضیلت و عزت ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کر باتیں کرنے، فخر و غرور، حجت بازی اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی نیت سے ہو وہ ان تمام مذموم صفات کی بنیاد ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک بری اور دشمن خدا ابلیس کو اچھی لگتی ہیں۔ اس کی نسبت تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حبت جاہ وغیرہ باطنی برائیوں کی طرف ایسی ہے جیسے شراب پینے کی نسبت ظاہری برائیوں یعنی زنا، تہمت، قتل اور چوری کی طرف اور جیسے وہ شخص کہ جسے شراب پینے اور دوسری برائیوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ شراب کو معمولی سمجھ کر پی بیٹھے پھر شراب کے نشے میں بقیہ گناہوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھے۔ اس طرح جس پر دوسروں کو خاموش و لاجواب کرنے، مناظرے میں غلبہ پانے، حبت جاہ، فخر و غرور کی خواہش غالب ہو تو یہ چیز اسے دل کی تمام باطنی برائیوں کی طرف لے جائے گی اور اس کے نفس میں تمام بری صفات کی خواہش جوش مارے گی۔ مہلکات کے بیان میں قرآن و حدیث سے ان صفات کی برائی کے دلائل آئیں گے لیکن فی الحال ہم ان تمام بری صفات کی طرف اشارہ کریں گے جو مناظرے کے سبب وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ،

## مناظرے کے باعث پیدا ہونے والی بری صفات:

﴿1﴾..... حسد: سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“ (۱)

مناظرہ حسد سے نہیں بچ سکتا کیونکہ کبھی وہ غالب آتا ہے اور کبھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے کلام کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی دوسرے کے کلام کو اچھا کہا جاتا ہے۔ پس جب تک دنیا میں ایک شخص بھی ایسا زندہ رہے گا جس کے قوتِ علم اور قوتِ اجتہاد کا ذکر کیا جائے گا یا اس کے خیال میں اس کا کلام اچھا اور فکر مضبوط ہوگی تو وہ ضرور اس سے حسد کرے گا اور اس سے زوالِ نعمت کی تمنا کرے گا اور پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس کی طرف سے پھر کر میری

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحسد، الحدیث: ۴۲۱، ج ۲، ص ۴۳۔

طرف مائل ہو جائیں۔ حسد ایک جلانے والی آگ ہے پس جو اس میں مبتلا ہو وہ دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہو اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور بڑا ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: ”علم کو جہاں پاؤ لے لو لیکن فقہا کے وہ اقوال قبول نہ کرو جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ایسے ہی دشمن ہیں جیسے باڑے میں بکرے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔“<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... تکبر اور خود کو لوگوں سے بلند سمجھنا: سردارِ مکہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو تکبر کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے پست کر دیتا ہے اور جو عاجزی و انکساری اپناتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

نیز حدیث قدسی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”عظمت میرا ازار ہے اور کبریائی میری چادر تو جوان میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔“<sup>(۳)</sup>

مناظر اپنے ہم عصروں اور ہم مثل لوگوں پر تکبر کرنے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر مرتبہ چاہنے سے نہیں بچ سکتا حتیٰ کہ وہ مجالس میں بیٹھنے کی جگہ پر جھگڑتے ہیں، بلند و پست جگہ، مقامِ صدارت سے قرب و دوری اور راستے تنگ ہونے کی صورت میں پہلے داخل ہونے پر مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی ان میں سے غبی، مکار اور دھوکے باز بہانہ کرتا ہے کہ وہ تو علم کی حفاظت چاہتا ہے اور ”مومن کو اپنے نفس کی تذلیل سے منع کیا گیا ہے۔“<sup>(۴)</sup>

پس وہ تواضع جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور تمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے قابلِ تعریف قرار دیا اسے ذلت سے تعبیر کرتا ہے اور تکبر جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک برا ہے اسے دین کی عزت بتاتا ہے۔ ناموں میں تحریف کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے جس طرح حکمت اور علم وغیرہ ناموں میں تحریف کی گئی۔

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب حکم قول العلماء بعضهم فی بعض، الحدیث: ۱۱۸۴، ص ۲۳۵۔

②.....سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب البراءة من الکبر والتواضع، الحدیث: ۴۱۷۴، ج ۴، ص ۴۵۸۔

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب التواضع والخمول، الحدیث: ۷۷، ج ۳، ص ۵۵۲۔

③.....سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب البراءة من الکبر والتواضع، الحدیث: ۴۱۷۴، ج ۴، ص ۴۵۷۔

المستدرک، کتاب الایمان، باب اهل الجنة، المغلوبون الضعفاء.....الخ، الحدیث: ۲۹۹، ج ۱، ص ۲۳۵۔

④.....سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ۶، الحدیث: ۲۲۶۱، ج ۴، ص ۱۱۲۔

﴿3﴾..... کینہ: مناظر اس سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا حالانکہ مکئی مدنی سرکار، محبوب پروردگار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مسلمان کینہ پرور نہیں ہوتا۔“ (۱)

کینہ کی مذمت و برائی میں جو کچھ مروی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں اور تم کسی مناظر کو اس پر قادر نہ دیکھو گے کہ وہ اس شخص سے کینہ کو چھپائے جو اس کے مخالف کا کلام سن کر سر ہلاتا ہے اور اس کا کلام سن کر نہ سر ہلاتا ہے اور نہ اچھے طریقے سے سنتا ہے بلکہ جب مناظر اسے دیکھے گا تو کینہ کو چھپانے اور دل ہی دل میں اسے بڑھانے پر مجبور ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یہ کر سکے گا کہ نفاق کے طور پر کینہ کو چھپالے گا لیکن عام طور پر وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔

نیز مناظر کینہ سے کیونکر بچ سکتا ہے جبکہ تمام سننے والوں کا متفقہ طور پر اس کے کلام کو ترجیح دینا متصور نہیں اور نہ یہ ممکن ہے کہ ہر حالت میں وہ اس کے اعتراضات و جوابات کو اچھا بتائیں بلکہ اس کے مخالف سے اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ایسی صادر ہوگی جس سے اس کے کلام کی طرف توجہ کم ہوگی تو زندگی بھر اس کے دل میں مخالف کا کینہ جم جائے گا۔

﴿4﴾..... غیبت: اللهُ عَزَّوَجَلَّ نے غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ مناظر ہمیشہ مردار کھاتا رہتا ہے کیونکہ وہ مخالف کا کلام نقل کرنے اور اس کی مذمت کرنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کر لے گا کہ مخالف کی جو بات نقل کرے گا اس میں سچ بولے گا، جھوٹ سے کام نہیں لے گا۔ البتہ ایسی باتیں ضرور نقل کرے گا جو اس کے کلام کے عیب، عجز اور اس کی فضیلت کی کمی پر دلالت کریں اور یہی غیبت ہے، اگر اس کے بارے میں جھوٹ نقل کرے گا تو بہتان ہوگا۔ اسی طرح مناظر اس شخص کی عزت کے درپے ہونے سے بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا جو اس کے کلام سے اعراض کرے اور اس کے مخالف کا کلام توجہ سے سننے حتیٰ کہ وہ ایسے شخص کو جاہل، احمق، ناسمجھ اور بے وقوف بتائے گا۔

﴿5﴾..... خود پسندی کا شکار ہونا: مناظرے سے جنم لینے والی برائیوں میں سے ایک اپنے نفس کی تعریف کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①..... الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الاول، الكبيرة الثالثة، ج ۱، ص ۱۲۲۔

المعجم الاوسط، الحدیث ۴۶۵۳، ج ۳، ص ۳۰۱۔

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ  
 اتَّقٰی ۛ (پ۲، النجم: ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ وہ خوب  
 جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔

کسی دانا سے پوچھا گیا: ”برایچ کیا ہے؟“ جواب دیا: ”آدمی کا اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔“  
 مناظر قوت و غلبہ اور ہم عمروں پر فوقیت کے ساتھ اپنی تعریف کرنے سے نہیں رہ سکتا اور مناظرے کے دوران  
 یہ بھی ضرور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جن پر اس جیسی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ میں مختلف علوم کا ماہر، اصول  
 و احادیث یاد کرنے میں منفرد ہوں۔ اس کے علاوہ وہ باتیں جن سے اپنی تعریف کی جاتی ہے کبھی تو شیخی مارنے کے طور  
 پر کہتا ہے اور کبھی ضرورت کی وجہ سے تاکہ اس کا کلام مشہور ہو۔ یہ بات معلوم ہے کہ شیخی مارنا اور خود پسندی کا شکار ہونا  
 دونوں شرعی طور پر بھی برے ہیں اور عقلی طور پر بھی۔

﴿6﴾ ..... تجسس اور لوگوں کے چھپے عیوب تلاش کرنا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عظیم ہے:

وَلَا تَجَسَّسُوْا (پ۲۶، الحجرات: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور عیب نہ ڈھونڈو۔

مناظر اپنے ہم عمروں کی خطائیں اور مخالف کے عیوب تلاش کرنے سے باز نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اگر اسے خبر  
 ملے کہ اس کے شہر میں کوئی مناظر آرہا ہے تو وہ ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو اس کے پوشیدہ حالات اسے بتائے۔ سوال  
 کر کر کے اس کی برائیاں نکالتا اور ضرورت کے وقت اسے ذلیل و رسوا اور شرمندہ کرنے کے لئے ذخیرہ کرتا ہے۔ اس  
 کے بچپن کے حالات اور بدن کے عیوب تک پوچھتا ہے کہ شاید اس کی کوئی لغزش یا اس کا کوئی عیب مثلاً گنجا ہونا وغیرہ  
 معلوم ہو جائے۔ پھر جب اس کا معمولی غلبہ محسوس کرے تو اگر وہ سنجیدہ ہو تو کنایۃً اس کا عیب بیان کرتا ہے اور اس بات کو  
 اچھا سمجھا جاتا اور نکتہ و باریک بینی شمار کیا جاتا ہے اور اگر وہ بے حیائی اور مذاق مسخری سے خوش ہوتا ہو تو اس کی برائی کھل  
 کر بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ معتبر مناظرین کے بارے میں منقول ہے جو بڑے پائے کے مناظر شمار کئے جاتے ہیں۔

﴿7﴾ ..... لوگوں کی برائیوں پر خوش ہونا اور خوشی پر رنجیدہ ہونا: جو اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو  
 اپنے لئے پسند کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے دُور ہے۔ پس ہر وہ شخص جو اپنی فضیلت ظاہر کر کے فخر کرنا چاہتا  
 ہے اسے وہ بات ضرور خوش کرتی ہے جو اس کے ہم عمروں اور فضیلت میں اس کے ہم پلہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

ان میں ایسی دشمنی ہوتی ہے جیسی سوکنوں میں ہوتی ہے۔ جس طرح ایک سوکن جب دوسری کو دور سے دیکھتی ہے تو گھبرا کر لرز جاتی اور اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اسی طرح تم مناظر کو دیکھو گے کہ جب وہ کسی دوسرے مناظر کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا اور وہ گھبرا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی سرکش جن یا شکاری درندہ دیکھ لیا ہو۔ تو کہاں ہے وہ محبت و پیار جو علما کے درمیان باہم ملاقات کے وقت ہوتا ہے اور کہاں ہے وہ جو علما کے بارے میں بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا منقول ہے۔

### مربوط رشتہ:

حضرت سپیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی نے فرمایا: ”علم اہل فضل و عقل کے درمیان مربوط رشتہ ہے۔“  
لہذا جن لوگوں کے درمیان قطعی دشمنی ہے وہ حضرت سپیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے مذہب کی اقتدا کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ غلبہ و فخر کی خواہش ہوتے ہوئے ان میں محبت کی فضا ہرگز ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ تمہیں مناظرے کی اتنی برائی کافی ہے کہ منافقین کے اخلاق تمہاری عادات بن جائیں اور تم مؤمنین و متقین کے اخلاق سے محروم ہو جاؤ۔  
﴿8﴾..... منافقت: اس کی مذمت میں دلائل دینے کی حاجت نہیں، مناظرین اس پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مخالفین اور ان کے محبین و تابعین سے ملتے ہیں تو زبان سے ان کی محبت اور ان کے مقام و مرتبے کے شوق کا اظہار کرنے کے سوا انہیں کوئی چارہ نہیں ہوتا حالانکہ متکلم و مخاطب اور تمام سننے والے جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ، منافقت اور فجور ہے کیونکہ وہ زبان سے تو محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہم ان سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت سپیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ علم سیکھیں اور عمل چھوڑ دیں، زبانوں سے اظہارِ محبت کریں اور دلوں میں بغض و عداوت رکھیں اور رشتے کاٹیں اس وقت ان پر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہوگی اور وہ انہیں اندھا اور بہرہ کر دے گا۔“<sup>(۱)</sup> اس روایت کی صحت اس حالت کے مشاہدے سے ثابت ہے۔

①..... الزهد للامام احمد بن حنبل، فضل ابی ہریرہ، الحدیث: ۸۳، ص ۱۷۶۔

العقوبات لابن ابی الدنیا، اسباب العقوبات و انواعها، الحدیث: ۱، ص ۲۴۔

﴿۹﴾..... حق سے تکبر کرنا، اسے برا جاننا اور اس میں جھگڑنے کو پسند کرنا: مناظرے سے جنم لینے والی برائیوں میں سے ایک برائی حق سے تکبر کرنا، اسے برا جاننا اور اس میں جھگڑنے کو پسند کرنا بھی ہے۔ یہاں تک کہ مناظر کے لئے یہ بات سب سے زیادہ قابل نفرت ہوتی ہے کہ اس کے مخالف کی زبان پر حق ظاہر ہو۔ اگر ظاہر ہو جائے تو اس کا انکار کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اسے رد کرنے کے لئے دھوکا، مکر و فریب اور حیلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں جھگڑا کرنے کی طبعی عادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو بھی کلام سنتا ہے اس کی طبیعت اس پر اعتراض کرنے کی طرف راغب ہوتی ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن حکیم کے دلائل اور شریعت کے الفاظ کے بارے میں بھی اعتراض کی عادت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر وہ بعض الفاظ کو بعض کے مقابلے میں لاتا ہے حالانکہ باطل کے مقابلے میں بھی جھگڑا کرنا ممنوع ہے کیونکہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے حق کے ساتھ باطل کے خلاف جھگڑا ترک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ،

تاجدارِ دو عالم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو باطل پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت کے ایک کونے میں گھر بنائے گا اور جو حق پر ہو اور جھگڑا نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر بنائے گا۔“<sup>(۱)</sup>

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حق کو جھٹلانے اور ذاتِ الہی پر جھوٹ باندھنے والوں کو یکساں قرار دیا ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ<sup>ط</sup> (پ ۲۱، العنکبوت: ۶۸)  
ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔  
ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ  
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ<sup>ط</sup> (پ ۲۴، الزمر: ۳۴)  
ترجمہ کنز الایمان: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے۔

①..... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی المراء، الحدیث: ۲۰۰، ج ۳، ص ۴۰۰۔

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، الحدیث: ۴۸۰، ج ۴، ص ۳۳۲، بتغییر۔



﴿10﴾..... ریا کاری اور لوگوں پر نگاہ رکھنا: ریا کاری، لوگوں پر نگاہ رکھنا، ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کرنا بھی مناظرے کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ ریا کاری ایک لاعلاج بیماری ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ ”کتاب الریا“ میں آئے گا۔ مناظر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں۔

مذکورہ 10 برائیاں بڑی بڑی باطنی برائیوں میں سے ہیں اور وہ عادات جو غیر سنجیدہ مناظرین میں پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ ہیں جیسے ایسا جھگڑا جس میں ماردھاڑ، تھپڑ رسید کرنا، چہرے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا، داڑھی پکڑنا، والدین کو گالیاں دینا، اساتذہ کو برا بھلا کہنا اور کھلم کھلاتہمت لگانا اور الزام تراشی کرنا ہے۔ بلاشبہ ایسے لوگوں کا شمار سمجھدار لوگوں میں نہیں ہوتا۔ ان میں سے جو اکابر اور اہل عقل ہوتے ہیں وہ بھی ان 10 خصلتوں میں مبتلا ہوتے ہی ہیں۔ البتہ کچھ لوگ، بعض خصلتوں سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ مد مقابل مناظر اس سے کم مرتبہ ہو یا زیادہ مرتبہ والا ہو یا اس کے شہر اور اسباب معیشت سے دور کا ہو اور اگر دونوں ہم پلہ ہوں تو پھر ان خصلتوں سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ان 10 خصلتوں میں سے ہر ایک خصلت سے مزید 10 بے ہودہ حرکات جنم لیتی ہیں ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر کے گفتگو کو طویل نہیں کریں گے، جیسا کہ ناک چڑھانا، غصہ کرنا، دشمنی رکھنا، لالچ کرنا، غلبہ پانے اور فخر کرنے کی قدرت حاصل کرنے کے لئے طلب مال و عزت کی محبت، غرور، اترانا، مالداروں اور بادشاہوں کی تعظیم کرنا، ان کے درباروں میں آنا جانا، ان کے حرام مال حاصل کرنا، گھوڑوں، سواریوں اور ممنوع کپڑوں سے زینت اختیار کرنا، فخر و غرور میں مبتلا ہو کر لوگوں کو حقیر سمجھنا، فضول کاموں میں غور و خوض کرنا، زیادہ باتیں کرنا، دل سے خوف و خشیت اور نرمی نکل جانا، دل پر غفلت طاری ہو جانا کہ ان میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کون سی نماز پڑھی؟ کہاں سے قرأت کی؟ اور کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے؟ مناظرے میں مددگار علوم میں تمام عمر مشغول رہنے کے باوجود وہ اپنے دل میں خشوع محسوس نہیں کرتا اور یہ علوم یعنی عمدہ گفتگو، مَقْفٰی و مُسَجَّع الفاظ اور نادر و نایاب باتوں کو یاد کر لینا اور ان کے علاوہ بے شمار امور ہیں جو آخرت میں نفع بھی نہیں دیں گے۔ جبکہ مناظرین اپنے درجات کے مطابق ان میں مختلف ہیں۔ ان کے مختلف درجات ہیں جو ان میں سے دین میں بڑا اور عقل و دانائی میں زیادہ ہو وہ بھی ان خصائل سے نہیں بچ سکتا بہت زیادہ کوشش کر کے اتنا کر لے گا کہ اپنے نفس پر قابو پا کر انہیں چھپا

لے گا۔ یاد رکھو! یہ گھٹیا اخلاق اس میں بھی ضرور پائے جاتے ہیں جو وعظ و نصیحت میں مشغول ہو جبکہ اس کا مقصد لوگوں میں مقبولیت پانا، اپنا مرتبہ قائم کرنا اور مال و عزت حاصل کرنا ہو۔ اس میں بھی ضرور پائے جاتے ہیں جو علم مذہب و فتاویٰ میں مشغول ہو جبکہ اس کا مقصد قاضی بننا، اوقاف کا متولی بننا اور اپنے ہم عصروں سے آگے بڑھنا ہو۔

## ہمیشہ کی ہلاکت و بربادی یا حیات جاودانی:

مختصر یہ کہ یہ بری خصالتیں ہر اس شخص میں لازمی پائی جاتی ہیں جو آخرت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے حصول ثواب کے علاوہ مقصد کے لئے علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ علم عالم کو ایسے نہیں چھوڑتا بلکہ اسے ہمیشہ کی ہلاکت و بربادی کا نشانہ بنا دیتا یا حیات جاودانی بخش دیتا ہے اسی لئے سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بروز قیامت لوگوں میں سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اس کے علم نے نفع نہ دیا ہوگا۔“<sup>(۱)</sup>

بے شک یہاں علم نے نقصان دیا نفع نہیں دیا کاش! وہ برابر برابر ہی نجات پالیتا۔ خبردار! خبردار! علم کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اس کا طالب دائمی بادشاہی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا طالب ہوتا ہے۔ پس وہ بادشاہ بن کر یا ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ دنیوی بادشاہی کے طالب کی طرح ہے کہ اگر وہ مال حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو تو ذلت سے بچنے کی امید بھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے سخت رسوا کن حالات ضروری ہو جاتے ہیں۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ مناظرے کی اجازت دینے میں فائدہ ہے کہ اس سے لوگوں کو طلبِ علم کی ترغیب ملتی ہے، اگر حکومت کی محبت نہ ہو تو علوم مٹ جائیں گے۔؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تم نے کہا ایک اعتبار سے سچ ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں کیونکہ اگر بچے کو گیند بلے اور چڑیوں سے کھیلنے کی لالچ نہ دی جائے تو وہ مدرسہ میں دلچسپی نہیں لیتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیل کود کا شوق اچھا ہے۔ اسی طرح اگر حکومت کی محبت نہ ہو تو علوم مٹ جائیں گے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حکومت کا طالب نجات پائے گا بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۷۷، ج ۲، ص ۲۸۵۔

المجالسة و جواهر العلم للذینوری، الحدیث: ۹، ج ۱، ص ۵۷۔

وَاللّٰهُ سَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ اس دین کی مدد ان لوگوں سے بھی لیتا ہے جن کے اخلاق نہیں۔“ (۱)  
 ایک روایت میں ہے کہ ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ فاسق و فاجر شخص سے بھی اس دین کی مدد لے لیتا ہے۔“ (۲)

## آگ اور شمع کی مثل:

پس طالبِ حکومت خود ہلاک ہو رہا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے سبب کبھی دوسروں کی اصلاح ہو جاتی ہے جبکہ وہ ترکِ دنیا کی طرف بلائے اور یہ اس شخص میں ہوتا ہے جس کا ظاہری حال علمائے سلف کے ظاہر جیسا ہو۔ اگر وہ دل میں مقام و مرتبہ کی خواہش چھپائے ہوئے ہو تو اس کی مثال اس شمع جیسی ہے جو خود تو جلتی ہے مگر دوسرے اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ہلاکت میں دوسروں کی اصلاح ہے اور اگر وہ طلبِ دنیا کی طرف بلائے تو اس کی مثال آگ جیسی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔

## علماء کی اقسام:

علماء کی تین قسمیں ہیں: (۱) جو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں اور یہ وہ ہیں جو علانیہ دنیا کی ترغیب دلاتے اور اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ (۲) جو خود بھی سعادت مند ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی خوش بختی کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ظاہر و باطن میں لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف بلاتے ہیں۔ (۳) جو خود ہلاک ہوتے ہیں مگر دوسروں کی سعادت مندی کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں لیکن دل میں لوگوں میں مقبولیت اور جاہ و حشمت کی تمنا رکھتے ہیں۔ پس تم غور کرو کہ تم کس قسم میں داخل ہو اور کس کی تیاری میں لگن ہو؟ اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسے علم و عمل کو قبول فرمائے گا جو خالصتاً اس کی رضا کے لئے نہیں۔ عنقریب ”کتاب الریاء“ بلکہ تمام مہلکات میں ایسی گفتگو آئے گی جو تمہارے شک و شبہ کو ختم کر دے گی۔

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ



①..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب السير، باب الاستعانة بالفجار في الحرب، الحديث ۸۸۸، ج ۵، ص ۲۷۹۔

②..... صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ان الله يؤيد..... الخ، الحديث ۳۰۶، ج ۲، ص ۳۲۹۔

# شاگرد اور اُستاد کے آداب

باب نمبر 5:

## طالب علم کے آداب

پہلی فصل:

شاگرد کے ظاہری آداب تو بہت زیادہ ہیں لیکن انہیں 10 جملوں کی لٹری میں پرودیا گیا ہے۔

﴿1﴾..... دل کو برے اخلاق اور بری صفات سے پاک کرنا: سب سے پہلے طالب علم اپنے دل کو برے اخلاق اور بری صفات سے پاک کرے کیونکہ علم دل کی عبادت، راز کی نماز اور باطن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب کا نام ہے۔ جس طرح وہ نماز جو ظاہری اعضاء کا عمل ہے، بدن کو نجاستوں اور ناپاکیوں سے پاک کئے بغیر درست نہیں ہوتی اسی طرح باطن کی عبادت اور علم سے دل کی آباد کاری اسے گندے اخلاق اور ناپاک اوصاف سے پاک کئے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ، خلق کے رہبر، شفیع محشر، محبوب داور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: **بَيْنِي وَالدِّينِ عَلَى النَّظَافَةِ** یعنی دین کی بنیاد پاکی پر ہے۔<sup>(۱)</sup>

پاکی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

**إِنَّمَا الشِّرْكُ نَجَسٌ** (پ ۱۰، التوبة: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: مشرک زے (بالکل) ناپاک ہیں۔

اس میں عقل والوں کو تنبیہ ہے کہ طہارت و نجاست صرف ظاہر کے ساتھ خاص نہیں۔ دیکھو! مشرک نے کبھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے اور غسل بھی کیا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اصلاً ناپاک ہے یعنی اس کا باطن ناپاکیوں سے آلودہ ہے۔ نجاست اس چیز کا نام ہے جس سے اجتناب کیا جائے اور دوری اختیار کی جائے اور باطنی ناپاک صفات سے بچنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ فی الحال ناپاک اور بالآخر ہلاک کرنے والی ہیں۔ اسی لئے **سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ**، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“<sup>(۲)</sup>

**بھونکنے والے کتے:**

دل گھر ہے، جائے نزول ملائکہ، ان کے اثرات اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور گھٹیا عادات مثلاً غصہ، شہوت،

①..... جمع الجوامع، حرف التاء، التاء مع النون، الحدیث: ۱۰۶۲، ج ۴، ص ۱۱۵۔

②..... صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب التصاویر، الحدیث: ۵۹۴، ج ۴، ص ۸۷۔

بغض و کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی وغیرہ بھونکنے والے کتے ہیں تو فرشتے اس دل میں کیسے داخل ہوں گے جو ان کتوں سے بھرا ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ علم کا نور فرشتوں کے ذریعے ہی دلوں میں داخل فرماتا ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا  
أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا  
فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ<sup>ط</sup> (پ ۲۵، الشوری: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پر درہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔

اسی طرح دلوں میں بھیجی جانے والی علوم کی رحمت اس پر مقرر فرشتوں کے ذریعے ہی آتی ہے اور وہ فرشتے پاک ہیں۔ بری صفات سے محفوظ ہیں۔ اس لئے وہ پاک ہی کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے خزانے ہیں وہ ان سے پاک لوگوں کو ہی معمور فرماتے ہیں۔

### ایک شبہ کا ازالہ:

میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ بیت (یعنی گھر) سے مراد دل اور کلب (یعنی کتے) سے مراد غصہ اور دیگر بری صفات ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات پر آگاہ کرنا اور ظاہری معنی کو برقرار رکھتے ہوئے ظاہر سے باطنی معنی مراد لینا ہے۔ پس اسی قضیہ سے ہمارے اور فرقہ باطنیہ والوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ یہی عبرت حاصل کرنے کا طریقہ اور ائمہ ابرار (نیک ائمہ) کا مسلک ہے اور عبرت حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑو جو کسی دوسرے کے لئے بیان کیا جائے اور اسے اس کے ساتھ خاص نہ سمجھو۔ جیسا کہ عقل مند شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے کہ یہ مصیبت اسے بھی لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا تو جائے انقلاب ہے۔ پس اس کا دوسرے کے حالات سے خود عبرت پکڑنا اور اپنی حالت سے دنیا کی حقیقت پر عبرت پکڑنا اچھا ہے۔ اس لئے تم بھی لوگوں کے بنائے ہوئے گھر سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بنائے ہوئے گھر یعنی دل کا اندازہ لگاؤ اور وہ کتنا جس کی برائی اس کی بری خصلت کی وجہ سے کی جاتی ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے، وہ اس میں موجود ناپاکی اور درندگی ہے اس سے اس روح کا اندازہ لگاؤ جس میں درندگی پائی جاتی ہے۔

### شکاری کتا، ظالم بھیڑیا، چیتا اور شیر:

یاد رکھو! جو دل غصے اور دنیا کی حرص سے لبریز ہو، اس پر لڑتا ہو اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے کا حریص ہو وہ

معنوی طور پر کتا ہے۔ البتہ! صورت میں دل ہے پس نور بصیرت معانی کو دیکھتا ہے صورتوں کو نہیں، دنیا میں صورتیں معانی پر غالب ہیں اور معانی ان میں پوشیدہ ہیں۔ جبکہ آخرت میں صورتیں معانی کے پیچھے چلیں گی اور معانی غالب ہوں گے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو اس کی معنوی صورت پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا لوگوں کی عزتوں کو پاش پاش کرنے والا شکاری کتے کی شکل میں <sup>(۱)</sup>، لوگوں کے اموال کا حریص ظالم بھیڑیے کی شکل میں، تکبر کرنے والا چیتے کی صورت میں اور حکومت کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس مضمون کی احادیث وارد ہیں اور اہل بصیرت و اہل بصارت کے نزدیک عبرت اس پر گواہ ہے۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ کتنے گھٹیا اخلاق کے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے علوم حاصل کر لئے (تو اس کا جواب یہ ہے کہ) افسوس! وہ حقیقی علم سے کتنے محروم ہیں جو آخرت میں نفع بخش اور سعادت و خوش بختی کا ذریعہ ہے کیونکہ علم کے آغاز میں سے یہ بات ہے کہ طالب علم پر ظاہر ہو جائے کہ گناہ زہر قاتل ہیں اور کیا تم نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو یہ جانتے ہوئے زہر کھائے کہ یہ باعث ہلاکت ہے؟ اور جو تم نے رسمی لوگوں سے سنا ہے وہ تو ایک بات ہے جسے وہ ایک بار اپنی زبانوں سے بنا سنوار کر کہتے ہیں اور دوسری بار ان کے دل اس بات کا رد کر دیتے ہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو ایک نور ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے۔

بعض علما نے فرمایا: علم خشیت (الہی کا نام) ہے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

رَأْتُمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (فاطر: ۲۸)

گویا اس میں علم کے نتائج کی طرف اشارہ ہے اسی وجہ سے بعض محققین نے علما کے اس قول ”ہم نے علم کو غیر خدا کے لئے حاصل کیا تو علم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کے لئے حاصل ہونے سے انکار کر دیا“ کا مفہوم یہ بیان کیا کہ علم نے

①..... فیض القدیر، حرف اللام، تحت الحدیث ۷۳۷، ج ۵، ص ۳۸۰۔

انکار کر دیا اور ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی پس ہم پر علم کی حقیقت آشکار نہ ہوئی ہمیں صرف اس کے الفاظ حاصل ہوئے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ میں نے محققین علماء و فقہا کی ایک جماعت دیکھی جنہوں نے فروع و اصول میں نمایاں مقام حاصل کیا اور وہ اکابرین میں شمار کئے جاتے ہیں حالانکہ وہ برے اخلاق کے حامل ہیں، اتنے علم سے بھی وہ پاک نہ ہو سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم مراتب علم اور علم آخرت کو پہچان جاؤ گے تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس چیز میں وہ مشغول ہیں اس کا علم ہونے کی حیثیت سے فائدہ کم ہے بلکہ اس کا فائدہ تو رضائے الہی کے لئے عمل ہونے کے اعتبار سے ہے جبکہ اس سے مقصود قرب الہی کا حصول ہو۔ اس کی طرف پہلے اشارہ گزر چکا ہے اور ان شاء اللہ عزوجل عنقریب اس کی مزید وضاحت آئے گی۔

﴿2﴾..... دنیوی مشغولیات سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرنا: طالب علم اپنی دنیوی مشغولیات کو کم کرے، اپنے گھر والوں اور وطن سے دور رہے کیونکہ یہ تعلقات اسے مشغول رکھتے اور طلب علم سے پھیر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۴)

اور جب خیالات منتشر ہو جائیں تو حقائق جاننے میں کمی آ جاتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ علم تجھے اپنا بعض اس وقت تک نہ دے گا جب تک تم اسے اپنا سب کچھ نہ دے دو گے اور جب تم اپنا سب کچھ اسے دے دو گے تو تمہیں اس کا بعض مل جائے گا لیکن اس میں بھی خطرہ ہوگا (کہ وہ مفید ہے یا نقصان دہ) اور مختلف کاموں میں بٹی ہوئی سوچ اس نالے کی طرح ہے جس کا پانی بکھر جائے، پھر اس میں سے کچھ زمین خشک کر دے، کچھ ہوا میں مل جائے اور اتنا نہ بچے جو جمع ہو کر کھیت تک پہنچے۔

﴿3﴾..... علم پر تکبر نہ کرنا: طالب علم، علم پر تکبر نہ کرے، استاذ پر حکم نہ چلائے بلکہ اپنے تمام معاملات کی لگام مکمل طور پر استاذ کے ہاتھ میں دے دے اور اس کی نصیحت کو ایسے قبول کرے جیسے جاہل بیمار، شفیق و ماہر طبیب کی نصیحت کو

مانتا ہے اور اسے چاہئے کہ اپنے استاذ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اس کی خدمت کر کے ثواب و فضیلت کا طالب ہو۔

## علماء و اکابرین اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ:

حضرت سیدنا امام شعیب علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اور ان کا خچر قریب لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہوں، اتنے میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور خچر کی رکاب تھام لی۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ”اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی! آپ زحمت نہ فرمائیے!“ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”ہمیں علماء و اکابرین کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔“ پھر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا: ”ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔“ (۱)

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”خوشامد مسلمان کی صفات میں سے نہیں مگر طلب علم میں۔“ (۲)

طالب علم کو استاذ کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہئے اور یہ بھی تکبر ہے کہ وہ مشہور و معروف علماء کے علاوہ سے علم حاصل کرنے کو ناپسند کرے اور یہ عین حماقت ہے کیونکہ علم نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے اور جو شخص چیر پھاڑ دینے والے درندے سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ بھاگنے کی راہ کوئی مشہور شخص بتائے یا گمنام اور اللہ عزوجل سے بے خبر لوگوں کے لئے آگ کی درندگی کا نقصان تمام درندوں کے نقصان سے زیادہ ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں پائے غنیمت جانے اور جس نے اس کی طرف رہنمائی کی اس کا احسان مانے وہ جو بھی ہو، اسی لئے کہا گیا ہے:

الْعِلْمُ حَرْبٌ لِّلْفِتَنِ الْمُتَعَالِي كَالسَّيْلِ حَرْبٌ لِّلْمَكَانِ الْعَالِي

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، الحدیث: ۵۸، ص ۱۷۴۔

عیون الاخبار للذہبی، کتاب السؤدد، التواضع، ج، ص ۳۸۰ تا ۳۸۱۔

②.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، الحدیث: ۵۸، ص ۱۷۸۔



**ترجمہ:** علم کو متکبر شخص سے عداوت ہوتی ہے جیسے سیلاب کو بلند جگہ سے عداوت ہوتی ہے۔  
پس علم تواضع اور توجہ کے ساتھ سنے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ  
الْقَلْبِ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٧٧﴾ (پ ۲۶، ق ۳)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے  
جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔  
دل رکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ علم کو سمجھ سکتا ہو پھر سمجھنے کی قدرت اسے فائدہ نہ دے گی جب تک کہ وہ توجہ  
کے ساتھ کان لگا کر نہ سنے گا تا کہ جو کچھ اسے بتایا جائے اچھی توجہ، انکساری، شکر یہ، خوشی اور احسان ماننے کے ساتھ  
اسے قبول کر لے۔ شاگرد کو استاذ کے سامنے نرم زمین کی طرح ہونا چاہئے جو موسلا دھار بارش کو جذب کر کے اسے  
مکمل طور پر قبول کر لیتی ہے اور جب استاذ اسے علم سیکھنے کا کوئی طریقہ بتائے تو اسے چاہئے کہ اپنی رائے کو چھوڑ کر  
استاذ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے کیونکہ اس کے رہنما کی خطا اس کے لئے اپنی درستی سے زیادہ مفید ہے۔  
اس لئے کہ تجربہ ایسی باریکیوں پر مطلع کرتا ہے جن کو سننے سے تعجب ہوتا ہے حالانکہ ان کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے  
گرم مزاج مریض ایسے ہیں کہ طبیب ان کا علاج گرم دواؤں کے ساتھ کرتا ہے تاکہ ان کی حرارت اس حد تک زیادہ  
ہو جائے کہ وہ علاج کا صدمہ برداشت کر سکے، اس سے اس شخص کو تعجب ہوتا ہے جو فن طب سے نا بلند ہوتا ہے۔  
اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے واقعہ میں اس پر  
تنبیہ فرمائی ہے، جب حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٧﴾ وَكَيْفَ  
تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٧٨﴾

(پ ۱۵، الکہف: ۶۷، ۶۸)

پھر انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر چُپ چاپ مان لینے کی پابندی لگا دی اور کہا:  
فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ  
أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٧﴾ (پ ۱۵، الکہف: ۷۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے  
کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔

پھر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام صبر نہ کر سکے اور بار بار انہیں ٹوکتے رہے یہاں تک کہ یہ بات ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ مختصر یہ کہ جو شاگرد استاذ کے سامنے اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اس پر محرومی اور خسارے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

یہاں تو سوال کرنے کا حکم ہے! یاد رکھو کہ بات ایسی ہی ہے لیکن اس چیز کے بارے میں سوال کرے جس کے متعلق سوال کرنے کی استاذ اجازت دے کیونکہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آسکے اس کے بارے میں پوچھنا مذموم ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا خضر نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کو پوچھنے سے منع کر دیا تھا یعنی اس کے وقت سے پہلے مت پوچھو۔ استاذ زیادہ جانتا ہے کہ تم کس کے اہل ہو اور اس بات کو ظاہر کرنے کا کون سا وقت ہے؟ اور بلند درجات میں سے ہر درجہ میں جس چیز کو بیان کرنے کا وقت نہیں آیا اس کے بارے میں پوچھنے کا وقت بھی نہیں آیا۔

## عالم کے حقوق:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا: ”عالم کے حقوق میں سے ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال نہ کرو، جواب میں اس پر سختی نہ کرو، وہ تھک جائے تو اصرار نہ کرو، جب وہ اٹھنے لگے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو، اس کے بھید نہ کھولو، اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، اس کے عیب نہ ڈھونڈو، اگر لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو، جب تک وہ دین کی حفاظت کرے تب تک اللہ عزوجل کے لئے تم پر اس کی تعظیم و توقیر واجب ہے، اس کے آگے نہ بیٹھو اور جب اسے کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے اس کی خدمت کرو۔“ (۱)

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، الحدیث: ۵۸، ص ۷۵۔۱

﴿4﴾.....ابتداء لوگوں کے اختلافات پر دھیان نہ دینا: طالب علم ابتدا میں لوگوں کے اختلافات پر دھیان نہ دے خواہ وہ دنیوی علوم ہوں یا اخروی، کیونکہ یہ بات اس کی عقل کو پریشان، ذہن کو حیران، اس کی رائے کو سست اور مسائل کو جاننے سمجھنے سے مایوس کر دے گی بلکہ اسے چاہئے کہ پہلے ایک اچھے اور منفرد طریقے کا یقین کرے جو اس کے استاذ کو بھی پسند ہو پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب اور شبہات کی طرف توجہ دے۔ اگر استاذ ایک رائے کو اختیار کرنے میں پختہ نہ ہو بلکہ اس کی عادت ہو کہ وہ محض مذاہب اور ان کی ابحاث کو نقل کرتا ہو تو اس سے بچے کیونکہ اس کی گمراہی رہنمائی سے زیادہ ہوگی کہ اندھا اندھوں کی قیادت و رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جس شخص کی یہ حالت ہو وہ خود جہالت و حیرت کے جنگل میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ابتدائی طالب علم کو شبہات سے روکنا ایسا ہے جیسے نو مسلم کو کفار کے ساتھ میل جول سے منع کرنا اور قوی کو اختلافات میں نظر کرنے کی ترغیب دلانا ایسا ہے جیسے قوی کو کفار سے میل جول کی رغبت دلانا۔ اسی وجہ سے بزدل کو لشکر کفار پر حملہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور بہادر کو اس کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ بعض ضعیف لوگوں نے اس باریک نکتہ سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ گمان کیا کہ طاقت ور لوگوں سے جو کمزوریاں منقول ہیں ان میں ان کی پیروی جائز ہے اور یہ نہ جانا کہ ان کے معاملات کمزور لوگوں کے معاملات سے جداگانہ ہیں۔ اسی کے بارے میں بعض بزرگوں نے فرمایا: ”جس نے مجھے ابتدا میں دیکھا وہ صدیق ہو گیا اور جس نے مجھے انتہا میں دیکھا وہ زندیق ہو گیا۔“ کیونکہ انتہا میں اعمال باطن کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور ظاہری اعضاء فرائض کے علاوہ اعمال سے رک جاتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سستی اور بے کاری ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ تو عین حضوری میں دل کی نگرانی اور ہمیشہ ذکر کو اختیار کرنا ہے جو سب اعمال سے افضل ہے۔

### سمندر میں جو خاصیت ہے وہ کوزے میں نہیں:

طاقت ور کے ظاہر حال کو دیکھ کر اسے لغزش سمجھنے والا کمزور شخص اس شخص کی طرح عذر پیش کرتا ہے جو پانی کے کوزے میں معمولی سی نجاست ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نجاست سے کئی گنا زیادہ سمندر میں ڈالی جاتی ہے اور سمندر کوزے سے بہت بڑا ہے پس جو سمندر کے لئے جائز ہے وہ کوزے کے لئے بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا وہ بے چارہ یہ نہیں جانتا کہ سمندر اپنی قوت و طاقت سے نجاست کو پانی میں تبدیل کر دیتا ہے تو نجاست کا عین پانی کے غلبے کی وجہ سے اس کی

صفت سے بدل جاتا ہے اور قلیل نجاست کوزے پر غالب آجاتی ہے اور اس میں موجود پانی کو اپنی صفت پر لے آتی ہے اسی وجہ سے حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے وہ باتیں جائز تھیں جو دوسروں کے لئے جائز نہ تھیں یہاں تک کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو (بیک وقت) نواز واج (بیویاں) رکھنے کی اجازت تھی۔<sup>(۱)</sup> کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ایسی قوت حاصل تھی جس سے عورتوں میں عدل و انصاف فرماتے اگرچہ وہ بہت ساری ہوں جبکہ کوئی دوسرا کچھ عدل پر قادر نہیں بلکہ عورتوں کے درمیان کا نقصان اسے پہنچ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عورتوں کی رضا جوئی میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرنے والا کیسے فلاح پاسکتا ہے۔

﴿5﴾..... عمدہ علم کے ہر فن اور ہر قسم کو جاننے کی کوشش کرنا: طالب علم اچھے علوم کا کوئی فن اور اس کی کوئی قسم نہ چھوڑے، اس میں اس قدر غور و فکر کرے کہ اس کی غرض و غایت معلوم ہو جائے پھر اگر زندگی وفا کرے تو اس میں مہارت حاصل کرے ورنہ اس سے زیادہ اہم میں مشغول ہو کر اسے پورا کرے اور بقیہ علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کر لے کیونکہ علوم ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے سے مربوط (جڑے ہوئے) ہیں۔ فی الحال علم سے علیحدگی اختیار کرنے والا جہالت کے باعث اس علم سے عداوت رکھتا ہے، کیونکہ لوگ جس سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا  
إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿۱۱﴾ (پ ۲۶، الاحقاف: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔

شاعر کہتا ہے:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مَرِيضٍ  
يَجِدُ مُرَّابِهِ الْمَاءِ السُّؤْلَا

ترجمہ: کڑوے منہ والا مریض بیٹھے پانی کو بھی کڑوا سمجھتا ہے۔

علوم کے مختلف درجات ہیں یا تو وہ بندے کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف لے جاتے ہیں یا اس میں کسی نہ کسی قسم کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے قریبی و دوری میں ہر علم کا ایک مقرر مقام ہے۔ ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ ہیں

①..... صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب کثرة النساء، الحدیث ۵۰۶، ج ۳، ص ۲۲۳۔

جس طرح جہاد میں اسلامی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک مرتبہ ہے اور اسی مرتبے کے اعتبار سے آخرت میں اس کے لئے اجر ہے جبکہ اس سے مقصود رضائے الہی ہو۔

﴿6﴾..... ترتیب علوم کا لحاظ رکھنا اور سب سے پہلے اہم کو شروع کرنا: طالب علم دفعتاً علم کے فنون میں سے کسی فن میں مشغول نہ ہو بلکہ ترتیب کا لحاظ رکھے اور سب سے پہلے اہم کو شروع کرے کیونکہ عام طور پر زندگی تمام علوم سیکھنے کا موقع نہیں دیتی۔ لہذا احتیاط یہی ہے کہ ہر فن میں سے عمدہ کو حاصل کر لے اور اس میں سے تھوڑے پر اکتفا کرے اور اس سے حاصل ہونے والی تمام قوت اس علم کی تکمیل میں صرف کرے جو سب سے افضل ہے اور وہ علم آخرت یعنی اس کی دونوں اقسام: علم معاملہ اور علم مکاشفہ ہے۔ علم معاملہ کی انتہا مکاشفہ ہے اور علم مکاشفہ کی انتہا معرفت الہی ہے۔ اس سے میری مراد وہ اعتقاد نہیں جسے عوام باپ داداؤں سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ ہی تحریر کلام کا طریقہ اور مجادلہ مراد ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کلام کو مخالف کی دھوکا بازیوں سے بچاتا ہے جیسا کہ علم کلام والے کی یہ غرض ہوتی ہے بلکہ مکاشفہ تو یقین کی ایک قسم ہے جو اس نور کا ثمرہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے جو مجاہدے کے ذریعے باطن کو خباثوں سے پاک کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ایمان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایمان کہ اگر ساری کائنات کے ایمان سے تو لا جائے تو بھی وزنی رہے۔ جیسا کہ تاجدار رسالت، ماہ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس بات کی گواہی دی ہے۔<sup>(۱)</sup>

اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تمام صحابہ کرام رَضُوا نَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ سے اس راز کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں راسخ تھا۔ لہذا تم اس راز کی معرفت کے حریص بن جاؤ جو فقہا اور متکلمین کی ہمت سے خارج ہے اور اسے تلاش کرنے کی تمہاری حرص ہی اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ بہر حال تمام علوم سے افضل اور تمام علوم کی غرض و غایت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت ہے اور معرفت الہی ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جاسکتا اس میں بندوں کے درجات میں سب سے افضل درجہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ہے پھر اولیائے عظام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ کا پھر ان سے متصل لوگوں کا۔

①..... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، عبد اللہ بن عبد العزیز: ۱۰۱، ج ۵، ص ۳۳۵۔

## پر حکمت تحریر:

منقول ہے کہ پہلے کے داناؤں میں سے دو کی تصویر ان کی عبادت گاہ میں دیکھی گئی، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں موجود ورق پر لکھا تھا کہ اگر تم ہر چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ لو تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے کسی چیز کو اچھے طریقے سے جان لیا ہے جب تک کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل نہ کرو اور یہ یقین نہ کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ اور تمام چیزوں کا موجد ہے اور دوسرے دانا کے ہاتھ میں موجود ورق پر لکھا تھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے میں پانی پینے کے باوجود پیاسا رہتا تھا اور معرفت کے حصول کے بعد میں بغیر پئے سیراب رہتا ہوں۔

﴿7﴾..... ایک فن کی تکمیل کے بعد دوسرے فن کی طرف متوجہ ہونا: طالب علم اس وقت تک دوسرے فن میں مشغول نہ ہو جب تک پہلے کو مکمل نہ کر لے کیونکہ علوم ترتیب ضروری پر مرتب ہیں اور ان میں سے بعض بعض کا ذریعہ ہیں اور توفیق یافتہ وہ ہے جو اس ترتیب اور درجہ بندی کی رعایت کرے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقًّا  
تِلَاوَتِهِ <sup>ط</sup> (ب، البقرة: ۱۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔

یعنی وہ ایک فن سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک علم و عمل کے لحاظ سے اسے پختہ نہ کر لیں۔ طالب علم کو چاہئے کہ وہ جس علم کے حصول کا ارادہ کرے اس سے اس کا مقصد اس سے اعلیٰ علم کی طرف ترقی کرنا ہو اور کسی علم کے بارے میں اس علم کے جاننے والوں میں اختلاف واقع ہونے یا اس میں کسی ایک یا چند ایک سے غلطی ہو جانے یا لوگوں کے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس علم کے فساد کا حکم نہ لگائے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک جماعت نے عقلیات و فقہیات میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اصل ہوتی تو ان کے جاننے والے اسے ضرور پاتے۔ اس اعتراض کا جواب معیار العلم کے بیان میں گزر چکا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک گروہ طبیب کی غلطی کو دیکھ کر طب کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور ایک گروہ کسی نجومی کی اتقاقیہ درست بات کو دیکھ کر علم نجوم کو صحیح گردانتا ہے اور کوئی گروہ کسی دوسرے نجومی کی اتقاقی غلطی کی وجہ سے اسے باطل بتاتا ہے حالانکہ یہ سب غلط ہے بلکہ چاہئے تو یہ کہ فی نفسہ شے کو جانا جائے کیونکہ ہر شخص ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سپدنا علی المرتضیٰ

كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے ارشاد فرمایا: ”حق کو افراد سے نہ پہچانو بلکہ فی نفسہ حق کی پہچان حاصل کرو افراد کو خود ہی پہچان جاؤ گے۔“ (۱)

﴿8﴾..... افضل علم تک پہنچانے والے سبب کی معرفت حاصل کرنا: طالب علم اس سبب کو پہچانے جس کے ذریعے وہ تمام علوم سے افضل علم کو حاصل کر سکے اور کسی علم کا شرف دو چیزوں سے ہوتا ہے: (۱)..... انجام کی فضیلت (۲)..... دلیل کی مضبوطی و قوت سے۔ اس کی مثال علم دین اور علم طب ہے کہ ان میں سے ایک کا نتیجہ حیاتِ سرمدی اور دوسرے کا حیاتِ فانی ہے۔ لہذا علم دین افضل ہوا (کہ اس کا نتیجہ حیاتِ سرمدی ہے)۔ ایک مثال علم حساب اور علم نجوم کی ہے کہ علم حساب دلائل کی مضبوطی اور قوت کی وجہ سے افضل ہے، اگر حساب کی نسبت طب کی طرف کی جائے تو نتیجے کے اعتبار سے طب افضل ہے جبکہ دلائل کے اعتبار سے حساب افضل ہے لیکن نتیجے کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر ہے اس لئے طب افضل ہے اگرچہ اس کا اکثر حصہ ظنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تمام علوم میں افضل علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا علم اور ان علوم تک پہنچانے والے راستے کا علم ہے۔ اس لئے تمہیں اسی میں دلچسپی لیننی چاہئے اور اسی کا حریص ہونا چاہئے۔

﴿9﴾..... باطن کی صفائی: طالب علم کا مقصود یہ ہو کہ وہ پہلے اپنے باطن کی صفائی کرے گا اور اسے فضیلت سے آراستہ کرے گا اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا اور ملائکہ و مقربین کی بارگاہ کے قرب تک رسائی پائے گا۔ یہ نیت نہ کرے کہ علم سے حکومت، مال و دولت، مقام و مرتبہ، بیوقوفوں سے جھگڑا اور ہم عصروں پر فخر کرے گا۔ اگر اچھی نیت سے علم حاصل کیا تو اپنے مقصود سے قریب تر یعنی علم آخرت کو ضرور طلب کرے گا لیکن اس کے باوجود وہ باقی علوم کو بنظر حقارت نہ دیکھے یعنی علم فتاویٰ، علم نحو و علم لغت جو قرآن و حدیث سے متعلق ہو اور اس کے علاوہ دیگر فرض کفایہ علوم جنہیں ہم نے مقدمات اور متممات میں بیان کیا ہے۔

## علم آخرت کے مقابلے میں دیگر علوم کی حیثیت:

علم آخرت کی تعریف میں ہمارے مبالغہ کرنے سے تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ باقی علوم مذموم ہیں۔ ان علوم کے حامل

①..... صید الخاطر لابن الجوزی، فصل ولاتنس نصیبک من الدنيا، ۲۔

سرحدوں کی حفاظت کرنے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے والے غازیوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑتے ہیں تو کچھ حملوں کو روکتے ہیں۔ بعض مجاہدین کو پانی پلاتے ہیں تو بعض ان کی سواریوں کی حفاظت کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اجر و ثواب سے محروم نہ ہوگا بشرطیکہ اس کی نیت اعلائے کلمہ حق کی ہو نہ کہ غنیمتیں اکٹھی کرنے کی۔ علما کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط (پ ۲۸، المجادلة: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔  
ایک جگہ ارشاد فرمایا:

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ط (پ ۴، ال عمران: ۱۶۳) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں۔  
فضیلت ایک اضافی چیز ہے۔ ہمارا صرف ان کو بادشاہوں کی نسبت کم تر سمجھنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ بھٹیگیوں کی نسبت بھی حقیر ہیں اس لئے تم یہ گمان نہ کرو کہ جو سب سے بلند مرتبہ سے کم درجہ ہے اس کا کوئی مرتبہ نہیں بلکہ سب سے بلند مرتبہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ہے پھر اولیائے عظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ کا پھر پختہ علم والے علما کا پھر صالحین کا ان کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ مختصر یہ کہ،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ط (پ ۷، البقرہ: ۲۶۱) ترجمہ کنز الایمان: جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ع (پ ۸، البقرہ: ۲۶۱) گاور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔  
(پ ۳۰، الزلزال: ۸۰)

اور جو شخص علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کرنے کا قصد کرے گا وہ علم خواہ کوئی سا بھی ہو اسے ضرور نفع ملے گا اور بلندی نصیب ہوگی۔

﴿۱۰﴾..... مقصد کی جانب علم کی نسبت کو جاننے کی کوشش کرنا: طالب علم کی طرف مقصد کی جو نسبت ہے اسے جانے تاکہ قریب اور اعلیٰ کو بعید اور ادنیٰ پر اور اہم (یعنی مقصود بالذات) کو غیر مقصود پر ترجیح دے سکے۔ یہاں مہم (اہم) سے مراد وہ ہے ”جو تجھے فکر مند کرے“ اور تجھے صرف دنیا و آخرت کا معاملہ ہی فکر مند کرتا ہے اور جب دنیا کی لذتوں اور آخرت کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں جیسا کہ قرآن حکیم نے اس بات کو بیان کیا اور نور بصیرت جو



مشاہدے کے قائم مقام ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے تو حقیقت میں اہم وہ ہے جس کا نفع ہمیشہ باقی رہے۔

## منزل، سواری اور مقصد حقیقی:

دنیا گویا ایک منزل ہے (جہاں کچھ دیر قیام کیا جاتا ہے) اور یہ بدن ایک سواری ہے (جس پر سوار ہو کر مراد تک پہنچا جاتا ہے) اور اس سے صادر ہونے والے اعمال مقصد کی طرف دوڑ ہے اور مقصد حقیقی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات ہے اسی میں تمام نعمتیں ہیں اگرچہ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ اس علم کی قدر جانتے ہیں۔

## مراتب علم مثال کے آئینے میں:

لقاء الہی اور بلا حجاب دیدار الہی کی سعادت کی طرف نسبت کے اعتبار سے علم کے تین درجے ہیں۔ دیدار سے مراد وہ ہے جس کے طالب انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ ہیں اور وہ اسے سمجھتے ہیں۔ وہ دیدار مراد نہیں جس کی طرف عوام اور متکلمین کا ذہن جاتا ہے۔ ان تین درجات کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی غلام کو کہا جائے کہ اگر تم مکمل حج کر لو تو تمہیں غلامی سے آزادی کا پروانہ بھی ملے گا اور بادشاہی بھی عطا کی جائے گی اور اگر حج کے راستے پر چلنا شروع کر دیا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر کوئی سخت رکاوٹ آڑے آگئی اور حج نہ کر سکا تو صرف غلامی کی شقاوت سے رہائی ملے گی، بادشاہی کی سعادت نصیب نہ ہوگی تو اس پر تین قسم کے کام لازم ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اسباب تیار کرے مثلاً اونٹنی خریدے، مشک سیئے، زادراہ اور کجاوہ تیار کرے۔ دوسرا یہ کہ وطن کو چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف منزل بہ منزل چلے۔ تیسرا یہ کہ افعال حج میں مشغول ہو کر ایک ایک رکن ادا کرے پھر ارکان حج کی ادائیگی سے فراغت کے بعد اور حالت احرام اور طواف وداع سے نکلنے کے بعد وہ (غلامی سے رہائی اور) بادشاہی کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے لئے ان مقامات میں سے ہر مقام پر منزلیں ہیں۔ اسباب کی تیاری کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک۔ جنگلوں کا سفر شروع کرنے سے ختم کرنے تک۔ ارکان حج کے شروع سے آخر تک اور ارکان حج شروع کرنے والا شخص سعادت کے جتنا قریب ہے اتنا قریب وہ نہیں جو ابھی زادراہ اور کجاوہ کی تیاری میں مشغول ہے اور نہ ہی وہ جس نے سفر شروع کر دیا بلکہ ارکان حج شروع کرنے والا ان دونوں سے زیادہ سعادت کے قریب ہے۔

اسی طرح علوم کی بھی تین اقسام ہیں: ایک قسم زادراہ جمع کرنے، کجاوہ تیار کرنے اور اونٹنی خریدنے کے قائم

مقام ہے اور وہ علم طب، علم فقہ اور دنیا میں مصالح بدن سے متعلقہ علوم ہیں۔ دوسری قسم جنگلوں میں چلنے اور گھاٹیاں طے کرنے کی طرح ہے اور وہ یہ ہے کہ باطن کو بری صفات سے پاک و صاف کرنا اور ان اونچی گھاٹیوں پر چڑھنا جن پر چڑھنے سے توفیق یافتہ لوگوں کے علاوہ تمام اولیٰین و آخرین عاجز ہیں۔ اس راستے پر چلنا اور اس کا علم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے راستے کی سمتوں اور اس کی منزلوں کا علم حاصل کرنا اور جس طرح منزلوں اور جنگلی راستوں کا علم اس وقت تک نفع مند نہیں جب تک ان پر چلنا نہ جائے اسی طرح اچھے اخلاق کا علم انہیں اپنائے بغیر مفید نہیں لیکن عمدہ اخلاق سے خود کو آراستہ کرنا ان کا علم حاصل کئے بغیر ممکن نہیں۔ تیسری قسم نفس حج اور اس کے ارکان کے قائم مقام ہے اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات، اس کے فرشتوں اور اس کے افعال نیز ان تمام باتوں کا علم ہے جو ہم نے علم مکاشفہ کے ضمن میں بیان کیں۔ یہ علم ہلاکت سے نجات اور سعادت کے حصول میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور نجات ہر سالک کو حاصل ہوتی ہے جبکہ اس کا مقصد حق ہو اور سعادت کے حصول میں کامیابی صرف اہل معرفت کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقرب بندے ہیں اس کے حضور روح و ریحان اور جنتی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو درجہ کمال تک نہیں پہنچ پاتے انہیں عذاب سے نجات اور سلامتی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَ رَیْحَانٌ ۖ وَجَّتْ نَعِيمُهُ ۝ ۸۹ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ﴿۹۱﴾ (پ ۲، الواقعة: ۸۸ تا ۹۱)

اور ہر وہ شخص جو مقصد کی طرف توجہ نہ کرے، اسے پانے کی کوشش نہ کرے یا اس کی طرف متوجہ ہو لیکن حکم الہی کی بجا آوری اور عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ کسی دنیوی غرض سے تو وہ بائیں طرف والوں اور گمراہوں میں سے ہے۔ کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور اسے جہنم کی آگ میں دھنسا دیا جائے گا۔

پس سعادت علم مکاشفہ کے بعد حاصل ہوتی ہے اور علم مکاشفہ علم معاملہ کے بعد حاصل ہوتا ہے اور علم معاملہ راہ آخرت پر چلنے کا نام ہے۔ صفات کی گھاٹیوں کو پار کرنا اور برے اخلاق کے خاتمہ کی راہ پر چلنا صفات کا علم سیکھنے کے

بعد ہوتا ہے۔ طریقہ علاج اور اسے اختیار کرنے کی کیفیت کا علم بدن کی سلامتی کے علم اور اسباب تندرستی کی تیاری کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بدن کی سلامتی اکٹھے رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور باہمی تعاون کے ذریعے اشیائے خورد و نوش، کپڑے اور رہائش کے انتظامات ہوتے ہیں اور اس کام کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے اور عدل و حکمت کے ساتھ لوگوں کو منضبط رکھنے کا قانون فقیہ سے متعلق ہے اور رہے اسباب صحت تو وہ طبیب کی ذمہ داری ہے اور جس نے کہا کہ علم دو ہیں: علم الابدان اور علم الادیان اور اس سے فقہ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس سے مروجہ ظاہری علوم مراد لئے باطنی نادر علوم مراد نہیں لئے۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم یہ کہو کہ علم طب اور علم فقہ کو زادِ راہ اور کجاوہ کی تیاری کے ساتھ کیوں تشبیہ دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معرفت الہی کے لئے دل کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا قرب حاصل ہو بقیہ بدن اس کی کوشش نہیں کرتا اور دل سے میری مراد محسوس ہونے والا گوشت نہیں بلکہ وہ تو اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا ادراک کرنے سے حس قاصر ہے اور اس کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جسے کبھی روح سے اور کبھی نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اسے دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

### حاصل کلام:

ہر وہ علم جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کے مصالح میں سے ہے اور ظاہر ہے کہ طب کا بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ صحت بدن کی حفاظت کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر بالفرض ایک ہی انسان ہوتا تو اسے بھی اس کی ضرورت ہوتی جبکہ فقہ کا معاملہ اس سے جدا ہے کہ اگر بالفرض صرف ایک انسان ہوتا تو کبھی اسے فقہ کی ضرورت نہ بھی ہوتی۔ لیکن انسان کی پیدائش اس انداز پر کی گئی ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ کھیتی باڑی کرنے، روٹی پکانے، آٹا گوندھنے، لباس اور رہائش حاصل کرنے اور اس کے تمام آلات تیار کرنے کے لئے تنہا انسان نا کافی ہے وہ مل کر رہنے اور تعاون حاصل کرنے پر مجبور ہے اور جب لوگ اکٹھے رہتے اور ان کی خواہشات جوش مارتی ہیں تو وہ اپنی خواہشات و اسباب کو ایک دوسرے سے کھینچتے ہیں، بڑتے جھگڑتے ہیں اور اس وجہ سے ہلاک

ہو جاتے ہیں۔ یہ ہلاکت کا ظاہری سبب ہے جس طرح باطنی اخلاط کے اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ طب کے ذریعے ایک دوسرے کی مخالف ان باطنی اخلاط میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے جبکہ حکمت عملی اور عدل و انصاف کے ذریعے خارجی جھگڑوں میں اعتدال کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ لہذا اندرونی اخلاط میں اعتدال کا طریقہ جاننا علم طب اور معاملات و افعال میں لوگوں کو راہ اعتدال پر رکھنے کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں علوم بدن کی حفاظت کرتے ہیں جو سواری ہے۔

پس جو علم فقہ اور علم طب کے حصول ہی میں کوشاں رہتا ہے، مجاہدہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اونٹنی خریدتا ہے، اس کے لئے گھاس خریدتا ہے اور مشکیزہ خرید کر تیار کرتا ہے لیکن حج کے راستے پر نہیں چلتا اور فقہی جھگڑوں میں جاری ہونے والے دقیق کلمات کے سیکھنے میں زندگی بسر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو زندگی بھر ان اسباب کی تیاری میں مصروف رہتا ہے جن کے ذریعے سفر حج میں لے جانے والے مشکیزے کو سینے کے لئے دھاگا مضبوط کیا جاتا ہے۔

ان فقہائے کرام کو ان لوگوں سے جو اصلاح قلب کے اس راستے کے راہی ہیں جس کی منزل علم مکاشفہ ہے وہ نسبت ہے جو مشکیزہ درست کرنے والوں کو حج کے راستے پر چلنے والوں یا اس کے ارکان کی ادائیگی کرنے والوں سے ہے۔ تو پہلے اس بات پر غور کرو اور اس شخص کی طرف سے مفت نصیحت قبول کرو جو اس کام میں اکثر وقت گزار چکا اور سخت محنت کے بعد اس تک پہنچا ہے اور اس نے عام و خاص لوگوں میں امتیاز کے لئے بڑی جرأت سے کام لیا اور ان کی تقلید سے گریز کرتے ہوئے اپنی خواہش کو کچل دیا۔ مُتَعَلِّم (طالب علم) کے آداب کے سلسلے میں اتنی ہی بات کافی ہے۔

﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ.....﴾      ﴿.....أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ      صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

## دوسری فصل: راہنما استاذ کے فرائض

یاد رکھو! جس طرح مال حاصل کرنے اور جمع کرنے کے اعتبار سے انسان کی چار حالتیں ہیں اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی انسان کی چار حالتیں ہیں۔ چنانچہ،

### مال کے اعتبار سے انسان کی حالتیں:

مال کے اعتبار سے انسان کی چار حالتیں ہیں: (۱)..... کمانے کی حالت: اس حالت میں وہ مُکْتَسِب ہوتا ہے۔ (۲)..... کمایا ہوا مال جمع کرنے کی حالت: اس حالت میں وہ مانگنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ (۳)..... خود پر خرچ کرنے کی حالت: اس میں وہ مُنْتَفِع (فائدہ اٹھانے والا) کہلاتا ہے۔ (۴)..... اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کی حالت: ایسی صورت میں وہ سخی اور فضیلت والا شمار ہوتا ہے اور یہ سب سے افضل حالت ہے۔

### علم کے اعتبار سے انسان کی حالتیں:

جس طرح مال جمع کیا جاتا ہے اسی طرح علم بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا علم کے اعتبار سے بھی انسان کی چار حالتیں ہیں: (۱)..... طلب علم اور حصول علم کی حالت۔ (۲)..... دوسروں سے بے پرواہ ہونے کی حالت: یوں کہ علم حاصل کر لینے کے بعد اسے دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ (۳)..... غور و فکر کی حالت: یوں کہ حاصل کئے ہوئے علم میں غور و فکر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ (۴)..... دوسروں تک علم پہنچانے کی حالت: یہ تمام حالتوں سے افضل ہے۔

### علم پر عمل کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال:

لہذا جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا تو وہ شخص آسمانوں میں عظیم شمار کیا جاتا ہے۔ بیشک وہ آفتاب کی مانند ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی پہنچاتا ہے اور کستوری کی طرح ہے جو خود معطر ہوتی اور دوسروں کو بھی معطر کرتی ہے اور وہ شخص جو علم سیکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس رجسٹر کی مثل ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے مگر خود علم سے خالی ہوتا ہے۔ اس سان (یعنی دھاردار آلے) کی مانند ہے جو دوسرے اوزاروں کو تو تیز کرتا ہے مگر خود نہیں کاٹتا۔ اس سوئی کی طرح ہے جو دوسروں کے لئے لباس تیار کرتی ہے مگر خود برہنہ رہتی ہے اور

چراغ کی بتی کی مثل ہے جو خود جل کر اوروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ جیسا کہ (بے عمل عالم کے بارے میں) کہا گیا ہے:

مَا هُوَ إِلَّا ذُبَالَةٌ وَقَدَّتْ  
تُضِيءُ لِلنَّاسِ وَهِيَ تَحْتَرِقُ

**ترجمہ:** وہ تو محض ایک بتی ہے جو لوگوں کو روشنی دیتی اور خود جلتی ہے۔

جب وہ علم سکھانے میں مشغول ہوتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔ اس لئے اسے چاہئے کہ اس کے آداب اور ذمہ داریوں کا لحاظ رکھے۔

## اُستاد کے آداب

﴿1﴾..... استاذ شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لئے ہوتا ہے۔“ (۱)

استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ مقصد والدین کے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی وجہ سے استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ کیونکہ والد اس کے موجودہ وجود اور فانی زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے جبکہ استاذ باقی رہنے والی زندگی کا سبب ہوتا ہے۔ اگر استاذ نہ ہو تو باپ کے ذریعے حاصل ہونے والی چیز اسے دائمی ہلاکت کی طرف لے جائے۔ جو استاذ آخرت کی دائمی زندگی کے لئے مفید ہے، اس سے وہ استاذ مراد ہے جو علومِ آخرت سکھاتا ہے یا وہ مراد ہے جو علومِ دنیا آخرت کی نیت سے سکھاتا ہے نہ کہ دنیاوی مقصد سے کیونکہ جہاں تک دنیا کی نیت سے علم سکھانے کا معاملہ ہے تو اس میں خود بھی ہلاک ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ ہم اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس طرح ایک باپ کی اولاد کا فرض بنتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور تمام مقاصد میں ایک دوسرے سے تعاون کریں ایسے ہی ایک استاذ کے شاگردوں کا حق بنتا ہے کہ آپس میں پیار و محبت قائم رکھیں اور یہی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ان کا مقصد آخرت ہو، اگر ان کا مقصد دنیا کا حصول ہوگا تو انہیں آپس میں بغض و حسد کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ علما اور آخرت کے طلبگار دنیا کے راستے سے گزرتے ہوئے بارگاہِ الہی کی طرف سفر پر گامزن ہیں اور دنیا کے سال اور مہینے

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ و سننہا، باب الاستنجاء بالحجارة..... الخ، الحدیث: ۳۱، ج ۱، ص ۱۹۹۔

اس راستے کی منازل ہیں۔ جب عام شہروں کی طرف جانے والے مسافروں کے درمیان نرمی ایک دوسرے سے محبت و دوستی کا ذریعہ ہے تو پھر فردوسِ اعلیٰ کی طرف سفر اور اس کے راستے میں کیسی نرمی ہونی چاہئے، سعادتِ آخرت تنگ نہیں اسی لئے اس کے طلبگاروں میں جھگڑا نہیں ہوتا اور دنیا کی کامیابیوں میں وسعت نہیں جس کی وجہ سے دنیا دار جہوم کی تنگی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ علوم کے ذریعے حکومت کے طالب ہوتے ہیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ارشاد کے مصداق نہیں بن سکتے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (پ۲۶، الحجرات: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: مسلمان مسلمان بھائی ہیں۔

بلکہ وہ اس فرمان کے مصداق ہوں گے:

أَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  
إِلَّا الْمُبْتَلِينَ ﴿۶۷﴾ (پ۲۵، الزخرف: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔

### اُستاز کا مقصود صرف رضائے الہی ہو:

﴿2﴾..... اُستاز حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور علم پر اجرت طلب نہ کرے نہ اس سے کسی صلے یا تعریف و شکر یہ کا قصد کرے بلکہ خالصتاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے علم سکھائے، شاگردوں پر اپنا کوئی احسان نہ سمجھے اگرچہ ان پر اس کا احسان ضرور ہے بلکہ ان کی فضیلت و احسان تصور کرے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو تیار کیا تا کہ ان میں علوم کے بیج بوکرا نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کیا جائے جیسے کوئی شخص تمہیں اپنی زمین اُدھار دے تاکہ تم اس میں اپنے لئے کھیتی باڑی کرو تو تمہارا نفع مالک زمین سے زیادہ ہوگا۔ تو شاگرد پر کیسے احسان قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تمہارا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اگر طالب علم نہ ہوتا تو تم اس ثواب کو نہ پاسکتے تھے۔ لہذا صرف خدا عَزَّوَجَلَّ سے اپنا اجر طلب کرو۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

وَيَقُومُوا لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِِنْ أَجْرِي

ترجمہ کنز الایمان: اور اے قوم! میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں

(پ۱۲، ہود: ۲۹)

إِلَّا عَلَى اللَّهِ

## مال و دولت خادم جبکہ علم مخدوم ہے:

مال اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب بدن کے خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے جبکہ مخدوم علم ہے کہ اسی کی بدولت نفس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تو جس نے علم کے ذریعے مال طلب کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنے جوتے کے تلوے کو چہرے سے صاف کرتا ہے تو اس نے مخدوم (چہرے) کو خادم اور خادم (جوتے) کو مخدوم بنا دیا اور یہ کامل درجے کی تبدیلی ہے۔ لہذا ایسا شخص قیامت کے دن ان مجرموں (یعنی کفار و مشرکین) کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنے رب کے پاس (اپنے افعال و کردار سے نادم و شرمسار ہو کر) سر نیچے کئے ہوں گے۔

بہر حال فضیلت و احسان استاذ کے لئے ہے۔ پس تم دیکھو کہ دین کا معاملہ کس طرح ان لوگوں کے پاس چلا گیا جنہیں علم فقہ، علم کلام یا ان کے علاوہ دوسرے علوم کی تدریس حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے حالانکہ وہ جاگیریں حاصل کرنے کے لئے بادشاہوں کی خدمت میں مال اور عزت خرچ کر کے طرح طرح کی ذلتیں اٹھاتے ہیں اگر وہ یہ چھوڑ دیں تو انہیں نظر انداز کر دیا جائے اور کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے۔ پھر استاذ شاگرد سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر مصیبت میں اس کے کام آئے، اس کے دوست کی مدد کرے اور دشمن سے عداوت رکھے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تیار رہے اور اس کے مقاصد میں اس کے تابع رہے۔ اگر شاگرد اس میں کوتاہی کرے تو استاذ اس کے خلاف ہو جاتا اور اس کا دشمن بن جاتا ہے، تو ایسا عالم کتنا کمینہ ہے جو اپنے لئے اس مقام کو پسند کرتا ہے پھر اس پر خوش ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اسے حیا نہیں آتی کہ تدریس سے میرا مقصد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل کرنے کے لئے علم کو پھیلانا اور اس کے دین کی مدد کرنا ہے۔ پس تم ان نشانیوں کو دیکھ لو تاکہ طرح طرح کی دھوکے بازیوں پر تمہاری نظر رہے۔

﴿3﴾..... استاذ طالب علم کو نصیحت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، یوں کہ کسی مرتبے کے استحقاق سے قبل اسے حاصل کرنے کی خواہش سے منع کرے اور ظاہری علوم سے فراغت سے پہلے پوشیدہ علوم میں مشغول ہونے سے روکے۔ پھر اسے تنبیہ کرے کہ علوم حاصل کرنے کا مقصد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب ہے حکومت، فخر اور جھگڑے کرنا نہیں اور جس قدر ممکن ہو پہلے ہی اس کے دل میں اس چیز کی خرابی کا تصور پختہ کر دے کیونکہ بد عمل عالم کا فساد اس کی اصلاح



سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اگر اُستاد کو طالب علم کی باطنی حالت معلوم ہو جائے کہ وہ دنیا کے لئے علم حاصل کر رہا ہے تو اس علم کو دیکھے جسے وہ حاصل کر رہا ہے اگر وہ فقہی اختلافات، علم کلام کے جھگڑوں یا مقدمات میں فیصلوں اور فتوؤں کا علم ہو تو اسے ان علوم کے حاصل کرنے سے روک دے کیونکہ یہ علوم، علومِ آخرت میں سے نہیں اور نہ ہی ان علوم میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”ہم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کے لئے علم سیکھنا چاہا مگر اس نے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے حاصل ہونے سے انکار کر دیا“، بلکہ یہ تو علم تفسیر، علم حدیث اور علمِ آخرت ہے جس میں اسلاف مشغول ہوتے تھے نیز یہ نفس کے اخلاق اور ان کو اپنانے کے طریقے کی معرفت کا علم ہے۔

لہذا اگر طالب علم دنیوی مقصد کے لئے علم حاصل کرے تو اُستاد کو چاہئے کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس سے وعظ اور لوگوں کی پیروی کی خواہش جنم لیتی ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحصیل علم کے دوران یا آخر میں وہ خبردار ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف پیدا کرنے، دنیا کی حقارت بتانے اور آخرت کی عظمت بیان کرنے والے علوم بھی ہیں اس لئے ممکن ہے کہ وہ آخر کار راہِ راست پر آجائے اور دوسروں کو جو وعظ کرتا ہے اس سے خود بھی نصیحت حاصل کرے۔ لوگوں میں مقبولیت اور مقام و منزلت کی خواہش اس دانے کی طرح ہے جسے جال کے ارد گرد پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پرندے کا شکار کیا جائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ شہوت کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے انسانوں کی نسل باقی رہے اور حُبِ جاہ کی تخلیق فرمائی تاکہ علوم کی زندگی کا سبب بنے اور یہ بات ان علوم میں متوقع ہے۔ البتہ محض اختلافی مسائل، علم کلام کے جھگڑے اور نادر فروعی مسائل کو جاننے میں مشغول رہنے اور دیگر علوم کی طرف توجہ نہ دینے سے دل سخت ہوتا، بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل ہو جاتا، گمراہی میں بڑھ جاتا اور مقام و مرتبے کا طالب بن جاتا ہے مگر وہ کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ جو اس کے ساتھ دوسرے دینی علوم کو ملالے۔ اس پر تجربے اور مشاہدے جیسی کوئی دلیل نہیں پس تم دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور نگاہِ بصیرت سے بندوں اور شہروں میں اس کی تحقیق معلوم کرو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔

**ہمیں لوگوں نے تجارت گاہ بنا لیا:**

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیِّ کو غمگین دیکھ کر کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا: ”ہم دنیا داروں کے

لئے تجارت گاہ بن گئے کوئی دنیا دار ہمارے پاس آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ علم سیکھ لیتا ہے تو قاضی، گورنر یا منشی بنا دیا جاتا ہے۔“ (۱)

﴿4﴾..... استاذ کی یہ ذمہ داری فن تعلیم کی باریکیوں میں سے ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو اشاروں کنایوں میں شاگرد کو برے اخلاق سے منع کرے، صراحتاً نہ روکے، پیار و محبت سے منع کرے، جھڑک کر ملامت کرتے ہوئے نہ روکے۔ کیونکہ واضح لفظوں میں کسی کو ملامت کرنے سے ہیبت کا پردہ چاک ہو جاتا اور مخالفت کی جرأت پیدا ہوتی ہے اور وہ منع کردہ بات پر اصرار کرنے کا حریص بن جاتا ہے۔ ہر معلم کے رہبر و رہنما حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اگر لوگوں کو میٹگنی توڑنے سے روکا جائے تو وہ اسے توڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ضرور اس میں کوئی بات ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا آدم صَفِيُّ اللهِ اور حضرت سیدتنا حوا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا واقعہ اور جس سے انہیں روکا گیا تھا تمہیں اس پر خبردار کرتا ہے۔ میں نے تم سے اس واقعہ کا تذکرہ کہانی کی غرض سے نہیں کیا بلکہ اس لئے کہ تم اس کے ذریعے عبرت حاصل کرتے ہوئے آگاہ ہو جاؤ اور اشاروں کنایوں میں سمجھانے سے عمدہ نفوس اور ذہین و فطین اذہان اس کے معانی کے استنباط کی طرف مائل ہوتے ہیں اور مختلف معانی نکالنے کی خوشی ان کے علم میں راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ان باتوں سے ہے جو اس کی سمجھ سے پوشیدہ نہیں۔

## اساتذہ کی بری عادات:

﴿5﴾..... کسی علم کے ذمہ دار استاذ کو چاہئے کہ وہ طالب علم کے دل میں اس کے علاوہ دیگر علوم کی برائی نہ ڈالے جیسا کہ لغت کے استاذ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم فقہ کی برائی کرتا ہے اور فقہ پڑھانے والا علم حدیث اور علم تفسیر کو برا کہتا ہے کہ یہ تو محض نقلی اور سماعی باتیں ہیں اور یہ بوڑھی عورتوں کا کام ہے، اس میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ علم کلام کا استاذ فقہ سے نفرت دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں، عورتوں کے حیض کی باتیں ہیں اس کو علم کلام سے کیا نسبت؟ علم کلام میں تو اللهُ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ کی بری عادات ہیں، انہیں ان سے اجتناب

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ذكر فضل علم المعرفة، ج ۱ ص ۲۳۱۔

②..... عيون الاخبار للدينورى، كتاب الطبائع والاخلاق المذمومة، ج ۴، ص ۴۔

کرنا چاہئے بلکہ کسی علم کے ذمہ دار استاذ کو چاہئے کہ وہ طالب علم پر دوسرے علم سیکھنے کے راستے کھولے اور اگر اس کے پاس کئی علوم کی ذمہ داری ہے تو اس بات کا لحاظ کرے کہ طالب علم بالتدريج (آہستہ آہستہ) ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑھتا چلا جائے۔

﴿6﴾..... استاذ طالب علم کو وہی باتیں بتائے جنہیں وہ سمجھ سکے، جو بات اس کی سمجھ و عقل سے بالاتر ہو وہ نہ بتائے ورنہ اسے علم کے مشغلے سے نفرت ہو جائے گی یا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں استاذ، معلم کائنات، شاہ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اقتدا و پیروی کرے۔

### لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو:

آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے مراتب پر رکھیں اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔“<sup>(۱)</sup>

پس استاذ بھی طالب علم کے سامنے کوئی حقیقت اس وقت ظاہر کرے جب جانتا ہو کہ وہ اسے سمجھ لے گا۔ آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شخص لوگوں سے ایسی بات کرتا ہے جو ان کی عقلوں میں نہیں آتی تو وہ ان میں سے بعض کے لئے فتنے کا باعث ہوتی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”یہاں بہت سے علوم ہیں اگر کوئی انہیں سمجھنے والا ہو۔“<sup>(۳)</sup>

نیز آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سچ فرمایا کہ ”قُلُوبُ الْأَبْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ“ یعنی نیکو کاروں کے دل بھیدوں کے دفینے ہوتے ہیں۔“

①..... کتاب الضعفاء للعقيلي، يحيى بن مالك بن انس ۲۰۵، ج ۴، ص ۱۵۳۴۔

صحيح مسلم، المقدمة، ص ۵۔

سنن ابى داود، كتاب الادب، باب فى تنزيل الناس منازلهم، الحديث: ۴۸۴، ج ۴، ص ۳۴۳۔

②..... صحيح مسلم، المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع، الحديث: ۵، ص ۹۔

كتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم: ۱۲۰۲، عثمان بن داود، ج ۳، ص ۹۳۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ذكر بيان تفضيل علوم الصمت..... الخ، اج ص ۲۳۲۔

لہذا استاذ کو چاہئے کہ جو وہ جانتا ہے ہر ایک کو نہ بتائے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ طالب علم اسے سمجھتا تو ہو مگر اس سے نفع اٹھانے کا اہل نہ ہو تو پھر ان باتوں کا کیا ہوگا جنہیں وہ سمجھتا ہی نہ ہو۔

## خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْحُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: ”موتیوں کے ہار خنزیروں کے گلے میں نہ ڈالو کیونکہ علم موتی سے بہتر ہے اور جو علم کو ناپسند کرے وہ خنزیروں سے بدتر ہے۔“<sup>(۱)</sup>

اسی لئے کسی نے کہا: ”ہر شخص کو اس کی عقل کے معیار پر ناپو اور اس کی سمجھ کے میزان میں تولو تاکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع حاصل کر سکے ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ انکار کر دے گا۔“<sup>(۲)</sup>

ایک عالم سے کسی نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ سائل نے کہا: کیا آپ نے رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ”جس نے علم نافع کو چھپایا وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی۔“<sup>(۳)</sup> عالم صاحب نے کہا: ”لگام چھوڑو اور جاؤ! اگر میرے پاس کوئی سمجھدار آئے اور میں اس سے علم کو چھپاؤں تو مجھے لگام ڈالی جائے گی۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ (پ ۴، النساء: ۵) ترجمہ کنز الایمان: اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں اس بات پر تشبیہ ہے کہ جو علم کو نقصان پہنچائے اس سے علم کو بچانا زیادہ بہتر ہے۔ نااہل کو علم سکھانے کا ظلم، علم کو اس کے اہل سے روکنے کے ظلم سے کم نہیں۔

شاعر کہتا ہے:

اَأَنْتُمْ دَرًا بَيْنَ سَارِحَةِ النَّعْمِ فَاصْبَحَ مَخْزُونًا بِرَاعِيَةِ الْغَنَمِ  
لِأَنَّهُمْ أَمْسُوا بِجَهْلٍ لِقَدْرِهِ فَلَا أَنَا أَضْحَىٰ أَنْ أَطَوَّقَهُ الْبُهْمِ

۱..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۷۔

۲..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۷۔

۳..... المعجم الاوسط، من اسمہ عبدالصمد، الحدیث ۴۸۱، ج ۳، ص ۳۵۰۔

فَإِنْ لَطَفَ اللَّهُ اللَّطِيفُ بِلُطْفِهِ      وَصَادَفَ أَهْلًا لِلْعُلُومِ وَلِلْحِكْمِ  
 نَشَرْتُ مُفِيدًا اسْتَفَدْتُ مُودَّةً      وَإِلَّا فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَمٌ  
 فَمَنْ مَنَعَ الْجَهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ      وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

**ترجمہ:** (۱) کیا میں جانور چرانے والے کے آگے موتی پھیلا دوں کہ بکریاں چرانے والے کے پاس اس کا خزانہ جمع ہو جائے۔  
 (۲) کیونکہ وہ علم کی قدر و قیمت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں چلے گئے تو میں جانوروں کو اس (علم) کا ہار پہنا کر  
 روشن نہیں کر سکتا۔

(۳) اگر اللہ عز و جل مجھ پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور مجھے علوم و حکمت کے اہل لوگوں سے ملادے۔

(۴) تو میں علم کو عام کروں گا اور لوگوں کی محبت حاصل کروں گا ورنہ وہ علم کی دولت میرے پاس جمع رہے گی اور چھپی رہے گی۔

(۵) لہذا جس نے جاہلوں (یعنی نااہلوں) کو علم دیا اس نے اسے ضائع کر دیا اور جس نے حق داروں (یعنی اہلوں) سے اسے روکے

رکھا اس نے ظلم کیا۔

﴿7﴾..... اگر طالب علم کوتاہ فہم ہو تو استاذ اسے واضح بات بتائے جسے وہ آسانی سے سمجھ سکے اور یہ نہ بتائے کہ اس کے علاوہ باریک باتیں بھی ہیں جو اس سے روک رکھی ہیں۔ کیونکہ اس طرح واضح باتوں میں بھی اس کی رغبت کم ہوگی، اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جائے گا اور اسے یہ وہم لاحق ہوگا کہ استاذ نے اسے سکھانے میں نخل سے کام لیا ہے، اس لئے کہ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ وہ ہر باریک علم کا اہل ہے۔ ہر ایک اللہ عز و جل سے اس بات پر راضی ہے کہ اس نے اسے کامل عقل عطا فرمائی ہے اور جو لوگوں میں زیادہ بے وقوف اور زیادہ کمزور عقل والا ہوتا ہے وہ بھی اپنی عقل کو کامل سمجھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عوام میں سے جو شخص شریعت کا پابند ہو اور اس کے دل میں اسلاف سے منقول عقائد بغیر کسی تشبیہ و تاویل کے راسخ ہوں، ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہو اور اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو سکتی ہو تو ایسے شخص کو اس کے اعتقاد کے بارے میں تشویش میں نہ ڈالا جائے بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول چھوڑ دیا جائے کیونکہ اگر اسے ظاہری تاویلیں بتائی جائیں گی تو وہ عوام کے زمرے سے نکل جائے گا اور اس کے لئے خواص

میں شامل ہونا آسان نہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کے اور گناہوں کے درمیان حائل دیوار ہٹ جائے گی اور وہ سرکش شیطان بن کر خود کو بھی ہلاک کرے گا اور دوسروں کو بھی۔ بلکہ عوام کے ساتھ باریک علوم کے حقائق کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہئے، انہیں صرف عبادات سکھانی چاہئیں اور جن معاملات میں وہ مشغول ہوں ان میں امانت داری کی تعلیم دینی چاہئے، جنت کی رغبت اور دوزخ کی ہیبت سے ان کے دلوں کو بھردینا چاہئے جیسا کہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور ان کے سامنے کسی شبہ کو حرکت نہ دی جائے، کیونکہ کبھی وہ شبہ عام آدمی کے دل کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کا حل اسے دشوار ہوتا ہے نتیجہً وہ بد بخت و ہلاک ہو جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ عوام کے سامنے بحث و مباحثہ کا دروازہ نہ کھولا جائے ورنہ ان کے وہ معاملات معطل ہو کر رہ جائیں گے جن سے لوگوں کے نظام اور خواص کی زندگی کی بقا ہے۔

## استاذ اور شاگردوں کی مثال:

﴿8﴾..... اُستاد اپنے علم پر عمل کرتا ہوتا کہ اس کے قول و فعل میں یکسانیت ہو، اس لئے کہ علم باطنی نگاہوں سے جبکہ عمل ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہری آنکھ والوں کی کثرت ہے لہذا اگر اس کا عمل علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت میں رکاوٹ آئے گی اور ہر وہ شخص جو کوئی چیز کھا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے مت کھانا یہ زہر قاتل ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر تہمت لگاتے ہیں اور جس چیز سے لوگوں کو منع کیا جائے اس کی حرص انہیں زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز اچھی اور لذیذ نہ ہوتی تو وہ خود اسے اختیار نہ کرتا۔ ہدایت دینے والے استاذ اور شاگردوں کی مثال ایسی ہے جیسے نقش اور مٹی، لکڑی اور سائے کی، کہ اُس چیز سے مٹی میں کیسے نقش بنے گا کہ جس میں خود نقش نہیں اور جب لکڑی ہی ٹیڑھی ہوگی تو اس کا سایہ کیونکر سیدھا ہوگا۔

اسی مضمون کو شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَاذٌ عَلَيْكَ إِذْ فَعَلْتَ عَظِيمٌ

ترجمہ: لوگوں کو ایسی بات سے منع نہ کر جسے تو خود کرتا ہے اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے لئے بڑی شرم کی بات ہے۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ۗ  
ترجمہ کنز الایمان: کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی  
جانوں کو بھولتے ہو۔ (پ ۱، البقرة: ۴۴)

اسی وجہ سے عالم کے گناہوں کا بوجھ جاہل کے گناہوں کے بوجھ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عالم کے پھسلنے سے  
خلق کثیر پھسل جاتی ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس برے طریقہ کا گناہ بھی ہے اور اس پر  
عمل کرنے والوں کا گناہ بھی۔“

### عالم اور جاہل کا دھوکا:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا: ”دو شخصوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے  
ایک بے عزت عالم اور دوسرا جاہل عبادت گزار۔ پس جاہل عبادت گزار بن کر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے اور عالم اپنی  
رسوائی سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔“ (۱)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ



### ﴿.....مدنی قافلوں اور فکر مدینہ کی برکتیں.....﴾

”دعوتِ اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے ”مدنی قافلوں“ میں سفر اور روزانہ ”فکر مدینہ“ کے ذریعے ”مدنی انعامات“  
کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے (دعوتِ اسلامی کے) ذمہ دار کو جمع  
کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ ۗ ذَوَّجَ لَاسِ كِي بَرَكْتٍ سَعِيْءٍ بِاِيْدِيْكَ، ”گناہوں سے نفرت“ کرنے  
اور ”ایمان کی حفاظت“ کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

①.....فیض القدير للمناوی، حرف النون، تحت الحديث ۹۲۲۴، ج ۶، ص ۳۷۸۔

# باب نمبر 6: علم کی آفات، علمائے آخرت اور علمائے سوء کی علامات کا بیان

پہلی فصل: علمائے سوء کی نشانیاں

علم اور علما کے جو فضائل مروی ہیں ہم انہیں بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ بیان کریں گے کہ علمائے سوء کے بارے میں بہت سخت سزائیں مروی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سب سے سخت عذاب برے علما کو ہوگا۔ اس لئے علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامات کی پہچان اہم امور میں سے ہے۔ علمائے دنیا سے مراد برے علما ہیں جن کا مقصد علم سے دنیا کی نعمتوں اور دنیا داروں کی نظر میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے۔

## آفات علم کے متعلق آٹھ فرامینِ مصطفیٰ

﴿1﴾..... بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے۔<sup>(۲)</sup>

﴿3﴾..... علم دو ہیں: ایک وہ جو زبان پر ہوتا ہے، یہ مخلوق کے خلاف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حجت ہے اور دوسرا وہ جو دل میں ہوتا ہے، یہ علم نفع بخش ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿4﴾..... آخری زمانے میں جاہل عابد اور فاسق علما ہوں گے۔<sup>(۴)</sup>

﴿5﴾..... علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعے علما پر فخر کرو گے، جاہلوں سے جھگڑا کرو گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو گے، جو ایسا کرے گا وہ آگ میں جائے گا۔<sup>(۵)</sup>

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۷۷۷، ج ۲، ص ۲۸۵۔

②..... فیض القدر للمناوی، حرف العین، تحت الحدیث: ۵۶۵، ج ۴، ص ۲۸۹۔

③..... تاریخ بغداد، احمد بن الفضل ۲۳۹۵، ج ۵، ص ۱۰۸۔

④..... المستدرک، کتاب الرقاق، باب اربع اذا کان فیک..... الخ، الحدیث: ۷۹، ج ۵، ص ۲۴۹۔

⑤..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، الحدیث: ۲۵۴-۲۵۳، ج ۱، ص ۱۶۵۔



- ﴿6﴾..... جو علم کو چھپائے گا اللہ عزوجل اسے آگ کی لگام ڈالے گا۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿7﴾..... پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے تم پر دجال سے زیادہ دوسری چیز کا خوف ہے۔“ عرض کی گئی: ”وہ کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”گمراہ کن ائمہ۔“<sup>(۲)</sup>
- ﴿8﴾..... جس کے علم میں تواضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی اس کی اللہ عزوجل سے دوری ہی بڑھتی ہے۔<sup>(۳)</sup>
- حضرت سیدنا عیسیٰ روضہ اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”کب تک تم رات میں چلنے والوں کے لئے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔“<sup>(۴)</sup>
- مذکورہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالم یا تودائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دائمی سعادت پا جاتا ہے اور علم میں غور و خوض کرنے سے اگر وہ سعادت نہ پائے تو سلامت بھی نہیں رہتا۔

### آفات علم کے متعلق نو اقوال بزرگان دین

- ﴿1﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”مجھے اس امت پر سب سے زیادہ خوف صاحب علم منافق کا ہے۔“ لوگوں نے عرض کی: ”صاحب علم منافق کیسے ہو سکتا ہے؟“ فرمایا: ”زبان کا عالم ہوگا جبکہ دل اور عمل کا جاہل۔“<sup>(۵)</sup>
- ﴿2﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: ”ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے علما سے علم اور حکما سے نرم اشاروں والی گفتگو کو تو حاصل کر لیا مگر عمل میں جاہلوں کی طرح رہے۔“

①..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب من سئل عن علم فکتہمہ، الحدیث: ۲۶، ج ۱، ص ۷۲۔

العلل المتناہیة لابن الجوزی، کتاب العلم، باب اثم من سئل عن علم، الحدیث: ۱۲، ج ۱، ص ۱۰۴۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۳۵-۲۱۳۵، ج ۸، ص ۶۷۔

③..... المقاصد الحسنة، حرف المیم، الحدیث: ۱۰۷، ص ۴۰۔

المجالسة وجواهر العلم، الجزء العاشر، الحدیث: ۱۲۸، ج ۲، ص ۴۶۔

④..... صفة الصفاة، محمد بن صبیح بن السماک، الحدیث: ۴۵، ج ۳، ص ۱۱۵۔

⑤..... الاحادیث المختارة، ابو عثمان عبدالرحمن عن عمر رضی اللہ عنہ الحدیث: ۲۳۶، ج ۱، ص ۳۴۴۔

المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عمر بن الخطاب، الحدیث: ۳۱، ج ۱، ص ۱۰۱۔

﴿3﴾..... ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خدمت میں عرض کی: ”میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اسے ضائع کر بیٹھوں گا۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم کو ضائع کرنے کے لئے اسے چھوڑ دینا ہی کافی ہے۔“ (۱)

﴿4﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن عتبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے کسی نے پوچھا: ”لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت و شرمندگی کسے ہوگی؟“ فرمایا: ”دنیا میں اسے جو کسی ناشکرے سے بھلائی کرتا ہے اور موت کے وقت گنہگار عالم کو۔“ (۲)

﴿5﴾..... نجوار لغت کے امام حضرت سیدنا امام خلیل بن احمد عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الصَّمَد نے فرمایا: ”آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں: (۱)..... جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ عالم ہے اس کی اتباع کرو۔ (۲)..... جو علم رکھتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اسے علم ہے ایسا شخص سو رہا ہے اسے جگا دو۔ (۳)..... جسے علم نہیں اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص ہدایت کا طالب ہے اسے ہدایت دو۔ (۴)..... وہ شخص جس کے پاس علم نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص جاہل ہے اسے چھوڑ دو۔“ (۳)

﴿6﴾..... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: ”علم عمل کو پکارتا ہے وہ سن لے تو ٹھیک ورنہ علم چلا جاتا ہے۔“ (۴)

﴿7﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”بندہ اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک علم حاصل کرتا رہے اور جب یہ سمجھ لے کہ وہ عالم بن چکا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے۔“ (۵)

﴿8﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”مجھے تین طرح کے لوگوں پر رحم آتا ہے: (۱)..... کسی قوم کا معزز شخص جو ذلیل ہو جائے۔ (۲)..... کسی قوم کا مالدار شخص جو محتاج ہو۔ (۳)..... اس عالم پر

①..... تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، ابو ہریرة الدوسی ۸۸۹ھ، ج ۶، ص ۳۶۸۔

②..... المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الرابع فی العلم والادب..... الخ، ج ۱، ص ۴۱۔

③..... عیون الاخبار للدينوري، کتاب العلم والبيان، ج ۳، ص ۱۴۳۔

④..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع القول فی العمل بالعلم، ص ۲۵۔

⑤..... المجالسة و جواهر العلم، الجزء الثاني، الحديث ۳۰، ج ۱، ص ۱۶۳۔

جس کے ساتھ دنیا کھیلتی ہے۔“ (۱)

﴿۹﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”علما کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے اور دل کا مردہ

ہونا یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی جائے۔“ (۲)

پھر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہ نے یہ اشعار پڑھے:

عَجِبْتُ لِمُبْتِئِ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وَمَنْ يَشْتَرِي دُنْيَاهُ بِالدِّينِ اَعْجَبُ  
وَأَعْجَبُ مِنْ هٰذِيْنَ مَنْ بَاعَ دِيْنَهُ بِدُنْيَا سِوَاہُ فَهُوَ مِنْ ذِيْنَ اَعْجَبُ

**ترجمہ:** (۱) مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے وہ اس سے

بھی زیادہ عجیب ہے۔

(۲) اور ان دونوں سے زیادہ تعجب اس پر ہے جو کسی اور کی دنیا سنوارنے کے لئے اپنا دین بیچتا ہے، وہ ان دونوں سے زیادہ

عجیب ہے۔

## بے عمل عالم کا انجام:

حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کو سخت عذاب دیا جائے گا، اس

کے عذاب کی شدت کو بڑا سمجھتے ہوئے جہنمی اس کے پاس آئیں گے۔“ (۳)

اس سے بد عمل عالم مراد ہے۔

حضرت سیدنا اسماء بن زید رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم، نور مجسم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی

عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا جس سے اس

کی آنتیں باہر آجائیں گی وہ ان کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، جہنمی اس کے پاس

آئیں گے اور پوچھیں گے: ”تجھے کیا ہوا؟“ وہ کہے گا: ”میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا

①..... المقاصد الحسنة، حرف الهمزة، الحديث: ۸۹، ص ۷۰۔

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب في نشر العلم، الحديث: ۱۸۳۷، ج ۲، ص ۲۹۶۔

③..... صحيح مسلم، كتاب الزهد والرفائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف..... الخ، الحديث: ۲۹۸۹، ص ۱۵۹۵۔

تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔“ (۱)

عالم کی نافرمانی پر اسے دُگنا عذاب محض اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ علم ہونے کے باوجود معصیت میں مبتلا ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ (پ۵، النساء: ۱۴۵)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں۔

اس لئے کہ انہوں نے جاننے کے بعد انکار کیا اور یہودیوں کو عیسائیوں سے بدتر قرار دیا حالانکہ (اکثر) یہود نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے اولاد ثابت نہیں کی اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے لیکن ان کو بدترین قرار دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جاننے کے بعد منکر ہوئے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ط (پ۲، البقرة: ۱۴۶)

ترجمہ کنزالایمان: وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔

ایک مقام پر فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۝۸۹ (پ۱، البقرة: ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بلعم بن باعوراء کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذِّمِّيِّ اتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَاَسَدَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝۱۷۵ (پ۹، الاعراف: ۱۷۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب! انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔

یہاں تک کہ فرمایا:

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ

ترجمہ کنزالایمان: تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ

①.....صحیح مسلم، کتاب الزهد والرفائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف..... الخ، الحديث: ۲۹۸، ص ۱۵۹۔

یْلَهَتْ اَوْ تَتْرُكُهٗ يْلَهَتْ ط (پ ۹، الاعراف: ۱۷۶) کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔  
یہی حال بد عمل عالم کا ہے۔ بلعم کو کِتَابُ اللہ کا علم دیا گیا تو وہ خواہشات کی طرف مائل ہو گیا۔ چنانچہ، اسے کتے سے تشبیہ دی گئی یعنی اسے حکمت ملے یا نہ ملے وہ خواہشات کی طرف ہانپتا ہے۔

## برے علما کی مثال:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْحُ اللہ علی نَبِیِّنَا وَعَلِیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”برے علما کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جو نہر کے کنارے واقع ہونے خود پانی پیئے اور نہ پانی کو کھیتی تک جانے دے۔ برے علما کی مثال بیت الخلاء کی اس نالی کی طرح ہے جس کے ظاہر پر تو چونا کیا ہوا ہو جبکہ باطن گندا اور ناپاک ہو اور برے علما کی مثال قبروں کی طرح ہے جن کا ظاہر تو پختہ ہو مگر اندر مردوں کی ہڈیاں ہوں۔“ (۱)

ان احادیث اور آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن دنیا دار عالم کا حال دوسرے لوگوں سے گھٹیا ہوگا اور اسے جاہل سے بھی سخت عذاب ہوگا جبکہ کامیاب و مقرب لوگ علمائے آخرت ہیں۔ ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو درج ذیل ہیں۔

### ..... اہل بیت سے حسن سلوک.....

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَزَّمَهُ اللہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔“

(الجامع الصغیر للسیوطی، الحدیث: ۸۸۲، ص ۵۳۳)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۴۔

فیض القدر للمناوی، حرف الشین، تحت الحدیث ۴۸۶۲، ج ۴، ص ۲۰۶۔

## علمائے آخرت کی 12 نشانیاں

دوسری فصل:

﴿1﴾..... علمائے آخرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عالم اپنے علم سے دنیا طلب نہ کرے کیونکہ عالم کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے حقیر، گھٹیا، گدلا اور ناپائیدار ہونے کو جانے نیز آخرت کے عظیم ہونے، ہمیشہ رہنے، اس کی نعمتوں کے خالص ہونے اور آخرت کی سلطنت کے بڑا ہونے کا علم رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

## دنیا و آخرت کی مثال:

یہ دونوں دوسو کنوں کی طرح ہیں اگر ایک کو راضی رکھو گے تو دوسری کو ناراض کر بیٹھو گے۔ ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہیں، ایک پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا ہوگا۔ مشرق و مغرب کی مثل ہیں ایک سے جتنا قریب ہو گے دوسری سے اتنا دور ہو جاؤ گے۔ دو پیالوں کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھرا ہوا ہے اور دوسرا خالی، بھرے ہوئے پیالے سے جس قدر دوسرے میں ڈالتے جاؤ گے اسی قدر بھرا ہوا خالی ہوتا جائے گا یہاں تک کہ جب خالی پیالہ بھر جائے گا تو بھرا ہوا خالی ہو جائے گا۔

پس جو شخص دنیا کے حقیر ہونے، گدلا ہونے اور اس کی لذتوں کے اس کی تکلیفوں کے ساتھ ملے ہونے کو نہ جانے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کی خالص نعمتیں جلد ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی عقل خراب ہے کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا وہ شخص علما میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جسے عقل نہیں؟ اور جو آخرت کے معاملے کی عظمت اور اس کے دوام کا علم نہیں رکھتا وہ تو کافر ہے۔ اس کا ایمان چھین لیا گیا ہے۔ لہذا جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ علما میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا آخرت کی ضد ہے انہیں جمع کرنا ایک ایسی لالچ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ وہ تو پورے قرآن کا منکر ہے۔ اس کا شمار کروہ علما میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے وہ شیطان کا قیدی ہے۔ اس کی خواہش نے اسے برباد کر دیا اور اس پر اس کی بدبختی غالب آگئی۔ لہذا اس درجے کا آدمی علما کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟

## دنیا دار عالم کی کم سے کم سزا:

حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”جو عالم میری محبت پر اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے میں اسے کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد! میرے متعلق کسی ایسے عالم سے نہ پوچھنا جسے دنیا نے نشے میں ڈال دیا ہو، وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا، یہ لوگ میرے بندوں کا راستہ کاٹنے والے ہیں۔ اے داؤد! جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ۔ اے داؤد! جو کسی بھاگے ہوئے کو میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے میں اسے باخبر لکھ دیتا ہوں اور جسے میں باخبر لکھ دوں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا۔“ (۱)

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: ”علما کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی جائے۔“ (۲)

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے فرمایا: ”علم و حکمت کا نور اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب انہیں طلب دنیا کا ذریعہ بنایا جائے۔“ (۳)

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”جب تم کسی عالم کو مالداروں کے پاس آتا جاتا دیکھو تو جان لو کہ وہ چور ہے۔“ (۴)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرنے والا پاؤ تو اسے اپنے دین کے معاملے میں مشکوک جانو کیونکہ ہر محبت کرنے والا اس چیز میں غور و فکر کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“ (۵)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۲۔

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث ۱۸۳، ج ۲، ص ۲۹۶۔

③..... موسوعۃ الامام ابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، الحدیث ۴۷۶، ج ۵، ص ۱۹۳۔

④..... مختصر منهاج القاصدین، الربع الاول، ج ۱، ص ۶۱۔

⑤..... جامع بیان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء..... الخ، ص ۲۴۔

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَفَّارُ نے فرمایا: میں نے ایک سابقہ کتاب میں پڑھا کہ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”جو عالم دنیا سے محبت کرتا ہے میں اسے سب سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے اپنی مناجات کی لذت نکال دیتا ہوں۔“ (۱)

## علم نور اور گناہ تاریکی ہے:

ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ ”بیشک تمہیں اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے۔ لہذا گناہوں کی تاریکی سے علم کے نور کو بچانہ دینا کہ اس دن اندھیرے میں رہ جاؤ جس دن علم والے اپنے علم کے نور میں دوڑیں گے۔“ (۲)

## اے اصحابِ علم! شریعت محمدیہ کہاں ہے؟

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي علمائے دنیا سے فرمایا کرتے تھے: ”اے اصحابِ علم! تمہارے محلات قیصری (یعنی شاہِ روم قیصر کے محلات کی طرح) ہیں۔ تمہارے گھر کسری (یعنی شاہِ ایران) کے گھروں جیسے ہیں۔ تمہارے کپڑے طاہری (یعنی عبد اللہ بن طاہر وزیر کے کپڑوں کی مثل) ہیں۔ تمہارے موزے جالوتی (یعنی جابر بادشاہ جالوت کے موزوں کی مانند)، سواریاں قارونی (یعنی قارون کی سواریوں جیسی) اور برتن فرعونی (یعنی فرعون کے برتنوں جیسے) ہیں۔ تمہارے گناہ دورِ جاہلیت کے افعال جیسے اور تمہارے مذاہب شیطانی ہیں تو پھر شریعتِ محمدیہ کہاں ہے؟“ (۳)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

وَدَاعَى الشَّاعِرِ يَحْمِي الذُّنْبَ عَنْهَا فَكَيْفَ إِذَا الرُّعَاةُ لَهَا ذُنُوبُ

**ترجمہ:** بکریوں کا چرواہا بھیڑیے سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب چرواہے خود ہی بھیڑیے بن جائیں گے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا:

يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ! يَا مِلْحَ الْبِلَدِ! مَا يَصْلِحُ الْمِلْحُ إِذَا الْمِلْحُ فَسَدَ

**ترجمہ:** اے علما کے گروہ! اے شہروں کے نمک! جب نمک خود ہی خراب ہو جائے گا تو وہ کسی کو کیسے ٹھیک کرے گا۔

①..... مرقاة المفاتیح، کتاب الدعوات، تحت الحدیث ۲۲۸۸، ج ۵، ص ۸۷۔

②..... فیض القدر، حرف الهمزة، تحت الحدیث ۱۱۳، ج ۱، ص ۱۵۵۔

③..... حیاة الحيوان الكبرى، باب الذال العجمة، الذئب، ج ۱، ص ۵۰۴، بتغییر۔



## معرفت الہی سے محرومی کا سبب:

ایک عارف سے پوچھا گیا کہ ”جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک گناہ ہوں کیا وہ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا؟“ فرمایا: ”مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت نہیں رکھتا جبکہ یہ اس شخص سے (کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک گناہ ہوں) بہت کم ہے۔“

یہ مت سمجھنا کہ علمائے آخرت کے ساتھ ملنے کے لئے صرف ترک مال کافی ہے بلکہ مقام و مرتبہ مال سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی نے فرمایا: حَدَّثَنَا دُنْيَا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لہذا جب تم کس شخص کو حَدَّثَنَا کہتے سنو تو جان لو کہ وہ کہتا ہے: ”مجھے جگہ دو۔“ (۱)

حضرت سیدنا بشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی نے 10 سے زیادہ کتابوں کے بستے اور ٹوکڑے دفن کر دیئے تھے اور فرماتے تھے: ”مجھے خواہش ہے کہ میں حدیث بیان کروں اور جب مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش نہ رہے گی تو میں ضرور حدیث بیان کروں گا۔“ (۲)

آپ اور آپ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ ”جب تجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہ اور جب خواہش نہ رہے تب حدیث بیان کر۔“ (۳)

یہ اس لئے کہ فائدہ پہنچانے اور تعلیم کے منصب کی لذت دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے تو جس نے اس معاملے میں اپنی خواہش کو پورا کیا وہ دنیا کے طلبگاروں میں سے ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”حدیث بیان کرنے کا فتنہ مال اور بال بچوں کے فتنے سے سخت تر ہے۔“ (۴)

اور اس فتنے کا خوف کیوں نہ کیا جائے جبکہ سید المرسلین، خاتم النبیین، رَحْمَةُ اللّٰهِ لِلْعَالَمِیْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ کو فرمایا گیا:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۳۳۔

②..... المرجع السابق، ص ۲۶۸۔ ③..... المرجع السابق، بتغییر۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۶۸، بتغییر۔

حلیۃ الاولیاء، عبدالرحمن بن مہدی، الحدیث ۱۲۸۵، ج ۹، ص ۶، قول عبدالرحمن بن مہدی، بتغییر۔

وَلَوْلَا أَنْ تَبَتُّنَا لَقَدْ كِدْتِ تَرَكْنِ  
 اَلْبَيْهَ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿۷۳﴾ (پ ۱، بنی اسرائیل: ۷۳)  
 ترجمہ: کتر الایمان: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب  
 تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا بھکتے۔

## علم دنیا اور عمل آخرت ہے:

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِیُّ نے فرمایا: ”علم سارے کا سارا دنیا ہے اور اس پر عمل  
 آخرت ہے اور اخلاص کے بغیر تمام اعمال بے کار ہیں۔“ (۱)

نیز یہ بھی فرمایا کہ ”تمام لوگ مردہ ہیں سوائے علما کے اور علما سب نشے میں ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے اور  
 عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں سوائے اخلاص والوں کے اور جو مخلص ہیں انہیں خوف لاحق ہے کہ نہ معلوم ان  
 کا خاتمہ کیسا ہوگا۔“ (۲)

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدِیْسٍ سَيِّدُ النُّوْرَانِی نے فرمایا: ”جب آدمی حدیث طلب کرتا ہے یا شادی کرتا ہے یا  
 طلب معاش کے لئے سفر کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔“ (۳)  
 اس سے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مراد عالی سندیں ہیں یا وہ حدیث طلب کرنا جس کی طلب آخرت میں  
 ضرورت نہیں۔

## وہ عالم نہیں:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْحُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیْنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا  
 ہے جس کا سفر آخرت کی طرف ہو جبکہ وہ دنیا کے راستوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کا شمار علما میں کیسے ہو سکتا ہے جو اس  
 لئے علم نہیں سیکھتا کہ اس پر عمل کرے بلکہ دوسروں کو بتانے کے لئے علم حاصل کرتا ہے۔“ (۴)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۱، بتغییر قلیل۔

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل..... الخ، الحدیث: ۶۸۶، ج ۵، ص ۳۴۵۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۹، بتغییر۔

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۹۱، ج ۲، ص ۳۱۴، بتغییر قلیل۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیلہ، ذکر بیان تفضیل علوم..... الخ، ج ۱، ص ۲۳۹۔

حضرت سیدنا صالح بن کیسان بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: ”میں ایسے کئی مشائخ کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام سے ملا جو بدکار عالم حدیث سے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کی پناہ مانگتے تھے۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سردارِ مکہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو اُس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا تلاش کی جاتی ہے اور اس کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہو تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔“ (۲)

## علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے اوصاف

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نے برے علما کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں جبکہ علمائے آخرت کو وصف خشوع و زہد سے متصف فرمایا۔ چنانچہ، علمائے دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونَنَّ فَنَادَوْهُ  
وَسَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا  
قَلِيلًا ط (پ ۴، آل عمران: ۷۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللّٰهُ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی بیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے۔

علمائے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنْ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ  
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ  
خُشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا  
قَلِيلًا ط (پ ۴، آل عمران: ۷۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللّٰہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللّٰہ کے حضور جھکے ہوئے اللّٰہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں، جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا: ”علماء (بروز قیامت) انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے گروہ میں اٹھائے جائیں

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۳۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب فی طلب العلم لغير اللّٰہ، الحدیث: ۳۶۶، ج ۳، ص ۴۵۱، بتغییر۔

گے اور قاضی بادشاہوں کے زمرے میں۔“<sup>(۱)</sup> اور ہر وہ فقیہ قاضی کے معنی میں شامل ہے جو اپنے علم سے طلب دنیا کا ارادہ کرتا ہے۔

## دنیا کی خاطر علم دین سیکھنے والوں کا انجام:

حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جو لوگ دین کے علاوہ (کسی اور مقصد) کے لئے فقہ سیکھتے ہیں، عمل کے علاوہ کے لئے علم حاصل کرتے ہیں، عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لئے اونی لباس پہنتے ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، وہ مجھے دھوکا دینا چاہتے اور مجھ سے استہزا کرتے ہیں، ان سے فرمادو کہ میں ضرور انہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جو بردبار کو بھی پریشان کر چھوڑے۔“<sup>(۲)</sup>

## عالم دو طرح کے ہیں:

حضرت سیدنا سحاک عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّزَّاقِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مَنْزَلَةٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اس امت کے علماء دو قسم کے ہیں ایک وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم عطا کیا تو اس نے اسے لوگوں پر خرچ کیا اور اس پر کوئی اجرت لی نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت لی، یہی وہ خوش نصیب ہے جس کے لئے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور لکھنے والے معزز فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایک معزز سردار ہو کر آئے گا یہاں تک کہ مرسلین کی رفاقت اختیار کرے گا اور دوسرا وہ ہے کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں علم سے نوازا تو اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کے سامنے اس علم کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیا، اس پر لالچ کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی، یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی گئی

①..... كشف الخفاء، حرف الباء التحتانية، الحديث: ۳۲۲، ج ۲، ص ۳۶۰۔

②..... المدخل، فصل فى العالم وكيفية نيته..... الخ، ج ۱، ص ۵۰، "لافتحن" بدله "لاتحن"۔

الفقيه والمتفقه، ماجاء فى ورع المفتى وتحفظه، الحديث: ۱۰۶، ج ۲، ص ۳۲، بتغير قليل۔

ہوگی۔ پھر ساری مخلوق کے سامنے ایک پکارنے والا پکارے گا: ”یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اسے اللہ عزوجل نے دنیا میں علم عطا فرمایا تھا لیکن اس نے بندوں پر اس علم کو بیان کرنے میں بخل کیا، اس پر لالچ کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔“ پھر اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ سب لوگوں کا حساب ختم ہو جائے۔<sup>(۱)</sup>

## دین کے بدلے دنیا طلب کرنے کا انجام:

اس سے زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ صغریٰ اللہ علیہ السلام نے بیان کیا۔ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام نے بتایا۔ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خبر دی۔ یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس کافی مال آ گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی حتیٰ کہ ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا: ”کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں! یہ خنزیر وہی شخص ہے۔“ آپ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی ”اسے اس کی سابقہ حالت پر لوٹادے تاکہ میں اس سے اس حالت کا سبب پوچھوں۔“ اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ”اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جن کے ساتھ آدم اور دوسرے انبیاء نے کی تھی جب بھی قبول نہ کروں گا لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا اس لئے کہ یہ دین کے بدلے دنیا کما تا تھا۔“<sup>(۲)</sup>

## علماء اور جہنم کے طبقات:

اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو حالانکہ تقریر کرنے میں بناوٹ اور مبالغہ ہو جاتا ہے اور تقریر

①.....المعجم الاوسط، من اسمہ محمد، الحدیث ۷۱۸، ج ۵، ص ۲۳، بتغییر۔

②.....المدخل، فصل فی العالم وکیفیۃ نبیہ.....الخ، ج ۱، ص ۲۲۔

کرنے والا غلطی سے محفوظ نہیں جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔ بعض علما اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ علم دوسروں کے پاس پایا جائے ایسے لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علما وہ ہیں جو اپنے علم میں بادشاہ کی طرح ہیں کہ اگر ان کے علم میں سے کسی چیز کے متعلق ان پر اعتراض کیا جائے یا ان کے حق میں کمی کی جائے تو وہ غصے میں آجاتے ہیں ایسے علما جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتے ایسے علما جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علما اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے مقرر کر لیتے ہیں اور غلط فتویٰ دیتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ تکلف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے ایسے علما جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علما دوسروں کے سامنے یہود و نصاریٰ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو ایسے علما جہنم کے پانچویں طبقے میں ہوں گے۔ کچھ علما اپنے علم کو لوگوں میں شہرت، فضیلت اور مروت کا ذریعہ بناتے ہیں وہ جہنم کے چھٹے طبقے میں جائیں گے اور بعض علما ایسے ہیں کہ جن پر خود پسندی اور تکبر کی کیفیت طاری رہتی ہے، اگر وعظ کریں تو سختی کرتے ہیں مگر جب انہیں نصیحت کی جائے تو ناک چڑھاتے ہیں، وہ جہنم کے ساتویں طبقے میں ہوں گے۔ لہذا اے بھائی! خاموشی کو لازم کر لو اس کے ذریعے شیطان پر غالب آ جاؤ گے، بغیر تعجب کے مت ہنسوا اور بغیر ضرورت کے مت چلو۔<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کی حیثیت چھھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی۔“<sup>(۲)</sup>

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ مجلس (وعظ) سے فارغ ہوئے تو ایک خراسانی شخص نے ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں 5 ہزار درہم اور 10 ہاریک کپڑے تھے اور عرض کی: ”اے ابوسعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَجِیْد! یہ درہم خرچ کے لئے اور کپڑے پہننے کے لئے ہیں۔“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا:

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی آداب العلم والمتعلم، فصل فی فضل الصمت وحمده، الحدیث: ۶، ص ۱۹۱۔

تنزیہ الشریعة، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۵، ج ۱، ص ۲۶۹۔

اللائی المصنوعة، کتاب العلم، ج ۱، ص ۲۰۴، [قال فیہ: باطل مسنداً وموقفاً]۔

②.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا.....الخ، ج ۱، ص ۲۴۹۔

تذکرۃ الموضوعات، باب الاخلاق المحمود.....الخ، ص ۱۸۹، [قال فیہ: لم یوجد لاکن فی الصحیحین معناه]۔

”اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے عافیت دے! یہ اٹھا لو اور انہیں اپنے پاس رکھو ہمیں ان کی حاجت نہیں اور جو میری اس مجلس جیسی مجلس قائم کرے گا پھر لوگوں سے اس طرح کا نذرانہ لے گا وہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں ہوگا۔“ (۱)

## کس عالم کی صحبت اختیار کی جائے؟

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرعاً مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو صرف اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ خصلتوں سے پانچ کی طرف بلائے: (۱) شک سے یقین کی طرف (۲) ریاکاری سے اخلاص کی طرف (۳) دنیا کی رغبت سے بے رغبتی کی طرف (۴) تکبر سے عاجزی کی طرف اور (۵) عداوت سے خیر خواہی کی طرف۔“ (۲)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَكُدُوحٌ عَظِيمٌ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ حَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا حَجَّ

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو کبھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا بے شک اس کا بڑا نصیب ہے اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔

(پ: ۲۰، القصص: ۷۹، ۸۰)

پس اہل علم نے جان لیا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہئے۔

﴿2﴾..... علمائے آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عالم کا فعل اس کے قول کی مخالفت نہ کرے بلکہ وہ اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہ دے جب تک پہلے خود اس پر عمل نہ کر لے۔

چند فرامین باری تعالیٰ ملاحظہ ہوں:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء دنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۹، بتغییر۔

②..... حلیۃ الاولیاء، شقیق البلخی ۳۹۵، الحدیث ۱۱۴۱، ج ۸، ص ۷۵۔

﴿۱﴾

اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی  
جانوں کو بھولتے ہو۔ (پ ۱، البقرة: ۴۴)

﴿۲﴾

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا  
تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾  
ترجمہ کنز الایمان: کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو  
جو نہ کرو۔ (پ ۲۸، الصف: ۳)

﴿۳﴾ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَكُمْ  
عَنْهُ ﴿۴﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے  
تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں۔ (پ ۱۲، ہود: ۸۸)

﴿۴﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ اللَّهُ  
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ (پ ۳، البقرة: ۲۸۴)

﴿۵﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔ (پ ۲، البقرة: ۱۹۴)

﴿۶﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْعُوا  
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ (پ ۷، المائدة: ۱۰۸)

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد فرمایا: ”اے ابن مریم! پہلے  
اپنے نفس کو نصیحت کرو اگر وہ مان جائے تو پھر دوسروں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو۔“ (۱)

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزلاً عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معراج  
کی رات میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کالے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا  
”تم کون ہو؟“ انہوں نے جواب دیا: ”ہم نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ برائی سے روکتے

①..... الزهد للامام احمد بن حنبل، من مواظع عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۳۰، ص ۹۳۔



تھے لیکن خود اس کا ارتکاب کرتے تھے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”میری امت کی ہلاکت بدکار عالم اور جاہل عابد کی وجہ سے ہوگی، بدترین لوگ برے علما اور بہترین لوگ اچھے علما ہیں۔“ (۲)

## قبروں کی شکایت:

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَيَان کرتے ہیں کہ قبروں نے بارگاہ الہی میں کفار کے مردہ اجسام کی بدبو کی شکایت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں فرمایا کہ ”برے علما کے باطن تمہارے اندر موجود بدبو سے زیادہ بدبو دار ہیں۔“ (۳)

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن فاسق علما کا حساب بت پرستوں سے بھی پہلے ہوگا۔“ (۴)

## سات بار ہلاکت:

حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”جو علم نہیں رکھتا اس کے لئے ایک بار ہلاکت ہے اور جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا اس کے لئے سات بار ہلاکت ہے۔“ (۵)

## تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی:

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: قیامت کے دن کچھ جنتی بعض جہنمیوں کو دیکھ کر پوچھیں گے: ”تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں تمہارے ہی ادب سکھانے اور تعلیم دینے کے طفیل جنت میں داخل کیا ہے۔“ وہ کہیں گے: ”ہم نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ برائی سے روکتے تھے لیکن خود اس کا ارتکاب کرتے تھے۔“ (۶)

①..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ذكر وصف الخطباء الذين..... الخ، الحديث ۵۴، ج ۱، ص ۱۳۵، مفهوماً۔

②..... جامع بيان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء..... الخ، الحديث ۴۰، ص ۲۲۱۔

③..... المرجع السابق۔ ④..... المرجع السابق، بتغير۔

⑤..... حلية الاولياء، ابوالدرداء، الحديث ۶۸۴، ج ۱، ص ۲۷۰، بتغير قليل۔

⑥..... الزهد لابن المبارك، باب من طلب العلم لعرض في الدنيا، الحديث ۴، ص ۲۱، باختصار۔

حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمُ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے لوگوں کو علم سکھایا اور لوگوں نے اس کے علم پر عمل کیا لیکن اس نے خود اس پر عمل نہ کیا لوگ تو عمل کے سبب نجات پا گئے لیکن وہ ہلاک ہو گیا۔“ (۱)

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارُ نے فرمایا: ”جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کی نصیحت لوگوں کے دلوں سے ایسے پھسلتی ہے جیسے صاف پتھر سے پانی کا قطرہ پھسل جاتا ہے۔“ (۲)

شاعر کہتا ہے:

يَا وَاِعْظَ النَّاسِ قَدْ اَصْبَحْتَ مَتَمَّهَا      اِذْ عِبْتَ مِنْهُمْ اُمُورًا اَنْتَ تَاْتِيهَا  
اَصْبَحْتَ تَنْصَحُهُمْ بِالْوَعْظِ مُجْتَهِدًا      فَالْمُؤَبَقَاتُ لَعْمَرِي اَنْتَ جَانِيهَا  
تَعِيبُ دُنْيَا وَنَاسًا رَاغِبِينَ لَهَا      وَاَنْتَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ رَغْبَةً فِيهَا

**ترجمہ:** (۱) اے لوگوں کو وعظ کرنے والے! تم تہمت زدہ ہو کیونکہ جن باتوں کو ان میں عیب بتاتے ہو انہیں خود کرتے ہو۔  
(۲) تم انہیں وعظ و نصیحت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہو اور مجھے میری زندگی کی قسم! ہلاک کرنے والی چیزیں تمہاری طرف آرہی ہیں۔

(۳) تم دنیا اور اس میں رغبت رکھنے والوں کو عیب لگاتے ہو حالانکہ خود ان سے زیادہ دنیا میں رغبت رکھتے ہو۔  
ایک اور شاعر کہتا ہے:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيْ مِثْلَهُ      عَارٌ عَلَيْكَ اِذْ فَعَلْتَ عَظِيْمًا  
**ترجمہ:** لوگوں کو ایسی بات سے منع نہ کر جسے تو خود کرتا ہے اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے لئے بڑی شرم کی بات ہے۔

## نصیحت آموز عبارت:

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمُ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میرا گزرا ایک پتھر کے قریب سے ہوا اس پر لکھا تھا: ”مجھے پلٹ کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔“ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ ”جس

①.....تحفة الحبيب على شرح الخطيب، مبحث آما بعد، ج ۱، ص ۷۱۔

②.....الزهد للإمام أحمد بن حنبل، زهد محمد بن سيرين، الحديث: ۱۸۸، ص ۳۲۵۔

کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل نہیں کرتا پھر جس کا علم نہیں اسے جاننے کی طلب کیوں کرتا ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابن سہل نے فرمایا: ”دوسروں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد دلانے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خود اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرانے والے کتنے ہی ایسے ہیں جو خود اس پر جرات کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کرنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جو خود اس سے دور ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف بلانے والے کتنے ہی ایسے ہیں جو خود اس سے بھاگتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کی آیات سے الگ رہتے ہیں۔“ (۲)

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمُ نے فرمایا: ”ہم نے اپنی گفتگو کو فصیح کیا تو اس میں غلطی نہ کی اور اپنے اعمال میں غلطی کی تو انہیں درست نہ کیا۔“ (۳)

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”جب فصاحت و بلاغت آجاتی ہے تو خشوع و خضوع رخصت ہو جاتا ہے۔“ (۴)

حضرت سیدنا عبدالرحمن بن غنم رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دس صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن نے خبر دی کہ ہم مسجد قبلہ میں علم حاصل کرنے میں مشغول تھے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”جو سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں اجر نہیں دے گا۔“ (۵)

## علم پر عمل نہ کرنے والے کی مثال:

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوْحُ اللّٰهِ عَلٰی نَبِیْنَا وَعَلِیْہِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”جو علم سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا

- ①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع القول فی العمل بالعلم، ص ۲۵۳۔
- ②.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۹۱، ج ۲، ص ۳۱۳-۳۱۴، مختصراً۔
- التفسیر الکبیر للرازی، سورة البقرة، تحت الآیة: ۳، ج ۱، ص ۴۰۲۔
- ③.....المجالسة و جواهر العلم، الجزء السادس، الحدیث: ۸۵، ج ۱، ص ۳۳۳۔
- ④.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۸۲، بتغییر الفاظ۔
- ⑤.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع القول فی العمل بالعلم، الحدیث: ۷۲، ص ۳۵۳۔

اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو چھپ کر زنا کرتی ہے اور حاملہ ہو جاتی ہے پھر اس کا حمل ظاہر ہوتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے یہی حال اس کا ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اللہ جبار و قہار عَزَّوَجَلَّ اسے قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔“ (۱)

## عالم کی لغزش باعث ہلاکت ہے:

حضرت سیّدنا معاذ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”عالم کی لغزش سے ڈرو کیونکہ لوگوں میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لغزش میں بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔“ (۲)

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”جب عالم پھسلتا ہے تو اس کے پھسلنے سے ایک جہان پھسل جاتا ہے۔“ (۳)

انہی کا فرمان ہے کہ اہل زمانہ تین باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ان میں سے ایک عالم کی لغزش ہے۔ (۴)  
حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”عنقریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دلوں کی شیرینی کھاری ہو جائے گی تو اس وقت نہ عالم کو اس کے علم سے کچھ فائدہ ہوگا اور نہ طالب علم کو کچھ نفع ہوگا۔ ان کے علما کے دل اس بنجر زمین کی طرح ہو جائیں گے جس پر بارش برستی ہے لیکن پھر بھی اس میں مٹھاس نہیں پائی جاتی۔“ اور یہ اس وقت ہوگا جب علما کے دل دنیا کی محبت اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے دلوں سے حکمت کے چشمے نکال لے گا اور ہدایت کے چراغ بجھا دے گا۔ جب تم ان کے کسی عالم سے ملو گے تو وہ زبان سے تمہیں کہے گا کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہوں مگر اس کے اعمال میں بدکاری ظاہر ہوگی۔ اس وقت زبانیں بڑی شیریں ہوں گی مگر دل خشک ہوں گے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں! یہ اس لئے ہوگا کہ اساتذہ نے غیر خدا کے لئے علم سکھایا اور شاگردوں نے غیر خدا کے لئے علم سیکھا ہوگا۔ تورات اور

①..... فیض القدير للمناوی، حرف الهمزة، تحت الحدیث: ۲۲۲، ج ۲، ص ۵۲۹۔

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب جامع بیان مایلزم الناظر، الحدیث: ۹۶، ص ۳۵۲، باختصار۔

③..... الزهد لابن المبارک، الحدیث: ۱۴۴، ص ۵۲۰، (قول عیسیٰ علیہ السلام)۔

④..... الزهد لابن المبارک، الحدیث: ۱۴۵، ص ۵۲۰، مفہومًا۔

انجیل میں لکھا ہے کہ ”جب تک اپنے علم پر عمل نہ کر لو اس وقت تک اس علم کو طلب نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں۔“ (۱)  
 حضرت سپیدنا حدیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں جس نے اپنے علم کے  
 دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں جس نے اپنے علم کے  
 دسویں حصے پر عمل کر لیا وہ نجات پالے گا اور یہ جھوٹوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔“ (۲)

## عالم اور قاضی:

یاد رکھو! عالم کی مثال قاضی جیسی ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”قاضی  
 تین قسم کے ہیں ایک وہ جو علم رکھتا اور حق فیصلہ کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرا وہ جو ناحق فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا  
 چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو اور تیسرا وہ جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔“ (۳)  
**اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے دشمن:**

حضرت سپیدنا کعب الاحبار عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّارِ بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو  
 دنیا سے بے رغبتی کا کہیں گے لیکن خود اس میں رغبت رکھیں گے۔ لوگوں کو خوف دلائیں گے لیکن خود نہیں ڈریں گے۔  
 انہیں حکمرانوں کے پاس جانے سے روکیں گے لیکن خود ان کے پاس جائیں گے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے لیکن  
 اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے۔ مالداروں کے قریب رہیں گے لیکن غریبوں سے دور۔ علم پر ایسے جھگڑیں گے جس  
 طرح عورتیں مردوں پر جھگڑتی ہیں۔ ان کا کوئی ہم نشین اگر دوسرے کی مجلس میں بیٹھے گا تو اس سے ناراض ہو جائیں  
 گے۔ یہ لوگ منتکبرین اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے دشمن ہوں گے۔ (۴)

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع القول فی العمل بالعلم، ص ۲۵۔

②.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیله، ج ۱، ص ۲۳۸، بتغییر۔

سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الرِّيَاحِ، الْحَدِيثُ ۲۲۴، ج ۲، ص ۱۱۸، مفہومًا۔

③.....سنن الترمذی، کتاب الاحکام، باب ماجاء عن رسول اللہ.....الخ، الْحَدِيثُ ۱۳۲، ج ۳، ص ۶۰، مفہومًا۔

④.....المحجاسة وجواهر العلم، الجزء الثانی والعشرون، الْحَدِيثُ: ۳۰۹، ج ۳، ص ۱۲۷، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۳۳، دون قوله: اولئك الجبارون اعداء الرحمن۔

سرور کائنات، شاہ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”شیطان اکثر تمہیں علم کے ذریعے سست بنا دیتا ہے۔“ کسی نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کر اور جب تک علم مکمل نہ کر لے عمل مت کرنا پھر وہ علم طلب کرنے کا کہتا رہتا ہے اور عمل میں سستی دلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ علم پر عمل کئے بغیر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔“ (۱)

## علم کی حفاظت کا نسخہ کیمیا:

حضرت سپید ناسری سقظی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: ایک شخص جس کو ظاہری علوم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اچانک اس نے عبادت کے لئے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تمہیں برباد کرے تم کب تک علم کو ضائع کرتے رہو گے!“ تو میں نے کہا: ”میں تو علم کو محفوظ کر رہا ہوں۔“ اس نے کہا: ”علم کی حفاظت اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔“ بس پھر میں طلب علم کو چھوڑ کر عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ (۲)

حضرت سپید ناسری مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم کثرتِ روایت کا نہیں بلکہ خشیتِ الہی کا نام ہے۔“ (۳)

حضرت سپید ناسری بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے فرمایا: ”جتنا چاہو علم حاصل کر لو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ عَزَّ وَجَلَّ تمہیں اجر نہیں دے گا۔ بیوقوفوں کا مقصد علم کی روایت ہے جبکہ علما کا مقصد علم کی حفاظت۔“ (۴)

حضرت سپید ناسری مالک بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”علم طلب کرنا اور اسے پھیلانا اچھا عمل ہے جبکہ نیت درست ہو لیکن دیکھا کرو کہ جو چیز صبح سے شام تک تمہارے ساتھ رہتی ہے اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دو۔“ (۵)

- ①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون، كتاب العلم وتفضيله ج ۱، ص ۲۲۸، بتغير۔
- ②..... فيض القدير للمناوى، حرف الهمزة، تحت الحديث ۳۰۱، ج ۳، ص ۲۰۹، بتغير الفاظ۔
- ③..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ج ۱، ص ۲۳۰، بتغير الفاظ۔
- ④..... الزهد للإمام احمد بن حنبل، فى فضل ابى هريرة، الحديث ۸۶، ص ۱۸۰۔
- ⑤..... جامع بيان العلم وفضله، باب جامع القول فى العمل بالعلم، الحديث ۷۴: ۷۵، ص ۲۵۳۔ (قول انس بن مالك)
- ⑥..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ذكر فضل علم المعرفة..... الخ، ص ۲۳۰۔
- ⑦..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم وتفضيله، ذكر فضل علم المعرفة..... الخ، ص ۲۳۳۔

## نزول قرآن کا مقصد:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”قرآن حکیم اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تم نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو بھی عمل بنا لیا، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو نیزے کی طرح سیدھا کریں گے وہ تم میں بہتر لوگ نہیں ہوں گے اور جو عالم عمل نہیں کرتا اس مریض کی طرح ہے جو دوائی کی تعریف کرتا ہے اور اس بھوکے کی طرح ہے جو لذیذ کھانوں کی تعریف کرتا ہے لیکن ان کو پاتا نہیں۔“ (۱)

اس جیسے شخص کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو

بناتے ہو۔

(پے ۱، الانبیاء: ۱۸)

نیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”مجھے اپنی امت پر عالم کی لغزش اور منافق کے قرآن میں جھگڑنے کا ڈر ہے۔“ (۲)

﴿۳﴾..... علمائے آخرت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسے عالم کا مقصد آخرت میں نفع دینے والے اور اطاعت میں رغبت دلانے والے علم کا حصول ہو، ان علوم سے بچے جن کا نفع کم، جھگڑا اور بحث و مباحثہ زیادہ ہو پس اس شخص کی مثال جو اعمال کے علم سے غافل ہو کر جدال (جھگڑوں وغیرہ) میں مشغول ہو جائے اس مریض کی سی ہے جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہو وہ کسی ماہر طبیب کو تنگ وقت میں ملے کہ اس کے چلے جانے کا خوف ہو لیکن وہ جڑی بوٹیوں اور ادویات کی خصوصیات اور طب کی عجیب و غریب باتیں پوچھنا شروع کر دے اور اس اہم بات کے بارے میں نہ پوچھے جس میں وہ مبتلا ہے، وہ نرا بے وقوف ہے۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”مجھے علم کی عجیب و غریب باتیں بتائیں!“ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس سے پوچھا: ”تم نے بنیادی علم کے بارے میں کیا سیکھا؟“ اس نے عرض کی: ”بنیادی علم کیا ہے؟“ فرمایا: ”کیا تم نے رب عَزَّوَجَلَّ کو پہچانا؟“ اس نے عرض کی: ”جی ہاں!“ ارشاد فرمایا: ”تم نے اس

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۰۔

②..... المعجم الكبير، الحديث ۲۸۲، ج ۲۰، ص ۱۳۹، مفہومًا۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۵۔

کے حق کی ادائیگی میں کیا عمل کیا؟“ عرض کی: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چاہا۔“ ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے موت کو جانا؟“ عرض کی: ”جی ہاں!“ ارشاد فرمایا: ”اس کے لئے کیا تیاری کی؟“ عرض کی: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چاہا۔“ ارشاد فرمایا: ”جاؤ! پہلے اس میں پختہ ہو جاؤ پھر ہمارے پاس آنا ہم تمہیں علم کے غرائب میں سے کچھ سکھا دیں گے۔“ (۱)

## ۱۸ نمول ہیرے:

ایک طالب علم کو ایسا ہونا چاہئے جیسا حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کے شاگرد رشید حضرت سیدنا حاتمِ اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے استاذ حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے ان سے پوچھا: ”تم کتنے عرصے سے میری صحبت میں ہو؟“ عرض کی: ”33 سال سے۔“ پوچھا: ”اس مدت میں مجھ سے کیا سیکھا؟“ عرض کی: ”آٹھ باتیں۔“

حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے افسوس کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھی: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ لَمَرْجِعُونَ ﴿۱﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۵۶) ترجمہ کنز الایمان: ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔

اور کہا: ”میری زندگی کا ایک عرصہ تمہارے ساتھ گزر گیا اور تم نے صرف آٹھ باتیں سیکھی ہیں؟“ حضرت سیدنا حاتمِ اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَم نے عرض کی: ”استاذِ محترم! میں نے ان کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا اور مجھے جھوٹ بولنا پسند نہیں۔“ استاذ صاحب نے فرمایا: ”وہ آٹھ باتیں بیان کرو کہ میں سنوں۔“

(۱)..... عرض کی: میں نے لوگوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہر شخص ایک محبوب سے محبت کرتا ہے اور (محبوب کے مرنے پر) اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے تو میں نے اچھے اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ جب میں قبر میں داخل ہوں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ داخل ہو۔

حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”اے حاتم! بہت اچھا۔“

(۲)..... عرض کی: میں نے اس فرمان باری تعالیٰ میں غور و فکر کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے

①..... حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنّف، الحدیث ۵۳، ج ۱، ص ۵۶۔



عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَاوِي ۗ ط  
 سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ تو بے شک جنت ہی  
 ٹھکانا ہے۔ (پ ۳۰، النزعت: ۴۱، ۴۰)

تو میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے پھر میں خواہش کو دور کرنے کے لئے اپنے نفس کو تیار کرتا  
 رہا یہاں تک کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرمانبرداری پر پختہ ہو گیا۔

(۳)..... عرض کی: میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی قدر و قیمت والی چیز ہے وہ  
 اسے بلند کرتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے پھر میں نے اس فرمان الہی میں غور کیا:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط  
 ترجمہ کنز الایمان: جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ  
 کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (پ ۱۴، النحل: ۹۶)

اب جب بھی میرے پاس کوئی قدر و قیمت والی چیز آتی ہے تو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف پھیر دیتا ہوں تاکہ  
 محفوظ رہے۔

(۴)..... عرض کی: لوگوں کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ہر ایک کی توجہ مال، حسب و نسب اور شرف کی طرف ہے۔ میں  
 نے ان چیزوں کے بارے میں غور کیا تو ان کی کوئی حیثیت معلوم نہ ہوئی پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں غور کیا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقِمُ ط  
 ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت  
 والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۳)

تو میں نے تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ بارگاہ الہی میں عزت والا ہو جاؤں۔

(۵)..... عرض کی: میں نے حسد کے سبب لوگوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے دیکھا پھر اس آیت مقدسہ میں غور  
 و خوض کیا:

نَحْنُ قَسَبْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا (پ ۲۵، الزخرف: ۳۲)  
 ترجمہ کنز الایمان: ہم نے ان میں ان کی زیست (زندگی  
 گزارنے) کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا۔

تو میں حسد کو ترک کر کے مخلوق سے الگ ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ تقسیم تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اس  
 لئے میں نے لوگوں سے عداوت ترک کر دی۔

(۶).....عرض کی: میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا پھر اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف نظر کی:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا ط  
ترجمہ کنز الایمان: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی  
اسے دشمن سمجھو۔  
(پ۲۲، فاطر: ۶)

تو میں نے صرف شیطان سے دشمنی کی اور اس سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گواہی دی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اس لئے میں نے اس کے علاوہ کسی سے دشمنی نہیں کی۔

(۷).....عرض کی: میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک روٹی کے ٹکڑے کی طلب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتا اور اس چیز میں مشغول ہوتا ہے جس میں مشغول ہونا اس کے لئے جائز نہیں پھر میں نے اس آیت مبارکہ میں غور کیا:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا  
ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا  
رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔  
(پ۱۲، ہود: ۶)

تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میں بھی ان چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے، پھر میں اس کام میں مشغول ہو گیا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مجھ پر لازم ہے اور اسے چھوڑ دیا جو میرے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہے۔

(۸).....عرض کی: میں نے لوگوں کو دیکھا سب مخلوق پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں، کوئی اپنی زمین پر، کوئی اپنے کاروبار پر، کوئی اپنے پنن پر، کوئی اپنی صحت پر الغرض ہر مخلوق اپنی مثل مخلوق پر توکل کئے ہوئے ہے تو میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کی طرف توجہ کی:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی  
ہے۔  
(پ۲۸، الطلاق: ۳)

لہذا میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کر لیا اور وہی مجھے کافی ہے۔“ حضرت سیدنا شقیق بلخی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”اے حاتم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں توفیق دے! بے شک میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن حکیم میں غور و فکر کیا تو بھلائی اور دیانت کی تمام اقسام کو اس طرح پایا کہ وہ تمام انہی آٹھ باتوں کے گرد گھومتی ہیں۔ جو ان پر عمل کر لے گا وہ

چاروں (آسانی) کتابوں پر عامل ہو جائے گا۔“

الغرض! علمائے آخرت ہی اس طرح کا علم حاصل کرنے اور اسے سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں جبکہ علمائے دنیا تو اس چیز میں مشغول ہوتے ہیں جس سے مال و جاہ کا حصول آسان ہو اور ان جیسے علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کو مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْحَاکِمِ بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنِ کا زمانہ پایا ہے وہ ایک دوسرے سے تقویٰ کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے تھے اور اب لوگ علم کلام کے سوا کچھ نہیں سیکھتے۔“<sup>(۱)</sup>

﴿4﴾..... علمائے آخرت کی ایک علامت یہ ہے کہ ایسا عالم کھانے پینے کی اشیا میں آسودگی، لباس میں زیبائش، گھریلو سامان اور رہائش کے مکان میں خوبصورتی کی طرف مائل نہ ہو بلکہ ان تمام چیزوں میں میانہ روی اپنائے، اس میں سلف صالحین کی مشابہت اختیار کرے اور کم سے کم پر قناعت کا ذہن رکھے۔ پس جب اس کی توجہ کمی کی جانب بڑھے گی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اس کا قرب بھی زیادہ ہوگا اور علمائے آخرت میں اس کا مقام بلند ہوگا۔

### سیدنا حاتم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْحَاکِمِ کا انداز نصیحت:

حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ کے شاگرد حضرت سیدنا ابو عبد اللہ خواص عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّزَّاقِ سے منقول یہ حکایت اس کی گواہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ کے ساتھ (خراسان کے بڑے شہر) رے کی طرف گیا۔ ہمارے ساتھ 320 آدمی تھے۔ ہم حج کا ارادہ رکھتے تھے۔ سب نے اونی کبیل اوڑھے ہوئے تھے۔ کسی کے پاس بھی توشہ دان اور کھانا نہیں تھا۔ ”رے“ مقام پر پہنچ کر ہم ایک تاجر کے پاس گئے جو تنگ دست تھا لیکن مسکینوں کو دوست رکھتا تھا۔ اس رات اس نے ہماری ضیافت کی۔ اگلے دن اس نے حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ سے کہا کہ ”اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو فرمائیے کیونکہ ایک فقیہ بیمار ہیں میں نے ان کی عیادت کو جانا ہے۔“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: ”مریض کی عیادت تو ثواب کا کام ہے اور فقیہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔“ وہ بیمار فقیہ رے کا قاضی محمد بن مقاتل رازی تھا۔ جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو بلند اور خوبصورت محل دیکھ کر حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ متعجب ہو کر فرمانے لگے:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیلہ، ج، ص ۲۳۹۔

”عالم کا دروازہ اور اس طرح کا؟“ اجازت ملی، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک وسیع و عریض اور عمدہ و خوبصورت گھر ہے۔ اس میں پردے لٹک رہے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سَوج میں پڑ گئے۔ پھر قاضی کی مجلس میں پہنچے تو دیکھا کہ قاضی ایک نرم بچھونے پر آرام فرما ہے اور سر کی جانب ایک غلام ہاتھ میں پتکھا لئے موجود ہے۔ زیارت کی غرض سے آنے والے تاجر نے سر کے پاس بیٹھ کر حالت دریافت کی جبکہ حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَم كھڑے رہے۔ ابن مقاتل نے آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن آپ نہ بیٹھے۔ اس نے کہا: ”شاید آپ کو کوئی حاجت ہے؟“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”ہاں!“ پوچھا: ”کیا حاجت ہے؟“ فرمایا: ”ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔“ کہا: ”پوچھئے۔“ فرمایا: ”پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں پھر پوچھوں گا۔“

چنانچہ، قاضی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے پوچھا: ”تم نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟“ جواب دیا: ”معتبر علما سے۔“ پوچھا: ”انہوں نے کس سے سیکھا؟“ جواب دیا: ”صحابہ کرام رَضَوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ سے۔“ پوچھا: ”انہوں نے کس سے سیکھا؟“ کہا: ”رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے۔“ پوچھا: ”حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کس سے؟“ جواب دیا: ”حضرت سیدنا جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَام کے واسطے سے خدائے بزرگ و برتر سے۔“ حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَم نے فرمایا: ”جو علم حضرت سیدنا جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَام نے خالق کائنات عَزَّوَجَلَّ سے لے کر معلم کائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تک پہنچایا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ کرام رَضَوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ نے معتبر علما کو بتایا اور معتبر علما نے تمہیں سکھایا کیا تم نے اس میں یہ سنا ہے کہ جس کے گھر کی بلندی اور وسعت زیادہ ہوگی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا؟“ اس نے کہا: ”نہیں میں نے ایسا نہیں سنا۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”پھر کیسا سنا ہے؟“ جواب دیا: ”میں نے سنا ہے کہ جو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھتے ہوئے مسکینوں سے محبت اور آخرت کی تیاری کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔“ حضرت سیدنا حاتم اصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَم نے پوچھا: ”پھر تم نے کس کی پیروی کی، محبوب خدا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور صحابہ کرام رَضَوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کی یا فرعون اور نمرود کی جنہوں نے سب سے پہلے چوڑے اور اینٹ سے پکا مکان بنایا۔ اے علمائے سو! تم جیسوں کو دیکھ کر دنیا سے رغبت رکھنے والا جاہل حریص کہتا ہے کہ جب عالم کی یہ حالت ہے تو میں اس سے برا کیوں نہ بنوں۔“ یہ

کہہ کر آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

### نصیحت کا انوکھا انداز:

حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ قَصْدًا وَهَذَا مِنْ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ قَصْدًا وَهَذَا مِنْ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ قَصْدًا وَهَذَا مِنْ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ قَصْدًا وَهَذَا مِنْ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

### تین خصلتیں:

جب حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ بَغْدَادَ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

جب حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ بَغْدَادَ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

جب حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ بَغْدَادَ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

جب حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ بَغْدَادَ تَشْرِيفِ لَيْ كُنَّ اور ابنِ مَقَاتِلِ كَامْرَضٍ اور بڑھ گیا۔ وہاں کے لوگوں کو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا پتا چلا تو انہوں نے حضرت سیدنا حاتمِ اَصْمَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَمِ سے عرض کی: ”قزوین میں طنفسی ان سے بڑا مالدار ہے۔“

## دنیا سے بچنے کا طریقہ:

جب یہ بات حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا: ”واہ! کتنے سمجھدار ہیں۔ ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو۔“ ان کے ہاں پہنچ کر پوچھا: ”اے ابو عبد الرحمن علیہ رحمۃ الرحمن! دنیا سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟“ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے جواب دیا: ”اے ابو عبد اللہ! تمہیں چار خصلتیں حاصل ہو جائیں تو تم دنیا سے محفوظ رہ سکتے ہو: (۱)..... لوگوں کی جہالت کو معاف کر دو (۲)..... اپنی جہالت کو ان سے روک لو (۳)..... اپنی چیز ان پر خرچ کرو اور (۴)..... ان کی چیزوں سے مایوس ہو جاؤ۔ جب ایسے ہو جاؤ گے، تو دنیا سے بچ جاؤ گے۔“

## یہ تو فرعون کا شہر ہے:

پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوائے مدینہ چل دیئے۔ وہاں پہنچے تو اہل مدینہ نے پر جوش استقبال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: ”اے لوگو! یہ کون سا شہر ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: یہ مَدِیْنَةُ الرَّسُولِ ہے۔“ پوچھا: ”تو رَسُولُ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا محل کہاں ہے، تاکہ میں اس میں نماز پڑھوں؟“ لوگوں نے عرض کی: ”حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا محل نہیں تھا بلکہ ایک گھر تھا جو زمین سے ملا ہوا تھا۔“ پھر فرمایا: ”تو صحابہ کرام رِضْوَانُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کے محلات کہاں ہیں؟“ عرض کی: ”ان کے محلات نہیں تھے وہ تو زمین سے ملے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔“ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا: ”یہ تو فرعون کا شہر ہے؟“ لوگوں نے آپ کو پکڑ کر حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ ”یہ عجمی شخص کہتا ہے کہ یہ فرعون کا شہر ہے۔“ حاکم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا: ”مجھ پر جلدی نہ کرو، میں ایک عجمی مسافر شخص ہوں، شہر میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا: ”یہ کون سا شہر ہے۔“ تو لوگوں نے کہا: ”یہ مَدِیْنَةُ الرَّسُولِ ہے۔“ پھر پوچھا: ”ان کا محل کہاں ہے۔“ یوں آخر تک پورا واقعہ بیان کر کے کہا: اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر

ہے۔

(ب ۲۱، الاحزاب: ۲۱)

لہذا بتاؤ! تم نے کس کی پیروی کی، رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی یا فرعون کی جس نے سب سے پہلے جوئے اور اینٹ کا پکا گھر بنایا۔ پھر لوگ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔

یہ حضرت سیدنا حاتم احم علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ کی حکایت ہے۔ نیز خستہ حالی اور زیب وزینت کو ترک کرنے پر مشتمل اسلاف کی مبارک زندگیوں کے کچھ گوشوں کا بیان ان کے مقام پر آئے گا جو علمائے آخرت کی اس نشانی کی تائید کرتا ہے۔

اس میں تحقیق یہ ہے کہ مباح چیزوں کے ساتھ زینت اختیار کرنا حرام نہیں لیکن اس میں زیادہ دلچسپی اس سے مانوس ہونے کا سبب ہے جس کی وجہ سے اسے چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ مسلسل زینت اختیار کئے رہنے کے لئے اسباب کا حصول ضروری ہے اور عام طور پر ان کے حصول کے لئے کئی گنا ہوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً چاپلوسی، جائز و ناجائز ہر کام میں لوگوں کی رعایت، دکھلاوا اور دیگر کئی ممنوع کام کرنے پڑتے ہیں اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ زیب وزینت سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جو دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اس سے بالکل محفوظ نہیں رہ سکتا اور اگر اس میں زیادہ مشغولیت کے باوجود بھی اس سے بچنا ممکن ہوتا تو اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ترک دنیا میں اتنا مبالغہ نہ فرماتے حتیٰ کہ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نقش و نگار والی قمیص اتار دی نیز دورانِ خطبہ سونے کی انگوٹھی اتار دی اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں جن کا بیان آگے آئے گا۔

### سیدنا یحییٰ بن یزید علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَجِيدِ کا خط:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن یزید نوفلی علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي نے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو خط لکھا (مضمون کچھ یوں تھا): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ، یحییٰ بن یزید بن عبد الملک کی طرف سے مالک بن انس کے نام خط:

اَمَّا بَعْدُ! مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ باریک کیڑے پہنتے، چپاتی کھاتے، نرم نشست پر بیٹھتے اور اپنے دروازے پر دربان بٹھاتے ہیں حالانکہ آپ علم کی مجلس قائم کرتے ہیں۔ لوگ سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو اپنا پیشوا مانتے اور آپ کی بات کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اے مالک! اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سے ڈریں اور عاجزی

اختیار کریں۔ میں نے آپ کی طرف نصیحت بھرا خط لکھا ہے جس کا علم اللہ عزوجل کے سوا کسی کو نہیں۔ والسلام

### سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کا جواب:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔ مالک بن انس کی طرف سے یحییٰ بن یزید کو السلام علیکم:

آپ کا خط موصول ہوا، اس میں میرے لئے نصیحت، شفقت اور ادب ہے۔ اللہ عزوجل آپ کو تقویٰ پر استقامت عطا فرمائے اور اس نصیحت کا بہترین صلہ دے۔ میں اللہ عزوجل سے توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عظمت و بلندی والے پروردگار عزوجل ہی کی مدد سے ہے۔ آپ نے میری جن باتوں کا تذکرہ کیا کہ میں باریک کپڑے پہنتا، چپاتی کھاتا، دربان بٹھاتا اور نرم نشست پر بیٹھتا ہوں یہ سب میں کرتا ہوں اور میں اللہ عزوجل سے معافی مانگتا ہوں۔ بے شک اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِہٖ  
وَاطْيَبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ط (پ ۸، الاعراف: ۳۲)  
جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق۔

بے شک میں جانتا ہوں کہ اسے ترک کرنا اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ آپ ہمیں خط لکھنا نہ چھوڑیے گا ہم بھی آپ کو خط لکھتے رہیں گے۔ والسلام

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کا انصاف تو دیکھئے کہ اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اسے ترک کرنا اختیار کرنے سے بہتر ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں باتوں میں سچے تھے۔ ایسے عظیم المنصب شخص نے اس طرح کی نصیحت قبول کرنے اور اعتراف کرنے میں انصاف سے کام لیا اور اپنے نفس کو جائز کاموں کی حدود جاننے پر بھی پکا کر لیا تاکہ وہ انہیں چا پلوسی، دکھلاوے اور دوسری ناپسندیدہ باتوں کی طرف تجاوز کی راہ پر نہ لے جائے جبکہ کوئی دوسرا اس طرح نہیں کر سکتا۔ پس مباح چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی طرف مائل ہونے میں بڑا خطرہ ہے اور یہ چیز اللہ عزوجل کے خوف و خشیت سے دور ہے جبکہ ربانی علما کی خاصیت خشیت الہی ہے اور خشیت کی خاصیت ہے کہ خطرے و اندیشے والی جگہوں سے دور رہا جائے۔



﴿5﴾..... علمائے آخرت کی ایک علامت یہ ہے کہ عالم حکمرانوں سے دور رہے، جب تک ان سے بھاگنے کی راہ ملے ہرگز ان کے پاس نہ جائے، بلکہ ان کی ملاقات سے بھی احتراز کرے اگرچہ وہ اس کے پاس آئیں کیونکہ دنیا میٹھی اور تروتازہ ہے اور اس کی لگام حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے ملنے والا ان کی رضا و خوشنودی پانے اور ان کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لئے تکلفات سے نہیں بچ سکتا باوجود یہ کہ وہ ظالم ہوتے ہیں۔ ہر دیندار کے لئے ضروری ہے کہ ان پر اعتراض کرے، ان کے مظالم اور برے افعال ظاہر کرے ان کے دل تنگ کرے کیونکہ ان کے پاس جانے والا یا تو ان کی زیب و زینت کو دیکھ کر خود پر اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے احسانات کو حقیر سمجھتا ہے یا ان پر اعتراض کرنے سے خاموش رہ کر منافقت اختیار کرتا ہے یا ان کی خوشنودی کی خاطر اپنی گفتگو میں تکلف کرتا اور ان کی حالت کو اچھا بتاتا ہے حالانکہ یہ کھلا جھوٹ ہے یا ان کی دنیا سے کچھ مل جانے کی طمع کرتا ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال و حرام کے بیان میں اس بات کا ذکر آئے گا کہ حکمرانوں کے اموال سے کون کون سے عطیات و انعامات لینا جائز ہیں اور کون سے ناجائز؟ مختصر یہ کہ ان سے میل جول کئی برائیوں کی چابی ہے اور علمائے آخرت کا راستہ احتیاط ہے۔

آقائے دو جہاں، محبوبِ رحمن صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو بن باسی ہو (دیہات میں رہائش اختیار کی) وہ سخت دل ہو گیا۔ جو شکار کے پیچھے رہا وہ غافل ہو گیا اور جو بادشاہ کے پاس پہنچا وہ فتنہ میں پڑا۔“ (۱) (۲)

①..... المسند للام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ، الحدیث: ۹۶۸، ج ۳، ص ۴۴۳۔

②..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مَرَاة الْمَنَاجِیْہِ، ج 5، ص 360 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: ”دیہات کے باشندے اکثر سخت دل ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے: اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ کُفْرًا وَاَوْفَعَا قَا وَاَجْدُسُ اَلَا یَعْلَمُوْنَ (ب ۱۱، التوبہ: ۹۷) کیونکہ انہیں علم کی روشنی علما کی صحبت نہیں نصیب ہوتی، لہذا خود عالم دین جو دیہات میں رہیں، اور وہ دیہات والے جو علماء سے تعلق رکھیں اور شہر میں آتے جاتے رہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں (اور) جو شکار کا شغل اپنا وطیرہ بنا لے کہ محض شوقیہ شکار کھیلتا رہے وہ اللہ کے ذکر نماز و جماعت جمعہ، رقت قلب سے محروم رہتا ہے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی شکار نہ کیا (اشعہ) بعض صحابہ نے شکار کیا ہے مگر شکار کرنا اور ہے اور شکار کا مشغلہ وہ بھی محض شوقیہ کچھ اور شکار کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے یہاں مشغلہ شوقیہ کا ذکر ہے لہذا یہ حدیث حکم قرآن کے خلاف نہیں (اور) جو عزت و دولت کمانے کے لیے ظالم بادشاہ کا درباری اور حاضر باش بنا وہ اپنا دین یا دنیا تباہ کر لے گا کیونکہ اگر وہ اس کے ظلم کی حمایت کرے گا تو اپنا دین برباد کر لے گا، اور اگر اس کی مخالفت کرے گا تو اپنی دنیا برباد کر لے گا، لہذا جو کوئی عادل بادشاہ کا مصاحب بنے اس کے عدل کی حمایت کرنے تک میں دین کا رواج دینے کو اور اُسے اچھے مشورے دے تو وہ اعلیٰ درجے کا مجاہد ہے، یوں ہی ظالم بادشاہ کی اصلاح کے لیے اُس کے ساتھ رہے تو وہ غازی ہے مگر ایسا بہت مشکل ہے لہذا (امیر المؤمنین).....

ایک روایت میں ہے کہ ”عقرب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جن میں اچھی باتیں بھی ہوں گی اور بری بھی۔ پس جس نے (ان کا) انکار کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا لیکن جو (ان سے) راضی رہا اور پیروی کی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔“ عرض کی گئی: ”کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟“ ارشاد فرمایا: ”نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔“ (۱)

حضرت سپید ناسفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”جنہم میں ایک وادی ہے جس میں صرف وہ علماء ہیں گے جو بادشاہوں کی ملاقات کو جاتے ہیں۔“ (۲)

## فنتوں کی جگہیں:

حضرت سپید ناسفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”فنتے کی جگہوں سے بچو۔“ کسی نے پوچھا: ”وہ کون سی جگہیں ہیں؟“ فرمایا: ”حکمرانوں کے دروازے، تم میں سے کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کو سچ بتاتا ہے اور اس کی شان میں وہ باتیں کہتا ہے جو اس میں نہیں ہوتیں۔“ (۳)

## علماء بندوں پر رسولوں کے امین ہیں:

حضرت سپید نانس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”علماء اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں پر رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک وہ حکمرانوں سے میل جول نہ رکھیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ رسولوں کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ پس تم ان (کے شر) سے ڈرو اور ان سے علیحدہ رہو۔“ (۴)

..... حضرت علی (کَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكُرَيْم) کو خلفائے راشدین کا مصاحب بنا اور حضرت امام ابو یوسف (رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ) کا سلطان ہارون رشید کا قاضی القضاہ بنا گیا نہ تھا ثواب تھا، امام ابو یوسف کی یہ قضاء حنفی مذہب کی اشاعت کا ذریعہ بنی۔

①..... سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ۷۸، الحدیث: ۲۲۷۴، ج ۴، ص ۱۷۷، دون قولہ: ابعده اللہ۔

جامع بیان العلم وفضلہ، باب ذم العالم علی مداخلة السلطان الظالم، الحدیث: ۷۰، ص ۲۲۶۔

②..... تفسیر النسفی، سورة هود، تحت الآیة: ۱۱۳، ص ۵۱۵۔

③..... المصنف لعبدالرزاق، کتاب الجامع، باب ابواب السلطان، الحدیث: ۲۰۸۰، ج ۱۰، ص ۲۸۰۔

④..... جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف العین، الحدیث: ۱۴۵۴، ج ۵، ص ۲۰۱۔

تفسیر روح البیان، سورة هود، تحت الآیة: ۱۱۳، ج ۴، ص ۱۹۶۔

کسی نے حضرت سیدنا عمش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے عرض کی: ”حضور! آپ نے اپنے کثیر شاگردوں کے ذریعے علم کو زندہ کر دیا ہے۔“ فرمایا: ”جلدی نہ کرو، ان میں سے ایک تہائی تو علم کے فوائد حاصل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ایک تہائی حکمرانوں کے دروازوں سے چمٹ جاتے ہیں، وہ لوگوں میں بدترین ہیں اور باقی ایک تہائی میں سے کم ہی ہیں جو فلاح پاتے ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”جب تم عالم کو امرا کے پاس آتے جاتے دیکھو تو اس سے احتراز کرو کیونکہ وہ چور ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک اس عالم سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں جو حکام کے کسی کارندے سے ملاقات کرتا ہے۔“ (۳)

### بدترین علما اور بہترین امرا:

حضور نبی کریم، رَأُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بدترین علما وہ ہیں جو امرا کے پاس جاتے ہیں اور بہترین امرا وہ ہیں جو علما کے پاس جاتے ہیں۔“ (۴)

### آگ کے سمندر میں غوطے لگانے والا:

حضرت سیدنا ناکھول دمشقی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي نے فرمایا: ”جس نے قرآن سیکھا اور دین کا علم حاصل کیا پھر حاکم کا مصاحب بن گیا، اس کی خوشامدگی، اس کے مال کی طمع رکھی تو وہ اپنے گناہوں کی تعداد کے برابر جہنم کی آگ کے سمندر میں غوطے لگائے گا۔“ (۵)

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب ذم العالم علی مداخلة السلطان الظالم، ص ۲۳۔

②.....الاداب الشرعية الكبرى للمقدسی، فصل انقباض العلماء المتقين.....الخ، ص ۱۷۴۔

فردوس الاخبار للديلمي، باب الالف، الحديث ۱۰۸۳، ج ۱، ص ۱۶۲، بتغير، عن ابی هريرة۔

③.....تفسير النسفي، سورة هود، تحت الاية ۱۱۳، ص ۵۱۵۔

الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۲۷۶ بکیر بن شهاب، ج ۲، ص ۲۰۲، عن ابی هريرة قال قال رسول الله۔

④.....طبقات الشافية الكبرى، الطبقة الخامسة، من اصحاب الامام المطلبي، ج ۱، ص ۲۹۰۔

⑤.....فردوس الاخبار للديلمي، باب الالف، الحديث ۱۱۲، ج ۱، ص ۱۷۱، بتغير، عن عباد بن جيل۔

## علمائے بنی اسرائیل سے زیادہ برے:

حضرت سیدنا سمون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”وہ عالم کتنا برا ہے کہ اس کے پاس کوئی جائے تو اسے نہ پائے اور جب اس کے بارے میں پوچھا جائے تو بتایا جائے کہ وہ حاکم کے پاس ہے۔“<sup>(۱)</sup>

مزید فرماتے ہیں: ”میں یہ کہتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ جب تم ایسے عالم کو دیکھو جو دنیا سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے دین کے معاملے میں مشکوک جانو حتیٰ کہ مجھے اس کا تجربہ ہو گیا کہ میں جب کبھی بھی حاکم کے پاس گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو میں نے اس میں بہت دوری پائی حالانکہ میں جس سختی اور درشتی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں اور اس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں وہ تمہارے سامنے ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ حاکم کے پاس جانے سے بچ جاؤں حالانکہ نہ میں اس سے کوئی چیز لیتا ہوں اور نہ پانی کا کوئی گھونٹ پیتا ہوں۔“

پھر فرمایا: ”ہمارے زمانے کے علمائے بنی اسرائیل کے علما سے زیادہ برے ہیں کہ حاکم کو رخصتیں اور وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کی خواہش کے موافق ہوں اور اگر وہ انہیں ایسی باتیں بتائیں جو ان کے خلاف ہوں اور ان میں ان کی نجات ہو تو حکمران انہیں بوجھ جائیں اور ان کا اپنے پاس آنا پسند کریں حالانکہ یہ بات ان کے رب عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ان کے لئے نجات کا ذریعہ ہے۔“

## حکمرانوں کی صحبت منافقت کا باعث ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى نے فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک صاحب تھے جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے اور صحابی رسول تھے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مراد ہیں۔ فرمایا: وہ حکمرانوں کے پاس نہیں جاتے تھے اور ان سے دور رہتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے ان سے عرض کی: ”یہ لوگ جو صحابیت اور اسلام میں مقدم ہونے کے اعتبار سے آپ کی مثل نہیں ہیں وہ حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جائیں تو کیا حرج ہے؟“ انہوں نے فرمایا: ”اے میرے بیٹو! کیا میں اس مردار دنیا کے پاس جاؤں جسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر مجھ سے ہوسکا تو

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب ذم العالم علی مداخلة السلطان الظالم، تحت الحدیث: ۷۱، ص ۲۳۳۔

میں اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔“ بیٹوں نے عرض کی: ”اباجان! اس طرح تو ہم فقر و افلاس کی حالت میں ہلاک ہو جائیں گے۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اے میرے بیٹو! میں ایمان کی حالت میں غریب و کمزور ہو کر مر جاؤں یہ مجھے حالت منافقت میں موٹا ہو کر مرنے سے زیادہ پسند ہے۔“ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! وہ اپنے بیٹوں پر غالب آگئے کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ قبر کی مٹی گوشت اور موٹاپے کو تو فنا کر دیتی ہے مگر ایمان محفوظ رہتا ہے۔“ (۱)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاکم کے پاس جانے والا نفاق سے ہرگز نہیں بچ سکتا اور نفاق ایمان کی ضد ہے۔

حضرت سیدنا جناب بن جنادہ ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا سلمہ بن عمرو بن اکوع سلمی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”اے سلمہ! بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جایا کرو کیونکہ تم ان کی دنیا سے اس وقت تک کچھ نہیں لے سکتے جب تک وہ تمہارے دین میں سے اس سے افضل نہ لے لیں۔“ (۲)

یہ علما کے لئے بہت بڑا فتنہ اور شیطان کے لئے ان پر غالب آنے کا زبردست ذریعہ ہے بالخصوص جن کا انداز مقبول اور کلام شیریں ہو کیونکہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ تمہارے ان کے پاس جانے اور انہیں وعظ کرنے سے وہ ظلم سے باز رہیں گے اور اسلامی احکام جاری کریں گے حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس جانا بھی دینی کام ہے پھر جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تو جلد ہی اس کے کلام میں نرمی آجاتی ہے، وہ چالپوسی کرتا اور بادشاہ کی تعریف میں مشغول ہو کر اس میں مبالغہ کرتا ہے، اس میں دین کی بربادی ہے۔

کہا جاتا تھا کہ ”علما جب علم حاصل کرتے ہیں تو عمل میں لگ جاتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو مصروف ہو جاتے ہیں، جب مصروف ہوتے ہیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں تو انہیں طلب کیا جاتا ہے اور جب انہیں طلب کیا جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔“ (۳)

①..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، كتاب العزلة والانفراد، الحديث ۲۰۴، ج ۶، ص ۵۴۴۔

②..... المصنف لابن ابی شيبية، كتاب الفتن، ما ذكر في عثمان، الحديث ۷، ج ۸، ص ۶۹۸۔

③..... المجالسة وجواهر العلم، الحديث ۳۵۳، ج ۱، ص ۱۸۱۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو لکھا: مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جن سے میں اللہ عزوجل کے دین پر مدد حاصل کروں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جواب میں لکھا کہ دیندار تو آپ کے پاس آنا پسند نہیں کریں گے اور دنیا داروں کو آپ پسند نہیں کریں گے۔ البتہ آپ معزز لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ وہ اپنی عزت و شرافت کو خیانت کے ساتھ میلا ہونے سے بچاتے ہیں۔“ (۱)

یہ ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی سیرت جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد تھے۔ جب دینداروں کے لئے ان سے بھی دور رہنا شرط ہے تو پھر ان کے علاوہ کسی اور کی طلب اور اس کے ساتھ رہنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ اسلاف علمائے کرام مثلاً حضرت سیدنا حسن بصری، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل مکہ و شام وغیرہ کے علمائے دنیا کو اس لئے عیب لگاتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتے یا حکمرانوں سے میل جول رکھتے تھے۔

﴿6﴾..... علمائے آخرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایسا عالم فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ توقف کرے اور جب تک ہو سکے اپنے آپ کو فتویٰ دینے سے بچائے۔ نیز اگر اس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ نص قرآنی یا نص حدیث یا اجماع یا قیاس جلی کی دلیل سے یقینی طور پر جانتا ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ دے اور اگر ایسی بات پوچھی جائے جس میں اسے شک ہے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اگر ایسا مسئلہ دریافت کیا جائے جسے وہ اجتہاد و اندازے سے سمجھ سکتا ہے تو بھی احتیاط کرے، اپنے آپ کو بچائے اور اگر کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس کی طرف پھیر دے، اسی میں بچت ہے کیونکہ اجتہاد کا خطرہ سر لینا بڑی بات ہے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ علم تین ہیں: ”قرآن پاک، سنت قائمہ اور لا ادری (یعنی میں نہیں جانتا)۔“ (۲)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۳۳۔

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۰۰، ج ۱، ص ۲۸۴۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، کتاب العلم وتفضیله، المقام الثالث من الیقین، ج ۱، ص ۲۳۶۔

## آدھا علم:

حضرت سیدنا امام شعی علیہ رحمۃ اللہ الولی نے فرمایا: ”لَا أَدْرِي (یعنی میں نہیں جانتا)، آدھا علم ہے اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں جواب نہ دینے والا اجر و ثواب میں جواب دینے والے سے کم نہیں کیونکہ لاعلمی کا اعتراف نفس پر بہت گراں ہے۔“<sup>(۱)</sup> نیز صحابہ کرام اور اسلاف کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کی یہی عادت تھی۔ چنانچہ، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے جب کسی معاملے کا شرعی حکم پوچھا جاتا تو فرماتے: ”اس حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اسے بھی اس کی گردن میں ڈالو۔“<sup>(۲)</sup>

## عالم کی ڈھال:

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فرمایا: جو لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنوں ہے۔<sup>(۳)</sup> اور لَا أَدْرِي (یعنی میں نہیں جانتا) عالم کی ڈھال ہے۔ کیونکہ اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

## عالم کی خاموشی شیطان کی بے ہوشی:

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا: شیطان پر اس عالم سے سخت کوئی چیز نہیں جو بعض علم بیان کرتا ہے اور بعض میں خاموش رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے: اس کی طرف دیکھو اس کی خاموشی مجھ پر اس کے بولنے سے زیادہ سخت ہے۔<sup>(۵)</sup>

①..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی، الحدیث: ۱۸، ج ۱، ص ۴۲۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب اعلم و تفضیله، المقام الثالث من الیقین، ج ۱، ص ۲۳۶، باختصار۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، کتاب العلم و تفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۸۔

③..... سنن الدارمی، المقدمة، باب فی الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی، الحدیث: ۱۸، ج ۱، ص ۴۳۔

المعجم الكبير، الحدیث: ۸۹۲۳، ج ۹، ص ۱۸۸۔

④..... الأمالی فی آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعانی الحدیث: ۱۶۲، ص ۱۰۴۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم: ۷۰۴، اسماعیل بن ابان، ج ۸، ص ۳۶۳، عن مالک بن انس۔

⑤..... جامع بیان العلم و فضلہ، باب جامع فی آداب العالم و المتعلم الحدیث: ۵۶۳، ج ۱، ص ۱۷۱، بتغر۔

قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، کتاب اساس المریدین، ج ۱، ص ۱۷۲۔

بعض علما نے ابدال کا تعارف کرواتے ہوئے کہا: ان کا کھانا فاقہ (کے وقت)، ان کی نیند غلبے (کے وقت) اور ان کا کلام ضرورت (کے وقت) ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup> یعنی جب تک ان سے پوچھا نہ جائے وہ خاموش رہتے ہیں اور جب پوچھا جائے اور انہیں کوئی دوسرا جواب دینے والا مل جائے تو بھی بات نہیں کرتے اور جب مجبور ہوں تب جواب دیتے ہیں اور وہ سوال سے پہلے بولنا شروع کر دیئے کو کلام کی خفیہ شہوت شاکر کرتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو وعظ کر رہا تھا۔ دونوں نے فرمایا: ”یہ کہتا ہے مجھے پہچانو۔“<sup>(۲)</sup> بعض بزرگوں نے فرمایا: ”عالم تو وہ ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اسے ایسا لگے جیسے اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے۔“<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”تم لوگ ہمیں پل بنا کر اس سے گزر کر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو۔“<sup>(۴)</sup>

حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: ”عالم وہی ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کہاں سے جواب دیا۔“<sup>(۵)</sup> حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو رونے لگتے اور فرماتے: ”تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جو تمہیں میری ضرورت پڑ گئی۔“

حضرت سیدنا ابو عالیہ ریاحی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالیٰ دو تین یا چند لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے تھے اور جب لوگوں زیادہ ہو جاتے تو واپس چلے جاتے تھے۔

## زمین کا بہترین اور بدترین حصہ:

معلم کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے نہیں معلوم کہ عزیر نبی تھے یا

①..... قوت القلوب، الفصل الرابع عشر، فی ذکر تقسیم قیام اللیل..... الخ، ج، ص ۴۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء دنیا..... الخ، ج، ص ۲۶۶۔

③..... المرجع السابق۔ ④..... المرجع السابق۔ ⑤..... المرجع السابق۔



نہیں؟ میں (اپنے علم سے) نہیں جانتا کہ تع لعنتی ہے یا نہیں؟ اور میں (اپنے علم سے) نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں؟“ (۱) اور جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے زمین کے سب سے بہتر اور بدتر حصے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ”میں (اپنے علم سے) نہیں جانتا۔“ یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَام حاضر خدمت ہوئے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان سے پوچھا انہوں نے عرض کی: ”میں نہیں جانتا۔“ یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو خبر دی کہ زمین کا بہترین حصہ مساجد اور بدترین حصہ بازار ہیں۔“ (۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے دس مسائل پوچھے جاتے تو آپ ایک کا جواب دیتے اور نو کے بارے میں خاموشی اختیار فرماتے۔ (۳)

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کا جواب دیتے اور ایک کے بارے میں سکوت فرماتے۔ (۴)

نیز ایسے فقہا بھی ہیں جو اَدْرِي (یعنی میں جانتا ہوں) سے زیادہ لَا اَدْرِي (یعنی میں نہیں جانتا) کہا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا امام مالک بن انس، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بھی انہی میں سے ہیں۔

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ کہتے ہیں: ”میں نے اس مسجد میں 120 صحابہ کرام رِضْوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کو پایا جب ان میں سے کوئی کسی سے حدیث یا مسئلہ پوچھتا تو وہ پسند کرتے کہ ان کا بھائی اس میں کفایت کرے۔“ (۵) دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ”جب ان میں سے کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ اسے دوسرے کی طرف بھیج دیتے، وہ آگے دوسرے کی طرف یہاں تک کہ وہ پھر پہلے کے پاس آجاتا۔“ (۶)

①.....سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی التخییر بین الانبیاء، الحدیث ۴۶۷۷، ج ۴، ص ۲۸۸۔

جامع بیان العلم وفضلہ، باب ما یلزم العالم اذا سئل عما لا یدریہ من وجوہ العلم، الحدیث ۸۸۵-۸۸۳، ص ۳۱۱۔

②.....جامع بیان العلم وفضلہ، باب ما یلزم العالم اذا سئل عما لا یدریہ من وجوہ العلم، الحدیث ۸۸۳، ص ۳۱۰۔

المستدرک، کتاب العلم، باب خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، الحدیث ۳۱، ج ۱، ص ۲۷۹۔

③.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیلہ، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۸۔

④.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیلہ، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۸۔

⑤.....المرجع السابق۔

⑥.....المرجع السابق۔

## ایثارِ صحابہ:

مروی ہے کہ ”اصحابِ صفہ میں سے کسی کو بھنا ہوا سر پیش کیا گیا تو سخت فاقہ سے ہونے کے باوجود دوسرے کو ہدیہ کر دیا اور انہوں نے آگے ہدیہ کر دیا یوں وہ ان کے درمیان گھومتا رہا یہاں تک کہ پھر پہلے کے پاس آ گیا۔“

لہذا تم دیکھو کہ اب علما کا معاملہ کیسے الٹ ہو گیا ہے کہ جس سے بھاگنا چاہئے اسے طلب کیا جاتا ہے اور جسے طلب کرنا چاہئے اس سے بھاگا جاتا ہے۔ فتویٰ دینے سے احتراز کرنا اچھا ہے اس پر یہ مسند روایت شاہد ہے۔ چنانچہ، حضورِ اکرم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تین قسم کے لوگ ہی فتویٰ دیتے ہیں (۱)..... حاکم (۲)..... یا اس کا نائب (۳)..... یا تکلف کرنے والا۔“ (۱)

صحابہ کرام رَضُوْا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ چار چیزوں سے بچا کرتے تھے: ”(۱)..... حکمرانی سے (۲)..... وصی بننے سے (۳)..... امانت رکھنے سے اور (۴)..... فتویٰ دینے سے۔“ (۲)

بعض اکابرین نے کہا کہ ”وہ شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جلدی کرتا ہے جس کے پاس علم کم ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی زیادہ کوشش وہ کرتا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔“ (۳)

## صحابہ کرام عَلَیْہِمْ الرِّضْوَانُ کے پسندیدہ کام:

صحابہ کرام و تابعین عظام رَضُوْا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ پانچ چیزوں میں مشغول رہتے تھے: ”(۱)..... تلاوتِ قرآن (۲)..... مساجد کی آباد کاری (۳)..... ذِکْرُ اللہ (۴)..... نیکی کی دعوت دینا اور (۵)..... برائی سے منع کرنا۔“ (۴) اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ فرمانِ مصطفیٰ سن رکھا تھا کہ ”ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے سوائے تین کے: (۱)..... نیکی کی دعوت دینا (۲)..... برائی سے منع کرنا اور (۳)..... ذِکْرُ اللہ کرنا۔“ (۵)

اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۲۸۔

②..... المرجع السابق، ص ۲۲۹، بتغییر۔ ③..... المرجع السابق، ص ۲۲۹۔ ④..... المرجع السابق، ص ۲۲۹۔

⑤..... سنن الترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۴۲، ج ۴، ص ۱۸۵۔

قوت القلوب، الفصل الحادی، والثلاثون: کتاب العلم وتفضیله، ذکر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۲۹۔

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ  
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط

ترجمہ کنز الایمان: ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں  
مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔

(پ، ۵، النساء: ۱۱۴)

ایک عالم صاحب نے کوفہ کے ایک مجتہد کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”تم جو فتویٰ دیتے اور رائے سے کام لیتے تھے اس کے بارے میں کیا دیکھا؟“ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے رخ پھیر لیا اور بتایا کہ ”ہم نے اسے کچھ بھی نہیں پایا اور اس کا انجام اچھا نہیں پایا۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابو حنین رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”موجودہ علما میں سے کوئی ایسے مسئلے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر وہ مسئلہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ اس کے لئے تمام اہل بدر کو جمع فرماتے۔“ (۲)

بہر حال بغیر ضرورت کے نہ بولنا ہمیشہ سے علما کی عادت رہی ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ ”جب تم کسی کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور دنیا سے بے رغبتی عطا ہوئی ہے تو اس کے قریب جاؤ کیونکہ اسے حکمت سکھائی گئی ہے۔“ (۳)

## عام و خاص عالم میں فرق:

منقول ہے کہ عالم یا تو عام عالم ہوتا ہے اور یہ مفتی ہے یہ لوگ حکمرانوں کے مصاحب ہوتے ہیں یا پھر وہ خاص عالم ہوتا ہے یہ وہ ہے جو اعمالِ قلب اور توحید کا عالم ہوتا ہے یہ لوگوں سے الگ تھلگ اور تہارتہتے ہیں۔ (۴)

## دریائے دجلہ اور میٹھے کنوئیں کی مانند:

کہا جاتا تھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل کی مثال دریائے دجلہ جیسی ہے جس سے ہر ایک

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: كتاب العلم و تفضيله، ذكر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۲۹۔

②..... المرجع السابق، ص ۲۳۰۔ تاريخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۴۶۰، عثمان بن عاصم بن حصين، ج ۳، ص ۴۱۱۔

③..... سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، الحديث: ۴۱۰، ج ۴، ص ۴۲۲۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: كتاب العلم و تفضيله، ذكر فضل علم المعرفة..... الخ، ج ۱ ص ۲۳۱۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۵۔

چلو بھرتا ہے (۱) اور حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَافِي کی مثال بیٹھے کنوئیں جیسی ہے جو ڈھکا ہوا ہو لوگ اس کی طرف ایک ایک کر کے جاتے ہیں۔ (۲)

لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے، فلاں متکلم ہے، فلاں زیادہ کلام کرتا ہے اور فلاں زیادہ علم والا ہے۔ (۳)  
حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کہتے ہیں کہ معرفت کلام سے زیادہ سکوت کے قریب ہے۔ (۴)  
منقول ہے کہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے اور جب گفتگو زیادہ ہوتی ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ (۵)

### سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کو نصیحت:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو خط لکھا اور یہ دونوں ان میں سے ہیں جن کے درمیان حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ (۶) (خط کا مضمون کچھ اس طرح ہے:) اے میرے بھائی! میں نے سنا ہے کہ آپ طبیب بن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، غور کر لیں اگر آپ واقعی طبیب ہیں تو اس کے متعلق کلام کریں، آپ کے کلام میں شفا ہوگی اور اگر بتکلف طبیب بنے ہیں تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریں کہ کہیں کسی مسلمان کی جان نہ لے لیں۔ (۷) اس کے بعد جب حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے کچھ پوچھا جاتا تو توقف فرماتے۔

### فلاں سے پوچھو:

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے: ”ہمارے آزاد کردہ غلام حسن بصری سے

پوچھو۔“ (۸)

- ①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۴۵۔
  - ②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق۔ ④..... المرجع السابق۔ ⑤..... المرجع السابق، مختصراً۔
  - قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، کتاب اساس المریدین، ج، ص ۱۷۲، ”العلم“ بدله ”العقل“۔
  - ⑥..... صحیح البخاری، کتاب الادب، باب صنع الطعام والتکلف للضيف، الحدیث: ۶۱۳، ج ۱، ص ۱۳۷۔
  - ⑦..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۵۴۔
  - ⑧..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزهد، باب ما قالوا فی البکاء من خشية اللّٰه، الحدیث: ۷، ج ۸، ص ۳۰۶۔
- الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۳۰۵ الحسن بن ابی الحسن، ج، ص ۱۳۰۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے: ”حارثہ بن زید سے پوچھو۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے: سعید بن مسیب سے پوچھو۔“ (۲)

منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کی موجودگی میں ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے 20 احادیث بیان فرمائیں۔ ان سے اس کی شرح پوچھی گئی تو فرمایا: ”میرے پاس وہی تھا جو میں نے بیان کر دیا ہے۔“ پھر حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے ایک ایک حدیث کی شرح بیان کی تو لوگ ان کی عمدہ شرح اور ان کے حافظے سے حیران ہو گئے۔ تو صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر لوگوں کو ماریں اور فرمایا:

”تم مجھ سے علم کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان یہ بڑے عالم موجود ہیں۔“ (۳)

﴿7﴾..... علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایسا عالم علم باطن، دل کی نگرانی، راہِ آخرت اور اس پر چلنے کی کیفیت کو جاننے کی زیادہ کوشش کرے۔ مجاہدہ و مراقبہ کے ذریعے اس کے انکشاف کی سچی امید رکھے کیونکہ مجاہدے کے ذریعے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اور علوم قلب کی باریکیوں سے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کتابیں اور تعلیم اس میں کام نہیں آتیں بلکہ حکمت تو شمار سے باہر ہے جو محض مجاہدے و مراقبہ، ظاہری و باطنی اعمال بجالانے اور تنہائی میں حضورِ قلب اور صاف فکر و سوچ کے ساتھ مَسْوَى اللّٰهِ سے بے تعلق ہو کر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے حضور حاضر ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ الہام کی چابی اور کشف کا منبع ہے۔ کتنے ہی طالب علم ایسے ہیں جو عرصہ دراز تک علم سیکھتے رہے مگر سنے ہوئے ایک کلمہ سے آگے بڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور کتنے ایسے ہیں کہ علم سیکھنے میں کوتاہ ہیں لیکن علم اور مراقبہ بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ان کے لئے حکمت کے ایسے اسرار کھول دیتا ہے کہ عقلمندوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اسی لئے سردارِ مکہ مکرمہ، سلطانِ مدینہ منورہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو۔“ (۴)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۵۴، ”حارثہ بن زید“ بدلہ ”جابر بن زید“۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۴۔

③..... المرجع السابق، ص ۲۵۴-۲۵۵۔

④..... حلیۃ الاولیاء، احمد بن ابی الحواری، الحدیث ۱۲۳، ج ۱، ص ۱۳۔

## علم تو تمہارے دلوں میں ہے:

بعض سابقہ کتب میں لکھا ہے کہ ”اے بنی اسرائیل! یہ نہ کہو کہ علم آسمان پر ہے اسے کون زمین پر اُتارے گا، نہ یہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے اسے اوپر کون لائے گا، نہ یہ کہو کہ سمندر کے اس پار ہے سمندر عبور کر کے اسے کون لائے گا بلکہ علم تمہارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ میرے سامنے روحانی آداب سیکھو اور صالحین کے اخلاق اپناؤ میں تمہارے دلوں میں اتنا علم ڈال دوں گا جو تمہیں ڈھانپ لے گا۔“ (۱)

حضرت سپیدناہل بن عبداللہ تستری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: علماء، عابدین اور زاہدین دنیا سے چلے گئے اور ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں، صرف صدیقین اور شہداء کے دل کھلے ہیں۔ (۲)

پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ  
ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔ (پ: ۷، الانعام: ۵۹)

اور اگر اہل قلوب کے دلوں کا ادراک باطنی نور کے ساتھ علم ظاہر پر حاکم نہ ہوتا تو رسول اللہ صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ نہ فرماتے کہ ”اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ تمہیں کچھ بھی فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تمہیں کچھ بھی فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تمہیں کچھ بھی فتویٰ دیں۔“ (۳)

## قرب الہی کے جلوے:

نیز حضور نبی کریم صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے کہ ”بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیله، ج، ص ۲۳۸، بتغیر قلیل۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۶۲۔

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث وابصہ بن معبد، الحدیث: ۱۸۰۴، ج ۶، ص ۲۹۳۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۶۲۔

بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا جسے میں کرتا ہوں۔ میں کسی کام کے کرنے میں کبھی اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح جان مومن قبض کرتے وقت تردد کرتا ہوں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے مکروہ سمجھنے کو برا جانتا ہوں۔“ (۱) (۲)

①..... صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، الحدیث ۶۵۰۴، ج ۴، ص ۲۴۸۔

②..... ولی اللہ وہ بندہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ والی وارث ہو گیا کہ اُسے ایک آن کے لیے بھی اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ خود اس سے نیک کام لیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے: **وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ** (پ ۹، الاعراف: ۱۹۶) اور وہ بندہ ہے جو خود رب تعالیٰ کی عبادت کا متولی ہو جائے، پہلی قسم کے ولی کا نام مجذوب یا مراد ہے اور دوسرے کا نام سالک یا مرید ہے وہاں ہر مراد مرید ہے اور ہر مرید مراد فرق صرف ابتداء میں ہے یہ مقام قال سے وراء ہے حال سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جو میرے ایک ولی کا دشمن ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کو تیار ہو جائے خدا کی پناہ، یہ کلمہ انتہائی غضب کا ہے صرف دو گنا ہوں پر بندے کو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا گیا ہے، ایک سو خواری، دوسرے دشمن اولیاء، رب تعالیٰ فرماتا ہے: **فَاذْذُرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَسَأُولِهِ** (پ ۳، البقرة: ۲۷۹)۔ علماء فرماتے ہیں کہ ولی کا دشمن کا فر ہے اور اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ (مرقات) خیال رہے کہ ایک ہے ولی اللہ سے اس لیے عداوت و عناد کہ ولی اللہ ہے یہ تو کفر ہے اسی کا یہاں ذکر ہے اور ایک ہے کسی ولی سے اختلاف رائے یہ نہ کفر ہے نہ فسق لہذا اس حدیث کی بنا پر یوسف عَلِيهِ السَّلَام کے بھائی اور وہ صحابہ جن کی آپس میں لڑائیاں رہیں ان کو برا نہیں کہا جاسکتا کہ وہاں اختلاف رائے تھا عداوت نہ تھا، عداوت و اختلاف میں بڑا فرق ہے، اس کے لیے ہماری کتاب امیر معاویہ دیکھئے حتیٰ کہ حضرت سارا کو اس بنا پر برا نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے حضرت باجرہ و اسمعیل عَلِيهِمَا السَّلَام کی مخالفت کی، اس لیے یہاں عداوی فرمایا مخالف نہ فرمایا اور ولی و لیا فرمایا ولی اللہ نہ فرمایا۔ مجھ تک پہنچنے کے بہت ذریعہ ہیں، مگر ان تمام ذرائع سے زیادہ محبوب ذریعہ ادائے فرائض ہے اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرائض کے بغیر نوافل قبول نہیں ہوتے ان کی ماخذ یہ حدیث ہے افسوس ان لوگوں پر جو فرض عبادات میں سستی کریں اور نوافل پر زور دیں اور ہزار افسوس ان پر جو بھنگ، چرس، حرام گانے بجانے کو خدا سی کا ذریعہ سمجھیں نماز روزے کے قریب نہ جائیں۔ بندہ مسلمان فرض عبادات کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ میرا پیارا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرائض و نوافل کا جامع ہوتا ہے (مرقات) اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض چھوڑ کر نوافل ادا کرے محبت سے مراد کامل محبت ہے۔ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کونکہ میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالیٰ حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے بلکہ اس کے چند مطلب ہیں ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے ہمیشہ ان سے نیک کام ہی سرزد ہوتے ہیں اس پر عبادات آسان ہوتی ہیں گویا ساری عبادتیں اس سے میں کر رہا ہوں یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے ہر چیز.....

قرآن حکیم کے اسرار میں سے کتنے ہی دقیق معانی ایسے ہیں جو ان لوگوں کے دلوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو ذکر و فکر کے لئے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، کتب تفسیر ان معانی سے خالی ہیں اور بڑے درجے کے مفسرین بھی ان پر مطلع نہیں ہوتے۔ جب کسی مراقبہ کرنے والے سالک پر یہ معانی منکشف ہوئے اور یہ معانی اس نے مفسرین کو پیش کئے تو انہوں نے اس کی تحسین کی اور جان لیا کہ یہ پاکیزہ دل والوں اور بلند ہمت لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا لطف و کرم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہے۔ اسی طرح علوم مکاشفہ، علوم معاملہ کے اسرار اور دلوں پر گزرنے والے خطرات کی

..... میں مجھ دیکھتا ہے ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے، یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے وراہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیص یوسفی کی خوشبو سونگھ لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلہ سے چیونٹی کی آواز سن لی حضرت آصف بر خیانے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لاکر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہادند تک اپنی آواز پہنچادی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات مچشم ملاحظہ فرمالیے۔ یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں آج نار کی طاقت سے ریڈیو تار، وائرلیس ٹیلی ویژن عجیب کرشمے دکھا رہے ہیں تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو طاقت اولیاء کے منکر ہے، بعض صوفیاء جوش میں سبحانی ما اعظم شانی کہہ گئے۔ وہ بندہ مقبول الدعاء بن جاتا ہے کہ مجھ سے خیر مانگے یا شر سے پناہ میں اس کی ضرورت نہ ہوں معلوم ہوا کہ اولیاء رب تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں تو جو شخص ان سے دعا کرائے اس کی قبول ہوگی اور جو ان کی پناہ میں آئے وہ رب کی پناہ میں آجائے گا۔ سبحان اللہ! کیا ناز و انداز والا کلام ہے یعنی میں رب ہوں اور اپنے کسی فیصلہ میں کبھی نہ توقف کرتا ہوں نہ تامل، جو چاہوں حکم کروں، مگر ایک موقع پر ہم توقف و تامل فرماتے ہیں وہ یہ کہ کسی ولی کا وقت موت آجائے اور وہ ولی ابھی مرنا نہ چاہے تو ہم اسے فوراً نہیں ماردیتے بلکہ اسے اولاً موت کی طرف مائل کر دیتے ہیں جنت اور وہاں کی نعمتیں اسے دکھا دیتے ہیں اور بیماریاں پریشانیوں اس پر نازل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے اور آخرت کا مشتاق پھر وہ خود آنا چاہتا ہے اور خوش خوش ہنستا ہوا ہمارے پاس آتا ہے، یہاں تردد کے معنی حیرانی پریشانی نہیں کہ وہ بے علمی سے ہوتی ہے رب تعالیٰ اس سے پاک ہے بلکہ مطلب وہ ہے جو فقیر نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس حدیث کی تفسیر ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیائے کرام کو موت و زندگی کا اختیار دیا جاتا ہے وہ حضرات اپنے اختیار سے خوشی خوشی موت قبول کرتے ہیں اور یار خنداں رود بجانب یار کا ظہور ہوتا ہے۔ غرضیکہ ہماری موت تو چھوٹے کا دن ہے اور اولیاء انبیاء کی وفات پیاروں سے ملنے کا دن اسی لیے ان کی موت کے دن کو عرض یعنی شادی کا دن کہا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ مشیت، رضا کراہت میں بہت فرق ہے بعض چیزیں رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں مگر ان کا ارادہ ہے بعض چیزیں پسند ہیں مگر ان کا ارادہ نہیں۔

(مرآة المناجیح، ج ۳، ص ۳۰۸ تا ۳۱۰، مخلصاً)



باریکوں کا معاملہ ہے۔ کیونکہ ان علوم میں سے ہر علم ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کو نہیں پہنچا جاسکتا۔ اس میں ہر طالب اتنا ہی غوطہ زن ہوتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا اور جس قدر اسے حسن عمل کی توفیق ہوتی ہے۔

## علماء زندہ رہتے ہیں:

علماء کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک طویل حدیث پاک میں فرمایا کہ ”دل برتنوں کی مانند ہیں اور ان میں بہترین وہ ہیں جن میں زیادہ بھلائی جمع ہے۔ لوگ تین قسم کے ہیں: (۱) عالم ربانی (۲) راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳) بے وقوف اور معمولی درجے کے لوگ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ جھک جاتے ہیں، نورِ علم سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی مضبوط سہارا لیتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ علم، دین ہے اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے زندگی میں اطاعت کی جاتی اور بعد وصال یہ ذکرِ خیر کا ذریعہ ہے۔ علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم۔ مال ختم ہونے سے اس کی منفعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مال جمع کرنے والے مر جاتے ہیں جبکہ علماء کا ذکر زندہ رہتا ہے جب تک زمانہ باقی ہے۔“ (۱)

پھر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لمبا سانس لیا اور سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہاں بہت علم ہے۔ کاش! مجھے کوئی ایسا مل جاتا جو اسے اٹھا سکتا، میں ایسا طالب پاتا ہوں جو با اعتماد نہیں، وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے اولیا پر زبانِ طعن دراز کرتا اور اس کی مخلوق پر جھٹ بازی کر کے غالب آتا ہے یا اہل حق پر تنقید کرتا ہے لیکن اس کے دل میں پہلا شبہ وارد ہوتے ہی شک جم جاتا ہے۔ اسے کوئی بصیرت حاصل نہیں ہوتی نہ یہ وہ یا وہ لڈا کا غلام اور خواہشات کی قید میں بند ہے۔ یا اموال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے سے دھوکا کھانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے اور ان دونوں کاموں میں وہ چرنے والے جانوروں کے مشابہ ہے۔ اسی طرح جب علم کے محافظ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا یونہی علم فوت ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے حجت قائم کریں بلکہ یا تو وہ ظاہر مشہور ہوتے ہیں یا پوشیدہ اور چھپے ہوئے تاکہ

①..... حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، الرقم ۲۴، ج ۱، ص ۱۲۱، بتغییرِ قلیل۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جتیں اور دلائل باطل نہ ہوں۔ وہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہیں لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے وہ ظاہری طور پر مفقود ہوتے ہیں مگر ان کی مثالیں دلوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ذریعے اپنے دلائل کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ ان دلائل کو اپنے بعد والوں کے حوالے کریں اور ان کے دلوں میں انہیں محفوظ اور پختہ کریں۔ علم نے انہیں معاملے کی حقیقت تک پہنچا دیا تو یہ یقین کی روح سے جا ملے اور انہوں نے ان امور کو نرم پایا جنہیں خوشحال لوگ سخت پاتے اور غافل لوگ وحشت کھاتے ہیں۔ یہ اس سے مانوس ہو گئے اور ان ہستیوں کی ارواح کے ساتھ مل کر دنیا کی مصاحبت اختیار کی جو کہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ مخلوق میں سے یہی لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا ہیں، اس کے امین، زمین میں اس کے عمال اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔“  
یہ فرمانے کے بعد آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رُونِ لَگے پھر فرمایا: ”ان لوگوں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔“ (۱)

آخر میں ذکر کی گئی نشانی علمائے آخرت کی علامت ہے اور یہ وہی علم ہے جس کا اکثر عمل اور مجاہدہ پر ہمیشگی اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

## یقین کی اہمیت و فضیلت:

حضور نبی کریم، رَأَوْفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”یقین مکمل ایمان ہے۔“ (۲)  
لہذا علم یقین کی ابتدائی باتوں کا سیکھنا ضروری ہے پھر دل کے لئے اس کا راستہ کھل جائے گا۔  
اسی وجہ سے پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تَعَلَّمُوا الْيَقِينَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَلْبِكُمْ“ (۳)  
اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم یقین کی سماعت اور ان کی اقتدا پر ہمیشگی اختیار کرو تا کہ تمہارا یقین بھی اسی طرح قوی ہو جائے جس طرح ان کا یقین قوی ہے اور تھوڑا یقین زیادہ عمل سے بہتر ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون: كتاب العلم و تفضيله، ذكر فضل علم المعرفة، ج ۱ ص ۲۳۲۔

حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، الرقم ۲۳۳، ج ۱، ص ۱۲۱، بتغییر قلبیل۔

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، الحدیث: ۹۷۱، ج ۷، ص ۱۲۳۔

③..... حلیۃ الاولیاء، ثور بن یزید، الحدیث ۷۹۵، ج ۶، ص ۹۹۔

موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، كتاب اليقين، الحدیث، ج ۱، ص ۲۲۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضور نبی رحمت، شفیع امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ”ایک شخص کا یقین اچھا ہے مگر وہ گناہ بکثرت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں کوشش بہت کرتا ہے لیکن اس کا یقین تھوڑا ہے۔“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”(انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے علاوہ) ہر شخص کے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔“ (۱)

لیکن عقل جس کی قوت اور عادت جس کا یقین ہو اسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ جب کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ توبہ واستغفار کرتا اور شرمندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور توبہ واستغفار سے اس کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے جس کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

اسی لئے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کا قلیل ترین یقین اور صبر پر چٹکتی ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصہ ملا اسے رات کے قیام اور دن کے روزوں کے فوت ہونے کی کوئی پروا نہیں۔“ (۲)

حضرت سپیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے بیٹے! عمل کی استطاعت یقین سے حاصل ہوتی ہے اور آدمی اپنے یقین کے مطابق ہی عمل کرتا ہے اور عمل میں کمی اس وقت کرتا ہے جب اس کا یقین ناقص ہو جاتا ہے۔“ (۳)

## نورِ توحید اور شرک کی آگ:

حضرت سپیدنا یحییٰ بن معاذ رازی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرماتے ہیں: ”بے شک توحید کے لئے ایک نور اور شرک کے لئے ایک آگ ہے۔ نورِ توحید مؤمنین کے گناہوں کو اس سے زیادہ جلاتا ہے جتنا شرک کی آگ مشرکین کی نیکیوں کو جلاتی ہے۔“ (۴)

نورِ توحید سے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی مراد یقین ہے۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے قرآن مجید میں اہل یقین کا ذکر کثیر مقامات پر فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یقین بھلائیوں اور سعادتوں کے درمیان رابطہ ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون: کتاب العلم و تفضیله، المقام الثالث من الیقین، اج ۵ ص ۲۳۔

②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق، یتغیر۔ ④..... المرجع السابق۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ یقین اور اس کے قوی و ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھو پہلے یقین کو سمجھنا پھر اسے طلب کرنا اور سیکھنا ضروری ہے کیونکہ جس چیز کا پتہ نہ ہو اسے طلب کرنا ممکن نہیں۔ لہذا جان لو کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے جسے دونوں فریق (یعنی فقہاء متکلمین) دو مختلف معانی کے لئے بولتے ہیں۔

## یقین کے متعلق متکلمین کی اصطلاح:

مناظرین اور متکلمین یقین کو عدم شک سے تعبیر کرتے ہیں اس لئے کسی شے کی تصدیق کی طرف نفس کے میلان کے چار احوال ہیں:

﴿1﴾..... تصدیق اور تکذیب کا برابر ہونا ہے اس حالت کو شک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال: جب تم سے کسی شخص معین کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کو عذاب دے گا یا نہیں اور تمہیں اس کا حال معلوم نہ ہو تو تمہارا نفس اس کے بارے میں اثبات یا نفی کا حکم لگانے کی طرف مائل نہ ہوگا بلکہ تمہارے نزدیک دونوں باتوں کا امکان برابر ہوگا اسی کا نام شک ہے۔

﴿2﴾..... تمہارا نفس دو باتوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو حالانکہ اس کی نقیض (خلاف) کے ممکن ہونے کا شعور رکھتا ہو لیکن یہ امکان پہلی بات کے امکان کی ترجیح کو مانع نہ ہو۔ مثال: تم سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جائے جس کی نیک نامی اور پرہیزگاری تم خاص طور پر جانتے ہو کہ اگر وہ اسی حالت پر مرمجائے تو کیا اسے عذاب ہوگا تو تمہارا نفس اسے عذاب ہونے سے زیادہ اس بات کی طرف مائل ہوگا کہ اسے عذاب نہیں ہوگا اور یہ علامات نیکی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے باوجود تم اس بات کو ممکن مانتے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی باطنی معاملہ ایسا ہو جس کی وجہ سے اسے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے۔ یہ امکان نفس کے اس میلان کے مساوی ہے تاہم پہلے امکان کی طرف رجحان کو دفع نہیں کرتا۔ اسی حالت کا نام ظن رکھا جاتا ہے۔

﴿3﴾..... تمہارا نفس کسی شے کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ نفس پر غالب آجائے اور دل میں اس کے غیر کا خیال تک نہ گزرے اور اگر خیال آئے بھی تو نفس اسے قبول کرنے سے انکار کر دے لیکن یہ تصدیق معرفت حقیقی

کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ اگر اس حالت سے دوچار شخص اچھی طرح غور و فکر کرے اور تشکیک و تجویز (شک و جواز) کی طرف توجہ کرے تو اس کے نفس میں تجویز (جواز) کی گنجائش نکل آئے گی۔ اس حالت کو یقین کے قریب اعتقاد کا نام دیا جاتا ہے اور یہ عوام کا تمام شرعی مسائل میں اعتقاد ہے کیونکہ یہ اعتقاد ان کے دلوں میں محض سننے سے ہی راسخ ہو گیا یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونے، اپنے امام اور متبوع (پیشوا) کے درست ہونے پر وثوق (یقین) رکھتا ہے اور اگر ان میں سے کسی کے پاس اس کے امام کی غلطی کا امکان ذکر کیا جائے تو وہ اسے تسلیم نہیں کرتا۔

﴿4﴾..... معرفت حقیقیہ جو ایسی دلیل سے حاصل ہو جس میں کوئی شک بلکہ شک کا تصور بھی نہ ہو اور جب شک کا پایا جانا اور اس کا امکان ممنوع ہو تو متکلمین اسے یقین کا نام دیتے ہیں۔ مثال: جب کسی عقل مند سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو قدیم ہو؟ تو اس کے لئے فوری طور پر اس کی تصدیق کرنا ممکن نہیں اس لئے کہ قدیم کو محسوس نہیں کیا جاسکتا کہ وہ چاند سورج کی طرح نہیں کیونکہ ان دونوں کے پائے جانے کی تصدیق حس کے ذریعے ہوتی ہے۔ کسی قدیم شے کے وجود کا علم ازلٰی اور بدیہی نہیں جیسے اس بات کا علم کہ دو ایک سے زیادہ ہے اور اس علم کی طرح بھی نہیں کہ کسی حادث کا بغیر سبب کے پیدا ہونا محال ہے کہ یہ بھی بدیہی ہے۔ لہذا عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ وہ قدیم کے وجود کی تصدیق کو غور و فکر کے طریقہ پر موقوف کرے۔ پھر لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اس بات کو سنتا ہے اور سن کر تصدیق کر دیتا اور اسی پر قائم رہتا ہے یہ اعتقاد ہے اور یہ تمام عوام کا حال ہے۔ کوئی وہ ہے جو اس کی دلیل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے اور وہ یہ کہ اس سے کہا جائے کہ اگر وجود میں کوئی قدیم نہیں تو تمام موجودات حادث ہوں گی اور اگر تمام موجودات حادث ہیں تو پھر وہ تمام یا ان میں سے بعض بغیر کسی سبب کے حادث ہیں، یہ محال ہے اور محال تک پہنچانے والا بھی محال ہوتا ہے۔ پس عقلی طور پر ضرورتاً کسی قدیم شے کے وجود کی تصدیق لازم ہوئی اس لئے کہ موجودات کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... تمام موجودات قدیم ہیں (۲)..... تمام حادث (۳)..... کچھ قدیم اور کچھ حادث ہیں۔ اگر تمام موجودات قدیم ہوں تو مطلوب حاصل ہو جائے گا اس لئے کہ اس طرح قدیم کا وجود ثابت ہوگا اور اگر تمام حادث ہوں تو یہ محال ہے کیونکہ یہ بغیر سبب کے حدوث کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا تیسری یا پہلی قسم ثابت ہوگی اور وہ تمام علوم جو اس طرح حاصل ہوں انہیں متکلمین یقین کا نام دیتے ہیں خواہ وہ نظر و فکر سے حاصل ہوں جیسا کہ ہم اس کے متعلق ذکر کر آئے یا جس سے حاصل ہوں یا عقل سلیم سے جیسا کہ اس بات کا علم کہ حادث کا بغیر کسی سبب

کے ہونا محال ہے یا تو اتر کے ذریعے حاصل ہو جیسے شہر مکہ مکرمہ کے وجود کا علم یا تجربہ سے حاصل ہو جیسا کہ اس بات کا علم کہ پکا ہوا سقمونیا دست آور ہے یا دلیل سے حاصل ہو جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

**خلاصہ:** متکلمین کے نزدیک لفظ یقین کا اطلاق عدم شک کے وقت ہوتا ہے۔ لہذا ہر وہ علم جس میں شک نہ ہو متکلمین کے نزدیک وہ یقین ہے اس بنیاد پر یقین ضعف کے ساتھ متصف نہیں ہوتا کیونکہ شک کی نفی میں تفاوت نہیں۔

### یقین کے متعلق فقہاء و صوفیہ کی اصطلاح:

فقہائے کرام، صوفیائے عظام اور اکثر علمائے دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیِّن کی مراد یہ ہے کہ یقین میں تجویز اور شک کے اعتبار کرنے کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے بلکہ عقل پر اس کے استیلا اور غلبہ کی طرف دھیان دیا جائے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ”فلاں شخص کا موت پر یقین کمزور ہے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں۔“ نیز کہا جاتا ہے کہ ”فلاں شخص کو رزق ملنے پر بڑا یقین ہے حالانکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کبھی اسے رزق نہ ملے۔“

**خلاصہ:** توجہ کبھی دل کسی شے کی تصدیق کی طرف مائل ہو اور یہ میلان اس کے دل پر اتنا غالب آجائے اور دل کو اتنا گھیر لے کہ یہ نفس میں کسی چیز کے امکان و منع (یعنی ہونے یا نہ ہونے) کا حکم لگانے والا اور تصرف کرنے والا ہو جائے تو اسے یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگ موت کے یقینی ہونے اور اس میں شک کے نہ ہونے میں برابر ہیں اس کے باوجود ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور نہ موت کی تیاری کرتے ہیں گویا انہیں موت کا یقین نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل پر موت کی فکر قابض ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کی ساری ہمت موت کی تیاری ہی میں صرف ہوتی ہے اور موت کی تیاری میں وہ اپنے غیر کے لئے کچھ گنجائش نہیں چھوڑتے۔ اس حالت کو قوت یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ ”جس یقین میں تو شک کو نہ پائے وہ اس شک کی مثل ہے جس میں یقین نہ ہو جیسے موت۔“<sup>(۱)</sup>

اس اصطلاح کی بنیاد پر یقین ضعف اور قوت سے متصف ہو سکتا ہے اور ہمارے اس قول کہ ”علمائے آخرت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قوت، یقین پختہ کرنے میں صرف کرتے ہیں“ سے دونوں معنی مراد ہیں اور وہ یہ کہ شک کی نفی پھر یقین

①..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، کتاب الیقین، الحدیث ۴، ج ۱، ص ۴۰۔

حلیۃ الاولیاء، سلمۃ بن دینار، الرقم ۳۹۲، ج ۳، ص ۲۶۹، بتغیر قلیل۔

کو نفس پر مسلط کرنا یہاں تک کہ وہ اس پر غالب آجائے اور نفس پر حکم لگانے والا اور اس میں تصرف کرنے والا ہو جائے۔

## یقین کی اقسام:

اگر تم یہ سمجھ گئے ہو تو پھر یہ بھی جان گئے ہو گے کہ ہمارے قول کا مطلب یہ ہے کہ یقین تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے: (۱)..... قوت وضعف (۲)..... کثرت و قلت اور (۳) ظہور و خفا۔ قوت وضعف کے اعتبار سے اس کی تقسیم اصطلاح ثانی (فقہا کی اصطلاح) کے مطابق ہے اور اصطلاح ثانی دل پر غالب آنے کے اعتبار سے ہے اور قوت وضعف میں یقین کے معانی کے درجات بے انتہا ہیں۔ ان معانی کے اعتبار سے یقین کے تفاوت کے مطابق مخلوق موت کی تیاری میں بھی مختلف ہے۔ ظہور و خفا کے اعتبار سے یقین میں تفاوت پہلی (یعنی متکلمین کی) اصطلاح کے مطابق ہے۔ یقین کا قلیل اور کثیر ہونا اس کے متعلقات کے کثیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں سے زیادہ عالم ہے یعنی اس کی معلومات اس سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے کوئی عالم تمام شرعی مسائل میں قوی یقین والا ہوتا ہے اور کوئی بعض مسائل میں قوی یقین رکھتا ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ میں یقین، اس کے قوی وضعیف، کثیر و قلیل، ظاہر و خفی ہونے کو شک کی نفی یا دل پر اس کے غلبہ پانے کے معنی سے سمجھ گیا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ یقین کے متعلقات اور اس کے جاری ہونے کا معنی کیا ہے اور کس میں یقین مطلوب ہے؟ کیونکہ میں اس بات کو جانے بغیر کہ یقین کن باتوں میں مطلوب ہے، اسے طلب کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جان لو انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ جو بھی احکام لے کر تشریف لائے ان تمام پر یقین رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ یقین خاص معرفت کا نام ہے جو ان معلومات سے متعلق ہے جو شریعت میں وارد ہوئی ہیں، انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا تاہم میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا جو ان تمام کی اصل ہیں۔

(۱)..... توحید: اور وہ یہ ہے کہ سب چیزیں مسبب الاسباب (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کی طرف سے جانی جائیں اور اسباب کی طرف دھیان نہ دیا جائے بلکہ اسباب کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ وہ تو خود مسخّر ہیں، ان کا اپنا کوئی حکم نہیں۔ پس اس بات کی تصدیق کرنے والا صاحب یقین ہے۔ جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سورج، چاند،

ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات اور ساری مخلوق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے اس طرح تابع ہے جس طرح قلم کا تب کے ہاتھ میں اور یہ کہ قدرتِ ازیلہ ہی تمام مخلوق کے صادر ہونے کا ذریعہ ہے تو اس کے دل پر توکل، رضا اور تسلیم کا غلبہ ہوگا اور وہ ایسا یقین والا ہوگا جو غضب، بغض و کینہ، حسد اور برے اخلاق سے بری ہوگا۔ یہ یقین کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

(۲)..... رزق کا ضامن اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے: اس پر یقین ہو کہ سب کے رزق کا ضامن اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (پ ۱۲، ہود: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔

اور اس بات کا یقین کہ اس کا رزق اسے مل کر ہی رہے گا اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ جب یہ یقین اس کے دل پر غالب آجائے گا تو وہ طلب میں شدت نہیں کرے گا، نہ تو اس کی حرص و خواہش بڑھے گی اور نہ ہی رزق کے فوت ہونے پر اسے افسوس ہوگا۔ اس یقین کے نتیجے میں تمام نیکیاں اور عمدہ اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔

(۳)..... اس بات کا یقین رکھنا کہ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا اور ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھے گا: اس سے ثواب و عذاب کا یقین مراد ہے حتیٰ کہ وہ ثواب کی طرف طاعات کی ایسی ہی نسبت جانے جیسے روٹی کی نسبت شکم سیری کی طرف ہے اور گناہوں کی نسبت عذاب کی طرف ایسے خیال کرے جیسے زہر اور سانپوں کی نسبت ہلاکت کی طرف ہے۔ چنانچہ، جس طرح وہ شکم سیری کے لئے روٹی حاصل کرنے پر حریص ہے اور اس کی کمی و زیادتی کا خیال رکھتا ہے اسی طرح تمام نیکیوں پر بھی حریص ہو تھوڑی ہوں یا زیادہ اور جس طرح زہر سے اجتناب کرتا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اسی طرح گناہوں سے بھی اجتناب کرے چاہے کم ہوں یا زیادہ، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ یقین پہلے معنی کے اعتبار سے عام ایمان والوں میں بھی پایا جاتا ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مقررین کے ساتھ خاص ہے۔ اس یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حرکات و سکنات اور خطرات کو اچھی طرح دیکھتا رہتا ہے، تقویٰ میں مبالغہ کرتا اور ہر قسم کی برائی سے



پچتا ہے۔ جب یقین غالب ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بہت زیادہ بچتا اور ہر وقت فرمانبرداری کے لئے تیار رہتا ہے۔

(۴)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر حال میں مطلع ہے: اس بات کا یقین کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر حال میں تجھ پر مطلع ہے، تیرے دل کے وسوسوں، پوشیدہ خطروں اور فکروں کو دیکھ رہا ہے اور معنی اول جو کہ ”عدم شک ہے“ کے اعتبار سے ہر مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے۔ بہر حال معنی ثانی جو کہ مقصود بھی ہے اور قلیل بھی یہ صرف صدیقین کے ساتھ خاص ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام معاملات میں ادب کو اس شخص کی طرح ملحوظ خاطر رکھے جو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو اور بادشاہ اسے دیکھ رہا ہو تو وہ گردن جھکائے اپنے تمام معاملات میں با ادب رہتا اور خلاف ادب ہر بات سے بچتا ہے۔ اسی طرح جب وہ یقین کر لے کہ اللہ عَلَیْہِمْ وَحَبِیْبُهُمْ عَزَّوَجَلَّ اس کی خفیہ باتوں پر اس طرح مطلع ہے جیسے مخلوق اس کی ظاہری باتوں پر تو وہ اپنے باطنی معاملات میں بھی اس طرح فکر مند ہوگا جس طرح اپنے ظاہری معاملات میں فکر مند ہوتا ہے بلکہ باطن کو سنوارنے، اسے پاکیزہ رکھنے اور مزین کرنے میں اس سے زیادہ مبالغہ کرے گا جتنا اپنے ظاہر کو لوگوں کے لئے مزین کرنے میں مبالغہ کرتا ہے۔ اس مرتبے کا یقین حیا، خوف، انکساری، عاجزی، مسکنت، خضوع اور تمام اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے جو بلند ترین طاعتوں کا سبب ہیں۔ لہذا یقین ان تمام امور میں سے ہر امر میں ایک درخت کی مثل ہے اور یہ اخلاق دل میں ان شاخوں کی مثل ہیں جو یقین کے درخت سے نکلی ہوں اور اخلاق سے صادر ہونے والے اعمال اور طاعات ان پھلوں اور شگوفوں کی طرح ہیں جو ٹہنیوں سے نکلتے ہیں۔ پس یقین اصل اور بنیاد ہے اس کے جاری ہونے کے کئی ابواب ہیں جو ہماری ذکر کردہ تفصیل سے بہت زیادہ ہے۔ عنقریب ان کا ذکر ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ منجیات (یعنی نجات دینے والے امور) کے بیان میں آئے گا۔ اس وقت یقین کے بارے میں اتنی تفصیل ہی کافی ہے۔

﴿۹﴾..... علمائے آخرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا عالم نمکین ہو کر انکساری سے سر جھکائے خاموش رہے اور خشیت کا اثر اس کی سیرت و صورت، لباس، حرکات و سکنات، بولنے اور خاموش رہنے سے ظاہر ہو، دیکھنے والا جب اسے دیکھے تو اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ یاد آجائے، اس کی صورت اس کے عمل پر دلیل ہو اور اس کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہو۔ نیز علمائے آخرت سکون، عاجزی اور تواضع میں اپنی پیشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے

کو وقار کے ساتھ عاجزی سے زیادہ خوبصورت لباس نہیں پہناتا اور یہی انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا لباس ہے اور صالحین و صالحین کو بھی اس لباس سے خاص کیا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup> جبکہ زیادہ گفتگو کرنا، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا، حرکت و گفتگو میں تیزی دکھانا، یہ تمام تکبر کی علامات ہیں۔ بے خوفی اور غفلت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب اور اس کی سخت ناراضی کا باعث ہے۔ یہ معرفتِ الہی رکھنے والوں کا طریقہ نہیں بلکہ دنیا داروں کا طریقہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل ہوتے ہیں۔

## علماء کی اقسام:

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تستری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں کہ علماء کی تین اقسام ہیں:

- (۱)..... وہ علماء جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوامر سے واقف ہیں لیکن اس کے ایام کو نہیں جانتے۔ یہ حلال و حرام کا فتویٰ دینے والے مفتی ہیں اور یہ ایسا علم ہے جس سے خوف (خدا) پیدا نہیں ہوتا۔
- (۲)..... وہ علماء جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ تو اس کے اوامر کو جانتے ہیں اور نہ ہی ایام سے واقف ہوتے ہیں، یہ عام مؤمنین ہیں۔
- (۳)..... وہ علماء جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوامر اور ایام کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ صدیقین ہیں، ان پر خشیت و خشوع کا غلبہ رہتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ایام سے مراد اس کی پوشیدہ سزائیں اور باطنی نعمتیں ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گزرے ہوئے لوگوں پر اتاریں۔ لہذا جس شخص کا علم اس کا احاطہ کر لے گا اس کے خوفِ خدا میں اضافہ اور خشوع و خضوع ظاہر ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”علم سیکھو اور علم کے لئے سیکھو، وقار اور حلم سیکھو، جس سے علم سیکھتے ہو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو اور جو تم سے علم سیکھے وہ تمہارے سامنے عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ تکبر کرنے والے علماء میں سے نہ ہونا تاکہ تمہارا علم تمہاری جہالت کی طرح نہ ہو جائے۔“<sup>(۳)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۴۲۔ ②..... المرجع السابق۔

③..... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عمر بن الخطاب، الحديث: ۶۳، ص ۱۴۸۔

شعب الایمان للبيهقي، باب في نشر العلم، الحديث: ۱۷۸۹، ج ۲، ص ۲۸۷۔

## متقین کا امام:

منقول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے کو علم عطا فرماتا ہے اسے حلم، عاجزی، اچھے اخلاق اور نرمی بھی عطا فرماتا ہے اور یہی علم نافع ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”جس بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم، زہد، عاجزی اور اچھے اخلاق عطا فرمائے وہ متقین کا امام ہے۔“ (۱)

حضور اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے بہترین لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر رحمت الہی کی وسعت کے سبب خوش ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر عذاب الہی کے خوف سے گریہ کنائیں رہتے ہیں۔ ان کے بدن تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن دل آسمان پر، ان کی روئیں دنیا میں مگر عقلیں آخرت میں (نجات کے حصول میں مگن) ہوتی ہیں۔ اطمینان اور پرسکون انداز سے چلتے اور وسیلہ کے ذریعے قرب حاصل کرتے ہیں۔“ (۲)

## علم کا وزیر، باپ اور لباس:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”حلم علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔“ (۳)

حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”جس نے علم کے ذریعے سرداری چاہی وہ بارگاہ الہی میں ایسے حاضر ہوگا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ناراض ہوگا اور وہ زمین و آسمان میں مغبوض ہوگا۔“ (۴)

## جس عمل میں رضائے الہی مقصود نہ ہو وہ مردود ہے:

اسرائیلی مرویات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت پر 360 کتابیں لکھیں یہاں تک کہ حکیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس قوم کے نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ ”فلاں شخص سے کہہ دو تو نے زمین کو کثرت کلام

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۴۔

②..... المستدرک، کتاب الهجرة، باب وصف اهل الصفة مفصلاً، الحدیث ۴۳۵، ج ۳، ص ۵۵۴۔

حلیۃ الاولیاء، مقدمة المصنف، الحدیث ۲۸، ج ۱، ص ۴۸۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۴۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۵۔

سے بھر دیا لیکن اس سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا، میں تیرے کثیر کلام میں سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔“ پھر اس شخص نے شرمندہ ہو کر یہ کام چھوڑ دیا اور عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر بازاروں میں چلنا پھرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کر لیا اور عاجزی و انکساری کا پیکر بن گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس دور کے نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ ”اس سے کہہ دو اب تجھے میری رضا کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔“ (۱)

### سپاہی سے زیادہ برے:

حضرت سیدنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا بلال بن سعد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الصَّمَد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”تم میں سے کوئی سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتا ہے اور علمائے دنیا کو دیکھتا ہے جو مخلوق اور حکومت کے شوق میں بناوٹ اختیار کئے ہوتے ہیں تو ان کو برا نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اس سپاہی سے زیادہ برے سمجھے جانے کے حقدار ہیں۔“ (۲)

### سب سے برے لوگ:

مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ! افضل عمل کون سا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”محرّمات سے بچنا اور ہر وقت ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھنا۔“ پھر عرض کی گئی: ”اچھا دوست کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ایسا دوست کہ اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے اور اگر تو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔“ پھر عرض کی گئی: ”برادوست کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”برادوست وہ ہے کہ اگر تو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کو بھول جائے تو وہ تجھے یاد نہ دلائے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد نہ کرے۔“ پھر عرض کی گئی: ”لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا۔“ عرض کی گئی: ”ہمیں ہمارے اچھے لوگوں کے بارے میں خبر دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔“ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آجائے۔“ عرض کی گئی: ”لوگوں میں سے برے کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مغفرت فرما۔“ لوگوں نے پھر عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ!

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۴۶۔

②..... المرجع السابق، ص ۲۴۵۔

ہمیں ان کے بارے میں خبر دیجئے!“ ارشاد فرمایا: ”علماء، جب فساد برپا کریں۔“ (۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے زیادہ امن میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر میں رہے ہوں گے، آخرت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ ہنسیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہوں گے اور آخرت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ غمگین رہے ہوں گے۔“

### سب سے بڑا جاہل:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا: ”میرا ذمہ رہن ہے اور میں اس کا ضامن ہوں کہ تقویٰ پر کسی قوم کی کھیتی نہیں سوکھے گی (یعنی جو رضائے الہی کے لئے عمل کرے گا اس کا عمل باطل نہیں ہوگا) اور ہدایت پر ہوتے ہوئے اس کی جڑ کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگوں میں سے سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی قدر نہیں پہچانتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مخلوق میں سے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو علم جمع کرتا اور اس کے ذریعے فتنے کے اندھیروں میں غوطے کھاتا ہے، اس جیسے اور ذلیل ترین لوگ اسے عالم کہتے ہیں حالانکہ وہ پورا ایک دن بھی علم میں نہیں گزارتا، صبح سویرے اس چیز کی کثرت کرتا ہے جس کا تھوڑا اس کے زیادہ سے بہتر ہے حتیٰ کہ جب وہ بدبودار پانی سے سیراب ہوتا اور بیکار کاموں میں زیادتی کرتا ہے تو لوگوں کا اُستاز بن بیٹھتا ہے تاکہ ان کاموں سے خلاصی دلائے جو دوسروں پر مشتبہ ہو گئے ہیں اور مبہمات میں سے کوئی چیز اس کے سامنے پیش ہو تو اس کے لئے اپنی رائے سے غلط قیاس قائم کر لیتا ہے۔ وہ شخص شبہات کو ختم کرنے میں مکڑی کے جالے کی مثل ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ راہِ راست پر ہے یا غلطی پر۔ بہت سی جہالتوں کا پلندہ اور بغیر سوجھ بوجھ کے بے ڈھنگی باتیں کرنے والا ہے۔ جس بات کا علم نہیں اس کے بتانے سے عذر نہیں کرتا کہ بچ جائے اور نہ ہی علم پر مضبوطی حاصل کرتا ہے کہ غنیمت پائے۔ اس کی وجہ سے خون بہتے ہیں۔ اس کے فیصلوں سے زنا حلال ہوتے ہیں۔ جو سوال اس سے کیا جائے اس کا جواب نہیں دے سکتا اور جو اس کے حوالے کیا جائے اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سزاؤں کے حقدار ہیں۔ ان پر عمر بھر رونا اور نوحہ کرنا چاہئے۔“ (۲)

①..... قوت القلوب، ص ۲۴۶۔ ②..... المرجع السابق، ص ۲۴۶، بتغیر قلیل۔

مزید فرماتے ہیں کہ ”جب علم کی بات سنو تو خاموش رہو اور اسے یہودہ باتوں سے نہ ملاؤ ورنہ دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔“ (۱)

بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا: ”عالم جب ایک مرتبہ ہنستا ہے تو علم کا ایک لقمہ نکال پھینکتا ہے۔“ (۲)

**اُستاز و شاگرد کی تین عمدہ خصلتیں:**

منقول ہے کہ ”اگر اُستاز میں تین باتیں ہوں تو اس کے سبب شاگرد پر نعمت مکمل ہو جاتی ہے: (۱)..... صبر (۲)..... عاجزی اور (۳)..... اچھے اخلاق اور اگر شاگرد میں تین باتیں ہوں تو اس کے سبب اُستاز پر نعمت کامل ہو جاتی ہے: (۱)..... عقل (۲)..... ادب اور (۳)..... اچھی سمجھ۔“ (۳)

المختصر علمائے آخرت قرآن حکیم میں بیان کردہ اخلاق سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ عمل کے لئے قرآن مجید سیکھتے ہیں نہ کہ حکومت کے حصول کے لئے۔

## قرآن سے پہلے ایمان:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان قرآن سے پہلے دیا گیا جب کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام، اُوامر و نواہی کو سیکھ لیتا اور جہاں توقف کرنا مناسب ہوتا وہاں توقّف کرتا اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک سارا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اُوامر و نواہی کو نہیں جانتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ کہاں توقف کرنا مناسب ہے۔ وہ اسے ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتا چلا جاتا ہے۔“ (۴)

ایک روایت میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ ”ہمیں (یعنی صحابہ کرام کو) قرآن سے پہلے ایمان عطا ہوا اور عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جنہیں ایمان سے پہلے قرآن ملے گا۔ وہ اس کے حروف کو تو درست کریں گے لیکن اس کی حدود اور اس کے حقوق ضائع کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم نے سیکھا ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے؟ پس ان کا حصہ یہی ہے۔“

①..... قوت القلوب، ص ۲۵۔ ②..... المرجع السابق، ص ۲۵۔ ③..... المرجع السابق، ص ۲۵۔

④..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قيل..... الخ، الحديث ۵۲۹، ج ۳، ص ۱۷۱۔

ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ ”وہ اس امت کے برے لوگ ہیں۔“ (۱)

## پانچ اچھے اخلاق:

منقول ہے کہ ”کِتَابُ اللَّهِ كِي پانچ آیات میں سے جو پانچ اخلاق سمجھے گئے ہیں وہی علمائے آخرت کی علامات ہیں: (۱) خوف (۲) خشوع (۳) عاجزی (۴) حسن اخلاق اور (۵) آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یعنی زہد اختیار کرنا۔

**خشیت:** اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان سے ثابت ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔  
(پ: ۲۲، فاطر: ۲۸)

**خشوع:** اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے:

خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط  
ترجمہ کنز الایمان: ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔  
(پ: ۴، آل عمران: ۱۹۹)

**تواضع:** کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے:

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۸  
ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو۔  
(پ: ۱۴، الحجر: ۸۸)

**حسن اخلاق:** کا ثبوت اس فرمان باری تعالیٰ سے ہے:

فَبَارِحَةَ مِنَ اللَّهِ لِنْتْ لَهُمْ ج  
ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب! تم ان کے لئے نرم دل ہوئے۔  
(پ: ۴، آل عمران: ۱۵۹)

**زہد:** کا بیان اس آیت طیبہ میں ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔  
(پ: ۲۰، القصص: ۸۰)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج، ص ۲۵۰-۲۵۱

## ”یُشْرَحُ صَدْرَهَا“ سے مراد:

آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:  
**فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ** ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام  
**لِلْإِسْلَامِ** (پ ۸، الانعام: ۱۲۵) کے لئے کھول دیتا ہے۔

تو عرض کی گئی: ”شرح“ سے کیا مراد ہے؟“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب نور دل میں  
 ڈالا جاتا ہے تو اس کے لئے سینہ کھل جاتا اور کشادہ ہو جاتا ہے۔“ پھر عرض کی گئی: ”کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟“  
 ارشاد فرمایا: ”ہاں! دھوکے کے گھر (یعنی دنیا) سے دور رہنا اور دائمی گھر (یعنی آخرت) کی طرف رجوع کرنا اور موت  
 سے پہلے اس کے لئے تیار رہنا۔“ (۱)

﴿10﴾..... علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کی گفتگو اکثر اعمال کے علم اور ان امور کے  
 متعلق ہوتی ہے جو فسادِ اعمال کا باعث بنتے، دلوں کو تشویش میں مبتلا کرتے، وسوسے پیدا کرتے اور شر کو پھیلاتے  
 ہیں۔ کیونکہ دین کی اصل، برائی سے بچنا ہے۔ اسی لئے کسی نے کیا خوب کہا ہے:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتَوَقُّبِهِ وَمَنْ لَا يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعُ فِيهِ

**ترجمہ:** میں شر کو صرف شہونے کی وجہ سے نہیں پہچانتا بلکہ اس سے بچنے کے لئے بھی پہچانتا ہوں۔ لوگوں میں سے جو بھی شر کو  
 نہیں پہچانتا وہ اس میں پڑ ہی جاتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اعمال فعلی (یعنی ظاہری اعضا سے کئے جاتے) ہیں وہ آسان ہیں اور ان سے بھی بلند تر  
 اور عظیم عمل زبان اور دل سے ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور شان تو ان چیزوں کے جاننے میں ہے جو فساد  
 اعمال اور دلی تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے شعبہ جات بہت زیادہ اور تفریعات بہت لمبی ہیں۔ راہِ آخرت پر چلنے  
 کے لئے ان تمام کی حاجت پڑتی ہے جبکہ عام لوگ اس میں مبتلا ہیں۔

جہاں تک علمائے دنیا کی بات ہے تو وہ حکومت اور فیصلوں میں نادر تفریعات کی پیروی کرتے ہیں اور ایسی  
 صورتیں وضع کرتے نہیں تھکتے جو زمانوں تک کبھی واقع نہ ہوں اور اگر کبھی واقع ہوں بھی تو ان کا وقوع کسی خاص زمانے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزهد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۵، ج ۷، ص ۳۵۲۔



میں کسی اور کے لئے ہونیز جب ان کا وقوع ہو تو ان کے بتانے والے کئی لوگ موجود ہوں اور جس چیز سے ہر وقت ان کا واسطہ پڑتا ہے اور رات دن ان کے دلوں، وسوسوں اور اعمال میں اس کی تکرار ہوتی ہے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔

## واضح نقصان:

وہ شخص سعادت مندی سے کتنا دور ہے جو اپنے لئے ضروری چیز کو کسی نادر ضرورت کے بدلے فروخت کر دیتا اور اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب کے بدلے مخلوق کے قرب اور قبولیت کو اختیار کر لیتا ہے اور اس کا شر اس میں ہے کہ دنیا کے باطل پرست لوگ اسے فاضل، محقق علوم عقلیہ اور پیچیدہ عبارات و مسائل کا عالم جانیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے اس بندے کی جزا یہ ہے کہ اسے دنیا میں لوگوں میں مقبولیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس پر زمانے کے مصائب اُنڈیل دیئے جاتے ہیں پھر وہ قیامت کے دن مفلسی کی حالت میں آئے گا اور عمل کرنے والوں کا نفع اور مقربین کی کامیابی دیکھ کر حسرت کرے گا اور یہی واضح (کھلا) نقصان ہے۔

## کلام انبیاء کے مشابہ کلام:

بے شک حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ کا کلام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کے کلام کے زیادہ مشابہ تھا اور باعتبار ہدایت لوگوں میں سب سے زیادہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صَحَابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کے قریب تھے۔ ان کے حق میں اس بات پر اتفاق ہے۔

نیز ان کا اکثر کلام دلوں کے خطرات، اعمال کے فساد، نفس اور دل کے وسوسوں اور نفس کی پوشیدہ خواہشات کے بارے میں ہوتا تھا۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا: ”اے ابوسعید عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَجِیْد! آپ ایسا کلام فرماتے ہیں جو آپ کے سوا ہم کسی سے نہیں سنتے۔ آپ اسے کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے۔“ (۱)

حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں عرض کی گئی: ”ہم آپ کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا کلام کرتے ہیں جو دیگر صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمُ اَجْمَعِیْن سے نہیں سنا جاتا۔ آپ نے اسے کہاں

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۵۸، بتغیر۔

سے حاصل کیا؟“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مجھے اس کلام سے خاص فرمایا کہ لوگ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے جبکہ میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میں یہ بات جانتا تھا کہ بھلائی کا علم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔“ ایک مرتبہ یوں فرمایا: ”میں جانتا تھا کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ بھلائی کو بھی نہیں جانتا۔“

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ عرض کیا کرتے: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! جو کوئی فلاں فلاں نیک کام کرے اس کا اجر کیا ہے؟“ وہ اعمال کے فضائل کے متعلق پوچھتے تھے جبکہ میں عرض کرتا: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! فلاں فلاں عمل کے فساد کا باعث کون سی چیز ہے؟“ جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفات کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو مجھے اس علم کے ساتھ خاص فرمایا۔“ (۱)

## رازدار صحابی:

حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو منافقین کے بارے میں خصوصی علم تھا۔ علم نفاق، اس کے اسباب اور فتنوں کی پیچیدگیوں کی معرفت میں آپ کو انفرادی حیثیت حاصل تھی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے عام و خاص فتنوں اور منافقین کے بارے میں پوچھا کرتے تو آپ انہیں جواب دیتے کہ اتنے منافقین باقی رہ گئے ہیں لیکن ان کے نام نہ بتاتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب اپنے بارے میں پوچھتے کہ کیا مجھ میں بھی نفاق پایا جاتا ہے تو آپ انہیں اس سے بری قرار دیتے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو جب کسی کا جنازہ پڑھانے کے لئے کہا جاتا تو دیکھتے اگر حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ موجود ہوتے تو پڑھاتے ورنہ نہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو صاحب سر (یعنی رازدان) کہا جاتا تھا۔ (۲)

①..... صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، الحديث: ۳۶۰، ج ۲، ص ۵۰۲۔

قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون، باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۸۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون، باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۸۔

علمائے آخرت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ دل کے مقامات اور اس کے احوال پر نظر رکھنا بھی ہے۔ کیونکہ دل ہی تو ہے جو اللہ عزوجل کے قرب کی طرف سعی کرتا ہے لیکن اب یقین نادر ہو گیا ہے اور جب کوئی عالم اس میں سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس پر تعجب کرتے اور اسے بعید جانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو واعظین کا اپنے کلام کو مزین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے اور تحقیق کو محض جھگڑا خیال کرتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے:

الطَّرِيقُ شَتَّى وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُفْرَدَةٌ      وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادٌ  
لَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُدْرِي مَقاصِدَهُمْ      فهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَمْشُونَ قَصَادٌ  
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ      فَجُلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ رَقَادٌ

**ترجمہ:** (۱) راستے تو مختلف ہیں مگر حق کا راستہ ایک ہی ہے اور حق کے راستے پر چلنے والے بھی منفرد ہوتے ہیں۔

(۲) نہ انہیں کوئی پہچانتا ہے اور نہ ان کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں پس وہ راہ حق کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔

(۳) اور لوگ ان کے مقاصد سے غافل ہیں کیونکہ کثیر لوگ حق کے راستے سے غافل ہیں۔

## علم یقین، احوال قلب اور باطنی صفات کے عالم:

**خلاصہ:** یہ کہ اکثر لوگ آسان اور طبیعت کے موافق چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں اس لئے کہ حق کڑوا ہے اس پر قائم رہنا مشکل، اسے حاصل کرنا دشوار اور اس کا راستہ پیچیدہ ہے۔ خصوصاً دل کی صفات کو جاننا اور اسے مذموم اخلاق سے پاک کرنا اس لئے کہ یہ ہمیشہ جانکنی کی حالت ہوتی ہے اور ایسا شخص دو اپنے والے کی طرح ہوتا ہے جو شفا کی امید رکھتے ہوئے دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرتا ہے اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو تمام عمر روزوں میں گزارتا اور مصائب کو برداشت کرتا ہے تاکہ موت کے وقت اس کی عید ہو، ایسے طریقے میں رغبت کی کثرت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ شہر بصرہ میں 120 حضرات وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن سوائے تین کے علم یقین، دلوں کے احوال اور باطن کی صفات کے بارے میں کلام کرنے والا کوئی نہیں تھا ان میں ایک حضرت سپیدناہل بن عبد اللہ تستری، دوسرے حضرت سپیدناہلیجی اور تیسرے حضرت سپیدنا عبد الرحیم رحمہم اللہ المبین تھے۔ دوسروں کی صحبت میں کثیر لوگ بیٹھتے تھے جن کا شمار نہیں جبکہ ان کے پاس بہت کم لوگ ہوتے تھے کبھی کبھار 10 سے زیادہ ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

نفس اور عمدہ کے قابل خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جبکہ عوام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔

﴿11﴾..... علمائے آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے علوم میں بصیرت اور اس کے ادراک پر اعتماد کرتے ہیں، نہ کہ کتابوں پر اور نہ اس چیز کی تقلید پر جو کسی غیر سے سنی ہو اور بلاشبہ تقلید صرف صاحب شریعت کی ہے (۱) ہر اس چیز میں جس کا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حکم یا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہو اور صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کی تقلید بھی اس حیثیت سے کی جائے کہ یقیناً ان کے افعال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سننے پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر جب وہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اقوال و افعال کو قبول کر کے آپ کی تقلید کر لے تو چاہئے کہ اب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اسرار کو سمجھنے پر حریص ہو جائے کیونکہ تقلید کرنے والا یہ کام اس لئے کرتا ہے کہ صاحب شریعت نے ایسا کیا اور ان کے ایسا کرنے میں ضرور کوئی راز ہوگا۔ لہذا اعمال اور اقوال کے اسرار خوب تلاش کر لے اس لئے کہ اگر وہ سنی ہوئی بات کو یاد کرنے پر ہی اکتفا کرے گا تو گویا وہ علم کا ایک برتن ہو کر ہی رہ جائے گا عالم نہیں ہوگا۔

## وہ علم کا برتن ہے نہ کہ عالم:

کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص علم کے برتنوں میں سے ایک برتن ہے اسے عالم نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ حکمتوں اور رازوں پر مطلع ہوئے بغیر صرف حافظ ہو کر رہ جاتا تھا اور جو شخص اپنے دل سے پردوں کو دور کرتا اور ہدایت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اس کی پیروی اور تقلید کی جاتی ہے اس وقت اسے کسی دوسرے کی تقلید نہیں کرنی چاہئے اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: ”رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سوا ہر ایک کے علم سے کچھ لیا جاتا اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔“ (۲)

①..... یہاں تقلید سے اتباع مراد ہے نہ کہ وہ جو فقہ میں ائمہ کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ کی ہوتی ہے۔ تقلید کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ کی مایہ ناز تصنیف ”جاء الحق“ حصہ اول (مطبوعہ: قادری پبلشرز لاہور) صفحہ 20 تا 38 کا مطالعہ کیجئے۔ علمہ

②..... المعجم الكبير، الحديث: 1194، ج 1، ص 269، بتغییر۔

## سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے استاذ:

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور قراءت میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ پھر فقہ اور قراءت میں ان دونوں سے اختلاف بھی کیا۔<sup>(۱)</sup> بعض بزرگوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمارے پاس جو کچھ آیا ہم نے اس تمام کو سرا اور آنکھوں سے قبول کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے جو کچھ آیا اس میں سے ہم نے کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا اور تابعین کی جانب سے جو کچھ ملا تو وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

## صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فضیلت دینے کی وجہ:

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس لئے فضیلت دی گئی کہ انہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احوال مبارکہ کے قرآن کا مشاہدہ کیا، ان کے دل ان امور سے متعلق تھے جو قرآن سے معلوم ہوئے اور یہی بات ان کی درستی کی وجہ ہے کیونکہ روایت اور عبارت میں مشاہدہ کا دخل نہیں ہوتا ان پر نور نبوت کا اتنا فیضان تھا کہ وہ اکثر خطا سے محفوظ رہتے تھے۔ لہذا جب کسی سے سنی سنائی بات پر بھی اعتماد کرنا ایک ناپسندیدہ تقلید ہے تو پھر کتابوں پر اعتماد کرنا تو اس سے بھی بعید ہے۔

## تصنیف و تالیف کی ابتدا کب سے ہوئی:

کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں زمانہ صحابہ و تابعین کے ابتدائی دور میں ان کا وجود تک نہیں تھا یہ ہجرت کے 120 برس بعد تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام مثلاً حضرت سیدنا سعید بن مسیب، حضرت سیدنا حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وصال کے بعد تالیف ہوئیں۔ بلکہ صحابہ کرام اور تابعین عظام علیہم الرضوان تو احادیث لکھنا اور کتابیں تصنیف کرنا ناپسند جانتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں لوگ احادیث کو زبانی یاد کرنے، قرآن پاک میں تدبر کرنے اور اس کے سمجھنے سے غافل ہو کر ان کتابوں ہی میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یہ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ہم یاد کرتے تھے تم بھی اس طرح یاد کرو۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۷۴۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۷۴۔

## قرآن پاک کتابی صورت میں:

یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو مصحف میں جمع کرنے کو ناپسند جانا اور فرمایا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ مصحف ہی پر اعتماد نہ کر بیٹھیں اس لئے انہوں نے فرمایا: ”ہم قرآن پاک کو اس طرح رہنے دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پڑھائیں سکھائیں تاکہ ان کا شغل اور مقصود یہی رہے۔“ یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن نے اس اندیشہ کے باعث قرآن پاک کی کتابت کا مشورہ دیا کہ کہیں لوگ سستی کا شکار ہو کر اسے چھوڑ نہ بیٹھیں اور اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں جھگڑا ہو اور کوئی اصل نسخہ نہ ملے جس کی مدد سے کسی متشابہ کلمے یا قراءت میں دُرستی کی جاسکے پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کا سینہ بھی کھل گیا۔ چنانچہ آپ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے قرآن پاک کو مصحف میں جمع فرمادیا۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّلُ مَوْطَا امام مالک کی تصنیف کے بارے میں حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَخْلَقِ پر اعتراض کرتے اور فرماتے کہ ”انہوں نے وہ کام کیا جو صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن نے نہیں کیا۔“

## اسلام میں تصنیف کی جانے والی ابتدائی کتب:

منقول ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے ابن جریج کی کتاب تصنیف ہوئی جس میں آثار اور حضرت عطاء مجاہد اور ابن عباس کے دیگر شاگردوں سے منقول تفاسیر ہیں یہ کتاب مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وَتَعْظِیْمًا میں تصنیف ہوئی۔ پھر یمن میں حضرت سیدنا معمر بن راشد صنعانی قُدِّسَ سِرُّہُ التَّوْرٰنِی کی کتاب تصنیف ہوئی جس میں حضور نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی احادیث ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ زادھا اللہ شرفاً وَتَعْظِیْمًا میں حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَخْلَقِ کی ”موطا“ پھر حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کی کتاب ”جامع“ تصنیف ہوئی۔ پھر چوتھی صدی میں علم کلام میں کتابیں لکھی گئیں اور جنگ و جدل اور مقالات کو باطل کرنے میں غور و خوض ہونے لگا۔ اس کے بعد

لوگ اس کی طرف، قصہ گوئی اور وعظ کی طرف مائل ہوئے۔ اس زمانے میں علم یقین مٹنے لگا، اس کے بعد علم قلوب، صفاتِ نفس اور شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں دریافت کرنا ایک عجیب بات ہو گئی سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے اس سے منہ پھیر لیا اور جھگڑا کرنے والا منتکلم عالم کہلانے لگا، مُسَجَّعُ عِبَادَتِ سے اپنا کلام مزین کرنے والا قصہ گو بھی عالم شمار ہونے لگا کیونکہ انہیں عوام ہی سنتے ہیں جنہیں حقیقت علم اور اس کے غیر میں فرق معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کے احوال ان کے پیش نظر ہوتے کہ وہ فرق معلوم کرتے۔ پس ایسے لوگوں کو علما کا نام دیا جانے لگا اور پہلوں سے بعد والوں تک یہ نام چلتا آیا۔ علم آخرت لپیٹ دیا گیا۔ علم اور کلام کے درمیان فرق چند مخصوص لوگوں کے سوا سب کے نزدیک مخفی ہو کر رہ گیا جب ان سے پوچھا جاتا کہ ”فلاں کے پاس زیادہ علم ہے یا فلاں کے پاس؟“ تو وہ کہتے: ”فلاں کے پاس علم زیادہ ہے اور فلاں کلام میں اس پر فائق ہے۔“ خواص علم اور کلام پر قدرت کے درمیان فرق جانتے تھے۔ پچھلی صدیوں میں دین اتنا کمزور ہو گیا تھا تو اس زمانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کلام وغیرہ کا انکار کرنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح میں مشغول ہو جائے اور خاموش رہے۔

﴿12﴾..... علمائے آخرت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا عالم بدعتوں سے بہت زیادہ بچے اگرچہ سب لوگ ان میں ملوث ہوں۔ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کے بعد پیدا ہونے والی بدعتوں<sup>(۱)</sup> (یعنی خلاف شرع

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مَرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 1، ص 146 پر ایک حدیث شریف کے اس جز ”اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: مُحَدَّث کے معنی ہیں جدید اور نو پیدا چیز، یہاں وہ عقائد یا برے اعمال مراد ہیں جو حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں، بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز، رب (عَزَّ وَجَلَّ) فرماتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا السَّلٰوٰتُ وَالْاِمْرَاضُ** <sup>ط</sup> (پ ۱، البقرة ۱۷۱، ترجمہ کنز الایمان: نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا) اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں (۱) نئے عقیدے اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔ (۲) وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوں۔ (۳) ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا۔ پہلے دو معنی سے ہر بدعت بری ہے کوئی اچھی نہیں، تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں بعض بری، یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں یعنی برے عقیدے کیونکہ حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے عمل سے نہیں، بے نماز گناہ گارے گمراہ نہیں اور رب (عَزَّ وَجَلَّ) کو جو ٹوٹا یا حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو اپنی مثل بشر سمجھنا بدعتی گمراہی اور.....

کاموں) پر لوگوں کے متفق ہونے سے دھوکے میں نہ پڑے بلکہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے احوال و اعمال اور ان کی سیرت کو دریافت کرنے میں حریص ہو اور یہ جانے کہ وہ کن امور میں زیادہ کوشش کرتے تھے۔ کیا وہ تدریس، تصنیف، مناظرہ، قضا، حکمرانی، اوقاف اور وصیتوں کی تولیت (یعنی نگرانی کرنے)، یتیموں کے اموال (ناحق) کھانے اور حکمرانوں سے میل جول رکھنے میں مصروف رہتے تھے یا خوفِ خدا، غم، تفکر، مجاہدہ و ریاضت، ظاہر و باطن کی نگرانی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، نفس کی خفیہ خواہشات اور شیطان کے مکر و فریب کی جانچ وغیرہ علوم باطن میں مصروف رہتے تھے۔

## حق کے زیادہ قریب کون؟

اس بات کا یقین کر لو کہ اس زمانے میں جو شخص صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن کے زیادہ مشابہ اور اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کے راستے سے زیادہ واقف ہے وہی زیادہ علم والا اور حق کے زیادہ قریب ہے کیونکہ دین انہی لوگوں سے لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے عرض کی گئی کہ آپ نے فلاں کی مخالفت کی ہے تو انہوں نے فرمایا: ”ہم میں بہتر وہ ہے جو اس دین کی زیادہ پیروی کرتا ہے۔“ غرض یہ کہ تم صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کی موافقت میں موجودہ زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو کیونکہ لوگوں نے صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے معاملات کے بارے میں اپنی طبیعتوں کے میلان کے مطابق ایک رائے قائم

گمراہی ہے، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر تیسرے معنی مراد ہوں یعنی نیا کام تو یہ حدیث عام مخصوص البعض ہے کیونکہ یہ بدعت دو قسم کی ہے بدعت حسنہ اور سیئہ یہاں بدعت سیئہ مراد ہے بدعت حسنہ کے لیے کتاب العلم کی وہ حدیث ہے جو آگے آرہی ہے: ”مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً“ الحدیث یعنی جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ بدعت حسنہ کبھی جائز کبھی واجب کبھی فرض ہوتی ہے اس کی نہایت نفیس تحقیق اسی جگہ مراقاة اور اشعة اللمعات میں دیکھو نیز شامی اور ہماری کتاب جاء الحق میں بھی ملاحظہ کرو، بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، مگر یہ معنی بالکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دینی چیزیں چھ کلمے، قرآن شریف کے ۳۰ پارے، علم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب، شریعت و طریقت کے چار سلسلے، حنفی شافعی یا قادری چشتی وغیرہ، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعہ حج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ، زردے، ڈاک خانہ ریلوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) کے بعد ایجاد ہوئیں حرام ہونی چاہئیں حالانکہ انہیں کوئی حرام نہیں کہتا۔



کر رکھی ہے اور ان کا نفس یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ طریقہ جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے سوا جنت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔

## بری رائے والا اور دنیا کا پجاری:

اسی لئے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے فرمایا: ”اسلام میں دو نئے آدمی پیدا ہوں گے ایک بری رائے کا مالک ہوگا جو یہ خیال کرے گا کہ جنت اُسی کو نصیب ہوگی جس کی رائے اس کے موافق ہوگی اور دوسرا وہ مالدار ہوگا جو دنیا کا پجاری ہوگا، دنیا ہی کی وجہ سے غصہ کرے گا، اسی کے لئے راضی ہوگا اور اسی کو طلب کرے گا، ان دونوں کو جہنم کی طرف چھوڑ دو۔ ایک آدمی اس دنیا میں دو ایسے آدمیوں کے درمیان ہوگا کہ ان میں سے ایک مالدار ہوگا جو اسے اپنی دنیا کی طرف بلائے گا اور دوسرا خواہش کا پجاری ہوگا جو اسے اپنی خواہش کی طرف راغب کرے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان دونوں سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام کا مشتاق ہوگا۔ ان کے افعال کے بارے میں پوچھتا، ان کی پیروی کرتا اور اجر عظیم کا طلب گار ہوگا۔ لہذا تم بھی ایسے بنو۔“<sup>(۱)</sup>

## کلام اور سیرت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”دو ہی چیزیں ہیں کلام اور سیرت۔ بہترین کلام اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اور بہترین سیرت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ہے۔ خبردار! بدعتوں (یعنی خلاف شرع کاموں) سے دُور رہو کہ بدترین امور بدعات ہیں۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت (جو شریعت کے خلاف ہو) گمراہی ہے۔ خبردار! لمبی عمر کا خیال دل میں مت آنے دینا ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ خبردار! جو وقت آنے والا ہے وہ قریب ہے اور دور وہ ہے جو آنے والا نہیں۔“<sup>(۲)</sup>

## خوش بخت کون؟

حضور نبی کریم، رَأَوْفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے خطبہ مبارکہ میں ہے: ”اس کے لئے خوش خبری ہے

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۵۔

②..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، الحدیث ۴، ج ۱، ص ۳۴۔

جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے روک دیا، اپنے پاکیزہ مال میں سے راہِ خدا میں خرچ کیا، علما کی صحبت میں بیٹھتا رہا، خطا کاروں اور نافرمانوں کی صحبت سے دور رہا۔ خوشخبری ہے اس کے لئے جو عاجزی اختیار کرتا، اس کے اخلاق اچھے، باطن صالح اور وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے علم پر عمل کیا، ضرورت سے زائد مال (راہِ خدا میں) خرچ کیا اور فضول باتوں سے بچا، سنت نے اسے اپنے دامن میں لے کر بدعت تک جانے سے روک دیا۔“ (۱)

## اچھے شخص کی پہچان:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”آخری زمانے میں اچھا کردار اعمال کی کثرت سے بہتر ہوگا۔ تم جس زمانے میں ہو اس میں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اعمالِ صالحہ میں جلدی کرتا ہے۔ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں سے اچھا آدمی کثرتِ شہادت کی وجہ سے توقف کرے گا۔“ (۲)

بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا کیونکہ اس زمانے میں توقف نہ کرنے والا، عام لوگوں کی موافقت کرنے والا اور ان امور میں مشغول ہونے والا جن میں وہ مشغول ہیں اسی طرح ہلاک و برباد ہوگا جس طرح وہ تباہ و برباد ہوں گے۔

## آج کے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی:

حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ تمہارے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی تھی اور تمہارے زمانے کی برائی آنے والے زمانے میں نیکی بن جائے گی، جب تک تم حق کی پہچان رکھو گے بھلائی پر رہو گے اور تمہارے دور کا عالم حق نہیں چھپاتا۔“ (۳)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا بے شک اس زمانے کی اکثر نیکیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں برائیاں سمجھی جاتی تھیں۔ ہمارے زمانے میں مساجد کو سجانا، انہیں آراستہ کرنا اور عمارتوں کی باریکیوں

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزهد وقصر الامل، الحدیث ۱۰۵۶۳، ج ۷، ص ۳۵۵، بتغیر قلیل۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۶۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۶۔

میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اور ان میں قیمتی بچھونے (مثلاً کارپیٹ، قالین وغیرہ) بچھانا نیکی سمجھا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کے زمانے میں مسجد میں چٹائی بچھانا بھی بدعت شمار ہوتا تھا۔

## مساجد میں چٹائی بچھانا کس کی ایجاد؟

منقول ہے کہ مساجد میں چٹائی بچھانا حجاج بن یوسف ثقفی کی بدعات میں سے ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے اور مٹی کے درمیان بہت کم رکاوٹ ڈالتے تھے۔ اسی طرح دقیق مسائل پر جھگڑنا اور مناظرے کرنا اس زمانے کے بڑے بڑے علوم میں شمار ہوتا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قرب خداوندی کا بہت بڑا ذریعہ اور عظیم عبادت ہے حالانکہ پہلے زمانے میں یہ منکرات میں شمار ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن اور اذان میں لحن کرنا بھی انہی بدعات سے ہے۔ پاکیزگی میں مبالغہ اور طہارت میں وسوسہ بھی بدعت ہے۔ کپڑوں کی نجاست کے بارے میں اسباب بعیدہ فرض کئے جاتے ہیں جبکہ خوراک کے حلال و حرام ہونے کے سلسلے میں تساہل برتا جاتا ہے۔ اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بالکل سچ فرمایا کہ ”تم اس زمانے میں ہو جس میں خواہش علم کے تابع ہے اور عنقریب وہ دور آئے گا کہ علم، خواہش کے تابع ہو جائے گا۔“ (۱)

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلِيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاُوَّلُ فرمایا کرتے تھے: ”لوگ علم ترک کر کے نادر و عجیب باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ان کا علم کتنا کم ہے۔ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ہی مددگار ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا امام مالک بن انس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”گزشتہ زمانے کے لوگ ان امور کے بارے میں ایسے نہیں پوچھتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ پوچھتے ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ بلکہ میں نے انہیں یوں کہتے سنا کہ یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے۔“ (۳)

مطلب یہ کہ وہ کراہت اور استحباب کی باریکیوں کو دیکھتے تھے کیونکہ حرام کی برائی تو واضح ہے۔

## لوگوں سے بدعت کے بارے میں نہ پوچھو!

حضرت سیدنا ہاشم بن عروہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمایا کرتے تھے: ”آج کے دور میں لوگوں سے ان کی ایجاد کردہ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والثلاثون، باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا..... الخ، ج، ص ۲۸۴۔

②..... المرجع السابق، ص ۲۸۴، بتغير قليل۔

③..... المرجع السابق، ص ۲۸۴۔

بدعات کے بارے میں نہ پوچھو کیونکہ انہوں نے اس کا جواب تیار کر رکھا ہے ان سے سنت کے بارے میں پوچھو اس لئے کہ یہ اسے جانتے ہی نہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قدس سرہ النور کی فرمایا کرتے تھے: ”جس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈالی گئی وہ اس پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہ سن لے۔ پھر اگر وہ حدیث اس کے دل میں پیدا ہونے والی بات کے موافق ہو تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے۔“ (۲)

یہ بات آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس لئے فرمائی کہ جو نبی آرا آتی ہیں وہ کانوں کو کھٹکھٹائی اور دلوں سے معلق ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دل کی صفائی مشکوک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ روایات کی شہادت سے اسے ظاہر کیا جائے۔

### منبر رکھنا بدعت نہیں:

جب مروان نے نماز عید کے موقع پر عید گاہ میں منبر رکھا تو حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کھڑے ہو کر فرمایا: ”اے مروان! یہ کیا بدعت ہے؟“ اس نے کہا: ”یہ بدعت نہیں بلکہ یہ تمہاری معلومات کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سب تک آواز پہنچے۔“ حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میرے علم کے مطابق تم کبھی بھی اچھا کام نہیں کرو گے۔ بخدا! میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔“

آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ اعتراض اس لئے کیا کیونکہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عید اور نماز استسقا کے خطبہ میں کمان یا لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے نہ کہ منبر پر۔ (۳)

### ہر نیا کام جو دین سے نہ ہو مردود ہے:

مشہور حدیث میں ہے کہ سید عالم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ہمارے دین

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۸۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۸۵۔

③..... المعجم الصغير، من اسمه يحيى، الحديث: ۱۷، ج ۲، ص ۱۴۳، بتغيير۔ قوت القلوب، ج ۱، ص ۲۸۶۔

میں ایسا کام جاری کیا جو دین سے نہیں تو وہ کام مردود ہے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے میری امت سے دھوکا کیا اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت“ عرض کی گئی: ”یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ کی امت کے ساتھ دھوکا کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”کوئی بدعت جاری کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا۔“ (۲)

### شفاعت سے محرومی کا سبب:

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا ایک فرشتہ ہر روز پکارتا ہے: جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول کی سنت کی مخالفت کی اسے حضور کی شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔“ (۳)

### خلاف سنت بدعت جاری کرنے والے کی مثال:

دین میں سنت کی مخالف بدعت جاری کرنے والا شخص، گناہ کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کسی بادشاہ کی حکومت کو بدلنے میں اس کی نافرمانی کرنے والے کے مقابلے میں وہ شخص جو کسی مقررہ خدمت میں اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیونکہ اس (یعنی مقررہ خدمت میں نافرمانی کرنے والے) کی معافی ہو سکتی ہے لیکن حکومت بدلنے کی کوشش کرنے والے کے لئے معافی نہیں۔

بعض علماء فرماتے ہیں: ”جس مسئلے میں اسلاف نے گفتگو کی ہے اس میں خاموشی اختیار کرنا ظلم ہے اور جس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی اس میں گفتگو کرنا تکلف ہے۔“ (۴)

ایک عالم صاحب کا قول ہے: ”حق بات گرہ ہے جس نے اس سے تجاوز کیا وہ ظالم ہے، جس نے اس میں کوتاہی کی وہ عاجز ہے اور جس نے اس پر توقف کیا وہ کفایت کرنے والا ہے۔“ (۵)

حضور اکرم، نور مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اس درمیانے راستے کو لازم پکڑو

①.....صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطلحو علی صلح.....الخ، الحدیث: ۲۶۹، ج ۲، ص ۲۱۱۔

②.....جامع الاحادیث، حرف المیم، الحدیث: ۲۲۳۹، ج ۷، ص ۲۸۷۔

③.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا.....الخ، ج ۱، ص ۲۹۵۔

④.....المرجع السابق، ص ۲۹۶۔

⑤.....المرجع السابق، ص ۲۹۶۔

جس کی طرف بلندی پر جانے والا لوٹ آئے اور پیچھے رہنے والا اس کی طرف بلندی اختیار کرے۔“ (۱)  
حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: گمراہ لوگ اپنے دلوں میں گمراہی کی حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آدِيَهُمْ لِبَاءٍ وَلَهُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی  
کھیل بنا لیا۔  
(پ۷، الانعام: ۷۰)

ارشادِ خداوندی ہے:

أَفَسَنْ رُدِّينَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا  
ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ  
کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا۔  
(پ۲۲، فاطر: ۸)

لہذا ہر وہ ضرورت سے زائد کام جو صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے بعد شروع ہوا وہ لہو و لعب ہے۔ (۲)

### شیطان کا لشکر اور گروہ صحابہ و تابعین:

ابلیس لعین کے بارے میں حکایت ہے کہ صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے زمانے میں اس نے اپنے لشکر کو ادھر ادھر پھیلا یا جب وہ پریشان حال تھکے ماندے واپس آئے تو اس نے پوچھا: ”تمہیں کیا ہوا؟“ انہوں نے کہا: ”ہم نے کسی کو ان (یعنی صحابہ) کی طرح نہیں دیکھا ہمیں ان سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔“ اس نے کہا: ”تم ان پر قابو نہیں پاسکتے انہوں نے اپنے نبی کی صحبت اختیار کی ہے اور اپنے رب کی طرف سے نزول (وحی) کا مشاہدہ کیا ہے۔ البتہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن سے تمہاری حاجت پوری ہوگی۔“ جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس نے اپنے لشکر کو ادھر ادھر بھیجا وہ شکستہ حال واپس آئے اور کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ تعجب خیز لوگ نہیں دیکھے تاہم ان کے گناہوں کے سبب ہم کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل کر لیں گے۔ جب شام کا وقت ہوا تو تابعین نے معافی طلب کرنا شروع کر دی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیں۔ شیطان نے کہا: ”تم ان سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عقیدہ توحید صحیح ہے اور یہ اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ البتہ ان کے بعد کچھ

①.....تفسیر القرطبی، سورة البقرة تحت الآية ۱۲۳، ج ۲، ص ۱۱۷، موقوفاً عن علی رضی اللہ عنہ۔

②.....قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۷، باختصار۔

لوگ آئیں گے ان سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی تم ان کے ساتھ جیسے چاہے کھیلنا، ان کی خواہشات کی لگام پکڑ کر جہاں چاہو لے جانا وہ بخشش طلب کریں گے تو ان کی بخشش نہ ہوگی اور وہ توبہ بھی نہیں کریں گے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔“

راوی فرماتے ہیں: ”پہلی صدی کے بعد ایک قوم آئی تو شیطان نے ان میں خواہشات پھیلا دیں اور بدعات کو ان کے لئے مزین کر دیا۔ چنانچہ، انہوں نے انہیں حلال سمجھا اور دین بنا لیا نہ تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں۔ لہذا ان پر دشمن (یعنی شیطان) غالب ہو گئے اب وہ جہاں چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں۔“

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ اس قائل کو کہاں سے معلوم ہوا کہ ابلیس نے یہ بات کہی ہے حالانکہ اس نے نہ تو ابلیس کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے گفتگو کی؟ تو جان لو کہ اہل دل پر ملکوت (یعنی عالم ملائکہ) کے راز منکشف ہوتے رہتے ہیں کبھی بطور الہام ان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں اور انہیں معلوم تک نہیں ہوتا، کبھی سچے خواب کے ذریعے اور کبھی بیداری میں ان کے معانی مثالوں کے مشاہدے کے ذریعے واضح کئے جاتے ہیں جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور یہ نبوت کا بلند درجہ ہے جیسے سچا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے تو تمہیں اس علم کے انکار سے بچنا چاہئے جو تیری ناقص عقل کی حد سے پار ہو گیا اس سلسلے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے علما بھی ہلاک ہو گئے جن کا خیال تھا کہ انہوں نے عقلی علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس عقل سے جہالت بہتر ہے جو اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کے بارے میں ایسے علوم کا انکار کرے اور جو شخص اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کے بارے میں ایسی باتوں کا انکار کرتا ہے اس پر انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ کا انکار لازم آتا ہے اور وہ دین سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے۔

بعض عارفین نے فرمایا: ”ابدال، لوگوں سے قطع تعلقی کر کے زمین کے مختلف کونوں میں جا بسے ہیں اور وہ جمہور کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان میں آج کے دور کے علما کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ علما اسرار الہیہ سے واقف نہیں مگر یہ لوگ خود کو عالم سمجھتے ہیں اور جاہل بھی انہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ پس یہ (جھوٹے علما اور انہیں علما سمجھنے والے) سب لوگ جاہل ہیں۔“ (۱)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج، ص ۲۹۸۔

## سب سے بڑی معصیت:

حضرت سیدنا سہل تستری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلِيِّ نے ارشاد فرمایا: ”سب سے بڑی معصیت جہالت سے ناواقف ہونا، عام لوگوں کی طرف دیکھنا اور غافل لوگوں کا کلام سننا ہے۔ جو عالم دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی بات سننا مناسب نہیں بلکہ اس کی ہر بات پر اسے تہمت زدہ جانا چاہئے کیونکہ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیز میں مشغول رہتا ہے اور جو کچھ اس کے محبوب کے موافق نہ ہو اسے رد کر دیتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ  
هُوَ هُوَ وَكَانَ أَمْرًا فُرْطًا ۝۲۸ (پ ۱۵، الکہف: ۲۸)  
ترجمہ کنز الایمان: اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد  
سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد  
سے گزر گیا۔

عام گنہگار ان لوگوں سے زیادہ خوش بخت ہے جو دین کے راستے سے بے خبر ہیں حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ علما میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ عام گنہگار شخص اپنی کوتاہی کا اقرار کر کے بخشش طلب کرتا اور توبہ کرتا ہے جبکہ جاہل علم کا مدعی ہے اور یہ ان علوم میں مشغول ہے جو طریق دین کے بجائے حصول دنیا کا وسیلہ ہیں لہذا نہ تو یہ توبہ کرتا ہے اور نہ ہی مغفرت طلب کرتا ہے بلکہ مرتے دم تک اسی حالت پر رہتا ہے۔ لہذا جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے محفوظ فرمایا ان کے علاوہ جب یہ بات اکثر لوگوں پر غالب ہے اور ان کی اصلاح کی کوئی امید بھی نہیں رہی تو دیندار محتاط شخص کے لئے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان سے الگ تھلگ رہے جیسا کہ ”کِتَابُ الْعُزْلَةِ“ (یعنی گوشہ نشینی کے بیان) میں آئے گا۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ۔

## لوگوں سے زیادہ میل جول باعث ہلاکت ہے:

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے حضرت سیدنا حذیفہ مرعشی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ”آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جسے گنہگار کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کے ساتھ مل کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے یا پھر کوئی ایسا شخص تو مل جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔“

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، باب ذکر الفرق بین علماء الدنیا..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۸، باختصار۔



یہ بات آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس لئے دریافت فرمائی کہ آپ کسی کو اس کا اہل نہیں پاتے تھے۔ واقعی آپ نے سچ فرمایا کیونکہ لوگوں سے میل جول رکھنا غیبت کرنے، سننے یا برائی پر خاموش رہنے سے خالی نہیں ہوتا۔

## انسان کی بہترین حالت:

انسان کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا خود فائدہ حاصل کرے۔ اگر یہ مسکین غور کرتا اور اس بات کو جانتا کہ اس کا فائدہ پہنچانا ریا کاری کے شائبے، مال و دولت اور ریاست حاصل کرنے کی طلب سے خالی نہیں تو اسے معلوم ہو جاتا کہ فائدہ حاصل کرنے والا بھی اسے طلب دنیا کے لئے آلہ اور برائی کے لئے وسیلہ بنا رہا ہے۔ لہذا اس معاملے میں وہ اس کا مددگار ہے اور اس کے لئے اسباب مہیا کرتا اور ڈاکوؤں کو تلوار بیچنے والے کی طرح ہے۔ علم تلوار کی مانند ہے بھلائی کے لئے اسے بہتر بنانا ایسے ہے جیسے جہاد کے لئے تلوار کو درست کرنا اسی لئے کسی ایسے شخص کو تلوار بیچنا جائز نہیں جس کے بارے میں علامات و قرائن سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔

علمائے آخرت کی علامات میں سے یہ 12 علامتیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اسلاف علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام کے اخلاق کو جامع ہے۔ پس تم دو شخصوں میں سے ایک ہو جاؤ یعنی یا تو ان صفات کو اپنالو یا اپنی کوتاہی تسلیم کر لو، تیسرے نہ بننا ورنہ تم پر معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور تم دنیا کے آلہ کو دین سمجھنے لگو گے اور جھوٹوں کی عادات کو علمائے راہین کی سیرت خیال کرو گے اور یوں اپنی جہالت اور انکار کی وجہ سے تباہ و برباد اور مایوس لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔

## دُعا:

ہم شیطان لعین کے مکر و فریب سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ ہم اللہ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنادے جنہیں دنیوی زندگی دھوکا نہیں دیتی اور نہ ہی شیطان انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم پر دھوکا دیتا ہے۔



## عقل، اس کی عظمت، حقیقت اور اقسام کا بیان

باب نمبر 7:

پہلی فصل: عقل کی عظمت

یاد رکھئے! عقل کی عظمت کو بیان کرنے میں تکلف کی ضرورت نہیں بالخصوص جبکہ علم کی فضیلت عقل کی وجہ سے ظاہر ہے اور عقل علم کا منبع، مطلع اور بنیاد ہے۔ علم کی نسبت عقل سے ایسی ہے جیسے پھل کی درخت سے، روشنی کی سورج سے اور دیکھنے کی آنکھ سے تو وہ چیز عظمت والی کیوں نہ ہو جو دنیا و آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے۔ نیز اس میں کیسے شک کیا جاسکتا ہے جبکہ جانور اپنے سوجھ بوجھ کی کمی کے سبب عقل سے شرماتا ہے یہاں تک کہ سب سے بڑے جسم والا، سب سے زیادہ نقصان دینے والا اور سب سے زیادہ خوفناک جانور بھی جب انسان کو دیکھ لیتا ہے تو گھبرا کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان اس پر غلبہ پالے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ حیلوں کو جانتا ہے۔

### بوڑھے شخص کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟

حضور اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بوڑھا شخص اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی

اپنی امت میں۔“ (۱)

اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے۔ وہ عمر رسیدہ ہوتا ہے یا اس کو قوت زیادہ حاصل ہوتی ہے بلکہ اس لئے کہ اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے جو عقل کا نتیجہ ہے۔ اسی لئے تم دیکھتے ہو کہ ترکی، کردی اور عرب کے بیوقوف بلکہ تمام وہ لوگ بھی جو جانور سمجھے جاتے ہیں فطری طور پر بوڑھوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دشمن، رسول خدا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے لیکن جب چہرہ نور بار کا دیدار کیا تو تعظیم و تکریم بجالائے اور مبارک پیشانی پر نور نبوت درخشاں دیکھا اگرچہ وہ حضور سر اپا نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دل میں پوشیدہ تھا جیسے عقل پوشیدہ ہوتی ہے۔ الغرض! عقل کی عظمت و فضیلت ایک بدیہی چیز ہے اور ہم محض اس کی فضیلت و عظمت میں وارد شدہ آیات و احادیث کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

①..... المقاصد الحسنة، حرف الشين المعجمة، الحديث: ۶۰، ص ۲۶۴۔

## ﴿عقل کی فضیلت و عظمت میں وارد 4 فرامین باری تعالیٰ﴾

اللہ رَبُّ الْعَالَمِينَ نے عقل کا نام نور رکھا ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ اَللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ اِذْ كَشَفْنَا بِهَا صَبَاحًا ط (پ: ۱۸، النور: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نور ہے زمین و آسمان کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق۔

علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے روح، وحی اور حیات قرار دیا۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿۲﴾ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط (پ: ۲۵، الشوریٰ: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فزا چیز اپنے حکم سے۔

ایک جگہ فرمایا:

﴿۳﴾ اَوْ مِّنْ كَانَ مَبِيَّتًا فَاٰحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا اَيُّسِّنِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ ط (پ: ۸، الانعام: ۱۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور کیا وہ کہ مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے۔

نور و ظلمت کے ذکر سے مراد علم اور جہالت ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿۴﴾ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط (پ: ۳، البقرة: ۲۵۷) ترجمہ کنز الایمان: انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

## ﴿عقل کی فضیلت و عظمت میں وارد 14 فرامین مصطفیٰ﴾

﴿1﴾..... اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے احکامات کو سمجھو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی تلقین کرو یوں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا انہیں جان جاؤ گے۔ یاد رکھو! عقل تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک تمہارے درجات بلند کرتی ہے اور جان لو! عقل مند وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرے اگرچہ صورت میں اچھا نہ ہو، کمتر ہو، اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو اور پراگندہ حال ہو جبکہ جاہل وہ ہے جو رب عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرے اگرچہ خوبصورت ہو، بڑی شان و شوکت کا مالک ہو، اچھی حالت اور قدر و منزلت رکھتا اور فصیح گفتگو کرتا ہو۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک بندر اور خنزیر اس کے نافرمان سے زیادہ عقل مند ہیں، اس بات سے دھوکا نہ کھانا کہ دنیا دار اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ تو خود

خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا پھر اس سے فرمایا: ”آگے آتو وہ آگے ہوگئی۔“ پھر فرمایا: ”پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔“ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو، میں تیرے ہی سبب سے پکڑ کروں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی سبب عذاب دوں گا۔“<sup>(۲)</sup>

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر عقل عرض ہے تو اسے اجسام سے پہلے کیسے پیدا کیا گیا اور اگر جوہر ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوہر قائم بنفسہ ہو اور کسی جگہ کو گھیرے ہوئے نہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے اور علم معاملہ میں اسے ذکر کرنا مناسب نہیں اور اس وقت ہمارا مقصد علم معاملہ کو بیان کرنا ہے۔

﴿3﴾..... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی تو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پوچھا: ”اس کی عقل کیسی ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”ہم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سامنے عبادت میں اس کی کوشش اور اس کی مختلف نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں استفسار فرما رہے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے اور کل بروز قیامت بارگاہ ربُّ العُلَى میں قرب کے درجات پر لوگ اپنی عقلوں کے مطابق فاتر نہ ہوں گے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿4﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ عقل کی فضیلت کی مثل نہیں کماتا، عقل صاحب عقل کو ہدایت دیتی اور

①..... المطالب العالیة، کتاب العقل لداود بن المحبر، الحدیث: ۲۷۹، ج ۷، ص ۳۱۱۔

②..... اللائی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة، کتاب المبتدأ، ج ۱، ص ۱۲۰، بتغییر قلیل۔

فردوس الاخبار، باب الالف، الحدیث: ۴، ج ۱، ص ۲۹۔

③..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۸۵، ج ۷، ص ۳۱۹۔

ہلاکت سے بچاتی ہے۔ جب تک آدمی کی عقل کامل نہ ہو تب تک نہ تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دین درست ہوتا ہے۔“ (۱)

﴿5﴾..... انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجے کو پالیتا ہے اور کسی بھی آدمی کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرتا اور اپنے دشمن شیطان کی نافرمانی کرتا ہے۔ (۲)

﴿6﴾..... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لیبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور مسلمان کا ستون اس کی عقل ہے۔ اس کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ فساق و فجار جہنم میں کہیں گے: لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ“ (پ ۲۹، الملک: ۱۰) ہوتے۔“ (۳)

﴿7﴾..... منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا تمیم داری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا: ”تم میں سرداری کس کی ہے؟“ عرض کی: ”عقل کی۔“ تو امیر المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”تم نے سچ کہا میں نے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے بھی پوچھا تھا جیسے تم سے پوچھا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے وہی فرمایا جو تم نے جواب دیا اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام سے پوچھا: ”سرداری کس کی ہے؟“ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا: ”عقل کی۔“ (۴)

①..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۸۰، ج ۷، ص ۳۲۲۔

②..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۷۸، ج ۷، ص ۳۰۹۔

مسند الحارث، باب ماجاء فی العقل، الحدیث: ۸۲۳، ج ۳، ص ۳۲۱۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیدة عائشة، الحدیث: ۲۵۵۹، ج ۹، ص ۵۵۵، باختصار۔

③..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۷۹، ج ۷، ص ۳۱۲۔

④..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۷۹، ج ۷، ص ۳۱۲۔

﴿8﴾..... حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت، شَفِيعِ امْتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کثیر سوالات کئے گئے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو! ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور آدمی کی سواری عقل ہے اور تم میں سے رہنمائی اور حجت کی پہچان میں سب سے عمدہ وہ ہے جو باعتبارِ عقل تم میں سب سے افضل ہے۔“ (۱)

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب رسول انور، شافعِ محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو کہتے سنا کہ فلاں فلاں سے زیادہ بہادر ہے اور فلاں زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلاں تجربہ کار نہ ہو جائے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں اس بات کا علم نہیں۔“ لوگوں نے عرض کی: ”تو پھر کیسا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے ان کے لئے جو عقل مقدر فرمائی انہوں نے اس کے مطابق جہاد کیا، ان کی مدد و نصرت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق تھی، ان میں سے بعض کو مختلف مرتبے حاصل ہوئے۔ بروز قیامت وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے مطابق مراتب پائیں گے۔“ (۲)

﴿10﴾..... حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”فرشتوں نے عقل کے مطابق اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی اطاعت میں جدو جہد کی اور بنی آدم میں مسلمانوں نے اپنی عقلوں کے مطابق کوشش کی تو ان میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا زیادہ مطیع و فرمانبردار وہ ہوگا جو ان میں زیادہ عقل والا ہوگا۔“ (۳)

﴿11﴾..... ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے کس وجہ سے افضل ہوتے ہیں؟“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”عقل کی وجہ سے۔“ میں نے عرض کی: ”اور آخرت میں؟“ ارشاد فرمایا: ”عقل کے سبب۔“ میں نے عرض کی: ”کیا انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟“ ارشاد فرمایا:

①..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۸۰، ج ۷، ص ۳۱۸، بتغییرِ قلبیل۔

②..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۸۰، ج ۷، ص ۳۱۸۔

③..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث: ۲۷۹، ج ۷، ص ۳۱۲۔

”اے عائشہ! لوگ اس عقل کے مطابق ہی تو عمل کرتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں عطا فرمائی تو ان کے اعمال ان کی عقلوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔“ (۱)

﴿12﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں، محبوبِ رحمن صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے اور مومن کا آلہ عقل ہے۔ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور آدمی کی سواری عقل ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کی ایک غایت ہوتی ہے اور عابدوں کی غایت عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک داعی ہوتا ہے اور عبادت گزاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر تاجر کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور مجتہدین کا سرمایہ عقل ہے۔ تمام گھر والوں کا ایک منتظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گھر کی منتظم عقل ہے۔ ہر ویرانی کی آبادی ہوتی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر شخص کا ایک جانشین ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی اور اسی کی وجہ سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور صدیقین کی جانشین عقل ہے جس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی اور اسی کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اور ہر سفر کا ایک خیمہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا خیمہ عقل ہے۔“ (۲)

﴿13﴾..... مسلمانوں میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کے لئے تیار رہے، اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے، اس کی عقل کامل ہو، اپنے نفس کو نصیحت کرے، اس کی نگرانی کرے اور وہ عقل کے ذریعے اپنی زندگی میں عمل کر کے فلاح و کامیابی پاتا ہے۔ (۳)

﴿14﴾..... تم میں سے عقل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا اور اُامر و نواہی کو سب سے زیادہ جانتا ہو اگرچہ نوافل میں تم میں سب سے کمتر ہو۔ (۴)

﴿..... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث ۲۷۸۸، ج ۷، ص ۳۱۰۔

②..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث ۲۷۸۸، ج ۷، ص ۳۱۰، بتغییر قلب۔

③..... تنزیہ الشریعة المرفوعة، کتاب المبتدأ، الحدیث ۱۲۸، ج ۱، ص ۲۲۱، باختصار۔

④..... المطالب العالیة، من کتاب العقل لداود بن المحبر..... الخ، الحدیث ۲۷۸۹، ج ۷، ص ۳۱۳۔

## دوسری فصل: عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام

یاد رکھو! عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ عقل کا نام مختلف معانی پر بولا جاتا ہے۔ یہی بات ان کے اختلاف کا سبب بنی اور اس میں خفا کو زائل کرنے والی حق بات یہ ہے کہ عقل کا اطلاق مشترکہ طور پر چار معانی پر ہوتا ہے جس طرح لفظ عین چند معانی پر بولا جاتا ہے اور وہ الفاظ جو اس کی مثل ہیں اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اس کی تمام اقسام کے لئے ایک تعریف تلاش کی جائے بلکہ ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کی جائے گی۔ چنانچہ،

### عقل کے چار معانی:

﴿1﴾..... ”عقل ایک ایسا وصف ہے جس کے ذریعے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔“ اسی کے ذریعے اس میں علومِ نظریہ قبول کرنے اور چھپی ہوئی فکری صنعتوں کی تدبیر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیُّ نے عقل کی جو تعریف بیان کی ہے اس سے ان کی مراد یہی ہے۔ انہوں نے عقل کی تعریف اس طرح بیان فرمائی: ”یہ ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے علومِ نظریہ کا ادراک کیا جاتا ہے گویا یہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اشیاء کے ادراک کے لئے تیار ہوتا ہے۔“ (۱) جو اس بات کا انکار کرتا اور عقل کو صرف ضروری اور بدیہی علوم کی طرف پھیلتا ہے وہ انصاف نہیں کرتا کیونکہ علوم سے غافل اور سوائے ہوئے شخص کو چونکہ یہ قوت حاصل ہوتی ہے اسی لئے اسے عقل مند کہا جاتا ہے حالانکہ علوم ضروریہ اس وقت موجود نہیں ہوتے۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعے جسم اختیاری حرکات اور حسی ادراکات کے لئے تیار ہوتا ہے اسی طرح عقل بھی ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات نظری علوم کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس فطری قوت اور حسی ادراکات میں انسان اور گدھے کے درمیان مساوات (برابری) مان کر کہا جائے کہ ”ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں صرف یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی عادتِ مبارکہ کے مطابق انسان میں علوم کو پیدا کرتا ہے جبکہ گدھے اور دوسرے جانوروں میں پیدا نہیں کرتا۔“ تو یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ ”گدھے اور جمادات (پتھر وغیرہ) کی

①..... ذمّ الهوی، الباب الاوّل فی ذکر العقل..... الخ، ص ۹، بتغییر قلیل۔



زندگی برابر ہے۔“ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ ”ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی عادتِ مبارکہ کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکات پیدا کرتا ہے۔“ اگر گدھے کو بے جان پتھر تصور کیا جائے تو یہ کہنا لازمی ہوگا کہ ”اس سے جو حرکت نظر آتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے نظر آنے والی ترتیب سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔“ تو جیسے یہ کہنا ضروری ہے کہ گدھے کا حرکات میں جمادات سے ممتاز ہونا اس خاص قوت کی بنیاد پر ہے جس کا نام زندگی ہے تو اسی طرح انسان بھی علومِ نظریہ میں حیوانات سے ایک خاص قوت کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے اور وہ عقل ہے۔ یہ اس شیشے کی مانند ہے جو صورتوں اور رنگوں کو دکھانے میں ایک خاص صفت کے ذریعے دوسرے اجسام سے جدا ہے اور وہ صفت اس کا صاف شفاف اور روشن ہونا ہے۔ اسی طرح آنکھ اپنی صفات اور شکل کے اعتبار سے جو اسے دیکھنے کے قابل کرتی ہیں پیشانی سے ممتاز ہے۔ لہذا اس قوت (یعنی عقل) کی علوم کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی دیکھنے کی طرف اور علوم کی وضاحت کے سلسلے میں قرآن و شریعت کی اس قوت کی طرف نسبت اس طرح ہے جیسے سورج کی روشنی کو آنکھوں کے نور سے۔ لہذا اس قوت کو اسی طرح سمجھنا چاہئے۔

﴿2﴾..... عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو سمجھ دار بچے کی ذات میں پائے جاتے ہیں کہ وہ جائز چیزوں کو جائز اور محال چیزوں کو محال سمجھتا ہے۔ مثلاً وہ جانتا ہے دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایک شخص ایک ہی وقت دو جگہوں میں نہیں ہو سکتا۔ بعض متکلمین نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے جو مندرجہ ذیل بات کہی ہے اس سے ان کا مطلب بھی وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: عقل بعض بدیہی علوم ہیں جیسے جائز چیزوں کے جواز اور محال اشیاء کے محال ہونے کا علم۔<sup>(۱)</sup> یہ بھی فی نفسہ صحیح تعریف ہے کیونکہ یہ علوم موجود ہیں اور انہیں عقل کہنا بھی ظاہر ہے البتہ اس قوت کا انکار کرنا اور یوں کہنا کہ صرف علوم بدیہی ہی موجود ہیں، فاسد خیال ہے۔

﴿3﴾..... وہ علوم جو حالات کی تبدیلی سے تجربہ کی بنیاد پر حاصل ہوں۔ کیونکہ جس شخص کو تجربات سمجھ دار اور مذاہب مہذب بنا دیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عادت میں عقل مند ہے اور جو اس سے موصوف نہ ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کند ذہن، نا تجربہ کار اور جاہل ہے تو یہ علوم کی ایک اور قسم ہے جسے عقل کہا جاتا ہے۔

﴿4﴾..... ”یہ قوت اس حد تک پہنچ جائے کہ معاملات کے انجام کی پہچان حاصل ہو جائے اور لذت کی طرف بلانے

①..... البحر المحیط فی اصول الفقہ، مقدمات اصول الفقہ، ج، ص ۶۶۔

والی شہوت کو نیست و نابود کر دے۔“ جب کسی کو یہ قوت حاصل ہو جائے تو اسے عقل مند کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس سے رکنا انجام پر نظر کے مطابق ہوتا ہے فوری شہوت کی وجہ سے نہیں۔ یہ بھی انسان کے ان خواص میں سے ہے جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

پہلا معنی بنیاد اور منبع ہے، دوسرا معنی اس کی فرع ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے، تیسرا معنی پہلے اور دوسرے کی فرع ہے کیونکہ فطری قوت اور علوم ضروریہ کی بنیاد پر تجرباتی علوم حاصل ہوتے ہیں اور چوتھا معنی آخری نتیجہ ہے اور یہی مقصود ہے۔ پہلے دو فطری اور طبعی طور پر حاصل ہوتے ہیں جبکہ دوسرے دو عمل اور اکتساب سے حاصل ہوتے ہیں اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا:

رَأَيْتُ الْعُقْلَ عَقْلَيْنِ      فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ  
وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ      إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ  
كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ      وَضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ

**ترجمہ:** (۱) میں نے عقل کو دو صورتوں میں دیکھا ایک فطری اور دوسری سنی ہوئی۔

(۲) اور سنی ہوئی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک فطری عقل موجود نہ ہو۔

(۳) جیسے سورج کی روشنی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک آنکھوں کی روشنی نہ ہو۔

نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کہ ”اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک عقل سے زیادہ معزز ہو۔“<sup>(۱)</sup> سے عقل کی پہلی قسم مراد ہے۔

اور اس ارشاد گرامی کہ ”جب لوگ مختلف قسم کی نیکیوں اور اعمال صالحہ کے ذریعے قرب الہی حاصل کریں تو تم اپنی عقل کے ذریعے قرب حاصل کرو۔“<sup>(۲)</sup> سے آخری قسم مراد ہے۔

## عقل مند کی پہچان:

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ فرمایا اس سے

①..... مفردات الفاظ القرآن للراغب، کتاب العین، ص ۵۷۔

②..... حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنف، الحدیث ۳۲، ج ۱، ص ۵۰، بتغییر قلیل۔

بھی یہی مراد ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا: ”اے ابو درداء! اپنی عقل میں اضافہ کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں زیادہ مقرب بن جاؤ گے۔“ انہوں نے عرض کی: ”آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر میرے ماں باپ قربان! میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟“ ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حرام کردہ کاموں سے اجتناب اور فرائض کو پابندی سے ادا کرتے رہو عقل مند ہو جاؤ گے۔ اچھے اعمال اختیار کرو دنیا میں تمہیں بلند رتبہ ملے گا اور عزت میں اضافہ ہوگا جبکہ آخرت میں ربِّ عَزَّوَجَلَّ کا قرب نصیب ہوگا اور عزت حاصل ہوگی۔“ (۱)

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا ابی بن کعب اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے: ”یا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! لوگوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے؟“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو عقل مند ہے۔“ عرض کی: ”زیادہ عبادت گزار کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو عقل مند ہے۔“ عرض کی: ”سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو عقل مند ہے۔“ عرض کی: ”کیا عقل مند وہ ہے جس کی باطنی صفات مکمل ہوں، فصاحت ظاہر، ہاتھ سخی اور مقام عظیم کا مالک ہو؟“ تو حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کے اسباب ہیں اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لئے ہے۔“ پھر فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو متقی ہے اگرچہ دنیا میں بظاہر ذلیل و رسوا ہو۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”بے شک عقل مند وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کی فرمانبرداری کی۔“ (۳)

**خلاصہ:** مناسب یہ ہے کہ اس قوت کا اصل نام لغت اور استعمال کے اعتبار سے ہو اور علوم پر اس کا اطلاق اس وجہ سے ہو کہ وہ اس کے ثمرات و نتائج ہیں جیسے کسی چیز کی پہچان اس کے (نتیجہ اور) ثمرہ سے ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے علم خشیت الہی کا نام ہے اور عالم وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے کیونکہ خشیت علم کا نتیجہ ہے تو اس (عقلی) قوت کے غیر پر عقل کا اطلاق مجازاً ہوگا لیکن لغت سے بحث کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں اقسام موجود ہیں اور یہ نام

①..... اتحاف الخیرة المہرۃ، باب ماجاء فی العقل، الحدیث: ۴۰۷، ج ۷، ص ۳۷۵۔

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۰۳۶، ص ۳۶۵۔ ③..... المرجع السابق، الحدیث: ۴۰۵۸، ص ۳۷۱۔

(یعنی عقل) ان سب پر بولا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے علاوہ کسی کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں اور صحیح یہ ہے کہ تمام اقسام پائی جاتی ہیں اور یہی اصل ہے۔ جبکہ یہ علوم گویا فطرتاً اس قوتِ عقلیہ میں ضمناً پائے جاتے ہیں لیکن وجود میں اس وقت پائے جاتے ہیں جب کوئی ایسا سبب جاری ہو جو انہیں وجود کا جامہ پہنائے۔ یہ علوم کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے وارد ہوئی ہے گویا وہ اس قوتِ عقلیہ میں موجود تھے اب ظاہر ہو گئے۔ اس کی مثال زمین میں پانی کا موجود ہونا ہے جو کنواں کھودنے سے ظاہر اور جمع ہوتا اور قوتِ حسیہ کے ذریعے ممتاز ہو جاتا ہے یہ بات نہیں کہ اس کی طرف کسی نئی چیز کو لایا گیا ہے۔ اسی طرح با دام میں روغن اور گلاب میں عرق ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ارشادِ خداوندی ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنْيَانِ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ قَالُوا ابْتُلُوا  
ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب! یاد کرو جب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۲)

**فائدہ:** اس سے مراد ان کے نفوس کا اقرار ہے نہ کہ زبانوں کا کیونکہ زبانوں کے اقرار کے اعتبار سے اقرار کرنے والے اور منکرین میں ان کی تقسیم اس وقت ہوئی جب ان کی زبانوں اور اشخاص کو پیدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ  
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ (پ ۲۵، الزخرف: ۸۷)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے احوال کا اعتبار کیا جائے تو ان پر ان کے نفوس اور باطن گواہی دیں گے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ (پ ۲۱، الروم: ۳۰)

**فائدہ:** یعنی ہر شخص کو ایمان باللہ پر پیدا کیا گیا ہے بلکہ ہر چیز کو ماہیت کی معرفت پر پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے اندر یہ معرفت رکھی گئی ہے کیونکہ اس کی استعدادِ ادراک کے قریب ہے۔ پھر جب فطرتاً نفوس میں ایمان کو رکھا گیا ہے تو اس اعتبار سے لوگوں کی دو اقسام ہیں:

(۱)..... وہ جس نے منہ پھیر اور (اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کو) بھلا دیا یہ کافر ہے۔ (۲)..... وہ جس نے اپنے خیال کو دوڑایا تو یاد آ گیا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گواہ بنا پھر غفلت کی وجہ سے بھول گیا لیکن بعد میں اسے یاد آ گیا۔ اسی لئے اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۲۱) ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۲۹﴾ (پ ۲۳، ص: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اور عقل مند نصیحت مانیں۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ  
الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ ۗ (پ ۶، المائدة: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ بَيَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  
مُّدْرِكٍ ﴿۱۷﴾ (پ ۲، القمر: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

اور اس طریقے کو تذکر (یعنی یاد کرنا) کہنا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ گویا یاد آنے کی دو صورتیں ہیں:

- (۱)..... وہ اس صورت کو یاد کرے جس کا وجود اس کے دل میں حاضر تھا لیکن پائے جانے کے بعد غائب ہو گیا اور
- (۲)..... وہ اس صورت کو یاد کرے جو فطرت کے ضمن میں وہاں پائی جاتی ہے اور یہ حقائق دیکھنے والے کو نور بصیرت سے نظر آتے ہیں لیکن اس شخص پر بھاری ہوتے ہیں جس کا تکیہ تقلید اور سماعت ہو، کشف اور مشاہدہ کرنا نہ ہو اسی لئے تم دیکھو گے کہ وہ اس قسم کی آیات میں دیوانہ پن اختیار کرتا ہے اور تذکر اور نفوس کے اقرار کے سلسلے میں دور از کار تاویلات نکالتا ہے نیز احادیث اور آیات کے سلسلے میں اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں بلکہ بعض اوقات یہ بات اس پر غالب آجاتی ہے تو وہ ان کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھتا اور ان میں تضاد سمجھتا ہے۔ اس کی مثال: نابینا شخص جیسی ہے۔

## دل کا اندھا پن زیادہ نقصان دہ ہے:

نا بیٹا شخص جب گھر میں داخل ہوتا اور گھر میں ترتیب سے رکھے ہوئے برتنوں کی وجہ سے گر جاتا ہے تو کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ ”برتنوں کو ترتیب سے ایک جگہ کیوں نہیں رکھا جاتا۔“ تو اسے کہا جاتا ہے: ”یہ اپنی جگہ پر ہیں خرابی تو تمہاری آنکھوں میں ہے۔“ بصیرت کی خرابی بھی اس کی طرح ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ نفس سوار کی طرح اور جسم سواری کی مانند ہے اور سوار کا اندھا ہونا سواری کے اندھے پن سے زیادہ نقصان دہ ہے اس وجہ سے کہ باطنی بصیرت ظاہری بصیرت کے مشابہ ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مَا كَذَّبَ النُّفُودُ مَا سَأَى ۝ (پ: ۲۷، النجم: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ (پ: ۷۷، الانعام: ۷۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اور اس کی ضد کو اندھا پن قرار دیا۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى  
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ (پ: ۱، الحج: ۴۶)

ترجمہ کنز الایمان: تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ (پ: ۱، بنی اسرائیل: ۷۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ۔

یہ امور انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے لئے واضح کئے گئے ان میں سے بعض کا تعلق ظاہری بصیرت سے اور بعض کا باطنی بصیرت سے ہے اور ان سب کو رویت (دیکھنا) کہا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کی باطنی نگاہ کامل نہ ہو اسے دین سے صرف چھلکے اور مثالیں حاصل ہوتی ہیں دین کا مغز اور حقائق حاصل نہیں ہوتے۔ یہ وہ اقسام ہیں جن پر لفظ عقل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

## تیسری فصل: عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں تفاوت

عقل میں فرق کے بارے میں بھی لوگوں کی آرا مختلف ہیں لیکن کم علموں کا کلام نقل کرنے کا کیا فائدہ بلکہ سب سے بہتر اور اہم بات واضح حق کی طرف جلدی کرنا ہے اس سلسلے میں واضح حق یہ ہے کہ دوسری قسم ”جو جائز چیزوں کے جواز اور محالات کے محال ہونے سے متعلق ضروری علم ہے“ کے علاوہ عقل کی تمام اقسام میں فرق ہے کیونکہ جو یہ جانتا ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یقیناً یہ بات بھی اس کے علم میں ہے کہ ایک جسم ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز قدیم بھی ہو اور حادث بھی۔ اس طرح دیگر مثالیں اور وہ امور بھی ہیں جن کا ادراک کسی شک کے بغیر ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے لیکن تین اقسام میں فرق پایا جاتا ہے۔

چوتھی قسم جو یہ ہے کہ ”خواہشات کو ختم کرنے کے لئے قوت کا حاصل ہونا“ اس میں لوگوں کے درمیان تفاوت پوشیدہ نہیں بلکہ اس میں ایک شخص کی مختلف حالتوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کبھی خواہش میں فرق کے باعث ہوتا ہے کیونکہ عقل مند شخص بعض خواہشات کو چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور بعض کو نہیں لیکن ان کا چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا۔ نوجوان کبھی زنا کو چھوڑنے سے عاجز ہوتا ہے لیکن جب بڑا ہو جاتا اور اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے جبکہ ریا کاری اور اقتدار کی خواہش بڑھانے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جو شہوت کی خرابی سے روشناس کراتا ہے۔

## عقل کا لشکر اور سامان جہاد:

اسی لئے طیب بعض نقصان دہ کھانوں سے بچنے پر قادر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات غیر طیب عقل میں اس طیب کے برابر ہونے کے باوجود اس پر قادر نہیں ہوتا اگرچہ وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے لیکن چونکہ طیب باعتبار علم زیادہ کامل ہوتا ہے اس لئے اس کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا خوف خواہشات کا قلع قمع کرنے کے لئے عقل کا لشکر اور سامان جہاد ہے۔ یونہی عالم گناہوں کو چھوڑنے پر جاہل سے زیادہ قادر ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہوں کے نقصانات کا زیادہ علم رکھتا ہے اس سے مراد حقیقی عالم ہے علمائے دنیا اور یہودہ گفتگو کرنے والے مراد نہیں اور اگر خواہش کے اعتبار سے تفاوت ہو تو وہ عقل کا تفاوت نہیں اور اگر وہ علم کی وجہ سے ہے تو ہم نے اس قسم کے علم کا نام عقل بھی رکھا ہے کیونکہ

وہ قوتِ عقلیہ کو مضبوط کرتا ہے۔ فرق اس چیز میں ہوتا ہے جس کی طرف یہ نام لوٹتا ہے اور بعض اوقات صرف قوتِ عقلیہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے جب یہ قوت مضبوط ہوگی تو یقیناً شہوت کو زیادہ ختم کرنے والی ہوگی۔ تیسری قسم جو تجرباتی علوم سے متعلق ہے اس میں لوگوں کا مختلف ہونا ناقابلِ انکار ہے کیونکہ وہ بات تک زیادہ پہنچنے اور اسے جلد از جلد پانے کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اس کا سبب یا تو عقلی قوت میں فرق ہوتا ہے یا تجربہ میں فرق اس کا باعث بنتا ہے۔

پہلی قسم یعنی قوتِ عقلیہ اور یہی اصل ہے۔ اس اعتبار سے بھی انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک نور کی مثل ہے جو نفس پر چمکتا ہے اور اس کی صبح طلوع ہوتی ہے اور اس کے چمکنے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ (یعنی بچہ اشیاء میں) تیز کرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر وہ مسلسل پرورش پاتا اور اس کی نشوونما میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ خفیہ طور پر تدریجاً بڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ (نور) 40 سال کی عمر کے قریب کامل ہو جاتا ہے اور یہ صبح کی روشنی کی مانند ہوتا ہے کیونکہ وہ شروع میں اس قدر مخفی ہوتی ہے کہ اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے پھر تدریجاً بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ کے طلوع ہونے کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے۔

نورِ بصیرت میں فرق آنکھوں کی روشنی میں فرق کی طرح ہے کمزور بینائی اور تیز بینائی والے کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے اور اللہ عزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو تدریجاً پیدا کرنے کا طریقہ جاری فرمایا ہے حتیٰ کہ شہوانی قوت بچے کے بالغ ہوتے ہی اس میں اچانک اور یکدم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تدریجاً تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اسی طرح تمام قوتیں اور صفات تدریجاً ظاہر ہوتی ہیں اور جو شخص اس قوت میں لوگوں کے درمیان تفاوت کا انکار کرتا ہے گویا وہ عقلی قوت سے خالی ہے اور جو یہ خیال کرے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عقل مبارک کسی دیہاتی اور جنگلوں میں رہنے والے گنواروں کی عقل کی طرح ہے تو وہ تو کسی دیہاتی سے بھی زیادہ خسیس ہے وہ قوتِ عقلیہ میں تفاوت کا کیسے انکار کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو علوم کے سمجھنے میں لوگوں کے مختلف درجات نہ ہوتے اور کند ذہن، ذہین اور کامل میں ان کی تقسیم نہ ہوتی۔

کند ذہن: وہ ہوتا ہے جو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا حتیٰ کہ اساتذہ کو اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔



ذہین: وہ ہوتا ہے جو ادنیٰ اشارے سے سمجھتا ہے۔

کامل: وہ ہوتا ہے کہ تعلیم دیے بغیر بھی اس سے حقائق امور کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

يَكَادُ رَبُّهَا يُفِيءُ وَّلَوْلَا تَمَسُّهُ نَارٌ  
نُورًا عَلَى نُورٍ ط (پ ۱۸، النور: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ  
اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔

اور یہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی صفت ہے کیونکہ سیکھنے اور سننے کے بغیر بھی ان کے باطن میں نہایت باریک اور پوشیدہ امور روشن ہو جاتے ہیں اور اسے الہام کہا جاتا ہے۔

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس ارشادِ گرامی میں یہی بات بیان فرمائی کہ حضرت جبرئیل عَلَیْہِ السَّلَام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ”جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں محبت کریں بے شک آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں اور جب تک چاہتے ہیں زندہ رہیں بالآخر آپ انتقال فرمانے والے ہیں اور جو چاہیں عمل کریں آپ کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔“ (۱)

اور فرشتوں کی طرف سے نبیوں کو اس طرح کی خبر دینا وحیِ صریح کے خلاف ہے جو کان کے ذریعے سنی جاتی اور آنکھوں سے فرشتے کو دیکھا جاتا ہے اسی لیے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے دل میں ڈالنے (الہام) سے تعبیر فرمایا۔ وحی کے درجات بہت زیادہ ہیں اور ان میں بحث کرنا علمِ معاملہ کے لائق نہیں بلکہ اس کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے اور تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ وحی کے درجات، منصبِ وحی کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ طبیب بیمار کو صحت کے درجات سکھا دے اور عالم کسی فاسق کو عدالت کے درجات کی تعلیم دے اگرچہ وہ فاسق ان درجات سے ناواقف ہو۔ لہذا علم کچھ اور چیز ہے اور کسی معلوم چیز کا وجود کچھ اور۔ پس ہر وہ شخص جو نبوت اور ولایت کی پہچان رکھتا ہو نبی یا ولی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تقویٰ و پرہیزگاری اور ان کی باریکیوں کو جاننے والا متقی ہو سکتا ہے۔

خلاصہ: لوگوں کی تقسیم یوں ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ذاتی طور پر آگاہ ہوتا اور سمجھتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو کسی کے آگاہ کرنے اور سکھانے کے بغیر نہیں سمجھتا اور تیسرا وہ ہے کہ جسے تعلیم و تنبیہ بھی فائدہ نہیں دیتی جس طرح زمین کی

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث ۱۰۵۴، ج ۷، ص ۳۴۹، بتغییر قلیل۔

مختلف صورتیں ہیں کہ بعض جگہ پانی جمع ہوتا اور اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ خود بخود چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے، بعض مقامات پر کھودنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ نالیوں کی طرف نکلے جبکہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کھودائی کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ خشک جگہ ہوتی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ صفات کے اعتبار سے زمین کے جواہر مختلف ہیں۔ اسی طرح قوتِ عقلیہ کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہیں نقلی دلائل کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے پر یہ حدیث دلائل کرتی ہے۔ چنانچہ،

### عرش سے بڑھ کر عظمت والی چیز:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے طویل حدیث مروی ہے۔ اس کے آخر میں عرش کی عظمت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کی: ”اے ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ! کیا تو نے عرش سے بڑی چیز بھی کوئی پیدا کی ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! وہ عقل ہے۔“ انہوں نے عرض کی: ”اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”رہنے دو، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، کیا تمہیں ریت (کے ذرات) کی تعداد کا علم ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”نہیں۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے ریت (کے ذرات) کی تعداد کی مثل عقل کو مختلف قسموں میں پیدا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک ذرہ دیا گیا، بعض کو دو، بعض کو تین اور چار، بعض کو ایک فرق (ایک پیمانہ جس میں آٹھ سیر غلہ آتا ہے)، بعض کو سو (60 صاع غلہ) اور بعض کو اس سے بھی زیادہ دیا گیا۔“<sup>(۱)</sup>

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم پوچھو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو صوفی بنے بیٹھے اور عقل و معقول کی برائی بیان کرتے ہیں؟ تو یاد رکھئے! اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجادلہ و مناظرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اعتراضات اور الزامات لگانے کا نام عقل رکھ لیا ہے اور یہ فن کلام کے سبب ہے اور لوگ اس پر قادر نہیں کہ انہیں بتائیں کہ تم نے نام رکھنے میں خطا کی ہے کیونکہ یہ نام ان کی زبانوں پر جاری اور دلوں میں یوں راسخ ہو گیا کہ اب ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا لہذا انہوں نے عقل و معقول کی برائی بیان کرنا شروع کر دی اور ان کے نزدیک یہی عقل ہے۔

①..... اتحاف الخيرة المهرة، باب ماجاء في العقل، الحديث ۷۰۶، ج ۴، ص ۳۷۴، بتغير قليل۔

رہانور بصیرت کہ جس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اور اس کے رسولوں کی صداقت نصیب ہوتی ہے تو اس کی برائی و مذمت کا تصور کیسے ممکن ہے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی تعریف فرمائی ہے اگر اس کی مذمت کی جائے تو پھر کس چیز کی تعریف کی جائے گی؟ جب شریعت قابل تعریف ہے تو شریعت کی صحت کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اگر شریعت کی صحت کا علم عقل کے ذریعے ہو جو خود مذموم ہے اور اس پر یقین نہیں ہے تو شریعت بھی مذموم ہوگی۔ نیز جو کہتا ہے کہ اس (یعنی شریعت) کا ادراک یقین کی آنکھ اور نور ایمان سے ہوتا ہے نہ کہ عقل کے ذریعے تو اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ ہمارے نزدیک بھی عقل، عَيْنُ الْيَقِينِ اور نور ایمان کی مراد ایک ہی ہے اور وہ باطنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے ذریعے وہ ہر چیز کی حقیقت کو پالیتا ہے۔

اس قسم کے اکثر مغالطے ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ سے تلاش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ مغالطے میں پڑتے جاتے ہیں کیونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحات مغالطوں کا شکار ہیں۔ عقل کے بیان میں اتنا ہی کافی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ خوب جانتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد اور اس کے فضل سے علم کا بیان مکمل ہوا۔ ہمارے سردار حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور زمین و آسمان کے ہر منتخب بندے پر رحمت ہو۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَوْلًا وَآخِرًا



﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

## عقائد کا بیان

قوائد عقائد کا بیان چار فصلوں پر مشتمل ہے:

### پہلی فصل: پہلے اسلامی رکن کلمۂ شہادت کے متعلق عقیدہ اہلسنت کی وضاحت

اس فصل میں عقائد اہلسنت میں سے اس عقیدے یعنی کلمۂ شہادت کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ جس کا اقرار و تصدیق پہلا اسلامی رکن ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ توفیق سے میں کہتا ہوں کہ سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا، جو چاہے کرنے والا، عرش کا مالک عزت والا، سخت گرفت فرمانے والا، اپنے پسندیدہ بندوں کو صراطِ مستقیم اور درست طرزِ عمل کی طرف ہدایت دینے والا، شک و تردد کی اندھیروں سے اپنے عقائد کو بچا کر اقرار توحید پر جم جانے والوں پر انعام فرمانے والا، اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت اور معزز و مشرف صحابہ کرام رَضَوْنَا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق بخشنے والا ہے۔ اپنے پسندیدہ بندوں پر اپنی ذات و افعال کو ان عمدہ اوصاف کے ذریعے روشن فرماتا ہے کہ جن کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا اور بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اور وہ انہیں اپنی ذات کی معرفت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، بے نیاز ہے کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، تنہا ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں، واحد و قدیم ہے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا، بذاتِ خود قائم اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس کا کوئی اختتام نہیں، وہ باقی اور غیر فانی ہے۔ اس کے لئے انجام و زوال نہیں۔ اس کی ذات بزرگی پر دلالت کرنے والی صفات سے متصف ہے۔ زمانے گزرتے اور دن رات ختم ہوتے جائیں گے لیکن اس کی ذات نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ٹوٹنے والی بلکہ اس کی شان یہ ہے:

هُوَ الْوَلَدُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ

ترجمہ کنز الایمان: وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور

وہی سب کچھ جانتا ہے۔

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲﴾ (پہلے ۲، الحدید: ۳)

## کلمہ شہادت کے پہلے جز عقیدہ توحید کی وضاحت

### ہر عیب و نقص سے پاک ذات:

اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِسْم وَجِسْمَانِیت سے پاک ہے۔ وہ متناہی اور قسمت کے تابع جو ہر نہیں۔ وہ جسم کی مثل نہیں کیونکہ اجسام تو ایک حد میں محدود اور قابل تقسیم ہوتے ہیں۔ نہ تو وہ جو ہر ہے نہ عرض<sup>(۱)</sup> اور نہ ہی جو اہر و عوارض اس میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ نہ تو وہ کسی موجود کے مشابہ ہے اور نہ ہی کوئی موجود اس کے مشابہ۔ (بلکہ قرآن مجید میں ہے:)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ (پ ۲۵، الشوری: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

اور نہ ہی وہ کسی جیسا ہے۔ وہ مققداروں میں شمار ہونے اور کناروں و سمتوں میں احاطہ کئے جانے سے یوں پاک ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی شایان شان اور اپنے فرمان و ارادے کے مطابق عرشِ عظیم پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔ اس کا استواء چھونے، جائے گیر ہونے، جائے پذیر ہونے، کسی چیز میں حلول کرنے اور منتقل ہونے سے منزہ ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھاتا بلکہ عرش و حاملین عرش کا قیام اس کی قدرت و لطف کا محتاج اور ان سب کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ تحت الثری کی گہرائیوں، آسمان کی وسعتوں اور عرش کی بلندیوں سے بلند تر ہے۔ اس کی اس بلندی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین و تحت الثری سے دُور اور ان کی نسبت عرش و آسمان سے قریب ہے بلکہ وہ زمین و تحت الثری سے جس طرح بلند و عظمت والا ہے اسی طرح عرش و آسمان سے بھی عظیم تر ہے۔ لیکن ان تمام تر بلندیوں اور عظمتوں کے باوجود وہ ہر موجود شے کے قریب اور انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (پ ۲۲، السبا: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

جس طرح اس کی ذات اجسام کی مانند نہیں، اسی طرح اس کا قرب بھی عام طور پر ایک جسم کے دوسرے جسم کے قریب ہونے کی طرح نہیں۔ نہ وہ کسی شے میں حلول<sup>(۲)</sup> کئے ہوئے ہے اور نہ ہی کوئی شے اس میں حلول کئے ہوئے  
①..... اہلسنت کے نزدیک: جو ہر سے مراد وہ جز ہے جو تقسیم نہ ہو سکے اور عرض وہ ہے جو بذات خود قائم نہ رہ سکتا ہو بلکہ کسی محل کا محتاج ہو۔ (الحدیقة الندیة، ج ۱، ص ۲۳۷)

②..... حلول یعنی ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح داخل ہو جانا کہ دونوں میں تمیز نہ ہو سکے۔

(کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، ص ۱۳۱)

ہے۔ جس طرح کوئی زمانہ اسے نہیں گھیر سکتا اسی طرح وہ کسی مکان میں بھی نہیں سما سکتا بلکہ وہ مکان و زمان کی تخلیق سے بھی پہلے کا موجود ہے اور اب بھی پہلے کی طرح ہی ہے۔ اپنی جمیع صفات سمیت مخلوق سے ممتاز ہے۔ نہ تو اس کی ذات میں کوئی دوسرا ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی ذات میں ہے۔ وہ بدلنے، منتقل ہونے اور حوادث و عوارض کے لاحق ہونے سے منزہ و مبرا ہے۔ وہ اپنی بزرگ و برتر صفات کے ساتھ دائمی طور پر متصف اور فنا سے پاک ہے۔ اس کی صفات کمالیہ مزید کمال پانے سے مستغنی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا وجود عقل سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ نیک لوگ اس کے فضل و کرم سے جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور دیدارِ الہی سے ہی اس کی عطا کردہ نعمتیں پایہ تکمیل کو پہنچیں گی۔

## صفات باری تعالیٰ

### حیات و قدرت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ زندہ، قادر مطلق، غالب اور عظمت والا ہے۔ کوتاہی و عاجزی سے ورا ہے۔ اسے نہ اُوگھ آئے نہ نیند۔ اس کے لئے فنا ہے نہ موت۔ ملکوت و ملک اور عزت و عظمت کا مالک ہے۔ حقیقی بادشاہت و اقتدار والا ہے۔ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تمام آسمان اور جمیع مخلوق اسی کے تحت قدرت ہے۔ وہ تخلیق و ایجاد اور بے مثل اشیاء پیدا کرنے میں یکتا و لا شریک ہے۔ مخلوق، اس کے اعمال کی تخلیق اور ان کے لئے رزق و موت کی تعیین فرمانے والا ہے۔ کسی بھی شے کا وجود اور معاملات میں تصرُّفات اس کے اختیار سے باہر نہیں نیز اس کے تحت قدرت اشیاء کا شمار اور ان کی معلومات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔

### علم الہی:

اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام معلومات کا عالم ہے۔ زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہونے والے تمام معاملات اس کے احاطے میں ہیں۔ وہ ایسا عالم ہے کہ زمین و آسمان کی ذرہ بھر چیز بھی اس سے پنہاں نہیں بلکہ اندھیری رات میں صاف چٹان پر سیاہ چیونٹی کے چلنے کی آواز اور فضا میں بکھرے ذرات کی حرکات کو بھی جانتا ہے۔ اسے ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کا علم ہے۔ اپنی قدیم ازلٰی اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی صفتِ علم سے دل میں اُبھرنے والے خطروں،

وسوسوں اور پوشیدہ باتوں سے باخبر ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں کہ اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نوپید ہو۔

### ارادہ خداوندی:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی تخلیق کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نوپید چیزوں کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ عالم بالا ہو یا عالم دنیا اس کا ہر تھوڑا اور زیادہ، چھوٹا و بڑا، اچھا و برا، نفع و نقصان، کفر و ایمان، علم و جہالت، کامیابی و ناکامی، کمی و بیشی اور طاعت و معصیت ذاتِ باری تعالیٰ ہی کی قضا و قدرت اور حکمت و مشیت سے ہے۔ اس نے جو چاہا وہاں ہوا جو نہ چاہا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ پلک کی جھپک اور دل کی کھٹک تک مشیتِ الہی سے خارج نہیں بلکہ وہی نئے سرے سے پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا اور جب جو چاہے کرنے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے امر میں رکاوٹ بنے یا اس کے فیصلے کو ٹال سکے۔ بندے کا اس کی نافرمانی سے بچنا یا اس کی عبادت پر کمر بستہ ہونا اس کی توفیق و رحمت اور اس کے ارادے و مشیت سے ہی ممکن ہے۔ اگر تمام جن و انس اور ملائکہ و شیاطین مل کر مشیتِ خداوندی کے بغیر کائنات کے محض ایک ذرے کو ہی حرکت دینا یا ٹھہرانا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا ارادہ تمام صفات سمیت اس کی ذات سے قائم اور ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن اشیاء کو جن اوقات میں پیدا کرنے کا ازل میں ارادہ فرمایا، وہ سب چیزیں ازلی ارادہ خداوندی کے عین مطابق بغیر کسی تقدیم و تاخیر اور بلا کسی تغیر و تبدل کے اپنے مقررہ وقت و حالت میں وجود میں آگئیں۔ اس کے کاموں کی تدبیر سوچ بچار اور وقت کا انتظار کرنے سے منزہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک کام اسے دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا۔

### سمیع و بصیر:

اللہ عَزَّوَجَلَّ سمیع و بصیر ہے۔ وہ سنتا دیکھتا ہے۔ کوئی بھی سنی جانے والی چیز کیسی ہی مخفی ہو اور کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی باریک ہو اس کی سماعت و بصارت سے غائب و مخفی نہیں ہو سکتی۔ دوری و تاریکی اس کی سماعت و بصارت میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ جس طرح وہ علم کے لئے دل کا، گرفت کے لئے عضو کا اور تخلیق کے لئے آلہ جات کا محتاج نہیں بالکل اسی طرح دیکھنے اور سننے کے لئے آنکھوں اور کانوں کا محتاج نہیں کیونکہ جس طرح اس کی ذات مخلوق کے مشابہ نہیں اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی مثل نہیں۔

## کلامِ الہی:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کلام فرمانے والا، حکم دینے والا، منع کرنے والا اور وعدہ و وعید فرمانے والا ہے۔ کلام، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ قائم اَزلی و قدیم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس کا کلام، مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں۔ اس کا کلام ہوا کے اندر سے یا اجسام کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز نہیں نیز اس کا کلام کرنا ہونٹوں کے ملنے اور زبان کے حرکت کرنے کا بھی محتاج نہیں۔ قرآن، توریت، زبور اور انجیل اس کے رسولوں پر نازل ہونے والی اس کی کتابیں ہیں۔ قرآن پاک زبانوں سے پڑھا جاتا، اوراق پر لکھا جاتا اور دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کلام پاک قدیم اور ذاتِ الہی کے ساتھ قائم ہے۔ اسے اوراق پر لکھنے یا دلوں میں محفوظ کرنے سے ایسا نہیں کہ یہ ذاتِ الہی سے جدا یا الگ ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام بغیر آواز اور حروف کے سماعت فرمایا۔ یوں ہی نکو کاروں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اس طرح ہوگا کہ وہ نہ جوہر ہوگا نہ عرض۔ وہ ان صفات سے متصف ہے تو محض ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام کی وجہ سے زندہ، عالم، قادر، ارادہ کرنے والا، سننے اور دیکھنے والا اور کلام فرمانے والا ہے۔

## افعالِ الہیہ:

سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے ہر شے کا وجود اسی کے فعل اور اسی کے فیضانِ عدل سے ہے۔ وہ سب چیزوں کا وقوع نہایت اچھے، کامل، مکمل اور مناسب طریقے پر فرماتا ہے۔ اس کے تمام افعال و احکام حکمت و عدل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے عدل و انصاف کو بندوں کے عدل و انصاف پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ بندے سے ظلم ہو سکتا ہے اس طرح کہ جب وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے گا تو ظالم کہلائے گا جبکہ مالک دو جہاں عَزَّوَجَلَّ سے ظلم ہونا متصور ہی نہیں کیونکہ اُس کے سوا کسی کی ملک ہے ہی نہیں چہ جائیکہ اس میں تصرف یا ظلم کیا جائے۔ سوائے اس کی ذات کے جو بھی ہے جن و انسان، فرشتہ و شیطان، زمین و آسمان، حیوان و بے جان، سبزہ، جوہر و عرض، سمجھی اور محسوس کی جانے والی تمام کی تمام معدوم اشیاء کو اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے وجود بخشا اور نیست (یعنی غیر موجود) کو ہست (یعنی موجود) فرمایا۔ وہ ازل میں موجود تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے ارادے کو ثابت کرنے اور اپنی قدرت کو



ظاہر کرنے کے لئے کائنات کی تخلیق فرمائی اس وجہ سے کہ وہ ازل میں اس کی تخلیق کا ارادہ فرما چکا تھا، یہ وجہ نہیں کہ اسے اس کی کوئی ضرورت و حاجت تھی۔

وہ مخلوق کو پیدا کرے، بنائے اور انہیں مکلف ٹھہرائے تو یہ محض اس کا فضل ہے، اس پر ضروری و لازم نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی مخلوق کو انعامات سے نوازے اور ان کی اصلاح کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس پر لازم نہیں۔ وہی فضل و احسان اور انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ وہ بندوں کو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کرنے اور انہیں مختلف مصائب و آلام سے دوچار کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ ایسا کرے بھی تو یہ اس کی طرف سے برائی یا ظلم نہیں بلکہ عدل ہی عدل ہے۔ اپنے مومن بندوں کو نیکیوں کا اچھا صلہ دینا محض اس کے کرم و وعدے کے مطابق ہے ورنہ نہ تو بندے اس کے مستحق ہیں اور نہ ہی اس پر ایسا کرنا لازم ہے کیونکہ کسی کی وجہ سے کوئی فعل کرنا اس پر واجب نہیں اور کسی کا اس پر کچھ حق بھی نہیں اور ظلم کی نسبت تو اس کی طرف کر ہی نہیں سکتے۔

اس نے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ کے واسطے سے بندوں پر اپنا حق بصورتِ طاعت لازم کیا۔ محض عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا پھر ان کے صدق کو ظاہر و باہر معجزات کے ذریعے ثابت کیا اور انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ نے ربُّ الانام کے احکام، اس کی منع کردہ چیزوں اور اس کے وعدہ و وعید کا پیغام غلق تک پہنچایا۔ اب بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان نفوسِ قدسیہ کے لائے ہوئے پیغام کو سچا جانیں۔

## کلمہ شہادت کے دوسرے جز کی وضاحت

اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت کی گواہی دینا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللهُ عَزَّوَجَلَّ نے غیب کی خبریں دینے والے، کسی آدمی سے نہ پڑھنے والے اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو عرب و عجم کے تمام علاقہ جات اور جن و انس میں سے ہر ایک کی جانب پیغام رسالت دے کر مبعوث فرمایا۔ اللهُ عَزَّوَجَلَّ نے سوائے ان باتوں کے جنہیں باقی رکھنا مقصود تھا سابقہ تمام شرعی احکام شریعتِ محمدی لا کر منسوخ فرمادیئے۔ اللهُ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تمام انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ پر فضیلت دے کر بنی آدم کا سردار بنایا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ پر اعتقاد رکھنے کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب تک کہ

اس کے ساتھ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کو نہ ملایا جائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق پر لازم کر دیا کہ وہ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اُمور دنیا و آخرت کے متعلق دی ہوئی خبروں کو سچا جانیں نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے موت کے بعد پیش آنے والے احوال کی جو خبریں دیں جب تک بندہ ان پر ایمان نہ لائے گا مومن نہیں کہلائے گا۔

### منکر نکیر کے سوالات:

ان احوال میں سے ایک منکر نکیر کا سوال کرنا ہے۔<sup>(۱)</sup> یہ دونوں ڈراؤنی اور ہیبت ناک انسانی شکل میں تشریف لاتے اور بندے کو قبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت بندہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بندے سے توحید و رسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ یہ دونوں فرشتے قبر کی آزمائش ہیں<sup>(۲)</sup> اور بندے کے لئے بعد موت پہلی آزمائش منکر نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ عذابِ قبر کو حق جانے اور اس پر یقین رکھے<sup>(۳)</sup> اور جسم و روح دونوں پر اللہ ربُّ العزّت کا اپنی مشیت کے مطابق حکم نافذ کرنا عدل پر مبنی ہے۔

### میزانِ عمل:

بندے پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ میزانِ حق ہے۔ ”اس کے دو پلڑے اور ایک زبان ہے۔“<sup>(۴)</sup> اس کے ایک پلڑے کی وسعت زمین و آسمان کے طبقات جتنی ہے۔ اس میں قدرتِ الہی سے لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے۔ اس دن رائی کے دانوں اور ذروں تک کو باٹ بنا کر کمالِ عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نیک اعمال کو اچھی صورت عطا کر کے میزان کے نورانی پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پلڑا بفضلِ الہی ان اعمال پر مقرر کردہ درجوں کے مطابق بھاری ہو جائے گا اور برے اعمال قبیح صورت میں میزان کے کالے پلڑے میں پھینکے جائیں گے اور وہ پلڑا ربِّ لم یزل کے عدل کے سبب ہلکا پڑ جائے گا۔

①..... سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر، الحدیث: ۱۰۷۴، ج ۲، ص ۳۳۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۱، ج ۲، ص ۵۸۱۔

③..... السنن الكبرى للنسائی، کتاب صفة الصلاة، الحدیث: ۱۲۳، ج ۱، ص ۳۸۹۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۲۹۴، ج ۱، ص ۶۸۳، باختصار۔

## پل صراط:

پل صراط کے حق ہونے کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے (۱) جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اسے پار کرتے ہوئے کفار کے قدم حکمِ خداوندی پھسلیں گے اور وہ جہنم میں جا کریں گے جبکہ مسلمان رحمتِ خداوندی کے سبب اسے ثابت قدمی سے پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

## حوض کوثر:

اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جہاں مسلمان آئیں گے۔ یہ حوض حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو عطا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو پل صراط پار کرنے کے بعد اور دخولِ جنت سے پہلے اس حوض کا مشروب پینا نصیب ہوگا۔ جسے اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کو مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کناروں پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ جنتی چشمہ کوثر سے دو پرنا لے اس حوض میں آتے ہیں۔ (۲)

## حساب و کتاب:

حساب و کتاب پر ایمان لانا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقہ سے حساب و کتاب ہوگا، کسی کا حساب سختی سے اور کسی کا نرمی سے ہوگا جبکہ مقررینِ بارگاہِ الہی تو بلا حساب و کتاب داخلِ جنت ہوں گے۔ (۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام میں سے جس سے چاہے گا فریضہ رسالت سرانجام دینے کے متعلق اور کفار میں سے جس سے چاہے گا رسلِ عظام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کو جھٹلانے کی بابت پوچھ گچھ فرمائے گا۔ (۴) (خلافِ شرع کام کرنے والے) بدعتی سنت چھوڑنے کی وجہ سے جو اب وہ ہوں گے (۵) اور مسلمانوں سے انہیں کے اعمال کے متعلق

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، الحدیث ۱۸۲، ص ۱۱۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا..... الخ، الحدیث ۹۲۲۹، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ص ۲۳۰، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، بتغییر۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف..... الخ، الحدیث ۲۱، ص ۱۳۶، باختصار۔

④..... صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب و کذلک جعلناکم امةً وسطاً..... الخ، الحدیث ۴۲۸، ج ۳، ص ۱۶۹۔

⑤..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، الحدیث ۸۲، ج ۱، ص ۶۵، بتغییر۔

پوچھا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

## مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا:

اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو ان کے کئے کی سزا دینے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے کوئی بھی صاحب ایمان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔<sup>(۲)</sup>

## عقیدہ شفاعت:

شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا اذن سب سے پہلے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو دیا جائے گا، پھر علما، پھر شہداء اور پھر عام مومنین کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اذن شفاعت حاصل ہوگا۔<sup>(۳)</sup> پھر وہ مومنین کہ جنہیں کسی کی شفاعت نہ ملی، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اسے بھی دوزخ سے چھٹکارا عطا فرمادے گا اس لئے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔

## صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ اور ان کا مقام و مرتبہ:

ہر بندے کو صحابہ کرام رِضْوَانُ اللہ تَعَالَى عَلَیْهِمْ اَجْمَعِينَ اور ان کی بالترتیب فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور یہ کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّی اللہ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد لوگوں میں سے افضل ترین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِيَ اللہ تَعَالَى عَنْہُمْ ہیں<sup>(۴)</sup> نیز تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے بارے میں حسن ظن رکھنا لازم ہے اور ان نفوسِ قدسیہ کی تعریف و توصیف اسی طرح بیان کرے جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ

①..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب قول النبی..... الخ، الحدیث ۸۶۴، ج ۱، ص ۳۲۹۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، الحدیث ۱۸۲، ص ۱۱۱۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعت، الحدیث ۴۳۱۳، ج ۴، ص ۵۲۶۔

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، الحدیث ۱۸۳، ص ۱۱۴۔

④..... صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، الحدیث ۳۶۵۵، ج ۲، ص ۵۱۸۔

فتح الباری، کتاب فضائل اصحاب النبی، تحت الحدیث ۳۶۵۵، ج ۸، ص ۱۴-۱۵۔

اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## اہلسنت کی پہچان:

ذکر کردہ تمام عقائد احادیث مبارکہ میں بیان کئے گئے ہیں اور اقوال صحابہ بھی ان پر شاہد ہیں۔ لہذا جس شخص کا ان سب عقائد پر یقینی اعتقاد ہے، وہ اہل حق و اہل سنت میں سے ہے مگر اہوں اور بدعتیوں سے بے تعلق ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت میں اپنی ذات بلکہ ہر مسلمان کے لئے باتجہی ہیں کہ وہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو یقین کامل کی دولت اور دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بے شک وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے آقا و مولیٰ محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ہر پسندیدہ بندے پر اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رحمتیں نازل ہوں۔

دوسری فصل: **مرحلہ وار رہنمائی کرنے کی وجہ اور اعتقاد کے**

## درجات کا بیان

جان لیجئے! عقیدے کے باب میں ذکر کردہ باتیں بچے کو شروع سے ہی سکھادی جائیں تاکہ وہ انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لے اور بڑا ہونے تک بتدریج ان کے معانی و مطالب پر مطلع ہوتا رہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو اولاً یاد کرنا اور سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد ان پر یقین کرنے، ایمان لانے اور انہیں سچ جاننے کا مرحلہ آتا ہے۔ بچے کا عقائد کو یاد کرنے سے سچ جاننے تک کا ارتقائی (ترقی پزیر) سفر بلا دلیل و حجت کے طے ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ وہ قلب انسانی کو تربیت کے ابتدائی مراحل میں بغیر دلیل و حجت کے قبول ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نیز اس بات کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے جبکہ عوام کے تمام عقائد کی ابتدا محض تلقین و تقلید ہے۔ ہاں! وہ اعتقادی مسائل جن کا حصول محض تقلید سے ہوتا ہے، ابتداءً ان میں کچھ ضعف محسوس ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی بات آجائے تو عین ممکن ہے کہ بندہ اپنے سابقہ عقیدے سے دور ہو جائے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نو عمر اور عام افراد کا ذہن عقائد اہل سنت کے حوالے سے اس طرح پختہ اور مضبوط بنا دیا جائے کہ وہ پھر کبھی بھی نہ ڈمگائے اور بچے و عام آدمی کے ذہن میں عقائد کو پختہ اور ثابت کرنے کے لئے فن مناظرہ اور علم کلام سیکھنا ضروری

①..... صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، الحدیث ۳۶۷۴، ج ۲، ص ۵۲۲۔

نہیں بلکہ قرآن، تفسیر، حدیث، شروحات کا مطالعہ اور عبادت کی پابندی کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ جب دلائل و براہین قرآنیہ اس کی سماعتوں کو چھوئیں گے، احادیثِ کریمہ سے عقائدِ اہل سنت کی تائیدات و ثبوت ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت پر ہمیشگی کا نور اپنے جلوے دکھائے گا تو اس کے قلب و ذہن میں عقائدِ اہل سنت راسخ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی زیارت و صحبت، ان کے ملفوظات اور ان کی للہیت پر مبنی ظاہری و باطنی یکساں پاکیزگی و عاجزی کی برکت سے بھی عقائدِ اہل سنت پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ابتدا میں سمجھانا گویا سینے کی کھیتی میں عقیدے کا بیج بونے اور مذکورہ اسباب (یعنی قرآن و حدیث کا مطالعہ اور نیکی اور نیکیوں سے لگاؤ) اس کھیتی کی سیرابی اور دیکھ بھال کے مترادف ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بیج نشوونما اور تقویت پا کر ایک ایسے مضبوط، بلند اور پاکیزہ درخت کی سی حیثیت اختیار کر جاتا ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں۔

### ایک احتیاط:

یہاں ایک احتیاط کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ بچے کو ابتدائی تربیت کے مراحل میں مناظرانہ گفتگو اور علم کلام کی پیچیدہ اجماحت سے بالکل دور رکھا جائے کیونکہ نوعمر کے لئے مناظرانہ گفتگو میں تربیت و اصلاح جیسے فوائد کم اور فساد و اضطراب جیسے نقصان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بلکہ بچے کی تربیت مناظرے کے ذریعے کرنا ایسا ہی ہے جیسے درخت کو مضبوط کرنے کی اُمید پر لوہے کے ہتھوڑے سے کوٹنا، اس عمل کے تسلسل سے درخت مضبوط تو کیا؟ الٹا ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس طرح کے کاموں کا عموماً یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اب مزید وضاحت و دلائل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ عمومی مشاہدہ ہی بات سمجھنے کے لئے کافی ہے۔

### عام نیک لوگوں کے اور مناظرین و متکلمین کے عقیدے میں فرق:

اگر عام نیک و متقی لوگوں کے عقیدے کی پختگی کا تقابل مناظرین و متکلمین کے عقیدے کی پختگی سے کیا جائے تو عقیدے کے اعتبار سے عام آدمی بلند و مضبوط پہاڑ کی مانند مستقل نظر آئے گا جسے آفات اور بجلیاں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتیں جبکہ عقلی دلائل اور مناظروں کے ذریعے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والے علم کلام کے ماہر شخص کا عقیدہ فضا میں لٹکے ہوئے دھاگے کی طرح ہوتا ہے جسے ہوا کے جھونکے کبھی ادھر کر دیتے ہیں کبھی ادھر۔ مگر ان سے عقیدے کی دلیل

سننے والا دلیل کو تقلید کے طور پر اسی طرح مانتا ہے جس طرح نفس اعتقاد کو کیونکہ تقلید خواہ دلیل سیکھنے میں ہو یا مدلول سیکھنے میں، دونوں برابر ہیں۔ پس دلیل بتانا الگ چیز ہے اور دلیل سے مسئلہ ثابت کرنا دوسری بات جو اس سے بہت دور ہے۔ پھر اگر بچہ عقائد اہل سنت پر کار بند رہتے ہوئے زندگی گزارے اور اس حوالے سے مزید کچھ سیکھنے کے بجائے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو اگر چہ کئی بند عقیدے اس پر نہیں کھلے ہوں گے، لیکن بروز قیامت وہ ان عقائدِ حقہ کی برکت سے سلامت رہے گا کیونکہ شریعتِ اسلامیہ نے عرب کے کند ذہن لوگوں کو عقائدِ حقہ کے زبانی اقرار اور قلبی تصدیق سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ نیز انہیں بحث و تحقیق اور دلائل جمع کرنے کا پابند ہرگز نہیں بنایا گیا۔

ہاں! یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص راہِ آخرت اختیار کرنا چاہے اور رحمتِ الہی بھی اس کے شامل حال ہو اور وہ خواہشاتِ نفسانیہ کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ، تقویٰ اور ریاضت و مجاہدہ کی پابندی کرے تو اس مجاہدہ کی برکت سے اس کا دل نورِ الہی سے منور ہوگا جس کی روشنی میں عقائدِ اہل سنت کے حقائق اس پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا وعدہ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ (العنکبوت: ۶۹)

## بلند درجات کے حصول کا سبب:

یہی نور وہ نفس جو ہر ہے جو صدیقین و مقربین کے ایمان کی انتہا ہے اور یہی وہ راز ہے کہ جب یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے سینے میں ودیعت کیا گیا تو آپ انبیاء کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہو گئے۔ بہترین مقام کے حامل رازوں بلکہ تمام اسرار کے کئی درجات ہیں۔ مجاہدات کی جتنی زیادہ کثرت ہوگی اور دل جس قدر غیر خدا سے خالی اور نوریقین سے منور ہوگا بلند مقام بھی اسی تفاوت کے اعتبار سے کم یا زیادہ حاصل ہوگا۔ اس مقام میں درجات کا فرق بھی بالکل علمِ طب و فقہ اور بقیہ دیگر علوم میں فرق کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگوں میں ریاضت اور ذہانت و فطانت کا ایک فطری تفاوت پایا جاتا ہے اور علمی درجات کی طرح ان اسرار کے بھی کئی درجات ہیں۔

## علم کلام سیکھنا کیسا؟

**سوال:** کیا فن مناظرہ اور علم کلام کا سیکھنا بھی علم نجوم کی طرح مذموم یا مباح یا مستحب ہے؟

**جواب:** علم کلام فن مناظرہ سیکھنے یا نہ سیکھنے کے حوالے سے دو موقف ہیں اور دونوں سخت ہیں:

﴿1﴾..... منع کرنے والے اس پر بدعت و حرام کا حکم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ سے آلودہ ہو کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونے والا شخص علم کلام سیکھنے والے سے بہتر ہے۔

﴿2﴾..... جواز کا حکم دینے والے اسے واجب، فرض عین یا فرض کفایہ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ افضل عمل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ اس علم سے علم توحید کا اثبات اور دین اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے۔

منع و حرمت کے قائلین میں حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور متقدمین محدثین کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ شامل ہیں۔

## علم کلام اور متکلمین کے بارے میں علما کی آرا

### سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُفَيِّ كَانظَرِيه:

✿..... حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُفَيِّ کے شاگرد حضرت سیدنا یونس بن عبدالاعلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِ کا بیان ہے کہ جس دن علم کلام جاننے والے معتزلی حفص فردنامی شخص سے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُفَيِّ کا مناظرہ ہوا تو میں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کو فرماتے سنا کہ سوائے شرک کے ہر گناہ کر کے دربارِ الہی میں حاضر ہونے والا اُس سے بہتر ہے جو علم کلام میں سے کچھ سیکھ کر بارگاہِ خداوندی میں پیش ہو۔ میں نے حفص سے ایک ایسی بات بھی سنی ہے جسے بیان کرنا مجھے گراں محسوس ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

✿..... مجھے متکلمین کی ایسی ایسی باتوں کا پتا چلا ہے جن کے بارے میں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علم کلام کی طرف مائل ہونے والا شرک کے علاوہ ہر گناہ میں مبتلا ہونے والے سے برا ہے۔<sup>(۲)</sup>

①..... جامع بیان العلم و فضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، الحدیث ۹۸، ص ۳۶۶۔

②..... المرجع السابق۔



..... حضرت سیدنا حسین بن علی کراہتیں علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكِنَانِي سے علم کلام کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ جلال میں آگے اور فرمانے لگے: ”جاؤ! اس مسئلے کا حل حفص فرد اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو۔ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انہیں رسوا کرے۔“ (۱)

..... جب حضرت سیدنا امام شافعی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكِنَانِي بیمار ہوئے تو حفص فرد ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ ”میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“ فرمایا: ”تو حفص فرد ہے۔ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تیری حفاظت کرے نہ تجھے رعایت دے، جب تک اس سے توبہ نہ کر لے جس میں توبہ بتلا ہے۔“

..... اگر لوگ علم کلام کی درپردہ برائیاں جان لیں تو اس سے ایسے ہی بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ (۲)

..... جب تم کسی شخص کو یہ کہتے سناؤ کہ اسم ہی مُسْتَمِي (۳) ہے یا یہ کہ اسم مُسْتَمِي کا غیر ہے تو جان لو کہ ایسی باتیں کرنے والا علم کلام میں پڑا ہوا اور بے دین ہے۔ (۴)

..... حضرت سیدنا حسن بن محمد زعفرانی قُدْسِ سِرِّهِ التُّورَانِي بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكِنَانِي فرماتے ہیں: ”میں چاہتا ہوں کہ علم کلام والوں پر ڈنڈے برسائے جائیں، پھر انہیں ہر قبیلے اور خاندان میں پھرا کر اعلان کیا جائے کہ جو قرآن و حدیث چھوڑ کر علم کلام سیکھنے میں لگ جائیں ان کی سزا یہ ہے۔“ (۵)

### سیدنا امام احمد بن حنبل عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّلِ کا نظریہ:

..... علم کلام سیکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اچھی طرح جان لو کہ جو علم کلام کی طرف مائل ہوگا اس کے دل میں ضرور فساد چھپا ہوگا۔ (۶)

..... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّلِ نے علم کلام کی مذمت میں اس قدر مبالغہ فرمایا کہ حضرت

①..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، الحدیث ۹۸، ص ۳۶۷۔

②..... المرجع السابق، ص ۳۶۷۔

③..... مُسْتَمِي یعنی نام زد چیز۔ جس شے پر دلالت کرنے کے لئے اسم وضع کیا جائے۔

④..... جامع بیان العلم وفضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، الحدیث ۹۸، ص ۳۶۷۔

⑤..... المرجع السابق، ص ۳۶۷۔

⑥..... المرجع السابق، ص ۳۶۷۔

سیدنا حارث بن عبداللہ محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیِّ جیسے بہت بڑے عابد و زاہد سے بھی صرف اس وجہ سے قطع تعلق فرمایا کہ انہوں نے بدعتیوں کے رد میں ایک کتاب لکھی تھی۔ کتاب دیکھ کر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان سے فرمایا: ”جناب! کیا آپ نے کتاب لکھتے ہوئے پہلے بدعتیوں کی بدعات تحریر کر کے اس کا رد نہیں کیا؟ کیا آپ نے اس اندازِ تحریر سے عوام الناس کو بدعتوں کا مطالعہ کرنے اور پھر شکوک و شبہات میں پڑنے کا دعوت نامہ فراہم نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ دینی و اعتقادی مسائل میں اضطراب و الجھاؤ کا شکار ہوں؟“

❁..... علمائے متکلمین زندیق ہیں۔<sup>(۱)</sup>

سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْخَالِقِ کا نظریہ:

❁..... اگر متکلمین کا اپنے سے زیادہ اس فن کے ماہر شخص سے واسطہ پڑے تو وہ اس کی سن کر اپنا اعتقاد بدل دے گا اور یوں ہر روز وہ اپنا دین بدلتا پھرے گا<sup>(۲)</sup> کیونکہ مجادلہ و مناظرہ کرنے والوں کے اقوال و آراء مختلف ہوتے ہیں۔

❁..... بدعتیوں اور اہل ہوا (خواہشات کے پیروکار) کی گواہی نامقبول ہے۔<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّلِ کے بعض شاگردوں نے کہا کہ ”اہل ہوا“ سے امام صاحب کی مراد متکلمین ہیں خواہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں۔“

سیدنا امام ابو یوسف رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا نظریہ:

❁..... جو علم کلام کی طلب میں مشغول ہو اوہ گمراہ ہوا۔<sup>(۴)</sup>

سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیِّ کا نظریہ:

❁..... نہ تو بدعتیوں سے مناظرہ کرو، نہ ان کی محفل میں بیٹھو اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنو۔<sup>(۵)</sup>

①..... حیاة الحیوان، باب الہمزة، ج ۱، ص ۲۳۔

②..... جامع بیان العلم و فضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، ص ۳۶۔

③..... جامع بیان العلم و فضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، ص ۳۶۔

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال، الباب السادس والعشرون، ج ۱، ص ۱۱۱، بتغییر۔

⑤..... جامع بیان العلم و فضلہ، باب ماتکرہ فیہ المناظرۃ..... الخ، ص ۳۶۔

## متاخرین محدثین رَحْمَهُمُ اللهُ الْمُبِينُ کا نظریہ:

متاخرین محدثین علم کلام کے مذموم ہونے پر متفق ہیں۔ اس کی مذمت میں ان کے سخت اور بے شمار اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ،

❁..... اس علم کی طرف صحابہ کرام رَضَوْنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مائل نہیں ہوئے حالانکہ یہ حضرات حقائق کی معرفت اور ترتیب الفاظ میں بعد والے لوگوں سے زیادہ فصیح تھے۔ اسی وجہ سے سرکار عالی وقار، شہنشاہ ابرار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تین بار ارشاد فرمایا: ”بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔“<sup>(۱)</sup> یعنی لایعنی بحث اور بے فائدہ تحقیق کرنے والے (ہلاک ہو گئے)۔

❁..... اپنے موقف کو مزید پختہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم کلام اگر کوئی دینی کام ہوتا تو حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضرور اس کا حکم دیتے، اسے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرماتے، اس کی اور اسے حاصل کرنے والوں کی تعریف و توصیف فرماتے (لیکن ایسا نہیں ہوا) بلکہ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تو صحابہ کرام رَضَوْنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کو استنجا کرنے کا طریقہ بتایا،<sup>(۲)</sup> انہیں علم میراث سیکھنے کی رغبت دلائی اور ان کی تعریف فرمائی<sup>(۳)</sup> لیکن قضا و قدر میں بحث کرنے سے اپنے اس ارشاد کے ذریعے منع فرما دیا کہ ”تقدیر کے معاملے میں خاموش رہو۔“<sup>(۴)</sup> صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ اس حکم پر کار بند رہے۔ یہ نفوسِ قدسیہ ہمارے اُستاد و رہنما اور ہم ان کے شاگرد و پیروکار ہیں اور شاگرد کی اُستاد پر پیش قدمی ظلم اور سرکشی کہلاتی ہے۔

## مؤیدین علم کلام کے دلائل:

❁..... علم کلام کی مخالفت اگر اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کی وجہ سے ہے جیسے جوہر، عرض اور دَرِّ صحابہ میں نہ بولی جانے والی نئی نئی اصطلاحات تب تو معاملہ آسان ہے کیونکہ ہر علم کی تفہیم و تعلیم کے لئے اصطلاحات وضع کی

❶..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب هلک المتنطعون، الحدیث ۲۶۴، ص ۱۴۳۴۔

❷..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الاستطابۃ، الحدیث ۲۶۲، ص ۱۵۵۔

❸..... سنن ابن ماجہ، کتاب الفرائض، باب الحث علی تعلیم الفرائض، الحدیث ۵: ۲۷۱، ج ۳، ص ۳۱۶۔

❹..... المعجم الکبیر، الحدیث ۱۰۴۳۸، ج ۱۰، ص ۱۹۸۔

گئیں مثلاً علم حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ، جیسے قیاسی اصطلاحات نقض، کسر، ترکیب، تعدیہ اور فساد وضع اگر انہیں صحابہ کرام رَضُوا اللہ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ پر پیش کیا جاتا تو وہ انہیں نہ سمجھتے۔ لہذا کسی مقصد صحیح کو بیان کرنے کی خاطر نئے نئے الفاظ کا چناؤ بھی ایسے ہی درست ہے جیسے جائز استعمال کے لئے نئی طرز کا برتن بنانا۔

❁..... اگر مخالفت کسی معنوی خرابی کی وجہ سے کی جاتی ہے تو یاد رکھئے! اس علم سے ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عالم کے حادث ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کو شریعت کی روشنی میں دلائل سے جانا جائے۔ لہذا دلیل کے ذریعے معرفت خداوندی کو حرام تو نہیں کہا جاسکتا۔

❁..... اگر ممنوع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنا پر (بحث و مناظرہ کرتے ہوئے آخر کار) جھگڑا، عداوت اور بغض و کینہ جیسے امراض جنم لیتے ہیں تو یہ چیزیں واقعی حرام اور قابل اجتناب ہیں بالکل ایسے ہی کہ اگر علم حدیث، تفسیر اور فقہ سیکھنے پر تکبر، خود پسندی اور جاہ طلبی پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں حرام ہوں گی اور ان سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن ان امراض کو دلیل بنا کر مذکورہ علوم کی تعلیم سے نہیں روکا جائے گا تو پھر علم کلام کے ذریعے دلیل پیش کرنا، دلیل کا مطالبہ کرنا اور اس میں بحث کرنا کیسے ممنوع ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان سب امور کا ثبوت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاک کلام میں موجود ہے۔ چنانچہ،

## مدل اور مناظرانہ انداز گفتگو کے متعلق قرآنی دلائل:

❁❁

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (پ ۱، البقرة: ۱۱۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل۔

❁❁

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط (پ ۱۰، الانفال: ۴۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جئے دلیل سے جئے۔

❁❁

إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ط (پ ۱۱، یونس: ۶۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں۔

اس آیت میں سلطان سے مراد سند و دلیل ہے۔

﴿۴﴾

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴿۸﴾ (الانعام: ۱۴۹)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے۔

﴿۵﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ  
أَنْ أَيْتَهُ اللَّهُ الْمَلَكُ إِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ  
رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي  
وَأُمِيتُ قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
بِالشَّمْسِ مِنَ الشَّرْقِ فَا تَبْتَغِينَ الْمَغْرِبَ  
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴿۳﴾ (البقرة: ۲۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو  
ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ  
نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ  
ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم  
نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب (مشرق) سے تو اس کو  
بچھم (مغرب) سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔

حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دلیل پیش کرنے، دلیل طلب کرنے، مناظرہ کرنے اور اس

طریقے پر مخالف کو لا جواب کر دینے کی اللہ عزوجل نے تعریف فرمائی۔

﴿۶﴾

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴿۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو  
اس کی قوم پر عطا فرمائی۔

(پ ۷، الانعام: ۸۳)

﴿۷﴾

قَالُوا إِنُّوْهُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا ﴿۱۲﴾ (هود: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: بولے اے نوح! تم ہم سے جھگڑے اور  
بہت ہی جھگڑے۔

(پ ۱۲، ہود: ۳۲)

﴿۸﴾

مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ لَمُوقِفِينَ ﴿۲۴﴾  
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبْعُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرعون کے مکالمے کو اللہ عزوجل نے یوں بیان فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: سارے جہان کا رب کیا ہے۔ موسیٰ نے  
فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے  
اگر تمہیں یقین ہو۔ اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور

سے سنتے نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بولا: تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ نے فرمایا رب پورب (مشرق) اور پچھم (مغرب) کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں۔

وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ  
الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِن اتَّخَذَتِ الْهَآغِيرِي  
لَا جَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوْلَوْ  
جِنَّتَكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۲۳ تا ۳۰)

الغرض قرآن پاک از اول تا آخر کفار کے خلاف دلائل سے معمور ہے۔

## توحید، نبوت اور بعثت کے متعلق قرآنی دلائل:

توحید باری تعالیٰ کے نبوت پر متکلمین کی بہترین دلیل یہ آیت طیبہ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴿٢٤﴾

(پ ۱، الانبیاء: ۲۲)

نبوت کی دلیل یہ آیت مقدسہ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ۔

وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ﴿٢٥﴾ (پ ۱، البقرة: ۲۳)

مر کر دو بارہ جی اٹھنے پر یہ آیت مبارکہ دلیل ہے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ انھیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بتایا۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٢٦﴾

(پ ۲۳، یس: ۷۹)

مذکورہ امور کی تائید و توثیق پر مزید آیات و دلائل بھی موجود ہیں اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی کفار کو دلائل دیتے

اور ان سے مناظرانہ طرز پر گفتگو فرماتے رہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط

(ب ۱۲، النحل: ۱۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔

نیز صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ نے بھی بوقتِ ضرورت منکرین کے خلاف دلائل پیش کئے اور ان سے مناظرے کئے اگرچہ انہیں ایسے مواقع بہت کم پیش آئے۔

## صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کے مناظروں کی چند مثالیں:

﴿1﴾..... اظہارِ حق کی خاطر مناظرے کی ریت سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ڈالی کہ حضرت سپید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خارجی فرقے سے مناظرہ کے لئے بھیجا۔ چنانچہ حضرت سپید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خارجیوں سے پوچھا: ”تمہیں اپنے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی کس بات پر اعتراض ہے؟“ کہا: ”انہوں نے جنگ (۱) کی، لیکن مالِ غنیمت اکٹھا کیا نہ قیدی بنائے۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ان سب چیزوں کے حصول کا جواز کفار سے جنگ کرنے پر ہوتا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ اگر جنگ جمل (۲) میں ام المؤمنین حضرت سپید شناعا نشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگی قیدی بن کر تم میں سے کسی کے حصے میں آتیں تو کیا تم ان سے لونڈیوں والا سلوک کرتے؟ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھص قرآنی (یعنی صاف و صریح آیت کے مطابق) اُم المؤمنین ہیں۔“ انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا (۳) اور اس مناظرے میں

﴿1﴾..... یہ واقعہ جنگ صفین جو حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت سپید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین صفر ۳۷ ہجری کو ہوئی تھی، سے واپسی پر پیش آیا۔ جب کچھ لوگ حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے الگ ہو کر خارجی فرقے سے منسوب ہوئے اور اہل حق سے جنگ و جدال اور لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ یہ واقعات ۳۸ ہجری میں پیش آئے۔ (مستفاد از تاریخ الخلفاء، ص ۱۱۲)

﴿2﴾..... جنگ جمل جمادی الآخر ۳۶ ہجری امیر المؤمنین حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے دورِ خلافت میں لڑی گئی۔ اس میں ایک طرف امیر المؤمنین حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور دوسری جانب حضرت سپید نازیر، حضرت سپید ناطلہ و ام المؤمنین حضرت سپید شناعا نشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعیں تھے۔ وجہ نزاع خونِ عثمان کا مطالبہ تھا۔

(مستفاد از تاریخ الخلفاء، ص ۱۱۲)

﴿3﴾..... المستدرک، کتاب قتال اهل البغی، مناظرۃ ابن عباس مع الحرورية، الحدیث: ۴۷، ج ۲، ص ۲۹۵-۲۹۶۔

لا جواب ہو کر دو ہزار افراد توبہ کر کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بیعت میں آ گئے۔  
 ﴿2﴾..... مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ایک منکر تقدیر سے مناظرہ ہوا، بالآخر وہ اپنی بد مذہبی سے تائب ہو گیا۔

﴿3﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے بھی ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا۔  
 ﴿4﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا یزید بن عمیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایمان کے متعلق مناظرہ ہوا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر تم کہو کہ ”میں مومن ہوں تو لازماً یہ بھی کہو کہ میں جنتی ہوں۔“ اس کے جواب میں حضرت سیدنا یزید بن عمیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا: ”اے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اس مسئلے میں آپ سے سہو ہوا ہے۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ عزوجل اس کے رسولوں، فرشتوں اور اس کی کتابوں کو مانا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور میزان عمل قائم ہونے کو تسلیم کیا جائے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے احکام کی تعمیل کی جائے۔ ہم گناہ گار ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ عزوجل ہمارے گناہ بخش دے گا تو ہم جنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مومن کہتے ہیں، جنتی نہیں۔“ یہ جواب سن کر حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! آپ درستی پر ہیں، غلط فہمی مجھے ہوئی تھی۔“ (۱)

## مناظرانہ انداز میں اسلاف کا طرز عمل:

یہ کہنا درست ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مناظرہ و مجادلہ کی طرف بہت کم اور مختصر وقت کے لئے ضرورتاً توجہ دیتے، اس میں زیادہ پڑنا، اسے زیادہ وقت دینا یا اس کے لئے باقاعدہ تصنیف و تدریس کا اہتمام کرنا اور اسے مشغلے کے طور پر لینا ان کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ کم توجہ کی وجہ کم ضرورت تھی کہ اس دور میں بدعتوں کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ بحث میں اختصار کی وجہ یہ تھی کہ بحث سے اصل مقصود مد مقابل کو خاموش کرانا، اپنی بات منوانا، حق کو واضح اور شکوک و شبہات کو زائل کرنا ہوتا ہے۔ اگر مد مقابل کا اعتراض یا اصرار طول پکڑتا تو بالضرور ان حضرات کے کلام و جواب میں بھی طوالت ہوتی۔ یہ نفوس قدسیہ اپنا کلام شروع فرمانے کے بعد اس کی ضرورت کا اندازہ کسی ترازو یا پیمانے سے نہیں لگاتے تھے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان حضرات نے علم کلام کی تصنیف و تدریس کو لائق توجہ نہ

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر، یزید بن عمیرہ الزبیدی، ج ۶، ص ۳۳۸-۳۳۹، بتغیر۔



جانا تو جو باعرض ہے کہ علم حدیث، تفسیر اور فقہ کی تصنیف و تدریس کی طرف بھی ان کا میلان نہیں تھا۔

## مجادلہ و مناظرہ کے طریقے وضع کرنے کا مقصد:

اگر فقہ کی تصنیف اور قلیل الوقوع نادر جزئیات وضع کرنے کا جواز اس طور پر ہو کہ جب کبھی ایسی صورت کا وقوع ہو اگرچہ نادر ہی ہو تو یہ فقہی ذخیرہ کام آئے یا پھر ذکاوت ذہنی (ذہانت و تیز فہمی) پیش نظر ہو تو ہمارا مجادلہ کے طریقے وضع کرنے سے بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ جب شکوک و شبہات سراٹھائیں اور بدعتی مقابل آئیں یا ذکاوت ذہنی اور دلائل کا ذخیرہ جمع کرنا مقصود ہو تو ایسے مواقع پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ فوری جواب پیش کیا جاسکے۔ یہ سب ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جنگ سے پہلے جنگ کے لئے کارآمد اسلحہ تیار رکھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو علم کلام کی تائید کرنے والوں اور رد کرنے والوں کی جانب سے حتی الامکان بیان کر دی گئیں۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں کہ علم کلام کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کلام کو نہ تو بالکل غلط قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی بالکل درست بلکہ اس پر حکم لگانے میں کچھ تفصیل درکار ہوگی۔ پہلے یہ بات جان لیجئے کہ بعض چیزوں کی حرمت ذاتی ہوتی ہے: جیسے شراب اور مردار۔ یہاں ”ذاتی“ اس لئے کہا کہ وجہ حرمت ان حرام چیزوں کی ذات میں موجود ہے اور وہ شراب کا نشہ آور ہونا اور مردار کا (بغیر ذبح شرعی کے) مرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص شراب و مردار کا حکم معلوم کرے گا تو مطلقاً حرام کا حکم دیا جائے گا اور یہ شقیں بیان نہیں کی جائیں گی کہ بحالت مجبوری مردار کھانا جائز ہے اور اگر لقمہ حلق میں پھنسا ہو اور سوائے شراب کے کوئی مشروب نہ ملے تو اس وقت شراب کا گھونٹ حلال ہے۔ بعض چیزیں کسی خارجی امر کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں: جیسے مسلمان کے سودے پر ایامِ خیار میں سودا کرنا، اذانِ جمعہ کے وقت کاروبار کرنا اور مٹی کھانا۔ مٹی کھانا اس لئے حرام ہے کہ اس میں انسانی صحت کا نقصان ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: (۱)..... مٹی کھانا کم ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں اگر نقصان دہ ہو تو مطلقاً حرام کہا جائے گا جس طرح زہر قلیل ہو یا کثیر، ہلاکت خیز ہے۔ (۲)..... اگر مٹی کی کثیر مقدار ہی فسادِ صحت کا سبب بنے تو ایسی صورت میں مطلقاً جواز کا قول اختیار کیا جائے گا جیسے شہد (کہ اس کا کھانا اگرچہ حلال ہے) لیکن اس کی کثیر مقدار گرم مزاج افراد کے لئے

باعث نقصان ہے، یہی حکم مٹی خوری کا ہے۔ لہذا مٹی خوری اور شراب نوشی کو مطلقاً حرام کہنا اور شہد کو مطلقاً حلال کہنا اکثر حالات کی بنا پر ہے۔ (اس قدر تفصیل بیان کرنے سے مقصود یہ سمجھانا تھا) کہ اگر کسی چیز میں حالات مختلف ہوں تو سب سے بہتر اور شکوک و شبہات سے بالاتر یہی ہے کہ اسے بالنتفصیل بیان کیا جائے۔ اب ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو علم کلام کی طرف لاتے ہوئے اپنا موقف واضح کرتے ہیں۔

### علم کلام کے متعلق مصنف کا نظریہ:

اس علم کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ جب یہ علم فوائد کا موجب بنے تو ان فوائد کے پیش نظر اور حالات کے مطابق اسے جائز یا مستحب یا واجب کہا جائے گا اور جب نقصان رساں ثابت ہو تو حرام کا حکم دیا جائے گا۔

### علم کلام کے نقصانات:

﴿1﴾..... اس علم کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ یقین اور پختگی رخصت اور عقائد متزلزل ہو جاتے ہیں اور یہ وہ نقصانات ہیں جن کا صدور اس علم کی ابتداء ہی میں ہو جاتا ہے اور دلیل پا کر دوبارہ عقائد کی پختگی پالینا بھی یقینی نہیں ہوتا۔ نیز لوگوں کی حالت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لہذا اس علم کا ایک نقصان عقائدِ حقہ (یعنی درست عقائد) میں خلل ڈالنا ہے۔

﴿2﴾..... اہل بدعت اپنے بدعتی عقیدوں پر جم جاتے ہیں اور بدعت ان کے سینوں میں یوں قرار پکڑ لیتی ہے کہ وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے اور اسی پر مصر رہتے ہیں۔ لیکن علم کلام کی وجہ سے پیش آنے والا یہ نقصان اس تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے جو جدل و مناظرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام بدعتی کو اس کی بدعتیگی سے توبہ کرانا آسان اور جلد ممکن ہوتا ہے۔ ہاں! اگر اس کی نشوونما جدل اور تعصب زدہ علاقے میں ہو تو پھر خواہ اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہو کر اس کے سینے کو بدعت سے پاک کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں بلکہ خواہش نفس، تعصب اور مناظرین و مخالفین کی مخالفت اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور اسے قبول حق سے روک دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس بدعتی کے لئے یہ بھی ممکن ہو جائے کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی طرف سے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا کر اس پر حق واضح کر دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ دوسری جانب والے ہی اہل حق ہیں، تو پھر بھی وہ ناخوش ہی ہوگا کیونکہ اب اسے یہ ڈر رہے گا کہ اس بات سے اس کا مخالف خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے فساد کی ایک قسم اور بھیانک بیماری جو متعصب مناظرین کی وجہ سے شہروں اور لوگوں

میں پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ بھی علم کلام کا ایک نقصان ہے۔

## علم کلام کے فوائد:

﴿1﴾..... (یہ گمان کیا جاتا ہے کہ) اس کے ذریعے حقائق کی وضاحت اور ماہیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے مگر افسوس کہ یہ عظیم مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ وضاحت و معرفت کے بجائے دیوانگی و گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم کلام کی مذمت اگر کوئی محدث کرے یا کوئی بے علم شخص اس کے خلاف بولے تو وسوسہ آسکتا ہے کہ لوگ جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو سنئے! یہ مذمت وہ شخص کر رہا ہے (امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِیْہِہِ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں) جس نے علم کلام اور اس کے متعلقات کو خوب اچھی طرح پرکھا اور چوٹی کے ماہرین علم کلام کے درجوں تک پہنچا لیکن نتیجہ یہی معلوم ہوا کہ اس طرف سے آنے والوں کے لئے حقائق کے دروازے بند ہیں۔

﴿2﴾..... میری عمر کی قسم! علم کلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بعض امور منکشف، واضح اور معروف ہو جاتے ہیں لیکن اس کا وقوع بہت کم اور ان ظاہری امور تک محدود ہے جن کی توضیح علم کلام میں غور و فکر کے بغیر بھی ممکن ہے۔

﴿3﴾..... اس سے عوام کے لئے ہمارے بیان کردہ عقائد کی حفاظت ہوتی اور بدعتیوں کے مناظروں سے پیدا ہونے والے لشکوک و شبہات سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی کمزور ہوتا ہے اور وہ بدعتی کی مناظرانہ گفتگو کا محض زبانی کلامی جواب دینے کے لئے پُر جوش ہوتا ہے اگرچہ یہ فاسد رویہ ہے اور فاسد رویے سے ہی فاسد کا مقابلہ اسے دُور کر سکتا ہے۔ نیز عام لوگ ہمارے بیان کردہ عقائد کو ہی اپناتے ہیں اس لئے کہ شریعت نے انہی عقائد کو بیان کیا اور سلف صالحین رَحْمَتُهُمُ اللهُ الْعَبِیْنِ نے بھی یہی عقائد اپنائے کیونکہ انہی عقائد میں سب کے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔

## علمائے کرام کی ذمہ داری:

جس طرح حاکم وقت اس امر کا ذمہ دار ہے کہ اپنی رعایا کے اموال پر ظالموں اور غاصبوں کو ہاتھ نہ ڈالنے دے اسی طرح علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عامۃُ الْمُسْلِمِیْنِ کو بدعتیوں کی فریب کاریوں سے بچائیں۔

## علم کلام کے استعمال کے طریقے:

علم کلام کے فوائد و نقصانات سے باخبر ہونے کے بعد علمائے کرام کو چاہئے کہ جس طرح ایک ماہر طبیب نقصان

دہ ادویات کو صرف مقامِ ضرورت پر تجویز کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی علمِ کلام کو بقدرِ ضرورت اور بوقتِ حاجت ہی استعمال میں لائیں۔

﴿1﴾..... دنیاوی کاموں اور کاروبار میں مصروف عام مسلمانوں کے عقائد اگر مذکورہ عقائدِ اہل سنت کے مطابق ہوں تو ضروری ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اس لئے کہ عوام کے حق میں علمِ کلام کی تعلیم باعثِ نقصان ہے۔ کیونکہ وہ بعض اوقات شکوک و شبہات میں پڑ کر اپنے عقائد کی چنگٹی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح کے آثار معدوم ہو جاتے ہیں اور بدعتی عقائد اختیار کرنے والے عام شخص کو سختی سے نہیں بلکہ خوش اخلاقی اور ایسی نرم گفتگو سے راہِ حق پر چلنے کی دعوت دی جائے جو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین اور نصیحت و خوفِ خدا کے تاثرات سے بھرپور ہو جس کی بنا پر نفس مطمئن ہو اور دل کھنچ جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو شرائطِ متکلمین کے مطابق مناظرانہ گفتگو سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی سے بحث و مباحثہ کے تناظر میں گفتگو کر کے اسے اگر لا جواب بھی کر دیا جائے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ محض مناظرانہ انداز سے اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش ہے اور میرا ہم مذہب مناظر بھی اسے لا جواب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا بدعتی عقائد کے حامل اور شکوک و شبہات میں گرفتار عام آدمی سے مناظرہ کرنا حرام ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ منتشر الذہن (یعنی حیران و پریشان) افراد کے شبہات کا نرمی، وعظ و نصیحت اور ایسے دلائل سے ازالہ کیا جائے جو علمِ کلام کی مشکل اباحت سے پاک اور معقول و مقبول طرز پر ہوں۔

﴿2﴾..... علمِ کلام کے انتہائی درجوں کو چھوٹا ایک صورت میں مفید ہے وہ یہ کہ بالفرض ایک عام شخص کسی مناظرے سے متاثر ہو کر بدعتی عقائد اختیار کر بیٹھا تو ایسے شخص کے سامنے اسی طرح کی مناظرانہ گفتگو سے واپس راہِ راست پر لا سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی اسی صورت میں ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ شخص مذکور مناظرہ ہی چاہتا ہے، وعظ و نصیحت اور ڈرانے والے عمومی دلائل پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ بدعتی گئی کی وہ خراب حالت ہے جس کا علاج مناظرے کی دوا سے کرنے کی اجازت ہے۔

﴿3﴾..... وہ علاقہ جات جہاں بدعتیں اور مذہبی اختلافات کم ہیں، وہاں مذکورہ عقائد ہی کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے اور اس وقت تک دلائل کو نہ چھیڑا جائے جب تک شبہات سر نہ اٹھائیں۔ جب شبہات پڑنا شروع ہوں تو بقدرِ حاجت دلائل بیان کر دیئے جائیں۔ اگر بد مذہبی کا فتنہ زوروں پر ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ بچے اس فتنے کی زد میں آسکتے ہیں

تو انہیں ”رسالۂ قدسیہ“ میں ہمارے ذکر کردہ دلائل سکھادیئے جائیں تاکہ اگر بد مذہب مناظروں کے راستے اپنا تاثر قائم کرنا چاہیں تو یہ دلائل اسے بے اثر بنا دیں۔ یہ دلائل مختصر ہیں اسی وجہ سے ہم نے انہیں اس رسالے میں ذکر کیا ہے۔

﴿4﴾..... اگر مبتدی (ابتدائی طالب علم) ذہین ہو اور ذہانت کی بنا پر مقام سوال سے باخبر ہو جاتا ہو یا اس کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے تو جان لینا چاہئے کہ قابلِ اجتناب علت اور بیماری سامنے آچکی۔ ایسی صورت حال کے حل کے لئے علما اس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں جو ہم نے 50 اوراق پر مشتمل رسالے ”الْاِقْتِصَادِی الْاِعْتِقَاد“ میں بیان کیا ہے۔ اس میں علمائے متکلمین کی دیگربحاث سے صرف نظر کرتے ہوئے، صرف عقائد کے اصول و قواعد بیان کئے گئے ہیں۔ اگر اسی کو کافی سمجھے تو مزید کچھ سکھانے بتانے کی ضرورت نہیں اور اگر پھر بھی مطمئن نہ ہو تو سمجھ لیں کہ بیماری پرانی ہوگئی اور غالب آچکی ہے اور مرض جسم میں سرایت کرچکا ہے۔ پس طبیب بقدر امکان علاج کرے اور انتظار کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے حکم سے اس کے لئے وضاحت حق کا کوئی سبب پیدا فرمادے یا پھر جب تک اس کے مقدر میں ہے شکوک و شبہات میں پڑا رہے۔ پس ”الْاِقْتِصَادِی الْاِعْتِقَاد“ جیسی کتابوں میں جو کچھ مذکور ہے اس سے نفع کی امید کی جاسکتی ہے۔

## بے فائدہ علم کلام کی اقسام:

کتاب ”رسالۂ قدسیہ“ اور ”الْاِقْتِصَادِی الْاِعْتِقَاد“ میں مذکور علم کلام کے علاوہ جو ہے وہ غیر مفید ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... قواعد عقائد کے علاوہ امور کو زیر بحث لانا، مثلاً اعتمادات (یعنی اسباب و علل)، موجودات اور اشیاء کی نفی و اثبات میں بحث کرنا اور اس بات میں غور کرنا کہ کیا رویت (یعنی دیکھنے) کی ضد رکاوٹ کہلائے گی یا نابینائی؟ اور دکھائی نہ دینے والی سب اشیاء کے لئے ایک ہی رکاوٹ ہے یا قابل رویت اشیاء کی تعداد کے برابر رکاوٹیں ہیں؟ وغیرہ وغیرہ جیسی باطل و گمراہ کن باتیں۔

﴿2﴾..... بیان کردہ قواعد عقائد کے علاوہ ان دلائل کو زیادہ بیان کرنا اور بہت زیادہ سوال و جواب کرنا ہے۔ یہ عمل بھی ایک ایسی انتہا ہے جو ہمارے دلائل سے غیر مطمئن شخص کی گمراہی اور جہالت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ کئی کلام ایسے ہیں جن کو طول دینا اور لمبی تقریر کرنا دقت و ابہام (یعنی دشواری و پوشیدگی) کا سبب بنتا ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اشیاء کی نفی و اثبات اور علل و اسباب کی حکمتوں سے بحث کرنا دل کی تیزی کا سبب ہے اور دل دین کا آلہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہے۔ تو دل کی تیزی پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ جواب، یہ دلیل تو ایسی ہی بے تکی ہے جیسے کوئی کہے کہ شطرنج کھیلنے سے دل کو تیزی ملتی ہے لہذا شطرنج کھیلنا بھی ایک دینی کام ہوا۔ حالانکہ یہ خواہش پروری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ دل تمام علوم شرعیہ سے تیز ہوتا ہے جن میں کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہوتی۔ علم کلام کتنی مقدار میں، کس وقت اور کس کے لئے مفید و لائق تعریف ہے اور کس کے لئے نہیں یہ سب بیان ہو چکا۔

## علم کلام دوا اور علم فقہ غذا کی مثل ہے:

چونکہ گزشتہ صفحات میں بد مذہبوں کی تردید کے لئے علم کلام کی ضرورت کو آپ تسلیم کر چکے اور اب جبکہ لوگوں میں بد مذہبی پھیلتی جا رہی ہے تو علم کلام کی ضرورت متحقق (ثابت) ہوگئی لہذا اس کا حصول فرض کفایہ ہونا چاہئے۔ جس طرح اموال اور دیگر حقوق کی حفاظت کے لئے قضا و ولایت وغیرہ ضروری ہیں اور جب تک علمائے کرام اس علم کو پھیلانے، پڑھانے اور اس کی تحقیق کی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے اس وقت تک اسے دوام حاصل نہیں ہوگا۔ اس علم سے بالکل بے رُخی برتنا اسے مٹانے کے مترادف ہے اور اسے سیکھے بغیر محض طبعی صلاحیتوں کے بل بوتے پر بد مذہبوں کی تردید کرنا ایک مشکل امر ہے۔ لہذا اس علم کی تدریس و تحقیق کو فرض کفایہ کا درجہ حاصل ہونا چاہئے اور جہاں تک زمانہ صحابہ کی بات ہے تو اس وقت اس علم کی ضرورت ہی نہ تھی۔

**جواب:** ہونا تو یہی چاہئے کہ ہر شہر میں اس علم کا ماہر ہو جو اس شہر میں بد مذہبوں کے اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے اور یہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس کی تدریس و تفسیر و فقہ کی تدریس کی طرح عام نہ ہو۔ اسے یوں سمجھئے کہ علم کلام دوا کی مثل ہے اور علم فقہ غذا کی مثل۔ غذا کے ضرر کا کوئی ڈر نہیں لیکن دوا کے نقصان سے ضرور بچنا ہوگا اور اس کے نقصانات ہم بیان کر چکے ہیں۔

## علم کلام کسے سکھایا جائے؟

ماہر علم کلام صرف تین اوصاف کے حامل شخص کو یہ علم سکھائے:

﴿1﴾..... اس علم کا طالب، اسی کے لئے وقف اور اسی کا خواہش مند ہو کیونکہ دیگر مشاغل کی طرف توجہ اس علم کی تکمیل اور وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔

﴿2﴾..... طالب علم ذہین و فطین اور فصیح اللسان (یعنی بولنے کا ماہر) ہو کیونکہ کند ذہن اس علم سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور کم فہم شخص کے لئے بھی اس کے دلائل فائدہ مند ثابت نہ ہوں گے۔ لہذا ایسے شخص کے حق میں علم کلام سے نفع کی اُمید کم جبکہ نقصان کا خوف زیادہ ہے۔

﴿3﴾..... طالب علم کی طبیعت نفسانی خواہشات سے دور اور اصلاح، دیانت داری اور تقویٰ و پرہیزگاری جیسی قابلِ قدر خوبیوں سے معمور ہو کیونکہ فاسق کو چھوٹا سا شبہ بھی دین سے دور کر دیتا اور اس کے اور خواہشاتِ نفسانیہ کے درمیان پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ شخص شبہات کو دور کرنے کے بجائے انہیں دین اور دینی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کے لئے بہانے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لہذا ایسے طالب علم سے بھی فوائد کے بجائے نقصانات کی توقعات زیادہ ہیں۔

جب آپ علم کلام کی تقسیمات جان چکے تو میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اس علم میں بہترین دلیل اسے تصور کیا جاتا ہے جو دلائل قرآنیہ جیسی ہو یعنی کلمات نرم، دل نشین اور اطمینان کن ہوں۔ درمیان میں ایسی اقسام اور دقیق بحث نہ لائی جائیں جو اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوں اور اگر سمجھ بھی لیں تو یہی تاثر پیدا ہو کہ یہ اس کی شعبہ بازی اور فن کاری ہے جسے لوگوں کی دھوکا دہی کے لئے استعمال کرتا ہے اس فن میں اس جیسا ماہر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

## بعض احکام میں تبدیلی کا ایک سبب:

آپ جانتے ہیں کہ علم کلام کے بیان کردہ نقصانات کے پیش نظر حضرت سپدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی اور دیگر کئی بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْن نے اس علم کے لئے وقف ہو جانے اور اس میں بہت زیادہ غور و خوض کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رہی بات اس مناظرے کی جو حضرت سپدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُمَا کا خارجیوں سے اور امیر المؤمنین حضرت سپدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْہَهُ الْکَرِیْم کا منکر تقدیر سے ہوا اور اس طرح کے دیگر مناظرے تو وہ واضح اور ظاہر کلام کے ساتھ بوقتِ ضرورت منعقد ہوئے تھے۔ اس لئے انہیں اچھا ہی جانیں اور مانیں گے۔ ہاں! یہ بات ہے کہ کسی دور میں اس علم کی ضرورت زیادہ محسوس ہوگی اور کسی میں کم تو اسی حساب سے اس علم کے

علم کا بدلتے رہنا کچھ عجب نہیں۔

## علمی وسعتیں پانے کا نسخہ:

علم کلام کا مذکورہ حکم، دفاع اور حفاظت کا طریقہ کار ان عقائد کے لئے بیان کیا گیا ہے جنہیں عامۃ المسلمین اپناتے ہیں۔ اس کے علاوہ شبہات دُور کرنے، حقائق سے باخبر ہونے، اشیاء کا وجود جس طور پر ہے اسے پہچاننے اور بیان کردہ عقائد کے لئے استعمال ہونے والے ظاہری الفاظ کے اسرار و رموز کو جاننے کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ طاعاتِ الہیہ، مجالانا، نفسانی خواہشات ترک کرنا، بارگاہِ الہی کی طرف مکمل متوجّہ رہنا اور ہمیشہ اپنے ذہن کو جھگڑوں کے مرض سے پاک رکھنا ہے۔ یہ تمام امور اللہ عزّوجلّ کی رحمت ہیں۔ توفیقِ الہی کے شامل حال ہوتے ہوئے جو شخص ان امور کی خوشبوئیں پانے کی جس قدر کوشش کرتا اور جتنی قلبی صفائی و صلاحیت رکھتا ہے اسی تناسب سے انہیں پالیتا ہے۔ یہ اتنا وسیع سمندر ہے جس کی گہرائیوں اور کناروں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

مذکورہ وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر ہیں اور کچھ پوشیدہ، بعض ابتداء ہی واضح ہو جاتی ہیں اور بعض مخفی رہتی ہیں جن کی وضاحت کے لئے عبادت و ریاضت، انتھک کوشش و صلاحیت، فکری پاگیرگی اور تمام غیر ضروری دنیاوی افکار سے قلبی صفائی ضروری ہے۔ جبکہ یہ بات خلاف شرع معلوم ہوتی ہے کیونکہ شریعت ظاہر و باطن اور پوشیدہ و علانیہ جیسی تقسیمات میں بٹی ہوئی نہیں بلکہ اس میں ظاہر و باطن اور علانیہ و پوشیدہ ایک ہی ہیں؟

جواب، علوم دو قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں: (۱) ظاہری (۲) باطنی۔

اس بات سے اہل علم تو انکار نہیں کرتے بلکہ انہی کم علموں کو انکار ہوتا ہے جو نوعمری کے زمانے میں جو کچھ سیکھتے ہیں اسی پر جم جاتے ہیں۔ علمی ترقی اور درجاتِ اولیا و علما کی طرف پیش قدمی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وگرنہ علوم کی مذکورہ تقسیم پر دلائل شرعیہ موجود ہیں۔

## علوم کی تقسیم پر دلائل شرعیہ:

﴿۱﴾..... حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ معرفت نشان ہے: ”إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا



وَبَاطِنًا وَحَدًّا وَمَطَّلَعًا عِنِّي: بے شک قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی ایک حد ہے اور ایک مطلع۔“ (۱)

﴿2﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے فرمایا: ”یہاں بہت سے علوم موجود ہیں۔ کاش! مجھے انہیں حاصل کرنے والا کوئی مل جائے۔“ (۲)

﴿3﴾..... حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ باکمال ہے: ”ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ عوام

سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔“ (۳)

﴿4﴾..... سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ ہدایت نشان ہے کہ ”لوگوں کی عقلوں

سے ماورا گفتگو کرنے والا ان کے لئے فتنے کا باعث ہے۔“ (۴)

﴿5﴾..... اللهُ تبارک وتعالیٰ کا فرمانِ عالی شان ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۴۲﴾ (پ ۲۰، العنکبوت: ۴۳) فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

﴿6﴾..... سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ارشادِ نور بار ہے کہ ”بعض علوم پوشیدہ خزانوں

کی طرح مخفی ہیں جنہیں معرفتِ خداوندی رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔“ (۵)

﴿7﴾..... حضور نبی اکرم، نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ”اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا

ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔“ (۶)

غور فرمائیے کہ اگر یہ ایسا راز نہ ہوتا جسے عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے یا کسی اور وجہ کی بنا پر ظاہر کرنے سے منع فرما

دیا گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اسے صحابہ کرام رِضْوَانُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ پر کیوں ظاہر نہ فرمایا؟

①..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، ذکر العلة التي من اجلها..... الخ، الحديث ۵، ج ۱، ص ۱۴۶، باختصار۔

②..... التذكرة الحمدونية، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۰۔

③..... المقاصد الحسنة، حرف الهمزة، الحديث ۱۸، ص ۱۰۲-۱۰۳۔

④..... صحيح مسلم، المقدمة، الحديث ۵، ص ۹، بتغير قليل۔

⑤..... فردوس الاخبار، باب الالف، الحديث ۹۹، ج ۱، ص ۱۲۶۔

⑥..... صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، الحديث ۹۰۱، ص ۲۴۸۔

حالانکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ راز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان فرماتے تو وہ ضرور اس کی تصدیق کرتے۔

﴿8﴾..... حَبْرُ الْأَمَّةِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت طیبہ:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ  
ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور  
انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔

(پ ۲۸، الطلاق: ۱۲)

کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”اگر میں اس کی تفسیر بیان کرتا تو تم مجھے سنگ سار (یعنی پتھر مار کر ہلاک) کر دیتے۔“

ایک روایت میں ہے کہ ”اگر میں اس کی تفسیر بیان کرتا تو تم مجھے کافر قرار دیتے۔“ (۱)

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”بارگاہ رسالت سے مجھے دو طرح کے علم عطا ہوئے

ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اگر دوسرا بھی ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔“ (۲)

﴿10﴾..... حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ابو بکر صدیق کی تم پر

فضیلت کی وجہ نماز و روزہ کی کثرت نہیں بلکہ وہ راز ہے جو ان کے سینے میں ودیعت کیا گیا ہے۔“ (۳)

بلاشبہ وہ راز دینی اصولوں کے متعلق ہی تھا اس سے خارج نہ تھا اور دینی اصولوں کے متعلق امور اپنے ظاہری معنی

کے اعتبار سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مخفی نہ تھے۔

﴿11﴾..... حضرت سیدنا سہل تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ”حقیقی عالم کو تین قسم کے علوم نصیب ہوتے

ہیں: (۱)..... علم ظاہر جسے وہ صرف اہل ظاہر پر ظاہر کرتا ہے۔ (۲)..... علم باطن جسے وہ صرف اہل باطن پر ظاہر کرتا

ہے۔ (۳)..... وہ علم جو اللہ عزوجل اور اس عالم کے درمیان راز ہے، جسے نہ تو وہ اہل ظاہر پر ظاہر کرتا ہے اور نہ ہی

اہل باطن کو اس پر آگاہ کرتا ہے۔“ (۴)

①..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون فیہ شرح مقامات البقین، ج ۱، ص ۴۲۱۔

②..... صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم، الحدیث: ۱۲، ج ۱، ص ۶۳۔

③..... المقاصد الحسنیة، حرف المیم، الحدیث: ۹۷، ص ۳۷۶۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۴۸۔

﴿12﴾..... بعض عارفین کا قول ہے کہ ربوبیت کے رازوں کو ظاہر کرنا کفر ہے۔

﴿13﴾..... ایک عارف فرماتے ہیں: ”اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کا ایک راز ایسا بھی ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو نبوت ہی باطل ہو جائے اور نبوت کا ایک راز ایسا ہے کہ اگر وہ کھل جائے تو علم باطل ہو جائے اور علمائے ربانیین کا ایک راز ایسا ہے کہ اگر وہ اسے ظاہر کر دیں تو احکام شرع باطل ہو جائیں۔“<sup>(۱)</sup>

## مومنِ کامل:

اس قول کے قائل بزرگ کی اگر یہ مراد نہ ہو کہ کمزور لوگ عقل و فہم کی کمی کے سبب نبوت کے اہل نہیں ہوتے تو جو کچھ انہوں نے ذکر کیا وہ صحیح نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس میں تناقض نہیں کہ مومنِ کامل وہ ہے جس کی معرفت کا نور، اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھائے اور پرہیزگاری کی اصل نبوت ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

مذکورہ آیات و احادیث میں تاویل ہوگی۔ لہذا ہمارے سامنے واضح کرو کہ علوم کے ظاہر و باطن کے اختلاف سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ ہو کہ باطن ظاہر کے مخالف ہے تو یہ شریعت کو باطل کرنے اور ان لوگوں کی تائید کرنے کے مترادف ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ قول کفر ہے کیونکہ ظاہری احکام کو شریعت اور باطنی احکام کو حقیقت کہتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ باطن ظاہر کے مخالف و متضاد نہیں تو پھر علوم کا ظاہر و باطن ایک ہی ہو اور اس کی ظاہری و باطنی تقسیم بے معنی ہو جائے گی۔ نیز شریعت کا کوئی راز ایسا نہ رہے گا جسے ظاہر نہ کیا جاسکے بلکہ پوشیدہ اور ظاہر ایک ہی ہوگا۔

یہ سوال ایک بڑے امر کو حرکت دینے، علم مکاشفہ کی طرف لے جانے اور اصل مقصود یعنی علم معاملہ سے ہٹانے والا ہے جسے اس کتاب میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے ذکر کردہ عقائد کا تعلق دل کے اعمال سے ہے جنہیں قبول کرنا اور سچے دل سے ان کی تصدیق کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ان کی تحقیقوں تک رسائی پائیں کیونکہ عوام الناس کو اس امر کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اگر عقائد کا تعلق اعمال سے نہ ہوتا تو انہیں اس کتاب میں بیان نہ کیا جاتا

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۲۷۔

اور اگر ان کا تعلق ظاہر دل سے نہ ہوتا بلکہ باطن سے ہوتا تو انہیں اس کتاب کے پہلے حصے میں ذکر نہ کیا جاتا۔ کیونکہ حقیقت کا کھل جانا تو دل اور اس کے باطن کے راز کی صفت ہے۔ لیکن جب کلام سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ ظاہر باطن کے خلاف ہے تو اس شبہ کے ازالے کے لئے مختصر وضاحت کی ضرورت پیش آئی۔ لہذا جو کہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف یا ظاہر باطن کے متضاد ہے تو وہ شخص ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہے۔

## خواص کے اسرار کی اقسام:

جن اسرار کا ادراک صرف مقررین کے لئے خاص ہے، دیگر علما ان کے ساتھ شریک نہیں اور انہیں ان رازوں کو فاش کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایسے اسرار کی پانچ اقسام ہیں:

﴿1﴾..... کوئی شے ذاتی طور پر بہت باریک اور عوام کی سمجھ سے بالاتر ہو، جسے صرف خواص ہی سمجھ سکتے ہیں اور ان خواص پر بھی لازم آتا ہے کہ نا اہل پر اس شے کے راز کو فاش نہ کریں۔ ورنہ وہ کم عقلی اور ناسمجھی کی بنا پر فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ”روح کے راز کو بھی چھپایا جائے گا جسے ظاہر کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع تھا۔“<sup>(۱)</sup> کیونکہ حقیقت روح کے ادراک و تصور تک عوام کی سمجھ اور خیال کو رسائی نہیں۔ کسی کو وسوسہ نہ آئے کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت روح کا علم نہ تھا (بلکہ عطاء رب العزت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقیقت روح کا بھی علم رکھتے ہیں) کیونکہ جسے حقیقت روح کا علم نہیں اسے اپنے نفس کی معرفت بھی حاصل نہیں اور جسے اپنے نفس کی معرفت نہیں وہ معرفت رب کیسے پاسکتا ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اسرار سے بعض اولیا و علما کو بھی حاصل جائے اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتے لیکن آداب شریعت کا پاس رکھتے ہیں اور جس مسئلے میں شریعت خاموش ہے وہ بھی اس میں خاموش رہتے ہیں۔ بلکہ صفات باری تعالیٰ میں کچھ باتیں مخفی ہیں جہاں اکثر لوگوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم و قدرت وغیرہ کے صرف ظاہری معنی بیان فرمائے۔ جسے لوگوں نے ایک مناسب طریقے پر سمجھا اور خود کو حاصل علم و قدرت جیسی صفات کے مشابہ جانا کیونکہ مخلوق کو بھی کچھ صفات کی عطا ہے جنہیں علم و قدرت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پر قیاس کر کے علم و قدرت الہی کو خیال کیا۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صفة القيامة..... الخ، باب سوال اليهود النبی..... الخ، الحدیث: ۲۷۹، ص ۱۵۰۔

اگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایسی صفاتِ الہیہ کو بیان فرماتے جن کے مشابہ صفات مخلوق کے پاس نہ ہوتیں تو وہ صفاتِ باری تعالیٰ کو نہ سمجھ پاتے۔ مثال کے طور پر کسی بچے یا عیبین کے سامنے جماع کی لذت بیان کی جائے تو وہ اس کی حقیقت سے نابلد رہے گا اور اسے کسی کھانے کے ذائقے کی طرح سمجھے گا۔

## اللہ عَزَّوَجَلَّ اور مخلوق کے علم و قدرت میں فرق:

یاد رہے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم و قدرت اور مخلوق کے علم و قدرت کے درمیان فرق، کھانے اور جماع کی لذت کے درمیان فرق سے کہیں زیادہ ہے۔ بہر حال! انسان اولاً اپنی ذات اور اپنی موجودہ یا سابقہ صفات کو سمجھتا ہے پھر اس پر قیاس کر کے مزید اشیاء کی جان پہچان حاصل کرتا ہے پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ صفاتِ رب اور صفاتِ عبد میں شرف و کمال کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ بشری طاقت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ثابت شدہ فعل اور علم و قدرت وغیرہ جیسی صفات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے اس فرق و یقین کے ساتھ ثابت مانے کہ وہ ان صفات میں بزرگ و برتر اور کامل ترین ہے جبکہ انسان کی انتہائی رسائی اپنی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے لئے مختص بزرگی تک رسائی بندے کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ کَمَا اُثْنِیْتَ عَلٰی نَفْسِکَ لَعْنٰی: (یا اللہ عَزَّوَجَلَّ!) میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسی حمد و ثنا تو اپنے لئے کرتا ہے۔“ (۱)

اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے بیان نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہ جلالت و عظمتِ الہی کو کامل طور پر نہ جاننے کا معترف ہوں۔ اسی بنا پر بعض عارفین کہتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حقیقت کو وہ خود ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔“ (۲)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنی معرفت کی طرف مخلوق کو راہ نہیں دی بلکہ انہیں اس سے عاجز رکھا۔“ (۳)

اب ہم اپنی گفتگو کو مقصود کی طرف لاتے ہیں کہ اسرار و رموز کی ایک قسم وہ ہے جس کا ادراک عوام الناس کے بس سے

①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، الحديث: ۴۸، ص ۲۵۲۔

②..... روح البیان، الجزء الخامس والعشرون، سورة الشوری، ص ۲۹۴۔

③..... الرسالة القشيرية، باب التوحيد، ص ۳۳، ”سبحان“ بدله ”الحمد لله“۔

باہر ہے۔ رُوح اور صفاتِ باری تعالیٰ کے اسرار اسی قسم سے متعلق ہیں اور یہ حدیثِ پاک بھی شاید اسی طرف مشیر (اشارہ کرتی) ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور کے 70 حجابات ہیں اگر وہ انہیں ہٹا دے تو اس کی تجلیات تاحد نگر سب کچھ جلادیں۔“ (۱)

## بے دینی کا باعث:

﴿2﴾..... (مقربین کے ساتھ خاص اسرار میں سے دوسری قسم) وہ پوشیدہ امور جو بذاتِ خود قابلِ فہم ہیں۔ عقل کی ان تک رسائی ہے لیکن انبیا و اولیا کو ان امور کے بیان کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اکثر لوگ ان امور کا بیان سن کر نقصان اٹھاتے ہیں لیکن انبیا و اولیا اس نقصان سے محفوظ رہتے ہیں جیسے مسئلہ تقدیر کا راز، اہل علم حضرات کو اس راز کا افشا (ظاہر کرنا) منع ہے۔ کیونکہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض حقیقتوں کا بیان بعض لوگوں کے لئے باعثِ نقصان ہے جیسے گو بر کے کیڑے کو گلاب کی خوشبو اور چمگاڈ کی آنکھوں کو سورج کی روشنی ضرر دیتی ہے۔ نیز یہ قول بالکل حق ہے کہ کفر، زنا، گناہ اور دیگر تمام برائیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم، ارادہ اور مشیت سے ہیں مگر اس سے بعض لوگ فتنے میں پڑیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ بات خلافِ حکمت، بے وقوفی کی علامت اور برائی و ظلم پر رضامندی کی نشانی ہے۔ ابنِ راوندی اور دیگر ذلیل لوگوں کی بے دینی کا سبب اسی طرح کی باتیں ہیں۔

اسی طرح رازِ تقدیر کا افشا کئی لوگوں کو اس شبہ میں ڈال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے (معاد اللہ) کیونکہ عوام اُن باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے جن سے اس شبہ کا ازالہ کیا جاسکے۔ قیامت کے متعلق اگر کوئی شخص کہے کہ وہ ایک ہزار سال یا اس سے کچھ عرصہ پہلے یا بعد واقع ہوگی تو اس کی بات بالکل معقول ہے، لیکن بندوں کی مصلحت اور اندیشہِ ضرر کے پیش نظر اس مدت کو بیان نہیں کیا گیا کیونکہ قیامت آنے میں اگر زیادہ عرصہ باقی ہوتا تو لوگ عذاب میں تاخیر کو دلیل بنا کر غفلتِ شعار ہو جاتے اور اگر علمِ الہی میں قیامت کا وقوع جلدی ہوتا اور لوگوں کو یہ بات بتادی جاتی تو وہ زیادہ خوف میں مبتلا اور اعمال سے روگرداں ہو جاتے اور نظامِ دنیا خراب ہو جاتا۔ مذکورہ بیان اگر صحیح اور درست سمت پر ہو تو دوسری قسم کی مثال بن سکتا ہے۔

﴿3﴾..... (مقربین کے ساتھ خاص اسرار میں سے تیسری قسم) کسی چیز کا صراحتاً ذکر اگر چہ اندیشہِ ضرر سے خالی اور قابلِ فہم ہو، اس کے باوجود اسے اشاروں کنایوں میں بیان کرنا تاکہ وہ چیز سامع کے دل میں زیادہ اثر کرے اور یہی مصلحت

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله علیہ السلام..... الخ، الحدیث: ۱۷۹، ص ۱۰۹، باختصار۔

واضح بھی ہو۔ مثلاً کوئی کہے: ”میں نے فلاں شخص کو خنزیریوں کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالتے دیکھا“ اور اس قول سے یہ بتانا چاہے کہ ”فلاں شخص علم و حکمت کے موتی نااہلوں کو لٹا رہا ہے“ یہ قول سننے والا عام شخص اس کا ظاہری معنی مراد لے سکتا ہے لیکن زیرک شخص جب اس شخص کے متعلق سنے اور دیکھے گا کہ اس کے پاس موتی ہیں نہ خنزیر تو وہ اس قول کے باطنی معنی اور راز کو پا لے گا۔ ایسے معانی اور اسرار کو سمجھنے کے سلسلے میں لوگوں کی حالت مختلف ہوتی ہے۔

## درزی اور جولاہا:

اسی مفہوم کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے:

رَجُلَانِ خَيْطٌ وَآخِرُ حَائِكٍ      مُتَقَابِلَانِ عَلَى السَّمَاءِ الْأَعَزَلِ  
لَا زَالَ يَنْسُجُ ذَاكَ خِرْقَةً مُدْبِرٍ      وَيَخِيْطُ صَاحِبُهُ ثِيَابَ الْمُقْبِلِ

**ترجمہ:** دو آدمی جن میں سے ایک درزی اور دوسرا جولاہا ہے دونوں آسمان بالا پر ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ایک ہمیشہ بدبختوں کے لباس بناتا اور دوسرا نکو کاروں کے لباس سینتا ہے۔

شاعر نے سعادت و شقاوت جیسے آسمانی اسباب کو دو کار یگروں سے تعبیر کیا۔ یہ ہے وہ قسم جس میں بات کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ اس میں وہی معنی یا اس جیسا مفہوم پایا جائے۔

## ”مسجد سکرتی ہے“ سے مراد:

ایسا ہی مفہوم اس حدیث پاک میں بھی ہے: ”إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْجِلْدَةُ عَلَى النَّارِ لِعَيْنِي: ريثه سے مسجد ایسے سکرتی ہے جیسے آگ سے چڑا۔“ (۱)

حالانکہ ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ریٹھ کی وجہ سے صحن مسجد سکرتا ہو بلکہ اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ رُوح مسجد قابل تعظیم ہے، یہاں ریٹھ ڈالتا تو بین اور معنی مسجد یت کے خلاف ہے جس طرح آگ چڑے کے اجزاء کے خلاف ہے۔

## گدھے جیسا منہ:

ایک اور حدیث پاک میں ہے: ”کیا امام سے پہلے سراٹھانے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع والامامة، الحديث ۹، ج ۲، ص ۲۶۰۔

کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے۔“ (۱)

(رکوع و سجود میں امام سے آگے بڑھنے والے مقتدی کے ساتھ) اس حدیث کے ظاہری معنی کے مطابق صورتِ حال کبھی پیش نہ آئی (۲)۔ ہاں! معنوی اعتبار سے ممکن ہے یعنی اس آدمی کا سر رنگ و شکل کے اعتبار سے گدھے کے سر جیسا نہیں ہوتا بلکہ خاصیت یعنی بے وقوفی و کم عقلی میں گدھے جیسا ہو جاتا ہے۔ پس جو مقتدی (رکوع و سجود میں) امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر بے وقوفی اور کم عقلی میں گدھے کے سر جیسا ہے۔ حدیث شریف کی مراد یہی ہے حقیقتاً گدھے کی صورت مراد نہیں جو الفاظ کا ظاہری معنی ہے اور دو متضاد چیزوں کو یکجا کرنا مقتدی کی بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اقتدا بھی کرے اور امام سے آگے بھی بڑھے۔

### مرادی معنی کی پہچان کا طریقہ:

اسرار کی اس قسم میں ظاہری معنی مراد نہیں اس کی پہچان کے دو طریقے تھے ہیں: (۱) دلیل عقلی (۲) دلیل شرعی۔

(۱)..... دلیل عقلی: یوں کہ ان الفاظ کی ظاہری مراد پر عمل ناممکن ہو۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے: ”قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ“ یعنی: مؤمن کا دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے (۳)۔ لہذا اگر قلب مؤمن

①..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب اثم من رفع راسه قبل الامام، الحدیث: ۶۹، ج ۱، ص ۲۴۹۔

②..... ممکن ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِی کے زمانہ تک ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا ہو اس لئے آپ نے یہ فرمایا مگر اسے حقیقی معنی پر محمول کرنا بھی ممکن ہے چنانچہ، حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان محمد القاری المعروف ملا علی قاری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِی مذکورہ حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: حقیقی معنی کا احتمال اس دلیل کی بنا پر ہے کہ اس امت میں بھی صورتوں کا مسخ ہونا ممکن ہے جیسا کہ علامات قیامت کے متعلق مروی روایات میں مذکور ہے۔ نیز ایسا ثابت بھی ہے کہ سر گدھے کے سر کی طرح ہو گیا۔ چنانچہ، منقول ہے کہ ”ایک محدث حدیث لینے کے لئے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے، مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا، مگر ان کا منہ نہ دیکھا، جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا، دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا منہ گدھے کا سا ہے، انہوں نے کہا: ”صاحب زادے! امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد (یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس) جانا اور میں نے امام پر قصداً سبقت کی، تو میرا مونہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔“ (مقراة المفاتیح، کتاب الصلوٰۃ تحت الحدیث: ۱۱۴، ج ۳، ص ۲۲۱)

③..... صحیح مسلم، کتاب القدر، باب تصریف اللہ تعالیٰ القلوب..... الخ، الحدیث: ۲۶۵، ص ۱۴۲۔

④..... مُفسِّرُ شہیر حکیمُ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّا مِرَاةُ الْمَنَاجِیْمِ، ج ۱، ص ۹۹ پر اس کے تحت فرماتے.....



کو دیکھا جائے تو وہاں انگلیاں نہیں ملیں گی، جس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں سے اشارتاً قدرت مراد ہے۔ یہ قدرت انگلیوں کا راز اور ان کی مخفی روح ہے۔ انگلیوں سے قدرت کیوں مراد لی؟ اس لئے کہ اس انداز سے اقتدارِ اعلیٰ بخوبی سمجھایا جاسکتا ہے<sup>(۱)</sup>۔ اسی طرح اس آیت مقدسہ میں بھی قدرت الہیہ کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا قَوْلُنَا شَيْءٌ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ  
كُنْ فَيَكُونُ ۝ (پ ۱۳، النحل: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔

اس آیت سے ظاہری معنی مراد لینا ناممکن ہے کیونکہ اگر کسی شے کو وجود سے پہلے لفظ ”کُن“ سے مخاطب کیا جائے تو یہ مجال ہے کہ معدوم شے خطاب کیسے سمجھے گی؟ اور اگر یہ خطاب موجود کو ہے تو اسے وجود میں لانے کا کیا مطلب؟ مگر اس طرح کا کنایہ چونکہ انتہائی درجہ کی قدرت سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اسے استعمال میں لایا گیا۔

(۲)..... دلیل شرعی: کسی راز کے اگرچہ ظاہری معنی مراد ممکن ہو لیکن روایات بتاتی ہوں کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں۔ جیسا کہ اس فرمانِ الہی کی تفسیر میں ہے:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً  
بِقَدَرِهَا ۝ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے۔

اس آیت مبارکہ میں پانی سے مراد قرآن پاک اور اودیوں سے مراد دل ہیں۔ بعض دل قرآن کا فیضان زیادہ پاتے ہیں، بعض کم اور بعض بالکل ہی نہیں۔ جھاگ<sup>(۲)</sup> سے مراد کفر و نفاق ہے، کیونکہ یہ اگرچہ سطح آب پر ابھرا ہوتا ہے..... ہیں کہ ”یہ عبارت متشابہات میں سے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے تمہارا کام میری انگلیوں میں ہے یا میں سوالات کا جواب چٹکیوں سے دے سکتا ہوں۔“

①..... مثلاً چٹکیوں میں کام کرنا، انگلیوں پر نچانا جیسے محاوروں کا استعمال۔

②..... یہاں سے مذکورہ آیت مبارکہ کے اگلے کچھ حصے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ مکمل آیت طیبہ یہ ہے: أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ ذَبًّا أَوْ رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ ذَبًّا مِثْلَهُ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۝ وَأَمَّا الْحَمِيمُ فَسَالَتْ فِي الرِّمَاطِ ۝.....

لیکن باقی نہیں رہ پاتا جبکہ ہدایت لوگوں کے لئے مفید بھی ہے اور اسے بقا بھی حاصل ہے۔

اسرار کی اس تیسری قسم میں بعض لوگوں نے معاملاتِ آخرت جیسے میزانِ عمل اور پلِ صراط وغیرہ میں تاویلات بیان کیں، جو کہ بدعت ہیں کیونکہ ان تاویلات کا نہ تو روایات سے ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی ان معاملات کے ظاہری معنی مراد لینا ناممکن ہے، لہذا انہیں ظاہری معنی پر ہی محمول کیا جائے گا۔

﴿4﴾..... (مقربین کے ساتھ خاص اسرار میں سے چوتھی قسم) ابتداءً آدمی کسی چیز کو اجمالاً (مختصراً) جانے پھر دلیل و تجربے سے اس کی تفصیلات حاصل کرے حتیٰ کہ وہ چیز اس کا حال بن جائے اور اسے لازم ہو جائے۔ ان دونوں طریقوں (یعنی مختصر اور تفصیلی) میں فرق ہوگا۔ پہلا چھلکے کی مثل ہے دوسرا مغز کی طرح۔ پہلا ظاہر کی مانند ہے دوسرا باطن کی مثل۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اندھیرے میں یا دُور سے کسی کو دیکھے تو اسے ایک طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے، جب دُوری یا اندھیرا ختم ہوتا ہے تو پہلے اور دوسرے علم میں فرق پاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا علم پہلے سے متضاد نہیں بلکہ اسے مکمل کرنے والا ہے۔ علم، ایمان اور تصدیق بھی اسی طرح ہیں۔ یونہی عشق، بیماری اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے بھی انسان ان کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے مگر جب ان میں مبتلا ہوتا ہے تو اس یقین میں پہلے سے زیادہ پختگی آ جاتی ہے۔ بلکہ انسان کو اپنے تمام احوال بشمول شہوت و عشق کی تین مختلف حالتوں اور تین جدا جدا فہموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس حالت کے واقع ہونے سے پہلے، واقع ہوتے وقت اور واقع ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرنا۔ جیسے بھوک کا فہم بھوک ختم ہونے کے بعد ویسا نہیں ہوتا جیسا بھوک کی حالت میں تھا۔ اسی طرح علومِ دینیہ میں سے کوئی علم حاصل کیا جائے تو وہ مکمل ہو کر پہلے کی نسبت باطن کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحت کے متعلق جو فہم و ادراک مریض کو ہوتا ہے وہ تندرست کو نہیں ہوتا۔

اسرار کی ان چار اقسام میں لوگوں کی سمجھ بوجھ کی قوت آپس میں مختلف ہوتی ہے۔ لیکن ان میں کوئی ایسا باطن نہیں جو ظاہر کے خلاف ہو بلکہ وہ ظاہر کو اسی طرح پورا اور مکمل کرتا ہے جس طرح گودا چھلکے کو۔ ان باتوں کے ماننے والوں کو سلام۔

..... كَذَلِكَ يَصْرِفُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٣٥﴾ (الرعد: ١٣٥) ترجمہ کنز الایمان: اس نے آسمان سے پانی اُتارنا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے تو پانی کی رو (دھار) اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھالی اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا (زیور) یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھٹ کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔

## زبانِ حال اور زبانِ قال میں فرق اور ان کی مثالیں:

﴿5﴾..... (مقربین کے ساتھ خاص اسرار میں سے پانچویں قسم) جب زبانِ حال کو زبانِ قال سے بیان کیا جاتا ہے (۱) تو کم عقل شخص اس بات کے صرف ظاہر پر واقفیت پاتا اور اسے ظاہری زبان سے بولنا خیال کرتا ہے جبکہ حقیقت سے آشنا بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بیان کرے کہ دیوار نے میخ سے کہا: تو مجھے کیوں چیرتی ہے؟ جواب دیا: مجھ سے نہیں اس سے پوچھ جس نے مجھے بھی نہیں چھوڑا اور مجھے بھی کوٹ رہا ہے اور اس پتھر کو بھی دیکھ جو میرے پیچھے ہے۔ یہ ہے زبانِ حال کو زبانِ قال سے تعبیر کرنا۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاِلَّا لَرَضِ اَنْتِ يَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَاَنْتِ بَاطِعِيْنَ ﴿۱۱﴾ (پ ۲۳، حم السجدة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دُھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

کم عقل شخص مذکورہ آیت مبارکہ سے یہ سمجھے گا کہ زمین و آسمان زندگی پاتے، عقل رکھتے اور آواز والفاظ کے مجموعہ پر مشتمل بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور آواز والفاظ کے ساتھ ہی یوں جواب دیتے ہیں:

اَتَيْنَا طَاعِيْنَ ﴿۱۱﴾ (پ ۲۳، حم السجدة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

جبکہ صاحبِ بصیرت جان لے گا کہ یہاں زبانِ حال کا استعمال ہے اور اس بات سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ زمین

و آسمان لازماً مسخر اور مجبور ہیں۔ قرآن پاک سے اسی قسم کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو:

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِہٖ ﴿۴۴﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۴۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی (تعریف کرتی) ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔

اس آیت سے کم فہم شخص یہ سمجھے گا کہ جامد اشیاء (پتھر وغیرہ) زندہ، عاقل اور آواز والفاظ کے ساتھ بولنے پر قادر ہیں اور تسبیح پڑھنے کے لئے سُبْحَانَ اللّٰہِ کہتی ہیں۔ جبکہ عقل مند جان لے گا کہ یہاں (بیان تسبیح کے لئے) زبان سے بولنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ اشیاء اپنے وجود اور زبانِ حال سے تسبیح کرتی، اپنی ذات سے رب تعالیٰ کی پاکی بولتی اور اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

①..... یعنی بے کہے حالت سے ظاہر ہونے والے امر کو زبان سے کہہ کر بیان کرنا۔

کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ  
تَذَكُّرٌ لِّعَلَّيْهِ أَنْهُ الْوَاحِدُ

**ترجمہ:** ہر چیز میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔

اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ ”یہ کارگیری اپنے بنانے والے کے حسن تدبیر اور کمالِ علم کی گواہی دیتی ہے۔“ مراد یہ نہیں کہ وہ چیز اپنی زبان سے گواہی دیتی ہے بلکہ اس کا وجود اور حالت گواہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز ذاتی طور پر ایسی ہستی کی محتاج ہے جو اسے بنائے، پھر اسے اور اس کے اوصاف کو باقی رکھے اور اسے مختلف حالتوں سے گزارے تو وہ چیزیں اپنی حاجت کے تحت اپنے خالق کی پاکی بیان کرتی ہیں جسے صرف اہل بصیرت سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ ظاہر بینی پر اڑے ہوئے لوگ۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط  
ترجمہ کنزالایمان: ہاں! تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔

(پ ۱، بنی اسرائیل: ۲۴)

## ظاہر بین اور اہل بصیرت کے علمی مقام میں فرق:

بہر حال کم عقل بالکل سمجھ ہی نہیں سکتے، جبکہ مقررین بارگاہ اور جید علما اپنی اپنی عقل و بصیرت کے مطابق جان سکتے ہیں، پوری گہرائی تک ان کی بھی رسائی نہیں کیونکہ ہر چیز میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیس و تسبیح پر بہت سی شہادتیں ہیں جن کی تعداد علم معاملہ بیان نہیں کر سکتا۔ الغرض! یہ فن بھی ان فنون میں سے ہے جن میں ظاہر بین اور اہل بصیرت کے علمی مقام میں فرق پایا جاتا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اس مقام پر اہل علم کے لئے حد سے بڑھنے کا راستہ بھی ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا بھی۔

حد سے بڑھنے والوں کے دو گروہ ہیں:

(۱)..... بعض نے تاویلات کرنے میں غلو کیا (۲)..... بعض نے ختم کرنے میں غلو کیا۔

## حد سے بڑھنے والے:

پہلا گروہ: یہ تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے تمام یا اکثر ظاہری الفاظ اور دلائل میں تاویلات کر دیں

حتی کہ ان آیات قرآنیہ میں بھی:



ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

وَكُنَّا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ (پ ۲۳، یس: ۶۵)



ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گواہی بخشی۔

وَقَالُوا الْجُودُودُ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَأُتِقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿٢٢﴾ (حم السجد: ۲۱)

اسی طرح منکر نکیر کے سوالات، میزان عمل، پل صراط اور حساب و کتاب اور اہل بہشت و اہل نار کے درمیان ہونے والی درج ذیل گفتگو میں زبان حال مراد لی:

ترجمہ کنز الایمان: (دوزخی بہشتیوں سے کہیں گے) ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دیا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴿٨﴾ (الاعراف: ۵۰)

دوسرا گروہ: جن حضرات نے تاویلات نہ کرنے میں غلو کیا ان میں سے ایک حضرت سپیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول بھی ہیں۔ یہ اس آیت قرآنی میں بھی تاویل نہیں کرتے:

كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ (پ ۱۴، النحل: ۴۰)

ان کا خیال ہے کہ یہ خطاب ہر لمحہ حروف اور آواز کے ساتھ اللہ عزوجل کی طرف سے اشیاء کی تعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ حضرت سپیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کے بعض شاگردوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ تاویل صرف احادیث مبارکہ کے ان تین جملوں میں ہوگی:

(۱)..... الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ عِنِّي: حجر اسود اللہ عزوجل کی زمین میں اس کا دایاں ہاتھ ہے۔<sup>(۱)</sup>

①..... الكامل في ضعفاء الرجال، اسحاق بن بشر، ۱۷۲، ج ۱، ص ۵۵۔

المصنف لعبد الرزاق، باب الركن من الجنة، الحديث: ۸۹، ج ۵، ص ۲۸، بدون لفظ "الاسود"۔

(۲).....قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: مَوْسِمٌ كَادِلٌ رَحْمَنٌ كِي انگریزوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۳).....إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ يَعْنِي: مجھے یمن سے خوشبوئے رحمن آتی ہے۔<sup>(۲)</sup> اسی طرح اصحابِ ظواہر

بھی تاویلات کے حق میں نہیں۔

## تاویل کرنے سے روکنے کی وجہ:

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کے متعلق ہمارا احسن ظن ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ استواء سے مراد قرار پکڑنا اور نزول سے مراد جسمانی طور پر اترنا نہیں ہے۔ آپ نے مخلوق کی اصلاح اور تاویلات کے دروازے کو بند کرنے کے لئے تاویل سے منع فرمایا کیونکہ اگر تاویلات کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو معاملہ گہرا ہو جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا اور حد سے بڑھ جائے گا کیونکہ جو معاملہ حدِ اعتدال سے نکل جائے اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے اس طرزِ عمل میں کوئی مضائقہ نہیں، اس پر دیگر اسلاف کرام رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ لفظوں کو اسی طرح رہنے دو جس طرح وہ وارد ہوئے ہیں۔

## لفظ ”استوا“ کے متعلق عقیدہ:

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق سے کسی نے ”استوا“<sup>(۳)</sup> کا مفہوم دریافت کیا تو فرمایا: ”لفظ استوا کا معنی معلوم ہے، لیکن یہ استوا کس طرح کا ہے؟ اس کی ہمیں خبر نہیں، بہر حال اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے متعلق پوچھنا بدعت ہے۔“<sup>(۴)</sup>

①.....صحیح مسلم، کتاب القدر، باب تصریف اللہ تعالیٰ القلوب.....الخ، الحدیث: ۲۶۵، ص ۱۴۲۔

②.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۱۰۹، ج ۳، ص ۶۴۹، بتغییر الفاظ۔

③.....ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (پ ۸، الاعراف: ۵۴) اور الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (پ ۶ اظہ: ۵) میں وارد لفظ ”اسْتَوَى“ کے متعلق سوال تھا۔

④.....تذکرۃ الحفاظ للذہبی، الطبقة الخامسة، ج ۱، ص ۱۵۵۔

## میانہ روی اختیار کرنے والا گروہ:

اشاعرہ: نے راہِ اعتدال اختیار کی یوں کہ انہوں نے صفاتِ خداوندی سے متعلق ہر امر میں تاویلات کو روا (جائز) جانا اور امورِ آخرت کے متعلقات کو ان کے ظاہری معنی پر رکھا اور ان میں تاویل کرنے سے منع کیا۔

## تاویلات کے متعلق معتزلہ اور فلاسفہ کا نظریہ:

معتزلہ: مذکورہ سب گروہوں سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے صفاتِ الہیہ میں سے رویت اور اس کے سمجھ و بصیر ہونے میں تاویل کی، وہ معراجِ رسول میں بھی تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں: معراج جسمانی نہیں تھی۔ عذابِ قبر، میزانِ عمل، پلِ صراط اور تمام اُخروی امور میں تاویل کرتے ہیں۔ ہاں! اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جنت ایک حقیقت ہے، جہاں کھانا پینا، نکاح کرنا اور لطف اٹھانا ہے۔ وہ جہنم کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے اور مانتے ہیں کہ اس کا ایک محسوس وجود ہے جس میں کھالوں کو جلانے اور چربیوں کو پگھلانے کی صلاحیت موجود ہے۔

فلاسفہ: تو معتزلہ سے بھی آگے نکل گئے۔ انہوں نے ہر اس بات میں تاویل کی جس کا تعلق روزِ آخرت سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تکالیف و لذات محض عقلی اور روحانی ہیں۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ نفس باقی رہیں گے اور انہیں ملنے والی جزایا سزا و معصوموں نہ ہوگی۔

## قول فیصل:

بہر حال یہ سب فرقے حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان فرقوں کے حد سے بڑھنے اور حنابلہ کے تاویل کو بالکل چھوڑ دینے کے بیچ ایک معتدل اور مخفی راستہ ہے جس پر صرف وہی مطلع ہو سکتے ہیں جنہیں محض سن کر نہیں بلکہ نورِ الہی سے امور کے ادراک کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ ان حضرات پر جب امور کے اسرار کی حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ سنی ہوئی باتوں اور اس بارے میں وارد ہونے والے الفاظ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پس جو ان حضرات کے مشاہدہ کئے ہوئے نورِ یقین کے موافق ہو اسے برقرار رکھتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہو اس میں تاویل کرتے ہیں اور جو حضرات ان امور پر محض سننے کے واسطے سے مطلع ہوتے ہیں وہ نہ تو ثابت قدم ہوتے ہیں اور نہ اپنے موقف سے مطمئن۔ محض سننے پر اکتفا کرنے والے حضرت سپیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کے مقام کے لائق ہیں۔

## مذکورہ تمام بحث کا مقصود:

اب چونکہ ان امور میں حد اعتدال کی مزید وضاحت علم مکاشفہ میں داخل اور طویل کلام کی محتاج ہے۔ لہذا ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ ہمارا مقصود صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ظاہر و باطن آپس میں مطابقت رکھتے ہیں مخالفت نہیں۔ تو مذکورہ (مقربین کے ساتھ خاص، اسرار کی) پانچ اقسام کے بیان نے بہت سے امور منکشف کر دیئے۔ عقائد کا جس قدر بیان ہم تحریر کر چکے، ہمارے خیال میں عوام کے لئے اتنا کافی ہے کہ اولاً اس سے زیادہ کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ہاں! جب بد مذہبیت پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر عقائد کے اگلے درجے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوگی جس میں مختصر اور روشن دلیلیں ہوں، زیادہ گہرائی نہ ہو۔

ہم اس کتاب میں وہ روشن دلائل لکھتے اور صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے اہل قدس کے لئے اپنے رسالے ”الرِّسَالَةُ الْقُدْسِيَّةُ فِي قَوَاعِدِ الْعُقَائِدِ“ میں لکھا ہے۔ یہ رسالہ اس کتاب کی تیسری فصل میں مذکور ہے۔

### ﴿..... دودن اور دوراتیں.....﴾

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 84 صفحات پر مشتمل کتاب، ”دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی“ صفحہ 76 پر ہے: حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ارشاد فرماتے ہیں: ”کیا میں تمہیں ان دودنوں اور دوراتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی: (۱)..... ایک دن وہ ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی کا مژدہ لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام۔ (۲)..... دوسرا دن وہ ہے کہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لئے بارگاہِ الہی میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں۔ (اور دوراتوں میں سے): (۱)..... ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی اور اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزارا ہوگی۔ (۲)..... دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔“



## الرسالة القدسیہ فی قواعد العقائد

تیسری فصل:

یہ رسالہ قدس والوں کے لئے مرتب کیا گیا ہے جو عقائد اہل سنت کے روشن دلائل پر مشتمل ہے۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے اہل سنت و جماعت کو انوار یقین دے کر سب سے ممتاز کر دیا۔ اہل حق کو ارکان دین کی طرف دعوت دینے کے لئے منتخب فرمایا۔ انہیں بد مذہبوں کی بد مذہبی اور گمراہوں کی گمراہی سے بچا کر رسولوں کے سردار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام رَضُوْا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق بخشی اور ان کے لئے بزرگان دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْمُبِیْن کے طریقہ کار پر چلنا آسان کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے عقلی تقاضوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اسلاف کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے عقائد و اعمال کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا۔ پھر عقلی نتائج اور منقول شرعی احکام سب کو قبول کیا اور ثابت کیا کہ کلمہ طیبہ لَدَالِہٖ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ جسے پڑھنا اگرچہ ضروری ہے لیکن یہ پڑھنا اس وقت تک بے فائدہ اور لا حاصل ہے جب تک ان اصول و ارکان کو نہ جان لیا جائے جن پر یہ کلمہ منحصر ہے۔ اہل حق اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کلمہ توحید و رسالت اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے لیکن اس کے معانی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات و صفات و افعال اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ نیز انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ایمان کے چار بنیادی رکن ہیں اور ہر رکن دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

### ایمان کے چار بنیادی آرکان

﴿1﴾..... ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت: یہ دس اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ (۱) اللہ تعالیٰ موجود ہے (۲) قدیم ہے (۳) باقی ہے (۴) نہ تو وہ جو ہر ہے (۵) نہ جسم اور (۶) نہ ہی عرض (۷) کوئی جہت و سمت اس کے لئے مختص نہیں (۸) وہ کسی مکان پر ٹھہرا ہوا نہیں (۹) آخرت میں اس کا دیدار ہوگا اور (۱۰) وہ ایک ہے۔

﴿2﴾..... صفاتِ باری تعالیٰ کی معرفت: یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ (۱) اللہ عَزَّوَجَلَّ زندہ (۲) عالم موجودات (۳) قادر مطلق (۴) سنتا (۵) دیکھتا اور (۶) کلام فرماتا ہے (۷) اسے حادثات لاحق نہیں ہو سکتے (۸، ۹، ۱۰) اس کا علم، ارادہ اور کلام اَزلی و قدیم ہے۔

﴿3﴾..... انفعال الہیہ کی معرفت: یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ (۱) بندوں کے افعال کا خالق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے (۲) بندے محض کوشش کرتے ہیں (۳) یہ افعال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی سے ہی سرانجام پاتے ہیں (۴) وہی پیدا کرنے اور بنانے کی فضیلت سے متصف ہے (۵) اسے جائز ہے کہ وہ کسی پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالے اور (۶) بے گناہ کو سزا دے (۷) نیکو کاروں کو رعایت دینا اس پر واجب نہیں (۸) ہم پر واجب امور کا سبب شریعت ہے نہ عقل (۹) اس کا انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ کو مبعوث فرمانا حق ہے اور (۱۰) ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت بالکل ثابت ہے جسے معجزات کی تائید حاصل ہے۔

﴿4﴾..... منقول روایات کو حق و سچ جاننا: یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے (۱) مرکر دوبارہ اٹھنے (۲) قیامت قائم ہونے (۳) منکر نکیر کے سوالات (۴) عذابِ قبر (۵) میزانِ عمل اور (۶) پل صراط کو حق جاننا (۷) اس بات پر ایمان لانا کہ جنت و دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے (۸) امامت و خلافت کے احکام (۹) ان کی شرائط ماننا اور (۱۰) درجوں کے مطابق صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کی فضیلت تسلیم کرنا۔

### پہلے رکن کی تفصیل

ارکانِ ایمان میں سے پہلا رکن ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس رکن کے دس اصول ہیں۔

﴿1﴾..... وجودِ باری تعالیٰ کی معرفت: پہلی چیز جس کے ذریعے انوار کی روشنی اور معتبر راستے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی راہنمائی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں۔

وجودِ باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل:



ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور

پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند

کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ

أَوْدَادًا ۗ وَخَلَقْنَاهُ أَرْوَاجًا ۗ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ

سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا

کے لئے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چٹانیاں  
چنیں (تعمیر کیں) اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ  
رکھا اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اُتارا کہ اس  
سے پیدا فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔

النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۱ وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا  
شِدَادًا ۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۳ وَأَنْزَلْنَا  
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۱۴ لِيُخْرِجَ بِهِ حَبًّا  
وَنَبَاتًا ۱۵ وَجِئْتَ الْفَأْفَاقُ ۱۶ (پ: ۳۰، النبا: ۶ تا ۱۶)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش  
اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے  
فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی  
اُتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم  
کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ  
آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان سب میں  
تخلّفندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ  
الْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ  
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لَا يَتْلُقُونَهُ لَاقِطُونَ ۱۷ (پ: ۲، البقرة: ۱۶۴)

﴿۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیونکر سات  
آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشنی کیا  
اور سورج کو چراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح  
زمین سے اگایا۔ پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ  
نکا لے گا۔

الْمُتَرَوِّكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  
طَبَاقًا ۱۵ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ  
الشَّمْسَ سِرَاجًا ۱۶ وَاللَّهُ أَنْتَبِتُكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱۷ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ  
يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸ (پ: ۲۹، نوح: ۱۵ تا ۱۸)

﴿۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو۔ کیا تم  
اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم نے تم

أَفْرَاءَ يُتِمُّ مَاتِبُونَ ۱۹ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَ ۲۰  
أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۲۱ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ

میں مرنا ٹھہرایا، اور ہم اس سے ہارے نہیں۔ کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے۔ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو۔ کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی (تاوان) پڑی۔ بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو۔ کیا تم نے اسے بادل سے اتارایا ہم ہیں اتارنے والے۔ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔ کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔

الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٦١﴾ عَلَىٰ أَنْ  
تُبَدَّلَ أَمْثَالِكُمْ وَتُنشَأَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾  
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾  
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾ أَأَنْتُمْ تَرْسَخُونَ  
أَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ ﴿٦٥﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا  
فَقَدْ نَسَّيْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴿٦٧﴾ بَلْ  
نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي  
تَشْرَبُونَ ﴿٦٩﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ  
نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٧٠﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُبَابًا  
فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧١﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي  
تُورُونَ ﴿٧٢﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ  
نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٣﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَ  
مَتَاعًا لِلْبُقُوعِينَ ﴿٧٤﴾ (پ ۲، الواقعة: ۵۸ تا ۷۳)

ذرا سی عقل رکھنے والا شخص بھی اگر ان آیات کے مضامین میں تھوڑا سا غور کرے اور زمین و آسمان کی رنگارنگ مخلوق اور حیوانات و نباتات کی انوکھی پیدائش کی طرف نظر کرے، تو یہ بات اس پر مخفی نہ رہے گی کہ اس تعجب خیز معاملہ اور مضبوط ترکیب کا ضرور کوئی بنانے والا ہے جو انہیں منظم رکھتا ہے اور لازماً کوئی ایسا ہے جو انہیں مضبوط کرتا اور ان کا مقدر بناتا ہے۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ مخلوق کی اصل و پیدائش اس بات کی گواہی دے کہ یہ تمام اشیاء اس ذات کے تابع رہنے پر مجبور اور اس کی مشیت کے مطابق بدلتی ہیں۔

### وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل:

انسانی فطرت اور قرآنی دلائل بیان کرنے کے بعد مزید دلائل کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی مگر اپنے موقف کو مزید مدلل کرنے اور مناظر علما کی پیروی کرنے کی کوشش میں کچھ عقلی دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ، یہ بات عقلاً بالکل

ظاہر و باہر ہے کہ کوئی بھی حادث چیز پیدا ہونے کے لئے کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں اور عالم حادث ہے تو لازماً یہ بھی اپنے وجود کے لئے کسی سبب کا محتاج ہے۔ لہذا ہمارا قول کہ ”حادث اپنی پیدائش کے لئے کسی سبب سے بے نیاز نہیں“ واضح ہے۔ کیونکہ ہر حادث کے لئے ایک خاص وقت ہے اور عقل اس بات کو ممکن جانتی ہے کہ حادث شے اپنے مخصوص وقت سے پہلے یا بعد میں ظہور پذیر ہو تو اس کا ایک معین وقت میں ہونا اس سے پہلے یا بعد میں نہ ہونا وقت کی تخصیص کرنے والے کے وجود کا تقاضا کرتا ہے اور ہمارے قول ”عالم حادث ہے“ کی دلیل یہ ہے کہ اجسام حرکت و سکون کی حالت سے باہر نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں حالتیں حادث ہیں اور جس چیز کو حوادث لاحق ہوتے ہیں وہ بھی حادث ہوتی ہے۔

﴿2﴾..... اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قدیم، اَزلی اور ہمیشہ سے ہے۔ ہر زندہ و بے جان چیز سے پہلے اس ذات کا وجود ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔

﴿3﴾..... اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اَزلی و ابدی ہے (یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا)، وہی اوّل، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اس کے وجود کا کوئی اختتام و انجام نہیں کیونکہ قدیم معدوم نہیں ہو سکتا۔

﴿4﴾..... اس پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو ہر بھی نہیں اور اس کی ذات کسی جگہ میں سمائی ہوئی بھی نہیں بلکہ وہ مکان کی نسبتوں سے بلند و برتر ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا اور اس جگہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جس کی دو صورتیں بنتی ہیں: (۱)..... اسی جگہ ساکن ہوگا یا (۲)..... وہاں سے حرکت کرتا ہوگا۔ یعنی وہ ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک میں ہوگا اور یہ دونوں حادث ہیں اور جس ذات کو حوادث لاحق ہوں وہ بھی حادث ہوتی ہے۔

﴿5﴾..... یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کوئی جسم نہیں جو جوہر سے مرکب ہو اس لئے کہ جوہر سے مرکب چیز کا نام جسم ہے اور جب اس ذات کا کسی مکان میں سمایا ہو جو ہر ہونا محال ہے تو اس کا جسم ہونا بھی باطل ہے کیونکہ ہر جسم کسی مکان کے ساتھ مختص اور جوہر سے مرکب ہوتا ہے اور جوہر کا سکون و حرکت، شکل و مقدار اور جدا جمع ہونے جیسی علامات حدوث سے خالی ہونا محال ہے۔

﴿6﴾..... یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات عرض نہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم یا کسی جگہ میں داخل ہو کیونکہ عرض وہ ہوتا ہے جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو اور ہر جسم یقیناً حادث ہے اور اس کا خالق اس جسم سے پہلے موجود تھا۔ تو یہ کیسے

ممکن ہے کہ خالق باری تعالیٰ کسی جسم میں آجائے؟ حالانکہ ازل میں صرف وہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اجسام و اعراض سب اس نے بعد میں پیدا فرمائے۔

ان مذکورہ چھ اصولوں کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ موجود اور بذات خود قائم ہے۔ وہ جوہر و عرض اور جسم نہیں اس کے علاوہ تمام کا تمام عالم جوہر، عرض اور جسم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ۔ وہ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ کوئی شے اس کی مثل نہیں اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق کے، ماتحت حاکم کے اور تصویر مصور کے مشابہ ہو۔ اجسام و اعراض سب کے سب اسی کی تخلیق و ایجاد ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اس ذات کے مشابہ و مماثل ہونا قطعاً ممکن ہے۔

﴿7﴾..... اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سمت و جہت کی تخصیص سے پاک ہے۔ (اس پر تین دلیلیں: (۱)..... سمت اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے پیچھے کو کہتے ہیں، ان سب سمتوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خلقتِ انسانی کے واسطے سے پیدا فرمایا۔ (۲)..... بالفرض اس کے لئے کوئی سمت ہو تو وہ جوہر کی طرح کسی مکان میں سما یا ہوگا یا عرض کی طرح جوہر کے ساتھ خاص ہوگا، جب اس کا جوہر و عرض ہونا محال ثابت کیا جا چکا تو اس کا کسی سمت کے ساتھ مختص ہونا بھی محال ہے۔ (۳)..... اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ عالم کے اوپر ہوتا تو اس کے محاذی یعنی مقابل بھی ہوتا اور کسی جسم کی محاذی چیز اس کی مثل ہوگی یا چھوٹی بڑی۔ یہ تینوں صورتیں مقدار کی محتاج ہیں۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

پھر دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ جواب، دعا کا قبلہ آسمان ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا عالی صفات کا مالک اور بزرگ و برتر ہے چونکہ اوپر والی جہت بلندی پر دلالت کرتی ہے اور وہ ذات قوت و غلبہ میں سب سے بلند ہے۔

﴿8﴾..... اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی شایان شان عرش پر اسی طرح استوا فرمائے ہوئے ہے جو استوا سے اس نے مراد لیا ہے۔ (متشابہ آیات میں) اہل حق تاویل کرنے پر مجبور ہوئے جیسا کہ اہل باطل اس آیت میں تاویل کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط (ب ۲، الحدید: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو۔

اس آیت مبارکہ میں بالاتفاق معیت سے احاطہ اور علم (یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لینا اور سب کو جاننا) مراد لیا گیا ہے۔

نیز ان فرامین مصطفیٰ (میں بھی تاویل کی گئی) ہے: قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ - (۱)

اس میں انگلیوں سے اللہ عزوجل کی قدرت و غلبہ مراد لیا گیا ہے۔ اور ”الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ - (۲)

اس میں دائیں ہاتھ سے عزت و بزرگی مراد لی گئی ہے۔ اگر یہ تاویلات نہ کی جاتیں تو محال لازم آتا۔ اسی طرح استواء کے ظاہری معنی ٹھہرنا اور قرار پکڑنا مراد لئے جاتے تو یہ بھی ماننا پڑتا کہ ٹھہرنے اور قرار پکڑنے والا ایک جسم ہے جو عرش سے مس ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ جسم عرش کے برابر ہے یا اس سے چھوٹا بڑا حالانکہ یہ سب چیزیں محال ہیں اور محال کی طرف لے جانے والی چیز بھی محال ہوتی ہے۔

﴿9﴾..... یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عزوجل شکل و مقدار اور جہات و اطراف سے پاک ہے لیکن جنتی جنت میں سر کی آنکھوں

سے اس کا دیدار کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً ﴿٢١﴾ إِلَىٰ سَائِبَهَا

ترجمہ کنز الایمان: کچھ منہ اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے

رہ کو دیکھتے۔

نَاطِرَةً ﴿٢٢﴾ (ب ۲۹، القیامۃ: ۲۲، ۲۳)

ہاں! دنیا میں (بحالت بیداری) اس کا دیدار ممکن نہیں۔ اس کی تصدیق اس آیت قرآنیہ سے ہوتی ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ

ترجمہ کنز الایمان: آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب

آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔

الْأَبْصَارُ ج (ب ۷، الانعام: ۱۰۳)

﴿10﴾..... یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عزوجل ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ کوئی اس کی مثل نہیں۔ وہ تخلیق

کرنے اور عدم کو وجود دینے میں منفرد اور ایجادات اور عجائب و غرائب پیدا کرنے میں خود مختار ہے۔ اس کا کوئی مثل نہیں

جو اس کا ہمسر بن سکے اور نہ کوئی مقابل ہے جو اس سے منازعت و عداوت کرے۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے:

①..... صحیح مسلم، کتاب القدر، باب تصریف اللہ تعالیٰ القلوب..... الخ، الحدیث: ۲۶۵، ص ۱۲۷۔

②..... الکامل فی ضعفاء الرجال، اسحاق بن بشر: ۱، ج ۱، ص ۵۵۔

المصنف لعبد الرزاق، باب الرکن من الجنة، الحدیث: ۸۹، ج ۵، ص ۲۸۔

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۗ  
ترجمہ کنزالایمان: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا  
ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ (پ ۱، الانبیاء: ۲۲)

## دوسرے رکن کی تفصیل

ایمان کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے

اس کے بھی دس اصول ہیں۔

﴿۱﴾..... یہ اعتقاد رکھنا کہ خالقِ عالم قادرِ مطلق ہے اور اس کا یہ فرمانِ برحق ہے:

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱﴾ (پ ۲۹، الملک: ۱) ترجمہ کنزالایمان: اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کیونکہ عالم اپنی بناوٹ و پیدائش کے اعتبار سے مضبوط و منظم ہے۔ اگر کوئی شخص صنعت میں عمدہ اور نقش و نگار سے خوب آراستہ ریشمی کپڑا دیکھ کر کہے کہ یہ کسی بے قوت مردے یا بے اختیار انسان کی کاریگری ہے، تو ایسا کہنے والا وہی ہوگا جو عقل سے بیدل اور زمرہ جہلا میں شامل ہو۔

﴿۲﴾..... یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي  
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (پ ۱۱، یونس: ۶۱) ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب  
نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان بھی بالکل حق اور سچ ہے:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾ (پ ۱، البقرة: ۲۹) ترجمہ کنزالایمان: اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

﴿۳﴾..... اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ زندہ ہے کیونکہ جس ذات کے لئے علم و قدرت ثابت ہو اس کے لئے یقیناً حیات بھی ثابت ہوگی۔

﴿۴﴾..... اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کاموں کا ارادہ فرمانے والا ہے۔ ہر موجود کا وجود اس کی مشیت سے اور ہر چیز کا صدور اس کے ارادے سے ہے۔ کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ تخلیق کرنے والا اور دوسری دفعہ وجود دینے والا



وہی ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

﴿5﴾..... یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سَمِیعٌ وَبصیر (یعنی سنتادیکھتا) ہے۔ پوشیدہ خیالات اور مخفی وساوس و افکار کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی اس کی سماعت سے باہر نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ سننے دیکھنے والا کیوں نہ ہو؟ کہ سماعت و بصارت یقیناً کمال ہے نقص نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق خالق سے کمال میں زیادہ اور اپنے بنانے والے سے ارفع و اعلیٰ ہو؟

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بت پرست چچا آزر کو ان الفاظ سے دلیل دی:

إِدْقَالَ لَا يَبِيْهِ يَا بَتِّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ  
وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٦﴾  
ترجمہ کنز الایمان: جب اپنے باپ سے بولا (۱) اے میرے  
باپ! کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے  
کام آئے۔

(پ ۱۶، ص ۲۲)

﴿6﴾..... اس پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ صفت کلام کے ساتھ متصف ہے۔ اس کا یہ وصف اس کی ذات کے ساتھ قائم اور حروف و آواز سے منزہ (پاک) ہے۔ بلکہ جس طرح اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود کے مشابہ نہیں، اسی طرح اس کا کلام بھی کسی اور کے کلام کی مثل نہیں اور درحقیقت کلام، کلام نفسی ہے۔ آواز تو محض بیان مقصود کے لئے ادائیگی حروف کا کام دیتی ہے۔

﴿7﴾..... یہ عقیدہ رکھنا کہ صفت کلام ذات خدا کے ساتھ قائم اور قدیم ہے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ کیونکہ اس کی ذات کو حوادث کا لاحق ہونا محال ہے کہ حوادث تو بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی صفات کا بھی قدیم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس پر نہ تغیرات طاری ہوں اور نہ ہی حوادث لاحق ہوں۔ وہ عمدہ صفات کے ساتھ ازل سے

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المآنان اپنی تفسیر ”نور العرفان“ میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”یہاں باپ سے مراد چچا آزر ہے نہ کہ حقیقی والد یعنی تارخ اور چچا کو عرف میں باپ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے لے کر حضرت عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تک حضور کے آباء و امہات میں کوئی مشرک نہیں ہوا۔ رب (عَزَّوَجَلَّ) فرماتا ہے: ”وَتَقَابَلَك فِي السُّجُودِ“ (پ ۱۹، الشعراء: ۲۱۹) ”ہم آپ کے نور کی گردش کو پاک پشتوں اور پاک شکموں میں دیکھ رہے ہیں۔“

متصف ہے اور ابد تک متصف رہے گا۔ وہ حالات کے تغیر سے پاک ہے۔

﴿8﴾..... اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم قدیم ہے وہ ازل سے اپنی ذات و صفات اور مخلوق میں پیش آنے والے احوال کو جانتا ہے۔ مخلوق میں سے جب بھی کسی کو وجود ملتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس وجود کا اس وقت کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ سب کچھ وہ اپنے علم ازل سے جانتا ہے۔

﴿9﴾..... اس پر ایمان لانا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارادہ قدیم ہے اور حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب وقت میں وجود میں لانے کے لئے علم ازل کے مطابق، ازل سے ہی ان کے متعلق ہو گیا ہے۔

﴿10﴾..... اللہ تعالیٰ صفت علم کے ساتھ عالم، حیات کے ساتھ زندہ، قدرت کے ساتھ قادر، ارادہ کے ساتھ مرید (یعنی ارادہ کرنے والا)، کلام کے ساتھ متکلم (یعنی کلام کرنے والا)، سماعت کے ساتھ سننے والا اور بصارت کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اس کی یہ صفات بھی صفات قدیمہ ہیں۔

## تیسرے رکن کی تفصیل

افعال الہیہ کی معرفت حاصل کرنا یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

﴿1﴾..... یہ عقیدہ رکھنا کہ عالم میں ہونے والا ہر واقعہ اسی کا فعل، اسی کی تخلیق اور اسی کی ایجاد ہے۔ ان سب چیزوں کا خالق و موجد صرف وہی ہے۔ اس نے مخلوق اور ان کے رزق کو پیدا فرمایا اور ان کے لئے قدرت و حرکت ایجاد فرمائی۔ بندوں کے تمام افعال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق اور اس کے زیر قدرت ہیں۔ اس پر درج ذیل قرآنی آیات شاہد ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (پ ۲۳، الزمر: ۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے

اعمال کو۔

(پ ۲۳، الصفت: ۹۶)

﴿2﴾..... بندوں کی حرکات کا خالق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جب کوشش کرے تو حرکات پر اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کے لئے طاقت بھی پیدا فرمائی اور تقدیر بھی۔ اختیار بھی پیدا

کیا اور مختار بھی بنایا۔ بہر حال اختیار بندے کا وصف اور رب کی مخلوق ہے، اس کا کسب نہیں۔ جبکہ حرکت رب تعالیٰ کی مخلوق، بندے کا وصف اور اس کا کسب ہے۔ حرکت پر بندے کو قدرت عطا کی گئی جو اس کا وصف ہے اور حرکت کو دوسری صفت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جسے قدرت کہتے ہیں اور اس نسبت کے اعتبار سے حرکت کو کسب کا نام دیا جاتا ہے۔ حرکت بندے کے لئے محض جبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندہ اختیار و اضطرار میں ضرور فرق کر سکتا ہے۔

﴿3﴾..... بندے کا فعل اس کا کسب ہونے کے باوجود مشیت الہی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ زمین و آسمان میں پلک کی جھپک، قلبی میلان اور آنکھ کی توجہ یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا و قدرت اور اس کے ارادے و مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ نیز اچھا برا، نفع نقصان، کفر و ایمان، انکار و معرفت، کامیابی و ناکامی، ہدایت و گمراہی، اطاعت و نافرمانی، شرک و توحید اسی کی طرف سے ہے، اس کے فیصلوں کو رد کرنے والا اور اس کے احکام کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت عطا فرمادے۔ خود ارشاد فرماتا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۳۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان (پے ۱، الانبیاء: ۲۳) سب سے سوال ہوگا۔

### مشیت الہی کا ثبوت نقلی دلائل سے:

اُمّت مسلمہ کے اس متفقہ قول سے بھی اس بات پر دلالت ہوتی ہے: مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہیں ہوا۔

﴿4﴾..... تخلیق و ایجاد اور بندوں کو شریعت کا پابند بنانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و احسان ہے اس پر لازم نہیں۔

معتزلہ کا عقیدہ: یہ سب امور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر لازم ہیں کہ اس میں بندوں کی بہتری ہے۔

جواب: معتزلہ کا یہ قول باطل ہے۔ کیونکہ واجب کرنا، حکم دینا اور منع کرنا تو اس کی شان ہے، خود اس پر کوئی امر لازم و واجب کیسے ہو سکتا ہے؟

﴿5﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جائز ہے کہ بندوں پر اس کام کو لازم کر دے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس موقف میں بھی معتزلہ، ہم اہلسنت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر ممکن نہ ہوتا تو اس سے پناہ مانگنے کا سوال محال ہوتا۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

رَبَّآ وَلَا تَحِينَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال  
(پ ۳، البقرہ: ۲۸۶)

﴿6﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ مخلوق کو ان کے کسی سابقہ جرم اور ثواب آئندہ کے بغیر بھی عذاب و تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جبکہ معتزلہ اس مسئلے میں مختلف ہیں۔ ہم اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے اور اس کے متعلق یہ تصور غلط ہے کہ اس کا تصرف اس کی ملک سے بڑھ سکتا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف کو ظلم کہتے ہیں جو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے محال ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی ملک ہے ہی نہیں کہ اس میں تصرف ظلم قرار پائے۔ ہمارے موقف کی دلیل یہ عمل بھی ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے اور آدمی انہیں طرح طرح کی سختیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ان کے کسی سابقہ جرم کی بنا پر تو نہیں ہوتا۔

﴿7﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ بندوں کے لئے بہتری کی رعایت اس پر واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے بلکہ عقل بھی اس سے انکاری ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو۔ خود ارشاد فرماتا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۱۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان  
(پ ۱، الانبیاء: ۲۳)

معتزلہ نے جو قول اختیار کیا کہ بندوں کے لئے بہتری کی رعایت اللہ عَزَّوَجَلَّ پر واجب ہے تو وہ اس کا جواب دیں۔  
سوال: فرض کریں دو ایسے مسلمان جن میں سے ایک بالغ ہو کر اور دوسرا نابالغی میں فوت ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ بروز محشر بالغ کو نابالغ پر فضیلت دیتا اور اسے زیادہ درجات عطا فرماتا ہے کیونکہ اس نے بعد بلوغ ایمان و اطاعت کی مشقت برداشت کی ہے اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق اس طرح کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر واجب ہے۔ اگر نابالغ بارگاہ الہ میں یہ گزارش کرے کہ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بالغ کا درجہ مجھ سے زیادہ کیوں؟ تو جواب عطا ہو: اس لئے کہ وہ بالغ ہوا اور اطاعت پر کوشش کی۔ بچہ پھر عرض کرے: یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے مجھے کم عمری میں موت دی، تجھ پر واجب تھا کہ مجھے لمبی عمر دیتا تاکہ بالغ ہو کر طاعات بجالاتا، لیکن تو نے صرف اسے لمبی عمر دی اور اب اسے زیادہ فضیلت عطا کی یہ

انصاف تو نہ ہوا۔

**جواب:** اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے: تجھے نابالغی میں موت دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کر سرکش یا مشرک ہو جائے گا۔ تو تیرے لئے بچپن کی موت بہتر تھی۔ اللہ تَوَّاب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے معتزلہ یہ جواب بیان کرتے ہیں لیکن ان کے اس جواب پر بھی اعتراض ہے۔

**معتزلہ پر اعتراض:** اس جواب پر اگر جہنم کی گہرائیوں سے کفار اس طرح عرض گزار ہوں کہ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو جانتا تھا کہ ہم بڑے ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے تو تو نے ہمیں بچپن میں ہی موت کیوں نہ دے دی؟ ہم تو اس مسلمان بچے کو ملنے والے مقام سے بھی کمتر پر راضی ہو جاتے۔

**جی!** اب کیا جواب دیں گے معتزلہ؟ ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ امورِ الہیہ کی شان و جلالت ایسی نہیں کہ معتزلہ اسے اپنے ترازو میں تولتے پھریں۔

﴿8﴾..... اللہ ربُّ العزّت عَزَّوَجَلَّ کی معرفت و طاعت اس کے اور شریعت کے واجب کرنے کی وجہ سے واجب ہے، عقل کی وجہ سے نہیں۔ اس میں بھی معتزلہ کا اختلاف ہے۔ نیز کسی چیز کے واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کے ترک پر نقصان ہو اور شریعت کے وجوب کا مطلب ہے کہ وہ متوقع نقصان کی پہچان کراتی ہے۔ کیونکہ عقل تو اس بات سے قاصر ہے کہ وہ اس نقصان کی پہچان کرائے جو موت کے بعد شہوات کی پیروی کے باعث پیش آسکتا ہے۔ یہ ہے شرعاً و عقلاً وجوب کا معنی اور وجوب میں ان کے مؤثر ہونے کا مفہوم۔ اگر احکامِ شرع کے ترک پر خوف عذاب نہ ہوتا تو واجب بھی ثابت نہ ہوتا کیونکہ واجب اسی چیز کو کہتے ہیں جس کا ترک نقصانِ آخرت کا باعث بنے۔

### بعثتِ انبیاء:

﴿9﴾..... بعثتِ انبیاء محال نہیں ہے۔ برخلاف فرقہ براہمہ<sup>(۱)</sup> کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”بعثتِ انبیاء بے فائدہ ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عقل کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔“ ہم کہتے ہیں کہ ”عقل جس طرح صحت کے لئے مفید ادویات کی پہچان کرانے سے قاصر ہے اسی طرح بروز قیامت مغفرت کا سبب بننے والے امور تک رہنمائی

①..... اپنے آپ کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کار سمجھنے والا ہند کے حکیموں کا ایک گروہ۔ (اتحاف السادة المتقين، ج ۴، ص ۳۱۱)

کرنے سے بھی قاصر ہے۔ لہذا مخلوق کو طبیب کی طرح انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن طبیب کا صدق تجربے سے اور نبی کا صدق معجزے سے معلوم ہوتا ہے۔

## خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ:

﴿10﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو آخری نبی اور ماقبل یہود و نصاریٰ کی شریعتوں کو منسوخ اور مذہبِ مجوس کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ چاند کے شق ہونے، کنکریوں کے تسبیح پڑھنے، جانوروں کے کلام کرنے، انگلیوں سے چشمے پھوٹنے<sup>(۱)</sup> جیسے روشن معجزات اور واضح علامات کے ذریعے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تائید فرمائی۔ قرآن پاک آپ کے بلند ترین معجزات میں سے ایک ہے۔ جس کے ذریعے پورے عرب کو چیلنج کیا گیا۔ نیز وہ باوجود فصیح و بلیغ ہونے کے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو قید کرنے، لوٹنے، جان سے مارنے اور شہر بدر کرنے جیسے مظالم ڈھانے پر تو اتر آئے لیکن قرآن پاک کی نظیر پیش کرنے کا چیلنج قبول نہ کر سکے جیسا کہ آیاتِ قرآنیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید جیسی خوش بیانی اور حسن ترتیب طاقتِ بشری سے باہر ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ام سابقہ کی خبریں بھی ہیں۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ کسی مخلوق سے پڑھے اور نہ ہی کتب کا مطالعہ کیا پھر بھی غیب کی خبریں دیں جو مستقبل میں سچ ثابت ہوئیں۔

جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ  
اٰمِنِيْنَ لَا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسِكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۗ

ترشواتے۔

(پ ۲۶، الفتح: ۲۷)

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

①..... صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب سوال المشرکین ان یربہم النبی..... الخ، الحدیث: ۳۶۲۳، ج ۲، ص ۵۱۱۔

دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في تسبيح الحصبات..... الخ، ج ۱، ص ۶۲-۶۵۔

دلائل النبوة للبيهقي، باب ذكر البعير الذي سجد للنبي..... الخ، ج ۱، ص ۲۸-۳۰۔

صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحديبية، الحدیث: ۴۱۵۲، ج ۳، ص ۶۹۔

الْمَرَّةِ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلَبُونَ ۝ فِي بَصِيعِ سِنِينَ ۝ (پ ۲۱، الروم: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، چند برس میں۔

اور معجزہ تصدیق رسالت پر اس لئے دلالت کرتا ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کے بس سے باہر ہو وہ اللہ عزوجل کا ہوتا ہے۔ تو جب بھی حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے فعل کو اپنی صداقت پر واضح دلیل بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اللہ عزوجل فرما رہا ہے: ”میرے رسول نے سچ کہا۔“ اس کی مثال یوں سمجھئے! جیسے کوئی آدمی بادشاہ کے سامنے اس کی رعایا کی موجودگی میں دعویٰ کرے کہ میں تمہارے لئے اس بادشاہ کا قاصد ہوں۔ پھر وہ شخص بادشاہ سے عرض گزار ہو کہ اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو آپ اپنی مسند پر خلاف معمول تین بار اٹھئے بیٹھئے، اگر بادشاہ اسی طرح کر دے تو رعایا کو یقین ہو جائے گا کہ بادشاہ نے قاصد کا دعویٰ سچ ثابت کر دیا۔

### چوتھے رکن کی تفصیل

یہ رکن سنی سنائی باتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات کو سچ جاننے کے متعلق ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

﴿۱﴾..... حشر و نشر: کے متعلق شریعت اسلامیہ نے جو کچھ بیان کیا وہ برحق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیونکہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور حشر و نشر کا مطلب ہے موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ اس امر پر اللہ عزوجل قادر ہے جس طرح وہ عدم کو وجود دینے پر قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ﴿۷۸﴾  
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط  
 ترجمہ کنز الایمان: بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ! انھیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ (پ ۲۳، یس: ۷۸، ۷۹)

﴿۲﴾..... منکر نکیر: سوالات منکر نکیر کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے کیونکہ اس بارے میں احادیث مروی ہیں۔ نکیرین کا سوالات کرنا ممکن ہے۔ اس معاملے کا تقاضا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ زندگی کو کسی ایسے جز کی طرف لوٹا دیا جائے جس کے ذریعے خطاب کو سمجھا جاتا ہے اور ایسا ہونا فی نفسہ ممکن ہے۔

## ایک سوال اور اس کے دو جواب:

میت کے اجزا تو حالت سکون میں ہوتے ہیں اور سوالات نکیرین بھی (ہم زندوں کو) سنائی نہیں دیتے (تو پھر نکیرین کا سوال کرنا اور میت کا جواب دینا کیسے ثابت ہوا)؟ اس کے دو جواب ہیں: (۱).....مُخَوَّابُ شَخْصٍ بَعْضُهُ يَبْظَاهِرُ سَكُونًا فِيهَا نَحْنُ نَنْظُرُ آتَاةً، لیکن اسے باطنی طور پر دکھ سکھ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے جس کا اثر بیداری کے بعد بھی رہتا ہے۔ (۲)..... بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوتے تو ”آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ انہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہوتے اور ان کا کلام بھی سن رہے ہوتے جبکہ شرکائے بارگاہ رسالت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نہ دیکھ رہے ہوتے اور نہ سن رہے ہوتے اور انہیں صرف اسی قدر علم حاصل ہوتا جتنا اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا۔“<sup>(۱)</sup> چونکہ (دنیاوی حیات میں) عوام الناس کو فرشتوں کی زیارت اور ان کے کلام کی سماعت پر قدرت نہیں دی گئی اس لئے وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔

﴿3﴾.....عذاب قبر: شریعت مطہرہ میں اس کے متعلق بھی روایات منقول ہیں۔

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ عَزَّوَجَلَّ كَأَنَّ الْفِرْيَانَ نَشَانُ هُوَ:

الْأَسْرَائِعُ صُورًا عَلَيْهَا عُدَّةٌ وَأَوْعِشِيَاءَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ (پ ۲۴، المؤمن: ۴۶)

ترجمہ کنز الایمان: آگ جس پر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی کلم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

نیز آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا منقول ہے۔ (۲) عقلاً بھی اس کا وقوع ممکن ہے۔ لہذا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

جسے مختلف درندوں نے کھا لیا ہو یا مختلف پرندوں نے نوج لیا ہو۔ اس پر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ جواب، اجزائے میت کا درندوں کے پیٹوں یا پرندوں کے پوٹوں میں متفرق ہونا عذاب قبر کو ماننے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ

①..... صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة، الحدیث ۳۲۱، ج ۲، ص ۳۸۳۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحدیث ۵۸۸، ص ۲۹۶۔



عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے مخصوص اجزاء کو ہوتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء کو پھر سے قابل احساس بنا دے۔

﴿4﴾..... میزانِ عمل: کے حق ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن۔  
(پہا، الانبیاء: ۴)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ  
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا  
يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾  
ترجمہ کنز الایمان: تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو  
پہنچے اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی  
جان گھائے میں ڈالی اُن زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر  
کرتے تھے۔  
(پہا، الاعراف: ۸، ۹)

میزانِ عمل قائم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اعمال کے صحیفوں میں، اعمال کے ان درجوں کے مطابق جو اس کے ہاں ہیں وزن پیدا فرمادے گا تاکہ بندوں کو اپنے اعمال کی مقدار معلوم ہو جائے اور عذاب کی صورت میں عدل الہی اور ثواب کے اضافے و عفو کی صورت میں فضل الہی واضح ہو جائے۔

﴿5﴾..... پل صراط: یہ جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿۲۲﴾ وَقَفُّهُمْ  
إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ﴿۲۳﴾  
ترجمہ کنز الایمان: ان سب کو ہانکوراہِ دوزخ کی طرف اور  
انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے۔  
(پہا، الصُّفَّت: ۲۲، ۲۳)

اس پل کا ہونا بھی ممکن ہے۔ لہذا اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ نیز جو ذاتِ باری تعالیٰ پرندے کو ہوا میں اُڑانے پر قادر ہے، اسے انسان کو پل صراط پر چلانے کی بھی قدرت ہے۔

﴿6﴾..... جنت و جہنم: تخلیق ہو چکی ہے۔ چنانچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ  
ترجمہ کنز الایمان: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت

عَرْضَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
 لِلسَّقَاتِينَ ۝ (ب، ۴، مال، عمران: ۱۳۳)  
 کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آجائیں  
 پر ہیزگاروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

مذکورہ آیت میں لفظ (أُعِدَّتْ بمعنی تیار رکھنا) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا کی جا چکی ہیں۔ ان  
 الفاظ کے ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی مجال لازم نہیں آتا، لہذا اس کے ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے۔

﴿7﴾..... خلافت کا بیان: خلافت پر کسی کو فائز کرنے کے متعلق مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے  
 کوئی واضح اور یقینی روایت منقول نہیں، ورنہ معاملہ خلافت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مختلف شہروں اور  
 لشکروں پر مقرر کردہ گورنر و امرا کے معاملات جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں، سے بھی زیادہ واضح ہوتا، لہذا اس کا مخفی رہنا  
 کیسے ممکن ہوا؟ اور اگر مسئلہ خلافت ظاہر تھا تو چھپا کیسے کہ ہمیں معلوم تک نہ ہو سکا۔

جہاں تک امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے خلیفہ بننے کا معاملہ ہے تو آپ رَضِيَ اللهُ  
 تَعَالَى عَنْهُ صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے انتخاب اور بیعت سے اس مسند پر فائز ہوئے۔ اگر کوئی جری کسی  
 اور صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے لئے خلافت کی نص گھڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اجماع صحابہ کا مخالف اور ان تمام  
 (انتخاب و بیعت کرنے والے) صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ پر شاہ خیر الانام صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مخالفت کا الزام  
 لگانے والا ہے اور ایسی جرأت بدروافض کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مقام تقویٰ کی بلند یوں پر فائز اور اس  
 تعریف کے مستحق ہیں جو خدا اور رسول عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کے حق میں بیان فرمائی۔

﴿8﴾..... فضیلت صحابہ بترتیب خلافت: ان نفوسِ قدسیہ کی فضیلت اور اس میں بھی ترتیب کی باریکیاں وہی  
 حضرات جانتے تھے جنہوں نے وحی اور نزولِ قرآن کا مشاہدہ کیا اور احوال کی مناسبت سے فضیلت کی باریکیوں کو پایا۔  
 اگر یہ حضرات اس ترتیب و فضیلت کی سمجھ نہ پاتے تو کبھی بھی حق خلافت کی مذکورہ ترتیب قائم نہ کرتے کیونکہ ان نفوسِ  
 قدسیہ کو امور دینیہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کوئی راہِ حق سے ہٹا سکتا ہے۔

﴿9﴾..... حق خلافت کی پانچ شرائط: مسلمان اور مکلف (عقل، بالغ، آزاد) ہونے کے بعد حق خلافت کی پانچ شرائط

ہیں: (۱) مرد ہونا (۲) متقی ہونا (۳) عالم ہونا (۴) امورِ خلافت سرانجام دینے کی اہلیت رکھنا اور (۵) قریشی ہونا<sup>(۱)</sup>۔ جیسا کہ سلطان مکہ مکرمہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الْاٰثِمَةُ مِنْ قُرَیْشٍ یعنی: خلفا قریش سے ہوں گے۔“ (۲) اگر ان صفات سے متصف لوگ ایک سے زیادہ ہوں تو پھر خلافت کا مستحق وہ ہوگا جس کی بیعت زیادہ لوگ کریں۔

﴿10﴾..... فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ تسلیم کرنا: تقویٰ اور علم کی شرائط سے خالی شخص اگر مسندِ خلافت پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے اور اسے ہٹانے میں ناقابل برداشت فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسی کو خلیفہ تسلیم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

یہ ہیں چالیس اصولوں پر مشتمل چار ارکان جو عقائد کے قواعد ہیں۔ ان کے مطابق عقیدہ رکھنے والا اہل سنت و جماعت میں شامل اور بد مذہبوں سے دور ہے۔

## دُعا:

اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بلند پایہ فضل و کرم اور جو دوعطا کے صدقے ہمیں راہِ حق کی سچائی ثابت کرنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ربُّ العزت کی رحمتیں ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل اور ہر برگزیدہ بندے پر۔

①..... احناف کے نزدیک امام و خلیفہ کی شرائط و تفصیل۔ امامت دو قسم ہے: (۱)..... صغریٰ (۲)..... کبریٰ۔

امامت صغریٰ، امامت نماز ہے۔ امامت کبریٰ نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نیابت مطلقہ، کہ حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیوی میں حسبِ شرع تصرفِ عام کا اختیار رکھے اور غیر معصیت میں اُس کی اطاعت، تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو اس امام کے لیے مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، قادر، قرشی ہونا شرط ہے۔ ہاشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے، جس سے اُن کا یہ مقصد ہے کہ برحق امراءے مؤمنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ کو خلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلفوں پر تمام صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ کا اجماع ہے۔ مولیٰ علی کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَوَجَّہُ الْکَرِیْمِ و حضراتِ حَسَنین رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ اُن کی خلفتیں تسلیم کیں اور علویت کی شرط نے تو مولیٰ علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا، مولیٰ علی، علوی کیسے ہو سکتے ہیں! رہی عصمت، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر آئے، امام کا معصوم ہونا روافض کا مذہب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۳۷)

②..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب القضاء، الأئمة من قریش، الحدیث: ۵۹۴، ج ۳، ص ۴۶۷۔

## چوتھی نص: ایمان اور اسلام کے مابین اتصال و انفصال، ان کے گھٹنے بڑھنے اور اسلاف کا اس میں (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ کے ساتھ) استثنا کرنے کی وجہ کا بیان

مسئلہ 1: ایمان و اسلام دو چیزیں ہیں یا ایک؟

اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسلام ہی ایمان ہے یا اس سے جدا ہے؟ اور اگر جدا ہے تو کیا ایمان کے بغیر بھی اس کا وجود ممکن ہے یا اس کے ساتھ وابستہ و لازم ہے؟ اس کے جواب میں کئی اقوال ہیں:

﴿1﴾..... اسلام و ایمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔

﴿2﴾..... یہ دو الگ الگ اور جدا جدا چیزیں ہیں۔

﴿3﴾..... یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔

مصنف کا موقف:

شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَوی نے اس مسئلے پر بہت گجھلک اور طویل کلام فرمایا ہے۔ لیکن ہم لا حاصل گفتگو سے صرف نظر کرتے ہوئے امر حق کو وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہمارے اختیار کردہ موقف کے مطابق اس مسئلہ کی تین اصحاٹ ہیں: (۱)..... ان دونوں کا لغوی معنی کیا ہے۔ (۲)..... شرعی طور پر ان سے کیا مراد ہے۔ (۳)..... ان کا دنیوی و اخروی حکم کیا ہے؟ پہلی بحث کو لغوی، دوسری کو تفسیری اور تیسری کو فقہی شرعی کہیں گے۔

پہلی بحث: **لُغَوِی مَعْنٰی کا بیان**

ایمان دراصل، تصدیق کا نام ہے۔ جیسا کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا (پ ۱۲، یوسف: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے۔

اس آیت مبارکہ میں مؤمن بمعنی مصدّق (یعنی تصدیق کرنے والا) استعمال ہوا ہے۔

اور اسلام کا معنی ہے: ماننا اور دل سے قبول و اطاعت پر سر تسلیم خم کرنا۔ نیز سرکشی، انکار اور مخالفت کو ترک کرنا۔

تصدیق کا مقام دل ہے اور زبان اس کی ترجمان۔ جبکہ ماننا عام ہے دل، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا

ہے۔ ہر تصدیق قلبی، ماننا اور انکار و سرکشی کو ترک کرنا ہے، اسی طرح زبان سے اقرار کرنا اور دیگر اعضاء سے طاعت و فرمانبرداری کرنا بھی۔ لہذا لغوی اعتبار سے اسلام عام اور ایمان خاص ہو اور اسلام کے اجزاء میں سے بہترین جز کا نام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر تصدیق، تسلیم تو ہے لیکن ہر تسلیم، تصدیق نہیں۔

## معنی شرعی کا بیان

دوسری بحث:

درحقیقت شریعت میں یہ الفاظ (یعنی ایمان و اسلام) تین طرح استعمال ہوئے ہیں: (۱)..... دونوں ہم معنی (۲)..... الگ الگ معنی میں اور (۳)..... ایک کے معنی میں دوسرے کا معنی شامل ہے۔

## دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثالیں:

﴿۱﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لئے تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ ﴿۳۶﴾ الدُّرَيْتُ: ۳۵، ۳۶

اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ وہاں (مؤمنین و مسلمین کا) ایک ہی گھر تھا۔

﴿۲﴾ يَقَوْمٍ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ فَاعْلَبِيهِ تَوَكَّلُوا ﴿۸۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔ (پ ۱۱، یونس: ۸۴)

﴿۳﴾..... فرمان مصطفیٰ ہے: ”بِنِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ يَعْنِي إِسْلَامَ كِي بِنِيَادِ پانچ چیزوں پر ہے (۱)۔“ (۲)

ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بھی

①..... عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ يَعْنِي: حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بیخ اعظم، تاجدار اُمم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظّم ہے: پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان

کے روزے رکھنا۔ (صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، الحدیث ۸، ج ۱، ص ۴۱)

②..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ارکان الاسلام..... الخ، الحدیث ۱۶، ص ۲۷۔

بہی پانچ چیزیں ارشاد فرمائیں (۱)۔ (۲)

## دونوں کے جدا جدا معنی میں استعمال ہونے کی مثالیں:

﴿۱﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا (پ۲۶، الحجرات: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: گنوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے۔ ہاں! یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے۔

یعنی یوں کہو کہ ہم ظاہر اُ دین اسلام کی طاعت قبول کرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ میں ایمان سے فقط تصدیق قلبی مراد ہے اور اسلام سے مراد ظاہری طور پر زبان اور دیگر اعضاء سے طاعت قبول کرنا ہے۔

﴿۲﴾..... حدیث جبریل: جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رحمت عالمیان، سرور کون و مکان صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَابْتَعْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْحِسَابِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ“ یعنی: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یومِ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، حساب و کتاب اور اس بات پر ایمان لائے کہ اچھی بری تقدیر اسی (یعنی اللہ عزَّ وَجَلَّ) کی طرف سے ہے۔“ (۳)

پھر انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اور ظاہری قول و عمل کے ساتھ ماننے کو اسلام کا نام دیا۔

﴿۳﴾..... حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار محبوب رب العزت، مخزن جو دو سخاوت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اور ظاہری قول و عمل کے ساتھ ماننے کو اسلام کا نام دیا۔

﴿۱﴾..... (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) إِنَّ الْإِيمَانَ بَيْنِي عَلَى خُمُسٍ تَعْبُدُ اللَّهَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحَجُّهُ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ۔ كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: (بلاشبہ ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ (مصنّف ابن ابی شیبہ، کتاب الجہاد، باب ماقالوا فی الغزو واجب هو، الحدیث ۸، ج ۲، ص ۶۰۰)

﴿۲﴾..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيام، باب فرض صوم شهر رمضان، الحديث ۴: ۷۸۹، ج ۴، ص ۳۳۵۔

﴿۳﴾..... صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان الايمان والاسلام..... الخ، الحديث ۸، ص ۲۲۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس..... الخ، الحديث ۴: ۲۹۴، ج ۱، ص ۶۸۳۔

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک شخص کو کوئی چیز عنایت فرمائی اور دوسرے کو عطا نہ فرمائی تو میں نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا اسے نہ دیا حالانکہ وہ بھی مومن ہے؟“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”یا مسلمان۔“ میں نے دوبارہ یہی عرض کی اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پھر وہی ارشاد فرمایا: ”یا مسلمان (۱)۔“ (۲)

## دونوں کے ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہونے کی مثالیں:

بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ”کون سا عمل افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اسلام۔“ پھر عرض کی گئی: ”کون سا اسلام افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ایمان۔“ (۳)

مذکورہ روایت سے ثابت ہوا کہ اسلام و ایمان معنی میں مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں شامل بھی اور یہ استعمال لغت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ کیونکہ ایمان ایک عمل بلکہ افضل عمل ہے اور اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا دیگر اعضاء سے اور اس تسلیم میں سے بہتر دل کی تسلیم ہے جسے تصدیق اور ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔

## حکم شرعی کا بیان

تیسری بحث:

اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں: (۱)..... اخروی (۲)..... دنیوی۔

**اُخْرَوِي حَكْم:** جہنم سے نکالنا اور اس میں ہمیشہ رہنے سے بچانا۔ جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ ہے: ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“ (۴)

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 5، ص 600 پر فرماتے ہیں: ”اس فرمانِ عالی میں ان صاحب کے ایمان کی نفی نہیں بلکہ حضرت سعد کو تعلیم ہے کہ کسی کے متعلق اس کے ایمان کی گواہی قطعی نہ دو کہ ایمان دلی تصدیق کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہی خبردار ہے۔ اسلام ظاہر کا نام ہے تم اس کی گواہی دے سکتے ہو خیال رہے کہ کبھی ایمان و اسلام ہم معنی آتے ہیں اور کبھی ان میں فرق کیا جاتا ہے کہ دلی عقیدوں کا نام ایمان ہوتا ہے اور ظاہری اطاعت کا نام اسلام یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔“

②..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تألف قلب من يخاف..... الخ، الحدیث: ۱۵، ص ۸۹۔

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الشاميين، حدیث زید بن خالد الجهني، الحدیث: ۴۰۲، ج ۶، ص ۵۸، باختصار۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زيادة الایمان ونقصانه، الحدیث: ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔

ہاں! اس بارے میں اختلاف ہے کہ مذکورہ حکم اخروی کس پر مرتب ہوگا یعنی اس ایمان کی کیا تعریف ہے (جو

جہنم سے نکالنے اور اس میں ہمیشہ رہنے سے بچانے کا کام دے گا)؟

﴿1﴾..... کسی نے کہا: ایمان محض تصدیقِ قلبی کا نام ہے۔

﴿2﴾..... کسی نے کہا: دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔

﴿3﴾..... کسی نے تیسری چیز یعنی اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا بھی اضافہ کیا۔

**پہلا درجہ:** ہم اصل بات کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص ان تینوں باتوں (تصدیق، اقرار اور اعمال

صالحہ) پر کاربند ہو، وہ بلا اختلاف جنتی ہے۔ یہ ایک درجہ ہوا۔

**دوسرا درجہ:** دو باتیں موجود ہوں اور تیسری کا کچھ حصہ ہو یعنی تصدیق و اقرار اور کچھ اعمالِ صالحہ ہوں اور اس

شخص سے ایک یا ایک سے زیادہ کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں تو اس کے بارے میں معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ شخص فاسق،

دائرہ اسلام سے خارج اور ہمیشہ کا جہنمی ہے لیکن کافر نہیں۔ اس کا ایک تیسرا مقام ہے (یعنی نہ مومن ہے نہ کافر) معتزلہ کا

یہ قول باطل ہے، ہم عنقریب اس کی وضاحت کریں گے۔

**تیسرا درجہ:** تصدیقِ قلبی اور شہادتِ لسانی پائی جائے لیکن اعضاء سے اعمال کا وجود نہ ہو تو ایسے شخص کے حکم میں

اختلاف ہے۔

## اعمالِ صالحہ جزو ایمان نہیں:

حضرت سپدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ”اعمالِ صالحہ جزو ایمان ہیں، ان کے بغیر ایمان

مکمل نہیں ہوتا۔“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس موقف پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور ایسے دلائل پیش کئے ہیں

جو انہی کے موقف کے خلاف جاتے ہیں۔ جیسے ان کا اس دلیلِ قرآنی کو پیش کرنا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

ترجمہ کنز الایمان: اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہ

جنت والے ہیں۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿پ البقرة: ۸۲﴾

اس آیت سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اعمالِ صالحہ کا درجہ ایمان کے بعد ہے، وہ نفسِ ایمان میں شامل نہیں، وگرنہ



اعمال کا دوبارہ سے ذکر تکرار کے حکم میں ہوگا اور حیرت ہے کہ شیخ ابوطالب کی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیٰ اپنے موقف کو اجماعی بھی قرار دیتے ہیں اور یہ حدیث پاک بھی ذکر کرتے ہیں: ”لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ جُحُودِهِ لِمَا أَقْرَبَ بِهِ“ یعنی: کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کافر نہیں ہوگا جب تک وہ اقرار کی ہوئی چیز کا انکار نہ کرے۔“ (۱)

شیخ ابوطالب کی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیٰ معتزلہ کے اس عقیدے ”کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا“ کا رد کرتے ہیں حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے موقف کا قائل مذہب معتزلہ کا قائل ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے مذہب کے قائل سے پوچھا جائے کہ ”جو شخص دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرتے ہی (بغیر کوئی عمل کئے) فوت ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟“ تو اس کا جواب لازماً اثبات میں ہوگا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ایمان بغیر عمل کے پایا جاتا ہے۔

ہم اپنے سوال کو طول دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس قدر مزید زندگی مل جائے کہ وہ ایک نماز کا وقت پالے لیکن قضا کر دے، یا زنا کا مرتکب ہو اور پھر مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور نہ کی صورت میں ثابت ہو گیا کہ اعمالِ صالحہ نفسِ ایمان کے لئے نہ رکن ہیں نہ اس کے وجود کے لئے شرط اور نہ ہی جنت کا استحقاق ان پر موقوف۔ اگر جواب دینے والا کہے کہ میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص طویل مدت تک زندہ رہے، نہ نماز پڑھے اور نہ دیگر شرعی احکام کی پیروی کرے (تب اس پر ہمیشہ کے لئے جہنمی ہونے کا حکم لگے گا) تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مدت کتنی ہوگی؟ کتنی مقدار میں طاعات کا ترک اور کس قدر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایمان کو باطل کر دیتا ہے؟ یہ تعداد نہ متعین ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف کسی نے رجوع کیا۔

**چوتھا درجہ:** کسی شخص نے دل سے تصدیق کی لیکن زبانی شہادت ادا کرنے اور اعمالِ صالحہ بجالانے سے پہلے ہی اسے موت آگئی تو کیا وہ بارگاہِ خداوندی میں مومن شمار ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ زبانی اقرار کو تکمیلِ ایمان کے لئے شرط قرار دینے والے حضرات کہتے ہیں: ”اس شخص کو ایمان سے پہلے موت آئی ہے۔“ لیکن ان کا یہ قول غلط ہے کیونکہ نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“ (۲) اس شخص کا دل تو ایمان سے لبریز ہے تو پھر وہ ابدی جہنمی کیسے؟

①.....المعجم الاوسط، من اسمہ عبداللہ، الحدیث ۴۴۳۳، ج ۳، ص ۲۳۲۔

②.....صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان ونقصانه، الحدیث ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔

نیز حدیث جبریل میں ایمان کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور روزِ آخرت کی تصدیق کے سوا کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔

**پانچواں درجہ:** کسی شخص نے دل سے تصدیق کی، پھر اسے زبان سے کلماتِ شہادت ادا کرنے کا موقع بھی ملا اور اسے اس کے وجوب کا بھی علم تھا لیکن ادا نہ کیا۔ تو ممکن ہے اس نے اس کی ادائیگی سے اسی طرح غفلت برتی ہو جس طرح نماز سے غفلت برتا ہے۔ لہذا ہم اسے مومن اور جہنم میں ہمیشہ نہ رہنے والا کہیں گے۔ کیونکہ ایمان محض تصدیقِ قلبی کا نام ہے، جبکہ زبانِ ایمان کی ترجمان ہے۔ اس بنا پر لازم ہے کہ ایمان زبان کی ادائیگی سے قبل ہی تام مانا جائے تاکہ زبان اس کی ترجمانی کر سکے۔ یہی موقف سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس الفاظِ حدیث کے معانی کی اتباع کے سوا حکم بیان کرنے کی کوئی سند نہیں۔ لغوی اعتبار سے بھی ایمان تصدیقِ قلبی کا نام ہے اور حضور پر نور، شافعِ یومِ النشور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“<sup>(۱)</sup>

جس طرح دیگر واجبات کے ترک سے ایمان ختم نہیں ہوتا اسی طرح ایمان کے بارے میں زبانی شہادت کا وجوب ترک کر دینے سے دلِ ایمان سے خالی نہیں ہو جاتا۔ بعض نے کہا: زبان سے اقرار کرنا ایمان کا رکن ہے کیونکہ کلماتِ شہادت دل کی خبر نہیں دیتے، بلکہ وہ دوسرے معاملے کی انشاء اور شہادت و التزام کی ابتدا ہیں۔ لیکن پہلا قول (یعنی ہمارا موقف) یہی سب سے زیادہ واضح ہے۔

اس مسئلے میں مرجعہ فرقتے نے تو حدیث ہی پار کر دیں اور یہ موقف اختیار کیا کہ یہ شخص جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں: مومن چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم عنقریب ان کے موقف کا رد پیش کریں گے۔

**چھٹا درجہ:** کوئی شخص زبان سے تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے تو ایسا شخص اخروی حکم کے اعتبار سے بلاشک و شبہ کافر اور ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ شخص امرا و خلفا سے تعلق رکھنے والے دنیاوی احکام میں مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اس کی قلبی کیفیت پر آگاہ نہیں ہو جا سکتا۔ لہذا ہمارے لئے یہی حکم ہے کہ ہم اس کی قلبی حالت کو بھی ویسا ہی جانیں جیسا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان ونقصانه، الحدیث ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔

## غور طلب مسائل:

تیسرے امر میں ہمیں شک ہے یعنی وہ دنیوی حکم جو اس بندے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہے جیسے اسی حالت (یعنی صرف زبانی قبولِ اسلام ہے قلبی نہیں) میں اس کا کوئی قریبی مسلمان رشتہ دار فوت ہو جائے، پھر وہ دل سے ایمان لے آئے اور اپنے بارے میں فتویٰ لیتے ہوئے کہے کہ ”میں اپنے رشتہ دار کی فوتگی کے وقت دل سے مومن نہیں تھا اور اب وراثت میرے قبضے میں ہے، تو کیا عند اللہ یہ ورثہ میرے لئے حلال ہے؟“ یا وہ شخص کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنے کے بعد دل سے مومن ہوتا ہے تو کیا اس نکاح کا اعادہ کرنا ہوگا؟ یہ مسائل غور طلب ہیں۔ ممکن ہے ان مسائل کا جواب یوں دیا جائے: دنیاوی احکام کے ظاہر و باطن کا دار و مدار ظاہر پر ہے۔ یا یہ جواب دیا جائے کہ ظاہر کا حکم دوسروں کے لئے ہے کیونکہ وہ اس کی قلبی کیفیت پر مطلع نہیں ہو سکتے اور خود اس کے لئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے اس کا باطن، ظاہر ہے۔ حقیقی علم تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہے اور ہمارے نزدیک ظاہر یہی ہے کہ یہ مال وراثت اس شخص کے لئے حلال نہیں اور اس پر نکاح کا اعادہ لازم ہے۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی اس چیز کا خیال رکھتے اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شرکت نہ کرتے آپ بھی نہ جاتے اور نماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے اگرچہ عبادات میں سے ہے اور حرام سے اجتناب بھی ان امور میں سے ہے جو نماز کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے واجب کردہ ہیں۔ جیسا کہ، حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ“ یعنی: رزقِ حلال کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔“ (۱)

اور ہمارا یہ کہنا اس قول کے خلاف نہیں ہے کہ وراثتِ اسلام کا حکم ہے اور اسلام، تسلیم کا نام ہے۔ بلکہ مکمل تسلیم تو وہ ہے جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہو۔ یہ اباحتِ فقہی اور ظنی ہوتی ہیں، ان کا دار و مدار ظاہری الفاظ، عمومی اباحت اور قیاسات پر ہوتا ہے۔ لہذا کم علم اس خیال میں نہ رہے کہ یہاں قطعی حکم تک رسائی مطلوب ہے جیسے علمِ کلام میں قطعیت طلب کرنے کا رواج ہے۔ تو جو شخص علوم میں رسوم و عادات کی طرف نظر کرتا ہے فلاح نہیں پاتا۔

**سوال:** معتزلہ اور مرجعہ فرقوں کا شبہ کیا ہے؟ اور ان کا موقف باطل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: یہ فرقے

①.....شعب الایمان للبيهقي، باب في حقوق الاولاد والاهلين، الحدیث: ۸۷۴، ج ۶، ص ۴۲۰۔

قرآن کے عمومی حکم سے شبہ میں پڑ گئے۔ جیسے  
فرقہ مر جئہ کا شبہ اور ان کے دلائل:

کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں جائے گا، اگرچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔

﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی  
کسی کا خوف نہ زیادتی کا۔

فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا  
رَهَقًا ﴿۱۳﴾ (پ ۲۹، الجن: ۱۳)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر  
ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ ﴿۲﴾ (پ ۲، الحديد: ۱۹)

﴿۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا  
اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر  
سنانے والا نہ آیا تھا۔ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے  
پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا  
اللہ نے کچھ نہیں اوتارا۔

كُلَّمَا أُلْتِمْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا  
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿۸﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا  
نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن  
شَيْءٍ ﴿۳﴾ (پ ۲۹، الملك: ۸، ۹)

مذکورہ آیت مبارکہ میں (كُلَّمَا أُلْتِمْ فِيهَا فَوْجٌ) کے الفاظ میں عموم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں ہر پھینکا  
جانے والا شخص وہی ہو جو جھٹلاتا ہو۔

﴿۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت، جس نے  
جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿۱۵﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَ  
تَوَلَّى ﴿۱۶﴾ (پ ۳۰، الليل: ۱۵، ۱۶)

اس آیت مقدسہ میں حصر، اثبات اور نفی ہے۔

﴿۵﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ  
 فِرْعَیِّوْمٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ (پ ۲۰، النمل: ۸۹)  
 ترجمہ کنز الایمان: جو نیکی لائے اس کے لئے اس سے بہتر صلہ  
 ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے۔  
 ایمان تو تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿۶﴾

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۴)  
 ترجمہ کنز الایمان: اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔

﴿۷﴾

اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳﴾  
 (پ ۱۵، الکہف: ۳۰)  
 ترجمہ کنز الایمان: ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے  
 جن کے کام اچھے ہوں۔

### مذکورہ دلائل کے جوابات:

ان آیات سے اُن کا موقف ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مذکورہ آیات میں جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں (محض ایمان  
 نہیں بلکہ) ایمان بمع عمل مراد ہے۔ جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ لفظ ایمان کبھی اسلام کے معنی میں استعمال ہوتا  
 ہے اور وہ دل، زبان اور اعمال کی موافقت کا نام ہے اور اس تاویل پر وہ بہت ساری روایات دلیل ہیں جن میں  
 گناہگاروں کا انجام اور عذاب کی مقدار کا بیان ہے۔ نیز یہ حدیث پاک کہ ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا  
 جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“<sup>(۱)</sup> اگر داخل ہی نہ ہو تو نکالے جانے کا کیا مطلب؟

﴿۸﴾

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا  
 دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَآءُ ﴿۵﴾ (پ ۵، النساء: ۴۸)  
 ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ  
 کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما  
 دیتا ہے۔

قرآن پاک کے ان الفاظ ”جسے چاہے معاف فرمادے“ سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے نہ چاہے گا نہ بخشنے گا۔

①.....صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان ونقصانه، الحدیث ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔

﴿۲﴾

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا<sup>ط</sup> (پ ۲۹، الجن: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، تو بیشک ان کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اس آیت مبارکہ کو کفار کے ساتھ خاص کرنا ہٹ دھرمی ہے۔

﴿۳﴾

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ<sup>٥٠</sup> (پ ۲۵، الشوری: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: سنتے ہو! بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔

﴿۴﴾

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ<sup>ط</sup> (پ ۲۰، النمل: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں۔

عمومی حکم پر مشتمل ان آیات میں ان دلائل کے جوابات ہیں جن سے فرقہ مرجئہ نے عموم ثابت کیا۔ ان دونوں طرف کے دلائل میں تاویل و تخصیص کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ”روایات میں گناہ گاروں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی صراحت ہے۔“<sup>(۱)</sup> بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عبرت نشان ہے:

وَأَنْ مِّنكُمْ إِلَّا أَوْارِدَهَا<sup>ج</sup> (پ ۱۶، مریم: ۷۱) ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر روزخ پر نہ ہو۔ مذکورہ فرمان باری تعالیٰ میں صراحت ہے کہ یہ حکم سب کے لئے ہے کیونکہ (سوائے خاص لوگوں کے) کوئی بھی مومن تمام گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَا يَصْلِحُ إِلَّا الْأَشْقَى<sup>١٥</sup> الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى<sup>ط</sup> (پ ۳۰، الليل: ۱۵، ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

اس آیت کریمہ میں مخصوص گروہ یا ایک معین بد بخت شخص مراد ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ماجاء فی قول اللہ تعالیٰ ان رحمة اللہ..... الخ، الحدیث ۷۴۵، ج ۴، ص ۵۵۹۔

كَلِمًا اَلْتَقَى فِيهَا فَوْجٌ سَا لَهُمْ خَزَنَتُهَا  
ترجمہ کنز الایمان: جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا  
اس کے داروغدان سے پوچھیں گے۔ (پ ۲۹، الملک: ۸)

یہاں فوج سے کفار کی فوج مراد ہے اور عام کو خاص کرنا جائز ہے۔ اس آیت مقدسہ کو دلیل بنا کر حضرت سپیدنا  
امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور کچھ متکلمین نے الفاظ کے عموم کا انکار کر دیا اور کہا: ”ایسے الفاظ میں اس وقت  
تک توقف اختیار کیا جائے جب تک ان کے معنی پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔“

### معز لہ کا شبہ اور ان کے دلائل:

ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرۃ اسلام سے خارج اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن کافر نہیں ہے۔ درج  
ذیل آیات طیبات بطور دلیل پیش کرتے ہیں:

﴿۱﴾

وَ اِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ  
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿۱۶﴾ (طہ: ۸۲)  
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے  
جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔

﴿۲﴾

وَ الْعَصْرِ ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾ اِلَّا  
الَّذِيْنَ اٰمَنَ وَ اَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ ﴿۳﴾ (العصر: ۳۰ تا ۳۱)  
ترجمہ کنز الایمان: اس زمانہ محبوب کی قسم! بے شک آدمی ضرور  
نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

﴿۳﴾

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَ اٰرِدُهَا جَ اٰنَ عَلٰى رَءِیْكَ  
حَسْبًا مَّقْضٰیًا ﴿۷﴾ (مریم: ۷)  
ترجمہ کنز الایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر  
نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔

﴿۴﴾..... پھر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ نُنَجِّی الْاٰزِیْنَ اَتَّقَوْا ﴿۷﴾ (مریم: ۷)  
ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے۔

﴿۵﴾

وَ مَن یُعِصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارًا  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے،

جَهَنَّمَ (پ ۲۹، الجن: ۲۳) تو بے شک ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔  
مذکورہ آیاتِ بینات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایمان کے ساتھ عملِ صالح کا بھی ذکر فرمایا۔

﴿۶﴾

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًّا فَجَزَاءُ  
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (پ ۵، النساء: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو  
اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔  
مذکورہ دلائل کے جوابات:

مذکورہ دلائل قرآنیہ کے عموم میں بھی ذیل کی آیات کے سبب تخصیص ہے۔

﴿۱﴾

وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۵، النساء: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے  
معاف فرمادیتا ہے۔

اس آیت کی رو سے کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی مغفرت مشیتِ الہی پر منحصر ہے۔

﴿۲﴾ اسی طرح سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال  
لیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“ (۱)

﴿۳﴾

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (پ ۱۵، الکہف: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے  
جن کے کام اچھے ہوں۔

﴿۴﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ نیکوں کا نیک (اجر و انعام)  
ضائع نہیں کرتا۔

اب بتائیے! ایک گناہ کے سبب اصل ایمان اور تمام عبادات کا اجر کیسے ضائع کر دیا جائے گا؟ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

①..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان ونقصانه، الحدیث ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔



فرمان ہے:



وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَبِدًا (پ ۵، النساء: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے۔  
(ہمیشہ کے لئے جہنمی وہ قاتل ہوگا جو کسی مومن کو) مومن ہونے کے ناطے قتل کرے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول  
بھی یہی ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اس تمام بحث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان میں عمل کا دخل نہیں، حالانکہ اکابرین ملت سے منقول ایمان کی یہ  
تعریف مشہور ہے کہ ”ایمان تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جواب:  
اعمال صالحہ کو ایمان میں شامل کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ایمان کو مکمل اور تمام کرنے والے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے: ”سراور  
دونوں ہاتھ انسان سے ہیں۔“ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر سر نہیں تو انسان بھی نہیں۔ لیکن اگر ہاتھ نہ ہوں تو وہ انسان  
ہونے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”تکبیراتِ انتقالات اور تسبیحات نماز سے ہیں اگر چہ ان  
کا ترک نماز کو باطل نہیں کرتا۔“ تصدیق بالقلب ایمان میں اس طرح ہے جس طرح وجود انسانی کے لئے سر کہ اگر  
تصدیق نہیں تو ایمان بھی نہیں اور بقیہ طاعات دیگر اعضائے جسمانی کی طرح ہیں۔ جن میں سے بعض کو بعض پر  
فضیلت ہے۔

نیز حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

یعنی: زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔“ (۱)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معتزلہ کی طرح زانی کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ  
ہے کہ وہ کامل، پورا اور حقیقی مومن نہیں۔ جیسے کٹے ہوئے اعضاء والے مجبور شخص کو کہا جائے: ”یہ انسان نہیں۔“ یعنی  
حقیقت انسانیت کے بعد اسے انسانی کمال کا درجہ حاصل نہیں۔

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان..... الخ، الحدیث ۵، ص ۴۸۔

## ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں

مسئلہ 2:

**سوال:** اسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کا یہ متفقہ قول ہے کہ ایمان کی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ عبادات سے بڑھتا اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ جب تصدیقِ قلبی ہی ایمان ہے تو پھر اس میں کمی بیشی کیسی؟

**جواب:** اسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ عادل اور ہمارے لئے دلیلِ راہ ہیں۔ ان کے فرامینِ حق پر مبنی ہیں۔ جن سے روگردانی کسی بھی مسلمان کو روانہ نہیں۔ ضرورت ان کی بات سمجھنے کی ہے۔ ان کا فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ عملِ ایمان کا جز یا اس کا رکن نہیں بلکہ ایک اضافی چیز ہے، جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان میں کمی بیشی کرنے والے افعال موجود ہیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی چیز کی ذات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان سر سے بڑھتا ہے بلکہ یوں کہا جائے گا کہ انسان دائرہ اور موٹاپے میں بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ نماز رکوع و سجود سے بڑھتی ہے بلکہ کہا جائے گا کہ اس میں سنتوں اور آداب سے اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کے قول سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے، پھر وجود کے بعد کمی بیشی سے اس کا حال مختلف ہوتا ہے۔

**سوال:** اعتراض ابھی بھی باقی ہے کہ تصدیقِ قلبی ایک خصلت ہے، اس میں کمی بیشی کا امکان کیسے؟ **جواب:** اگر دو غلے پن کو چھوڑ کر اور فساد یوں کے شور و شغب سے بے پرواہ ہو کر حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو اعتراض دور ہو سکتا ہے۔ سنئے! لفظِ ایمان اسمِ مشترک ہے (یعنی وہ اسم جس کے کئی معانی ہوں)، یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

**پہلا معنی:** اس تصدیقِ قلبی کو ایمان کہا جاتا ہے جو عقیدے اور تقلید کے طور پر ہو، اس میں اسرار و رموز پر مطلع ہونا اور ایمان کے متعلق گہرائی سے جاننا شامل نہیں ہوتا۔ ایمان کا یہ درجہ عوام بلکہ ہر مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ خواص اس سے اوپر ہیں۔ اس درجے کا اعتقاد دل پر دھاگے کی گرہ کی طرح ایک گرہ ہے جو کبھی سخت و مضبوط ہو جاتی ہے اور کبھی نرم و کمزور پڑ جاتی ہے اور ایسا ہونا ممکن ہے۔ جیسے اپنے عقائد میں متشدد یہودی، عیسائی یا بد مذہب کی مثال لے لیجئے جسے اس کے مذہب سے ہٹانے کے لئے کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی۔ وساوس، تحقیق و دلیل اور وعظ و نصیحت اس کے لئے بے اثر ہوتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مختصر سی گفتگو سے بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سی دھمکی یا چکدار کلام کے سبب وہ اپنے عقائد کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اپنے عقائد میں شک نہیں ہوتا

جس طرح پہلی قسم والے لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن ان دونوں قسم کے لوگوں میں عقیدے کی پختگی کا فرق ہوتا ہے۔ پختگی اور شدت کا یہ فرق ہمارے سچے عقیدے کے حامل لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ عقیدے کی پختگی اور بڑھوتری میں عمل کی وہی اہمیت ہے جو درخت کی نشوونما میں پانی کی ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا (پ۱، التوبہ: ۱۲۴) ترجمہ کنز الایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

لِيَزِدَادُوا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ ط (پ۲۶، الفتحہ: ۴) ترجمہ کنز الایمان: تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔

بعض احادیث میں یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ”الْاِيْمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ یعنی: ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔“<sup>(۱)</sup> اور یہ گھٹنا بڑھنا دل میں عبادت کی تاثیر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

## ایمان گھٹنے بڑھنے کی کیفیت جاننے والا:

اسے صرف وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو حضورِ قلب کے ساتھ کی جانے والی عبادت کے اوقات اور ان کے علاوہ اوقات کا آپس میں موازنہ کرے، تو وہ جان لے گا کہ وقتِ عبادت ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ کسی وسوسہ ڈالنے والے کا وسوسہ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ اسی طرح یتیم پر شفقت کا اعتقاد رکھنے والا شخص اپنے اعتقاد پر عمل کرتے ہوئے یتیم کے سر پر دستِ شفقت پھیرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو وہ اپنے اس عمل کے سبب دل میں اعتقاد و شفقت کو مزید مضبوط ہوتا محسوس کرے گا۔ یونہی عاجزی کا خوگر جب عاجزی والا عمل کرے گا یا دوسرے کے سامنے عاجزی وانکساری کرے گا تو اسے اپنے اس عمل کی بنا پر دل میں عاجزی کی زیادتی محسوس ہوگی۔

## عالم ظاہر اور عالم غیب:

یہی حال تمام قلبی صفات کا ہے۔ ان صفات کے زیر اثر اعضاء عمل کرتے ہیں پھر اعمال کا اثر ان صفات پر پڑتا ہے جو انہیں مضبوط اور زیادہ کرتا ہے۔ اس کا مزید بیان نجات دینے والے اعمال اور ہلاک کرنے والے اعمال کے باب میں آئے گا جہاں باطن کے ظاہر کے ساتھ اور اعمال کے عقائد و قلوب کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ بھی بیان کی

①..... الکامل فی ضعفاء الرجال، احمد بن محمد بن حرب، الرقم: ۴، ج ۱، ص ۳۳۰۔

جائے گی کیونکہ یہ عالمِ ظاہر کے عالمِ غیب کے ساتھ تعلق کی جنس سے ہیں۔ ملک سے مراد عالمِ ظاہر ہے جس کا حواس سے علم ہوتا ہے اور ملکوت سے مراد عالمِ غیب ہے جسے نورِ بصیرت سے جانا جاسکتا ہے۔ دل عالمِ غیب سے اور اعضاء و اعمال عالمِ ظاہر سے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں اس قدر لطیف تعلق ہے کہ بعض نے ان دونوں کو ایک ہی سمجھا اور بعض نے کہا کہ ”عالمِ ظاہر جو اجسامِ محسوسہ پر مشتمل ہے“ کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں۔ جس شخص نے ان دونوں عالموں کے وجود اور ان کے الگ الگ ہونے کو جانا اور آپس میں ان کی وابستگی کو سمجھا اس نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا:

رَقَّ الزُّجَابُ وَرَقَّتِ الْخُمُرُ      وَتَشَابَهًا فَتَشَاكَدَ الْأُمُرُ  
فَكَانَ مَا خُمُرٌ وَلَا قَدْحٌ      وَكَانَ مَا قَدْحٌ وَلَا خُمُرٌ

**ترجمہ:** رقت کے اعتبار سے شیشہ اور شراب ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، گویا شراب ہے پیالہ نہیں یا پیالہ ہے شراب نہیں۔ اب ہم دوبارہ اصل مقصود کی طرف آتے ہیں کیونکہ مذکورہ بحث کا علم معاملہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان دونوں علموں (یعنی علمِ معاملہ و علمِ مکاشفہ) کے درمیان بھی تعلق و وابستگی ہے، اسی وجہ سے تمہیں علومِ مکاشفہ ہر دم علومِ معاملہ کی طرف مائل ہوتے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ تکلف کے ساتھ ان کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے۔ پس ایمان کا یہ وہ معنی ہے جس کی بنا پر طاعت کو زیادتی ایمان کا سبب جانا جاسکتا ہے۔

### چمکتا نشان اور سیاہ نقطہ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ایمان ایک چمکتے نشان کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ بندے کے نیک اعمال اس کی چمک بڑھاتے اور زیادہ کر دیتے ہیں جس سے سارا دل روشن ہو جاتا ہے اور منافقت ایک سیاہ نقطے کی طرح ظاہر ہوتی ہے، بندہ جب حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ کر زیادہ ہو جاتا ہے، آخر کار اس کے پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہی ختم (یعنی مہر) ہے۔“ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی:

ترجمہ: کنز الایمان: کوئی نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا

كَلَّا بَلْ سَكَنَ لَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

دیا ہے۔

(پ ۳۰، المطففين: ۱۴)

دوسرا معنی: ایمان سے تصدیق اور عمل دونوں مراد لئے جائیں۔ جیسا کہ رسول کریم، رُوُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا“ یعنی: ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے: ”لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ یعنی: زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔“ (۲)

جب ایمان کے معنی میں عمل بھی شامل ہو تو عمل کی کمی بیشی کا خوف نہیں ہوتا۔ اصل ایمان یعنی تصدیق قلبی پر بھی کمی بیشی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ غور طلب امر ہے اور ہم نے اشارہ کر دیا کہ یہ بھی اس اثر کو قبول کرتا ہے۔

تیسرا معنی: ایمان سے مراد وہ یقینی تصدیق ہو جو کشف، شرح صدر (سینے کے کھلنے) اور نور بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ قسم زیادتی قبول کرنے سے دور ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شک و شبہ سے خالی یقینی امر میں بھی اطمینان قلب ایک جیسا نہیں ہوتا جیسے دو ایک سے زیادہ ہوتا ہے اور عالم بنایا ہوا اور حادث ہے ان دونوں باتوں میں اگرچہ کوئی شک نہیں لیکن ان میں یقین کی کیفیت ایک جیسی نہیں۔ تمام یقینی امور وضاحت اور اطمینان قلب کے درجات میں مختلف ہوتے ہیں۔

ایمان کے ان تینوں معانی سے ثابت ہوا کہ اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ کا ایمان کے متعلق کمی بیشی کا قول کرنا بالکل درست ہے اور کیوں درست نہ ہو جبکہ حدیث پاک میں بھی آچکا ہے کہ ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔“ (۳)

بعض روایات میں ”دینار برابر“ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ (۴) اگر قلبی تصدیق میں تفاوت نہ ہو تو ان مختلف مقداروں کے بیان کا کیا مطلب؟

مسئلہ 3: ”إِنْ شَاءَ اللهُ“ کے ساتھ اپنے مومن ہونے کا اقرار کرنا

سوال: اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ”میں مومن ہوں إِنْ شَاءَ اللهُ؟“ حالانکہ

- ①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان..... الخ، الحدیث ۳۵، ص ۳۹، ”شعبۃ“ بدلہ ”بَابًا“۔
- ②..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان..... الخ، الحدیث ۵، ص ۴۸۔
- ③..... صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان و نقصانه، الحدیث ۴۲، ج ۱، ص ۲۸۔
- ④..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى و جوه يومئذ ناضرة..... الخ، الحدیث ۴۳، ج ۲، ص ۵۵۳۔

استثنا شک ہوتا ہے اور ایمان میں شک کفر ہے۔ یہ سب حضرات اپنے مومن ہونے کا جواب قطعیت کے ساتھ نہیں دیتے تھے اور اس سے اجتناب کرتے تھے۔ جیسے،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں جو کہے: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مومن ہوں وہ بڑا جھوٹا ہے۔“ اور جو کہے: ”میں حقیقی مومن ہوں وہ بدعتی ہے۔“ جو حقیقت میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ جھوٹا کیسے اور حقیقت میں اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بھی مومن ہے۔ جیسے اگر کوئی حقیقت میں لمبا یا سنی ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح خوش یا غمگین یاد رکھنے سننے والا بھی ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے: ”کیا تم جاندار ہو؟“ تو وہ یہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھے گا کہ ”میں جاندار ہوں اِنْ شَاءَ اللَّهُ۔“<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نے جب یہ بات کہی تو ان سے پوچھا گیا کہ ”ہم کیا کہیں؟“ تو فرمایا: ”تم یوں کہو! ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اُترا۔“<sup>(۲)</sup>

یہ قول کہ ”ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اُترا“ اور ”میں مومن ہوں“ ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟

## اے حسن! تو جھوٹا ہے:

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي سے پوچھا گیا: ”کیا آپ مومن ہیں؟“ جواب دیا: ”اِنْ شَاءَ اللَّهُ۔“ پھر کہا گیا: ”اے ابوسعید! اپنے ایمان کا اقرار اِنْ شَاءَ اللَّهُ کے ساتھ کرنے کی کیا وجہ ہے؟“ فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ میں ہاں کہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے: اے حسن! تو نے جھوٹ بولا اور مجھ پر کلمہ الہی (یعنی عذاب خداوندی) لازم ہو جائے۔“

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرمایا کرتے تھے: ”مجھے اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ میرے کچھ ناپسندیدہ اعمال دیکھے اور مجھ سے ناراض ہو کر فرمادے: جا! میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور میں بے فائدہ عمل کرتا رہوں۔“<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم فرماتے ہیں: ”جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو تم جواب دو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)۔ ایک روایت میں ہے یوں کہہ دو: مجھے اپنے ایمان میں شک نہیں اور تیرا

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج، ص ۲۳۰۔

②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق۔

مجھ سے سوال کرنا بدعت ہے۔“ (۱)

حضرت سپدنا علقمہ بن قیس نخعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِی سے پوچھا گیا: ”کیا آپ مومن ہیں؟“ تو فرمایا: ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ مجھے یہی امید ہے۔“ (۲)

حضرت سپدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی (اپنا مومن ہونا یوں بیان) فرماتے ہیں: ”ہم اللہ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں ہم کیا ہیں؟“ (۳) تو اس طرح استثنا کے ساتھ اپنے ایمان کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: یہ استثنا بالکل درست ہے۔ اس کی چار وجوہات ہیں۔ دو کا تعلق شک سے ہے لیکن یہاں شک اصل ایمان میں نہیں بلکہ خاتمہ ایمان اور کمال ایمان میں ہے اور دو کا شک سے کوئی تعلق نہیں۔

### جن دو کا شک سے تعلق نہیں:

پہلی وجہ: جس کا شک سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس خوف کی بنا پر حتمی جواب دینے سے اجتناب کیا جاتا ہے کہ کہیں اپنے نفس کی پاکیزگی و بڑائی خود بیان کرنا لازم نہ آئے (کہ یہ مذموم ہے)۔  
جیسا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے مبارک ارشادات ہیں:

﴿۱﴾  
فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ط (پ ۲، النجم: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔

﴿۲﴾  
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ط (پ ۵، النساء: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں۔

﴿۳﴾  
أَنْظُرْ كَيْفَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط (پ ۵، النساء: ۵۰)

ترجمہ کنز الایمان: دیکھو! کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۰۔

②..... المرجع السابق۔ ③..... المرجع السابق۔

## برائج:

کسی داناسے پوچھا گیا: ”کس سچائی میں برائی ہے؟“ فرمایا: ”آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔“ ایمان تو بزرگ صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے اور اس صفت کا حتمی اقرار مطلقاً خود ستائی ہے اور استثناء (یعنی اِنْ شَاءَ اللهُ) کے الفاظ گویا اپنی بڑائی بیان کرنے سے بچنے کے لئے ہیں۔ جیسے کسی شخص سے پوچھا جائے کہ ”کیا آپ حکیم ہیں یا مفتی یا مفسر؟“ وہ جواب دے: ”جی ہاں! اِنْ شَاءَ اللهُ!“ اس طرح کا جواب شک پر مبنی نہیں بلکہ اپنی تعریف خود کرنے سے بچنے کا حیلہ ہے۔ جس سے نفسِ خیر میں ضعف اور تردّد آجاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر سے لازم آنے والی چیز کو کمزور کرنا مقصود ہے اور وہ چیز خود ستائی ہے۔ اس تاویل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کسی سے مذموم صفت کے متعلق پوچھا جائے تو اس کے جواب میں اِنْ شَاءَ اللهُ نہیں کہا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

دوسری وجہ: اس کلمہ (اِنْ شَاءَ اللهُ) سے مقصود ہر حال میں یادِ الہی اور ہر معاملہ مشیتِ خداوندی کے سپرد کرنا ہے۔ جیسے ربِّ کریم عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کو تعلیم فرمائی۔ چنانچہ، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ عَدَاۗءُ اللّٰهِ  
اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ (پ ۱، الکہف: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

پھر اس بات کو صرف شک والے کاموں تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ ارشاد فرمایا:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ  
اٰمِنِیْنَ ۙ مُحَلِّقِیْنَ رُءُوسِکُمْ وَّمُقَصِّرِیْنَ ۙ  
(پ ۲۶، الفتح: ۲۷)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تم ضرور مسجدِ حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے۔

حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم تھا کہ مسلمان لازمی طور پر مکہ میں داخل ہوں گے، یہی اس کی مشیت بھی تھی، لیکن اس اندازِ بیان سے مقصود اپنے پیارے نبی صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کو تعلیم دینا تھا۔

①..... جیسے پوچھا جائے کہ ”کیا تم چور ہو؟“ تو اس کا جواب اِنْ شَاءَ اللهُ سے دینا منع ہے۔



## قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ:

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا معمول تھا کہ جس امر کی بھی خبر دینا چاہتے خواہ وہ ظنی ہوتا یا یقینی اِنْ شَاءَ اللہ کہتے۔ یہاں تک کہ جب قبرستان سے گزر رہتا تو فرماتے: ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللہ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ یعنی: اے مومن قوم کی جماعت تم پر سلام ہو اِنْ شَاءَ اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔“ (۱)

حالانکہ مومنوں کے ساتھ ملنا (یعنی وفات پانا) ایک یقینی امر ہے۔ لیکن اَدَب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا ذکر کیا جائے اور ہر امر کا تعلق اس کی مشیت سے جوڑا جائے اور یہ الفاظ (اِنْ شَاءَ اللہ) اسی معنی کو ادا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عوامُ النَّاس میں ان الفاظ کو شوق و تمنا کے اظہار کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ فلاں شخص جلد ہی مرنے والا ہے اور آپ کہیں: اِنْ شَاءَ اللہ تو اس بات سے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کی موت میں شک ہے بلکہ یہ کہ آپ کو اس کی موت میں رغبت ہے اور جب آپ کو بتایا جائے کہ فلاں شخص عنقریب بیماری سے شفا پانے والا ہے اور آپ کہیں: اِنْ شَاءَ اللہ تو اس کا مطلب رغبت لیا جائے گا۔ پس معاملہ خواہ کوئی بھی ہو ان الفاظ (اِنْ شَاءَ اللہ) کو شک والے معنی سے رغبت والے معنی اور ذِکْرُ اللہ کی طرف پھیرا گیا ہے۔

## جن دو کا شک سے تعلق ہے:

تیسری وجہ: جس کا تعلق شک سے ہے۔ اس کا مطلب ہے میں سچا مومن ہوں اِنْ شَاءَ اللہ، کیونکہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مخصوص لوگوں کی شان میں ارشاد فرمایا:

اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط (پ ۹، الانفال: ۴) ترجمہ کنز الایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنوں کی دو اقسام ہیں (کامل، غیر کامل): چنانچہ، شک کمالِ ایمان میں ہے نہ کہ اصل ایمان میں اور کمالِ ایمان میں تو ہر ایک کو شک ہو سکتا ہے، جو کہ کفر نہیں۔ دو وجہ سے کمالِ ایمان میں شک درست ہے: (۱)..... منافقت کمالِ ایمان کو دُور کر دیتی ہے اور نفاق ایک مخفی امر ہے جس سے نجات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ (۲)..... اَعْمَالِ صَالِح سے ایمان کامل ہوتا ہے اور آدمی کامل طور پر اعمال کے وجود کا علم نہیں رکھتا۔

①..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استحباب اطالۃ العزۃ..... الخ، الحدیث: ۲۴، ص ۱۵۱۔

## عمل کے متعلق 5 فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے  
رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے  
اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں۔

(پ ۲۶، الحجرت: ۱۵)

شک اس صدق میں ہوتا ہے (جو کامل مسلمانوں کا وصف ہے، نہ کہ اصل ایمان میں)۔

﴿۲﴾

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴿۲﴾ (البقرة: ۱۷۷)

ترجمہ کنز الایمان: ہاں! اصلی نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور  
قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔

اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے 20 اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ جیسے وعدہ وفائی اور مصائب پر صبر کرنا۔

پھر ارشاد فرمایا: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿۲﴾ (البقرة: ۱۷۷) ترجمہ کنز الایمان: یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی۔

﴿۳﴾

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿۲۸﴾ (المجادلة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے  
جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

﴿۴﴾

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ  
قَتَلَ ﴿۲۷﴾ (الحديد: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے  
قبل خرچ اور جہاد کیا۔

﴿۵﴾

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴿۳﴾ (ال عمران: ۱۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں۔

## عمل کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ:

- ﴿1﴾..... اَلْاِيْمَانُ عُرْيَانٌ وَّلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ لَيْعْنِي: ایمان بے لباس ہے اس کا لباس تقویٰ ہے۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿2﴾..... اَلْاِيْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ لَيْعْنِي: ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں جن میں سے کتر، راستے سے تکلیف دہ چیز دُور کرنا ہے۔<sup>(۲)</sup>

ان آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کمال ایمان اعمالِ صالحہ کے سبب حاصل ہوتا ہے۔  
(اب وہ روایات ملاحظہ فرمائیے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ) منافقت اور شرکِ خفی (یعنی ریاکاری) سے دُوری، ایمان کو کمال بخشتی ہے۔ چنانچہ،

## نفاق کی مذمت میں وارد 19 روایات و اقوال

- ﴿1﴾..... اَرْبَعٌ مِّنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَّانْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ مِّنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُتِيَ خَانَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ لَيْعْنِي: جس میں یہ چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مومن خیال کرتا ہو: (۱)..... جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۲)..... جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے (۳)..... جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور (۴)..... جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔<sup>(۳)</sup>

بعض روایات میں ”اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ لَيْعْنِي: جب وعدہ کرے تو وفانہ کرے۔“ کے الفاظ ہیں۔<sup>(۴)</sup>

- ﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”دل چار قسم کے ہیں: (۱)..... انتہائی صاف جس میں چراغ روشن ہے یہ مومن کا دل ہے۔ (۲)..... دُور خادل، جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی۔ اس میں ایمان کی مثال سبزی کی طرح ہے، جو بیٹھے پانی سے نشوونما پاتی ہے اور منافقت کی مثال اس ناسور کی سی ہے جسے پیپ اور گند اخون مزید بڑھاتے ہیں۔ تو ان دو میں سے جو زیادہ بڑھا اسی کا حکم لگے گا۔“<sup>(۵)</sup> (ایک دل وہ ہے جس

①..... الفقيه والمتفقه، ذكر احاديث واخبار شتى، الحديث ۱۲۹، ج ۱، ص ۱۲۶۔

②..... صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان..... الخ، الحديث ۳۵، ص ۳۹-۴۰۔

③..... المرجع السابق، الحديث ۵۸، ۵۹، ۵۰، ۵۱۔ ④..... المرجع السابق، الحديث ۵۸، ۵۰۔

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابى سعيد الخدرى، الحديث ۱۱۱۴، ج ۴، ص ۳۶۔

پر غلاف چڑھا ہے اور وہ اپنے غلاف پر بندھا ہے یہ کافر کا دل ہے۔ ایک دل وہ ہے جو اوندھا پڑا ہے یہ منافق کا دل ہے۔)

ایک روایت میں ہے: غُلِبْتُ عَلَيْهِ ذَهَبْتُ بِهِ یعنی: جو مادہ غالب آیا وہ اسے لے جائے گا۔

﴿3﴾..... أَكْثَرُ مَنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَرَأُوا هَذَا یعنی: اس امت کے اکثر قاری منافق ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

﴿4﴾..... الشِّرْكَ أَحْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصِّفَاءِ یعنی: میری امت میں شرک سخت پتھر پر ریگنے والی چیونٹی سے بھی

زیادہ مخفی ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿5﴾..... حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ”زمانہ رسالت میں کوئی شخص ایک (غیر مناسب)

کلمہ کہتا تو وہ تا وفات منافق شمار ہوتا اور اب میں تم سے ایسے کلمات دن میں 10 بار سنتا ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

﴿6﴾..... بعض علما فرماتے ہیں: ”أَقْرَبُ النَّاسِ مِنَ النِّفَاقِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ النِّفَاقِ“ یعنی: جو اپنے آپ کو منافقت سے

دور شمار کرے وہ منافقت کے زیادہ قریب ہے۔“

﴿7﴾..... حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ ”زمانہ رسالت کی بنسبت آج منافقین کی تعداد

زیادہ ہے۔ اُس دور میں وہ اپنا نفاق چھپاتے تھے اور آج ظاہر کرتے ہیں۔“<sup>(۴)</sup>

منافقت سچے اور کامل ایمان کی ضد ہے۔ یہ ایک مخفی امر ہے۔ اس سے زیادہ دور وہی ہے جو اس سے خائف رہتا

ہے اور جو اپنے آپ کو اس سے نجات یافتہ سمجھتا ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے۔

﴿8﴾..... حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کے سامنے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں: ”اس دور

میں منافقت ختم ہوگئی ہے۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”بھائی! اگر منافق ہلاک ہو جائیں تو (راستوں میں چلنے

والوں کی کمی کے باعث) تمہیں راستوں سے وحشت ہونے لگے۔“

﴿9﴾..... انہی سے یا کسی اور سے مروی ہے کہ ”اگر منافقین کی دُ میں ہوں تو (ان کی کثرت کے باعث) ہمارا زمین پر

①..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث عقبه بن عامر الجهني، الحديث: ۱۷۳، ج ۶، ص ۱۳۳۔

②..... فردوس الاخبار للديلمي، باب الشين، الحديث: ۳۲۹، ج ۲، ص ۱۴۔

③..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، حديث حديفة بن اليمان، الحديث: ۲۳۳۳، ج ۹، ص ۸۰۔

④..... صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب اذا قال عند قوم شيئاً..... الخ، الحديث: ۷۱۱، ج ۴، ص ۴۴۷، بتغير قليل۔

پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے۔“

﴿10﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص اشاروں کنایوں میں حجاج بن یوسف کی برائی کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”کیا تم اس کی موجودگی میں بھی یہ بات کر سکتے ہو؟“ اس نے عرض کی: ”نہیں!“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”زمانہ رسالت میں ہم اس چیز کو منافقت میں شمار کرتے تھے۔“ (۱)

﴿11﴾..... سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَهُ اللَّهُ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الْآخِرَةِ“ یعنی: جو دنیا میں دو زبانوں والا (یعنی دوزخا) ہوگا اللہ عزوجل آخرت میں بھی اسے دو زبانوں والا بنا دے گا۔“ (۲)

﴿12﴾..... ایک روایت میں ہے: ”شَرُّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهِينِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا بَوَّجِهٍ وَيَأْتِي هَوْلًا بَوَّجِهٍ“ یعنی: لوگوں میں سے بدترین دوزخا شخص ہے جو ادھر ایک رخ کے ساتھ آئے اور ادھر دوسرے رخ کے ساتھ۔“ (۳)

﴿13﴾..... حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ان لوگوں کی بابت پوچھا گیا جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات پر منافقت کا کوئی خطرہ نہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ تَقْتُمُ! اِذَا كَرِهْتَ اِيْمَانًا مِنْ بَرِيٍّ هُوَ نَاعِلٌ مَعْلُومٌ يُوَجَّهُ تَوْبَةً مِثْلَ تَوْبَةِ زَيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ“ (۴)

﴿14﴾..... آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: ”منافقت کی پہچان یہ ہے کہ بندہ دل و زبان، ظاہر و باطن اور اندرونی و بیرونی معاملات میں مختلف ہو۔“ (۵)

﴿15﴾..... ایک شخص حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوا کہ مجھے نفاق سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبداللہ بن عمر، الحدیث: ۵۸۳۴، ج ۲، ص ۴۳۳، مفہومًا، لیس فیہ ذکر الحجاج۔

قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فیہ ذکر اتصال الايمان..... الخ، ج ۲، ص ۲۲۹۔

②..... المعجم الاوسط، من اسمه مقدم، الحدیث: ۸۸۸۵، ج ۷، ص ۳۱۳۔

③..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فیہ ذکر اتصال الايمان..... الخ، ج ۲، ص ۲۲۹۔

صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذی الوجہین، الحدیث: ۲۵۲، ص ۱۳۰۳۔

④..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فیہ ذکر اتصال الايمان..... الخ، ج ۲، ص ۲۲۹۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فیہ ذکر اتصال الايمان..... الخ، ج ۲، ص ۲۲۹۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اگر تو منافق ہوتا تو تو اس سے بے خوف ہوتا کیونکہ منافق منافقت سے بے خوف ہوتا ہے۔“ (۱)

﴿16﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی ملیکہ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”میں نے 130، ایک روایت کے مطابق

150 صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ سے ملاقات کی، یہ تمام نفوس قدسیہ نفاق سے خوف زدہ رہتے تھے۔“ (۲)

﴿17﴾..... ایک مرتبہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ

أَجْمَعِينَ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اس دوران صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اسی اثنا میں وہ شخص جو تے ہاتھ میں اٹھائے پہنچ گیا، وضو کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر تھا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی:

”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! یہی وہ شخص ہے جس کی ہم تعریف کر رہے تھے۔“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اس کے چہرے پر شیطانی کالک نظر آرہی ہے۔“ اس شخص نے آکر سلام عرض کیا اور

صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس سے فرمایا:

”تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! بتا کیا جب تو یہاں آیا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی تجھ سے

بہتر نہیں ہے؟“ اس نے عرض کی: ”جی ہاں!“ (۳)

حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا عَلِمْتُ وَلِمَا

لَمْ أَعْلَمْ“ یعنی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اس چیز کی جسے میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جسے میں نہیں جانتا۔“

عرض کی گئی: ”کیا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بھی خوف محسوس کرتے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”میں کیسے بے خوف

ہو جاؤں، جبکہ دل رحمن عَزَّوَجَلَّ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسے چاہے بدل دے۔“ (۴)

﴿18﴾..... فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج ۳، ص ۲۲۹۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۰۔

③..... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی بکر الصديق، الحديث ۸۵، ج ۱، ص ۵۹۔

④..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۲۔

صحیح مسلم، کتاب القدر، باب تصرف اللہ تعالیٰ القلوب کیف شاء، الحديث ۲۶۵، ص ۱۲۲۔

وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۴۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (پ ۲۴، الزمر: ۴۷)

اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ”بعض اعمال، لوگ نیکیاں سمجھ کر کرتے رہیں گے لیکن بروز قیامت وہ گناہوں کے پلڑے میں ہوں گے۔“

﴿19﴾..... حضرت سیدنا سری سقطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص باغ میں جائے جہاں ہر قسم کے درخت ہوں، ان پر ہر قسم کے پرندے ہوں اور ہر پرندہ جدا زبان میں اس شخص سے کلام کرے اور کہے: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ یعنی: اے اللہ کے ولی! تم پر سلامتی ہو۔“ یہ سن کر اگر اس کا نفس راحت محسوس کرے تو وہ ان پرندوں کا اسیر (قیدی) ہے۔

### فاروقی و دارانی تقویٰ:

مذکورہ روایات و اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق کی باریکیوں اور شرک خفی کی وجہ سے معاملہ خطرناک ہے۔ اس سے بے خوف نہیں رہا جاسکتا۔ حتیٰ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اپنے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ ”کہیں میرا شمار منافقین میں تو نہیں ہوا؟“ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدَسَ سِرُّهُ السُّورَانِي فرماتے ہیں: ”میں نے بعض حکام سے کوئی (خلاف شرع) بات سنی، تو اس کا رد کرنے کا ارادہ کیا (لیکن خاموش رہا) کہ کہیں میرے قتل کا حکم صادر نہ کر دیا جائے اور ایسا میں نے موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کیا کہ موت کے وقت کہیں میرے دل میں مخلوق کے سامنے فخر پیدا نہ ہو جائے۔“

بہر حال یہ نفاق اصل ایمان کے نہیں بلکہ کامل، حقیقی اور کھرے ایمان کے خلاف ہوتا ہے۔

### نفاق کی اقسام:

نفاق کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... وہ نفاق جو دائرۃ اسلام سے خارج اور ملت کفار میں داخل کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں میں شامل کر دے۔ (۲)..... وہ نفاق جو بندے کو ایک مخصوص مدت کے لئے جہنمی بنا دے، یا بلند

درجات میں کمی کر کے صدیقین کے مرتبے سے نیچے گرا دے۔ اس قسم میں شک ہوتا ہے اس لئے یہاں اِنْ شَاءَ اللهُ کہنا بہتر ہے۔ منافقت کی اس قسم کا سبب ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا ہے۔ صرف صدیقین ہی اللهُ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے محفوظ اور خود پسندی وغیرہ جیسے امور سے دُور ہوتے ہیں۔

## یا رب عَزَّوَجَلَّ! وقت موت سلامتی ایمان نصیب فرما!

**چوتھی وجہ:** جو شک کی طرف منسوب ہے۔ اس کا تعلق برے خاتمے کے خوف کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ موت کے وقت اسے سلامتی ایمان نصیب ہوگی یا نہیں؟ اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار بوقتِ آخر سلامتی ایمان پر موقوف ہے۔ مثلاً کسی روزہ دار سے دو پہر کے وقت اس کے روزے کے صحیح ہونے کے متعلق پوچھا جائے اور وہ کہے: واقعی! میں روزہ دار ہوں۔ اس کے بعد دن ہی میں اگر وہ شخص افطار کر دے تو اس کا جھوٹ واضح ہو جائے گا کیونکہ روزہ تبھی صحیح مانا جائے گا جبکہ اسے پورا دن غروب آفتاب تک قائم رکھا جائے۔ پس جس طرح روزے کی صحت پورے دن پر موقوف ہے اسی طرح ایمان کی صحت پوری زندگی پر موقوف ہے اور اسے آخری وقت سے قبل سابقہ حالت کی بنیاد پر سلامت کہا جاتا ہے۔ جس میں شک اور برے انجام کا خوف باقی ہے۔ اسی وجہ سے خوفِ خدا رکھنے والے اکثر بزرگ گریہ و زاری کرتے ہیں کیونکہ حسنِ خاتمہ گزشتہ کا انجام ہے اور مشیتِ اَزَلی اسی وقت ظاہر ہوگی جب فیصلہ طلب چیز کا ظہور ہوگا اور اس کا کسی بھی بشر کو علم نہیں ہوتا اور برے خاتمے کا خوف اَزَلی فیصلے کے ظہور کے خوف کی طرح ہے۔ اکثر اوقات ایسا اَزَلی فیصلہ موجودہ حالت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو کسے معلوم کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے مقدر میں بھلائی لکھ دی گئی ہے؟

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط (پ ۲۶، ق: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔

اس آیتِ مقدسہ میں ”حق“ سے مراد فیصلہ اَزَلی ہے جس کا ظہور موت کے وقت ہوتا ہے۔

بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْعَمِيقُ کا فرمان ہے: ”میزانِ عمل پر وہی عمل لائے جائیں گے جن پر خاتمہ ہوا ہے۔“ (۱)

①.....تفسیر عبدالرزاق، سورة الانبياء، الحديث ۱۸۶، ج ۲، ص ۳۸۷۔



حضرت سیدنا ابودرداء عرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! جسے اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔“ (۱)

یہ بھی منقول ہے کہ ”بعض گناہوں کی سزا برا خاتمہ ہے۔“ ہم ان سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔  
کہا جاتا ہے کہ ”وہ گناہ (جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں) ولایت و کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔“

## ایمان پر ملنے والی موت کو شہادت پر ترجیح:

کسی عارف باللہ کا قول ہے کہ ”اگر مجھے اپنے کمرہ خاص کے دروازہ پر ایمان پر موت مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازہ (MAIN ENTRANCE) پر مُنظر ہو تو (شہادت اگرچہ اعلیٰ درجہ کی سعادت ہے مگر) میں کمرہ کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کہ کیا معلوم عمارت کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ”اگر میں کسی کو 50 سال تک مسلمان جانوں، پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہو جائے اور اسی دوران وہ مر جائے تو میں حتمی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ اسے دین اسلام پر موت آئی ہے۔“  
حدیث پاک میں ہے: جو کہے: ”میں مومن ہوں“ وہ کافر ہے اور جو کہے: ”میں عالم ہوں“ وہ جاہل ہے۔ (۲)  
فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ط ترجمہ کنز الایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ (پ۸، الانعام: ۱۱۵)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کے لئے صدق اور جس کا خاتمہ شرک پر ہو اس کے لئے عدل ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس والثلاثون فيه ذكر اتصال الايمان..... الخ، ج، ص ۲۲۸۔

②..... تفسیر ابن کثیر، سورة النساء، ۴۹، ج ۲، ص ۲۹۲۔

المعجم الاوسط، من اسمه محمد، الحديث: ۲۸۴، ج ۵، ص ۱۳۹۔

وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۱﴾ (پ ۱، الحج: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام۔  
 لہذا جب (سلامتی ایمان میں) اس قدر شک ہو تو ان شاء اللہ کہنا ضروری ہوا۔ کیونکہ ایمان وہی ہے جس کے نتیجے میں جنت ملے۔ جیسے روزہ اسے ہی کہیں گے جو بری الذمہ کر دے۔ جو روزہ غروب آفتاب سے پہلے فاسد ہو جائے، وہ بری الذمہ نہیں کرتا لہذا جس طرح وہ روزہ نہیں کہلائے گا اسی طرح ایمان کا بھی معاملہ ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ اگر کوئی آپ سے گزشتہ رکھے ہوئے روزے کے بارے میں پوچھے کہ کیا کل آپ روزے سے تھے؟ تو جواب میں ان شاء اللہ کہنا چاہئے کیونکہ اصل روزہ تو وہی کہلائے گا جو بارگاہِ خداوندی میں درجہ قبولیت پالے اور قبولیت پوشیدہ امور میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے بہتر ہے کہ ہر عمل خیر کے ساتھ ان شاء اللہ کہا جائے اور یہ قبول عمل میں شک کی بنیاد پر کہا جائے گا۔ کیونکہ عملِ صالح کے صحیح ہونے کی ظاہری شرائط پوری کرنے کے بعد کچھ پوشیدہ امور قبول عمل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جن کا علم رب العالمین جَلَّ جَلَالُہُ ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس شک کو اچھا قرار دیا جائے گا۔

یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اپنے ایمان کا اقرار ان شاء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ آخری بحث ہے جس پر ہم اپنے باب ”قواعدُ العقائد“ کو نقطہ اختتام کی طرف لائے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ! یہ باب اختتام کو پہنچا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمتیں ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ہر برگزیدہ بندے پر۔



﴿.....تَوْبُوا إِلَى اللّٰہِ اسْتَغْفِرِ اللّٰہِ.....﴾

﴿.....صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ.....﴾

## طہارت کا بیان

سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتے ہوئے انہیں پاکیزگی کا حکم فرمایا اور ان کے باطن کو پاک کرنے کے لئے ان پر مہربانیوں کا فیضان جاری کیا ان کے ظاہر کو پاک کرنے کے لئے رقیق اور بہنے والا پانی بنایا اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو جن کا نور ہدایت کائنات کے گوشے گوشے کو محیط ہے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پاکیزہ آل پر ایسی رحمت ہو جس کی برکات محشر کے دن ہمیں نجات دلائیں نیز ہمارے اور ہر مصیبت کے درمیان ڈھال کا کام دیں۔

طہارت کے متعلق حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے چند فرامین ملاحظہ فرمائیے:

### طہارت کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ

﴿1﴾..... ”بِنِي الدِّينِ عَلَى النَّظَافَةِ یعنی: دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔“ (۱)

﴿2﴾..... ”مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ یعنی: نماز کی کنجی طہارت ہے۔“ (۲)

(پاکیزگی حاصل کرنے والوں کی فضیلت میں) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهُروا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۸﴾ (پ ۱۰۸، التوبة: ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔

﴿3﴾..... ”الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔“ (۳)

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ ﴿۶﴾ (پ ۶، المائدة: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ بھاری رکھے ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے۔

ان روایات کے ظاہر سے اہل بصیرت نے جان لیا کہ سب سے زیادہ اہمیت باطن کی صفائی کی ہے کیونکہ

①..... الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الثاني في تكميل محاسنه، فصل واما نظافة جسمه..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۔

②..... سنن ابی داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، الحديث ۱۶، ج ۱، ص ۵۶۔

③..... سنن الترمذی، كتاب الدعوات، الحديث: ۳۵۳، ج ۵، ص ۳۰۸۔

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اس فرمان کہ ”صفائی نصف ایمان ہے“ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ظاہر کو تو پانی بہا کا پاک کر لیا جائے مگر باطن کو گندگیوں سے پاک نہ کیا جائے۔

### طہارت کے درجات:

طہارت کے چار درجات ہیں: (۱) ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں اور پاخانے وغیرہ سے پاک کرنا (۲) اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا (۳) دل کو برے اخلاق اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک کرنا (۴) باطن کو غیر اللہ سے پاک کرنا۔

آخری درجے کی طہارت انبیا و صدیقین کی طہارت ہے۔ ہر رتبہ میں طہارت اس عمل کا نصف ہے جس میں وہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً باطنی عمل (یعنی چوتھے درجے) میں مقصود یہ ہے کہ اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جلالت و عظمت ظاہر ہو جائے اور معرفتِ الہی باطن میں اس وقت تک جاگزیں نہیں ہو سکتی جب تک کہ غیر خدا کا خیال دل سے نہ نکل جائے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

قُلِ اللَّهُ لَا شَرَّ دَرَسُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگی میں کھیلتا۔ (پ۷، الانعام: ۹۱)

کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں (اور کسی کے دودل ہو نہیں سکتے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴿۲۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔ (پ۲۱، الاحزاب: ۲۱)

اور جہاں تک دل کی پاکیزگی (یعنی تیسرے درجے) کا معاملہ ہے تو اس میں اصل مقصود دل کی طہارت ہے اور اس کے دو درجے ہیں: (۱) دل کو اچھے اخلاق اور شرعی عقائد سے آباد کرنا اور (۲) برے عقائد اور ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک رکھنا ان میں سے ایک درجہ دوسرے کے لئے شرط ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ دل کی طرح اعضاء کی طہارت کے بھی دو درجے ہیں: (۱) انہیں ممنوعات سے پاک رکھنا اور (۲) طاعات سے مزین کرنا۔ اس میں پہلا درجہ دوسرے کے لئے شرط ہے۔ یہ ایمان کے درجات ہیں اور ہر درجے کے لئے ایک طبقہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے تک رسائی نہیں پاسکتا جب تک نچلے درجے سے اوپر نہ چلا جائے۔

## بلند مقام پر فائز ہونے سے مانع عمل:

بندہ اس وقت تک باطن کو مذموم صفات سے پاک اور اچھی عادات سے آباد نہیں کر سکتا جب تک کہ دل کو بری عادت سے پاک اور اچھے اخلاق سے مزین نہ کر لے اور جو شخص اعضاء کو ممنوعات (ناپسندیدہ امور) سے پاک اور عبادت سے معمور نہ کر لے وہ بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ پس جب مطلوب قابلِ عز و شرف ہو تو اس کا راستہ دشوار اور طویل ہوتا ہے اور گھاٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ چیز با آسانی حاصل ہو جائے گی۔ البتہ! جو شخص ان درجات میں فرق کو نہیں سمجھ سکتا وہ طہارت کا آخری درجہ ہی سمجھ سکتا ہے (یعنی ظاہر کو گندگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا) جو کہ مطلوبہ مغز کے اعتبار سے آخری ظاہری چھلکا ہے وہ اس میں بہت غور و خوض کرتا اور اس کے طریقوں میں مبالغہ کرتا ہے۔ نیز اپنے تمام اوقات استنجا کرنے، کپڑے دھونے، ظاہر کی صفائی کرنے اور بہنے والے وافر پانی کی طلب میں گزار دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے وسوسے اور عقلی گمان میں یہی سمجھتا ہے کہ طہارت جو مطلوب ہے وہ یہی ہے۔ ایسا شخص اسلاف کی سیرت سے ناواقف ہے اور نہیں جانتا کہ اسلاف تو ظاہری امور کے مقابلے میں اپنی تمام فکر و ہمت اور کوشش دل کی صفائی میں لگا دیتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور دیگر اہل صفہ فرماتے ہیں کہ ”ہم بھنا ہوا گوشت کھاتے پھر نماز کا وقت ہو جاتا تو ہم اپنی انگلیاں کنکر یوں میں ڈال کر مٹی سے پونچھ لیتے اور تکبیر کہتے۔“ (۱)

امیر المؤمنین حضرت سیّدنا عمر فاروقِ اعظمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ”زمانہ رسالت میں ہم اشنان (ایک قسم کی بوٹی جو صابن کی مثل صفائی کا کام دیتی ہے) کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ ہمارے رومال ہمارے پاؤں کے تلوے ہی ہوتے تھے۔ جب ہم چکنائی والی چیز کھاتے تو ہاتھوں کو تلووں ہی سے صاف کر لیتے تھے۔“ (۲)

## سب سے پہلی بدعتیں:

منقول ہے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بعد سب سے پہلے چار بدعتیں ظاہر ہوئیں:

①.....سنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمۃ، باب الشواء، الحدیث: ۳۳۱، ج ۲، ص ۳۱۔

②.....قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة.....الخ، ج ۳، ص ۲۳۹۔

(۱)..... چھانی (۲)..... اشنان (۳)..... ٹیبل اور (۴)..... پیٹ بھر کر کھانا۔

## جوتے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟<sup>(۱)</sup>

الغرض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کی تمام تر توجہ باطن کی صفائی کی طرف ہوا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ ”جوتے پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَامُ نے آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو توجہ دلائی کہ نعلین پاک میں کچھ لگ گیا ہے تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جوتے اتار دیئے، صحابہ کرام رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِمُ اَجْمَعِیْن نے بھی جوتے اتار دیئے تو آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے استفسار فرمایا: ”تم نے جوتے کیوں اتارے؟“ (۳)

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 1، ص 469 پر اس حدیث پاک کہ ”یہودی کی مخالفت کرو وہ نہ جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں نہ موزوں میں“ کے تحت فرماتے ہیں: یعنی یہود جوتے یا موزے میں نماز جائز نہیں سمجھتے تم جائز سمجھو، خیال رہے کہ موزوں میں نماز ادا کرنا سنت ہے لیکن جوتے اگر پاک ہوں اور اتنے نرم کہ سجدہ میں حرج واقعہ نہ ہو کہ پاؤں کی انگلیاں بخوبی مڑ کر قبلہ رو ہو سکیں تو ان میں نماز جائز ہے ہمارے ملک کی جوتیاں نماز کے قابل نہیں نیز اب لوگ صحابہ کرام (رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِمُ اَجْمَعِیْن) جیسے باادب نہیں اگر انہیں جوتوں میں نماز کی اجازت دی جائے، تو مصلے اور مسجدیں گندگی سے بھر دیں گے اس لیے اب جوتے اتار کر ہی مسجدوں میں آنا اور نماز پڑھنا چاہیے (از مرقاة و شامی) اس سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی مخالفت کے لیے جائز کام ضرور کرنا چاہئیں جیسے اس زمانے میں میلاد شریف اور گیارہویں، (صاحب) مرقاة نے فرمایا کہ چونکہ اب یہود ہمارے علاقے میں رہے نہیں، اس لیے اب جوتا پہننے ہوئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ مسجد یا نماز کے ادب کے لیے جوتا اتارنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب (عَزَّوَجَلَّ) فرماتا ہے: فَاحْلَحْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۶﴾ (طہ: ۱۲) اے موسیٰ تم عزت والے جنگل میں ہو جوتے اتار دو، بعض باادب مرید اپنے شیخ کے شہر میں جوتے نہیں پہنتے، امام مالک زمین مدینہ میں کبھی گھوڑے یا کسی اور سواری پر سوار نہ ہوئے، ان کے آداب کا ماخذ یہ آیت ہے اور یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی النعل، الحدیث: ۶۵، ج ۱، ص ۲۶۱۔

③..... مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 1، ص 470 پر اس حدیث مبارکہ کے تحت ہے: یہ سب کچھ تھوڑی سی حرکت سے ہوا، ورنہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ حدیث کے ”جب قوم نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے“ کے تحت فرماتے ہیں: اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم) کی پیر دی بہر حال کی جائے وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے دیکھو صحابہ کرام (عَلِیْہِمُ الرِّضْوَانُ) نے حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو نعلین اتارتے دیکھا تو بغیر وجہ کی تحقیق کیے جوتے اتار دیئے اور سرکار نے اس اتباع پر اعتراض نہ فرمایا، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام (عَلِیْہِمُ الرِّضْوَانُ) نماز میں بجائے سجدہ گاہ کے اپنے ایمان گاہ یعنی حضور انور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کو.....

حضرت سیدنا امام مخنی علیہ رحمۃ اللہ القوی (نمازیں) جوتے اتارنے کا رد کرتے ہوئے جوتے اتارنے والوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے: ”میں چاہتا ہوں کہ کوئی حاجت مند آئے اور ان کے جوتے لے کر چلتا بنے۔“

نیز اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام (ظاہری) امور میں بہت کم توجہ دیتے تھے بلکہ گلی کوچوں کے کچھڑ سے ننگے پاؤں گزر جاتے، اس پر بیٹھ جاتے، مساجد میں زمین پر (کچھ بچھائے بغیر) نماز ادا کر لیتے، گندم اور جو کا آٹا استعمال کر لیتے حالانکہ وہ جانوروں کے ذریعے گا جاتا اور وہ اس پر چلتے ہیں، وہ نجاست میں لوٹ پوٹ ہونے والے اونٹوں اور گھوڑوں کے پسینے سے نہیں بچتے تھے۔ اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے نجاست کی باریکیوں کے متعلق سوال کیا ہو، اس معاملے میں وہ اس حد تک بے توجہ رہتے تھے۔

### برائی نیکی اور نیکی برائی بن گئی:

اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک گروہ نے جہالت کا نام پاکیزگی رکھ دیا ہے اور اسے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کا زیادہ وقت ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے جیسا کہ دلہن کنگھی سے بالوں کو سنوارتی ہے۔ جبکہ ان کا باطن خراب اور غرور و تکبر، خود پسندی، جہالت، ریا اور نفاق سے بھرا ہوا ہے اور حد تو یہ ہے کہ وہ ان برائیوں کو ناپسند ..... دیکھا کرتے تھے ورنہ انہیں آپ کے اس فعل شریف کی خبر کیسے ہوتی جیسے مسجد حرم شریف کا نمازی نماز میں کعبہ کو دیکھے ایسے ہی حضور (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) کے پیچھے نماز پڑھنے والا نماز میں حضور انور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کو دیکھے۔ حدیث کے جز ”ان میں گندگی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: تھوک ریخت وغیرہ گھن کی چیز نہ کہ پلیدی اور نجاست ورنہ نماز کا لوٹانا واجب ہوتا کیونکہ اگر گندے کپڑے گندے جوتے میں نماز شروع کر دی جائے پھر پتال لگے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے واقعہ یہ تھا کہ حضور انور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے خیال فرمایا یہ چیزیں پاک ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنے میں مضائقہ نہیں رب (عَزَّ وَجَلَّ) نے جبریل امین (عَلِیْہِ السَّلَام) کو بھیجا کہ پیارے تمہاری شان کے یہ بھی خلاف ہے تمہارے لباس پاک بھی چاہئیں سترے بھی الہذا حدیث پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ حضور (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) نے نماز لوٹائی کیوں نہیں اور نہ یہ اعتراض کہ حضور (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) کو اپنے نعلین کی بھی خبر نہیں اوروں کی کیا خبر ہوگی جو شہنشاہ زمین پر کھڑے ہو کر اندرون زمین کا عذاب دیکھ لے اور عذاب قبر کی وجہ جان لے اور جو یہ فرمانے کہ نماز صحیح پڑھا کرو مجھ پر تمہارے رکوع سجدے دل کا خشوع خضوع پوشیدہ نہیں اس پر اپنے نعلین کا حال کیسے چھے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کی ہر ادا کی نگرانی فرماتا ہے کیوں نہ ہو خود فرماتا ہے۔ قَائِلًا بِأَعْيُنِنَا (ب ۲، الطور: ۴۸) اے محبوب تم ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام (عَلِیْہِمُ الرِّضْوَان) عین نماز میں حضور انور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی ادائیں دیکھتے تھے اور حضور انور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی نقل کرتے تھے۔

نہیں جانتے اور نہ ہی ان پر تعجب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف پتھر سے استنجا کرے یا زمین پر ننگے پاؤں چلے یا زمین پر نماز پڑھے یا مصلیٰ بچھائے بغیر مسجد کی چٹائی پر نماز پڑھے یا چمڑے کا موزہ پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے یا کسی بڑھیا یا بے پرواہ شخص کے برتن سے وضو کرے تو اس پر قیامت ڈھادیے اور اعتراض کرتے ہیں۔ اسے ناپاک ٹھہراتے اور اپنے گروہ سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کھانا پینا اور میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے اور وہ شکستہ حالی جو ایمان کا حصہ ہے اسے ناپاک کی ٹھہراتے اور تکبر کو پاکیزگی کا نام دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیسے برائی نیکی اور نیکی برائی بن گئی اور دین کے رسم و رواج ایسے مٹتے چلے گئے جیسے اس کی حقیقت و علم مٹ گیا۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں کہ صوفیانے اپنی شکل و صورت اور پاکیزگی کے معاملے میں جو عادات اپنا رکھی ہیں کیا ہم انہیں ممنوعات و منکرات کہہ سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر تفصیل کے مطلق ایسی بات کہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حصول پاکیزگی، تکلف، برتن و آلات تیار کرنا، جوتے استعمال کرنا، گردوغبار سے بچنے کے لئے چادر اوڑھنا اور اس کے علاوہ اسباب کو اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے کوئی دوسری چیز ملحوظ نہ ہو تو یہ چیزیں مباح ہیں۔ بعض اوقات ان کے ساتھ کچھ احوال اور نیتیں ملحق ہوتی ہیں جو انہیں کبھی اچھے کاموں سے ملا دیتی ہیں اور کبھی برے کاموں سے۔

### اشیاء کا مباح، مذموم اور محمود ہونا:

جہاں تک ان مذکورہ چیزوں کے ذاتی طور پر مباح ہونے کا تعلق ہے تو یہ بات مخفی نہیں کہ بندہ ان کے ذریعے اپنے مال، بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا اور ان کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے جب تک کہ اسراف اور مال کا ضیاع نہ ہو۔ ان چیزوں کے مذموم ہونے کی دو صورتیں ہیں: (۱) یا تو انہیں اس فرمان رسول کی تفسیر قرار دے کر دین کی اصل قرار دیا جائے کہ ”بِنِيِّ الدِّينِ عَلَى النِّظَافَةِ“ یعنی دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔<sup>(۱)</sup> حتیٰ کہ اسلاف کی طرح جو اس پر کم توجہ دے اس کا رد کیا جائے۔ (۲) یا ان چیزوں کا مقصد مخلوق کے لئے ظاہری زیبائش اور ان جگہوں کو سنوارنا ہے جہاں

①.....الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الثانی فی تکمیل محاسنه، فصل واما نظافة جسمه.....الخ، ج ۱ ص ۶۱۔



لوگوں کی نظر پڑتی ہے اور یہ ریا ہے جو کہ ممنوع ہے۔ پس ان دو وجہوں سے یہ چیزیں منکر یعنی بری ہیں۔ جہاں تک اشیاء کا معروف (محمود و نیکی) ہونے کا تعلق ہے تو اس سے بھلائی مقصود ہونہ کہ زیب و زینت اور اسے ترک کرنے والے کا رد نہ کیا جائے، نہ اس کے سبب اوّل وقت سے نماز کو مؤخر کیا جائے اور نہ ہی اس میں مشغول ہو کر اس سے افضل عمل یا علم وغیرہ کو ترک کیا جائے۔ لہذا مذکورہ افعال میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو یہ جائز ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت سے عبادت بن جائے لیکن یہ چیز نکلے لوگوں کو حاصل ہے کہ اگر وہ نماز میں وقت صرف نہ کریں تو نیند یا فضول باتوں میں مشغول ہو جائیں گے تو ان کا اس میں مشغول ہونا بہتر ہے۔ کیونکہ پاکیزگی کے حصول میں مشغولیت سے ذکر الہی اور عبادات کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جب یہ برائی یا اسراف کی طرف نہ لے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

## اہل علم و عمل کے اوقات قیمتی جو ہر ہیں:

اہل علم و عمل کو اپنے اوقات ان (یعنی طہارت و پاکیزگی کے) کاموں میں بقدر حاجت ہی صرف کرنے چاہئیں۔ ان کے حق میں زیادہ وقت صرف کرنا برا اور اس عمر کو ضائع کرنا ہے جو قیمتی جوہر اور اس سے نفع اٹھانے پر قادر شخص کے لئے انتہائی عزیز ہے اور اس پر تعجب نہیں کرنا چاہئے (کہ ایک ہی چیز بعض کے حق میں بری ہے اور بعض کے حق میں اچھی) کیونکہ نیکیوں کی نیکیاں مقررین کے لئے برائیاں ہوتی ہیں اور نکلے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ پاکیزگی کا اہتمام نہ کریں اور صوفیا کا رد کریں اور خود کو صحابہ کرام رَضَوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی مشابہت کرنے والا گمان کریں کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت تو تب ہے کہ اس سے اہم کام کے لئے فارغ ہوں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ ”آپ داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے؟“ تو فرمایا: ”میرے پاس اس کے لئے وقت کہاں؟“ (حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَالِیِّ فَرَمَاتے ہیں: اسی وجہ سے میں عالم، متعلم (طالب علم) اور عمل کرنے والے کے لئے جائز نہیں سمجھتا کہ وہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں سے احتراز کریں اور یہ گمان کریں کہ اس نے دھونے میں کوتاہی کی ہوگی<sup>(۱)</sup> اور یوں خود کپڑے دھونے میں وقت ضائع کریں۔ پہلے زمانے میں لوگ دباغت کئے

①..... فتاویٰ امجدیہ، جلد اول، ج 1، ص 30 تا 31 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ.....

ہوئے چڑے پر نماز پڑھ لیتے تھے ان میں سے کسی کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس نے طہارت و نجاست کے معاملے میں دُھلے ہوئے اور دباغت کئے ہوئے کپڑوں میں فرق کیا ہو بلکہ جب وہ خود نجاست دیکھتے تو اس سے اجتناب کرتے اور دقیق (یعنی گہرے اور مشکل) احتمالات کی تلاش میں نہیں رہتے تھے بلکہ ریا و ظلم کی باریکیوں کے بارے میں سوچتے تھے۔

## فضول خرچی پر مددگار:

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَوی کے رفیق سفر نے ایک مکان کے بلند و بالا دروازے کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا: ”ایسا نہ کریونکہ اگر لوگ اس مکان کی طرف نہ دیکھتے تو مکان والا اس پر اتنا اسراف نہ کرتا۔“ پس اس کی طرف دیکھنے والا بھی فضول خرچی پر مددگار ہے۔

اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّاکِمِ اپنے ذہنوں کو اس طرح کی باریکیوں میں استعمال کرتے تھے، نجاست کے احتمالات کے متعلق غور و فکر نہیں کرتے تھے۔

## دُنْیَا وَمَا فِیْہَا سے افضل:

اگر کسی عالم کو کوئی ایسا عام شخص ملے جو احتیاطاً اس کے کپڑے دھوئے تو افضل ہے کہ یہ سستی کی بنسبت بہتر ہے اور وہ عام شخص اس دھونے کے سبب نفع حاصل کرتا ہے کیونکہ وہ باریوں کا حکم دینے والے نفس کو فی نفسہ جائز کام میں مشغول رکھتا ہے۔ لہذا اس حال میں وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے کہ اگر نفس کسی کام میں مشغول نہ ہو تو وہ انسان کو (گناہوں میں) مشغول کر دیتا ہے اور اگر اس عام شخص کا مقصد عالم کا قرب حاصل کرنا ہو تو یہ اس کے نزدیک افضل عبادت ہے اور عالم کا وقت اس طرح کے کاموں میں استعمال ہونے سے افضل ہے تو یوں یہ وقت محفوظ رہے گا اور عام شخص کا افضل وقت وہ ہے جو اس طرح کے کاموں میں صرف ہو اور اسے ہر طرف سے وافر بھلائی ملے گی۔

اس مثال سے اس قسم کے دوسرے اعمال، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعض کے بعض پر مقدم ہونے کے متعلق

..... اللّٰهُ الْعَوی سے سوال ہوا کہ ”دھوبی کو اگر ناپاک کپڑا دیا جائے تو پاک ہو کر آتا ہے یا نہیں۔“ جواب میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”بہتر تو یہی ہے کہ پاک کر کے دھوبی کو کپڑے دیئے جائیں اور ناپاک کپڑا دیا تو دھل کر پاک ہو جائے گا۔“

معلوم کرنا چاہئے۔ زندگی کے لمحات کو اچھے کاموں میں صرف کرنے کے لئے ان کا حساب کتاب کرنا امور دنیا اور اس کے تمام مال و اسباب میں غور و فکر کرنے سے افضل ہے۔

جب آپ نے ابتدائی کلام سمجھ لیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ طہارت کے چار درجات ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ ہم اس کتاب میں صرف چوتھے درجہ یعنی ظاہری طہارت پر کلام کریں گے اس لئے کہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم صرف ظاہری طہارت کی بحث کریں گے۔ چنانچہ،

### ظاہری طہارت کی اقسام:

ظاہری طہارت (پاکی حاصل کرنے) کی تین قسمیں ہیں: (۱).....نجاست سے طہارت (۲).....نجاست حکمی سے پاکی حاصل کرنا (۳).....بدن کے فضلات سے طہارت اور یہ ناخن کاٹنے، (زیر بغل و زیر ناف بال صاف کرنے کے لئے) اُستر ایچونا استعمال کرنے اور ختنہ سے حاصل ہوتی ہے۔



### ﴿.....مزار پر حاضری کا طریقہ.....﴾

بزرگوں کے پاس قدموں کی طرف سے حاضر ہونا چاہئے، پیچھے سے آنے کی صورت میں انہیں مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے۔ لہذا مزار اولیا پر بھی پانٹنی (قدموں) کی طرف سے حاضر ہو کر قبلہ کو پیٹھ اور صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کم از کم چار ہاتھ (دو گز) دور کھڑا ہو اور اس طرح سلام عرض کرے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ایک بار سورۃ فاتحہ اور 11 بار سورۃ اخلاص (اول آخرا یک بار درود شریف) پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ ”اَحْسِنُ

الْوَعَاءُ“ میں ہے، ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ (ماخوذ از مدنی پنج سورہ، ص ۱۳)

## باب نمبر ۱: نجاست سے طہارت حاصل کرنا

اس میں تین فصلیں ہیں: (۱)..... یہ مد نظر رکھنا کہ کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے (۲)..... کس چیز سے دور کیا جا رہا ہے اور (۳)..... دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

### پہلی فصل: زائل کی جانے والی نجاست کا بیان

اشیاء تین قسم کی ہیں:

(۱)..... جمادات (۲)..... حیوانات اور (۳)..... حیوانات کے اجزا۔ شراب اور ہر جھاگ والی نشہ آور چیز کے سوا تمام جمادات پاک ہیں۔ کتے اور خنزیر اور ان دونوں یا کسی ایک سے پیدا ہونے والوں کے سوا تمام حیوانات پاک ہیں۔ لیکن جب یہ مرجائیں تو پانچ کے علاوہ تمام حیوانات ناپاک ہو جاتے ہیں: (۱)..... انسان (۲)..... مچھلی (۳)..... مکڑی (۴)..... سیب کا کیڑا اور (۵)..... کھائی جانے والی ہر وہ چیز جو اپنی اصلی حالت پر نہ رہے اور ہر حیوان جس میں بہنے والا خون نہ ہو جیسے مکھی، گبریلا (یہ ایک کیڑا ہے جو گوبر میں ہوتا ہے) وغیرہ۔ لہذا ان میں سے کسی کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

### حیوانات<sup>(۱)</sup> کے اجزا کی اقسام اور ان کا حکم:

جہاں تک حیوانات کے اجزا کا معاملہ ہے تو ان کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... وہ جنہیں کاٹا جاتا ہے اور ان کا حکم وہی ہے جو مردہ کا ہے۔ بال کاٹنے اور (جانور کے) مرنے سے نجس نہیں ہوتے جبکہ ہڈی نجس ہو جاتی ہے۔ (۲)..... اندر سے نکلنے والی رطوبات: جو تبدیل نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانا ہے وہ پاک ہیں جیسے آنسو، پسینہ، تھوک اور ریٹھ اور جن کا کوئی ٹھکانا ہے اور وہ بدل جاتی ہیں تو ناپاک ہیں (جیسے خون، پیشاب اور گندگی وغیرہ)۔ البتہ! جو حیوان کی

①..... جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذبح شرعی سے اون کا گوشت اور چربی اور چمڑا پاک ہو جاتا ہے مگر خنزیر کہ اس کا ہر جز نجس ہے اور آدمی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعمال ناجائز ہے۔ (درمختار) ان جانوروں کی چربی وغیرہ کو اگر کھانے کے سوا خارجی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو ذبح کر لیں کہ اس صورت میں اس کے استعمال سے بدن یا کپڑا نجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعمال کی قباحت

سے بھی بچنا ہوگا۔ (بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱، ص ۳۲۷)

اصل ہو وہ پاک ہے جیسے منی<sup>(۱)</sup> اور انڈہ کہ پاک ہیں اور تمام حیوانات کی پیپ، خون، گوبر اور پیشاب نجس ہیں۔ ان نجاستوں میں سے پانچ کے علاوہ کسی میں سے کچھ بھی معاف نہیں اگرچہ تھوڑا ہو (وہ پانچ یہ ہیں):

﴿1﴾..... پتھروں سے استنجا کرنے کے بعد نجاست کا اثر جب تک مخرج سے تجاوز نہ کرے، معاف ہے۔

﴿2﴾..... راستوں کی کیچڑ اور گوبر کا غبار معاف ہے اگر اتنی نجاست کے لگے ہونے کا یقین ہو جس سے بچنا مشکل ہے اور یہ وہ مقدار ہے کہ اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو کیچڑ میں تھیڑا ہے یا یہ اُس میں گرا ہے۔

﴿3﴾..... موزے کے پیچھے لگی ہوئی وہ نجاست (۲) کہ اس سے راستہ خالی نہیں ہوتا لہذا رگڑنے کے بعد کچھ رہ جائے تو وہ ضرورت کے تحت معاف ہے۔

①..... احناف کے نزدیک منی ناپاک ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۳۹۰) منی وہ گاڑھا سفید پانی ہے جس کے نکلنے کی وجہ سے ذکر کی ہندی اور انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ (تحفة الفقہاء، ج ۱، ص ۲۷)

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 40 صفحات پر مشتمل رسالہ ”کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان“ میں شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطا نقادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: نجاست کی دو قسمیں ہیں: (۱) نجاست غلیظہ (غ۔ لی۔ ظہ) (۲) نجاست خفیفہ (خ۔ فی۔ ثہ)۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو نجاست غلیظہ ہے جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھرتے، حیض و نفاس و استحاضے کا خون، منی، مدی، ودی۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، (جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ) ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب اور جس پرند کا گوشت حرام ہے، خواہ شکاری ہو یا نہیں، (جیسے کوا، چیل، شکرہ، باز) اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، مثلاً آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کئے نماز نہ ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں: ”اور پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سُوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں، تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔“ (ماخوذ از نجاست کا بیان مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ) مزید معلومات کے لئے ”نجاست کا بیان مع کپڑے پاک کرنے کا طریقہ“ نامی رسالہ کا مطالعہ فرمائیے۔

﴿4﴾..... پُسو کا خون تھوڑا ہو یا زیادہ، معاف ہے۔ البتہ یہ کہ وہ عادت سے بڑھ جائے خواہ وہ تمہارے کپڑے میں لگے یا کسی دوسرے کے کپڑے میں لگے اور تم اُسے پہن لو۔

﴿5﴾..... پھنسیوں کا بہنے والا خون اور پیپ<sup>(۱)</sup> وغیرہ معاف ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چہرے پر پھنسی تھی اس سے خون نکل آیا تو آپ نے اسے دھوئے بغیر نماز پڑھ لی۔ وہ زخم جو ناسور کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ان سے نکلنے والی رطوبت اور چھنچھنے لگوانے سے نکلنے والے خون کا بھی یہی حکم ہے۔ مگر وہ پھنسیاں جو کبھی کبھی نکلتی ہیں ان کا حکم استحاضہ<sup>(۲)</sup> کے خون جیسا ہے۔ یہ ان پھنسیوں کے حکم میں نہیں ہوں گی جن سے انسان کسی حال میں پاک نہیں رہ سکتا۔

مذکورہ پانچ قسم کی نجاستوں میں شریعت کی رعایت سے آپ نے جان لیا کہ طہارت کا معاملہ کتنا آسان ہے اور اس میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

﴿..... تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿..... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 304 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ ”خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہے گا اگر صرف چپکایا ابھرا اور بہا نہیں جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آگئی وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۱۰)

②..... وہ خون جو عورت کے آگے کے مقام سے کسی بیماری کے سبب نکلے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۲، ص ۳۷۱)

## نجاست زائل کرنے والی چیز

دوسری فصل:

نجاست زائل کرنے والی چیز کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... یا تو وہ چیز جامد ہوگی (۲)..... یا مائع (بننے والی)۔ جامد جیسے استنجا کے پتھر جو پاک بھی کرتے ہیں اور خشک بھی ہیں بشرطیکہ وہ سخت، پاک، خشک کرنے والے ہوں اور قابل احترام نہ ہوں۔

مانعات میں سے صرف پانی نجاست کو زائل کرتا ہے اور ہر پانی نہیں بلکہ ایسا پاک پانی جو کسی غیر ضروری چیز کے ملنے سے بدل نہ گیا ہو۔ اگر نجاست کے ملنے سے پانی کے تین اوصاف ذائقہ، رنگ اور بو میں سے کوئی دو تبدیل ہو جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا<sup>(۱)</sup> (اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے پانی کی پاکی و ناپاکی کے بارے میں ایک دقیق و پیچیدہ بحث فرمائی ہے۔ اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس بحث کے آخر میں فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ ہر مائع چیز کی خاصیت ہے کہ اپنے اندر گرنے والی چیز کو اپنی صفت پر لے آتی ہے اور وہ چیز اس میں مغلوب ہو جاتی ہے جیسے تم کتے کو دیکھتے ہو کہ وہ نمک (کی کان) میں گر کر نمک ہو جاتا ہے تو نمک بن جانے نیز کتا ہونے کا وصف زائل ہونے کے سبب اسے پاک قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکہ اور دودھ پانی میں مل جائیں اور کم مقدار میں ہوں تو ان کی صفت باطل ہو جاتی ہے، پانی کی صفت کا ہی تصور ہوتا ہے اور ان میں پانی کی طبیعت آ جاتی ہے۔ البتہ زیادہ ہو اور غالب آ جائے تو الگ بات ہے اور اس کا غلبہ اس کے ذائقہ، رنگ اور بو کے غلبہ سے معلوم ہوتا ہے اور یہی معیار ہے۔ شریعت نے قوی (تیز جاری) پانی کی نجاست کو زائل کرنے کے سلسلے میں اسی معیار کی طرف اشارہ کیا ہے اور بہتر یہی ہے کہ اسی پر اعتماد کیا جائے۔ پس اس سے حرج دور ہوتا ہے اور اسی سے اس کی صفت طہور (یعنی پاک کرنے والا ہونا) ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ جب یہ اس پر غالب ہوتا ہے تو اسے پاک کر دیتا ہے۔

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... یہ حکم مائے کیشا ہے جبکہ مائے قلیل یعنی تھوڑا پانی جو کہ دہ دردہ سے کم ہے اُس میں کوئی نجاست مل جائے تو وہ پانی نجس یعنی

ناپاک ہے۔ (ماخوذ از نور الايضاح مع مراقی الفلاح، ص ۳۰)

## تیسری فصل: نجاست زائل کرنے کے طریقے

نجاست کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... حکمیہ (۲)..... حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ: وہ ہے کہ جس کا محسوس جسم نہ ہو اس میں تمام جگہوں پر پانی بہانا کافی ہے اور نجاست حقیقیہ: وہ ہے کہ جس کا محسوس جسم ہو اس کے عین کو زائل کرنا ضروری ہے اور ذائقہ کا باقی رہنا عین کے باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے اسی طرح رنگ کا باقی رہنا بھی۔ البتہ جو نجاست جسم سے مل جائے تو کھرچنے کے بعد (جو زائل نہ ہو) معاف ہے۔ بو کا باقی رہنا بھی عین نجاست کی بقا پر دلالت کرتا ہے اس سے صرف اتنا معاف ہے کہ بو اتنی تیز ہو کہ اس کا ازالہ مشکل ہو۔ پس رنگ کے معاملے میں کئی بار ملنا اور ہر بار نچوڑنا کھرچنے کے قائم مقام ہوگا اور وسوسوں کو ختم کرنے کے لئے یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اشیاء کو پاک پیدا کیا گیا ہے لہذا جس چیز پر نجاست نظر نہ آئے اور یقینی طور پر اس کا ناپاک ہونا بھی معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اور نجاستوں کی مقدار مقرر کرنے کے لئے استنباط نہ کئے جائیں۔



### ﴿.....ام سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْفَ لَسَ كُنُوعًا.....﴾

حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بارگاہ رسالت میں عرض: ”یا رسولَ اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میری ماں انتقال کر گئی ہیں (میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں) کون سا صدقہ افضل رہے گا؟“ ارشاد فرمایا: ”پانی۔“ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا: ”یہ ام سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے لئے ہے۔“

(سنن ابی داؤد، الحدیث! ۱۶۸، ج ۲، ص ۱۸۰)



## باب نمبر 2: نجاست حکمی سے پاکی حاصل کرنا

اس میں وضو، غسل اور تیمم کا بیان ہے۔ ان سے پہلے استنجا کا بیان ہے۔

ہم اس کی سنتوں اور آداب کے ساتھ کیفیت بیان کریں گے اور اسباب وضو اور قضائے حاجت کے آداب سے ابتدا کریں گے۔

### قضائے حاجت کے آداب

قضائے حاجت کرنے والے کو چاہئے کہ ان آداب کو مد نظر رکھے: (۱)..... قضائے حاجت کے لئے لوگوں کی نظروں سے دور صحرا میں جائے۔ (۲)..... کوئی چیز پائے تو اس کے ساتھ پردہ کر لے۔ (۳)..... بیٹھنے کے بالکل قریب ہونے سے پہلے شرمگاہ کو نہ کھولے۔ (۴)..... سورج یا چاند کی طرف رخ نہ کرے۔ (۵)..... قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ بیٹھالبتہ اگر گھر میں ہو تو حرج نہیں<sup>(۱)</sup> لیکن گھر میں بھی بوقت قضائے حاجت قبلہ کی طرف منہ یا بیٹھ نہ کرنا افضل ہے اور اگر صحرا میں اپنی سواری کو پردہ بنا لے تو جائز ہے اسی طرح دامن سے بھی پردہ کر سکتا ہے۔ (۶)..... ایسی

①..... احناف کے نزدیک گھر میں ہوں یا صحرا میں کہیں بھی قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی سمت منہ یا بیٹھ نہ ہو۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 408 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ نقل فرماتے ہیں: پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہونہ بیٹھ اور یہ حکم عام ہے چاہے مکان کے اندر ہو، یا میدان میں اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا، تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لئے مغفرت فرمادی جائے۔

نیز دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل رسالے **غسل کا طریقہ** صفحہ 11 تا 12 پر ہے کہ ”اگر آپ کے حمام میں فُوَارِہ (SHOWER) ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا بیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجانے میں بھی اسی طرح احتیاط فرمائیے۔ قبلہ کی طرف منہ یا بیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے کے اندر اندر ہو۔ لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے (انگلی ANGLE) کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ مہر بانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے ڈبلیو۔سی (W.C) اور فُوَارِہ کے کاؤخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرمائیے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ W.C قبلہ سے 90 ڈگری پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ پر دیجئے۔ معماری معمولاً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کی لحاظ کرتے ہیں آداب قبلہ کی پروا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہئے۔

جگہ استنجا وغیرہ نہ کرے جہاں بیٹھ کر لوگ گفتگو کرتے ہوں۔ (۷)..... ٹھہرے ہوئے پانی، (۸)..... پھل دار درخت اور (۹)..... سوراخ میں بھی پیشاب نہ کرے۔ (۱۰)..... سخت جگہ اور (۱۱)..... ہوا کے رخ پر بھی پیشاب نہ کرے تاکہ چھینٹوں سے بچے۔ (۱۲)..... دوران استنجا بائیں (اٹے) پاؤں پر دباؤ ڈالے۔ (۱۳)..... اگر استنجا خانہ کسی عمارت میں ہو تو داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالے۔ (۱۴)..... کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے (کہ یہ خلاف سنت ہے)۔ جیسا کہ

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: ”جو شخص تم سے یہ کہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔“ (۱)

### کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”اے عمر! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا۔“ (۲) (ہاں بوقت ضرورت) کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے کیونکہ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا (۳)، پھر میں وضو کے لئے پانی لایا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔“ (۴)

①..... سنن الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی النهی عن البول قائماً، الحدیث: ۱، ج ۱، ص ۹۰۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب فی البول قاعداً، الحدیث: ۳۰۸، ج ۱، ص ۱۹۶۔

③..... منسفر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ وَرَأَةُ الْمَنَاجِيحِ، ج ۱، ص ۲۷۰ پر اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی کیونکہ کوڑی پر ہر جگہ نجاست ہی ہوتی ہے یا پاؤں شریف میں زخم یا پیٹھ میں درد تھا جس کے لئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مفید تھا۔ اطبا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر انگارے پر پیشاب کرنا ستر بیماریوں کا علاج ہے۔ (مرقاۃ اشعۃ للمعات) خیال رہے کہ اس موقع پر سرکار اونچی جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے جس سے پیشاب کی چھینٹوں سے محفوظ رہے ہوں گے۔

مزید معلومات کے لیے فتاویٰ رضویہ (مخرجہ) ج ۴، ص ۵۸۵ کا مطالعہ فرمائیے۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، الحدیث: ۲۷۴، ص ۱۵۸۔

(۱۵)..... غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔

### وسو سے پیدا ہونے کا سبب:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”عام وسو سے اسی (یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے) سے ہوتے ہیں (۱)۔“ (۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: غسل خانے میں پیشاب کرنے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس پر سے پانی بہہ جائے۔

نیز پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر اس میں وضو کرے گا کیونکہ عام وسو سے اسی سے ہوتے ہیں۔“ (۳)

حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”جاری پانی میں پیشاب کرنے میں حرج نہیں (۴)۔“ (۱۶)..... استنجا خانے میں ایسی چیز ساتھ نہ لے جائے جس پر اللہ عَزَّ وَجَلَّ یا رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نام مبارک ہو۔ (۱۷)..... استنجا خانے میں ننگے سر نہ جائے۔

### بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دُعا:

(۱۸)..... استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دُعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ

الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ“ یعنی: اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے نام سے شروع کرتا اور مردود پلید خبیث شیطان سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پناہ

۱..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَمِہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ج ۱، ص ۲۶۶ پر اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: اگر غسل خانے کی زمین پختہ ہو اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو تو وہاں پیشاب کرنے میں حرج نہیں اگرچہ بہتر ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر زمین کچی ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو تو پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ زمین نجس ہو جائے گی، اور غسل یا وضو میں گند پانی جسم پر پڑے گا۔

۲..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب کراہیۃ البول فی المغتسل، الحدیث: ۳۰، ج ۱، ص ۱۹۳۔

۳..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب کراہیۃ البول فی المغتسل، الحدیث: ۳۰، ج ۱، ص ۱۹۳۔

۴..... جاری پانی میں پیشاب، پاخانہ کرنا مکروہ ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ دوم، ص ۲۰۹)

چاہتا ہوں۔“ (۱)

## بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دُعا:

(۱۹)..... نکلنے کے بعد یہ دُعا پڑھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي لَعَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَا شَكَرَ بِهٖ كَمَا اس نَے مَھ سے اذیت كو ڈور كیا اور مَھ سے فائدہ دینے والی چیز كو باقی ركھا۔“ (۲)

(۲۰)..... استنجا کے لئے بیٹھنے سے پہلے ڈھیلوں کو گن لے۔ (۲۱)..... قضائے حاجت کی جگہ پانی سے استنجانہ کرے۔ (۲۲)..... استنجا کرنے کے بعد استبراکر لے (یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر کوئی قطرہ رکا ہو تو گر جائے اور یہ واجب ہے) اس کے تین طریقے ہیں: کھانسنے، عضو مخصوص کو تین بار جھاڑنے اور عضو مخصوص کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرنے سے۔ نیز اس معاملے میں زیادہ سوچ بچار نہ کرے کہ اس سے وسوسے پیدا ہوں گے اور اس پر معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ لہذا استبراک کے بعد جو تری وغیرہ محسوس کرے اسے باقی ماندہ پانی خیال کرے۔ اگر یہ بات اسے اذیت دیتی ہو کہ وسوسے پھر بھی دور نہ ہوں تو میانی (پاجامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے اس) پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے اور وسوسوں کی وجہ سے اس پر شیطان مسلط نہ ہو۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ”حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا یعنی (میانی پر) پانی کے چھینٹے مارے۔“ (۳)

پہلے کے لوگوں میں سے جو شخص استنجا سے جلدی فارغ ہوتا وہ ان میں زیادہ فقیہ ہوتا تھا کیونکہ استنجا میں وسوسہ فقہت کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔

## ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت:

حضرت سیّدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم ہڈی اور گوبر سے استنجانہ کریں اور ہمیں قبلہ

①..... المعجم الكبير، النضر بن انس عن زيد بن ارقم، الحديث: ۵۰۹، ج ۵، ص ۲۰۴، باختصار۔

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الطہارات، ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، الحديث: ۵، ج ۱، ص ۱۲۔

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الطہارات، ما یقول اذا خرج من المخرج، الحديث: ۱، ج ۱، ص ۶۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارة، باب ماجاء فی النضح بعد الوضوء، الحديث: ۴۶، ج ۱، ص ۲۶۹۔

رُو ہو کر بول و براز کرنے سے منع فرمایا۔“ (۱)

کسی صحابی سے ایک اعرابی کا جھگڑا ہو گیا، کہنے لگا: میرا خیال ہے کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح نہیں آتا تو صحابی نے فرمایا: ”مجھے اس میں مہارت حاصل ہے کہ آبادی سے دور جاتا ہوں، ڈھیلے گن کر رکھتا ہوں، گھاس اکٹھی کر کے سامنے رکھتا ہوں، ہوا کی طرف پیٹھ کرتا ہوں، ہرن کی طرح (بچوں پر دباؤ ڈال کر) بیٹھتا ہوں، شتر مرغ کی طرح پچھلے مقام کو اوپر اٹھاتا ہوں۔“

انسان کو پردے کا اہتمام کر کے کسی شخص کے قریب استنجا وغیرہ کرنا جائز ہے کہ ”انتہائی باحیا ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امت کی رہنمائی کے لئے ایسا کیا۔“ (۲)

### استنجا کا طریقہ:

تین ڈھیلوں سے اپنی پیشاب گاہ کو صاف کرے اگر ان سے صاف ہو جائے تو کافی ہے ورنہ چوتھا پتھر استعمال کرے اور صفائی حاصل ہو جائے تب بھی پانچواں پتھر استعمال کرے کیونکہ صاف کرنا واجب ہے اور طاق پتھروں کا استعمال سنت ہے کہ سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مَنِ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوْتِرْ یعنی: جو شخص پتھروں کا استعمال کرے تو وہ طاق عدد میں پتھر استعمال کرے۔“ (۳)

### پتھر استعمال کرنے کا طریقہ:

پتھر بائیں (اُلے) ہاتھ میں لے اور پیشاب گاہ کے اگلے حصے پر نجاست کی جگہ سے پہلے رکھے اور پونچھتا ہوا پیچھے کی طرف لے جائے۔ پھر دوسرا پتھر لے اور اسی طرح پچھلے حصے پر رکھ کر آگے کی طرف لے آئے۔ پھر تیسرا پتھر لے کر اسے ایک بار شرم گاہ کے ارد گرد پھیرے اگر پھیرنا مشکل ہو تو پونچھتے ہوئے آگے سے پچھلی طرف لے جائے تو بھی کافی ہے۔ پھر دائیں (سیدھے) ہاتھ میں بڑا سا پتھر لے کر عضوِ مخصوص کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس پر پتھر کو رگڑے اور عضوِ مخصوص کو حرکت دے اور تین دفعہ ایک ہی پتھر سے تین جگہوں سے پونچھے یا تین پتھروں سے پونچھے یا دیوار کی

①..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الاستطابۃ، الحدیث ۲۶۲، ص ۱۵۴۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، الحدیث ۲۷۴، ص ۱۵۸۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الایتار فی الاستنثار..... الخ، الحدیث ۲۳۴، ص ۱۴۶۔

تین جگہوں کے ساتھ صاف کرے یہاں تک کہ پونچھنے والی جگہ پر تری نظر نہ آئے۔ دوسرے میں صفائی حاصل ہو جائے تب بھی تین بار کرے اگر ایک پتھر پر اکتفا کرے تو (پتھر کی علیحدہ علیحدہ) تین جگہوں سے صاف کرنا واجب ہے اگر چار پتھروں سے صفائی حاصل ہو جائے تو طاق پر عمل کے لئے پانچویں پتھر کا استعمال مستحب ہے۔ پھر اس جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے اور پانی سے صفائی حاصل کرے، یوں کہ دائیں (سیدھے) ہاتھ سے جائے نجاست (یعنی مقعد) پر پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے صاف کرے یہاں تک کہ ایسا اثر باقی نہ رہے کہ تھیلی لگانے سے اس کا احساس ہو اور اس معاملے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے کہ یہ وسوسوں کی جگہ ہے۔

جان لیجئے کہ باطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچتا اور باطنی فضلات جب تک ظاہر نہ ہوں ان پر نجاست کا حکم نہیں لگایا جاتا، جو نجاست ظاہر ہے اور اس کے لئے نجاست کا حکم ثابت ہے تو اس کے ظہور کی حد یہ ہے کہ پانی اس تک پہنچ کر اسے ختم کر دے وسوسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

### استنجا سے فراغت کے بعد کی دُعا:

استنجا سے فارغ ہو کر یہ دُعا کرے: ”اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ يَعْنِي اے اللہ عزَّوَجَلَّ! میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میری شرمگاہ کو بے حیائی کے کاموں سے بچا۔“

### اہل قبا کی فضیلت:

(استنجا سے فراغت کے بعد) اگر ہاتھ میں بو باقی ہو تو ہاتھ کو دیوار یا زمین سے رگڑے (تا کہ بو ختم ہو جائے)۔ پتھروں اور پانی دونوں سے استنجا کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِطُّوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۸﴾ (ب، ا، التوبة: ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔

تو حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اہل قبا سے ارشاد فرمایا: ”یہ کون سی طہارت ہے جس پر اللہ عزَّوَجَلَّ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”ہم پتھروں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔“ (۱)

①.....تلخیص الحبیرفی تخریج احادیث الرفعی الکبیر، کتاب الطہارۃ، باب الاستنجا، ج ۳، ص ۳۲۲-۳۲۳۔

## وضو کا طریقہ

استنجا سے فراغت کے بعد وضو میں مشغول ہو جائے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو وضو فرماتے اور مسواک سے ابتدا کرتے۔

### مسواک کے متعلق سات فرامینِ مصطفیٰ

﴿1﴾..... بلاشبہ تمہارے منہ قرآنِ پاک کے راستے ہیں پس انہیں مسواک سے صاف کرو۔<sup>(۱)</sup>  
 نیت: مسواک کرتے ہوئے یہ نیت کرنی چاہئے کہ میں نماز میں قراءتِ قرآن اور ذکرُ اللہ کے لئے منہ صاف کرتا ہوں۔

- ﴿2﴾..... مسواک (والے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز سے پچھتر درجے افضل ہے۔<sup>(۲)</sup>  
 ﴿3﴾..... اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔<sup>(۳)</sup>  
 ﴿4﴾..... کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم میرے پاس پیلے دانتوں کے ساتھ آجاتے ہو مسواک کیا کرو۔<sup>(۴)</sup>  
 ﴿5﴾..... حضور انور، شافعِ روزِ محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رات کو بار بار مسواک کرتے تھے۔<sup>(۵)</sup>  
 ﴿6﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمیشہ ہمیں مسواک کا حکم دیتے رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ عنقریب آپ پر اس بارے میں کچھ (حکم) نازل ہوگا۔<sup>(۶)</sup>  
 ﴿7﴾..... تم پر مسواک لازم ہے بے شک یہ منہ کی پاکیزگی اور ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا ذریعہ ہے۔<sup>(۷)</sup>

①..... حلیۃ الاولیاء، سعید بن جبیر، الحدیث: ۵۷۳، ج ۴، ص ۳۲۶۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب السواک، الحدیث: ۶۹، ج ۱، ص ۱۸۷، قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، الحدیث: ۲۶۴، ج ۱۰، ص ۱۲۱۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب السواک، الحدیث: ۲۵۴، ص ۱۵۲۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث تمام بن العباس، الحدیث: ۱۸۳، ج ۱، ص ۴۵۹۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب السواک، الحدیث: ۲۵۴، ص ۱۵۲۔

⑥..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۳۱۵، ج ۱، ص ۷۷۔

⑦..... سنن النسائی، کتاب الطہارۃ، باب الترغیب فی السواک، الحدیث: ۵، ص ۱۰۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: ”مسواک حافظہ کو تیز کرتی اور بلغم کو دور کرتی ہے۔“ (۱)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صبح اس حال میں نکلتے کہ مسواک ان کے کانوں پر ہوتی۔ (۲)

## مسواک کا طریقہ:

پیلوکی لکڑی یا کسی دوسرے درخت کی سخت لکڑی سے مسواک کرے جو دانتوں کی زردی کو دور کر دے۔ مسواک (دانتوں کی) چوڑائی اور لمبائی میں جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اگر ایک طریقے پر کرے تو چوڑائی میں ہونی چاہئے۔ ہر نماز اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے اگرچہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ نیند کی وجہ سے جب منہ کی بو بدل جائے تو بھی مسواک کرے۔ زیادہ دیر تک کچھ نہ کھانے اور ناپسندیدہ بو والی چیز کھانے سے جو بو پیدا ہوتی ہے اسے زائل کرنے کے لئے مسواک کرنا مستحب ہے۔

## وضو سے پہلے کی دُعا:

مسواک سے فارغ ہو کر وضو کے لئے قبلہ رخ بیٹھے اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے وضو سے قبل بِسْمِ اللّٰہ نہ پڑھی اس کا وضو (کامل) نہیں۔“ (۳)

پھر یہ دُعا پڑھے: ”اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ لِعَنِي (۱) رَبِّ عَزَّوَجَلَّ! میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (۴)

## ہاتھ دھونے سے پہلے کی دُعا:

پھر ہاتھ برتن میں داخل کرنے سے قبل تین مرتبہ دھوئے اور یہ دُعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْیَمْنَ وَالْبِرَّکَۃَ وَاَعُوْذُ

①..... فردوس الاخبار للذیلی، باب الخاء، الحدیث: ۲۸۰۲، ج ۱، ص ۳۷۷۔

②..... سنن الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی السواک، الحدیث: ۲، ج ۱، ص ۱۰۰۔

③..... سنن الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی التسمیۃ، عند الوضوء، الحدیث: ۲۵، ج ۱، ص ۱۰۱۔

④..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاۃ، باب الاستعاذۃ فی الصلاۃ، الحدیث: ۲۵۸، ج ۲، ص ۵۴۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دُعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۱۔



بِكَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَكَةِ لِعَنِي اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں اور بدبختی و ہلاکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (۱)

پھر حدث دُور کرنے یا جوازِ نماز کی نیت کرنے اور چہرہ دھونے تک نیت کو قائم (یعنی یاد) رکھے اگر چہرہ دھوتے وقت بھول گیا تو یہ نیت کافی نہ ہوگی (۲)۔

پھر دائیں (سیدھے) ہاتھ سے ایک چلو پانی لے اور تین بار کلی کرے (۳) اور غرغره کرے یہاں تک کہ پانی حلق تک پہنچ جائے اور روزہ دار ہو تو پانی حلق تک نہ پہنچائے۔

## کلی کرتے وقت کی دُعا:

پھر یہ دُعا پڑھے: ”اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ لِعَنِي اے اللہ عزوجل! اپنی کتاب کی تلاوت اور اپنے ذکر کی کثرت پر میری مدد فرما۔“ (۴)

پھر ناک کے لئے ایک چلو پانی لے اور تین بار ناک میں چڑھائے (۵) سانس لے کر پانی ناک کے نتھنوں تک کھینچے اور اس میں موجود ریٹھ وغیرہ اچھی طرح صاف کرے۔

## ناک میں پانی پہنچاتے وقت کی دُعا:

ناک میں پانی پہنچاتے ہوئے یہ دُعا پڑھے: ”اَللّٰهُمَّ اَوْجِدْ لِيْ رَاِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عِنِّيْ رَاضٍ لِعَنِي اے اللہ عزوجل! میرے لئے جنت کی خوشبو بنا دے اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہو۔“ (۶)

- ①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۲، ص ۱۵۲۔
- ②..... احناف کے نزدیک وضو کے لئے نیت سنت ہے نہ کہ فرض۔ (ماخوذ از ہدایہ، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۶)
- ③..... احناف کے نزدیک تین چلو سے تین بار کلی کرے۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 295 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں: تین چلو پانی سے تین بار کلی کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہ جائے اور روزہ دار نہ ہو تو غرغره کرے۔“
- ④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۲، ص ۱۵۲۔
- ⑤..... احناف کے نزدیک تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھائے۔ چنانچہ، بہار شریعت جلد اول صفحہ 295 پر ہے: ”پھر تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہ جائے اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے۔“
- ⑥..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۲، ص ۱۵۲۔

## ناک صاف کرتے وقت کی دُعا:

ناک صاف کرتے ہوئے یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ لِعَنِي أَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! میں جہنم کی بد بوؤں اور برے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (۱)

پھر چہرے کے لئے ایک چلو پانی لے اور لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھوئے اور پیشانی کے دونوں کناروں پر بال جھڑنے کی جگہ چہرے میں داخل نہیں بلکہ وہ سر کا حصہ ہیں۔ اس جگہ تک بھی پانی پہنچائے جہاں سے عورتیں بال ہٹاتی رہتی ہیں اور یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھاگے کا ایک سرا کان کے اوپر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے کنارے پر تو یہ حصہ چہرے کی طرف رہے گا (اس سے مراد کٹیٹی ہے)۔ ان جگہوں پر بھی پانی پہنچائے: ابرو، موچھیں، رخساروں کے بال اور پلکیں کیونکہ عام طور پر یہ کم ہوتے ہیں۔ داڑھی گھنی نہ ہو تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے لیکن گھنی داڑھی میں یہ حکم نہیں۔ نچلے ہونٹ کے نیچے کے بال ہلکے اور گھنے ہونے میں داڑھی کے حکم میں ہیں۔ پھر تین مرتبہ اسی طرح چہرے پر پانی بہائے اور داڑھی کے لٹکے ہوئے بالوں کے ظاہری حصے پر پانی بہائے (۲) اور آنکھوں کے خانوں اور سرمہ جمع ہونے کی جگہوں میں انگلیاں داخل کر کے اچھی طرح صاف کرے۔ مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔“ (۳) آنکھیں دھوتے وقت یہ امید رکھے کہ آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں اور ہر عضو دھوتے وقت یہی امید رکھے کہ اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں۔

## چہرہ دھوتے وقت کی دُعا:

چہرہ دھوتے وقت یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا تَسْوَدْ وَجْهِي بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ لِعَنِي أَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! جس دن تیرے اولیاء کے چہرے روشن ہوں گے اس دن اپنے نور سے میرے

- ①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔
- ②..... بہار شریعت جلد اول صفحہ 289 پر ہے: داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں اور اگر کچھ حصہ میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔
- ③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی امامۃ الباہلی، الحدید ۲۲۲۸، ج ۸، ص ۲۸۸۔

چہرے کو بھی روشن فرمادینا اور جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرا چہرہ سیاہ نہ فرمانا۔“ (۱)

چہرہ دھوتے وقت گھنی داڑھی کا خلال کرے کہ یہ مستحب ہے۔ پھر ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مرتبہ دھوئے، انگٹھی کو حرکت دے اور اعضاء کی چمک کو زیادہ کرتے ہوئے کہنیوں سے اوپر تک پانی پہنچائے ”کیونکہ اعضاء وضو بروز قیامت چمکتے روشن ہوں گے۔“ مروی ہے کہ، حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو اپنی چمک کو زیادہ کر سکتا ہو وہ کرے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”بے شک (قیامت کا) زیور وضو کی جگہوں تک پہنچے گا۔“ (۳)

### دایاں بازو دھوتے وقت کی دُعا:

بازو دھونے میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرے اور یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حَسَابًا سَيِّرًا لِيَعْنِي اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ! مِيرَانَمَةُ اَعْمَالِ دَاخِلِي هَاتِهِ مِيرَانَمَةُ اَعْمَالِ دَاخِلِي هَاتِهِ مِيرَانَمَةُ اَعْمَالِ دَاخِلِي هَاتِهِ“ (۴)

### بایاں بازو دھوتے وقت کی دُعا:

بایاں بازو دھوتے وقت یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي لِيَعْنِي اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ! مِيرَانَمَةُ اَعْمَالِ دَاخِلِي هَاتِهِ مِيرَانَمَةُ اَعْمَالِ دَاخِلِي هَاتِهِ“ (۵)

پھر پورے سر کا مسح کرے یوں کہ اپنے ہاتھوں کو تر کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ملائے اور انہیں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور گدی کی طرف کھینچے پھر سر کے اگلے حصے پر لے آئے یہ ایک مسح ہے اسی طرح تین مرتبہ کرے (۶)۔

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استحباب اطالۃ الغرۃ..... الخ، الحدیث: ۲۴، ص ۱۵۰۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضوء، الحدیث: ۲۵، ص ۱۵۱۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔

⑥..... احناف کے نزدیک: چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ نیز پورے سر کا ایک بار مسح کرنا سنت ہے۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۹۱، ۲۹۶)

## سر کا مسح کرتے وقت کی دُعا:

پھر یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ غَشِّبْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأِظْلِمْنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ لِعَنِي أَعْلَى عَرْشِكَ وَجَلَّ! مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور مجھے اس دن عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔“ (۱)

پھر نئے پانی سے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے انگوٹھوں کو کانوں کے باہر والے حصے پر پھیرے احتیاطاً ہتھیلی دونوں کانوں پر رکھے اور تین بار کانوں کا مسح کرے۔

## کانوں کا مسح کرتے وقت کی دُعا:

پھر یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي مَنَادِيَ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَبْرَارِ لِعَنِي أَعْلَى عَرْشِكَ وَجَلَّ! مجھے ان میں کر دے جو بات سنتے اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل! مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے منادی کی آواز سنا۔“ (۲)

پھر نئے پانی کے ساتھ گردن کا مسح کرے (۳) کہ سر کا ردو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

- ①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔
- ②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۲۔
- ③..... احناف کے نزدیک سر، کانوں اور گردن کا مسح ایک ہی بار سنت ہے اور ہر بار نیا پانی لینے کی بھی حاجت نہیں۔ سر کے مسح کا طریقہ: چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 11 پر ہے: سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے، کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہئیں، پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے اور چھنگلیاں (یعنی چھوٹی انگلیاں) کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے، بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے بلا وجہ لہلا چھوڑ دینا یا ادھورابند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔

”گردن کا مسح بروز قیامت طوق سے امان دے گا۔“ (۱)

## گردن کا مسح کرتے وقت کی دُعا:

پھر یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ فَكِّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ یعنی: اے اللہ عزوجل! میری گردن آگ سے آزاد فرما اور میں جہنم کے طوق اور زنجیروں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (۲)

پھر تین مرتبہ دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے خلال کرے اور دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے ابتدا کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے۔

## دایاں پاؤں دھوتے وقت کی دُعا:

دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دُعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ مِنَ النَّارِ یعنی اے اللہ عزوجل! میرا قدم پل صراط پر ثابت قدم رکھ جس دن کہ اس پر قدم جہنم کی طرف لغزش کریں گے۔“ (۳)

## بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دُعا:

بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دُعا پڑھے: ”أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي عَنِ الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ یعنی اے اللہ عزوجل! جس دن پل صراط پر منافقین کے قدم پھسل رہے ہوں گے اس دن میں اپنے قدم پھسلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ (۴) پاؤں دھوتے ہوئے پانی آدھی پنڈلیوں تک پہنچائے۔

## وضو کے بعد کی دُعا:

وضو سے فارغ ہو کر سر آسمان کی طرف اٹھائے اور یوں کہے: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَاعْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا صَبُورًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي إِذْ كُرْتُ كَثِيرًا وَأَسْبَحْتُ بِكُرَّةٍ وَأَصَيْلًا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ

①.....تلخیص الحبیر، کتاب الطہارۃ، ذکر الاحادیث الواردة فی أن الأذنین من الراس، ج، ص ۲۸۶۔

②.....قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام.....الخ، ج، ص ۱۵۲۔

③.....المرجع السابق۔ ④.....المرجع السابق۔

عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہُ عَزَّوَجَلَّ! تیرے لئے پاکی ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برائی کی اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے اللہُ عَزَّوَجَلَّ! میں مغفرت چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہُ عَزَّوَجَلَّ! مجھے توبہ کرنے والوں، پاک لوگوں میں کر دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، مجھے صابر و شاکر بندہ بنا، مجھے ایسا بنادے کہ کثرت سے تیرا ذکر کروں اور صبح شام تیری پاکی بیان کرتا رہوں۔“ (۱)

منقول ہے کہ جس نے وضو کے بعد یہ کلمات کہے اس کے وضو پر مہر لگا دی جائے گی اور اسے عرش کے نیچے بلند کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب قیامت تک وضو کرنے والے کے لئے لکھا جاتا رہے گا۔

### وضو کے مکروہات:

وضو میں درج ذیل چیزیں مکروہ ہیں: (۱)..... کسی عضو کو تین سے زیادہ مرتبہ دھونا جس نے زیادہ کیا اس نے ظلم کیا۔ (۲)..... پانی (کے استعمال) میں اسراف کرنا۔ چنانچہ، حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (اعضائے وضو) تین بار دھویا اور ارشاد فرمایا: ”جس نے زیادہ کیا اس نے ظلم کیا اور برا کیا۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو دُعا اور طہارت میں حد سے بڑھیں گے۔“ (۳)

منقول ہے کہ وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنا آدمی کے علم میں کمی کی علامت ہے۔ (۴)

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَكْرَمُ فرماتے ہیں: ”منقول ہے کہ وسوسوں کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔“ (۵)

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۵۲۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الطہارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، الحدیث ۱۳۵، ج ۱، ص ۷۸-۷۹۔

③..... سنن ابی داود، کتاب الطہارة، باب الاسراف فی الماء، الحدیث ۹۶، ج ۱، ص ۶۸۔

④..... الطہور للقاسم بن سلام، باب ما یستحب من الاقتصاد..... الخ، الحدیث: ۱۰، ص ۱۲۲۔

⑤..... الجامع لاحکام القرآن، پ: ۳، سورۃ الناس: ۵، ج ۱۰، الجزء: ۲۰، ص ۱۹۳۔

## وضو میں وسوسے ڈالنے والا شیطان (۱):

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”ایک شیطان وضو میں آدمی پر ہنستا ہے اسے وَلہٰ اِن کھتے ہیں۔“ (۲)

(۳)..... ہاتھ جھاڑتے ہوئے پانی کو دور کرنا (۴)..... دوران وضو گفتگو کرنا (۵)..... چہرے پر زور سے پانی مارنا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا امام زہری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمَا نے اعضاء وضو کو خشک کرنا بھی مکروہ کہا ہے۔ بطور دلیل فرماتے ہیں کہ ”(بروز قیامت) اعضاء وضو کی تری کا وزن کیا جائے گا۔“ لیکن حضرت سیدنا معاذ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے کپڑے کے ایک کنارے سے چہرہ پونچھا۔“ (۳)

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے کہ ”میرے سر تاج، صاحب معراج صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ایک تولیہ مبارک تھا (جس سے بعد وضو اعضاء صاف کیا کرتے تھے)۔“ (۴)

(۶)..... پیتل کے برتن سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ (۷)..... دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے (۵) اور یہ کراہت طب کے اعتبار سے ہے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پیتل کے برتن سے وضو کرنے کی کراہت مروی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت سیدنا امام شعبہ رَحْمَةُ اللَّهِ

۱..... ولہٰ اِن ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے اس کے وسوسے سے بچنے کی بہترین تدابیر یہ ہیں: (۱) رَجُوعُ إِلَى اللَّهِ (۲) اَعُوذُ بِاللَّهِ (۳) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۴) سُوْرَةُ نَاسٍ (۵) اٰمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ (۶) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (۷) سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اِنْ يَشَاءُ يَدْهَبِكُمْ وَيَاْتُ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ لَا وَمَا ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ طَرِيْفٍ پڑھنا کہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا اور (۸) وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۳۰۳)

۲..... سنن الکبری للبیہقی، کتاب الطہارۃ، باب الستر فی الغسل عند الناس، الحدیث ۹۵، ج ۱، ص ۳۰۲۔

۳..... سنن الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی المنذیل بعد الوضوء، الحدیث ۵۲، ج ۱، ص ۱۲۰۔

۴..... سنن الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی المنذیل بعد الوضوء، الحدیث ۵۳، ج ۱، ص ۱۱۹۔

۵..... سیدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فتاویٰ رضویہ مجر ج ۲، ص ۴۶۴ پر فرماتے

اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے بیتل کے برتن میں پانی لایا گیا تو انہوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی کراہت نقل کی۔

جب وضو سے فارغ ہو اور نماز کی طرف متوجہ ہو تو دل میں یہ خیال ہونا چاہئے کہ میں نے اپنے ظاہر کو تو پاک کر لیا جس پر مخلوق کی نظر پڑتی ہے۔ لہذا اب دل کو پاک کئے بغیر بارگاہ الہی میں مناجات کرنے سے حیا کرنا چاہئے کہ اسے تو اللہ عزوجل ملاحظہ فرماتا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ دل کی پاکیزگی تو بہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نیز دل کا برے اخلاق سے کنارہ کش اور اچھے اخلاق سے مزین ہونا ضروری ہے۔ جو صرف ظاہری طہارت پر اکتفا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بادشاہ کو گھر میں آنے کی دعوت دینے کا ارادہ کیا اور اندرونی حصے کو گندگیوں سے آلودہ چھوڑ کر بیرونی حصے پر چونکا کرنے میں مشغول ہو گیا تو ایسا شخص بادشاہ کے غیض و غضب کا کس قدر حق دار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

## وضو کے فضائل پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ

﴿1﴾..... جس نے اچھی طرح وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور ان میں کوئی دنیاوی بات دل میں نہ لایا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

﴿2﴾..... ایک روایت میں ہے کہ ان دو رکعتوں میں وہ نہ بھولا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

﴿3﴾..... ”کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ عزوجل خطاؤں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے: (سنو! وہ) دشواری کے وقت کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا

ہیں: دھوپ کا گرم پانی مطلقاً مگر گرم ملک گرم موسم میں جو پانی سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں گرم ہو جائے وہ جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے بدن کو کسی طرح پہنچانا نہ چاہئے وضو سے نہ غسل سے نہ پینے سے یہاں تک کہ جو کپڑا اس سے بھیگا ہو جب تک سرد (ٹھنڈا) نہ ہو جائے پہننا مناسب نہیں کہ اس پانی کے بدن کو پہنچنے سے معاذ اللہ احتمال برص ہے۔

①..... المعجم الكبير، الحديث ۹۱، ج ۱، ص ۳۳۱، باختصار۔

المعجم الاوسط، من اسمه القاسم، الحديث ۴۹۷، ج ۳، ص ۲۱۰، باختصار۔

سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب کراهية الوسوسة..... الخ، الحديث ۹۰، ج ۱، ص ۳۴۲، باختصار۔



انتظار کرنا اور یہ جہاد ہے۔ آخری جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا:“ (۱)

﴿4﴾..... مروی ہے کہ سید عالم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وضو میں ایک ایک بار اعضاء کو دھویا اور ارشاد فرمایا: اس وضو کے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ نماز قبول نہیں فرماتا۔“ پھر وضو میں دو دو بار اعضاء کو دھویا اور ارشاد فرمایا: ”جس نے اعضاء وضو کو دو دو بار دھویا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے دُگنا اجر عطا فرمائے گا۔“ پھر اعضاء وضو کو تین تین بار دھویا اور ارشاد فرمایا: یہ میرا، مجھ سے پہلے انبیائے کرام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام کا وضو ہے۔“ (۲)

﴿5﴾..... جو وضو کے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا تمام جسم پاک فرمائے گا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر نہ کرے تو اس کا وہی حصہ پاک ہوگا جہاں تک پانی پہنچا۔ (۳)

﴿6﴾..... جس نے با وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ (۴)

﴿7﴾..... وضو پر وضو، نور پر نور ہے۔ (۵)

یہ تمام روایات نئے وضو کی ترغیب دیتی ہیں۔

﴿8﴾..... جب مسلمان وضو کرتا اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کی بھی۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کی خطائیں نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ کانوں کے نیچے کی بھی۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کی خطائیں نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کی بھی۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا مزید ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ (۶)

①..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ، الحدیث: ۲۵، ص ۱۵۲۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی الوضوء..... الخ، الحدیث: ۴۱۹، ۴۲۰، ج ۱، ص ۲۵۰-۲۵۱۔

③..... الجامع الصغیر، حرف المیم، الحدیث: ۸۶۷، ص ۵۲۶۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب الرجل یجدد الوضوء..... الخ، الحدیث: ۶۲، ج ۱، ص ۵۶۔

﴿9﴾..... إِنَّ الطَّاهِرَ كَالصَّائِمِ یعنی وضو کرنے والا روزے دار جیسا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿10﴾..... جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کلمہ شہادت: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔<sup>(۲)</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”اچھا وضو تجھ سے شیطان کو بھگا دے گا۔“  
حضرت سیدنا مجاہد عَلِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاحِدُ فرماتے ہیں: ”جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ با وضو، ذکر اور استغفار کے ساتھ رات گزارے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہئے کیونکہ جس عمل پر روحیں قبض کی جاتی ہیں اسی پر اٹھائی جائیں گی۔“<sup>(۳)</sup>

## غسل کا طریقہ

(غسل کرنے والا) پانی کے برتن کو سیدھی جانب رکھے پھر بسم اللہ شریف کہہ کر تین بار ہاتھ دھوئے پھر استنجا کرے جس کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے زائل کرے پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں آخر میں دھوئے اگر پاؤں پہلے دھو کر زمین پر رکھے تو یہ پانی کا ضیاع ہوگا۔ پھر سر پر تین مرتبہ پانی بہائے پھر تین مرتبہ دائیں کندھے پر اور تین مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے پھر جسم کو آگے پیچھے سے ملے اور سر اور داڑھی کے بالوں کا خلال کرے اور گھنے یا ہلکے بالوں کے اُگنے کی جگہ تک پانی پہنچائے۔ عورت پر مینڈیوں (لٹوں) کو کھولنا لازم نہیں۔ لیکن جب معلوم ہو کہ بالوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا تو کھولنا ضروری ہے اور بدن کی سلوٹوں کا خاص خیال رکھے۔ دورانِ غسل عضوِ مخصوص کو ہاتھ لگانے سے بچے اگر ایسا کرے تو دوبارہ وضو کرے<sup>(۴)</sup>۔ اگر غسل سے پہلے وضو کر لیا تو اب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ وضو اور غسل کی سنتوں میں سے وہ باتیں ہم نے ذکر کر دی ہیں جن کا جاننا اور

5..... الترغیب والترہیب، کتاب الطہارۃ، الترغیب فی المحافظة علی الوضوء..... الخ، الحدیث: ۳۱، ج ۱، ص ۱۲۳۔

6..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ثواب الطہور، الحدیث: ۲۸۲، ج ۱، ص ۱۸۲۔

1..... یہ حدیث پاک مسند الفردوس میں اس طرح ہے ”الطَّاهِرُ النَّائِمُ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ یعنی: وضو کر کے سونے والا روزہ رکھ کر رات بھر قیام کرنے والے کی طرح ہے۔“ (فردوس الاخبار للذہبی، باب الطاء، الحدیث: ۳۷۹، ج ۲، ص ۵۲)

2..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما یقال بعد الوضوء، ج ۱، ص ۲۷۳۔

عمل کرنا راہِ آخرت پر چلنے والے کے لئے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مختلف احوال پیش آنے سے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے کتبِ فقہ کی طرف رجوع کریں۔

## غسل کے فرائض:

غسل میں دو فرض ہیں: (۱)..... نیت (۲)..... پورے بدن پر پانی بہانا۔<sup>(۱)</sup>

## وضو کے فرائض:

وضو کے فرائض یہ ہے: (۱)..... نیت (۲)..... چہرے کا دھونا (۳)..... دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا (۴)..... اتنے حصے پر مسح کرنا جس پر سر کا اطلاق ہو سکے (۵)..... دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا (۶) ترتیب قائم رکھنا۔ اعضاء کو پے درپے دھونا واجب نہیں<sup>(۲)</sup>۔

## غسل فرض ہونے کے اسباب:

غسل فرض ہونے کے چار اسباب ہیں: (۱)..... منیٰ کا (شہوت کے ساتھ) نکلنا (۲)..... (مرد و عورت کی) شرمگاہوں کا بغیر کسی رکاوٹ کے ملنا (۳)..... حیض اور (۴)..... نفاس کا ختم ہونا<sup>(۳)</sup>۔

## ان مواقع پر غسل کرنا سنت ہے:

عیدین (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ)، جمعہ، احرام، عرفہ و مزدلفہ میں ٹھہرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے غسل کرنا۔

## جن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے:

تین غسل سنت ہیں: ایام تشریق کے ہر دن۔ ایک قول کے مطابق طوافِ وداع کے لئے غسل کرنا سنت مگر

③..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الطہارات، من کان یقول نم..... الخ، الحدیث ۴، ج ۱، ص ۱۴۲۔

④..... احناف کے نزدیک ستر غلیظ (عضو مخصوص) کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۳۰۲)

①..... احناف کے نزدیک غسل میں تین فرض ہیں: (۱)..... کلی کرنا (۲)..... ناک میں پانی ڈالنا (۳)..... تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۳۱۶)

درست یہ ہے کہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کافر جب غیر جنبی حالت میں اسلام لائے اور مجنون جب افاقہ پائے اور میت کو غسل دینے والے کے لئے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔

## تیمم کا بیان

تیمم کے جواز کی صورتیں:

جس کے لئے پانی کا استعمال مشکل ہو تلاش کے باوجود نہ ملنے کے سبب یا کوئی درندہ وغیرہ اس تک پہنچنے سے رکاوٹ ہو یا پیاسا ہونے کی وجہ سے اسے خود موجود پانی کی ضرورت ہو یا اس کا رفیق پیاسا ہو یا پانی کسی اور کی ملکیت میں ہو اور وہ رائج قیمت سے زیادہ میں بیچتا ہو یا اعضائے وضو پر کہیں زخم ہو یا بیمار ہو یا پانی کے استعمال سے کسی عضو کے خراب ہونے یا بہت زیادہ کمزوری کا ڈر ہو تو فرض نماز کا وقت داخل ہونے تک صبر کرے۔

تیمم کا طریقہ:

پھر وہ ایسی پاک مٹی کا قصد کرے جو نرم ہو جس سے غبار اڑتا ہو۔ اب اپنی انگلیوں کو ملا کر اس پر دونوں ہاتھوں کو مارے اور ایک بار پورے چہرے کا مسح کرے اور اس وقت جواز نماز کی نیت کرے۔ بالوں کے نیچے غبار پہنچانے کی مشقت نہ کرے خواہ بال گھنے ہوں یا ہلکے۔ غبار سے پورے چہرے کو گھیرنے کی کوشش کرے اور یہ چیز ایک بار مارنے سے حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ چہرے کی چوڑائی ہتھیلیوں کی چوڑائی سے زیادہ نہیں اور گھیرنے میں غالب گمان کافی ہے۔ پھر انگوٹھی اُتارے اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے دوسری ضرب مارے اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے باطن سے اس طرح ملائے کہ انگلیوں کے پورے دوسری طرف کی شہادت کی انگلی سے باہر نہ ہوں پھر بائیں ہاتھ کو جس طرح رکھا تھا اسی طرح دائیں بازو کے ظاہر پر پھیرے پھر بائیں ہتھیلی الٹ کر

②..... احتناف کے نزدیک وضو میں چار فرض ہیں: (۱).... مونجھ دھونا (۲).... کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا (۳).... چوتھائی سر کا مسح

(۴).... پاؤں کو گوٹوں (ٹخنوں) سمیت ایک دفعہ دھونا۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۸۸ تا ۲۹۱)

③..... احتناف کے نزدیک غسل فرض ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ.....

..... کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 107 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ

مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء قادری رضوی ذماتہ برکتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں:..... منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو

دائیں بازو کے باطن پر پھیرے اور کلائی تک لے آئے پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر والے حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ظاہر پر پھیرے پھر بائیں بازو کے ساتھ بھی اسی طرح کرے پھر تھیلیوں کا مسح کر کے انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔

اس تکلیف کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ضرب میں کہنیوں تک گھیرنا پایا جائے اگر ایک ہی ضرب سے ایسا مشکل ہو تو دو یا اس سے زیادہ ضربوں میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جب اس کے ساتھ فرض پڑھے تو اسے اختیار ہے جیسے چاہے نفل پڑھے اور اگر دو فرضوں کو جمع کرنا چاہے تو دوسری فرض نماز کے لئے دوبارہ تیمم کرے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے لئے علیحدہ علیحدہ تیمم کرے (۱)۔



### {..... تعریف اور سعادت.....}

حضرت سیدنا امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۶۸۵ھ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ و رسول عزوجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔“ (تفسیر البیضاوی، پ ۲۲، الاحزاب، تحت الاية: ۷۱، ج ۴، ص ۳۸۸)

سے نکلنا۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۴)..... احتلام یعنی سوتے میں منی نکل جانا۔ (خلاصۃ الفتاویٰ، ج ۱، ص ۱۳)..... شرمگاہ میں حشفہ (سپاری) داخل ہو جانا خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہے۔ (مراقی الفلاح معہ حاشیۃ الطحطاوی،

## باب نمبر ۳: ظاہری نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا

ظاہری نجاستوں سے پاکی حاصل کرنے کی دو قسمیں ہیں: (۱) میل کچیل دور کرنا اور (۲) اجزائے جسم کو صاف کرنا۔  
پہلی قسم: میل کچیل اور رطوبات کی آٹھ قسمیں ہیں:

(۱)..... سر کے بالوں میں جو میل اور جوئیں جمع ہوتی ہیں ان سے پاکیزگی حاصل کرنا: دھونے، کنگھی کرنے اور تیل لگانے کے ذریعے مستحب ہے تاکہ بال اُلجھتے نہ رہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی سر انور میں تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا بھی مروی ہے۔<sup>(۱)</sup> نیز اس کا حکم بھی فرماتے اور ارشاد فرماتے: ”کبھی کبھی تیل لگایا کرو۔“<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”جس کے بال ہوں وہ ان کی عزت کرے۔“<sup>(۳)</sup> یعنی نہیں میل کچیل سے بچائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کیا اس کے پاس تیل نہیں جس کے ذریعے بالوں کو بٹھالیتا۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی اس حالت میں آتا ہے گویا وہ شیطان (کی طرح بال بکھرے ہوئے) ہے۔“<sup>(۴)</sup>

(۲)..... کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کچیل: اس میں سے جو ظاہر ہو وہ مسح سے زائل ہو جاتی ہے اور جو کان کے سوراخ کی گہرائی میں جمع ہو جاتی ہے غسل خانہ سے نکلنے وقت اسے نرمی سے صاف کیا جائے کیونکہ بسا اوقات اس کی کثرت سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے۔

(۳)..... ناک میں جمع ہونے والی رطوبتیں جو اطراف سے ملی ہوتی ہیں: انہیں ناک میں پانی چڑھا کر (اٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے صاف کرے۔

ص ۹۷)..... حیض سے فارغ ہونا۔ (ایضاً)..... نفاس (یعنی بچھنے پر جو خون آتا ہے اس) سے فارغ ہونا۔ (تبيين الحقائق، ج ۱، ص ۱۷۷)

①..... احتاف کے نزدیک ایک تیمم سے جس قدر چاہیں فرائض و نوافل ادا کئے جاسکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ ہر فرض

کے لئے علیحدہ تیمم کرنا ضروری نہیں۔ (ماخوذ از الہدایۃ، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۲۹)

①..... الشمائل المحمدیۃ للترمذی، باب ماجاء فی ترجمہ رسول اللہ، الحدیث ۳۳۳-۳۵، ص ۲۰-۲۲۔

(۴)..... دانتوں اور زبان کے کناروں پر جمع ہونے والی رطوبتیں: انہیں مسواک اور کلی کے ذریعے زائل کرے۔ ہم ان دونوں کا ذکر ماقبل میں کر چکے ہیں۔

(۵)..... احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے داڑھی میں جمع ہونے والی میل کچیل اور جوئیں: انہیں دھونے اور کنگھی کے ذریعے دور کرنا مستحب ہے۔ مروی ہے کہ ”حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سفر و حضر میں کنگھی، سر کھجانے کی لکڑی اور آئینہ اپنے پاس رکھتے تھے۔“<sup>(۱)</sup> اور یہ اہل عرب کا طریقہ ہے۔

### آقاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی داڑھی مبارک:

مروی ہے کہ آقائے دو جہان، محبوبِ رحمن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دن میں دو مرتبہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے<sup>(۲)</sup> اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔<sup>(۳)</sup>

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی داڑھی مبارک ہلکی اور لمبی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُرْمِ کی داڑھی مبارک چوڑی تھی جو دونوں کندھوں کو بھر لیتی تھی۔

### اچھی نیت سے زیب و زینت اختیار کرنا:

ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ ایک بار حجرہ مبارکہ کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے تو ان کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے منگے میں موجود پانی میں اپنا عکس دیکھ کر سر اور داڑھی کو درست فرمایا۔ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے (مسلمان) بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کر جائے۔“<sup>(۴)</sup>

②..... سنن الترمذی، کتاب اللباس، باب ماجاء فی النهی عن الترجل الإهْبَاء، الحدیث: ۱۷۶۲، ج ۳، ص ۲۹۳۔

③..... سنن ابی داود، کتاب الترجل، باب ماجاء فی استحباب الطیب، الحدیث: ۴۱۶۳، ج ۴، ص ۱۰۳۔

④..... سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب فی غسل الثوب و فی الخلقان، الحدیث: ۴۰۶، ج ۴، ص ۷۲۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۴، ص ۲۴۳۔

جاہل شخص یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو لوگوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا ہے وہ اسے دوسروں کی عادات پر قیاس کرتا ہے اور فرشتہ صفت لوگوں کو لوہاروں جیسے کم درجہ لوگوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ افسوس ہے ایسے شخص پر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا حکم تھا اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے دلوں میں اپنی عظمت کو اجاگر کریں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کا مرتبہ کم نہ ہو اور ان کی نظروں میں اپنی صورت کو عمدہ کریں تاکہ وہ آپ کو حقیر سمجھ کر آپ سے نفرت نہ کریں۔ منافقین اسی طرح (کی باتوں اور افعال کے ذریعے) لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں کو دعوت دینے والے عالم پر بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اور وہ ظاہری طور پر ان چیزوں کا خیال رکھے جو لوگوں کے اس سے متنفر ہونے کا سبب نہ بنیں۔ اس قسم کے امور میں اعتماد کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور یہ اعمال ہی ہیں جو (حسن نیت کے سبب) مقصود کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس ارادے سے زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور خود کو زاہد (یعنی دنیا سے کنارہ کش) ظاہر کرنے کے لئے داڑھی کو پراگندہ چھوڑ دینا ممنوع ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ لوگ سمجھیں یہ زاہد ہے اور نفس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ البتہ اس سے اہم کام میں مشغولیت کے سبب اسے چھوڑنا اچھا ہے۔ یہ بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان پوشیدہ احوال ہیں اور نگرانی کرنے والا اچھی طرح دیکھتا ہے۔ لہذا منافقت کسی حال میں فائدہ مند نہیں۔

### بری نیت سے زیب و زینت اختیار کرنا:

کتنے ہی جاہل لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی خاطر ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں ایسا شخص خود بھی غلط فہمی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں ڈالتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اس کا مقصد اچھا ہے۔ پس تم علما کے ایک گروہ کو دیکھو گے کہ وہ قیمتی لباس زیب تن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتیوں اور جھگڑالو لوگوں کا مقابلہ کرنا اور اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ بات اس دن واضح ہو جائے گی جس دن دلوں کا امتحان ہوگا اور قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر ہو جائے گا اس دن خالص چاندی اور کھوٹ والی چاندی میں تمیز ہو جائے گی۔ ہم اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں۔

(۶)..... انگلیوں کے بیرونی حصے کے جوڑوں پر جمع ہونے والی میل: اہل عرب عام طور پر اسے دھوتے نہ تھے کیونکہ وہ



کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے جس کی وجہ سے انگلیوں کی سلوٹوں میں میل جمع ہو جاتی تھی تو سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے انہیں جوڑوں کے دھونے کا حکم ارشاد فرمایا۔<sup>(۱)</sup>

(۷)..... انگلیوں کے پوروں کی صفائی: ”مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اہل عرب کو ان کی صفائی کا حکم دیا<sup>(۲)</sup> اور ناخنوں میں جمع ہونے والی میل کچیل کو صاف کرنا کیونکہ (ناخن تراشنے کے لئے) ہر وقت قینچی وغیرہ میسر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ناخنوں میں میل جمع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ”سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ناخن تراشنے، بغلوں کے بال اٹھیرنے اور زیناف بال موٹڈنے کے لئے چالیس دن مقرر فرمائے۔“<sup>(۳)</sup> مگر ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا۔<sup>(۴)</sup>

مروی ہے کہ ایک بار کچھ دن وحی نہ آئی پھر جب سیدنا حضرت جبرئیل عَلَيهِ السَّلَامُ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو (آپ کے استفسار فرمانے پر) عرض کی: ”ہم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ (کے امتی) نہ اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو دھوتے ہیں، نہ پوروں کو صاف کرتے ہیں اور نہ ہی مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں۔ لہذا اپنی امت کو اس کا حکم دیں۔“<sup>(۵)</sup>

ناخنوں کے میل کو ”اُف“ اور کانوں کے نیچے کے میل کو ”نُف“ کہا جاتا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ (پ ۱، بنی اسرائیل: ۲۳) اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ والدین کو ناخنوں کے میل کچیل کے ذریعے تکلیف نہ دو۔ ایک قول یہ ہے کہ والدین کو اتنی بھی اذیت نہ دو جتنی تم ناخنوں کے میل کچیل سے محسوس کرتے ہو۔

(۸)..... پسینہ بہنے اور گردوغبار پڑنے کی وجہ سے تمام بدن پر جمع ہو جانے والا میل کچیل: اسے غسل سے دور کیا جاتا ہے۔ (اس کے لئے) حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں کہ بعض صحابہ کرام رَضَوْنَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ شام کے حماموں میں جایا کرتے تھے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۲۳۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۲۳۔

③..... سنن النسائي، كتاب الزينة، اتخاذ الجمّة، الحديث: ۵۲۴، ص ۸۳۲۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۲۳، باختصار۔

## سب سے بہتر اور سب سے بدتر گھر:

حضرت سیدنا ابو برداء اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”بہترین گھر حمام ہے کہ یہ بدن کو پاک کرتا اور آگ کی یاد دلاتا ہے۔“<sup>(۱)</sup> جبکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ ”بدترین گھر حمام ہے کہ یہ شرمگاہ کو ظاہر کرتا اور حیا کو ختم کرتا ہے۔“<sup>(۲)</sup> یہ دوسرا قول حمام کی آفت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ پہلا قول اس کے فائدے کو بیان کرتا ہے۔ لہذا آفت سے بچنے ہوئے فائدے کو طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن حمام میں داخل ہونے والے کے لئے کچھ چیزیں سنتیں اور کچھ واجب ہیں۔

## حمام میں داخل ہونے والے پر واجب امور:

حمام میں داخل ہونے والے پر دو چیزیں اپنی شرمگاہ اور دوسرے کی شرمگاہ کے حوالے سے واجب ہیں:

(۱)..... اپنی شرمگاہ کے حوالے سے اس پر واجب ہے کہ اسے دوسروں کے دیکھنے اور چھونے سے بچائے۔ اس کی میل اپنے ہاتھوں سے دُور کرے اور ملنے والے کو رانوں اور ناف کے نیچے سے شرمگاہ تک کے حصے کو ہاتھ لگانے سے منع کرے۔ میل دور کرنے کے لئے شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانے میں جواز کا احتمال ہے لیکن قیاس یہی ہے کہ حرام ہو کیونکہ حرمت کے معاملے میں شرمگاہوں کو چھونے کا وہی حکم ہے جو دیکھنے کا ہے۔ اسی طرح باقی پردے کی جگہوں (یعنی رانوں) کا بھی یہی حکم ہونا چاہئے۔

(۲)..... دوسرے کی شرمگاہ کے سلسلے میں اس پر واجب ہے کہ اپنی نگاہیں اس سے بچائے اور اسے پردے کی جگہ کھولنے سے منع کرے کیونکہ برائی سے منع کرنا واجب ہے۔ اس پر یاد دلانا واجب ہے عمل کروانا واجب نہیں اور جب تک اسے کسی کی طرف سے مارنے یا گالی گلوچ کرنے یا کسی دوسرے حرام کام کا خوف نہ ہو تب تک اس سے یہ (یعنی برائی سے منع کرنے کی) ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی صورت ہو تو اس پر لازم نہیں کہ وہ کسی کو ایک

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب السواک من الفطرۃ، الحدیث ۵۳، ج ۱، ص ۵۳۔

②..... قوت القلوب الفصل الثالث والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۹۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، الحدیث ۲۵۸، ص ۱۵۳۔

④..... قوت القلوب الفصل الثالث والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۳۹۔

حرام کام سے روک کر دوسرے حرام کام کا مرتکب بنا دے۔ البتہ وہ عذر پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات اسے فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی وہ اس پر عمل کرے گا بلکہ اس پر یاد دلانا لازم ہے کیونکہ دل انکار سننے کے تاثر سے خالی نہیں ہوتا اور گناہوں کے یاد دلانے سے بچنے کے مواقع ہوتے ہیں اور یہ بات اس کام کو اس کی نگاہوں میں قبیح قرار دیتی اور اسے اس سے نفرت دلاتی ہے۔ لہذا اسے (یعنی برائی سے منع کرنے کو) چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اسی بنا پر آج کل احتیاط کے طور پر حمام میں جانا چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ شرمگاہوں کو ننگا کرنا ہی پڑتا ہے خصوصاً ناف کے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر کی جگہ کیونکہ لوگ اسے قابل ستر نہیں سمجھتے حالانکہ شریعت نے اسے ستر میں شمار کیا ہے اور گویا اسے ستر کی حد قرار دیا۔ اس لئے حمام میں تنہا جانا مستحب ہے۔

حضرت سیّدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِیِ فرماتے ہیں: ”میں اس شخص کو ملامت نہیں کرتا جس کے پاس صرف ایک درہم ہو اور وہ حمام والے کو اس لئے دے دے کہ وہ اس کے لئے حمام خالی کر دے۔“ (۱)

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو حمام میں یوں دیکھا گیا کہ ”آپ کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔“ (۲)

بعض علما نے فرمایا: ”حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں لیکن دو چادریں ہوں ایک چادر ستر پوشی کے لئے اور ایک سرپاؤڑھنے کے لئے تاکہ شرمگاہ اور آنکھوں کی حفاظت ہو۔“ (۳)

## حمام میں داخل ہونے کی دس سنتیں:

(۱)..... نیت کرے یوں کہ نماز کے لئے جو زینت پسندیدہ ہے اس کے لئے پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت کرے، دنیا کے لئے یا خواہشات پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے۔

(۲)..... داخل ہونے سے پہلے حمام والے کو اجرت دے کیونکہ جتنا فائدہ وہ اٹھائے گا وہ مجہول ہے اور حمام والے کو نہ جانے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اندر جانے سے پہلے اجرت دینے سے دونوں عوضوں میں سے ایک کی جہالت ختم ہو

⑤..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۲۱۸، ج ۱، ص ۵۲۴۔

①..... مرقاة المفاتیح، کتاب اللباس، الفصل الثانی، تحت الحدیث: ۴۴، ج ۸، ص ۲۵۵، بتغییر قلیل۔

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الطہارات، من رخص فی دخول الحمام، الحدیث: ج ۱، ص ۱۳۳، بتغییر قلیل۔

جائے گی اور دل بھی خوش ہو جائے گا۔

(۳)..... داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھے۔

**حمام میں داخل ہونے سے پہلے کی دُعا:**

(۴)..... داخل ہونے سے پہلے یہ دُعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ النَّخِیْبِثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ یعنی: اللہ عزوجل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے سخت ناپاکی اور نہایت شریر پلید شیطان مردود سے میں اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں۔“

(۵)..... اس وقت حمام میں جائے جب کوئی نہ ہو یا حمام کو خالی کرائے کیونکہ اگر حمام میں صرف دیندار اور محتاط لوگ ہوں تو ننگے بدنوں کی طرف دیکھنا حیا کی کمی پر دلالت کرتا ہے اور یہ چیز شرمگاہوں کو دیکھنے کا خیال لاتی ہے پھر اعضاء کو حرکت دینے سے انسان اس سے نہیں بچ سکتا کہ چادر کا پلو ہٹ جائے اور شرمگاہ ظاہر ہو جائے تو یوں لاشعوری طور پر شرمگاہ پر نظر پڑ جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرت سپدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دونوں آنکھوں پر پٹی باندھی۔

(۶)..... حمام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دونوں پہلو دھوئے۔

(۷)..... گرم حمام میں داخل ہونے میں جلدی نہ کرے جب تک کہ پہلے پسینہ نہ آجائے۔

(۸)..... پانی زیادہ استعمال نہ کرے بلکہ بقدر حاجت پر اکتفا کرے کیونکہ حالات و قرآن کے مطابق اسی کی اجازت ہے۔ نیز زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں اگر حمامی کو پتا چل جائے تو وہ ناپسند کرے گا خصوصاً جبکہ پانی گرم ہو کیونکہ اس پر خرچ کرنا پڑتا اور تھکاؤ بھی ہوتی ہے۔

(۹)..... حمام کی گرمی سے جہنم کی تیش کو یاد کرے اور کچھ دیر کے لئے خود کو گرم گھر میں قید سمجھے اور اسے جہنم پر قیاس کرے کیونکہ یہ جہنم کے ایک گھر کے مشابہ ہے جس کے نیچے آگ اور اوپر تاریکی ہے، ہم اس سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتے ہیں بلکہ عقل مند ایک لمحے کے لئے بھی آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ادھر ہی جانا ہے اور وہی اس کا ٹھکانا ہے۔ پس عقل مند پانی اور آگ وغیرہ جو بھی چیز دیکھے اسے اس سے عبرت اور نصیحت ہی حاصل کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق ہی دیکھتا ہے۔

## راہِ آخرت کے مسافر کی پہچان:

مثلاً کوئی کپڑے کا تاجر، بڑھئی، معمار اور جولاہا جب کسی آباد مکان میں جائیں کہ جس میں قالین بچھا ہوا ہو اور انہیں غور و فکر میں گم پائے تو تو دیکھے گا کہ کپڑے والا قالین دیکھ کر اس کی قیمت میں غور کر رہا ہوگا، جولاہا کپڑے کی بناوٹ میں غور کر رہا ہوگا، بڑھئی چھت بننے کے طریقے پر غور کر رہا ہوگا اور معمار اس کی دیواروں کو دیکھ کر ان کے مضبوط اور سیدھے ہونے کے متعلق سوچ رہا ہوگا۔ اسی طرح راہِ آخرت کا مسافر جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لئے نصیحت اور آخرت کی یاد بن جاتی ہے بلکہ وہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس میں اس کے لئے عبرت کا راستہ کھول دیتا ہے اگر وہ سیاہی کو دیکھتا ہے تو اسے قبر کی تاریکی یاد آتی ہے، اگر سانپ کو دیکھتا ہے تو اسے جہنم کے سانپ یاد آتے ہیں، اگر کسی بد صورت چیز کو دیکھتا ہے تو منکر نکیر اور زبانہ (فرشتوں کا ایک گروہ جو نافرمانوں کو جہنم کی طرف دھکیلنے پر مامور ہے) کو یاد کرتا ہے، اگر کوئی خوف ناک آواز سنتا ہے تو صور کا پھونکنا یاد آ جاتا ہے، اگر کسی اچھی و خوب صورت چیز کو دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اگر کسی بازار یا گھر سے انکار یا قبولیت کی کوئی بات سنتا ہے تو اپنے اخروی معاملے میں حساب کتاب کے بعد اپنے مقبول یا مردود ہونے کو یاد کرتا ہے۔ زیادہ مناسب ہے کہ عقل مند کے دل پر یہ بات چھائی رہے کیونکہ دنیا کے کام ہی اسے ان امور سے روکتے ہیں۔ لہذا جب بھی وہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کا آخرت میں ٹھہرنے کی مدت سے مقابلہ کرے گا اسے حقیر جانے گا بشرطیکہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے دل غافل اور بصیرت ختم ہو چکی ہے۔

(۱۰)..... حمام میں داخل ہونے والے کے لئے یہ امور بھی سنت ہیں کہ داخل ہوتے وقت سلام نہ کرے اگر اسے کوئی سلام کرے تو اس پر لفظ سلام کے ساتھ جواب دینا واجب نہیں اگر کوئی دوسرا شخص جواب دے دے تو خاموش رہے اور اگر بولنا چاہے تو یوں کہے: ”عَافَاكَ اللَّهُ يَعْنِي: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تجھے عافیت عطا فرمائے۔“ حمام میں داخل ہونے والے کے لئے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ابتدائے کلام میں یوں کہے: ”عَافَاكَ اللَّهُ يَعْنِي: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تجھے عافیت عطا فرمائے۔“ نہ حمام میں زیادہ باتیں کرے اور نہ ہی بلند آواز سے تلاوت کرے (۱)۔

①..... فتاویٰ فقیہ ملت، جلد 1 صفحہ 69 پر حضرت علامہ مولانا جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ العوی اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: غسل کرتے وقت کلمہ درود شریف پڑھنا منع اور خلاف سنت ہے کہ اس وقت کسی قسم کا کلام کرنے اور دعا پڑھنے کی اجازت نہیں۔

البتہ ظاہری الفاظ کے ذریعے شیطان سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرنے میں حرج نہیں۔ غروب آفتاب کے وقت اور مغرب وعشا کے درمیان حمام میں جانا مکروہ ہے کیونکہ یہ وقت شیاطین کے منتشر ہونے کا ہے۔ حمام میں کسی دوسرے کے جسم کو ملنے میں حرج نہیں۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے وصیت فرمائی کہ مجھے فلاں شخص غسل دے وہ آپ کے مصاحبین میں سے نہ تھا اور فرمایا کہ ”اس شخص نے ایک مرتبہ حمام میں میرے جسم کو ملتا تھا لہذا میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کا ایسا بدلہ دوں کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ اسی طریقے سے خوش ہوگا۔“

بعض صحابہ کرام رَضُوا اللّٰہَ تَعَالٰی عَلَیْہِمُ اَجْمَعِیْن کی روایات بھی جسم ملنے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک سفر میں کسی مقام پر پڑاؤ کیا اور پیٹ کے بل لیٹ گئے، ایک سیاہ فام غلام آپ کی پیٹھ مبارک دبانے لگا۔ (راوی کہتے ہیں:) میں نے عرض کی:

”يٰرَسُولَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”میں اونٹنی سے گر گیا تھا۔“<sup>(۱)</sup>

جیسے ہی حمام سے فارغ ہو تو اس نعمت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے۔ کہا گیا ہے کہ ”سردیوں میں گرم پانی نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ ”حمام جدید نعمتوں میں سے ہے۔“<sup>(۲)</sup> یہ حکم شرعی اعتبار سے ہے۔

### چند مفید باتیں:

اطبّا کہتے ہیں کہ ”چونے سے (زیر ناف بال صاف کر کے) حمام میں جانا کوڑھ کے مرض سے امان ہے۔“ منقول ہے کہ ”(زیر ناف بال صاف کرنے کے لئے) مہینے میں ایک بار چونے کا استعمال صفراء کی گرمی کو ختم کرتا، رنگ کو صاف کرتا اور قوتِ جماع میں اضافہ کرتا ہے۔“ یہ بھی منقول ہے کہ ”سردیوں میں حمام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دوا سے زیادہ مفید ہے۔“ نیز یہ بھی منقول ہے کہ ”گرمیوں میں حمام سے نکلنے کے بعد سو جانا دوا پینے کے قائم مقام ہے

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۲۹۔

③..... فیض القدير، حرف الباء، تحت الحديث (۳۱۸)، ج ۳، ص ۲۷۸۔

اور حمام سے نکلنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا نقرس<sup>(۱)</sup> (نامی بیماری) سے بچاتا ہے۔“<sup>(۲)</sup> حمام سے نکلنے وقت ٹھنڈا پانی پینا یا سر پر ڈالنا مکروہ ہے۔ یہ مردوں کے احکام بیان ہوئے۔

جبکہ عورتوں کے متعلق حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کسی مرد کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی زوجہ کو حمام میں لے جائے جبکہ گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔“<sup>(۳)</sup> اور مشہور ہے کہ ”مردوں پر تہبند کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے اسی طرح نفاس والی اور بیمار عورتوں کے علاوہ عورتوں کا حمام میں داخل ہونا حرام ہے۔“<sup>(۴)</sup> ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا کسی بیماری کے سبب حمام تشریف لے گئی تھیں۔ لہذا اگر عورت کسی ضرورت کے تحت حمام میں جائے تو ایک بڑی چادر اوڑھ کر جائے<sup>(۵)</sup> اور مرد کے لئے مکروہ ہے کہ عورت کو حمام میں جانے کے لئے اجرت دے کہ اس طرح وہ مکروہ کام میں عورت کا مددگار ہوگا۔

**دوسری قسم: اجزائے بدن کی صفائی، جسم کے زائد اجزا آٹھ ہیں:**

(۱)..... سر کے بال: جو شخص صفائی کا ارادہ کرے تو اسے سر کے بال منڈوانے میں کوئی حرج نہیں اور جو تیل لگائے اور کنگھی کرے اسے بال رکھنے میں بھی حرج نہیں لیکن چھوٹے بڑے رکھنا منع ہے کیونکہ یہ کم تر لوگوں کا طریقہ ہے یا معزز لوگوں کی طرح بلفیں رکھ لے کہ اب یہ ان کی علامت بن گئی ہے اور اگر ایسا کرنے والا تشریف لوگوں میں سے نہ ہو تو یہ دھوکا ہوگا۔

(۲)..... مونچھوں کے بال: حضور نبی اکرم، نورِ جسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قُصُّوا الشَّارِبَ یعنی مونچھوں کو پست کرو۔“<sup>(۶)</sup>

①..... فتاویٰ فقہی ملت، جلد 1 صفحہ 69 پر حضرت علامہ مولانا جلال الدین احمد امجدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: غسل کرتے وقت کلمہ درود شریف پڑھنا منع اور خلاف سنت ہے کہ اس وقت کسی قسم کا کلام کرنے اور دُعا پڑھنے کی اجازت نہیں۔

①..... المعجم الاوسط، من اسمہ موسیٰ، الحدیث ۸۰۷، ج ۶، ص ۸۱، مفہومًا۔

قوت القلوب الفصل، السادس والاربعون فیہ کتب ذکر دخول الحمام، ج ۳، ص ۳۳۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل السادس والاربعون فیہ کتب ذکر دخول الحمام، ج ۳، ص ۳۲۹۔

ایک روایت میں ”جَزُّوا الشَّوَارِبَ“<sup>(۱)</sup> کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں ہے: ”حَقُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحِي لِيَعْنِي مَوْنِجْهَوْنَ كَوَيْسَتِ كِرَوَادِرْ هِيَوْنَ كَوْبُرْ هَاوْ“<sup>(۲)</sup>

بہر حال جہاں تک مونڈنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی روایت مروی نہیں اور احفا مونڈنے کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ سے اسی طرح منقول ہے۔

### صحابہ کرام عَلَیْہِمْ الرِّضْوَانُ کی یاد تازہ ہوگئی:

تابعین میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی مونچھیں اکھیڑی ہوئی تھیں تو فرمایا: ”تو نے مجھے صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کی یاد دلادی۔“ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: رسول اللّٰہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے میری طرف دیکھا کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں تو ارشاد فرمایا: ”ادھر آؤ۔“ چنانچہ، آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مسواک پر میری مونچھیں تراش دیں۔<sup>(۳)</sup>

مونچھوں کے کنارے والے بالوں کو چھوڑنے میں حرج نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رَضْوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ نے اس طرح کیا ہے، اس لئے کہ یہ حصہ نہ تو منہ کو ڈھانپتا ہے اور نہ ہی اس میں کھانے کی چکناہٹ باقی رہتی ہے کیونکہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچتی۔ سرکار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”أَعْفُوا اللَّحِي“ کا مطلب یہ ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ۔

### یہود کی مخالفت کرو:

حدیث پاک میں ہے کہ ”یہود مونچھیں بڑھاتے اور داڑھیاں کاٹتے ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔“<sup>(۴)</sup> بعض علما نے مونچھیں مونڈنے کو مکروہ سمجھا اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔

①..... **نقریس**: وہ درد جو پاؤں کے انگوٹھے میں ہوتا ہے۔ (فروز اللغات، ص ۱۴۳)

②..... قوت القلوب، الفصل السادس والاربعون فیہ کتب ذکر دخول الحمام، ج ۴، ص ۴۳۰۔

③..... المرجع السابق، ص ۴۳۰۔

④..... سنن النسائی، کتاب الغسل، باب الرخصة فی دخول الحمام، الحدیث: ۳۹، ص ۷۲۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب دخول الحمام، الحدیث: ۳۷۸، ج ۴، ص ۲۲۲۔



(۳)..... بگلوں کے بال: 40 دن کے اندر اندر بگلوں کے بال اکھیڑنا مستحب ہے۔ جو شخص ابتدا میں ہی اکھیڑنے کی عادت بنا لے اس کے لئے اکھیڑنا آسان ہے لیکن جو شروع سے موٹڈنے کی عادت بنائے اس کے لئے موٹڈنا کافی ہے کیونکہ اکھیڑنے میں اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور مقصود صفائی کا حصول اور یہ کہ اس میں میل کچیل جمع نہ ہو اور یہ چیز موٹڈنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔

(۴)..... زیر ناف بال: ان بالوں کو موٹڈنا یا چونا لگا کر دور کرنا مستحب ہے اور 40 دن سے تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔

(۵)..... ناخن تراشنا: یہ مستحب ہے کیونکہ بڑھے ہوئے ناخن برے لگتے ہیں نیز ان میں میل جمع ہو جاتا ہے۔

### شیطان کے بیٹھنے کی جگہ:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا ئے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! اپنے ناخنوں کو کاٹو کیونکہ بڑھے ہوئے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

مسئلہ: اگر ناخنوں میں میل ہو تو یہ وضو کے صحیح ہونے سے مانع نہیں کیونکہ یہ پانی پہنچنے کو نہیں روکتی نیز اس وجہ سے کہ اس میں غفلت ہو جاتی ہے اور ضرورت کے تحت اس میں نرمی کی جاتی ہے خصوصاً مرد کے ناخنوں کے معاملے میں۔ اسی طرح عریبوں اور دیہاتیوں کی انگلیوں کے جوڑوں اور ہاتھوں اور پاؤں کی پیٹھ پر جو میل جمع ہو جاتا ہے وہ بھی وضو سے مانع نہیں۔ کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ناخنوں کے کاٹنے کا حکم فرماتے تھے<sup>(۲)</sup> اور ان کے میل کو ناپسند فرماتے لیکن (اس حالت میں پڑھی گئی) نماز لوٹانے کا حکم نہ فرماتے، اگر کبھی حکم دیا بھی تو اس سے مقصود ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ ہوتی تھی۔ (اس مقام پر حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِی نے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے متعلق ایک نفیس و پیچیدہ بحث فرمائی ہے۔ اہل علم حضرات اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے)

### ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ:

حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے منقول ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے

5..... قوت القلوب، الفصل السادس والاربعون فیہ کتب ذکر دخول الحمام، ج، ص ۲۳۰۔

6..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۷۱۳، ج ۳، ص ۵۔

ترتیب وار چھنگلیا سمیت ناخن تراشیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب اٹے ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہاتھ ہی سے شروع ہوا اور سیدھے ہاتھ ہی پر ختم ہوا (حضرت سیّدنا امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِیِی فرماتے ہیں: میں نے کتابوں میں ناخن کاٹنے کی ترتیب کے متعلق کوئی روایت نہیں دیکھی البتہ، میں نے مشائخ سے سنا ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے (ناخن کاٹنے) شروع فرماتے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم فرماتے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم فرماتے۔

### پاؤں کے ناخن تراشنے کا احسن طریقہ:

جہاں تک پاؤں کی انگلیوں کا تعلق ہے کہ اگر ان کے متعلق کوئی روایت نہ ہو تو اس میں میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے جیسے ان کا خلال کیا جاتا ہے۔

### سرمہ لگانے کا مسنون طریقہ:

افعال کی ترتیب کے سلسلے میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سرمہ لگانے کو یہی دیکھ لیجئے کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دائیں آنکھ میں تین اور بائیں آنکھ میں دو سلائیاں لگاتے تھے اور دائیں آنکھ کی شرافت کی وجہ سے اس سے آغاز کرتے۔<sup>(۱)</sup>

دونوں آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہوئے فرق اس لئے رکھتے تھے تاکہ مجموعہ طاق ہو جائے کہ طاق کو جفت پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ ”اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَر (طاق) ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔“<sup>(۲)</sup> لہذا ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ بندے کا کوئی فعل اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے اوصاف میں سے کسی وصف سے مناسبت نہ رکھتا ہو۔ اسی لئے استنجا کرتے ہوئے طاق پتھر استعمال کرنا مستحب ہے اور (سرمہ لگانے میں) تین بار پر اکتفا نہیں کیا گیا حالانکہ یہ طاق عدد ہے کیونکہ اس طرح بائیں آنکھ میں صرف ایک بار سرمہ لگانا پڑتا اور غالب یہ ہے کہ ایک بار سرمہ لگانا پلکوں کی جڑوں تک بھی نہیں پہنچتا اور (بائیں کے مقابلے میں) دائیں آنکھ میں تین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت طاق عدد میں ہے اور

①..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، الحدیث: ۲۶، ص ۱۵۴۔

دائیں آنکھ افضل ہونے کے سبب اس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر کہا جائے کہ بائیں آنکھ میں دو پرکیوں اکتفا کیا گیا حالانکہ یہ جفت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ضرورت کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ ہر آنکھ میں طاق عدد میں لگانے سے اس کا مجموعہ جفت ہو جاتا۔ کیونکہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتے ہیں اور فعل کے مجموعہ میں طاق کا خیال رکھنا ایک ایک میں طاق کا خیال رکھنے سے بہتر ہے اس کی ایک اور صورت بھی ہے وہ یہ کہ وضو پر قیاس کرتے ہوئے ”دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں لگائے“<sup>(۱)</sup> اور یہی زیادہ بہتر ہے۔

الغرض اگر میں ان تمام باتوں کی باریکیوں کی تلاش میں لگ جاؤں جن کا حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل ہو جائے گی۔ لہذا جو کچھ تم نے سنا اسی پر اسے بھی قیاس کر لو جو نہیں سنا۔ جان لیجئے کہ کوئی عالم اس وقت تک حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا وارث نہیں بن سکتا جب تک کہ شریعت کے تمام معانی پر آگاہ نہ ہو جائے یہاں تک کہ اس کے اور حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے درمیان صرف ایک درجہ فرق رہ جائے اور وہ درجہ نبوت ہے اور یہی درجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کرنے والا ہے کیونکہ مورث وہ ہوتا ہے جسے مال حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے حصول میں مشغول ہوتا ہے اور وہ اس پر قادر ہوتا ہے جبکہ وارث وہ ہوتا ہے جسے مال حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس پر قادر ہوتا ہے لیکن جب وہ مال مورث کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے اور یہ اس سے لے لیتا ہے۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ گہرائی اور پوشیدگی کے اعتبار سے باوجود آسان ہونے کے ابتداءً ان کا ادراک صرف انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو ہی ہوتا ہے پھر ان کی طرف سے آگاہی کے بعد استنباط کے ذریعے صرف علماء ہی جان سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے وارث ہیں۔

(۷، ۶)..... ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا حصہ: ناف (کا بڑھا ہوا حصہ) تو ولادت کے وقت کاٹ دیا جاتا ہے اور ختنہ کے ذریعے طہارت حاصل کرنے میں یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ولادت کے ساتویں دن ختنہ کرتے ہیں لیکن ان

②..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، الحدیث: ۲۵۹، ص ۱۵۳، بلفظ ”احفو“۔

کی مخالفت کرتے ہوئے اگلے دانت نکلنے تک تاخیر کرنا پسندیدہ اور خطروں سے دور ہے<sup>(۱)</sup>۔ مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ختنہ کرنا مردوں کے لئے سنت اور عورتوں کے لئے باعثِ عزت ہے“<sup>(۲)</sup>۔“<sup>(۳)</sup>

عورتوں کے ختنہ میں مبالغہ نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت سیدتنا اُمّ عظیمہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا بچیوں کے ختنہ کیا کرتی تھیں، حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے اُمّ عظیمہ! ذرا سی بوسنگھا دو اور زیادہ نہ کاٹو کیونکہ اس سے چہرے کی تازگی زیادہ ہوگی اور خاوند لڈت زیادہ پائے گا۔“<sup>(۴)</sup> یعنی چہرے کی رونق اور خون زیادہ ہوگا اور جماع میں شوہر زیادہ لطف اندوز ہوگا۔

پس غور کیجئے کہ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کس طرح کنایۂ پیارے انداز میں بیان فرمایا اور نور نبوت کی چمک کو دیکھیں کہ اس نے کس طرح اُخروی مقاصد کو دنیوی مقاصد تک پہنچایا یہاں تک کہ آپ پر یہ باتیں منکشف ہو گئیں حالانکہ آپ نے (مخلوق میں) کسی سے پڑھا نہیں تھا۔ اگر یہ باتیں واضح نہ ہوتیں اور آپ سے غفلت کے باعث صادر ہوتیں تو اس کے نقصان کا خوف ہوتا پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ آپ کی بعثت کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائیاں جمع ہو جائیں۔

(۸)..... داڑھی کے بڑھے ہوئے بال کا ثنا: اسے ہم نے آخر میں اس لئے ذکر کیا تاکہ اس میں جو باتیں سنت یا

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی ترک الوضوء ممّا مست النار، الحدیث ۱۸۵، ج ۱، ص ۹۶۔

④..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی امامۃ الباہلی، الحدیث ۲۲۳۴، ج ۸، ص ۳۰۰۔

قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۴، ص ۲۴۲۔

①..... فردوس الاخبار للدیلمی، باب القاف، الحدیث ۴۶۱۴، ج ۲، ص ۱۵۴، بخطاب علی رضی اللہ عنہ۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، الحدیث ۲۵۸-۲۵۹، ص ۱۵۳۔

①..... المعجم الکبیر، الحدیث ۱۳۳۵۳، ج ۱۲، ص ۲۷۹، بتغییر قلیل۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ..... الخ، باب فی اسماء اللہ تعالیٰ..... الخ، الحدیث ۲۶۴۷، ص ۱۲۳۹۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطب، باب من اکتحل وتراء، الحدیث ۳۴۹:۹، ج ۴، ص ۱۱۶۔

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۹۷ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد ۳ صفحہ ۵۸۹ پر ہے:

مستحب ہیں انہیں بھی اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیا جائے کیونکہ یہاں ان باتوں کا ذکر زیادہ مناسب ہے۔  
 (ایک مٹھی سے) زائد داڑھی (کاٹنے) میں اختلاف ہے۔ منقول ہے کہ اگر آدمی اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر زائد حصے کو کاٹ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ نے ایسا کیا اور حضرت سیدنا امام شعبی اور حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اسے اچھا جانا جبکہ حضرت سیدنا حسن بصری اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے اسے مکروہ قرار دیا اور فرمایا: ”اسے بڑھا ہوا چھوڑنا زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ سر کا ردو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اعفوا للذیۃ یعنی داڑھیاں بڑھاؤ۔“ (۱)  
 اگر داڑھی کاٹنے اور کناروں سے گول کرنے کی نوبت نہ آئے تو (ایک مٹھی سے) زائد داڑھی کاٹنے میں مضائقہ نہیں کیونکہ حد سے بڑھی ہوئی داڑھی کبھی صورت کو بگاڑ دیتی اور غیبت کرنے والوں کی زبانیں کھول دیتی ہے۔ لہذا اس نیت کی بنا پر اس سے بچنے میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا امام نخعی علیہ رحمۃ اللہ الکی فرماتے ہیں کہ ”مجھے طویل داڑھی والے عقل مند شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کیوں نہیں کاٹتا اور اسے دو داڑھیوں کے درمیان کیوں نہیں کرتا اس لئے کہ ہر چیز میں اعتدال اچھا لگتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب داڑھی (زیادہ) بڑھ جاتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔“ (۲)

## داڑھی کے مکروہات:

دس باتیں داڑھی میں مکروہ (نا پسندیدہ) ہیں اور بعض بعض سے زیادہ نا پسندیدہ ہیں: (۱)..... سیاہ خضاب لگانا  
 (۲)..... گندھک سے سفید کرنا (۳)..... (مطلقاً داڑھی کے بال) اکھیڑنا (۴)..... سفید بال اکھیڑنا (۵)..... داڑھی میں کمی یا زیادتی کرنا (۶)..... ریا کاری کی نیت سے کنگھی کرنا (۷)..... زہد دکھانے کی نیت سے کنگھی کے بغیر بال بکھرے چھوڑ دینا (۸)..... جوانی پر فخر کرتے ہوئے اس کی سیاہی پر خود پسندی میں مبتلا ہونا (۹)..... بڑی عمر پر تکبر کرتے ہوئے اس کی سفیدی پر خوش ہونا اور (۱۰)..... سرخ اور پیلا خضاب لگانا جبکہ صالحین کے ساتھ مشابہت کی نیت نہ ہو۔

خندہ کی مدت سات سال سے بارہ سال کی عمر تک ہے اور بعض علما نے یہ فرمایا کہ ولادت سے ساتویں دن کے بعد خندہ کرنا جائز ہے۔  
 ②..... بہار شریعت جلد 3 صفحہ 589 پر مزید فرماتے ہیں: ”خندہ سنت ہے اور یہ شعائر اسلام ہے کہ مسلم وغیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا

## سیاہ خضاب سے ممانعت کی روایات:

﴿1﴾..... سیاہ خضاب لگانا: مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”تم میں سے بہترین نوجوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑھوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور تم میں سے بُرے بوڑھے وہ ہیں جو تمہارے نوجوانوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔“ (۱)

بوڑھوں سے مشابہت اختیار کرنے کا مطلب وقار میں مشابہت اختیار کرنا ہے نہ کہ بالوں کو سفید کرنے میں۔ نیز سیاہ خضاب سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”هُوَ خِضَابُ أَهْلِ النَّارِ یعنی یہ جہنمیوں کا خضاب ہے۔“ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: اَلْخِضَابُ بِالسَّوَادِ خِضَابُ الْكُفَّارِ یعنی سیاہ خضاب کفار کا خضاب ہے۔ (۳)

## حکایت: دھوکے باز:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے زمانے میں ایک شخص نے نکاح کیا وہ سیاہ خضاب لگا تا تھا۔ جب خضاب اُترا تو بڑھا پا ظاہر ہو گیا عورت کے گھر والوں نے معاملہ عدالتِ فاروقی میں پیش کیا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کا نکاح فسخ کر دیا اور اسے خوب مارا اور فرمایا: ”تو نے ان لوگوں کو جوانی کے ساتھ دھوکا دیا اور بڑھاپے کو چھپایا۔“ منقول ہے کہ سیاہ خضاب سب سے پہلے فرعون ملعون نے لگایا۔ (۴)

## خوشبوئے جنت سے محروم لوگ:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو بوتروں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے۔“ (۵)

ہے اسی لیے عرفِ عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں۔“

اور لڑکیوں کے ختنے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، شاہِ امام احمد رضا خان عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ”لڑکیوں کے ختنہ کرنے کا تاکیڈی حکم نہیں اور یہاں پاک و ہند میں رواج نہ ہونے کے سبب عوام اس پر پابندی نہیں لگائیں گے اور یہ ان کے گناہِ عظیم میں پڑنے کا سبب ہوگا اور حفظِ دینِ مسلمانان واجب ہے۔ لہذا یہاں (پاک و ہند میں) اس کا حکم نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۲، ص ۶۸۰)

## سرخ یا زرد رنگ کا خضاب لگانے کا حکم:

﴿2﴾..... سرخ اور زرد رنگ کا خضاب لگانا: یہ جہاد میں کفار پر جوانی ظاہر کرنے کے لئے جائز ہے۔ اگر اس نیت سے نہ ہو بلکہ دین دار لوگوں سے مشابہت کے لئے ہو تو مذموم (برا) ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”زرد خضاب مسلمانوں کا خضاب ہے اور سرخ خضاب مؤمنین کا خضاب ہے۔“ (۱) اور صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرخی کے لئے مہندی اور زردی کے لئے خلوق اور کتم (۲) لگاتے تھے نیز بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جہاد کے لئے سیاہ خضاب لگایا ہے اور جب نیت صحیح ہو اور خواہشات کا عمل دخل نہ ہو تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

## فضیلت کا باعث علم ہے نہ کہ بڑی عمر:

﴿3﴾..... داڑھی کو گندھک سے سفید کرنا: تاکہ جلدی جلدی بڑی عمر ظاہر ہو، لوگ عزت کریں، گواہی قبول کی جائے، مشائخ سے روایت کرنے پر تصدیق ہو جائے، جوانوں پر نفیقت حاصل ہو، کثرت علم کا اظہار ہو اور یہ خیال ہو کہ عمر کا زیادہ ہونا اس کے لئے باعث فضیلت ہوگا، لیکن افسوس! عمر کی زیادتی سے جاہل کی جہالت میں ہی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ علم تو عقل کا نتیجہ ہے اور یہ فطرتی چیز ہے اس میں بڑھاپا اثر انداز نہیں ہوتا اور جس کی فطرت میں ہی حماقت ہو تو مدت کی طوالت اس کی حماقت کو پختہ کرتی ہے جبکہ مشائخ کرام علم کی بدولت جوانوں کو ترجیح دیتے تھے (نہ کہ عمر کی زیادتی کے سبب)۔ چنانچہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نو جوان ہونے کے باوجود بڑی عمر والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مقدم کرتے تھے اور انہیں سے پوچھتے تھے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل اپنے بندے کو جوانی میں ہی علم

3..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند البصریین، حدیث أسامة الهذلی، الحدیث ۲۰۷۴، ج ۷، ص ۳۸۱۔

4..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الاشربة، باب السلطان يكره على الاختتان، الحدیث ۱۷۵۵، ج ۸، ص ۵۶۲۔

1..... صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، الحدیث ۲۵۹، ص ۱۵۴۔

عطا فرماتا ہے اور تمام بھلائی جو انی میں ہے۔<sup>(۱)</sup> پھر یہ تین آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں:

﴿۱﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ  
إِبْرَاهِيمُ ۝ (پ ۱، الانبیاء: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو  
انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔

﴿۲﴾

إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ  
هُدًى ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان  
لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔

﴿۳﴾

وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریہ: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی۔

آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال:

حضرت سپید نانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے  
وصال فرمایا تو آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک میں بیس (۲۰) سفید بال تھے۔“ حضرت سپید نانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
سے پوچھا گیا: ”اے ابو حمزہ! پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تو کافی ہو چکی تھی۔“ فرمایا: ”اللہ  
عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا۔“ عرض کی گئی: ”کیا یہ عیب ہے؟“ فرمایا:  
”تم میں سے ہر ایک اسے ناپسند کرتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

## کم عمری میں عہدہ قضا:

منقول ہے کہ حضرت سپید نانس ایچ اکتھم علیہ رحمۃ اللہ اکوّم کو 21 سال کی عمر میں عہدہ قضا سونپا گیا تو چھوٹی عمر کی  
وجہ سے ایک شخص نے رسوا کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ، ایک بار مجلس میں اس نے پوچھا: ”اللہ عزوجل قاضی صاحب کی

②..... قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۲۔

①..... المعجم الكبير، الحديث ۲۰۲، ج ۲۲، ص ۲۲۔



مد فرمائے، ان کی عمر کتنی ہے؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”جب مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عتاب بن اسید رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو مکہ معظمہ کا والی بنایا تو جتنی عمر ان کی تھی (اتنی میری ہے)۔“ یوں آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اسے لا جواب کر دیا۔<sup>(۱)</sup>

## بکرے کی بھی داڑھی ہوتی ہے:

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ تجھے داڑھی دھوکانہ دے اس لئے کہ بکرے کی بھی داڑھی ہوتی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا ابو عمر و بن علاء رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کا قدمبا، سر چھوٹا اور داڑھی چوڑی ہو تو اس پر احق ہونے کا حکم لگاؤ اگرچہ وہ امیہ بن عبد شمس ہی کیوں نہ ہو۔“<sup>(۳)</sup>

## بوڑھا طالب علم:

حضرت سیدنا ایوب سختیانی قُدَسَ سِرُّهُ التُّورَانِي فرماتے ہیں: ”میں نے 80 سالہ بوڑھے شخص کو ایک نوجوان کے پیچھے چلتے دیکھا وہ اس نوجوان سے علم حاصل کرتا تھا۔“<sup>(۴)</sup>

حضرت سیدنا علی بن حسن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”جو علم میں تجھ پر سبقت لے گیا وہ تیرا امام ہے، اگرچہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو۔“<sup>(۵)</sup>

حضرت سیدنا ابو عمر و بن علاء رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے پوچھا گیا: ”کیا بوڑھے شخص کو زب دیتا ہے کہ وہ بچے سے علم حاصل کرے؟“ فرمایا: ”اگر جہالت بری چیز ہے تو علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے۔“<sup>(۶)</sup>

## حصول علم کی جستجو:

حضرت سیدنا یحییٰ بن معین عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِين نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَوَّل کو حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُفَافِي کی سواری کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ حضرت

②..... قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۲۔

③..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، الصفة خضاب المؤمن، الخ، الحدیث: ۶۲۹، ج ۴، ص ۶۷۔

سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود ان کی حدیث کو چھوڑ کر اس نوجوان کے پیچھے چل رہے اور ان سے حدیث سن رہے ہیں۔“ فرمایا: ”اگر تم انہیں پہچانتے تو ان کی دوسری طرف تم چل رہے ہوتے، اگر مجھے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان کا علم نہ ملا تو نیچے آنے سے حاصل ہو جائے گا اور اگر میں اس نوجوان کی عقل سے استفادہ نہ کر پاؤں تو بلندی و پستی کہیں سے بھی علم حاصل نہ کر سکوں گا۔“ (۱)

### مومن کا نور:

﴿4﴾..... نفرت کے باعث سفید بالوں کو اکھیڑنا: حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”هُوَ نَوْرُ الْمُؤْمِنِ“ یعنی یہ مومن کا نور ہے۔“ (۲)

سفید بال اکھیڑنا سیاہ خضاب کے معنی میں ہے اور اس کے مکروہ ہونے کی علت گزر چکی ہے۔ نیز سفید بال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے نور ہے اور ان سے منہ پھیرنا اور الہی سے منہ پھیرنا ہے۔

﴿5﴾..... بے مقصد اور خواہش کے تحت داڑھی یا اس کے کچھ بال اکھیڑنا: یہ مکروہ اور صورت کو بگاڑنا ہے اور سچی (یعنی نچلے ہونٹ کے درمیانی بالوں) کے دونوں اطراف کے بال اکھیڑنا بدعت ہے۔

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا وہ داڑھی کے اطراف کے بال اکھیڑتا تھا آپ نے اس کی گواہی رد کر دی۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور مدینے کے قاضی حضرت سیدنا ابن ابی لیلی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے داڑھی اکھیڑنے والے کی گواہی قبول نہ کی۔

### فرشتوں کی قسم کا انداز:

داڑھی اُگنے کی ابتدا میں مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے داڑھی کے بال اکھیڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ داڑھی مردوں کی زینت ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ فرشتے ان الفاظ میں قسم کھاتے ہیں: ”اس ذات کی قسم جس

4..... قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۲۔

5..... سنن النسائي، كتاب الزينة، المنهى عن الخضاب بالسواد، الحديث ۵۰۸۵، ص ۸۱۲۔

نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی۔<sup>(۱)</sup> نیز یہ تکمیل تخلیق کا باعث ہے۔ اسی سے مرد و عورت میں تمیز ہوتی ہے۔  
غریب التویل میں منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان: **يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ** ط (پ ۲۲، فاطر: ۱) ترجمہ  
کنز الایمان: بڑھاتا ہے آفرینش (پیدائش) میں جو چاہے۔“ سے مراد داڑھی ہے۔

حضرت سیدنا احنف بن قیس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ كَسَاكَ شَاكَرًا دَفْرًا مَا يَكْرَهُ تَحْتَهُمْ جَاهِتُمْ هِيَ كَمَا اَحْفَافُ كَلِّهِمْ  
داڑھی خرید لیں اگرچہ 20 ہزار کی ملے۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا قاضی شریح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”میں چاہتا ہوں کہ میری داڑھی ہو اگرچہ 10 ہزار کی ہو۔“<sup>(۳)</sup>  
تم کیسے داڑھی کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں مرد کی تعظیم ہے، اس کی طرف علم اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے،  
مجالس میں بلند مقام دیا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے جماعت پر مقدم کرتے ہیں، اس کی عزت  
محفوظ رہتی ہے کیونکہ گالی دینے والا شخص جسے گالی دے رہا ہے اگر اس کی داڑھی ہو تو پہلے اس کا ذکر کرتا ہے۔

## باریش جنتی:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ہارون اعلیٰ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کے علاوہ تمام جنتی بغیر داڑھی کے ہوں گے اور  
آپ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی خصوصیت و فضیلت کے باعث آپ کی داڑھی ناف تک ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

﴿6﴾..... اس خیال سے داڑھی کتر کے تہ بہ تہ کرنا تا کہ عورتوں کی نظروں میں خوبصورت ہو خواہ تکلف  
سے ہی کیوں نہ ہو: حضرت سیدنا کعب الاحبار رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”آخر زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے  
جو اپنی داڑھیوں کو کبوتر کی دم کی طرح کاٹیں (یعنی گول کریں) گے اور جو تلوں سے درانتیوں جیسی آوازیں نکالیں گے ان  
کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔“<sup>(۵)</sup>

﴿7﴾..... داڑھی بڑھانا: یعنی کنپٹیوں کے بالوں کو گالوں کے بال شمار کرنا، حالانکہ وہ سر کے بال ہیں یہاں تک کہ  
داڑھی بڑی ہو کر نصف رخسار تک پہنچ جاتی ہے اور یہ نیک لوگوں کی ہیئت کے خلاف ہے۔

①..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، الصفة خضاب المؤمن، الخ، الحديث ۶۲۹، ج ۴، ص ۶۷۶۔

قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۲۔

## دو شرکِ خفی:

﴿8﴾..... لوگوں کو دکھانے کے لئے کنگھی کرنا: حضرت سپدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكافی فرماتے ہیں: ”داڑھی کے معاملے میں دو شرکِ خفی (ریا کاری) ہیں: (۱)..... ریا کاری کی نیت سے کنگھی کرنا اور (۲)..... زہد و تقویٰ ظاہر کرنے کی نیت سے بکھری ہوئی چھوڑ دینا۔“<sup>(۱)</sup>

﴿109﴾..... داڑھی کی سفیدی اور سیاہی کو خود پسندی کی نگاہ سے دیکھنا: اور یہ جسم کے تمام اجزا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے بلکہ تمام اخلاق و افعال میں خود پسندی بری صفت ہے اس کا بیان آگے آئے گا۔

## احادیث سے ماخوذ بارہ سنتیں:

زینت و پاکیزگی کی اقسام کے متعلق ہمارا اسی قدر تفصیل ذکر کرنے کا ارادہ تھا۔ تین احادیث مبارکہ سے جسم میں بارہ باتوں کا سنت ہونا معلوم ہوا۔ پانچ سنتوں کا تعلق سر سے ہے: (۱) سر کے بالوں کے درمیان مانگ نکالنا<sup>(۲)</sup> (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی چڑھانا<sup>(۳)</sup> (۴) مونچھیں کاٹنا اور (۵) مسواک کرنا۔ تین کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے: (۱) ناخن کاٹنا (۲) انگلیوں کی سلوٹیس دھونا اور (۳) (انگلیوں کے) اندرونی جوڑوں کی صفائی کرنا۔<sup>(۴)</sup> چار کا تعلق جسم سے ہے: (۱) بغلوں کے بال اٹھینا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) ختنہ کرنا اور (۴) پانی سے استنجا کرنا۔ ان تمام کے بارے میں احادیثِ مقدسہ مروی ہیں اور اس باب میں ظاہری طہارت کا بیان مقصود ہے نہ کہ باطنی طہارت کا۔ لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ باطنی نجاستیں اور گندگیاں جن سے پاک ہونا ضروری ہے، وہ شمار سے باہر ہیں ان کی تفصیل مہلکات کے باب میں آئے گی وہیں ان کے زائل کرنے اور دل کو ان سے پاک کرنے کے طریقے بیان کئے جائیں گے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔



﴿2﴾..... غلوق: ایک خوشبو جو عجز، مشک اور کافور کی آمیزش (ملاوٹ) سے بنتی ہے۔ کتم: ایک قسم کی گھاس جس کو مہندی میں ملا کر موسم اور اس کی جڑ پکا کر سیاہ روشنائی بناتے ہیں۔ از علمیه

﴿1﴾..... قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ص ۲۴۲۔

## نماز کا بیان

سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے اپنے لطف و کرم سے بندوں کو ڈھانپا، دین اور احکام دین کے انوار سے ان کے دلوں کو آباد فرمایا، وہ ذات کہ عرش الہی سے آسمان دنیا کی طرف درجاتِ رحمت میں سے اس کی کوئی نہ کوئی مہربانی اُترتی رہتی ہے۔ وہ اپنے جلال و کبریائی میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہوں سے یوں بھی ممتاز ہے کہ وہ مخلوق کو سوال و دعا کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دوں؟ بادشاہوں کا اس سے کیا مقابلہ؟ اس نے تو دروازہ کھول کر پردہ اٹھا دیا اور بندوں کو نماز میں مناجات کرنے کی اجازت دے دی، نہ صرف رخصت پر اکتفا کیا بلکہ دعوت و ترغیب کے ذریعے بھی مہربانی فرمائی جبکہ دیگر دنیوی کمزور بادشاہ تو کسی کوتہائی میں وقت بھی نہیں دیتے جب تک انہیں ہدیہ یا رشوت نہ دی جائے۔ پاک ہے وہ ذات، اس کی شان کتنی عظیم ہے۔ اس کی بادشاہت کتنی قوی ہے۔ اس کا لطف و کرم کتنا کامل ہے۔ اس کا احسان کتنا عام ہے۔ درود اور خوب سلام ہوں اس کے منتخب نبی اور پسندیدہ دوست حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور آپ کے آل و اصحاب رِضْوَانُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِم اٰجْمَعِیْنَ پر جو ہدایت کی کنجیاں اور تارکیوں کے چراغ ہیں۔

بے شک نماز دین کا ستون، یقین کا وسیلہ، عبادات کی اصل اور طاعات کی چمک ہے۔ ہم نے فن فقہ کی کتب ”بَسِیْطُ الْمَذْهَبِ، وَبَسِیْطُ الْمَذْهَبِ اور وَجِیْزُ الْمَذْهَبِ“ میں نماز کے اصولی و فروعی مسائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نیز بہت سے نادر و کم وقوع پذیر ہونے والے مسائل ان میں درج کئے ہیں تاکہ یہ مفتی کے لئے نثرانہ بن جائے اور بوقت ضرورت وہ اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے مدد حاصل کرے۔ یہاں اس باب میں ہم صرف ان اعمالِ ظاہرہ اور اسرارِ باطنہ کو بیان کریں گے جن کا جاننا راہِ آخرت کے مسافر پر ضروری ہے۔ نیز خشوع و خضوع، اخلاص اور نیت کے وہ پوشیدہ معانی واضح کریں گے جنہیں عام طور پر فقہ میں بیان نہیں کیا جاتا اسے ہم سات ابواب پر تقسیم کرتے ہیں: (۱)..... نماز کے فضائل (۲)..... نماز کے ظاہری اعمال کی تفصیل (۳)..... نماز کے باطنی اعمال کی تفصیل (۴)..... امامت و پیشوائی کا بیان (۵)..... نماز جمعہ اور اس کے آداب (۶)..... متفرق مسائل جو عام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک کو ان سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے (۷)..... نوافل وغیرہ کا بیان۔

# باب نمبر ۱: نماز، سجود، جماعت اور اذان وغیرہ کے

## فضائل (یہ سات فصلوں پر مشتمل ہے)

پہلی فصل: اذان کی فضیلت

اذان کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے انہیں حساب کا خوف ہوگا نہ کوئی گھبراہٹ یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے: (۱)..... جس نے رضائے الہی کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں (۲)..... جس نے رضائے الہی کے لئے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف بلا یا (۳)..... جسے دنیا میں رزق کے معاملے میں آزما یا گیا مگر اس آزمائش نے اسے آخری اعمال سے غافل نہ کیا۔<sup>(۱)</sup>

﴿۲﴾..... جن و انس اور جو بھی چیز مؤذن کی ندا سنتی ہے وہ بروز قیامت اس کی گواہی دے گی۔<sup>(۲)</sup>

﴿۳﴾..... مؤذن کے اذان سے فارغ ہونے تک رحمن عَزَّوَجَلَّ کا دست قدرت اس کے سر پر ہوتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

نیز اس فرمان باری تعالیٰ:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۲، حم السجدة: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔

کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ”یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

﴿۴﴾..... جب تم اذان سنو تو مؤذن کی مثل کہو۔<sup>(۴)</sup>

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی اذمان تلاوتہ، الحدیث: ۲۰۰، ج ۲، ص ۳۲۸، بتغییر۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب رفع الصوت بالنداء، الحدیث: ۶۰۹، ج ۱، ص ۲۲۲۔

③..... المعجم الاوسط، من اسمہ احمد، الحدیث: ۱۹۸، ج ۱، ص ۵۳۹۔

تاریخ بغداد، عصر بن حفص: ۵۹۰، ج ۱، ص ۱۹۳۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ما یقول اذا سمع المنادی، الحدیث: ۶۱، ج ۱، ص ۲۲۳۔

”حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ“ اور ”حَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ“ کے علاوہ کلمات میں مؤذن کی مثل کہنا مستحب ہے جبکہ ان دونوں کے جواب میں ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے،<sup>(۱)</sup> کہنا اور ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ کے جواب میں ”وَأَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ“ کہنا<sup>(۲)</sup> اور تنویب (یعنی اذان فجر میں مؤذن کے قول الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوَمُّنِ کے جواب) میں ”صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ وَنَصَحْتَ“ کہنا مستحب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## اذان کے بعد کی دعا:

اذان سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَيْ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّيْفَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمُحَمَّدِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ یعنی اے اللہ عزوجل! اس دعوت تامہ اور صلوة قائمہ کے مالک تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔“<sup>(۴)</sup>

## فرشتے مقتدی:

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”جو چٹیل میدان میں نماز ادا کرتا ہے اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ نماز ادا کرتا ہے اگر وہ اذان واقامت کہہ کر نماز ادا کرے تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی مثل (یعنی کثیر تعداد میں) فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔“<sup>(۵)</sup>

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

- ①.....عمدة القارى، كتاب الاذان، باب مايقول اذا سمع المنادى، تحت الحديث؛ ۶۱، ج ۴، ص ۱۶۴، باختصار۔
- سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مايقول اذا سمع المؤذن، الحديث؛ ۵۲۷، ج ۱، ص ۲۲۲، باختصار۔
- ②.....سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب مايقول اذا سمع الإقامة، الحديث؛ ۵۲۸، ج ۱، ص ۲۲۲۔
- ③.....تلخيص الحبير فى تخريج احاديث الراعى الكبير، كتاب الصلاة، الرقم؛ ۳۱، ج ۱، ص ۵۱۹، دون ونصحت۔
- ④.....سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب ماجاء فى الدعاء عند الاذان، الحديث؛ ۵۲۹، ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۳۔
- تلخيص الحبير فى تخريج احاديث الراعى الكبير، كتاب الصلاة الرقم؛ ۳۰، ج ۱، ص ۵۱۸۔
- ⑤.....المصنف لعبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى باقامة وحده، الحديث؛ ۱۹۵، ج ۱، ص ۳۷۹۔

## دوسری فصل: فرض نماز کی فضیلت

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قرآن مجید، فرقان جمید میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۶﴾ (پ، ۵، النساء: ۱۰۳)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔

### فرض نماز کی فضیلت پر مشتمل 14 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے ان میں سے کسی کو ضائع نہ کیا تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذمہ کرم پر اس کے لئے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جس نے انہیں ادا نہ کیا اس کے لئے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذمہ کرم پر عہد نہیں، چاہے اسے عذاب دے چاہے جنت میں داخل فرمائے۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... پانچ نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرتا ہو تو تم کیا خیال کرتے ہو کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی چھوڑے گی صحابہ کرام رَضُوا اللہ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نے عرض کی: ”نہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”پانچ نمازیں (صغیرہ) گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿3﴾..... بے شک نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔<sup>(۳)</sup>

﴿4﴾..... ہمارے اور منافقین کے درمیان عشا اور فجر کی (جماعت میں) حاضری کا فرق ہے، منافقین کو ان دو نمازوں میں حاضری کی طاقت نہیں۔<sup>(۴)</sup>

﴿5﴾..... جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے اس حال میں ملا کہ اس نے نماز ضائع کی ہو تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس کی کسی نیکی کی پروا نہ

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فیمن لم یوتر، الحدیث: ۱۴۲، ج ۲، ص ۸۹۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب المشی الی الصلاة..... الخ، الحدیث: ۶۶، ۶۷، ۶۸، ص ۳۳۶۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الصلاة الخمس..... الخ، الحدیث: ۲۳۳، ص ۱۴۲۔

④..... المؤطا للامام مالک، کتاب صلاة الجاعة، باب ماجاء فی العتمة والصبح، الحدیث: ۲۹، ج ۱، ص ۱۳۳۔



کرے گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿6﴾..... نماز دین کا ستون ہے تو جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔<sup>(۲)</sup>

﴿7﴾..... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”کون سا عمل افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وقت پر نماز ادا کرنا۔“<sup>(۳)</sup>

﴿8﴾..... جس نے مکمل طہارت اور اوقات کا خیال رکھتے ہوئے پانچ نمازوں کی محافظت کی تو وہ نماز اس کے لئے

بروز قیامت نور اور برہان ہوگی اور جس نے انہیں ضائع کیا اس کا حشر فرعون اور ہامان کے ساتھ ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

﴿9﴾..... نماز جنت کی کجی ہے۔<sup>(۵)</sup>

﴿10﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اقرارِ توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز اپنے بندوں پر فرض نہیں کی اور اگر

اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کوئی اور عمل اس سے زیادہ محبوب ہوتا تو اس کے فرشتے بھی اسے اپناتے۔ فرشتوں میں سے بعض حالت

رکوع میں، بعض سجود میں، بعض قیام میں اور بعض قعدے میں ہیں۔<sup>(۶)</sup>

﴿11﴾..... جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔<sup>(۷)</sup>

**وضاحت:** یعنی قریب ہے کہ دین کی رسی کھلنے اور اس کا ستون گرنے کی وجہ سے اس شخص کا ایمان رخصت

ہو جائے اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جب کوئی شخص کسی شہر کے قریب پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اس شہر میں پہنچ

گیا اور وہاں داخل ہو گیا۔

﴿12﴾..... جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی وہ محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کے ذمہ سے نکل گیا۔<sup>(۸)</sup>

①..... کتاب الكبائر، الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة، ط ۲۔

②..... شعب الايمان للبيهقي، باب في الصلوات، الحديث ۲۸۰، ج ۳، ص ۳۹، بتغير۔

③..... صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون الايمان بالله..... الخ، الحديث ۸۵، ص ۵۸۔

④..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث ۶۵۸، ج ۲، ص ۵۷۔

⑤..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث ۱۲۶۶، ج ۵، ص ۱۰۳۔

⑥..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۶۵۔

⑦..... المعجم الاوسط، من اسمه جعفر، الحديث ۳۳۴۸، ج ۲، ص ۲۹۹۔

⑧..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حديث أم ايمن، الحديث ۲۷۳۳، ج ۱، ص ۳۸۶۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا تو جب تک اس ارادے پر رہے گا وہ نماز میں ہے۔ اس کے لئے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جائے گی۔ جب تم میں سے کوئی اقامت سنتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ (نماز میں) تاخیر کرے۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ اجرا سے ملے گا جس کا گھر زیادہ دور ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی: ”اے ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! کس وجہ سے؟“ فرمایا: ”زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے۔“ (۱)

﴿13﴾..... قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی اگر وہ کامل پائی گئی تو وہ بھی اور اس کے سارے اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ بھی اور دیگر سب اعمال بھی مردود ہو جائیں گے۔ (۲)

﴿14﴾..... حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہو۔“

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”نمازی کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو اس وقت تک نفع حاصل نہیں کر سکتا جب تک پورا مال خرچ نہ کرے۔ یونہی نمازی کی نفل نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ فرض ادا نہ کر لے۔“ (۳)

جب نماز کا وقت ہوتا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے: ”اٹھو اس آگ کی طرف جو تم نے جلا رکھی ہے اور اسے بجھا دو۔“ (۴)

﴿..... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... الموطا للامام مالک، کتاب الطہارۃ، باب جامع الوضوء، الحدیث: ۶، ج ۱، ص ۵۴۔

②..... الموطا للامام مالک، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب جامع الصلاة، الحدیث: ۴۲، ج ۱، ص ۱۶۹، بتغییر۔

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل قیام شہر رمضان، الحدیث: ۳۲۸، ج ۳، ص ۱۸۲۔

④..... کنز العمال، کتاب الصلاة، قسم الاقوال، الحدیث: ۱۹۰۴، ج ۷، ص ۱۲۸، عن انس۔

## تیری فصل: ارکانِ نماز پورا کرنے کی فضیلت

### چھ فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾..... فرض نماز کی مثال ترازو کی سی ہے جس نے اسے پورا کیا اسے پورا اجر ملے گا۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا یزید بن ابان رقاشی حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نماز برابر ہوتی تھی گویا اس کا وزن کیا گیا ہو۔“<sup>(۲)</sup>

﴿2﴾..... میری امت کے دو شخص نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

اس سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے خشوع و خضوع کی طرف اشارہ فرمایا (یعنی خشوع و خضوع کے سبب ایک کی نماز افضل ہو جاتی ہے)۔

﴿3﴾..... اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بروزِ قیامت اس بندے کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جس کی پیٹھ رکوع و سجود کے درمیان سیدھی نہیں ہوتی۔<sup>(۴)</sup>

﴿4﴾..... جو شخص نماز میں چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے نہ بدل ڈالے۔<sup>(۵)</sup>

﴿5﴾..... جس نے اچھی طرح وضو کر کے وقت پر نماز ادا کی خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کو پورا کیا تو اس کی نماز سفید چمکتی ہوئی بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو شخص کامل وضو کے ساتھ وقت پر نماز نہیں پڑھتا، رکوع و سجود خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتا تو وہ نماز سیاہ اور تاریک

①..... کتاب الزهد لابن المبارك، الجزء التاسع، الحديث ۱۱۹، ص ۴۱۹۔

②..... کتاب الزهد لابن المبارك، باب ماجاء فی فضل العبادة، الحديث ۳: ۱، ص ۳۴۔

③..... كشف الخفاء، خاتمة یختم بها الكتاب، ج ۲، ص ۳۷۶۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی هريرة، الحديث ۱۰۸۰۳، ج ۳، ص ۶۱۷۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تحريم سبق الامام برکوع..... الخ، الحديث ۴۲، ص ۲۲۸۔

ہو کر بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں جاتی ہے جہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ہے تو اس کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿6﴾..... لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے<sup>(۲)</sup>۔<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ ”نماز پیمانہ ہے جس نے اسے پورا کیا اسے پورا بدلہ ملے گا اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کمی کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿..... تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ .....﴾

﴿..... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ .....﴾

①..... المعجم الاوسط، الحديث ۳۰۹۵، ج ۲، ص ۲۲۷۔

②..... صحابہ کرام رَضُوا اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا۔“ ارشاد فرمایا: ”رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے۔“

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِحِ، ج 2، ص 78 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: واہ سُبْحَانَ اللّٰهِ کیا نفس تمثیل ہے یعنی مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے کیونکہ مال کا چور اگر سزا پاتا ہے تو کچھ نفع بھی اٹھالیتا ہے مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا نفع کچھ حاصل نہیں کرتا نیز مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے نماز کا چور اللہ کا حق، نیز مال کا چور یہاں سزا پا کر عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے مگر نماز کے چور میں یہ بات نہیں نیز بعض صورتوں میں مال کے چور کو مالک معاف کر سکتا ہے لیکن نماز کے چور کی معافی کی کوئی صورت نہیں خیال کرو کہ جب نماز ناقص پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہے۔ پھر جو کل یا بعض نمازوں کے منکر ہو چکے جیسے بھنگی پوستی فقیر اور چکر الوی وغیرہ ان کا کیا پوچھنا۔

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، حديث ابى قتادة الانصاري، الحديث ۲۲۷۰، ج ۸، ص ۳۸۶۔

④..... كنز العمال، كتاب الصلاة، الحديث ۲۲۵۳۸، ج ۸، ص ۹۵۔

## پوچھی فصل: نماز باجماعت کے فضائل فضیلت جماعت پر مشتمل پانچ فرامین مصطفیٰ:

- ﴿1﴾..... باجماعت نماز تنہا نماز سے 27 درجے افضل ہے۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نمازوں میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا تو ارشاد فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز (باجماعت) سے پیچھے رہ جاتے ہیں<sup>(۲)</sup> اور ان پر ان کے گھر جلا دوں۔<sup>(۳)</sup>
- ﴿3﴾..... ایک روایت میں ہے کہ پھر میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کی طرف جاؤں اور ان کے متعلق حکم دوں کہ ان پر ان کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھے سے جلا دیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یادوا چھے کھر پائے گا تو اس نماز (یعنی نمازِ عشا) میں ضرور حاضر ہوتا۔<sup>(۴)</sup>
- ﴿4﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو نماز عشا جماعت سے پڑھے تو گویا وہ آدھی رات عبادت میں کھڑا رہا اور جو فجر جماعت سے پڑھے تو گویا وہ ساری رات عبادت میں کھڑا رہا۔<sup>(۵)</sup>
- ﴿5﴾..... جس نے باجماعت نماز پڑھی بے شک اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر دیا۔
- حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں: ”20 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے ہی مسجد میں ہوتا ہوں۔“<sup>(۶)</sup>

- ①..... صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحدیث ۶۴۵، ج ۱، ص ۲۳۲۔
- ②..... مِرَاقَةُ الْمُنَاجِحِ، ج 2، ص 168 پر ہے: بلا عذر، لہذا اس سے چھوٹے بچے عورتیں معذور بیمار علیحدہ ہیں۔ یہاں روئے سخن منافقین کی طرف ہے کیونکہ کوئی صحابی بلا وجہ جماعت اور مسجد کی حاضری نہیں چھوڑتے تھے۔ لہذا روافض کا یہ کہنا کہ صحابہ فاسق یا تارک جماعت تھے، غلط ہے، رب نے ان کے تقویٰ اور جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اگر یہاں صحابہ مراد ہوں تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔
- ③..... صحیح مسلم، کتاب المساجد..... الخ، باب کراہیة تأخیر الصلاة..... الخ، الحدیث: ۲۵۲-۲۵۳، ص ۳۲۷۔
- ④..... المرجع السابق، الحدیث ۲۵۴۔ المسند للام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۴۳۳، ج ۳، ص ۳۹۔
- ⑤..... صحیح مسلم، کتاب المساجد..... الخ، باب فضل صلاة العشاء..... الخ، الحدیث: ۲۶، ص ۳۲۹۔
- ⑥..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، من كان يشهد الصلاة، الحدیث: ۴، ج ۱، ص ۳۸۶، فیہ: ”ثلاثین سنة“۔

## تین چیزوں کا شوق:

حضرت سیّدنا محمد بن واسع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”مجھے دنیا میں فقط تین چیزوں کا شوق ہے: (۱) ایسا بھائی کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے (۲) اتنا رزق جو دوسرے کے حق سے خالی ہو اور (۳) باجماعت نماز جس میں بھولنا مجھے معاف کر دیا جائے اور میرے لئے اس کی فضیلت لکھ دی جائے۔“ (۱)

مروی ہے کہ حضرت سیّدنا ابو عبیدہ بن جراح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک مرتبہ امامت کروائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”ابھی شیطان مسلسل میرے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں اب میں کبھی امامت نہیں کروں گا۔“ (۲)

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فَرَمَاتے ہیں کہ ”ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علما کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔“

حضرت سیّدنا امام نخعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فَرَمَاتے ہیں: ”جو شخص بغیر علم کے امامت کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سمندر میں پانی کو مانتا ہے، اس کی زیادتی یا کمی کو نہیں جانتا۔

حضرت سیّدنا حاتم اصم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْبَر فَرَمَاتے ہیں: ”ایک بار (کسی عذر کے باعث) میں باجماعت نماز کے لئے حاضر نہ ہو سکا تو اکیلے ابواسحاق بخاری نے مجھ سے تعزیت کی اور اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو دس ہزار سے زیادہ لوگ تعزیت کرتے کیونکہ لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے زیادہ آسان ہے۔“ (۳)

حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرَمَاتے ہیں: ”جو مؤذن کی آواز سن کر جواب نہ دے (یعنی باجماعت نماز میں حاضر نہ ہو) تو نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔“ (۴)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں: ”اگر ابن آدم کے کان کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا

①.....تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن واسع، ج ۵، ص ۱۶۱، بتغییر الفاظ۔

②.....کتاب الزهد لابن المبارك، باب التواضع، الحدیث: ۸۳، الجزء السادس، ص ۲۸۔

③.....الکبائر للذهبی، الکبيرة الرابعة، ص ۳۳۔

④.....المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب من سمع النداء، الحدیث: ۹۲، ج ۱، ص ۳۷۰، عن عائشة۔

جائے تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے اور جواب نہ دے۔“ (۱)

## عراق کی بادشاہت سے زیادہ محبوب:

حضرت سیدنا میمون بن مہران مسجد میں حاضر ہوئے تو ان سے عرض کی گئی: ”لوگ تو جا چکے ہیں۔“ تو آپ نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (۲، البقرة: ۱۵۶) پڑھا اور فرمایا: ”باجماعت نماز پڑھنا مجھے عراق کی بادشاہت سے زیادہ پسند ہے۔“

## نفاق اور آگ سے آزادی کا پروانہ:

مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے 40 دن باجماعت نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے دو پروانے لکھے گا ایک پروانہ نفاق سے آزادی کا اور دوسرا آگ سے آزادی کا۔“ (۲)

## سورج، چاند اور ستاروں کی مانند چمکتے چہرے:

منقول ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دکتے ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے: ”تم کیا عمل کرتے تھے؟“ وہ کہیں گے: ”ہم اذان سنتے ہی وضو کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے کوئی دوسری چیز ہمیں مشغول نہ کرتی تھی۔“ پھر ایک گروہ کو لایا جائے گا جن کے چہرے چاند کی مانند روشن ہوں گے (فرشتوں کے) پوچھنے پر وہ کہیں گے: ”ہم (نماز کا) وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے۔“ پھر ایک گروہ لایا جائے گا جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے (فرشتوں کے پوچھنے پر) وہ کہیں گے: ”ہم اذان مسجد میں سنتے تھے۔“ (۳)

منقول ہے کہ اسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام میں سے کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو تین دن افسوس کرتے اور اگر جماعت فوت ہو جاتی تو سات دن افسوس کرتے۔

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، من قال اذا سمع المنادی فليجب، الحديث: ۴، ج ۱، ص ۳۸۰۔

②..... سنن الترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی فضل التکبیر الاولی، الحديث: ۲۴، ج ۱، ص ۲۷۴۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۶۸، بتغییر۔

## فضائلِ سجدہ

پانچویں فصل:

## سجدے کی فضیلت پر مشتمل چار فرامینِ مصطفیٰ:

- ﴿1﴾..... بندہ ایک پوشیدہ سجدہ سے بڑھ کر کسی چیز سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب حاصل نہیں کرتا۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿2﴾..... کوئی مسلمان اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ﴿3﴾..... ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: ”(يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!) اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے آپ کی شفاعت پانے والوں میں سے بنادے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔“ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کثرتِ سجود سے میری مدد کرو (۳)۔“<sup>(۳)</sup>
- منقول ہے کہ بندہ رب عَزَّوَجَلَّ کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔<sup>(۵)</sup>
- درج ذیل فرمانِ باری تعالیٰ کا یہی معنی ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ<sup>الْحَنِيفَةِ</sup> (پ ۳۰، العلق: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔<sup>(۶)</sup>

- 1..... کتاب الزهد لابن المبارك، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی الخشوع والخوف، الحدیث: ۱۵۵، ص ۵۰۔
- 2..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی كثرة السجود، الحدیث: ۱۲۲، ج ۲، ص ۱۸۲۔
- 3..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث علیہ، الحدیث: ۲۸، ص ۲۵۲۔
- 4..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث علیہ، الحدیث: ۲۸، ص ۲۵۳۔
- 5..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۲۸، ص ۲۵۰۔
- 6..... یہ آیت سجدہ ہے۔ بہارِ شریعت جلد اول صفحہ 728 پر ہے: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لئے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔“ اور صفحہ 730 پر ہے: ”فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ.....“



دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

سِبَّاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط  
ترجمہ کنز الایمان: ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے  
سجدوں کے نشان سے۔ (پ ۲۶، الفتنہ: ۲۹)

اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں:

- (۱)..... اس سے مراد وہ حصہ زمین ہے جو حالت سجدہ میں ان کے چہروں سے ملا ہوتا ہے۔
- (۲)..... اس سے خشوع کا نور مراد ہے کیونکہ وہ باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔
- (۳)..... اس سے مراد وہ چمک ہے جو بروز قیامت وضو کے اثر سے ان کے چہروں پر ہوگی۔
- (۴)..... جب انسان آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر روتے ہوئے کہتا ہے: ہائے افسوس! انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا لہذا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی پس میرے لئے جہنم ہے۔<sup>(۱)</sup>

**بہت زیادہ سجدے کرنے والے:**

حضرت سیّدنا علی بن عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ کے متعلق منقول ہے کہ آپ ہر روز ایک ہزار (1000) سجدے کرتے تھے اور لوگ انہیں ”سجّاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا“ کہتے تھے۔<sup>(۲)</sup>  
مروی ہے کہ حضرت سیّدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزُ مِثْلِي پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔

حضرت سیّدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (بڑھاپے میں) فرمایا کرتے تھے: ”اے نوجوانوں کے گروہ! مرض سے پہلے صحت میں جلدی کرو۔ میں صرف اس شخص پر رشک کرتا ہوں جو رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے جبکہ میرے اور..... واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔“

**نوٹ:** مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا صفحہ 726 تا 739 کا یاد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 49 صفحات پر مشتمل رسالے ”تلاوت کی فضیلت“ کا مطالعہ کیجئے۔

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة، الحدیث ۸، ص ۵۶۔

②..... صفة الصفوة، علی بن عبداللہ بن عباس، ج ۲، ص ۷۶۔

سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوگئی ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا سعید بن جبیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”مجھے سجدے کے سوا دنیا کی کسی چیز کے چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا۔“ (۲)

حضرت سیدنا عقبہ بن مسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”بندے کی کوئی خصلت اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اس سے زیادہ پسند نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کو پسند کرے اور بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے علاوہ کسی گھڑی میں اس کا زیادہ قرب نہیں پاتا۔“ (۳)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں دعائیں زیادہ مانگو۔“ (۴)

چھٹی فصل: **خشوع کی فضیلت**

**خشوع کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:**

﴿۱﴾

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿۱﴾ (پ: ۱۶، طہ: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

﴿۲﴾

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۰﴾ (پ: ۹، الاعراف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور غافلوں میں نہ ہونا۔

﴿۳﴾

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ ﴿۵﴾ (پ: ۵، النساء: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔

۱.....المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثالث، الحديث: ۳۳، ج ۱، ص ۱۷۳۔

۲.....شعب الایمان للبيهقي، باب في الصلوات، الحديث: ۳۱۷، ج ۳، ص ۱۵۳۔

۳.....كتاب الزهد لابن المبارك، باب الذي يجزع من الموت.....الخ، الحديث: ۲۷۴، ص ۹۵۔

۴.....سنن ابی داود، کتاب الصلوة، باب الدعاء فی الركوع والسجود، الحديث: ۸۷۵، ج ۱، ص ۳۳۳۔

اس آیت میں مذکور لفظ ”سُكْرِي“ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں: (۱) بندہ غموں کی کثرت کے باعث نشہ میں ہو (۲) دنیا کی محبت کی وجہ سے نشہ میں ہو (۳) حضرت سیدنا وہب بن منبہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: اس سے ظاہر مراد ہے۔ (مصنف عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) اس میں دنیوی نشہ پر تشبیہ ہے کیونکہ اس کی علت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کھوا سے سمجھو اور کتنے ہی نمازی ہیں جو شراب نوشی نہیں کرتے مگر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔

حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے دو رکعت نفل ادا کئے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (۱)

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک نماز سکون، عاجزی، گڑگڑانے، خوف اور ندامت کا نام ہے اور یہ کہ تو ہاتھ باندھ کر یوں کہے: اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے۔“ (۲)

## کس کی نماز مقبول ہے؟

کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی کرے اور میرے بندوں پر بڑائی نہ چاہے اور میری رضا کے لئے فقیر کو کھانا کھلائے۔“ (۳)

مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک نماز کی فرضیت، حج و طواف کا حکم اور مناسک حج کی ادائیگی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لئے ہے۔ تو جب تمہارے دل میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی ہی عظمت و ہیبت نہ ہو جو کہ مقصود و مطلوب ہے تو پھر تمہارے ذکر کی قیمت کیا رہ جائے گی۔“ (۴)

①..... صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحدیث ۱۵۹، ج ۱، ص ۷۸۔

②..... سنن الترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب ماجاء فی التخشع فی الصلوٰۃ، الحدیث ۳۸:۵، ج ۱، ص ۳۹۳، بتغییر۔

③..... کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ، الحدیث ۲۰۱۰، ج ۷، ص ۲۱۲، باختصار۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، الحدیث ۱۸۸:۵، ج ۲، ص ۲۶۰، ولم یذکر ”فرضت الصلوٰۃ“ باختصار۔

مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”جب تم نماز پڑھو تو رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔“ (۱)

یعنی اس شخص کی طرح جو اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی عمر کو الوداع کہتا ہوا اپنے مالک کی طرف جاتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا  
فَبُلِّغْهُ ۖ (پ ۳۰، الانشقاق: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے آدمی! بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
(پ ۳، البقرة: ۲۸۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوٰهُ  
(پ ۲، البقرة: ۲۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جسے اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نرو کے اس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دوری میں ہی اضافہ ہوگا۔“ (۲)

نماز مناجات کا نام ہے تو پھر یہ غفلت کے ساتھ کیسے ادا ہوگی؟

**بغیر ترجمان کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہم کلامی:**

حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مزنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِيِّ فرماتے ہیں: ”اے ابن آدم! جب تو بغیر اجازت مولیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور بغیر ترجمان کے اس سے کلام کرنا چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔“ عرض کی گئی: ”یہ کیسے ممکن ہے؟“ فرمایا: ”کامل وضو کر کے محراب میں داخل (ہو کر نماز میں مشغول) ہو جا پس جب تو اپنے مولیٰ کی بارگاہ

①..... کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ، الحدیث: ۲۰۰۹، ج ۷، ص ۲۱۲۔

②..... کنز العمال، کتاب الصلوٰۃ، الحدیث: ۲۰۰۷، ج ۷، ص ۲۱۲۔

میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے گا تو بغیر ترجمان کے اس کے ساتھ کلام بھی کرے گا۔“ (۱)  
 ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کرتے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو عظمت و جلالت کبریائی میں اس قدر مشغول ہو جاتے  
 گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے۔“ (۲)

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مُنْزَّهٌ عَنِ الْعُيُوبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:  
 ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ دل کو حاضر نہ کرے۔“ (۳)  
**نماز ہو تو ایسی:**

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کے دل  
 کی دھڑکن دو میل کی مسافت سے سنائی دیتی۔ (۴)  
 حضرت سیدنا سعید تنوخی علیہ رحمۃ اللہ الغیبی جب نماز پڑھتے تو (اس قدر روتے کہ) رخسار سے داڑھی پر مسلسل آنسو  
 گرتے رہتے۔ (۵)

سرکار مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلنے دیکھا  
 تو ارشاد فرمایا: ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔“ (۶)  
**غافل خواہش مند:**

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک شخص کو کنکریوں سے کھیلنے دیکھا وہ کہہ رہا تھا:  
 ”اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! حور عین سے میری شادی کرادے۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”تو برا پیغام دینے والا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، الحدیث: ۳۲۴، ج ۳، ص ۱۶۸، نحوہ۔

②..... المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۴۔

③..... کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ، کتاب الصلاۃ، حکمة مشروعیہا، ج ۱، ص ۱۵۸۔

④..... الجامع لاحکام القرآن، پا ۱، سورۃ براءۃ، تحت الآیۃ: ۱۱۴، ج ۸، ص ۱۵۹۔

⑤..... تاریخ مدینۃ دمشق لابن عساکر، سعید بن عبدالعزیز التنوخی، ج ۲، ص ۲۰۳، بنحوہ۔

⑥..... نوادرا الاصول، الاصل السابع والاربعون والماقتان، الحدیث: ۱۳۱، ص ۱۰۰۔

ہے حور عین سے شادی کا ارادہ ہے اور کھیل کنکریوں سے رہا ہے۔“ (۱)

### حکایت: سیدنا خلف بن ایوب عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ کا خوف خدا:

حضرت سیدنا خلف بن ایوب عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَدُود سے پوچھا گیا: ”آپ مکھیوں کو دوڑ نہیں کرتے کیا یہ نماز میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی؟“ فرمایا: ”میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی نہیں بناتا جو میری نماز فاسد کر دے۔“ پوچھا گیا: ”آپ اس پر صبر کیسے کر لیتے ہیں؟“ فرمایا: ”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فاسق و فاجر لوگ بادشاہوں کے کوڑوں تلے صبر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے فلاں بہت صبر کرنے والا ہے اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو کیا میں اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کے حضور کھڑا ہو کر مکھی کی وجہ سے حرکت کروں۔“ (۲)

### سیدنا مسلم بن یسار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْفَقَّار اور نماز:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بن یسار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْفَقَّار جب نماز کا ارادہ کرتے تو گھر والوں سے فرماتے: ”تم آپس میں گفتگو کرتے رہو اب میں تمہاری گفتگو نہیں سنوں گا۔“ (۳) ایک دن آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ (آپ کی پچھلی جانب) مسجد کا ایک ستون گر گیا اس کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہوا حتیٰ کہ نماز مکمل کر لی۔ (۴)

### نماز امانت ہے:

جب نماز کا وقت آتا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم پر کپچی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی: ”اے امیر المؤمنین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ! آپ کو کیا ہوا؟“ فرماتے: ”ایسا وقت آیا ہے جو امانت ہے۔ اس امانت کو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے

①.....تفسیر غرائب القرآن...، پ ۱۸، سورۃ المؤمنون، تحت الآیة: ۲، ج ۵، ص ۱۰۹، دون قولہ: تخطب الحور العین۔

②.....المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۵، نحوہ۔

③.....حلیۃ الاولیاء، مسلم بن یسار: ۱۹۴، الحدیث: ۲۲۴، ج ۲، ص ۳۲۹، نحوہ۔

④.....حلیۃ الاولیاء، مسلم بن یسار: ۱۹۴، الحدیث: ۲۲۴، ج ۲، ص ۳۳۰، نحوہ۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۶۹، مفہومًا۔

سے انکار کر دیا اور ڈر گئے جبکہ میں (یعنی ابن آدم) نے اسے اٹھالیا۔“ (۱)

## سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمۃ اللہ النبیین اور نماز:

منقول ہے کہ امام زین العابدین حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اہل خانہ کہتے: ”وضو کرتے وقت آپ پر کس چیز کا خوف طاری ہو جاتا ہے؟“ فرماتے: ”کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔“ (۲)

## اللہ عزوجل کے گھر میں رہنے والا خوش نصیب:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی دعاؤں میں یوں عرض کرتے: ”اے اللہ عزوجل! تیرے گھر (یعنی جنت) میں کون رہے گا اور تو کس کی نماز قبول فرماتا ہے؟“ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: ”اے داؤد! میرے گھر میں وہی رہے گا اور میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا، دن میرے ذکر میں گزارتا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا، میری رضا کے لئے بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مسافر اور مصیبت زدہ کو پناہ دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اگر وہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اگر مجھ سے مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں۔ میں اسے جہالت کے وقت حلم عطا کرتا، غفلت میں ذکر کی توفیق بخشتا اور تاریکیوں میں روشنی عطا کرتا ہوں۔ اس کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے تمام جنتوں میں فردوس اعلیٰ کی، جس کی نہریں خشک نہیں ہوتیں اور اس کے پھل خراب نہیں ہوتے۔“ (۳)

## سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اور نماز:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت کے بارے میں پوچھا

①..... روح المعانی، الجزء الثانی والعشرون، سورة الاحزاب ۷۳، ص ۳۷۳۔

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عاصم بن ہبيرة، الحديث ۲۱۳، ص ۳۶۳۔

③..... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عاصم بن ہبيرة، الحديث ۲۱۳، ص ۳۶۳۔

تو فرمایا: ”جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں پھر جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آکر بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تصور باندھ کر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبۃ اللہ المشرفہ میرے سامنے، پل صراط پاؤں تلے، جنت میرے دائیں جانب، جہنم بائیں طرف اور ملک الموت عَلَیْہِ السَّلَام میرے پیچھے ہیں اور گمان کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر امید و خوف کی درمیانی حالت میں ہوتا ہوں۔ پھر حقیقتاً تکبیر تحریر یہ کہتا، ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرتا، عاجزی کے ساتھ رکوع اور خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔ پھر دائیں پہلو پر قعدہ کرتا اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں۔ پھر اخلاص سے کام لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔“ (۱)

### پوری رات عبادت سے بہتر عمل:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”غور و فکر کے ساتھ دو رکعت نفل ادا کرنا، غافل دل کے ساتھ پوری رات قیام (یعنی عبادت) کرنے سے بہتر ہے۔“ (۲)

### ﴿.....مردوں کی تعداد کے برابر اجر.....﴾

جو قبرستان میں میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصالِ ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصالِ ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا۔ (کشف الخفاء، الحدیث ۲۶۲۹، ج ۲، ص ۲۵۲)

﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۷۱، بتغير۔

②..... الزهد لابن المبارك، باب الاعتبار والتفكير، الحدیث ۲۸۵، ص ۹۷۔



## ساتویں فصل: مسجد اور جائے نماز کی فضیلت

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ (ب ۱۰، التوبة: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ  
اور قیامت پر ایمان لاتے۔

### مسجد کی فضیلت پر مشتمل سات فرامین مصطفیٰ:

- ﴿۱﴾..... جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے مسجد بنائی اگر چہ وہ تیز (پندے) کے گھونسلے کے برابر ہو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔<sup>(۱)</sup>
- ﴿۲﴾..... جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے محبت فرماتا ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ﴿۳﴾..... جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کر لے۔<sup>(۳)</sup>
- ﴿۴﴾..... مسجد کے پڑوسی کی مسجد کے علاوہ (گھر میں یا کہیں اور) نماز کامل نہیں ہوتی۔<sup>(۴)</sup>
- ﴿۵﴾..... جب تک تم میں سے کوئی نماز ادا کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس پر رحم فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کی مغفرت فرما۔ اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے چلا نہ جائے۔<sup>(۵)</sup>
- ﴿۶﴾..... آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو گروہ درگروہ مسجد میں آکر بیٹھیں گے ان کا ذکر دنیا اور دنیا کی محبت ہوگی۔ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان سے کوئی حاجت نہیں۔<sup>(۶)</sup>

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل المشی الی المساجد، الحدیث: ۲۹۴، ج ۳، ص ۸۱، بتغییر۔

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۳۸۴، ج ۶، ص ۴۰۰۔

③..... صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا دخل المسجد..... الخ، الحدیث: ۴۴۲، ج ۱، ص ۱۷۰۔

④..... سنن الدارقطنی، کتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد علی الصلاة..... الخ، الحدیث: ۱۵۳، ج ۱، ص ۵۵۴۔

⑤..... صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب الحدث فی المسجد، الحدیث: ۴۴۵، ج ۱، ص ۱۷۰۔

⑥..... المعجم الكبير، عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۱۰۴۵، ج ۱۰، ص ۱۹۸۔

التفسیر الكبير للرازی، الجزء السادس عشر، سورة التوبة، ج ۱، ص ۱۱۔

بعض کتابوں میں اللہ عزوجل کا یہ فرمان موجود ہے: ”میری زمین میں میرے گھر مساجد ہیں اور ان میں میری زیارت کرنے والے وہ ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں۔ پس اس بندے کو مبارک ہو جو اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کرے پھر میرے گھر میں میری زیارت کرے اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے۔“ (۱)

﴿7﴾..... جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ (۲)

## مسجد کی فضیلت پر مشتمل آٹھ اقوال بزرگانِ دین:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور بیٹھتا ہے تو اسے اچھی بات ہی کرنی چاہئے۔“ (۳) نیز مروی ہے کہ ”مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے چوپائے گھاس کھا جاتے ہیں۔“ (۴)

﴿2﴾..... حضرت سیدنا امام مخفی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي فرماتے ہیں: ”اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ تاریک رات میں مسجد جانے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔“ (۵)

﴿3﴾..... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جس نے مسجد میں چراغ جلایا تو جب تک مسجد میں روشنی رہتی ہے تب تک عام فرشتے اور عرش اٹھانے والے خاص فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“ (۶)

﴿4﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم فرماتے ہیں کہ ”جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانا اس پر روتے ہیں۔“ پھر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ

①..... التفسير الكبير للرازي، الجزء السادس عشر، سورة التوبة، ج ۱، ص ۱۱۔

②..... سنن الترمذی، كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، الحديث: ۳۱۰، ج ۵، ص ۶۴۔

③..... الزهد لابن المبارك، باب فضل المشي الى الصلاة..... الخ، الحديث: ۴، ص ۱۴۰۔

④..... التفسير الكبير للرازي، الجزء السادس عشر، سورة التوبة، ج ۱، ص ۱۱۔

⑤..... شرح السنة، كتاب الصلاة، باب فضل اتیان المساجد، الحديث: ۴، ج ۲، ص ۱۱۸، بتقدم و تاخر۔

⑥..... التفسير الكبير للرازي، الجزء السادس عشر، سورة التوبة، ج ۱، ص ۱۱، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذلك۔

آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ ﴿۲۹﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۲۹) مہلت نہ دی گئی۔<sup>(۱)</sup>

﴿۵﴾..... حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”چالیس صبح اس پر زمین روتی رہتی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

﴿۶﴾..... حضرت سیدنا عطاء خراسانی قَدَسَ سِرُّهُ السُّورَاتِي فرماتے ہیں: ”جو شخص زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ حصہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا اور جس دن یہ مرتا ہے وہ اس پر روتا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿۷﴾..... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”زمین کے جس حصے پر نماز یا ذکر کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یاد کیا جائے وہ حصہ اردگرد کی زمین پر فخر کرتا ہے اور سات زمینوں تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے زمین کو آراستہ کیا جاتا ہے۔“<sup>(۴)</sup>

﴿۸﴾..... منقول ہے کہ ”(اثنا عشر) جب کوئی قوم کسی جگہ ٹھہرتی ہے تو وہ جگہ اس کے لئے دعائے رحمت کرتی یا اس پر لعنت بھیجتی ہے۔“<sup>(۵)</sup>



﴿..... تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿..... صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... الزهد لابن المبارك، باب فخر الارض بعضها على بعض، الحديث: ۳۳، ص ۱۱۴۔

②..... الزهد لابن المبارك، باب فخر الارض بعضها على بعض، الحديث: ۳۳، ص ۱۱۴، بتقدم و تاخر۔

③..... الزهد لابن المبارك، باب فخر الارض بعضها على بعض، الحديث: ۳۳، ص ۱۱۵۔

④..... الزهد لابن المبارك، باب فخر الارض بعضها على بعض، الحديث: ۳۳، ص ۱۱۵۔

⑤..... الزهد لابن المبارك، باب فخر الارض بعضها على بعض، الحديث: ۳۳، ص ۱۱۳۔

## باب نمبر 2: ظاہری اعمال کی کیفیت و آداب کا بیان

(اس میں تین فصلیں ہیں)

پہلی فصل: نماز میں ظاہری اعمال کی کیفیت اور تکبیر تحریمہ سے ابتدا کرنا

### نماز کا طریقہ<sup>(۱)</sup>:

نماز پڑھنے والے کو چاہئے کہ جب بدن، مکان، لباس، ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت پر ناپاکی وغیرہ سے پاکی حاصل کر لے اور وضو سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے۔

### پہلا رکن قیام:

دونوں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھے، انہیں ملائے نہ کیونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے آدمی کی سمجھ پر استدلال کیا جاتا ہے۔

نیز محبوب رب ذوالجلال، نبی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ایک پاؤں اٹھانے یا دونوں پاؤں ملا کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

یہ اس کے بارے میں ہے جو کھڑا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے، گھٹنوں اور کمر کو سیدھا کھڑا کرتا ہے اور جہاں تک سر کا معاملہ ہے تو اگر چاہے تو سر کو سیدھا رکھے چاہے تو جھکا دے بلکہ جھکانا خشوع کے زیادہ قریب اور آنکھوں کو زیادہ پست کرنے والا ہے۔ اس کی نگاہ صرف جائے نماز پر رہے جس پر نماز پڑھ

①..... فقہ احناف کے مطابق نماز کے فضائل و مسائل و طریقہ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول، حصہ 3 اور 4 صفحہ 433 تا 865 یا شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی تحریر کردہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۵۸۔

رہا ہے۔ اگر جائے نماز نہ ہو تو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا کوئی لکیر کھینچ دے اس سے نگاہ آگے نہیں بڑھے گی اور سوچ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ آنکھوں کو جائے نماز کے کناروں اور لکیر کی حدود سے تجاوز نہ کرنے دے۔ رکوع تک اس طرح کھڑا رہے اور ادھر ادھر توجہ نہ کرے یہ قیام کے آداب ہیں۔ جب اس طرح کھڑا ہو جائے اور قبلہ رُو ہو کر سر کو جھکالے تو شیطان سے بچنے کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ طلب کرتے ہوئے سورہ ناس یعنی: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ کی تلاوت کرے۔ پھر اقامت کہے، اگر کسی مقتدی کے آنے کی امید ہو تو پہلے اذان بھی کہے۔

### نیت نماز:

پھر نیت کو حاضر کرے مثلاً ظہر میں یہ نیت کرے: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ظہر کی فرض نماز ادا کرتا ہوں۔“ تاکہ لفظ ادا کے ذریعے قضا سے، فرض کے ذریعے نفل سے اور ظہر کے ذریعے عصر سے ممتاز ہو جائے۔ ان الفاظ کے معانی دل میں حاضر ہونے چاہئیں کیونکہ نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے، الفاظ تو یاد دلانے والے اور ان معانی کے ظہور کے اسباب ہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ کے آخر تک نیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے غائب نہ ہونے دے۔

### ہاتھ اٹھانے کے آداب:

جب یہ بات دل میں حاضر ہو جائے تو لٹکے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور دونوں انگوٹھے کانوں کی لوؤں تک اور انگلیاں کانوں کے سروں کے برابر ہو جائیں تاکہ اس کے متعلق وارد تمام روایات پر عمل ہو جائے۔ ہتھیلیوں اور انگوٹھوں کو قبلہ رو اور انگلیوں کو کشادہ رکھے، انہیں بند نہ کرے، ہاں انہیں کھولتے یا ملاتے ہوئے تکلف سے کام نہ لے بلکہ طبعی حالت پر چھوڑ دے کیونکہ روایت میں کھلا چھوڑنا اور ملانا دونوں طریقے آئے ہیں۔ یہ ان دونوں کے درمیان ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔

### دوسرا کن تکبیر تحریمہ:

جب دونوں ہاتھ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں تو انہیں چھوڑتے ہوئے اور نیت کو حاضر رکھتے ہوئے تکبیر کہے پھر دونوں ہاتھوں کو ناف سے اوپر اور سینے سے نیچے باندھ لے (۱) اور دائیں ہاتھ کی تکریم کے لئے اسے بائیں ہاتھ کے اوپر اس

①..... احناف کے نزدیک: نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۰۴)

طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہو اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کھلی رکھتے ہوئے بازو کی لمبائی پر پھیلا دے جبکہ انگوٹھے، چھوٹی انگلی اور ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے۔<sup>(۱)</sup>

## تکبیر کب کہی جائے:

(اس کے متعلق تین روایتیں ہیں: (۱)..... ہاتھوں کو اٹھاتے وقت تکبیر کہی جائے (۲)..... جب ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جائیں تب کہی جائے (۳)..... ہاتھ چھوڑتے وقت تکبیر کہی جائے۔<sup>(۲)</sup>)

## فیصلہ غزالی:

ان سب طریقوں میں حرج نہیں لیکن ہاتھوں کو (کانوں کے ساتھ لگانے کے بعد) چھوڑتے وقت تکبیر کہنا زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ عقد ہے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتدا چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے تکبیر کی ابتدا الف اور آخر پر ہوتی ہے تاکہ فعل اور عقد میں مطابقت ہو جائے اور ہاتھوں کا اٹھانا اس ابتدا کے لئے مقدمہ کی طرح ہے۔

ایسا بھی نہ ہو کہ تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے وقت آگے یا کندھوں کے پیچھے کی طرف لے جائے اور تکبیر کے بعد دائیں بائیں ہاتھ جھانپنا بھی مناسب نہیں بلکہ انتہائی آہستگی کے ساتھ چھوڑ دے۔ ہاتھ چھوڑنے کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔

بعض روایات میں ہے کہ ”آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے اور جب قراءت کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ لیتے۔“<sup>(۳)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۵۴، مفہومًا۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۵۸، دون القمر۔

سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء في نشر الاصابع عند التكبير، الحديث: ۲۳، ج ۱، ص ۲۷۳، دون الضم۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب رفع الیدین فی الصلاة، الحديث: ۷۲، ج ۱، ص ۲۸۴۔

صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین..... الخ، الحديث: ۳۹، ص ۲۰۶۔

سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، الحديث: ۷۳، ج ۱، ص ۲۸۵۔

③..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۳۹، ج ۲، ص ۷۴، مفہومًا۔



اسے ”وَلَا الضَّالِّينَ“ کے ساتھ نہ ملائے۔

فجر، مغرب اور عشا میں جہر (یعنی بلند آواز) سے قراءت کرے اگر مقتدی ہو تو قراءت نہ کرے۔ (اختتام فاتحہ پر) ”امین“ بلند آواز سے کہے<sup>(۱)</sup>۔ پھر کوئی سورت پڑھے یا قرآن پاک کی تین آیات یا اس سے زائد تلاوت کرے اور سورت کو تکبیر رکوع کے ساتھ نہ ملائے بلکہ ان میں ایک بار ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کہنے کی مقدار وقفہ کرے۔ فجر کی نماز میں طوالِ مفصل (یعنی سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک)، مغرب میں قصارِ مفصل (یعنی سورۃ بینہ سے آخر قرآن تک)، ظہر، عصر اور عشا میں اوساطِ مفصل (یعنی سورۃ بروج سے سورۃ بینہ تک) میں سے پڑھے۔

سفر میں فجر کی نماز میں (وقت کم ہو تو) سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کی قراءت کرے۔ اسی طرح فجر کی سنتوں، طواف کی نماز اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو میں بھی سورتیں پڑھے۔ اس تمام وقت میں وہ کھڑا رہے اور ہاتھوں کو اس طرح باندھے جس طرح ہم نے نماز کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔

## چوتھا رکن رکوع اور اس کے متعلقات:

پھر رکوع کرے۔ اس میں چند امور کا لحاظ رکھے، وہ یہ ہیں: رکوع کی تکبیر کہے، تکبیر رکوع کے وقت رفع یدین<sup>(۲)</sup>

①..... احناف کے نزدیک: ”امین“ آہستہ کہنے کا حکم ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۳، ص ۵۰۴)

②..... احناف کے نزدیک نماز میں تکبیر تحریر اور تکبیر قنوت کے سوا کہیں بھی رفع یدین جائز نہیں۔ چنانچہ، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان مِرَاةُ الْمُنَاجِحِ، ج 2، ص 16 پر حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی اس حدیث پاک کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل اٹھاتے اور جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی یونہی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور سجدے میں یہ نہ کرتے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”(کندھوں کے مقابل ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے) کہ گئے کندھوں تک رہتے اور انگوٹھے کانوں تک۔ (نیز) اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کیا مگر یہ ذکر نہیں کیا کہ آخر وقت تک کیا۔ حق یہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے۔ چنانچہ یعنی شرح بخاری میں ہے کہ سیّدنا عبد اللہ ابن زبیر نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا ایسا نہ کیا کرو یہ وہ کام ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً کیا تھا پھر چھوڑ دیا نیز سیّدنا ابن مسعود عمران بن خطاب علی مرتضیٰ، براء ابن عازب، حضرت علقمہ وغیرہ بہت صحابہ سے کہ وہ رفع یدین نہ کرتے تھے اور کرنے والوں کو منع کرتے تھے نیز ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے حضرت مجاہد سے روایت کی کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے سوا تکبیر اولیٰ کے کسی وقت ہاتھ.....



کرے (یعنی تکبیر تحریر کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرے)؛ تکبیر کو رکوع میں پہنچنے تک کھینچ کر کہے، رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پر یوں رکھے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور پینڈلی کی لمبائی پر قبضہ رُخ ہوں، گھٹنوں کو کھڑا کرے انہیں موڑے نہ، پیٹھ اس طرح سیدھی بچھائے کہ گردن اور سر پیٹھ کے برابر ہوں جیسے ایک سطح ہوتی ہے سر نہ تو زیادہ جھکا ہوا ہو اور نہ زیادہ بلند ہو، (مرد) کہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے جبکہ عورت کہنیوں کو پہلوؤں کے ساتھ ملا کر رکھے اور تین بار تسبیح رکوع یعنی: ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کہے اور سات یا دس بار کہنا اچھا ہے جبکہ یہ امام نہ ہو، پھر حسب سابق رکوع سے کھڑا ہوتے رفع یدین کرے اور تسمیہ یعنی: ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے اور ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءِ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ لَيْلَى“ کہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد (قومہ آسمانوں اور زمین کو بھر دے اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے بھر دے) کہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد (قومہ میں) صلاة التسمیہ، نماز کسوف اور نماز فجر کے علاوہ میں زیادہ کھڑا نہ ہو اور نماز فجر کی دوسری رکعت میں سجدوں سے پہلے احادیث میں منقول الفاظ کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے (۱)۔ (۲)

## پانچواں رکن سجدہ:

پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لئے جھکے اور گھٹنے، پیشانی اور ناک زمین پر رکھے اور ہتھیلیاں کشادہ رکھے،

..... نہ اٹھائے معلوم ہوا کہ سپدنا بن عمر کے نزدیک بھی رفع یدین منسوخ ہے نیز رسالہ آفتاب محمدی میں ہے کہ حضرت ابن عمر کی حدیث چند روایتوں سے منقول ہے جس میں سے ایک روایت میں یونس ہے جو سخت ضعیف ہے دوسری اسناد میں ابو قلابہ ہے جو خارجی المذہب تھا (دیکھو تہذیب) تیسری اسناد میں عبید اللہ ہے۔ یہ پکارا نفضی تھا، چوتھی اسناد میں شعیب ابن اسحاق ہے جو مرجہ مذہب کا تھا غرض کہ رفع یدین کی احادیث کی اکثر اسنادوں میں بد مذہب خصوصاً روافض بہت شامل ہیں کیونکہ یہ ان کا عمل ہے ہو سکتا ہے کہ روافض کے تقیہ کی وجہ سے امام بخاری کو بھی پتا نہ لگا ہو۔ لہذا مذہب حنفی نہایت قوی ہے کہ نمازوں میں سوا تکبیر تحریر کے اور کہیں رفع یدین نہ کیا جائے۔

**نوٹ:** رفع یدین کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ کی مایہ ناز تصنیف ”جاء الحق“ مطبوعہ

قادری پبلشرز حصہ دوم، چھٹا باب: رفع یدین نہ کرو، ص 407 تا 422 کا مطالعہ مفید رہے گا۔

①..... احناف کے نزدیک: وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور

ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے قبل قنوت پڑھے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۵۷)

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، الحديث: ۳۱۴، ج ۲، ص ۲۹۷۔

سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہے اور (تکبیر) رکوع کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہ کرے۔

**سجدے کا مسنون طریقہ:** سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر چہرہ، پیشانی اور ناک زمین پر رکھے، مرد کہنیاں پہلوؤں سے جدار رکھے اور دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے، سجدے میں پیٹ رانوں سے الگ رکھے، دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھے، زمین پر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے بلکہ انہیں ملا کر رکھے، اگر انگوٹھا نہ ملائے تو کوئی حرج نہیں، کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ نہ کرے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup> تین بار تسبیح سجدہ یعنی ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو زیادہ بار کہہ لے تو اچھا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھے اور مطمئن ہو کر حالت اعتدال میں بیٹھے اور تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں کھڑا رکھے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر یوں رکھے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی نارمل حالت میں ہوں۔ دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں یہ دعا پڑھے: ”رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَاجْبِرْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ“ یعنی اے میرے رب عَزَّوَجَلَّ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، میری پریشانی دور فرما اور مجھے عافیت اور معافی عطا فرما۔<sup>(۲)</sup> ”صَلْوَةُ التَّسْبِيْحِ“ کے علاوہ جلسہ کو طویل نہ کرے، اسی طرح دوسرا سجدہ کرے اور سیدھا بیٹھ جائے اور ہر ایسی رکعت میں استراحت کے لئے تھوڑی دیر بیٹھے جس میں تشہد نہیں۔ پھر ہاتھ زمین پر رکھ کر کھڑا ہو<sup>(۳)</sup> اور اٹھتے ہوئے دونوں پاؤں میں سے ایک کو آگے نہ کرے اور تکبیر کو اتنا کھینچے کہ بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے اور قیام کے درمیان ہو جائے یعنی بیٹھے ہوئے لفظ اللہ کی ہا، کھڑا ہونے کے لئے ہاتھ کے سہارے کے وقت اکبر کا کاف اور اٹھتے وقت درمیان میں پہنچتے ہوئے اکبر کی را کہے۔ اٹھنے کے درمیان تکبیر شروع کرے تاکہ قیام کی طرف انتقال کے درمیان میں تکبیر واقع ہو۔ دونوں کنارے اس سے خالی نہ

①..... صحیح مسلم کتاب الصلاة، باب الاعتدال فی السجود..... الخ، الحدیث ۴۹۳، ص ۵۴، مفہومًا۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۵۶، مختصرًا۔

سنن الدارقطنی، کتاب الصلاة، باب ما یجزیہ من الدعاء عند العجز..... الخ، ج ۱، ص ۴۲۲، دون ”واعف عنی“۔

③..... احناف کے نزدیک: قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے، بلکہ گھٹنوں پر زور اور ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے، ہاں کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۳۰، ۵۳۱، ملقطاً)

ہوں اور یہی صورت عموم کے زیادہ قریب ہے۔ اب دوسری رکعت بھی پہلی کی طرح پڑھے اور اس میں بھی ابتدا میں تَعُوذُ (یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھے (۱)۔

## چھٹا رکن قعدہ:

پھر دوسری رکعت (کے بعد قعدہ) میں تشہد پڑھے، پھر حضور انور، نور محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کی آل پر درود پاک بھیجے (۲)۔ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے صرف انگشت شہادت سے اشارہ کرے، انگوٹھے کو کھلا چھوڑنے میں بھی حرج نہیں، ”إِلَّا اللّٰه“ پر اشارہ کرے ”لَا إِلَهَ“ پر (۳) نہیں، تشہد میں اسی طرح بیٹھے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور آخری تشہد میں (یعنی قعدہ اخیرہ میں بعد تشہد) حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر درود پاک پڑھنے کے بعد مسنون دعا پڑھے۔ (۴)

قعدہ اخیرہ میں وہی باتیں سنت ہیں جو قعدہ اولیٰ میں ہیں لیکن اس میں بائیں سرین پر بیٹھے کہ اب وہ اٹھنے کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ فرار پکڑنے والا ہے۔ بایاں پاؤں اپنے نیچے سے دوسری طرف نکالے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور اگر اسے تکلیف نہ ہو تو انگوٹھے کا سرا قبلہ رخ کر لے۔

## ساتواں رکن سلام:

پھر ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ کہتے ہوئے سلام پھیر دے۔ دائیں طرف اس طرح چہرہ پھیرے کہ اس کے

①..... احناف کے نزدیک: تَعُوذُ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا مستحسن ہے، قراءت خواہ سری ہو یا جہری، مگر بِسْمِ اللّٰهِ بہر حال آہستہ پڑھی جائے۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۲۳)

②..... احناف کے نزدیک: قعدہ اخیرہ کے علاوہ فرض نماز، سنن مؤکدہ میں درود شریف پڑھنا نہیں اور نوافل، سنن غیر مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں بھی مسنون ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۳۲، ۶۶ ملخصاً)

③..... احناف کے نزدیک: جب کلمہ لاکے قریب پہنچے، دہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو تھیلی سے ملا دے اور لفظ لَا پُر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے اور کلمہ اَلَا پُر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۰۵)

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، الحدیث: ۷۷، ص ۳۹۰۔

پیچھے دائیں طرف بیٹھا ہوا شخص اس کے رخسار کو دیکھ سکے پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے اور دوسرے سلام کے ساتھ نماز سے نکلنے کی نیت کرے، پہلے سلام میں دائیں اور دوسرے میں بائیں جانب کے فرشتوں اور مسلمانوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ سلام میں سنت طریقہ یہ ہے کہ تخفیف کرے زیادہ نہ کھینچے۔<sup>(۱)</sup> یہ اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تکبیریں کہتے ہوئے آواز اتنی بلند کرے کہ خود سن لے۔

## امام و مقتدی کے لئے مستحب امور:

امام امامت کی نیت کرے تاکہ فضیلت کو پالے اگر اس نے امامت کی نیت نہ کی اور لوگوں نے اقتدا کی نیت کر لی تو ان کی نماز صحیح ہے اور وہ جماعت کی فضیلت کو پالیں گے۔ اکیلے شخص کی طرح امام بھی ثناء اور تعویذ (وتسمیہ) آہستہ پڑھے اور فجر کی دونوں رکعتوں اور مغرب و عشا کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بلند آواز سے پڑھے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی اس طرح کر سکتا ہے (لیکن اس پر ان نمازوں میں بلند آواز سے قراءت واجب نہیں)۔ جہری نمازوں (یعنی فجر، مغرب و عشا) میں امام و مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہیں<sup>(۲)</sup>۔ نیز مقتدی امام کے ساتھ آمین کہے۔ امام سورہ فاتحہ کے بعد کچھ سکتے کرے تاکہ اس کا سانس لوٹ آئے اور مقتدی جہری نمازوں میں اس سکتے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے تاکہ امام جب قراءت کرے تو اس کی قراءت سننے مقتدی جہری نمازوں میں قراءت نہ کرے (یعنی کوئی سورت نہ پڑھے) لیکن اگر اس تک امام کی آواز نہ پہنچ رہی ہو تو قراءت کر سکتا ہے<sup>(۳)</sup>۔ امام و مقتدی رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہے<sup>(۴)</sup>۔

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب حذف السلام، الحدیث ۱۰۰۴، ج ۱، ص ۵۷۳۔

②..... احناف کے نزدیک: آمین آہستہ آواز میں کہنے کا حکم ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۰۴)

③..... احناف کے نزدیک: مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ، نہ آیت، نہ سری (یعنی آہستہ قراءت والی) نماز میں نہ جہری (یعنی بلند آواز سے قراءت والی) نماز میں۔ امام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے۔

(مراقی الفلاح معہ حاشیۃ الطحطاوی، ص ۲۲)

④..... احناف کے نزدیک: رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہنا اور مقتدی کے لیے ”اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ

الْحَمْدُ“ کہنا اور منفر و کو دونوں کہنا سنت ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۲۷)

امام رکوع و سجود میں تین سے زیادہ تکبیرات نہ کہے اور پہلے (تعدہ میں) تشہد کے بعد ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ“ سے زیادہ کچھ نہ پڑھے<sup>(۱)</sup> اور آخری دو رکعتوں (کے قیام) میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے، لوگوں کو لمبی نماز نہ پڑھائے اور تعدہ اخیرہ کے تشہد اور درود پاک کی مقدار سے زیادہ لمبی دعا نہ مانگے اور سلام پھیرتے وقت فرشتوں اور مقتدیوں کو سلام کرنے کی نیت کرے اور مقتدی اپنے سلام میں امام کے جواب کی بھی نیت کریں۔

امام بعد سلام کچھ دیر توقف کرے تاکہ لوگ سلام وغیرہ کہہ کر فارغ ہو جائیں پھر امام اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لے۔ اگر مردوں کے پیچھے نماز میں عورتیں بھی شامل ہوں تو امام کا اتنی دیر ٹھہرنا اولیٰ ہے کہ وہ چلی جائیں۔ جب تک امام کھڑا نہ ہو کوئی مقتدی کھڑا نہ ہو اور امام دائیں یا بائیں جس طرف چاہے رخ پھیر سکتا ہے لیکن دائیں جانب پھرنا زیادہ بہتر ہے۔

امام فجر کی دعائے قنوت میں خاص اپنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ یوں کہے: ”اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِعِزَّتِكَ يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! ہمیں ہدایت عطا فرما۔“ امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے اور لوگ آمین کہیں اور اپنے ہاتھوں کو سینوں کے برابر اٹھائے رکھیں، دعا کے اختتام پر انہیں چہرے پر پھیر لیں اس وجہ سے کہ اس کے متعلق حدیث منقول ہے ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تشہد کے بعد والی دعا کی طرح یہاں بھی ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔

### ﴿.....نورانی لباس.....﴾

ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا: ”ہاں! اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں۔“

(شرح الصدور، ص ۳۰۵)

①..... احتیاف کے نزدیک: فرض و وتر و سنن رواتب (یعنی سنت مؤکدہ) میں تعدہ اولیٰ میں تشہد (یعنی التحیات) پر کچھ نہ بڑھانا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۱۸) (نیز فرض و وتر و سنن رواتب میں بھولے سے) تعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ“ تو سجدہ سہو واجب ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی۔ لہذا اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ (نماز کے احکام، ص ۲۷۹)

## ممنوعاتِ نماز

دوسری فصل:

آقائے دو جہاں، محبوبِ رحمنِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نماز میں دونوں پاؤں ملا کر رکھنے اور ایک پاؤں پر کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔<sup>(۱)</sup> نیز ان دس باتوں سے بھی منع فرمایا: (۱)..... اقعاء<sup>(۲)</sup> (۲)..... سدل<sup>(۳)</sup> (۳)..... کف<sup>(۴)</sup> (۴)..... اختصار<sup>(۵)</sup> (۵)..... صلب<sup>(۶)</sup> (۶)..... مواصلة<sup>(۷)</sup> (۷)..... صلاة الحاقن<sup>(۸)</sup> (۸)..... حاقب<sup>(۹)</sup> (۹)..... حاذق<sup>(۱۰)</sup> (۱۰)..... جالع، غضبان و متشم۔<sup>(۱۱)</sup>

### مذکورہ امور کی تفصیل:

﴿۱﴾..... اقعاء: اہل لغت کے نزدیک اقعاء یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سرین پر بیٹھے، گھٹنوں کو کھڑا کر کے ہاتھ زمین پر رکھ دے جیسے کتا بیٹھتا ہے، جبکہ محدثین کے نزدیک اقعاء یہ ہے کہ اپنی پنڈلیوں پر یوں بیٹھے کہ زمین پر صرف پاؤں کی انگلیوں کے سرے اور گھٹنے لگے ہوئے ہوں۔

﴿۲﴾..... سدل: اس میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ نمازی کپڑا پلیٹ کر ہاتھوں کو اندر داخل کرے اور اسی طرح رکوع و سجود کرے۔ یہود اس طرح عبادت کیا کرتے تھے لہذا ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس سے منع کر دیا گیا۔

۱..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۸، بتقدم و تاخر۔

۲..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصلاة، باب الجلوس بین السجدين، الحدیث: ۸۹۵، ۸۹۶، ج ۱، ص ۲۸۲۔

۳..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی السدل فی الصلاة، الحدیث: ۶۴۳، ج ۱، ص ۲۵۹۔

۴..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب اعضاء السجود..... الخ، الحدیث: ۴۹، ص ۲۵۳۔

۵..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار فی الصلاة، الحدیث: ۵۴، ص ۲۷۶۔

۶..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی التخصر والاقعاء، الحدیث: ۹۰۳، ج ۱، ص ۳۳۲۔

۷..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما ینقل بین تکبیرة الاحرام..... الخ، الحدیث: ۵۹، ص ۳۰۲۔

۸..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطهارة وسننہا، باب ماجاء فی النهی للحاقن ان یصلی، الحدیث: ۶۱، ج ۱، ص ۳۳۲۔

۹..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام..... الخ، الحدیث: ۵۶، ص ۲۸۱۔

۱۰..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۶۰۔

۱۱..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام..... الخ، الحدیث: ۵۵، ص ۲۸۰۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۶۰۔

سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی السدل فی الصلاة، الحدیث: ۶۴۳، ج ۱، ص ۲۵۹۔

قیص بھی اسی حکم میں ہے، لہذا نمازی کے لئے مناسب نہیں کہ دونوں ہاتھ قیص میں ڈال ہوئے رکوع و سجود کرے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ نمازی چادر کا درمیان والا حصہ سر پر رکھے اور اس کے دونوں کنارے دائیں بائیں لٹکا دے انہیں اپنے کندھوں پر نہ رکھے<sup>(۱)</sup>۔ پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔

﴿3﴾..... کف: یعنی سجدے میں جاتے ہوئے آگے یا پیچھے سے کپڑا اٹھانا اور کبھی سر کے بالوں کا جوڑا بنا لیا جاتا ہے۔ لہذا مرد کو چاہئے کہ سر کے بالوں کو لپیٹے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات اعضاء پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل نے نماز میں قیص کے اوپر چادر باندھنے سے منع فرمایا اور اسے کف (یعنی لپیٹنا یا سمیٹنا) قرار دیا۔

﴿4﴾..... اختصار: نمازی کا اپنے ہاتھوں کو کمر پر (یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں) رکھنا<sup>(۳)</sup>۔

﴿5﴾..... صلب: حالت قیام میں دونوں ہاتھ کمر پر یوں رکھنا کہ بازو جسم سے جدا رہیں۔

﴿6﴾..... مواصلہ: کے پانچ طریقے ہیں:

دو کا تعلق امام کے ساتھ ہے: (۱)..... امام قراءت کو تکبیر تحریمہ سے نہ ملائے (۲)..... نہ ہی رکوع کو قراءت سے ملائے۔ دو کا تعلق مقتدی کے ساتھ ہے: (۱)..... مقتدی تکبیر تحریمہ کو امام کی تکبیر کے ساتھ نہ ملائے (۲)..... نہ

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 247 پر ہے: سدل یعنی کپڑا لٹکانا۔ مثلاً سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں مگر وہ تحریمی ہے۔ ہاں! اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں۔ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سراپیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب اعضاء السجود..... الخ، الحدیث: ۴۹، ص ۲۵۳، بتقدم و تاخر۔

③..... نماز کے احکام صفحہ 251 پر ہے: کمر پر ہاتھ رکھنا (مکروہ تحریمی ہے)۔ نماز کے علاوہ بھی (بلا عذر) کمر پر (یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں) ہاتھ نہیں رکھنا چاہئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں، ”کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہیں ورنہ جہنمیوں کیلئے جہنم میں کیا راحت ہے!۔“

ہی اپنے سلام کو اس کے ساتھ ملائے۔

ایک کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے یعنی فرض نماز میں ایک سلام کو دوسرے سلام کے ساتھ نہ ملایا جائے بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر لیا جائے (تا کہ دونوں میں فرق ہو جائے)۔

﴿7﴾.....حاقن: جسے شدت کا پیشاب آرہا ہو۔

﴿8﴾.....حاقب: جسے پاخانے کی شدید حاجت ہو<sup>(۱)</sup>۔

﴿9﴾.....حاذق: تنگ موزے پہن کر نماز پڑھنے والا۔ یہ سب چیزیں چونکہ خشوع میں رکاوٹ بنتی ہیں (لہذا ان حالتوں میں نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے)۔

﴿10﴾.....جالع اور عطشان: بھوک اور پیاس کی شدت کا بھی یہی حکم ہے (کہ اس حالت میں نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے)۔ بھوک کی شدت میں نماز کی ممانعت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان سے سمجھی گئی ہے کہ ”جب کھانا حاضر ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ مگر یہ کہ جب وقت تنگ ہو یا دل مطمئن ہو (تو پہلے نماز پڑھو)۔“<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”نہ تو تم میں سے کوئی حالتِ اضطراب میں نماز شروع کرے اور نہ ہی غصے کی حالت میں نماز پڑھے۔“<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھی جائے اس کی سزا جلد ملتی ہے۔“<sup>(۴)</sup>

①..... نماز کے احکام صفحہ 248 پر ہے: پیشاب، پاخانہ یا ریح کی شدت ہونا۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت ہو تو وقت میں وسعت ہونے کی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ فراغت اور وضو کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لیجئے۔ اور اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے اگر اسی طرح پڑھ لی تو گنہگار ہونگے۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة بحضرة الطعام..... الخ، الحدیث: ۵۵۵، ص ۲۸۰۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۶۰۔

صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة بحضرة الطعام..... الخ، الحدیث: ۵۵۵، ص ۲۸۰۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۶۰۔



## نماز میں سات چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز میں سات چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں:

- (۱)..... نکسیر پھوٹنا (۲)..... اُونگھ آنا (۳)..... وسوسہ آنا (۴)..... جماہی آنا (۵)..... کھجانا (۶)..... ادھر ادھر توڑے کرنا اور (۷)..... کسی چیز سے کھیلنا۔ (۱)

بعض نے بھولنے اور شک میں پڑنے کا بھی اضافہ کیا ہے۔ (۲)

## نماز میں چار چیزیں ظلم سے ہیں:

- بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”نماز میں چار چیزیں ظلم سے ہیں: (۱)..... ادھر ادھر متوجّہ ہونا (۲)..... چہرے پر ہاتھ پھیرنا (۳)..... کنکریوں کا برابر کرنا اور (۴)..... راستے میں ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ سامنے سے کوئی گزر سکتا ہو۔“ (۳) نیز انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، (۴) یا انگلیاں چٹخانا (۵)، (۶) یا چہرہ ڈھانپنا، (۷) یا رکوع میں ایک

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۶۰۔

②..... المرجع السابق۔

③..... المرجع السابق۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث کعب بن عجرة، الحدیث ۱۸۱۵، ج ۶، ص ۳۲۵۔

⑤..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 249 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَہُ نقل فرماتے ہیں: خاتمہ المحققین علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا، ”نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹخا کرو۔“ (سنن ابن ماجہ، ج ۱ ص ۵۱۴ حدیث ۹۶۵) مجتبیٰ کے حوالے سے نقل کیا، سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مکران، رحمت عالمیان صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ”انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا۔“ مزید ایک روایت میں ہے، ”نماز کیلئے جاتے ہوئے انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا۔“ ان احادیث مبارکہ سے یہ تین احکام ثابت ہوئے (الف) نماز کے دوران اور توابع نماز میں مثلاً نماز کیلئے جاتے ہوئے نماز کا انتظار کرتے ہوئے انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے (ب) خارج نماز (یعنی توابع نماز میں بھی نہ ہو) میں بغیر حاجت کے انگلیاں چٹخانا مکروہ تنزیہی ہے (ج) خارج نماز میں کسی حاجت کے سبب مثلاً انگلیوں کو آرام دینے کیلئے انگلیاں چٹخانا مباح (یعنی بلا کراہت جائز) ہے۔

⑥..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیہا، باب ما یکرہ فی الصلاة، الحدیث ۹۶۵، ج ۱، ص ۵۱۴۔

⑦..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی السدل فی الصلاة، الحدیث ۶۴۳، ج ۱، ص ۲۵۹۔

ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر انوں کے درمیان داخل کرنا بھی منع ہے<sup>(۱)</sup> کہ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ فرماتے ہیں: ”ہم اس طرح کیا کرتے تھے تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔“<sup>(۲)</sup> یونہی سجدہ کرتے ہوئے صفائی کی غرض سے زمین پر پھونکنا اور ہاتھ سے کنکریاں برابر کرنا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ ایسے افعال ہیں کہ جن سے دوران نماز بندہ مستغنی ہے۔ اسی طرح ایک پاؤں اٹھا کر ان پر رکھنا بھی منع ہے۔ قیام کی حالت میں دیوار یا کسی اور چیز سے سہارا لینا بھی منع ہے۔ اگر کسی ایسی چیز سے سہارا لیا کہ جسے ہٹانے سے نمازی گرجائے تو ظاہر یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

### تیسری فصل: فرائض و سنن میں فرق

مذکور کلام فرضوں، سنتوں، مستحبات اور آداب پر مشتمل ہے ان کا لحاظ رکھنا راہِ آخرت کا ارادہ کرنے والے کے لئے ضروری ہے۔

### نماز کے فرائض:

نماز میں بارہ فرض ہیں<sup>(۳)</sup>: (۱)..... نیت (۲)..... تکبیر تحریمہ (۳)..... قیام (۴)..... سورۃ فاتحہ (۵)..... رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں (۶)..... اطمینان سے رکوع کرنا (۷)..... رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا (۸)..... اطمینان سے سجدہ کرنا، ہاتھوں کا رکھنا ضروری نہیں (۹)..... سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا (۱۰)..... قعدہ اخیرہ کے لئے بیٹھنا اور تشہد پڑھنا (۱۱)..... حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک پڑھنا اور (۱۲)..... پہلا سلام۔ نماز سے باہر ہونے کی نیت کرنا ضروری نہیں۔

ان کے علاوہ امور واجب نہیں بلکہ یا تو وہ سننیں ہیں یا مستحبات۔

- ①..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النذب الی وضع الایدی..... الخ، الحدید: ۵۳، ص ۲۷۱۔
- ②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النذب الی وضع الایدی..... الخ، الحدید: ۵۳، ص ۲۷۲۔
- ③..... احناف کے نزدیک نماز میں سات فرض ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 507 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: سات چیزیں نماز میں فرض ہیں:

(۱)..... تکبیر تحریمہ (۲)..... قیام (۳)..... قراءت (۴)..... رکوع (۵)..... سجدہ (۶)..... قعدہ اخیرہ (۷)..... خُرُوجِ بَصْنَعِہ۔

## نماز کی سنتیں:

**فعلی سنتیں چار ہیں:** (۱)..... تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھانا (۲، ۳)..... رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا (اس پر حاشیہ صفحہ 481 پر گزر چکا ہے) اور (۴)..... پہلے تشہد کے لئے بیٹھنا (یعنی قعدہ اولیٰ) (۱) بہر حال تشہد میں انگلیاں پھیلانے کی کیفیت اور انہیں اٹھانے کی مقدار جو ہم نے ذکر کی یہ مستحب اور سنت کے تابع ہے۔ پاؤں پھیلانا اور سرین پر بیٹھنا جلسے کے تابع اور مستحب ہے۔ سر جھکانا، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا قیام کے مستحبات اور اس کی خوبصورتی میں سے ہے۔ (پہلی یا تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر) استراحت کے لئے بیٹھنے کو ہم نے فعلی سنتوں میں شمار نہیں کیا کیونکہ یہ سجدے سے قیام کی طرف اٹھنے کی بہتری کے لئے ہے نیز یہ فی نفسہ مقصود نہیں اسی لئے ہم نے اسے علیحدہ ذکر نہیں کیا۔

## اذکار کی سنتیں:

**قولی سنتیں درج ذیل ہیں:** ثناء و تعوذ پڑھنا، امین کہنا سنت مؤکدہ میں سے ہیں، سورت پڑھنا، تکبیرات انتقال کہنا، رکوع و سجود میں تسبیحات پڑھنا نیز رکوع و سجود سے اٹھ کر تسبیح کہنا (رکوع سے اٹھ کر رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور دو سجودوں کے درمیان رَبِّ اغْفِرْ لِي پڑھنا)، پہلا قعدہ کرنا، اس میں حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر درود پاک پڑھنا، آخری تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا اور دوسرا سلام پھیرنا۔ اگرچہ ہم نے انہیں سنت کے تحت ذکر کر دیا ہے لیکن ان کے متفرق درجے ہیں کیونکہ ان میں سے چار وہ ہیں کہ جن کا تدارک سجدہ سہو سے کیا جاتا ہے (یعنی ان کے رہ جانے یا ان میں تاخیر ہو جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ وہ چار یہ ہیں: (۱) قعدہ اولیٰ (۲) دعائے قنوت (۳) پہلا تشہد اور (۴) اس میں درود پاک پڑھنا)۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

سنتوں اور فرائض میں تو فرق سمجھ میں آتا ہے کہ فرض کے چھوٹنے سے صحت (نماز) فوت ہوتی ہے جبکہ سنت کے چھوٹنے سے (نماز کی صحت پر) کوئی فرق نہیں پڑتا، نیز فرض چھوڑنے پر عذاب کی وعید ہے جبکہ سنت کا معاملہ ایسا نہیں۔

①..... احناف کے نزدیک: قعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ (نماز کے احکام، ص ۲۱۹)

لیکن سنتوں کے مابین فرق سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ تمام سنتوں پر عمل کا حکم استنباطی ہے، نیز انہیں چھوڑنے پر عذاب نہیں، البتہ ان پر عمل کی صورت میں ثواب کی بشارت ہے، پھر ان میں فرق کرنے کا کیا معنی؟ جان لیجئے! کہ مختلف سنتوں کا ثواب و عذاب اور استجاب میں مشترک ہونا ان کے باہمی فرق کو ختم نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال: انسان دو وجہ سے ہی کامل ہوتا ہے: (۱)..... امر باطن (۲)..... اعضائے ظاہر۔ باطن سے روح و حیات اور ظاہر سے اعضائے جسم مراد ہیں۔

### اعضائے جسم کے درجات:

اعضائے جسم کے چار درجے ہیں: (۱)..... بعض ایسے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے دل، جگر، دماغ کہ ان میں سے ہر ایک عضو کے ختم ہونے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ (۲)..... بعض وہ ہیں کہ جن کے ختم ہونے سے زندگی تو ختم نہیں ہوتی مگر مقصد حیات فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان۔ (۳)..... بعض وہ ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے نہ تو حیات ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا مقصد فوت ہوتا ہے مگر ظاہری حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابرو، داڑھی، پلکیں اور حسین رنگت۔ (۴)..... بعض وہ ہیں کہ جن سے حسن و جمال ختم تو نہیں ہوتا لیکن اس کے کمال میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے ابروؤں کا ٹیڑھا ہونا، پلکوں اور داڑھی کے بالوں کی سیاہی کا ختم ہونا، اعضاء کی بناوٹ میں فرق آنا اور سفید رنگ میں سرخ رنگ کامل جانا، یہ مختلف درجات ہیں۔

اسی طرح عبادت کی شریعت نے ایک صورت بنائی ہے جس پر عمل کر کے ہم اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادت کی روح اور باطنی زندگی خشوع و خضوع، نیت، یکسوئی، اخلاص وغیرہ ہے جس کا بیان عنقریب آئے گا۔ اب ہم (اعضائے جسم کی طرح) عبادت کے ظاہری ارکان بیان کریں گے۔

### عبادت کے ظاہری ارکان:

رکوع، سجود، قیام اور تمام ارکان دل، سر اور جگر کے قائم مقام ہیں کیونکہ ان کے فوت ہونے سے نماز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رفع یدین (یعنی ہاتھ اٹھانا)، ثنا اور پہلا قعدہ ہاتھ، آنکھ اور پاؤں کے قائم مقام ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے نماز کی صحت میں فرق نہیں آتا جیسے ان اعضاء کے ختم ہونے سے زندگی تو ختم نہیں ہوتی لیکن انسان بدنما ہو جاتا

ہے اس میں رغبت نہیں رہتی، اسی طرح جو شخص نماز میں کم از کم بات پر اکتفا کرے وہ اس کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کو زندہ غلام بطور تحفہ پیش کرے لیکن اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں۔ جہاں تک مستحبات کا معاملہ ہے تو وہ سنتوں کے علاوہ ہیں۔ لہذا وہ ابرو، داڑھی، پلکوں اور خوبصورتی کے قائم مقام ہیں اور ان سنتوں میں اذکارِ حسن نماز کی تکمیل کے لئے ہیں جیسے ابرو اور داڑھی کی گولائی۔ پس اے بندے! نماز تیری عبادت اور ایسا تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے تجھے بادشاہوں کے بادشاہ (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کا قرب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ وہ شخص جو بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اسے غلام تحفہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ (نماز کا) تحفہ جو تو بارگاہِ رب العزت میں پیش کرتا ہے، بڑی پیشی (یعنی قیامت) کے دن تجھے لوٹا دیا جائے گا اب تجھے اختیار ہے کہ اسے اچھی صورت میں پیش کر یا بری شکل میں، اگر اچھی صورت میں پیش کرے گا تو تجھے ہی فائدہ ہوگا اور اگر بری صورت میں پیش کرے گا تو تیرا ہی نقصان ہوگا۔ لہذا تیرے لئے مناسب نہیں کہ توفیق سے اتنا ہی حصہ پائے جو تیرے لئے فرض و سنت میں فرق کر دے اور تو سنت کے متعلق اتنی ہی بات سمجھے کہ فلاں چیز کا چھوڑنا جائز ہے اور تو اسے چھوڑ دے۔ یہ تو طیب کے اس قول کے مشابہ ہوگا کہ آنکھ پھوڑ دینے سے انسان کا وجود باطل نہیں ہوتا اور وہ اس بات سے قطع نظر کر لیتا ہے کہ اگر بادشاہ کی خدمت میں ایسا تحفہ پیش کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ پس سنتوں، مستحبات اور آداب کے درجات کو یونہی سمجھنا چاہئے۔

## نمازی کا سب سے پہلا دشمن:

جو نمازی نماز کے رکوع و سجود کو کامل طور پر ادا نہ کرے تو (بروز قیامت) اس کا سب سے پہلا دشمن وہی نماز ہوگی اور کہے گی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔“<sup>(۱)</sup> نیز ان روایات کا مطالعہ بھی کرو جو ہم نے ارکانِ نماز کی تکمیل کے حوالے سے پیش کی ہیں تاکہ تمہارے سامنے ان کی اہمیت واضح ہو جائے۔



①.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلاة، فصل تحسین الصلاة والاکنار منہالیلاً.....الخ، الحدیث: ۳۱، ج ۳، ص ۱۲۳۔

## باب نمبر ۳: اعمال قلب کی باطنی شرائط

یہ باب تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اولاً ہم نماز کو خشوع و خضوع اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرنے کے متعلق ذکر کریں گے۔ پھر باطنی معانی، ان کی تعریفات اور اسباب و علاج بیان کریں گے۔ پھر تفصیلاً وہ امور ذکر کریں گے جن کا نماز کے ہر رکن میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ نماز آخرت کا سرمایہ بن سکے۔

### پہلی فصل: خشوع، خضوع اور حضور قلب کی شرائط

جان لیجئے کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے کئی دلائل ہیں۔

### خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے سے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِنَذْرِكَ ﴿۱۳﴾ (ب ۱۶، طہ: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

اس میں صیغہ امر ہے جو ظاہر و خوب پر دلالت کرتا ہے اور غفلت ذکر کا متضاد ہے۔ لہذا جو پوری نماز میں غافل رہے وہ نماز کو ذکر الہی کے ساتھ قائم کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟

﴿۲﴾

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۲۰﴾ (ب ۹، الاعراف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور غافلوں میں نہ ہونا۔

اس میں صیغہ نہی ہے جو ظاہر حرمت پر دلالت کرتا ہے (یعنی ذکر الہی سے غفلت برتنا حرام ہے)۔

﴿۳﴾

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿۵۳﴾ (ب ۵، النساء: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو۔

اس میں حالت نشہ میں نماز سے منع کرنے کی علت بیان کی گئی ہے۔ یہ علت اسے بھی شامل ہے جو غافل اور وسوسوں اور دنیا کی فکروں میں ڈوبا ہوا ہو۔

### خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے سے متعلق چار فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... نماز سکون اور عاجزی کا نام ہے۔ (۱)

①..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی التخشع فی الصلاة، الحدیث ۳۸۵، ج ۱، ص ۳۹۴، بتقدم و تاخر۔

اس میں لفظ الصلوة پر الف لام بیان حصر کے لئے ہے اور کلمہ انما تحقیق اور تاکید کے لئے ہے اور فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ نے اس فرمانِ مصطفیٰ کہ ”شفعة کا حق غیر منقسم (یعنی تقسیم نہ ہونے والی) جائیداد میں ہے۔“<sup>(۱)</sup> سے حصر، اثبات اور نفی کا مفہوم سمجھا ہے۔

﴿2﴾..... جسے اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اس سے اس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دوری میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اور غافل کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی۔

﴿3﴾..... کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں نماز سے سوائے تھکاوٹ اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔<sup>(۳)</sup>

اس سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ کی مراد غافل نمازی ہیں۔

﴿4﴾..... بندے کے لئے نماز میں سے وہی ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔<sup>(۴)</sup>

اس میں تحقیق یہ ہے کہ نمازی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے مناجات کرنے والا ہے۔<sup>(۵)</sup> جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور غفلت والا کلام قطعاً مناجات نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر انسان زکوٰۃ سے غفلت برتے جو کہ بذات خود خواہشات کے مخالف اور نفس پر گراں ہے، اسی طرح روزہ اعضاء کو کمزور کرنے والا اور خواہشات جو کہ شیطان کا آلہ ہے کی بلندیوں کو توڑنے والا ہے تو غفلت کے باوجود ان سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح حج کے افعال مشقت طلب اور سخت ہیں اور اس میں ایسا مجاہدہ ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے خواہ اس کے افعال ادا کرتے ہوئے دل حاضر ہو یا نہ ہو؟ جبکہ نماز میں ذکر، تلاوت، رکوع، سجود، قیام، قعود کی ادائیگی ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الشفعة، باب الشفعة فیما لم یقسم..... الخ، الحدیث ۲۲۵، ج ۲، ص ۶۱، مفہوماً۔

②..... کنز العمال، کتاب الصلاة، الحدیث ۲۰۰۷۹، ج ۷، ص ۲۱۲۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی الغیبة والرفث للصلائم، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۳۲۰۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۱، ص ۱۷۰۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهی عن البصاق فی المسجد..... الخ، الحدیث ۵۵۵، ص ۲۷۹۔

## نماز میں قراءت و اذکار سے مقصود:

ذکر جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے گفتگو اور دعا کا نام ہے اس سے مقصود یا تو کلام اور گفتگو کرنا ہے یا حروف اور آوازیں ہیں تاکہ زبان کی عمل کے ذریعے آزمائش ہو، جیسے روزے میں معدے (کو کھانے پینے) اور شرمگاہ کو (نفسانی خواہشات سے) روکنے سے امتحان لیا جاتا، حج کی مشقتوں سے جسم کا امتحان لیا جاتا، زکوٰۃ نکالنے اور محبوب مال کو جدا کرنے سے دل کا امتحان لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں ایسا تصور باطل ہے کہ ذکر سے حروف و آواز کے ذریعے زبان کا امتحان مقصود ہے کیونکہ یہودہ گفتگو کے ساتھ زبان کو حرکت دینا غافل آدمی پر بہت آسان ہے، نیز اس میں عمل کے اعتبار سے بھی کوئی امتحان نہیں بلکہ ادائیگی کے اعتبار سے حروف اور بولتے وقت مافی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ حضور قلب کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا جب دل ہی غافل ہوگا تو ”إِهْدِي الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (الفاتحہ: ۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم کو سیدھا راستہ چلا۔“ میں کیا سوال کرے گا؟ اور جب مقصد گریہ و زاری کرنا اور دعا مانگنا نہ ہو تو انسان کو غفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کون سی مشقت ہے خصوصاً جبکہ وہ بولنے کا عادی ہو۔ یہ اذکار کے متعلق وضاحت ہے۔

(سیدنا امام غزالی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَّةِ وضاحت کے طور پر مزید فرماتے ہیں:) بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان قسم اٹھائے اور کہے: میں فلاں کا شکر ادا کروں گا، اس کی تعریف کروں گا اور اس سے حاجت بیان کروں گا؟ پھر نیند کی حالت میں اس کی زبان پر ان معانی پر دلالت کرنے والے الفاظ جاری ہو جائیں تو وہ اپنی قسم سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی زبان پر تاریکی میں یہ کلمات جاری ہوئے اور دوسرا شخص بھی موجود ہے مگر اسے اس کی موجودگی کا علم نہیں اور نہ ہی یہ اسے دیکھ رہا ہے تو بھی قسم سے بری نہ ہوگا کیونکہ جب تک وہ اس کے دل میں حاضر نہ ہوگا اس کا کلام اس سے خطاب اور اس کے ساتھ گفتگو قرار نہیں پائے گا۔ اسی طرح اگر وہ شخص اس کی موجودگی میں دن کی روشنی میں یہ الفاظ اپنی زبان پر لاتا ہے لیکن اس کا دل حاضر نہیں بلکہ کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے غافل ہے اور بولتے وقت اس سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ اپنی قسم سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ قراءت اور اذکار سے مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثناء، اس کی بارگاہ میں اظہارِ عاجزی اور دُعا کرنا ہے، اس کا مخاطب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے اور اس کا دل حجاب غفلت میں ہے تو یہ اُسے نہیں دیکھ سکتا بلکہ یہ تو مخاطب



ذات سے بھی غافل ہے، اس کی زبان تو عادتاً حرکت کر رہی ہے اور یہ بات نماز کے مقصود سے کس قدر دُور ہے کہ اس کے فرض کرنے کا مقصد ہی دل کی صفائی، ذکر الہی کی تجدید اور اس پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ قراءت اور ذکر کا حکم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بولنے میں اس خاصیت کے انکار اور اسے فعل سے جدا کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔

## رکوع و سجود سے مقصود:

رکوع و سجود سے یقیناً تعظیم مقصود ہے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ اپنے فعل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم کر رہا ہے مگر اس سے غافل ہے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ کسی بت کی تعظیم کر رہا ہے جو اس کے سامنے ہے اور وہ خود اس سے غافل ہے۔ یا وہ کسی دیوار کی تعظیم کر رہا ہے جو اس کے سامنے ہے اور یہ اس سے غافل ہے۔ جب یہ افعال تعظیم سے خارج ہو گئے تو یہ محض پیٹھ اور کمر کی حرکت رہ جائے گی اور اس میں کوئی ایسی مشقت بھی نہیں کہ اس سے امتحان لیا جائے اور اسے دین کا ستون اور اسلام و کفر کے درمیان فرق کرنے والی قرار دیا جائے۔ نیز اسے حج اور تمام عبادات پر مقدم کیا جائے خصوصاً اسے چھوڑنے پر قتل واجب قرار دیا جائے۔

(سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیُّ فرماتے ہیں:) نماز کی یہ تمام عظمت اس کے ظاہری اعمال کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ عظمت اس وجہ سے ہے کہ مناجات کا مقصد اس سے ملا ہوا ہے کیونکہ یہ روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ پر فوقیت رکھتی ہے بلکہ قربانیوں پر بھی فوقیت رکھتی ہے جو کہ مال کی کمی کے ذریعے نفس کا مجاہدہ ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَنْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ لَكُمْ مَهَا وَلَا دِمَاءًا وَهَآؤَ لَكِنْ  
يَبْتَلِي التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط (پ ۱، الحج: ۳۷)

خون ہاں! تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

اس میں تقویٰ سے مراد وہ صفت ہے جو دل پر غالب ہو کر اسے مطلوبہ احکام پر عمل کرنے پر برا بیچختہ کرتی ہے۔ لہذا نماز میں یہ کیفیت کیسے ہوگی جبکہ اس میں افعال سے تو کچھ غرض ہی نہیں؟ پس باعتبار معنی کے یہ کلام حضورِ قلب کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ نماز کے باطل ہونے کا حکم لگائیں اور حضورِ قلب کو اس کے صحیح ہونے کے لئے شرط قرار دیں تو آپ

اجماع فقہاء کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے صرف تکبیر تحریر یہ کے وقت حضور قلب کو شرط قرار دیا ہے؟ جان لیجئے! کتاب العلم میں گزر چکا ہے کہ فقہائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ بَاطِن میں تصرّف نہیں فرماتے اور دلوں کو چیر کر نہیں دیکھتے اور نہ ہی راہِ آخرت میں تصرّف کرتے ہیں بلکہ اعضاء کے ظاہری احوال کے مطابق احکام دین بیان کرتے ہیں نیز قتل اور حاکم وقت کی تعزیر کے ساقط ہونے کے لئے ظاہری اعمال کافی ہیں۔ رہی یہ بات کہ کیا یہ عمل آخرت میں نفع دے گا (یا نہیں) تو یہ معاملہ فقہ کی حدود سے باہر ہے اور اجماع کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف موجود ہے)۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابوبالبل کی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَكِي نے حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَافِي کے حوالے سے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”جو خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز فاسد ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا حسن بصری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھی جائے اس کی سزا جلد ملتی ہے۔“ (۲)

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جو حالت نماز میں دائیں بائیں والے کو قصداً پہچانے اس کی کوئی نماز نہیں۔“ (۳)

حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کے لئے اس کا چھٹایا دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ بے شک بندے کے لئے اس کی نماز میں سے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔“ (۴)

اور اگر یہ بات کسی امام سے منقول ہوتی تو اسے مذہب ٹھہرا لیا جاتا لیکن اب اس سے کیوں دلیل نہیں پکڑی جاتی؟

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۶۱۔

②..... المرجع السابق، ص ۱۷۰۔ ③..... المرجع السابق، ص ۱۶۱۔

④..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی نقصان الصلاة، الحدیث: ۷۹۶، ج ۱، ص ۳۰۶۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۶۹-۱۷۰۔

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”علما کا اس پر اجماع ہے کہ بندے کے لئے اس کی نماز میں سے وہی کچھ ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔ انہوں نے حضور قلب کو اجماع قرار دے دیا۔ نیز پرہیزگار فقہا اور علمائے آخرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى سے اس قسم کی باتیں اس قدر منقول ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔

حق یہ ہے کہ اس (یعنی خشوع و حضور قلب کے) معاملے میں شرعی دلائل اور احادیث و آثار کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے شرط قرار دینے کے متعلق واضح احادیث موجود ہیں (ہاں اتنا ضرور ہے) کہ ظاہری تکلیف میں فتویٰ مقام مخلوق کے تصور کے مطابق ٹھہرا لیا جاتا ہے۔ لہذا لوگوں پر پوری نماز میں دل کو حاضر کرنے کی شرط لگانا ممکن نہیں کیونکہ اس سے سوائے چند لوگوں کے ہر انسان عاجز ہے اور جب ضرورت کے تحت پوری نماز میں حضور قلب کو شرط قرار دینا ممکن نہیں تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے ایسی شرط قرار دیا جائے جس پر حضور قلب کا نام صادق آجائے اگرچہ لہجہ بھر کے لئے ہو اور (اس میں) سب سے بہتر تکبیر تحریمہ کہنے کا مرحلہ ہے۔ پس ہم نے تکبیر تحریمہ کے وقت حضور قلب کو لازم قرار دیا۔ نیز اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ پوری نماز میں غافل رہنے والے کا حال بالکل نہ پڑھنے والے کی مثل نہیں کیونکہ وہ ظاہراً فعل کو ادا کرنے والا اور لہجہ بھر دل کو حاضر کرنے والا ہے اور یہ کیسے نہ ہوگا حالانکہ جو شخص بھولے سے بے وضو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک باطل ہے لیکن اسے اپنے فعل، قصور اور عذر کے مطابق اجر ملے گا۔ نیز اس امید کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوف ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کا حال نماز نہ پڑھنے والے کے حال سے بھی برا ہو اور یہ کیونکر نہ ہو کہ جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر سستی کرتا، غافل اور حقیر سمجھنے والوں جیسا کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بھی بدتر ہے جو خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوتا۔ پس جب خوف ورجا کے اسباب متعارض ہو گئے اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو گیا تو اب تمہیں سستی برتنے یا احتیاط کرنے میں اختیار ہے۔ نیز فقہائے کرام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى نے غفلت میں نماز پڑھنے کے جواز کا جو فتویٰ دیا اس کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ فتویٰ کی ضرورت میں سے ہے جیسا کہ اس پر تنبیہ گزر چکی ہے۔ جس نے نماز کے باطن کو جان لیا وہ یہ بات بھی جان لے گا کہ غفلت اس کی متضاد چیز ہے لیکن ”قَوَاعِدُ الْعُقَايِدِ“ کے باب میں علم باطن اور ظاہر کے درمیان فرق کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شریعت کے جو اسرار ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی تصریح سے مانع (یعنی وضاحت میں رکاوٹ بننے والے) اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کی سمجھ کی کمی ہے۔ لہذا ہم اسی قدر بحث پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ

راہِ آخرت کے طالب کے لئے اتنی مقدار ہی کافی ہے جبکہ جھگڑا وجدال کرنے والے سے ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔

## حاصل کلام:

دل کی حاضری نماز کی روح ہے اور کم از کم مقدار جس سے روح باقی رہے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل کا حاضر ہونا ہے اور اس قدر سے بھی کم ہو تو ہلاکت ہے۔ اس سے زیادہ جس قدر حضور قلب ہوگا اسی قدر روح نماز کے اجزاء میں پھیلے گی اور کتنے ہی زندہ لوگ ہیں جو حرکت نہیں کر سکتے وہ مردوں کے قریب ہیں۔ پس تکبیر تحریمہ کے علاوہ غافل اس زندہ کی مثل ہے جس میں حرکت نہیں۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھی مدد کے طلبگار ہیں۔

## دوسری فصل: نماز مکمل کرنے والے باطنی امور

جان لیجئے کہ ان خوبیوں کے لئے زیادہ عبارتوں کی ضرورت ہے لیکن انہیں چھ جملوں میں جمع کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱)..... حضور قلب (۲)..... فہم (۳)..... تعظیم (۴)..... ہیبت (۵)..... رجا اور (۶)..... حیا۔ پہلے ہم ان کی تفصیل ذکر کریں گے، پھر ان کے اسباب اور علاج بیان کریں گے۔

## ان امور کی تفصیل:

﴿۱﴾..... حضور قلب: اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے یا جو کچھ بول رہا ہے اس کے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو اور دل کو توجہ و نعل دونوں کا علم ہو اور دونوں کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ جس کام میں بندہ مصروف ہے اس کی فکر اس سے دوسری طرف نہ جائے۔ جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اس کے دل میں اسی کی یاد ہو اور اس سے متعلقہ کسی چیز سے غافل نہ ہو تو حضور قلب حاصل ہو جائے گا۔

﴿۲﴾..... معنی کلام کو سمجھنا: یہ حضور قلب کے علاوہ دوسرا امر ہے کہ بسا اوقات دل لفظوں کے ساتھ تو حاضر ہوتا ہے مگر ان کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ فہم سے ہماری مراد دل میں لفظ کے معنی کا حاضر ہونا ہے اور یہ ایسا مقام ہے جس میں لوگ مختلف ہیں کیونکہ تسبیحات و قرآنی آیات کے معانی سمجھنے کے معاملے میں لوگ ایک جیسے نہیں۔ نیز کتنے ہی لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی حالت نماز میں ہی سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے دل میں پہلے کبھی نہیں گزرے ہوتے۔ اسی وجہ سے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے کیونکہ اس سے کئی امور سمجھ میں آتے ہیں

اور یہ امور یقیناً بے حیائی سے بچاتے ہیں۔

﴿3﴾..... **تعظیم:** یہ حضور قلب اور فہم کے علاوہ تیسری چیز ہے کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور معنی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غلام کی تعظیم نہیں کر رہا ہوتا پس تعظیم مذکورہ دونوں پر زائد چیز ہے۔

﴿4﴾..... **ہیبت:** یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا خوف ہے جو تعظیم سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ جسے خوف نہیں ہوتا اسے خوف زدہ نہیں کہا جاتا۔ نیز بچھو، غلام کی بدخلقی اور اس جیسی ادنی چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت نہیں کہا جاتا بلکہ ہیبت معظم (بڑے) بادشاہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں اور ہیبت ایسا خوف ہے جو اجلال و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے (کہ جلالت و تعظیم الہی دل میں ہو تو اس کا خوف بھی ہوگا)۔

﴿5﴾..... **رجا (امید):** اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مذکورہ تمام چیزوں سے ایک زائد امر ہے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بادشاہوں کے رعب و دبدبے سے ڈرتے ہوئے ان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان سے کسی جزا کی توقع نہیں رکھتے۔ جبکہ بندے کو چاہئے کہ وہ نماز پر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ثواب ملنے کی امید بھی رکھے جیسا کہ وہ گناہوں کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

﴿6﴾..... **حیا:** یہ گزشتہ تمام امور سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ اپنی خطا پر واقف ہونے اور اپنی غلطی کا وہم گزرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نیز تعظیم، خوف اور رجا حیا کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں یوں کہ تقصیر (یعنی خطا) کا وہم اور ارتکاب گناہ کا خیال نہ ہو مگر حیا نہیں ہو سکتی۔

### مذکورہ امور کے اسباب:

﴿1﴾..... **حضور قلب کا سبب فکر ہے۔** کیونکہ تیرا دل تیری فکر کے تابع ہے اور تجھے جس چیز کی فکر ہوگی تیرا دل بھی اسی میں مشغول ہوگا۔ نیز طبعی طور پر دل فکری امور میں خواہ مخواہ مشغول رہتا ہے اور جب دل نماز میں مشغول نہ ہوگا تو فارغ نہیں بلکہ دنیاوی امور میں سے جن امور کی آدمی کو فکر ہوگی انہیں میں مشغول ہوگا۔

دل کو نماز میں حاضر رکھنے کا حیلہ اور علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی سوچ و فکر نماز ہی کی جانب مرکوز رکھے اور فکر نماز کی طرف تبھی پھرے گی جب یہ ظاہر ہو جائے کہ مقصد و مطلوب اسی سے متعلق ہے یعنی اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا

کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور نماز اس تک پہنچانے والی ہے۔ پس جب اس بات کی حقیقت علم کی طرف اضافت کی جائے نیز دنیا اور اس کے امور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے مجموعے سے نماز میں حضور قلب حاصل ہوگا۔ اسے اس مثال سے سمجھو کہ جب تم ایسے بادشاہوں کے پاس جاتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو تمہارا دل حاضر ہوتا ہے تو جب بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہو جس کے قبضہ قدرت میں ملک و ملکوت (زمین و آسمان کی بادشاہت) اور نفع و نقصان ہے تو اس وقت تمہارا دل کیوں حاضر نہیں ہوتا اس کا سبب بجز ایمان کی کمزوری کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا تمہیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔ اس کا طریقہ کسی اور مقام پر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔

﴿2﴾..... فہم کا سبب حضور قلب کے بعد فکر کو دائمی رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھیرنا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو دل کے حاضر کرنے کا ہے۔ اس کے ساتھ فکر پر متوجہ ہونا اور وسوسوں کو دور کرنے کے لئے مستعد رہنا چاہئے۔ نیز مشغول کرنے والے وسوسوں کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ ان کے وارد ہونے کے مقام کو ہی ختم کر دیا جائے یعنی ان اسباب کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے جن کی طرف خیالات متوجہ ہوتے ہیں اور جب تک یہ مواد دور نہ ہوگا وسوسے نہ جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص جسے چاہتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نیز محبوب چیز کا ذکر یقیناً بغیر قصد و ارادے کے دل میں آہی جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی کوئی نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہوتی۔

﴿3﴾..... تعظیم دلی کیفیت کا نام ہے جو دو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے: (۱)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال و عظمت کی معرفت اور یہ اصول ایمان میں سے ہے کیونکہ جس کا دل عظمت الہی کا معتقد نہیں اس کا نفس اس کی تعظیم تسلیم نہیں کرے گا۔ (۲)..... نفس کی حقارت و خست (یعنی کمینگی) کو پہچاننا اور اسے مسخر و مملوک بندہ سمجھنا۔ ان دو چیزوں کی معرفت سے عاجزی و انکساری اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے خشوع و خضوع پیدا ہوگا اسے ہی تعظیم کہتے ہیں۔ نیز جب تک نفس کے حقیر ہونے کی معرفت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال و عظمت کی معرفت سے نہ ملے تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت منتظم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص دوسروں سے مستغنی اور اپنے نفس سے امن میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی صفاتِ عظمت کو جان لے۔ لیکن نہ تو اسے خشوع حاصل ہوگا اور نہ ہی تعظیم اس لئے کہ دوسرا قرینہ یعنی نفس کی حقارت

کی پہچان اور اس کی حاجت اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں۔

﴿4﴾..... **ہمیت و خوف** نفس کی حالت کا نام ہے جو اس بات کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قادر مطلق، غلبہ و اقتدار کا مالک اور اسی کی مشیت کا نفاذ ہے، نیز اسے ذرا بھی پروا نہیں کیونکہ اگر وہ اگلوں پچھلوں کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰۃُ وَالسَّلَامُ کے مصائب اور طرح طرح کی آزمائشوں کو بھی پیش نظر رکھے باوجود یہ کہ وہ انہیں دور کرنے پر قادر تھے جبکہ دنیاوی بادشاہوں کا حال اس کے برعکس ہے۔ الغرض! جوں جوں معرفت الہی میں اضافہ ہوگا خوف و خشیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ عنقریب کتابُ الْمُنَجِّیَاتِ (نجات دینے والی چیزوں پر مشتمل کتاب کے باب) خوف کے بیان میں اس کے اسباب بیان کئے جائیں گے۔

﴿5﴾..... **رجا** کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لطف و کرم، اس کے وسیع انعام اور اس کی تخلیق کی باریک بینیوں کو پہچانے اور نماز کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اسے سچا جاننا ہے۔ لہذا جب وعدہ الہی کا یقین اور اس کے لطف و کرم کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو دونوں کے مجموعے سے لامحالہ رجا بھی حاصل ہو جائے گی۔

﴿6﴾..... **حیا** کا سبب یہ ہے کہ (بندے کو) عبادت میں کوتاہی کا شعور ہو اور اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عظیم حق کو قائم رکھنے سے عاجز ہے اور اسے اپنے نفس کے عیوب، اس کی آفات کی معرفت، اخلاص کی کمی، باطنی خباثت اور تمام افعال میں فوری دنیاوی فائدہ کی طرف خیال کے میلان سے پختگی دے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جلال کس عظمت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس بات کا بھی یقین رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ باطن اور دل کے خیالات پر مطلع ہے اگرچہ وہ کتنے ہی باریک اور پوشیدہ ہوں۔ جب یقینی طور پر ان چیزوں کی معرفت حاصل ہوگی تو ضرور اس سے وہ حالت پیدا ہوگی جسے حیا کہا جاتا ہے۔ یہی ان صفات کے اسباب ہیں۔

## حاصل کلام:

جسے حاصل کرنا مطلوب ہو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا سبب دریافت کیا جائے کیونکہ سبب کی پہچان ہی علاج کی پہچان ہے۔ ان تمام اسباب کا رابطہ ایمان اور یقین ہیں یعنی یہی معرفتیں جنہیں ابھی ہم نے تفصیلاً ذکر کیا ہے اور یقینی

معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا شک نہ رہے یوں کہ وہ معارف دل پر غالب آجائیں جیسا کہ کتاب العلم میں یقین کے بیان میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ نیز یقین جتنا پختہ ہوگا دل میں خشوع و خضوع بھی اتنا ہی پیدا ہوگا۔

اسی لئے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”میرے سر تاج، صاحب معراج صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو گویا نہ آپ ہمیں پہچانتے اور نہ ہم آپ کو پہچانتے۔“ (۱)

## ذکرِ الہی کے وقت اعضاء کی کیفیت:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: ”اے موسیٰ! جب تم میرا ذکر کرو تو یوں کرو کہ میرے ہیبت و جلال کی وجہ تمہارے اعضاء پر لرزہ طاری ہو۔ میرے ذکر کے وقت خشوع اور اطمینان والے ہو۔ نیز میرا ذکر کرتے وقت اپنی زبان کو دل سے لگا لو۔ جب میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو عاجز بندے کی طرح کھڑے ہو اور سچی زبان اور خائف دل کے ساتھ مجھ سے مناجات کرو۔“ (۲)

## نافرمان میرا ذکر نہ کریں:

مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ”اپنی امت کے نافرمانوں سے کہہ دیجئے کہ میرا ذکر نہ کریں کیونکہ میں نے خود پر قسم کھائی ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچا کروں گا۔ پس نافرمان جب مجھے یاد کریں گے تو میں انہیں لعنت کے ساتھ یاد کروں گا۔“ (۳)

ذکرِ الہی میں غفلت نہ کرنے والے نافرمان کے بارے میں یہ وعید ہے تو جب غفلت اور عصیان جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟

## دل کے متعلق ذکر کردہ معانی کا اختلاف اور لوگوں کی اقسام:

دلوں کے متعلق جو معانی ہم نے ذکر کئے ان کے اختلاف کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف اقسام ہیں کچھ تو ایسے

①.....المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام، الفصل الثانی، ج، ص ۱۶۔

②.....الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار موسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۳۴، ص ۱۰۳۔

③.....قوت القلوب، الفصل الثامن عشر فیہ کتاب اذکر الوصف المکرہ.....الخ، ج، ص ۱۰۶۔



غافل ہیں جو نماز پوری پڑھتے ہیں مگر ان کا دل لمحہ بھر بھی حاضر نہیں ہوتا۔ کچھ وہ ہیں جو اس طرح پوری نماز پڑھتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اتنی فکر سے نماز پڑھتے ہیں کہ اپنے سامنے ہونے والے واقعہ کا بھی علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ،

حضرت سیدنا مسلم بن یسار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارِ کُوْمَسْجِدِ کَاسْتَوْنَ گرنے اور لوگوں کے جمع ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ بعض بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمُبِیْنِ ایک مدت جماعت میں حاضر ہوتے رہے لیکن کبھی نہ پہچانا کہ دائیں طرف کون ہے اور بائیں طرف کون؟

حضرت سیدنا ابراہیم خلیلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے جوشِ قلب کی آواز دو میل سے سنائی دیتی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ (حالتِ نماز میں) ان کے چہرے خوف سے زرد ہو جاتے اور کندھے تھر تھرانے لگتے۔ یہ تمام باتیں سمجھ سے بالاتر نہیں کیونکہ دنیاوی بادشاہوں کے خوف سے دنیا داروں کے اس سے دُگنا شوق کا مشاہدہ کیا جاتا ہے حالانکہ وہ عاجز اور کمزور ہیں اور ان سے حاصل ہونے والا فائدہ بھی حقیر ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جاتا، اس سے اپنا مقصد بیان کرتا، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر اس سے بادشاہ کے لباس یا اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس کے متعلق نہ بتاپائے گا کیونکہ اس کی فکر نے اسے بادشاہ کے کپڑوں اور درباریوں کی طرف متوجہ ہونے سے غافل کر دیا۔

(ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے  
درجے ہیں۔ (پ۸، الانعام: ۱۳۲)

لہذا ہر شخص کا نماز میں اس کا حصہ خشوع خضوع اور خوف و تعظیم کے مطابق ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ظاہری حرکات و سکنات کو نہیں بلکہ دلوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ نے فرمایا: بروز قیامت لوگ نماز والی ہیئت پر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی نماز میں انہیں جس قدر اطمینان و سکون اور سرور حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۶۱۔

بے شک انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا اور موت اسی حالت پر ہوگی جس پر زندگی گزاری ہوگی۔ اس میں اس کی شخصیت نہیں بلکہ قلبی حالت دیکھی جائے گی۔ نیز آخرت میں دلوں کی صفات ہی کو صورتوں میں ڈھالا جائے گا اور وہی نجات پائے گا جو قلبِ سلیم لے کر آیا۔  
ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔

### تیسری فصل: حضورِ قلب میں نفع بخش دوا

جان لیجئے! مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم کرے، اس سے خوف زدہ رہے، اس سے امید رکھے اور اپنی کوتاہیوں پر حیا کرے۔ ایمان کے بعد یہ حالتیں (اس سے) جدا نہیں ہونی چاہئیں اگرچہ ان کی قوت یقین کی قوت کے برابر ہو۔ نماز میں ان حالتوں کے جدا ہونے کا سبب فکر کا منتشر ہونا، سوچ کا تقسیم ہونا، مناجات سے دل کا غائب ہونا اور نماز سے غافل ہونا ہے اور وہی خیالات نماز سے توجہ ہٹاتے ہیں جو دوسری طرف مشغول کرتے ہیں اور دل کو حاضر کرنے کا علاج ان خیالات کو دور کرنا ہے اور کوئی چیز بھی دور ہوتی ہے جب اس کے سبب کو دور کیا جائے۔ لہذا تمہیں اس کا سبب جاننا چاہئے۔

### دلی خیالات کا سبب:

دل کے خیالات کا سبب یا تو خارجی امر ہوگا یا ایسا باطنی امر ہوگا جو اس کی ذات میں پایا جائے گا۔  
﴿1﴾..... خارجی سبب: یہ وہ ہے جو کانوں سے ٹکراتا یا آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو فکر کو اچک لیتا ہے حتیٰ کہ فکر اس کے پیچھے چلی جاتی اور اس میں تصرف کرتی ہے پھر وہ ان امور سے دوسرے امور کی طرف جاتی ہے اور وہ مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے نظر اس سوچ کا سبب بنتی ہے پھر بعض سوچیں دوسری بعض کے لئے سبب بنتی ہیں۔ لہذا جس کی نیت پختہ اور ہمت بلند ہو اس کے حواس پر جاری ہونے والی کوئی بات اسے غافل نہیں کر سکتی لیکن کمزور آدمی ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔

اس کا علاج: یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کر دیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ (نمازی) اپنی آنکھیں بند کر لے یا تاریک کمرے میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رہنے دے جو اس کے حواس کو مشغول کرے یا دیوار کے قریب

نماز پڑھے تاکہ نظر زیادہ دور تک نہ جائے اور راستوں میں نماز پڑھنے سے بچے اسی طرح نقش و نگار والی جگہوں اور رنگ دار فرش پر بھی نماز نہ پڑھے۔ اسی لئے عبادت گزار لوگ چھوٹے سے تاریک کمرے میں نماز پڑھتے تھے جس میں صرف سجدہ ہو سکتا تھا تاکہ ان کی سوچیں وہیں جمع رہیں۔ البتہ! ان میں جو (ایمان کے لحاظ سے) مضبوط تھے وہ مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور آنکھوں کو بند رکھتے، نیز ان کی نظر سجدہ گاہ سے آگے نہ بڑھتی تھی۔ وہ اس بات کو نماز کے کامل ہونے کا سبب جانتے تھے کہ انہیں دائیں بائیں والوں کی بھی پہچان نہ ہو اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نماز کی جگہ سے صحف شریف (یعنی قرآن پاک) اور تلوار کو بھی ہٹا دیتے، اگر (دیوار میں) کوئی تحریر لکھی ہوتی تو اسے بھی مٹا دیتے تھے۔

﴿2﴾..... **باطنی سبب:** یہ (ظاہری سبب) سے بھی سخت ہے کیونکہ جس شخص کی فکریں دنیا کی وادیوں میں بکھری ہوئی ہوں اس کی سوچ ایک فن میں منحصر نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ ایک طرف سے دوسری طرف اُڑتی رہتی ہے، آنکھوں کا بند رکھنا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ جو چیز پہلے ہی دل میں موجود ہے وہ اسے مشغول رکھنے کے لئے کافی ہے۔

**اس کا علاج:** یہ ہے کہ (نمازی) اپنے نفس کو زبردستی اپنی قراءت کے سمجھنے کی طرف متوجہ کرے اور اسے غیر سے پھیر دے۔ اگر وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے تیار ہو جائے کہ اپنے نفس کو آخرت کی یاد دلاتا اور اسے مناجات کے لئے کھڑے ہونے کے مقام اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری کے خطرات سے آگاہ کرتا رہے گا تو اس طرح بھی اسے دل کی حضوری میں مد ملے گی۔ نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دل کو تمام فکروں سے خالی کر دینا چاہئے اور نفس کے لئے ایسی کوئی چیز نہ چھوڑی جائے جس کی طرف دل متوجہ ہو۔ چنانچہ، سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا عثمان بن ابی شیبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”میں تم سے یہ کہنا بھول گیا تھا کہ گھر میں موجود ہنڈیا کو ڈھانپ دو کیونکہ مناسب نہیں کہ گھر میں ایسی چیز ہو جو لوگوں کی توجہ نماز سے پھیر دے۔“<sup>(۱)</sup>

یہ فکروں کو پُرسکون کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس سکون پہنچانے والی دوا سے فکروں کا جوش ختم نہ ہو تو اسہال پیدا کرنے والی دوا ہی نجات دے گی جو رگوں کے اندر سے بیماری کا مادہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ مسہل دوا یہ ہے کہ بندہ نماز میں ان امور کی طرف توجہ دے جو حضور قلب کو پھیرنے والے اور دوسرے امور کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امور اس کی (دنیاوی) فکروں کی طرف ہی لوٹیں گے اور تمام فکریں خواہشات کی بنا پر ہوتی

①..... سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب فی الحجر، الحدیث: ۲۰۳، ج ۲، ص ۳۱۱، مفہومًا۔

ہیں۔ لہذا خواہشات کو ختم کرنے اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے ذریعے اپنے نفس کو سزا دے اور ہر وہ چیز جو اسے نماز سے غافل کرتی ہے وہ اس کے دین کی ضد اور اس کے دشمن ابلیس کا لشکر ہے۔ پس اس چیز کو روکنا نکالنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ لہذا اسے نکال کر اس سے مکمل چھٹکارا حاصل کرے۔

## آقاصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی عاجزی و انکساری:

مروی ہے کہ جب حضور اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا ابو جہم رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی پیش کردہ بیل بوٹوں والی چادر میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد اُسے اتار دیا اور ارشاد فرمایا: ”یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ کیونکہ اس نے مجھے ابھی نماز سے مشغول رکھا اور ابو جہم کی سادہ چادر مجھے لادو (۱)۔“ (۲)

نیز مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے اپنے مہاک نعلین میں نئے تسمے لگانے کا حکم دیا پھر نئے ہونے کے سبب نماز میں ان پر نظر پڑ گئی تو انہیں نکالنے اور پرانے تسمے لگانے کا حکم فرمایا۔ (۳)

مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے جو تلوں کا نیا جوڑا پہنا وہ آپ کو اچھا لگا تو سجدہ شکر کیا اور ارشاد فرمایا: ”میں نے اپنے ربَّ عَزَّ وَجَلَّ کے سامنے عاجزی و انکساری کی تاکہ وہ مجھ پر غضب ناک نہ ہو۔“ پھر آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ باہر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے ملنے والے سائل کو وہ جو تلوں دے دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيم سے ارشاد فرمایا: ”میرے لئے پرانے نرم چمڑے کا جو تلوں کا جوڑا خریدو۔“ پھر انہیں پہنا۔ (۴)

مروی ہے کہ سونا حرام ہونے سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے ہاتھ میں سونے کی

①..... مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 1، ص 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ سب اپنی امت کی تعلیم کیلئے ہے قلب پاک مصطفیٰ کی واردات مختلف ہیں، کبھی کپڑے کے بیل بوٹے سے خضوع خشوع کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی میدان جہاد میں تلواروں کے سایہ میں نماز پڑھتے ہیں اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی بشریت کا ظہور ہے اور کبھی نورانیت کی جلوہ گری۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة..... الخ، الحدیث: ۵۵، ص ۲۸۰، مفہوماً۔

③..... الزهد لابن المبارک، باب فی التواضع، الحدیث: ۴۰، ص ۱۳۶-۱۳۵، مفہوماً۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۲، ص ۱۷۳۔

ایک انگوٹھی تھی آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ انگوٹھی اتار دی اور ارشاد فرمایا: ”اس نے مجھے مشغول کر دیا میری ایک نظر اس کی طرف رہی اور ایک نظر تمہاری طرف۔“ (۱)

## کفارے میں باغ صدقہ کر دیا:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوطحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے (اپنے) ایک باغ میں نماز پڑھی، ایک درخت پر بھورے رنگ کا پرندہ دیکھا تو آپ کو اچھا لگا، پرندہ اڑ کر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا تو گھڑی بھر کے لئے آپ نے اسے دیکھا پھر نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے بیان کرنے کے بعد عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اب وہ باغ صدقہ ہے آپ جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں۔“ (۲)

ایک اور شخص کے متعلق بھی ایسا ہی واقعہ منقول ہے کہ اس نے اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کی کھجور کے درخت پھلوں (کی کثرت کی وجہ) سے جھکے ہوئے تھے، ان پر نظر پڑی تو اسے بھلے لگے اور یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گوش گزار کیا اور عرض کی: ”اب وہ باغ صدقہ ہے اسے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔“ (۳) چنانچہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اسے 50 ہزار میں بیچ دیا۔

**الغرض** اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فکر کی جڑ کو ختم کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے اور اسے نماز کی کمی کا کفارہ قرار دیتے تھے۔ یہی وہ دوا ہے جو بیماری کو جڑ سے اکھیڑنے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نافع نہیں۔

بہر حال جو ہم نے بیان کیا کہ فکروں کو نرمی سے ٹھنڈا کرے اور ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ کمزور خواہشات اور ان خیالات میں مفید ہے جو دل کے اطراف کو مشغول رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے ذریعے مضبوط اور طاقتور خواہشات کو ٹھنڈا نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہمیشہ تو انہیں اور وہ تجھے کھینچتی رہیں گی پھر وہ تجھ پر غالب آجائیں گی اور اسی کھینچا تانی میں تیری پوری نماز گزر جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے ہے اور اپنی فکر کو صاف رکھنا چاہتا ہے مگر

①..... سنن النسائي، كتاب الزينة، باب طرح الخاتم وترک لبسه، الحدیث: ۵۲۹۹، ۵۲۹۹، ص ۸۳۸، مفہومًا۔

②..... الموطا لالامام مالک، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة الى ما يشغلک عنها، الحدیث: ۴۵، ج ۱، ص ۱۰۷۔

③..... حياة الحيوان الكبرى، باب الدال المهملة، الدبسی، ج ۱، ص ۴۷۔

چڑیوں کی آواز سے تشویش میں ڈالتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر انہیں اڑا دیتا اور اپنی فکر کی طرف لوٹتا ہے لیکن چڑیاں پھر لوٹ آتی ہیں وہ دوبارہ لکڑی لے کر انہیں اڑاتا ہے تو اس سے کہا جائے گا: ”هَذَا سَيْرُ السَّوَابِي یعنی یہ آب پاشی کے لئے رہٹ میں چلنے والے اونٹ کی چال ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔“ اگر تم اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو درخت کو ہی کاٹ دو۔ یہی حال خواہشات کے درخت کا ہے کہ جب وہ پھیل جائے اور اس کی شاخیں ادھر ادھر بکھر جائیں تو وہ فکروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جیسے چڑیوں کو درخت کی طرف اور مکھیوں کو گندگی کی طرف کشش ہوتی ہے کیونکہ مکھی کو جب بھگایا جائے تو پھر آجاتی ہے اسی لئے اسے ”ذباب“ (یعنی جسے زیادہ بھگایا جائے) کہا جاتا ہے دل میں کھٹکنے والے خیالات کا بھی یہی حال ہے۔ یہ خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ انسان ان سے بہت کم خالی ہوتا ہے۔ ان سب کی جڑ ایک ہی چیز ہے اور وہ دنیا کی محبت ہے جو ہر برائی کی جڑ، ہر نقصان کی اصل اور ہر فساد کی بنیاد ہے۔ لہذا جس کا باطن محبت دنیا میں لپٹا ہوا ہو اور اس میں سے کسی چیز کی طرف مائل ہو مگر اس لئے نہیں کہ اس سے آخرت کا ذرا راہ لے یا اس سے آخرت پر مدد حاصل کرے تو اسے اس بات کا خواہش مند نہیں ہونا چاہئے کہ مناجات کی خالص لذت اسے حاصل ہوگی کیونکہ جو دنیا پر خوش ہو وہ اپنی مناجات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خوش نہیں کر سکتا۔ نیز بندے کی فکر اس چیز کے ساتھ معلق ہوتی جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو اگر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں ہو تو لامحالہ اس کا ارادہ بھی اسی کی طرف ہو گا۔ لیکن اس کے باوجود اسے مجاہدہ نہیں چھوڑنا چاہئے اور دل کو نماز کی جانب متوجہ رکھنے اور امور میں مشغول کرنے والے اسباب کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ ایک کڑوی دوا ہے۔ اسی کڑواہٹ کے سبب طبیعتیں اسے بدمزہ سمجھتی ہیں اور مرض دائمی اور لاعلاج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اکابرین نے بھی کوشش کی کہ دور کعتیں ایسی پڑھیں کہ ان میں دنیوی امور کے متعلق کوئی بات نہ ہو لیکن وہ بھی اس سے عاجز رہے تو اب ہم جیسے لوگوں کے لئے اس میں کیا امید باقی رہی۔ کاش! ہمیں آدھی یا تیسرا حصہ ہی وسوسوں سے خالی نماز کی توفیق مل جاتی تاکہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے جنہوں نے اچھے عمل کو برے عمل سے ملا دیا۔

**خلاصہ:** یہ ہے کہ دنیا کی ہمت اور آخرت کا ارادہ دل میں اس پانی کی مانند ہے جو سر کے سے بھرے پیالے میں ڈالا جائے تو بالیقین جس قدر پانی اس میں ڈالا جائے گا اسی قدر سر کہ نکل جائے گا اور یہ دونوں جمع نہ ہوں گے۔

## پچھی فصل: نماز میں حضورؐ قلب کی تفصیل

یہاں اُن اُمورِ قلبیہ کو بیان کیا جائے گا جن کا نماز کے ہر رکن اور شرط میں پایا جانا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم آخرت کا ارادہ رکھنے والوں میں سے ہو تو سب سے پہلے ان تنبیہات سے غافل نہ ہو جو نماز کی شرائط اور ارکان ہیں۔ نماز کی شرائط و فرائض<sup>(۱)</sup>:

نماز سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہیں: ..... اذان (وقت) ..... طہارت ..... ستر عورت ..... استقبالِ قبلہ ..... سیدھا کھڑا ہونا ..... نیت کرنا۔

### اذان:

جب تم مؤذن کی اذان سنو تو دل میں قیامت کے دن کی پکار کو حاضر کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو جواب اذان اور نماز کی طرف جلدی کرنے کے لئے تیار کرو کیونکہ اس ندا کی طرف جلدی کرنے والے بڑی پیشی (یعنی قیامت) کے دن لطف و کرم سے پکارے جائیں گے۔ لہذا اس ندا پر اپنے دل کو حاضر کرو اگر اسے خوشی اور خوشخبری سے بھرپور پاؤ اور دیکھو کہ اس کی طرف جلدی کرنے کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے تو جان لو کہ تمہیں بروز قیامت خوشخبری اور کامیابی کے ساتھ پکارا جائے گا اسی لئے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے بلال! ہمیں راحت پہنچاؤ۔“<sup>(۲)</sup> یعنی نماز اور اذان سے ہمیں راحت پہنچاؤ کیونکہ نماز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

### طہارت:

جب تم نماز کے لئے جگہ کو پاک کرتے ہو جو (بدن اور کپڑوں کے اعتبار سے) تم سے دور ہے، پھر اپنے جسم سے متصل کپڑوں کو پاک کرتے ہو جو تمہارے جسم سے متصل اور زیادہ قریب ہیں، پھر اپنے جسم کو پاک کرتے ہو جو تمہارا چمڑا اور تمہارے بہت قریب ہے تو اپنے مغز یعنی ذات سے غافل نہ رہو اور وہ تمہارا دل ہے۔ لہذا اسے اپنی کوتاہیوں پر توبہ اور ندامت کے ساتھ پاک کرنے کی کوشش کرو اور آئندہ انہیں چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لو نیز اپنے باطن (یعنی دل)

① ..... یہ تمام شرائط و فرائض شوافع کے نزدیک ہیں احناف کے مسائل کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہارِ شریعت جلد اول میں سے حصہ سوم کا مطالعہ کریں۔

② ..... تاریخ بغداد، عبدالعزیز بن ابان، ۵۶۰ھ، ج ۱، ص ۴۲۲۔

کو بھی پاک کر لو کیونکہ وہ تمہارے معبود حقیقی کے ملاحظہ فرمانے کی جگہ ہے۔

### ستر عورت:

اس کا معنی یہ ہے کہ بدن کے ان حصوں کو لوگوں سے چھپانا جن کی طرف نظر کرنا برا ہے۔ پس جب ظاہر بدن کہ جو لوگوں کے نظر پڑنے کی جگہ ہے اس کے متعلق یہ حکم ہے تو باطنی پردوں اور ان برائیوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن پر صرف تیرا رب عَزَّوَجَلَّ مطلع ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل میں ان خرابیوں کو حاضر کر کے نفس سے ان کے چھپانے کا مطالبہ کرو اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نگاہ سے کوئی بھی پردہ نہیں چھپا سکتا۔ یہ ندامت، خوف اور حیا ہی سے مٹ سکتی ہیں۔ دل میں ان برائیوں کے حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوف و حیا کے لشکر تیرے دل میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیرا نفس ذلیل ہوگا اور ندامت کے باعث دل دب جائے گا اور تُو رَبِّ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں یوں کھڑا ہوگا جیسے بھاگا ہوا مجرم غلام کھڑا ہوتا ہے جو نام ہو کر خوف و حیا سے سر جھکائے اپنے آقا کی طرف لوٹ آتا ہے۔

### استقبالِ قبلہ:

اس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کے ظاہر کو تمام اطراف سے پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کرنا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہاں دل کو تمام امور سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی طرف پھیرنا مطلوب نہیں! (چہرے کے ظاہر کو ہی پھیرنا ہی مطلوب ہے تو) ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہی مطلوب و مقصود ہے اور یہ ظاہری امور باطنی امور کو حرکت دیتے، اعضاء کو کنٹرول کرتے اور انہیں ایک سمت میں رکھ کر ساکن کرتے ہیں تاکہ وہ دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ جب وہ اپنی حرکات اور دیگر جہات کی طرف متوجہ ہونے کی صورت میں بغاوت و ظلم کرتے ہیں تو دل ان کے پیچھے جاتا ہے اور یوں اس کی توجُّہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا دل کی توجہ بدن کی توجہ کے ساتھ رہنی چاہئے۔ جان لیجئے کہ جس طرح چہرہ اس وقت تک قبلہ رخ نہیں ہو سکتا جب تک اسے تمام اطراف سے پھیر نہ دیا جائے اسی طرح دل بھی اس وقت تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے غیر (کے خیال) سے خالی نہ کر لیا جائے۔

### حضورِ قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت:

حضور نبی کریم، رُؤف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب بندہ اپنی خواہش، چہرہ اور دل



اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ کر کے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے یوں پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔“ (۱)

### سیدھا کھڑا ہونا:

یعنی بدن اور دل کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں کھڑا ہونا یوں کہ جسم کا سب سے بلند عضو یعنی سر پست اور جھکا ہوا ہو، اس کا بلند ہونے کے باوجود جھکا ہوا ہونا اس بات پر تنبیہ ہے کہ دل میں عاجزی و انکساری پیدا کرنا اور تکبر و غرور سے بچنا لازم ہے۔ نیز اس وقت پیشِ نظر وہ ہولناک مقام ہو جب بارگاہِ الہی میں سوال کے لئے حاضر ہو گے، پھر یہ تصور قائم کرو کہ تم بارگاہِ الہی میں کھڑے ہو اور وہ تمہارے احوال پر مطلع ہے۔ اگر اس کے جلال کی حقیقت جاننے سے عاجز ہو تو کم سے کم یوں کھڑے ہو جاؤ جیسے کسی دنیوی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ نماز میں قیام کرتے وقت یہ تصور قائم کرو کہ تمہارے گھر کا نیک شخص تمہیں دیکھ رہا اور کھلی آنکھوں سے تمہاری نگرانی کر رہا ہے یا وہ جسے تمہاری اصلاح میں رغبت ہے، اس وقت تمہارا جسم ساکن ہو جاتا، اعضاء میں خشوع اور تمام اجزائے بدن میں سکون آجاتا ہے کیونکہ تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ عاجز شخص تمہیں خشوع کی کمی کا طعنہ نہ دے۔ لہذا جب ایک عاجز شخص کے دیکھتے ہوئے تم یہ بات محسوس کرو تو اپنے نفس کو چھڑکتے ہوئے کہو کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس بات پر جرات کرتے ہوئے تجھے حیا نہیں آتی۔ اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی تعظیم کرتا ہے یا لوگوں سے ڈرتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے نہیں ڈرتا حالانکہ وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔

### اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کیسے حیا کریں:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے پوچھا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے کیسے حیا کریں؟“ تو ارشاد فرمایا: ”اس سے یوں حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”جیسے اپنے گھر کے نیک شخص سے حیا کرتے ہو۔“ (۳)

①..... المعجم الاوسط، الحديث ۷۹۴، ج ۶، ص ۴۶۔ نحوہ

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب الحياء، الحديث ۷۳۸، ج ۶، ص ۱۴۵۔

③..... مسند البزار، مسند معاذ بن جبل، الحديث ۲۶۲، ج ۶، ص ۸۹۔

## نیت:

یہ کہ بندہ اس بات کا پختہ عزم کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نماز پڑھنے، اسے مکمل کرنے، توڑنے، فاسد کرنے والی چیزوں سے رکنے اور ان سب افعال میں اپنی رضا چاہنے کا جو حکم دیا ہے میں اسے ماننا ہوں۔ اس سے ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہو نیز اس کا قرب مطلوب ہو۔ اس کے احسان کو گلے کا ہار بنائے کہ اس نے میری بے ادبی اور گناہوں کی کثرت کے باوجود مجھے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس سے مناجات کی قدر و منزلت کو دل میں عظیم جانے اور غور کرے کہ کس سے، کیسے اور کس کلام کے ذریعے مناجات کر رہا ہے؟ اس وقت اس کی پیشانی ندامت سے جھکی ہو، کندھے ہیبت سے تھر تھرانے لگیں اور خوف سے چہرے کا رنگ زرد ہو جائے۔

## تکبیر تحریمہ:

جب تم زبان سے تکبیر کہو تو تمہارا دل اس کی تکذیب نہ کر رہا ہو اگر دل میں کوئی چیز خدا تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ گواہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ تمہارا کلام سچا ہو جیسے منافقین کے بارے میں (ان کے جھوٹا ہونے کی) گواہی دی، جب انہوں نے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کہا کہ آپ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں (تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا کہ منافق آپ کو رسول کہتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں) اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے بجائے تمہاری خواہشات تم پر غالب ہوں تو تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نہیں بلکہ خواہشات کی زیادہ اطاعت کرنے والے ہو گویا تم نے ان کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے اور ان کی بڑائی بیان کی تو قریب ہے کہ تمہارا اللہ اکبر کہنا محض زبانی کلامی ہو کیونکہ دل اس کی مطابقت نہیں کر رہا۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عفو و کرم سے اچھا گمان اور توبہ و استغفار نہ ہو تو اس میں کتنا بڑا خطرہ ہے۔

## دعائے آغاز:

نماز کی ابتدا میں تم یہ کلمات کہتے ہو: ”إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ تو اس قول میں چہرے سے مراد ظاہری چہرہ نہیں کیونکہ تمہارا ظاہری چہرہ تو قبلہ رخ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک ہے کہ کوئی جہت اس کا احاطہ کر سکے حتیٰ کہ چہرے کے ساتھ تمہارا بدن بھی اس کی طرف متوجہ ہو بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا دل

زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ لہذا تم دیکھو کہ تمہارا دل خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گھر اور بازار کے خیالات اور اپنی خواہشات کی جانب متوجہ ہے یا زمین و آسمان کے خالق کی طرف۔ اس سے بچو کہ مناجات کی ابتدا ہی جھوٹ اور بناوٹی باتوں پر ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف اس وقت تک توجہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے غیر سے توجہ نہ پھیر لی جائے۔ لہذا اسی کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرو اگر ساری نماز میں یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کلمات کہتے ہوئے تو اس کا مصداق بنو۔ جب تم ”حَنِيفًا مُسْلِمًا“ کہو تو تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہئے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر تم ایسے نہیں تو تم جھوٹے ہو پس آئندہ اس کا عزم کرو اور گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو۔ جب ”وَمَا آتَىٰ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ کہو تو اپنے دل میں شرکِ خفی (یعنی ریا کاری) سے ڈرو کیونکہ یہ فرمانِ باری تعالیٰ:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۱۰

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

(ب۱۶، الکہف: ۱۱۰)

اس شخص کے متعلق نازل ہوا جو اپنی عبادت سے رضائے الہی اور لوگوں سے تعریف چاہتا ہے۔ تمہیں اس شرک سے بچنا چاہئے اور اگر تم اپنے بارے میں کہتے ہو کہ تم مشرکوں میں سے نہیں اور اس شرک (خفی) سے بھی نہیں بچتے تو تمہیں دلی طور پر نادم ہونا چاہئے کیونکہ لفظ شرک کم یا زیادہ سب پر بولا جاتا ہے۔ جب تم ”وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ يَعْنِي مِيرَىٰ زَنْدِغِي اَو مِيرَىٰ مَوْتِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ“ کے لئے ہے، کہو تو جان لو کہ یہ اس غلام کی حالت ہے جو خود کو فراموش کر کے آقا کے سامنے موجود ہو اور جب یہ کلمہ ایسے شخص سے صادر ہو جس کی رضا و غضب، کھڑا ہونا اور بیٹھنا، زندگی میں رغبت اور موت کی ہیبت دنیا کے کاموں کے لئے ہو تو یہ کلمہ اس کے حال کے مناسب نہیں۔ جب ”اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ“ کہو تو یقین رکھو کہ شیطان تمہارا دشمن اور تمہارے دل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پھیرنے کے لئے تاک لگائے ہوئے ہے کیونکہ وہ تمہارے مناجات اور سجدہ کرنے سے حسد کرتا ہے کہ اسے ایک سجدہ نہ کرنے اور اس کی توفیق نہ دیئے جانے کے سبب ملعون ٹھہرایا گیا۔ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو شیطان کی محبوب چیز کو ترک کر دو اور اس کے بدلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبوب چیز اختیار کرو، صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی نہیں۔ کیونکہ جس شخص کو کوئی درندہ چیر پھاڑ

کرنے یا دشمن قتل کرنے کا ارادہ کرے اور وہ کہے کہ میں تم سے اس مضبوط قلعے کی پناہ میں آتا ہوں لیکن اپنی جگہ پر کھڑا رہے تو یہ قول اسے کوئی فائدہ نہ دے گا بلکہ اسے جگہ تبدیل کرنے سے ہی پناہ ملے گی۔ اسی طرح جو شخص خواہشات کی پیروی کرتا ہے جو شیطان کو محبوب اور رحمن عَزَّوَجَلَّ کو ناپسند ہیں، تو اُسے محض زبان سے پناہ طلب کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا بلکہ شیطان کے شر سے رحمن عَزَّوَجَلَّ کے قلعے میں پناہ طلب کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔

## قلعۃ الہی:

قلعۃ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔“<sup>(۱)</sup> اس قلعے میں وہی شخص پناہ لے سکتا ہے جس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہ ہو۔ لیکن جس نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا وہ رحمن عَزَّوَجَلَّ کے قلعے میں نہیں بلکہ شیطان کے میدان میں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان کا ایک فریب یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں نماز میں آخرت کی فکر اور اچھے کاموں کے سوچنے میں لگا دیتا ہے تاکہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کے سمجھنے سے روکے۔ یاد رکھو جو چیز تمہیں قراءت کے معانی سمجھنے سے روکے وہ دوسو سے ہیں کیونکہ قراءت سے مقصود زبان کو حرکت دینا نہیں بلکہ اس کے معانی سمجھنا ہیں۔

## قراءت:

اس میں تین قسم کے لوگ ہیں: (۱)..... جس کی زبان حرکت کرتی لیکن دل غفلت کا شکار ہے۔ (۲)..... جس کی زبان حرکت کرتی ہے اور دل بھی زبان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اسے یوں سمجھتا اور سنتا ہے گویا کسی دوسرے سے سن رہا ہے اور یہ اصحاب یمین (یعنی دائیں طرف والوں) کے درجات ہیں۔ (۳)..... جس کا دل پہلے، معانی کو سمجھتا ہے پھر زبان اس کی خدمت کرتی اور دل کی ترجمان بنتی ہے۔ زبان دل کی ترجمان بنے یا معلم بنے ان میں بڑا فرق ہے۔ مقررین کی زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے جو دل کے پیچھے ہوتی ہے، دل اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔

## تلاوت کے معانی کی تفصیل:

جب تم ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پڑھو تو اس سے کلام الہی کی قراءت شروع کرنے کے لئے تبرک کی

①..... تاریخ دمشق لابن عساکر، ابواسحاق الطرسوسی، ۲۸۶، الحدیث ۱۸۸۴، ج ۷، ص ۱۱۵۔

نیت کرو اور سمجھو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام امور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں۔ یہاں اسم سے مراد مُسْمًی یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے مراد اس کی ذات ہے۔ جب تمام امور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں تو یقیناً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ صَاحِح ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں کیونکہ تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور جو شخص کسی نعمت کو غیر خدا کی طرف سے جانتا یا شکر سے غیر خدا کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مسخر نہیں جانتا تو اس کے بِسْمِ اللہ اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ کہنے میں اسی قدر نقصان ہوگا جس قدر اس کی توجہ غیر خدا کی طرف ہوگی۔

جب تم ”اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کہو تو دل میں اس کی ہر طرح کی مہربانی کا تصوّر کرو تا کہ تمہارے لئے اس کی رحمت واضح اور تمہاری اُمید پوری ہو جائے۔ پھر ”لِطَلْبِکَ یٰوہر الدِّیْنِ“ کہتے وقت دل میں اس کی تعظیم و خوف کو اُبھارو۔ عظمت اس اعتبار سے کہ اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں اور خوف روز جزا اور حساب کی ہولناکی کا ہو جس کا وہ مالک ہے۔ ”اِیَّاکَ نَعْبُدُ“ کہہ کر اپنے اخلاص کی تجدید کرو اور ”وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ“ کہہ کر اپنے عجز، محتاجی، طاقت و قوّت سے خالی ہونے کی تجدید کرو اور یہ یقین رکھو کہ اس کی مدد کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ نیز اسی کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، تم سے اپنی عبادت کرائی اور تمہیں اپنی بارگاہ میں مناجات کا اہل بنایا کہ اگر وہ تمہیں اپنی توفیق سے محروم کر دیتا تو تم شیطان العین کے ساتھ دھتکارے ہوؤں میں سے ہوتے۔

جب تم ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ نیز اس کی مدد کی احتیاج کے اظہار سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے سوال کو معین کرو اور اپنی اہم حاجت کا ہی سوال کرو اور کہو ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ“ یعنی ایسا راستہ جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور تیری رضا تک پہنچا دے۔ پھر اس کی شرح و تفصیل بیان کرنے، اسے مؤکد کرنے کے لئے ان لوگوں کی معیت حاصل کرنے کے ساتھ ملا دو جنہیں اس نے ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، نہ کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا اور وہ یہود و نصاریٰ اور ستارہ پرست کفار ہیں جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر قبولیت دعا کی امید رکھتے ہوئے اِیْمِنُ کہو (اس کا مطلب ہے: اے رب عَزَّوَجَلَّ دعا قبول فرما)۔ جب اس طرح فاتحہ پڑھ لو گے تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کے مستعلّق حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ دیا ہے، نصف میرے لئے ہے اور نصف میرے بندے کے لئے، میرے بندے کے لئے وہی ہے جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، تو

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔“<sup>(۱)</sup>

نمازی کے قول ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آدمی کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی، کا بھی یہی معنی ہے۔ اگر تمہیں نماز سے اتنا ہی حاصل جائے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال و عظمت کا ہی ذکر کر لو تو یہ بھی تمہارے لئے غنیمت ہے تو جس ثواب و فضل کی تم امید رکھتے ہو تو اس کی کیا بات ہے؟ اسی طرح تم جو سورت پڑھو اسے سمجھو جیسا کہ عنقریب تلاوت قرآن کے بیان میں آئے گا۔ لہذا اس کے امر و نہی، وعدہ و وعید، وعظ و نصیحت، انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی خبریں اور اس کے احسان کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ ہر حکم کا ایک حق ہے، وعدے کا حق امید، وعید کا حق خوف، امر و نہی کا حق عمل کرنے یا نہ کرنے کا پختہ عزم، وعظ کا حق نصیحت حاصل کرنا، فضل و احسان کے ذکر کا حق شکر ادا کرنا اور انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی خبروں کا حق عبرت حاصل کرنا ہے۔

مروی ہے کہ حضرت سیدنا زرارہ بن اونی رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ (تلاوت کرتے ہوئے) جب اس فرمان باری تعالیٰ:

فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ ۝ (پ ۲۹، المدثر: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب صور پھونکا جائے گا۔

تک پہنچے تو گر کر انتقال فرما گئے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیْ جب یہ ارشاد ربانی:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱)

ترجمہ کنز الایمان: جب آسمان شق ہو۔

سننے تو بے چین ہو جاتے یہاں تک کہ آپ کے جوڑ تھر تھرانے لگتے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن واقد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاحِدِ فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو ہمیشہ غمزہ حالت میں نماز پڑھتے دیکھا۔“<sup>(۲)</sup>

بندے کا حق ہے کہ مولیٰ تعالیٰ کے وعدہ و وعید سے اس کا دل فنا ہو جائے کیونکہ بندہ جبار قہار عَزَّوَجَلَّ کے سامنے

عاجز و گنہگار اور ذلیل ہے۔

یہ معانی سمجھ بوجھ کے درجات کے مطابق ہوتے ہیں اور سمجھ بوجھ اسی قدر ہوتی ہے جس قدر علم اور دل کی صفائی

①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..... الخ، الحديث: ۳۹، ص ۲۰۸-۲۰۹۔

②..... سير اعلام النبلاء، عبد الله بن عمر بن الخطاب، ۲۶، ج ۴، ص ۳۶۰، مفہومًا۔

زیادہ ہوتی ہے ان درجات کی کوئی خاص حد نہیں۔

نماز دلوں کی چابی ہے جس سے کلمات کے راز ظاہر ہوتے ہیں اور یہ قراءت کا حق ہے اور اذکار و تسبیحات کا بھی یہی حق ہے۔ نمازی دوران قراءت خوف کی کیفیت بھی پیدا کرے اور ترتیل سے (یعنی خارج ادا کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر) پڑھے جلدی جلدی نہ پڑھے کیونکہ غور و فکر کے لئے یہی آسان طریقہ ہے۔ نیز رحمت و عذاب، وعدہ و وعید، تحمید و تعظیم اور تجید کی آیتوں کو علیحدہ علیحدہ لہجوں میں پڑھے۔ حضرت سیدنا امام نخعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیْ جب اس مفہوم کی آیات مبارکہ تلاوت کرتے (جیسے یہ فرمان باری تعالیٰ):

مَا تَتَّخِذُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ  
إِلَٰهٍ (پ۱۸، المؤمنون: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے  
ساتھ کوئی دوسرا خدا۔

تو آواز پست کر لیتے۔ جیسے کوئی ایسی بات سے حیا کرے جو ذکر کرنے کے لائق نہیں۔

نیز مروی ہے کہ قرآن والے سے کہا جائے گا: ”پڑھا اور چڑھا اور یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا۔“<sup>(۱)</sup>

## نماز میں مسلسل کھڑے رہنا:

یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ حضوری کی صفت میں ایک ہی حالت پر قائم رہے۔ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو بندہ نماز میں ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت پھر جاتی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

جیسے ادھر ادھر متوجہ ہونے سے سر اور آنکھوں کو بچانا ضروری ہے اسی طرح دل کو بھی نماز کے علاوہ کی طرف متوجہ ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ جب وہ غیر کی طرف متوجہ ہونے لگے تو اسے یاد دلاؤ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر آگاہ ہے۔ جب مناجات کرنے والا اس سے غافل ہو جس سے مناجات کر رہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل پر خشوع کو لازم کر لو کیونکہ ظاہری و باطنی طور پر ادھر ادھر متوجہ ہونے سے نجات خشوع ہی کے نتیجے میں ملتی ہے۔ جب باطن میں خشوع پیدا ہوگا تو ظاہر میں بھی پیدا ہو جائے گا۔

①..... سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، الحدیث ۲۹۲۳، ج ۴، ص ۴۱۹۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الالتفات فی الصلاة، الحدیث ۹۰۹، ج ۱، ص ۳۴۳، مفہومًا۔

مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھینٹے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔“ (۱)

## دل حاکم اور اعضاء رعایا ہیں:

کیونکہ رعایا حکمران کے حکم کے تابع ہے اسی لئے دعائیں یہ الفاظ آئے ہیں: ”اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةَ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حاکم اور رعایا دونوں کی اصلاح فرما۔“ (۲) یہاں حاکم دل اور رعایا دیگر اعضاء ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز میں میخ (کھونٹے) کی طرح اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ستون کی طرح کھڑے ہوتے اور بعض صحابہ رکوع میں اتنے پُرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتیں گویا وہ جمادات میں سے ہیں (جو حرکت نہیں کرتے)۔

یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ انسانی طبیعت دنیا داروں کے سامنے ان کے بجالانے کا تقاضا کرتی ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ کی معرفت رکھنے والے شخص سے بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں ان امور کا تقاضہ کیوں نہ ہوگا؟ اور ہر وہ شخص جو غیر خدا کے سامنے تو خاشع اور مطمئن مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حضور بے چین اور فضول کاموں میں پڑا ہوتا ہے تو وہ جلالِ خداوندی کی معرفت سے محروم ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ظاہر و باطن پر آگاہ ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ۖ (پ ۱۹، الشعراء: ۲۱۸، ۲۱۹) ترجمہ کنز الایمان: جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔

حضرت سیدنا عمر مہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے بندے کا قیام، رکوع، سجود اور قعدہ مراد ہے۔

## رکوع و سجود:

رُكُوع و سَجْدٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ کی کبریائی کا دوبارہ ذکر کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر نیت کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

①..... نوادر الاصول، الاصل السابع والاربعون والمائتان، الحدیث: ۱۳۱، ص ۱۰۰۷۔

②..... کشف الخفاء، حرف الهمزة مع اللام، الحدیث: ۵۴۳، ج ۱، ص ۱۶۵۔



عذاب سے اس کے عفو و درگزر کی پناہ طلب کرو اور سنت نبوی کی پیروی کرو۔ پھر رکوع کے ذریعے ذلت اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرو اور دل میں رقت اور خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنی ذلت، اپنے مولیٰ کی عزت اور اس کے مقام کی بلندی کو سمجھنے کی کوشش کرو، زبان کی مدد سے اسے دل میں پختہ کرو، اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح کرو اور اس کی عظمت کی گواہی دو کہ وہ ہر عظیم سے برتر ہے اور دل میں بار بار اس کی تکرار کرو تا کہ یہ پختہ ہو جائے۔ پھر رکوع سے یہ امید کرتے ہوئے اٹھو کہ وہ تم پر رحم فرمانے والا ہے اور ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہہ کر دل میں امید کو پختہ کرو اور اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کی بات قبول فرماتا ہے۔ پھر مزید نعمت کے حصول کے لئے دوبارہ شکر ادا کرتے ہوئے ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہو۔ نیز ان الفاظ کے ذریعے بکثرت شکر ادا کرو: ”مِلءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلءُ الْأَرْضِ یعنی زمین و آسمان شکر سے بھرے ہوئے ہیں۔“ پھر سجدے کے لئے جھک جاؤ اور یہ اظہارِ عاجزی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے لہذا اپنے سب سے زیادہ عزت والے حصہ بدن کو، جو کہ چہرہ ہے سب سے حقیر و بے وقعت چیز یعنی مٹی پر رکھ دو اور اگر ہو سکے تو زمین پر یوں سجدہ کرو کہ پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو کیونکہ یہ خشوع کو جلد لاتی اور ذلت پر زیادہ دلالت کرتی ہے۔ جب تم نے خود کو مقام ذلت پر ڈال دیا تو جان لو کہ تم نے اپنے نفس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا کیونکہ تم مٹی سے پیدا کئے گئے ہو اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس وقت اپنے دل میں عظمتِ الہی کی تجدید کرتے ہوئے: ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى یعنی میرا ربَّ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔“ کہو اور اسے تکرار کے ساتھ مؤکد کرو کیونکہ ایک بار کہنے کا اثر کمزور ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل نرم اور ذلت واضح ہو جائے تو رحمتِ الہی کی پختہ امید رکھو کیونکہ اس کی رحمت کمزوری و ذلت ہی کی طرف جلد متوجہ ہوتی ہے نہ کہ تکبر و غرور کی طرف۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سراٹھاؤ اور اپنی حاجت طلب کرتے ہوئے یوں کہو: ”اے میرے ربَّ عَزَّوَجَلَّ! میری مغفرت فرما اور رحم فرما اور میرے گناہ معاف فرما جو کہ تیرے علم میں ہیں۔“ یا جو دعائیں کرنا چاہو وہ کرو۔ پھر دوبارہ اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کو پختہ کرو۔

### تشہد:

جب تشہد کے لئے بیٹھو تو آداب سے بیٹھو اور اس بات کی وضاحت کرو کہ جو امور قربِ الہی کا موجب ہیں خواہ نمازیں ہوں یا اچھے اخلاق سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ملک بھی اسی کا ہے اور التحیات کا یہی معنی

ہے۔ نیز دل میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقام و مرتبے کو حاضر کر کے کہو: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اور قوی امید رکھو کہ یہ سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا ہے اور آپ اس سے بہتر جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ پھر خود پر اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو۔ پھر یہ امید رکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ (اپنی رحمت سے) نیک بندوں کی تعداد کے برابر تم پر سلامتی نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کہئے ہوئے عہد کی تجدید کرتے ہوئے کلمہ شہادت کے ساتھ اس کی وحدانیت اور اس کے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو اور پھر سے اس کے کلمہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ۔ پھر نماز کے اختتام پر عاجزی و انکساری، گڑگڑانے اور لجاجت کے ساتھ قبولیت کی سچی امید رکھتے ہوئے مسنون دعا کرو، دعا میں اپنے والدین اور تمام مؤمنین کو شریک کرو اور سلام پھیرتے وقت فرشتوں اور موجود لوگوں کو سلام کی نیت کرو اور اس کے ساتھ ہی نماز ختم کرنے کی نیت کرو۔ نیز اس عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دینے پر رب عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرو اور یہ گمان کرو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے آئندہ اس جیسی نماز کے لئے زندہ نہیں رہو گے۔ چنانچہ،

آقائے دو عالم، نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ۔“<sup>(۱)</sup>

نیز نماز میں کوتاہی پر اپنے دل میں حیا اور خوف محسوس کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہاری نماز قبول ہی نہ ہو یا تم کسی ظاہری یا باطنی گناہ کے سبب مردود ہو جاؤ اور تمہاری نماز تمہارے منہ پر مادی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن وثاب علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَهَّابِ جب نماز پڑھتے تو کچھ دیر جس قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ٹھہرتے ان پر نماز کی تھکاوٹ محسوس ہوتی اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَكْبِيِّ نماز کے بعد گھٹنہ بھر ٹھہرے رہتے (اور چہرے کے اثرات سے ظاہر ہوتا) گویا آپ مریض ہیں۔ یہ خاصعین کی نماز کی تفصیل ہے، جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نماز کے پابند ہیں اور جو عبادت میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے

①.....سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الحکمة، الحدیث: ۴۱، ج ۴، ص ۵۵۔

مناجات کرتے ہیں۔ لہذا انسان خود کو نماز کا عادی بنائے اور اس میں سے جس قدر اسے میسر ہو اس پر خوشی منائے، اس میں سے جو نہ پاسکے اس پر حسرت کرے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لئے خوب کوشش کرے۔ غافلین کی نمازیں خطرے کے مقام میں ہیں مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت و سبوح اور کرم عام ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کیونکہ ہمارا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت سے عاجز ہونے کا اعتراف کریں۔

## نماز کو آفات سے محفوظ رکھنے کی فضیلت:

جان لیجئے کہ (باطنی) آفات سے نماز کو بچا کر خالصتاً رضائے الہی کے لئے مذکورہ باطنی شرائط جیسے خشوع، تعظیم اور حیا کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا دل میں پائے جانے والے ان انوار کا سبب ہے جو علومِ مکاشفہ کے لئے چابیاں ہیں۔ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کو اسرار الہی اور زمین و آسمان کی بادشاہی کا جو کشف ہوتا ہے وہ انہیں نماز میں خصوصاً حالت سجدہ میں ہوتا ہے کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں رب عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ<sup>الْحَبِطَةِ</sup> (پ ۳۰، العلق: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔<sup>(۱)</sup>

اور ہر نمازی کا مکاشفہ دنیا کی کدورتوں سے باطن کی صفائی کے مطابق ہوتا ہے اور یہ طاقت و کمزوری، قلت

①..... یہ آیت سجدہ ہے اور آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ، دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت جلد اول صفحہ 728 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ نَقْل فرماتے ہیں: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لئے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے قبل یا بعد کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔“ اور صفحہ 730 پر فرماتے ہیں: ”فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نامعلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔“

**نوٹ:** مزید تفصیل کے لئے بہارِ شریعت کے مذکورہ مقام کا صفحہ 726 تا 739 کا یاد دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 49 صفحات پر مشتمل رسالے ”تلاوت کی فضیلت“ کا مطالعہ کیجئے۔

و کثرت اور جلا و خفا کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کے سامنے ایک چیز اصل حالت میں منکشف ہوتی ہے جبکہ بعض کے سامنے وہی چیز اپنی مثال کے ساتھ منکشف ہوتی ہے جیسا کہ بعض کو دنیا مردار کی مثل اور شیطان کتے کی صورت میں نظر آتا ہے جو اس پر چھاتی لگائے بیٹھ کر اس کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مکاشفہ کا اختلاف کشف کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے بعض بزرگوں کے لئے اللہ عزَّ وَجَلَّ کی صفات منکشف ہوتی ہیں، بعض کو اس کے افعال منکشف ہوتے ہیں اور بعض کو علوم معاملہ کی باریکیاں منکشف ہوتی ہیں۔ ہر وقت ان معانی کی تعیین کے لئے بے شمار پوشیدہ اسباب ہیں، ان میں سب سے سخت اس کی طرف قلبی فکر کی مناسبت ہے کیونکہ جب کسی معین چیز کی طرف توجہ کی جائے تو وہ انکشاف کے لئے بہتر ہوتی ہے۔

### اہل قلوب کے مکاشفہ کا انکار مناسب نہیں:

یہ امور (زنگ سے) صیقل شدہ آئینے میں ہی نظر آتے ہیں اور تمام آئینے زنگ آلود ہیں اس لئے ان سے ہدایت چھپ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ منعم (یعنی نعمت بخشے والے) کی طرف سے بخل ہوتا ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے مقام پر میل کی تہہ جم جانے کے سبب زبانیں اس قسم کی باتوں کا انکار کرنے میں جلدی کرتی ہیں کیونکہ طبیعت اس چیز کا انکار کر دیتی ہے جو موجود نہ ہو۔ اگر پیٹ میں موجود بچے میں عقل ہوتی تو وہ ہوا کی وسعتوں میں انسان کی موجودگی کے امکان کا انکار کر دیتا اور اگر بچے کو تمیز ہوتی تو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جن چیزوں کے ادراک کا عقلاً گمان کرتے ہیں، ان کا انکار کر دیتا۔ اسی طرح انسان ہر حالت میں اس سے اعلیٰ حالت کا انکار کرتا ہے اور جو ولایت کے حال کا منکر ہو اس پر نبوت کے حال کا انکار بھی لازم آئے گا اور مخلوق مختلف درجات پر پیدا کی گئی ہے۔ لہذا بندے کو اپنے سے اوپر والے درجے کا انکار نہیں کرنا چاہئے مگر چونکہ لوگوں نے اس چیز کو بحث و مباحثہ کے ذریعے تلاش کیا غیر خدا سے دل کو پاک کرنے کے ذریعے نہیں ڈھونڈا تو اسے نہ پاسکنے کے باعث انکار کر دیا۔ جو اہل مکاشفہ میں سے نہ ہو تو کم از کم اسے غیب پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنی چاہئے یہاں تک کہ وہ تجربہ سے اس کا مشاہدہ کر لے۔

### اللہ عزَّ وَجَلَّ نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے:

حدیث پاک میں ہے: ”بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عزَّ وَجَلَّ اپنے اور بندے کے درمیان سے پردے

اٹھا دیتا اور اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، فرشتے اس کے کندھے سے ہوا تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے، اس کی دُعا پرا میں کہتے ہیں اور آسمان سے نمازی کے سر کی مانگ تک ایک نیکی اُترتی ہے اور ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اگر یہ مناجات کرنے والا جان لیتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتا۔ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے۔“ (۱)

(سیدنا امام غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِیِ فرماتے ہیں: آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نمازی کی طرف متوجہ ہونا ہمارے ذکر کردہ کشف سے کنایہ ہے۔

تورات میں لکھا ہے کہ ”اے ابن آدم! میرے سامنے نماز پڑھتے اور روتے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہونا، میں اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہے اور تو نے غیب سے میرے نور کو دیکھا۔“ (۲)

راوی کہتے ہیں کہ یہ رقت، رونا اور وہ کشادگی جسے نمازی اپنے دل میں پاتا ہے دل میں قرب الہی کی بنا پر ہے اور جب یہ قرب، مکانی قرب نہیں تو اس کا معنی ہدایت، رحمت اور حجاب کا اٹھ جانا ہی ہے۔

## فرشتے کس پر تعجب کرتے ہیں؟

منقول ہے کہ ”بندہ جب دو رکعتیں پڑھتا ہے تو فرشتوں کی دس صفیں اس پر تعجب کرتی ہیں ان میں سے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔“ (۳)

## فرشتوں کے تعجب کرنے کی وجہ:

اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود اور رکوع و سجود جمع ہوتے ہیں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان چار ارکان کو 40 ہزار ملائکہ میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے۔ سجدہ کرنے والے قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کو جو قرب اور رتبہ عطا فرمایا ہے (اس کے مطابق) ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے اس میں کمی بیشی نہیں

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، فی ذکر دعائم السلام..... الخ، ج، ص ۱۶۵۔

②..... المرجع السابق۔

③..... المرجع السابق۔

ہوسکتی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک  
مقام معلوم ہے۔ (پ۲۳، الصُّفَّت: ۱۶۴)

### با اعتبار ترقی درجات انسان فرشتوں سے مختلف ہے:

انسان ایک درجہ سے دوسرے کی طرف ترقی کرنے میں فرشتوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب ہوتا رہتا اور اس کا مزید قرب پاتا ہے جبکہ فرشتوں پر مزید قرب کا دروازہ بند ہے اور ہر فرشتے کا وہی رتبہ ہے جس پر وہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ وہ نہ تو اس کے غیر کی طرف منتقل ہوتا اور نہ ہی اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾  
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُونَ ﴿۲۰﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ  
تھکیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔  
(پ۱۷، الانبیاء: ۱۹، ۲۰)

اور زیادتی درجات کی چابی نماز ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿۲﴾  
ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، جو اپنی  
نماز میں گڑگڑاتے ہیں۔ (پ۱۸، المؤمنون: ۱، ۲)

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایمان کے بعد مخصوص نماز کے ساتھ ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو خشوع کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر دنیا و آخرت میں کامیابی پانے والوں کی خوبیوں کا اختتام بھی نماز کے ذکر سے کیا۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔  
(پ۱۸، المؤمنون: ۹)

پھر ان خوبیوں کے نتیجے میں ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۱﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ  
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲﴾  
ترجمہ کنز الایمان: یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث  
پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

(پ۱۸، المؤمنون: ۱۰، ۱۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پہلے انہیں فلاح (کامیابی) کے ساتھ پھر جنت الفردوس کی وراثت کے ساتھ متصف فرمایا۔  
(سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیِی فرماتے ہیں:) میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی  
چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان (نمازیوں) کے مقابل جہنمیوں سے متعلق  
ارشاد فرمایا:

مَا سَأَلْتُمْ فِي سَقَرٍ ﴿۴۷﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ  
الْمُصَلِّينَ ﴿۴۸﴾ (پ۲۹، المدثر: ۴۷، ۴۸)  
ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی وہ بولے  
ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔

لہذا نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور کا مشاہدہ کرنے والے اور اس کے قرب  
سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔

## دُعا:

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان (یعنی مذکورہ اوصاف سے متصف نمازیوں) میں سے بنائے  
اور ہم ان لوگوں کی سزا سے پناہ طلب کرتے ہیں جن کی باتیں تو اچھی مگر کام برے ہیں۔ بے شک وہی کرم و احسان  
فرمانے والا ہے۔ اس کا احسان قدیم ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہر برگزیدہ بندے پر رحمت ہو۔

﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

## پانچویں فصل: خشوع، خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی حکایات

جان لیجئے کہ خشوع ایمان کا پھل اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال سے حاصل ہونے والے یقین کا نتیجہ ہے۔ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ نماز میں اور نماز سے باہر بلکہ تنہائی میں اور استنجاخانے میں بھی قضائے حاجت کے وقت خشوع اپناتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے پر مطلع ہے۔ نیز بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جلال اور اپنی کوتاہی کی معرفت رکھتا ہے۔ انہی باتوں کی پہچان سے خشوع حاصل ہوتا ہے اور یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں اسی لئے بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرتے اور اس سے ڈرتے ہوئے 40 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔

### آنکھوں کا قفل مدینہ:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکائے رکھتے تھے حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو نابینا سمجھتے۔ آپ 20 سال حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے گھر حاضر ہوتے رہے جب حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی کنیز انہیں (آتے) دیکھتی تو کہتی: ”آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کی بات سن کر مسکرا دیتے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جب دروازہ بجاتے، کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائے دیکھتی۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو دیکھتے تو یہ آیت مقدسہ تلاوت کرتے:

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ (پے ۱، الاحقاف: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب! خوشی سنادوان تو وضع والوں کو۔

اور فرماتے: خدا عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر حضور انور، شافع محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمہیں دیکھتے تو تم سے خوش ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ”آپ کو پسند فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔“

### سیدنا ربیع علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْبَدِيْعِ کا خوف خدا:

منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ساتھ لوہاروں کے پاس سے گزرے جب آپ نے بھٹیوں کے دھونکنے اور آگ کے شعلے بلند ہونے کو دیکھا



تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز کے وقت تک آپ کے سر ہانے بیٹھے رہے مگر ہوش میں نہ آئے۔ وہ آپ کو پیٹھ پر اٹھا کر گھر لے آئے۔ دوسرے دن اس وقت تک آپ بیہوش رہے جس وقت چیخ ماری تھی، اس دوران آپ کی پانچ نمازیں قضا ہو گئیں اور حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ان کے سر ہانے بیٹھے فرما رہے تھے: ”خَدَاعَ وَجَلَّ كِي قَسَم! خَوْف (خدا) اسے ہی کہتے ہیں۔“ (۱)

حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے تھے: ”میں جب بھی نماز پڑھتا مجھے یہی فکر رہتی کہ میں کیا کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب ملے گا۔“ (۲)

### سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا خشوع:

حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اکثر آپ کی بیٹی دف بجاتی اور گھر میں آنے والی عورتوں سے باتیں کرتی لیکن آپ نہ ان کی باتیں سنتے اور نہ ہی سمجھ پاتے۔ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے پوچھا گیا: ”کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں؟“ تو فرمایا: ”ہاں! یہ بات کہ میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں نے دو گھروں میں سے ایک گھر میں لوٹنا ہے۔“ عرض کی گئی: ”کیا ہماری طرح آپ بھی نماز میں امور دنیا میں سے کچھ پاتے ہیں؟“ فرمایا: ”مجھے نماز میں دنیا کے خیالات پیدا ہونے سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھ پر تیروں سے حملہ کیا جائے۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمایا کرتے تھے: ”اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔“ (۳)

حضرت سیدنا مسلم بن یسار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بھی کثرتِ خشوع والوں میں سے تھے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نماز میں تھے تو آپ کو مسجد میں ستون گرنے کا پتا بھی نہ چلا۔

### تکلیف کا احساس تک نہ ہوا:

منقول ہے کہ ”ایک بزرگ کے جسم کا کوئی حصہ گل گیا اور اسے کاٹنے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن ممکن نہ تھا تو کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز میں انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ، نماز کی حالت میں ان کے بدن کا وہ حصہ

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۶۹۔

②..... المرجع السابق۔

③..... المرجع السابق۔

کاٹ دیا گیا۔“

منقول ہے کہ ”نماز آخرت میں سے ہے۔ لہذا جب تو نماز شروع کرے تو دنیا سے نکل جا۔“ (۱)

کسی بزرگ سے پوچھا گیا: ”کیا دوران نماز آپ اپنے نفس سے کوئی دنیوی بات کرتے ہیں؟“ تو انہوں نے جواب دیا: ”نہ نماز میں نہ نماز سے باہر۔“

بعض بزرگوں سے پوچھا گیا: کیا آپ نماز میں کوئی چیز یاد کرتے ہیں؟“ جواب ملا: ”مجھے نماز سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہے کہ میں نماز میں اسے یاد کروں؟“

حضرت سیدنا ابو برداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے تھے: ”آدمی کی سمجھداری میں سے ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا ضروری کام نمٹالے تاکہ نماز شروع کرے تو اس کا دل فارغ ہو۔“ (۲)

## وسوسوں کے خوف سے نماز مختصر پڑھی:

بعض بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْبَرِّينِ وسوسوں کے خوف سے نماز مختصر کر دیتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک دن نماز مختصر کر کے پڑھی تو ان سے عرض کی گئی: ”اے ابو یقظان! آپ نے نماز مختصر کر کے پڑھی ہے۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”کیا تم نے مجھے نماز میں کچھ کمی کرتے پایا؟“ لوگوں نے کہا: ”نہیں۔“ فرمایا: میں نے شیطان کے بھلانے کے خوف سے جلدی کی، بے شک رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا نصف، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا۔“ (۳)

نیز حضور اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے: ”بندے کے لئے اس کی نماز میں سے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔“ (۴)

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۶، ص ۱۶۹۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۶، ص ۱۶۹۔

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، حديث عمار بن ياسر، الحديث ۱۸۹، ج ۶، ص ۴۸۳، مفہومًا۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۶، ص ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ بتقدم و تاخر۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر اور صحابہ کرام رَضُوا اللہ تَعَالَى عَلَیْهِمْ أَجْمَعِينَ کا ایک گروہ انتہائی مختصر نماز پڑھتے اور فرماتے: ”ہم شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جلدی پڑھتے ہیں۔“ (۱)

## ایک بھی نماز نہیں پڑھی:

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہ تَعَالَى عَنْهُ نے برسبر منبر فرمایا: ”بے شک حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آجاتی ہے (اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے) لیکن اس نے رضائے الہی کے لئے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی۔“ (۲) عرض کی گئی: ”یہ کیسے؟“ فرمایا: ”وہ خشوع و خضوع سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔“ (۳)

## آیت مبارکہ کی تفسیر:

حضرت سیدنا ابو عالیہ رَحْمَةُ اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ سے اس فرمان باری تعالیٰ:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔

(پ ۳۰، الماعون: ۵)

کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز میں بھول جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کتنی رکعتوں کے بعد فارغ ہوں گا جفت کے بعد یا طاق کے؟“ (۴)

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللہ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”اس سے مراد وہ ہے جو نماز کے وقت غافل رہتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔“ (۵)

بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللہ السَّلَام نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ ”یہ وہ شخص ہے جو اول وقت میں نماز پڑھنے پر خوش نہیں ہوتا اور تاخیر کرنے پر غم زدہ نہیں ہوتا اور جلدی پڑھنے کو ثواب اور تاخیر کو گناہ نہیں سمجھتا۔“ (۶)

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۷۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۷۰۔

③..... المرجع السابق۔

④..... المرجع السابق۔

⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... المرجع السابق۔

یاد رکھئے کہ نماز کا کچھ حصہ شمار ہوتا اور لکھا جاتا ہے جبکہ کچھ حصہ نہ شمار کیا جاتا اور نہ لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں اگرچہ فقہ کے نزدیک نماز صحیح ہونے کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا اور اس معنی پر احادیث دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ”فرائض کی کمی نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔“

## باعث نجات اور قرب کا ذریعہ:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اللہ عزَّ وَّجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”فرائض کے ذریعے میرا بندہ مجھ (یعنی میرے عذاب) سے نجات پالیتا اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔“ (۱)

سرکارِ مدینہ، راحت قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اللہ عزَّ وَّجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری کے بغیر بندہ میرے عذاب سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔“ (۲)

## دل نماز میں حاضر نہیں:

مروی ہے کہ (ایک بار) حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نماز پڑھی اور قراءت سے ایک آیت رہ گئی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو استفسار فرمایا: ”میں نے کیا پڑھا؟“ صحابہ کرام رَضُوا اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ خاموش رہے پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی: ”آپ نے فلاں سورت پڑھی اور فلاں آیت نہیں پڑھی میں نہیں جانتا کہ وہ منسوخ ہوگئی یا اٹھالی گئی۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اے ابی! تم ہی اس کے لئے ہو (یعنی نماز میں کامل طور پر متوجہ رہنا تمہارے ہی لائق ہے)۔“ پھر دیگر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں حاضر ہوتے ہفتوں کو مکمل کرتے اور اپنے نبی کی اقتدا میں ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے سامنے کتاب اللہ میں

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۷۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۷۰۔

سے کیا پڑھا جاتا ہے۔ خبردار! بنی اسرائیل نے اسی طرح کیا تھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی قوم سے فرما دیجئے: ”تمہارے بدن میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے کلمات تم بارگاہ تک پہنچاتے ہو لیکن تمہارے دل میری طرف متوجہ نہیں ہوتے جس طرف تم جا رہے ہو وہ باطل ہے۔“<sup>(۱)</sup> یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کی قراءت سننا اور سمجھنا خود قراءت کرنے کی طرح ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا: ”کوئی شخص ایک سجدہ کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے اس کے ذریعے قربِ خداوندی حاصل کر لیا ہے حالانکہ اس کے ایک سجدہ کے گناہ اہلِ مدینہ پر تقسیم کر دیئے جائیں تو سب ہلاک ہو جائیں۔“ پوچھا گیا: ”وہ کیسے؟“ فرمایا: ”وہ بظاہر اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل خواہشات کی طرف جھکا ہوتا اور وہ باطل کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

(مذکورہ کلام جو کچھ ذکر کیا گیا ہے) یہ خاشعین کی صفت ہے۔ بیان کردہ حکایات و روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز میں اصل خشوع اور حضورِ قلب ہے جبکہ غفلت کے ساتھ محض اوپر نیچے ہونا آخرت میں بہت کم نفع دے گا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اچھی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔



﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۷۱، ۱۷۲۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۷۲۔

## باب نمبر 4: امامت کا بیان (یہ چار فصلوں پر مشتمل ہے)

### پہلی فصل: امام پر نماز سے پہلے کے، نیز قراءت، ارکان اور سلام کے بعد کے لازم امور

قبل نماز امام پر چھ باتیں لازم ہیں:

﴿1﴾..... امام کو چاہئے کہ ایسی قوم کی امامت نہ کرے جو اسے ناپسند کرتی ہو اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اکثریت کی رائے پر عمل کیا جائے اگر کم تعداد والے لوگ دین دار اور نیک ہوں تو ان کو ترجیح دی جائے۔  
کن کی نماز مقبول نہیں ہوتی:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتی: (۱) بھاگا ہوا غلام (۲) وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو اور (۳) وہ شخص جو ایسے لوگوں کی امامت کرے جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔“<sup>(۱)</sup>  
نیز جس طرح لوگوں کی ناپسندیدگی کی صورت میں کسی شخص کا ان کی امامت کروانا منع ہے اسی طرح اگر اس کے پیچھے اس سے بڑا عالم موجود ہو تب بھی اس کا امامت کروانا منع ہے۔ البتہ اگر وہ بڑا عالم خود رک جائے تو وہ امامت کروا سکتا ہے۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو جب اسے آگے کیا جائے اور وہ اپنے اندر شرائط امامت پاتا ہو تو آگے بڑھ جائے۔ اس وقت ایک دوسرے کو آگے کرنا یعنی امامت کو دوسروں پر ڈال دینا مکروہ ہے۔ منقول ہے کہ ”ایک قوم نے نماز کی اقامت کے بعد ایک دوسرے کو آگے کرنا شروع کیا تو انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا۔“

### ایک سوال اور اس کا جواب:

پھر صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو جب امامت کے لئے کہا جاتا تھا تو دوسروں کو آگے کیوں بڑھا دیتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جسے امامت کے زیادہ لائق سمجھتے اسے ترجیح دیتے یا انہیں بھولنے اور دوسروں کی نماز کا ضامن بننے سے ڈر لگتا تھا کیونکہ ائمہ (مقتدیوں کی نماز کے) ضامن ہوتے ہیں۔ نیز لوگوں میں سے جو امامت کا عادی نہیں ہوتا بعض اوقات مقتدیوں سے حیا کرتے ہوئے اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نماز میں اخلاص باقی نہیں

①..... الدر المنثور، الجزء الخامس، النساء، تحت الاية ۳، ج ۲، ص ۵۲۰، ”رؤسہم“ بدلہ ”آذانہم“۔

رہتا۔ بالخصوص جہری نمازوں میں ایسا ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح کے اسباب کی وجہ سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے نماز پڑھانے سے احتراز کیا۔

## امامت افضل ہے یا مؤذنی:

﴿2﴾..... جب بندے کو اذان اور امامت کے درمیان اختیار دیا جائے تو اسے امامت کو اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں فضیلت ہے لیکن دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے بلکہ امام، مؤذن کے علاوہ ہونا چاہئے<sup>(۱)</sup>۔ جب دونوں کو جمع کرنا مشکل ہے تو امامت بہتر ہے۔ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اذان افضل ہے جیسا کہ ہم نے اس کی فضیلت نقل کی ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے: ”الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ“ یعنی امام ضامن ہے اور مؤذن امین۔<sup>(۲)</sup> لہذا انہوں نے فرمایا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے (اس لئے اذان افضل ہے)۔ ایک روایت میں ہے کہ ”امام امیر ہے جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔“<sup>(۳)</sup>

ایک روایت میں ہے: ”اگر امام نماز پوری کرے تو اس کا بھی فائدہ ہے دوسروں کا بھی اور اگر پوری نہ کرے تو اسی پر گناہ ہے مقتدیوں پر نہیں۔“<sup>(۴)</sup> اسی لئے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دُعَا مَآگِی: ”اللَّهُمَّ ارشِدِ الْإِنَّمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ“ یعنی اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنین کو بخش دے<sup>(۵)</sup>۔<sup>(۶)</sup> اور مانگنے میں مغفرت افضل ہے کیونکہ مغفرت کے لئے ہدایت کا ارادہ کیا جاتا ہے۔

- 1..... احناف کے نزدیک: اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۴۶۷)
- 2..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء أن الامام ضامن..... الخ، الحدیث ۲۰، ج ۱، ص ۲۵۰۔
- 3..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۰، ”امین“ بدلہ ”امیر“۔
- 4..... صحیح ابن خزیمہ، باب امر الاماموم بالصلاة جالساً..... الخ، الحدیث ۱۶۱، ج ۳، ص ۵۲۔
- 5..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فی جماع الامامة وفضلها، الحدیث ۵۸۹، ج ۱، ص ۲۳۹، مفہوماً۔
- 6..... مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْہِ، ج 1، ص 415 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اس سے بھی امامت کی اذان پر فضیلت معلوم ہو رہی ہے کیونکہ مغفرت سے ہدایت اعلیٰ ہے یعنی یہ اللہ اماموں کو نماز کے مسائل سیکھنے اور صحیح ادا کرنے کی ہدایت دے کہ ان کی نماز سے بہت سی نمازیں وابستہ ہیں اور مؤذن کبھی وقت میں دھوکا بھی کھا سکتا ہے اسے بخش دے۔
- 6..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء أن الامام ضامن..... الخ، الحدیث ۲۰، ج ۱، ص ۲۵۰۔

## بلا حساب جنت میں داخلہ:

حدیث پاک میں ہے کہ ”جس نے مسجد میں سات سال (ثواب کی نیت سے) نماز کی امامت کرائی اس کے لئے بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے اور جس نے 40 سال (ثواب کی نیت سے) اذان دی وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔“<sup>(۱)</sup> اسی لئے صحابہ کرام رَضَوَانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن کے بارے میں مروی ہے کہ وہ (ایثار کی نیت سے) امامت میں ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے۔

صحیح یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیونکہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا اور ان کے بعد ائمہ دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْن نے اس پر ہیگی اختیاء فرمائی اس میں ضمانت کا خطرہ ہے مگر فضیلت بھی خطرے کے ساتھ ہے جیسا کہ حکومت و خلافت کا رتبہ افضل ہے۔

## 70 سالہ عبادت سے افضل:

حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”عادل بادشاہ کا ایک دن 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔“<sup>(۲)</sup> لیکن چونکہ امامت میں خطرات ہیں اس لئے افضل اور زیادہ فقیہ شخص کو مقدم کرنا افضل ہے، کہ حضور انور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تمہارے ائمہ تمہارے سفارشی ہوں گے۔“<sup>(۳)</sup> یا فرمایا: وہ تمہارے نمائندے ہوں گے۔“<sup>(۴)</sup> اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی نمازوں کو پاک کرو تو اچھے لوگوں کو امام بناؤ۔“

## انبیاء و علماء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضل:

بعض بزرگوں نے فرمایا: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد علمائے عظام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام سے افضل کوئی

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی حکم وصف الامام والمأموم، ج ۳، ص ۳۵۶۔

②..... المعجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، الحديث: ۱۱۹۳، ج ۱، ص ۲۶۷، بتصریح ستین سنہ۔

③..... المعجم الكبير، ماسند مرثد بن ابی مرثد الغنوی، الحديث: ۷۷۷، ج ۲۰، ص ۳۲۸، مفہومًا۔

④..... كنز العمال، كتاب الصلاة، الترهيب عن الامامة، الحديث: ۲۰۳۸، ج ۷، ص ۲۲۰۔



نہیں اور علمائے دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْبَرِّينَ کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ سے افضل کوئی نہیں کیونکہ یہ لوگ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے بندوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کو یہ اعزاز نبوت سے، علمائے عظام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کو علم سے اور ائمہ کو نماز سے حاصل ہوتا ہے جو دین کا ستون ہے۔<sup>(۱)</sup>

## خلافت صدیقی پر ایک دلیل:

مذکورہ دلیل کی بنا پر صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ چنانچہ، انہوں نے فرمایا: ہم نے غور و فکر کیا تو واضح ہوا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ لہذا ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے لئے اس شخص کو چنا جسے رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ہمارے دینی معاملات کے لئے پسند فرمایا تھا۔<sup>(۲)</sup> اور مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال کو صحابہ کرام رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اس لئے مقدم کرتے تھے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے انہیں اذان کے لئے پسند فرمایا تھا۔

## مقتدی ہی بن جاؤ:

مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔“ ارشاد فرمایا: ”مؤذن بن جا۔“ عرض کی: ”مجھے اس کی استطاعت نہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”امام بن جا۔“ عرض کی: ”مجھے اس کی بھی طاقت نہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”مقتدی بن جاؤ۔“<sup>(۳)</sup>

شاید آپ نے یہ خیال فرمایا کہ یہ امامت پر راضی نہ ہوگا کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے مگر امامت لوگوں کے اختیار میں ہے وہ اسے آگے کریں گے تو امامت کروا سکے گا پھر خیال فرمایا کہ شاید یہ امامت پر قادر ہے (اس لئے امامت کا ذکر بعد میں فرمایا)۔

﴿3﴾..... امام کو چاہئے کہ اوقات نماز کی رعایت رکھتے ہوئے اوّل وقت میں نماز پڑھائے تاکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کو

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۰-۳۵۱۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۱۔

③..... مجمع الزوائد، کتاب الصلاة، باب فضل الاذان، الحدیث ۱۸۴۲، ج ۲، ص ۸۴ ”صل“ بدله ”قم“۔

پالے کہ حدیث پاک میں ہے: ”اول وقت کی نماز کو آخر وقت پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح آخرت کو دنیا پر۔“<sup>(۱)</sup>  
 ایک روایت میں ہے کہ ”بندہ آخری وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اگرچہ یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی مگر اول  
 وقت فوت ہو گیا جو اس کے حق میں دنیا و مافیہا (یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے) سے بہتر تھا۔“<sup>(۲)</sup>

## کثرت جماعت کے لئے نمازیوں کا انتظار کرنا کیسا؟

امام جماعت کی کثرت کے انتظار میں نماز کو مستحب وقت سے مؤخر نہ کرے بلکہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اول وقت  
 کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے جلدی کریں کہ یہ کثرت جماعت اور لمبی سورتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ نیز منقول  
 ہے کہ ”بزرگان دین رَحْمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیِّنُ میں سے جب دو آدمی جماعت کے لئے حاضر ہو جاتے تو تیسرے کا انتظار نہ  
 کرتے اور نماز جنازہ میں جب چار آدمی حاضر ہو جاتے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے۔“

نیز مروی ہے کہ ایک بار حالت سفر میں حضور اکرم، نور مجسم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے طہارت کے سبب نماز  
 فجر میں تاخیر ہو گئی تو انتظار کے بجائے حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کو امامت کے مصلے پر کھڑا کر  
 دیا گیا انہوں نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ایک رکعت فوت ہو گئی، آخر میں  
 آپ اسے ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ راوی فرماتے ہیں: اس پر ہم خوف زدہ ہو گئے۔ تو رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ  
 تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اچھا کیا (کہ اول وقت میں نماز پڑھی) اسی طرح کیا کرو۔“<sup>(۳)</sup>

ایک بار آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو نماز ظہر میں تاخیر ہو گئی تو صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ نے  
 امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کو امامت کے مصلے پر کھڑا کر دیا حتیٰ کہ دوران نماز ہی حضور  
 صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آئے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ کے برابر  
 کھڑے ہو گئے۔<sup>(۴)</sup>

①..... الجامع الصغير، حرف الفاء، الحديث ۵۸۶، ص ۳۶۳۔

②..... سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة..... الخ، الحديث ۹۶، ج ۱، ص ۳۴۱، مفهوماً۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون في كتاب حكم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۱۔

③..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي..... الخ، الحديث ۱۰۵، ص ۲۲۶، مفهوماً۔

④..... صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليوم الناس..... الخ، الحديث ۶۸، ج ۱، ص ۲۴۴، مفهوماً۔

امام پر مؤذن کا انتظار کرنا لازم نہیں بلکہ مؤذن پر اقامت کے لئے امام کا انتظار کرنا لازم ہے۔ جب امام آجائے تو وہ کسی دوسرے کا انتظار نہ کرے۔

﴿4﴾..... امام خالصتاً رضائے الہی کے لئے امامت کرائے۔ نیز طہارت اور نماز کی تمام شرائط میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت کو ادا کرنے والا ہو۔

اخلاص یہ ہے کہ امامت پر اجرت نہ لے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص ثقفی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”ایک مؤذن رکھو جو بغیر اجرت اذان دے۔“<sup>(۱)</sup>

اذان نماز کا ذریعہ ہے جب اس پر اجرت نہ لینے کا فرمایا تو امامت پر بدرجہ اولیٰ نہیں لینا چاہئے۔ اگر مسجد کی آمدنی امام کے لئے وقف ہو اور وہ اس میں سے لے یا بادشاہ یا مقتدیوں سے کچھ لے تو اسے حرام نہیں کہا جائے گا البتہ مکروہ ہے۔ فرض نمازوں پر اجرت لینا نماز تراویح پر اجرت لینے سے زیادہ مکروہ ہے۔

### امامت پر اجرت لینے کا حیلہ:

اگر اجرت لے تو یہ نیت ہو کہ حاضری کی پابندی اور جماعت قائم کرنے کے سلسلے میں مسجد کے معاملات کی نگرانی کی لے رہا ہوں نہ کہ نفسِ نماز کی<sup>(۲)</sup>۔

جہاں تک امانت کا تعلق ہے تو وہ باطنی طور پر فسق، گناہ کبیرہ اور صغیرہ پر اصرار سے پاک ہونا ہے۔ جو شخص امامت کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ ان کاموں سے بچے کیونکہ وہ قوم کے لئے سفارشی اور

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب اخذ الاجر علی التأذین، الحدیث: ۵۳، ج ۱، ص ۲۲۳۔

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد سوم صفحہ 146 پر ہے: ”تعلیم القرآن و فقہ اور اذان و امامت پر اجارہ جائز ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو قرآن و فقہ کے پڑھانے والے طلبِ معیشت میں مشغول ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف ہوتے جائیں گے اسی طرح اگر مؤذن و امام کو نوکر نہ رکھا جائے تو بہت سی مساجد میں اذان و جماعت کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور اس شعارِ اسلامی میں زبردست کمی واقع ہو جائے گی اسی طرح بعض علمائے وعظ پر اجارہ کو بھی جائز کہا ہے اس زمانے میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں ہیں ادھر ادھر سے کبھی کوئی عالم پہنچ جاتا ہے جو وعظ تقریر کے ذریعے انہیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے اگر اس اجارہ کو ناجائز کر دیا جائے تو عوام کو جو اس ذریعہ سے علم کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کا انسداد ہو جائے گا۔“

ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا وہ قوم میں سے بہترین شخص ہونا چاہئے۔ اسی طرح ظاہری طور پر حدث اور نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر صرف وہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ اگر نماز کے دوران یاد آئے کہ وہ بے وضو تھا یا اس کی ہوا خارج ہوئی تو شرم نہیں کرنی چاہئے بلکہ اپنے قریبی شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر اسے نماز میں اپنا خلیفہ بنا دے۔ کہ حضور انور، شافع محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو دوران نماز جنابت یاد آئی تو کسی اور کو نماز پڑھانے پر مامور کر کے غسل فرمایا پھر واپس تشریف لا کر نماز میں شامل ہو گئے۔<sup>(۱)</sup>

## کن کی اقتدا میں نماز جائز نہیں؟

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو مگر شراب کے عادی، علانیہ گناہ کرنے والے، والدین کے نافرمان، بدعتی یا بھاگے ہوئے غلام کے پیچھے نہ پڑھو (۲)۔“<sup>(۳)</sup>

﴿5﴾..... جب تک صفیں برابر نہ ہو جائیں تکبیر (تحریمہ) نہ کہے بلکہ دائیں بائیں دیکھ لے اگر کوئی خلل پائے تو صفیں برابر کرنے کا حکم دے۔ اسلاف کرام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کندھوں کو برابر رکھتے اور ایڑیوں کو ملاتے۔ جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو امام تکبیر نہ کہے۔

## اذان و اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہو؟

مؤذن اذان کے اتنی دیر بعد اقامت کہے کہ لوگ نماز کی تیاری کر لیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”مؤذن

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی الجنب یصلی..... الخ، الحدیث: ۲۳۳، ج ۱، ص ۱۱۱، مفہومًا۔

②..... بہار شریعت جلد اول صفحہ 562 پر ہے: وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی اگرچہ صرف صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کی شانِ اقدس میں تبرا کہتا ہو۔ قدری، جمہی، مشبہ اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کراماتین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ (عالمگیری، غیبت) اس سے سخت حکم و ہابہ زمانہ کا ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ وَ نَبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی توہین کرتے یا توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا یا کم از کم مسلمان ہی جانتے ہیں۔ مزید صفحہ 568 پر نقل فرماتے ہیں: بد مذہب کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو اور فاسق مُغْلَب جیسے شرابی، جواری، زنا کار، سود خوار، چُغْغَل خور، وغیر ہم جو کبیرہ گناہ بالا اعلان کرتے ہیں، ان کو امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجبُ الاعادہ۔

③..... تذکرۃ الحفاظ، الطبقة الخامسة، الجزء الاول، ج ۱، ص ۱۵۳، باختصار۔

اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر ٹھہرے کہ کھانا کھانے والا کھانے سے اور استنجا وغیرہ کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے۔<sup>(۱)</sup> کیونکہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بول و براز (یعنی پیشاب پاخانہ) کی شدت میں نماز سے منع فرمایا اور رات کا کھانا عشا سے پہلے کھانے کا حکم فرمایا۔<sup>(۲)</sup> تاکہ دل فارغ ہو (اور خشوع و خضوع حاصل ہو)۔

﴿6﴾..... امام تکبیر تحریر اور تمام تکبیرات بلند آواز سے کہے اور مقتدی اتنی آواز میں کہے کہ خود سن لے۔ نیز حصول ثواب کے لئے امام امامت کی نیت کرے، کہ اگر اس نے امامت کی نیت نہ کی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور لوگوں نے اس کی اقتدا کی نیت کی تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی اور وہ جماعت کی فضیلت پالیں گے مگر امام کو امامت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ مقتدی تکبیر امام کے تکبیر کہہ لینے کے بعد شروع کرے۔

## دوسری فصل: قراءت میں امام کی ذمہ داری

قراءت کے سلسلے میں امام پر تین باتیں لازم ہیں:

﴿1﴾..... تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح ثنا اور تعوذ (یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ نِيْز بِسْمِ اللّٰهِ) آہستہ پڑھے اور فجر کی پوری نماز میں اور مغرب و عشا کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت بلند آواز سے پڑھے۔ منفرد بھی اسی طرح قراءت کرے<sup>(۳)</sup>۔ نیز امام و مقتدی جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہے<sup>(۴)</sup>۔ مقتدی آمین امام کے ساتھ کہے اس کے بعد نہ کہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بلند آواز سے پڑھنے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت سپدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَافِي نے بلند آواز سے پڑھنے کو اختیار فرمایا۔<sup>(۵)</sup>

①..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الترسل فی الاذان، الحدیث: ۱۹۵، ج ۱، ص ۲۳۹، مفہوماً۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة فی ثوب له اعلام، الحدیث: ۶۴، ص ۲۸۰۔

③..... احناف کے نزدیک: جہری نمازوں میں منفرد (تنہا نماز پڑھنے والے) کو اختیار ہے (کہ آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے) اور افضل جہر ہے جب کہ ادا پڑھے اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۴۵)

④..... احناف کے نزدیک: تمام نمازوں میں امام و مقتدی اور منفرد آمین آہستہ کہیں گے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۴۵)

⑤..... احناف کے نزدیک: بِسْمِ اللّٰهِ آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۲۳)

﴿2﴾..... امام قیام میں تین سکتے کرے حضرت سیدنا سمرہ بن جندب اور حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

عَنْهُمَا نے حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اسی طرح روایت کیا۔<sup>(۱)</sup>

(۱)..... تکبیر تحریمہ کے وقت: یہ سب سے طویل سکتہ ہے اور اتنی دیر ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور یہ ثنا پڑھنے کا وقت ہے کیونکہ اگر امام اس وقت سکتہ نہ کرے گا تو مقتدیوں کا سننا فوت ہو جائے گا اور ان کی نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی اس کا وبال امام پر آئے گا۔ اگر اس سکتہ کے دوران مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ کسی دوسری طرف مشغول رہیں تو یہ ان کی کوتاہی ہوگی نہ کہ امام کی<sup>(۲)</sup>۔

(۲)..... دوسرا سکتہ اس وقت کرے جب سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہو جائے تاکہ جس نے پہلے سکتے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ اب پڑھ لے اور یہ پہلے سکتے کا نصف ہے۔ (۳)..... تیسرا سکتہ سورت کی قراءت کے بعد رکوع سے پہلے کرے، اس کی مقدار سب سے کم ہے اور یہ اتنا ہی ہے کہ قراءت کو تکبیر سے جدا کر دے کیونکہ قراءت کو تکبیر رکوع کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ نیز مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے<sup>(۳)</sup>۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھ لے اس میں قصور وار امام ہوگا۔ اگر مقتدی جہری نماز میں دور ہونے کی وجہ سے نہ سن سکے یا سری نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی کے سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿3﴾..... نماز فجر میں امام 100 سے کم آیات والی دو سورتیں پڑھے کیونکہ فجر کی قراءت کو لمبا کرنا اور اسے اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے جبکہ روشنی میں نماز سے فارغ ہونے میں کوئی حرج نہیں، دوسری رکعت میں سورتوں کے آخر سے 20، 30 آیات پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ آیات سورتوں کے آخر سے پڑھے کیونکہ آخری آیات (عوام الناس کے) کانوں میں بار بار نہیں پڑتیں، اس لئے وعظ میں زیادہ اُخْر رکھتی اور غور و فکر کو زیادہ دعوت دیتی ہیں۔ بعض علمائے

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث سمرة بن جندب، الحدیث ۲۰۱۰، ج ۷، ص ۲۴۸، بتصریح "سکستان"۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۱، ص ۳۵۱۔

②..... احناف کے نزدیک: چونکہ مقتدی کے لئے قراءت کرنا جائز نہیں نہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت لہذا یہ سکتہ نہ کیا جائے۔

③..... احناف کے نزدیک: امام جب قراءت کرے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۱۹)

کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ نے سورتوں کے آغاز سے کچھ پڑھنے اور باقی کو چھوڑ دینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سورہ یونس کا کچھ حصہ پڑھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کَلِيمُ اللَّهُ عَلَي نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور فرعون کے ذکر پر پہنچے تو قراءت منقطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے۔“<sup>(۱)</sup> نیز یہ بھی مروی ہے کہ نماز فجر میں سورہ بقرہ کی یہ آیت: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾ (پ ۱، البقرة: ۱۳۶) پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ ال عمران کی یہ آیت پڑھی: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾ (پ ۳، ال عمران: ۵۳)۔“<sup>(۲)</sup>

نیز حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کو سنا کہ وہ کہیں کہیں سے پڑھتے۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے عرض کی: ”میں طیب کو طیب سے ملاتا ہوں۔“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اچھا کیا۔“<sup>(۳)</sup>

نماز ظہر میں طویل مفصل (سورہ حجرات سے سورہ بروج تک) میں سے تیس آیات کی تلاوت کرے۔ عصر میں اس کا نصف (یعنی اوساط مفصل جو سورہ بروج سے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ تَكُنْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَكْفُرُونَ بِهِمْ فَأَبْهَتُوا بِهِمْ فَاتُخَدَعُوا بِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴿۱۰۰﴾ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ تَكُنْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَكْفُرُونَ بِهِمْ فَأَبْهَتُوا بِهِمْ فَاتُخَدَعُوا بِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴿۱۰۰﴾ سے آخر تک) پڑھے۔

## سرکارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی آخری نماز:

رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے آخری نماز مغرب کی پڑھی، اس میں آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سورہٴ مرسلات کی تلاوت کی، اس کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی۔<sup>(۴)</sup>

- ①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون في كتاب حكم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۲۔
- ②..... صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب الجمع بين السورتين..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۳۔
- ③..... سنن ابى داود، كتاب التطوع، باب فى تخفيفها، الحديث: ۱۲۶، ج ۲، ص ۳۱۔
- ④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون في كتاب حكم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۲۔
- ..... سنن ابى داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة..... الخ، الحديث: ۱۳۳، ج ۲، ص ۵۵، مفهوماً۔
- ④..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة فى الصبح، الحديث: ۴۷۲، ص ۲۴۱۔

## خلاصہ کلام:

نماز مختصر پڑھنا بہتر ہے خصوصاً جب لوگ زیادہ ہوں۔ مختصر پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں اور جب خود نماز پڑھے تو جو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔“ (۱)

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے نمازِ عشا پڑھاتے ہوئے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو ایک شخص نے علیحدہ ہو کر نمازِ مکمل کی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا معاذ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے معاذ! کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، سورۃ طارق اور وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا پڑھا کرو۔“ (۲)

## تیسری فصل: ارکانِ نماز میں امام و مقتدی کی ذمہ داریاں

نماز کے ارکان میں امام و مقتدی پر تین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں:

﴿1﴾..... امام کو چاہئے کہ رکوع و سجود مختصر کرے کہ تین تسبیحات سے زائد نہ کہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ”میں نے سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نماز سے بڑھ کر کسی کی نماز کو مکمل اور مختصر نہیں دیکھا۔“ (۳)

یہ بھی مروی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے امیرِ مدینہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ کے پیچھے نماز پڑھی تو فرمایا: ”میں نے سوائے اس نوجوان کے کسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز حضورِ نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نماز کے زیادہ مشابہ ہو۔“ (۴)

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے یہ بھی مروی ہے کہ ”ہم عمر بن عبدالعزیز عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيزِ

①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب امر الأئمة بتخفيف..... الخ، الحديث ۱۸۳-۱۸۶، ص ۲۴۴۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، الحديث ۱۷۸، ص ۲۴۲، بتقدم و تاخر۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب امر الأئمة بتخفيف الصلاة..... الخ، الحديث ۱۸۹، ص ۲۴۴۔

④..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، الحديث ۸۸۸، ج ۱، ص ۳۳۷، بتقدم و تاخر۔



کے پیچھے (رکوع و سجود میں) دس دس بار تسبیح پڑھ لیتے تھے۔

ایک مجمل روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رَضُوْا اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ فرماتے ہیں: ”ہم حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اقتدا میں نماز پڑھتے تو رکوع و سجود میں دس دس بار تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے۔“ (۱)

دس دس بار تسبیحات پڑھنا اچھا ہے لیکن جب مجمع کثیر ہو تو تین بار تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ نیز جب مقتدی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے خود کو دین کے لئے وقف کر رکھا ہے تو دس دس بار تسبیحات پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مختلف روایات میں تطبیق ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے امام کو ”سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہ“ کہنا چاہئے۔

﴿2﴾..... دوسری ذمہ داری مقتدی کی ہے۔ اسے چاہئے کہ رکوع و سجود میں امام کے برابر کھڑا نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ مقتدی سجدے کے لئے اس وقت جھکے جب امام کی پیشانی جائے سجدہ پر پہنچ جائے کہ صحابہ کرام رَضُوْا اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ حضور پر نور، شافعِ یوم النشور صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اقتدا میں اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ (۲)

نیز مقتدی رکوع کے لئے اس وقت جھکے جب امام رکوع میں برابر ہو جائے۔

## بااعتبار ثواب لوگوں کی نماز:

منقول ہے کہ لوگ (بااعتبار ثواب) تین اقسام میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں: (۱)..... ایک گروہ پچیس نمازوں کے (ثواب کے) ساتھ نماز سے نکلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے بعد رکوع و سجود کرتے ہیں۔ (۲)..... ایک گروہ ایک نماز کے ساتھ فارغ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی برابری کرتے ہیں۔ (۳)..... ایک گروہ بغیر (کوئی ثواب پائے) نماز سے نکلتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو (رکوع و سجود وغیرہ میں) امام سے سبقت لے جاتے ہیں۔

## امام کا کسی آنے والے کے لئے رکوع کو طول دینا:

کسی آنے والے کے لئے امام کا رکوع کو لمبا کر دینا تا کہ وہ جماعت اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت کو پالے جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ مقتدیوں پر گراں نہ

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب مقدار رکوع و السجود، الحدیث: ۸۸، ج ۱، ص ۳۳۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب متابعة الامام..... الخ، الحدیث: ۱۹، ص ۲۲۶۔

گزرے کیونکہ ان کے حق کی رعایت یہ ہے کہ نماز کو طویل نہ کیا جائے<sup>(۱)</sup>۔

﴿3﴾..... طوالت سے بچتے ہوئے دعائے تشہد کے کلمات میں زیادتی نہ کرے۔ نیز دعائیں خود کو خاص نہ کرے بلکہ جمع کے صیغہ کے ساتھ یوں کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہماری مغفرت فرما۔ یوں نہ کہے: اغْفِرْ لِي یعنی میری مغفرت فرما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا خاص اپنے لئے دعا کرنا مکروہ ہے۔ تشہد میں ان پانچ مسنون کلمات کو پڑھنے میں حرج نہیں: نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاِذَا ارْتَدَّتْ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا بِكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ فِيْهِ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہم عذابِ جہنم اور عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، زندگی و موت اور مسیحِ دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں موت دے دینا۔<sup>(۲)</sup>

منقول ہے کہ دجال کو اس لئے مسیح کہتے ہیں کہ وہ زمین پر بہت زیادہ فاصلہ طے کرے گا یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ

کانا ہوگا۔

﴿..... تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿..... صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا.....﴾

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت جلد اول صفحہ 630 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نقل فرماتے ہیں: امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو طویل دینا مکروہ تحریمی ہے، اگر اس کو پچھانتا ہو اور اس کی خاطر مد نظر ہو اور اگر نماز پر اس کی اعانت کے لئے بقدر ایک یا دو تسبیح کے طول دیا تو کراہت نہیں۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۴، بالفاظ قریب۔

سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ ص، الحدیث ۳۲۴، ج ۵، ص ۱۵۹۔

## چوتھی فصل: سلام پھیرنے کے بعد امام کی ذمہ داری

نماز سے خارج ہوتے وقت امام پر تین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں:

﴿1﴾..... دونوں سلام پھیرتے وقت مقتدیوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔

﴿2﴾..... سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے کہ سرکار مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم،<sup>(۱)</sup> امیر المؤمنین حضرت

سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ایسا ہی کرتے تھے۔ پھر نفل نماز

دوسرے مقام پر پڑھے۔ اگر اس کی اقتدا میں عورتیں بھی ہوں تو ان کے چلے جانے کے بعد کھڑا ہو۔<sup>(۲)</sup>

مشہور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا

کی مقدار ٹھہرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یعنی اے اللہ عزوجل! تو سلامتی

عطا فرمانے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے عزت و جلال والے! تو برکت والا ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿3﴾..... سلام کے بعد جب پھرے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور امام کے پھرنے سے پہلے مقتدی کا اٹھنا مکروہ ہے۔

حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے

نماز پڑھی جب دونوں نے سلام پھیرا تو امام سے کہا: ”آپ کی نماز کتنی اچھی اور مکمل ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے کہ جب

آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔“ پھر لوگوں سے کہا: ”تمہاری نماز کتنی اچھی ہے مگر تم اپنے امام

کے پھرنے سے پہلے پھر گئے۔“<sup>(۴)</sup>

پھر امام دائیں بائیں جدھر چاہے پھر جائے۔ البتہ دائیں طرف پھرنا زیادہ اچھا ہے۔ یہ تمام نمازوں کے اہم

مسائل ہیں۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب مکث الامام فی صلاة..... الخ، الحدیث ۸۴۹، ج ۱، ص ۲۹۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۸، مفہومًا۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۸۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والاربعون فی کتاب حکم الامام..... الخ، ج ۳، ص ۳۵۷۔

## نماز فجر میں دعائے قنوت

نماز فجر میں قنوت کا اضافہ کرے (۱)۔ پھر امام یوں کہے: اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا لِعِنِّي اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یوں نہ کہے: اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِي یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے ہدایت عطا فرما۔ مقتدی امین کہے۔ جب امام یہ کلمات: اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا تُقْضٰى عَلَيْكَ یعنی بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کہے تو مقتدی امین نہ کہے کیونکہ یہ ثنا ہے، لہذا اس کے ساتھ یا تو یہی الفاظ کہے یا یوں کہے: بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ یعنی ہاں! اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ یا کہے: صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ یعنی تو سچا اور نیکو کار ہے۔ یا اس جیسے دیگر الفاظ کہے۔ قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق حدیث پاک مروی ہے۔ (۲)

اور جب حدیث صحیح ہو تو ہاتھ اٹھانا مستحب ہوگا اگرچہ یہ تشہد میں مانگی جانے والی دعاؤں کے خلاف ہے کیونکہ تشہد کی دعا کے سبب ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے بلکہ اس میں ہاتھ رکھنے پر اعتماد ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہے اس لئے کہ تشہد میں ہاتھوں کو مخصوص طریقے پر رانوں پر رکھنا ہے اور یہاں اس کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں تو ممکن ہے کہ قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ مقرر ہو کیونکہ یہ دعا کے لائق ہے۔

مذکورہ تمام امور امامت کے آداب سے متعلق ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی توفیق دینے والا ہے۔



①..... احناف کے نزدیک: وتر کے سوا کسی اور نماز میں قنوت پڑھنے کا حکم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 657 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ نقل فرماتے ہیں: وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ رکوع کے قبل قنوت پڑھے۔

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في القنوت، الحديث: ۳۱۴، ج ۲، ص ۲۹۹۔

باب نمبر ۵: **جمعة المبارک کا بیان** (اس میں چار فصلیں ہیں)

## جمعه کے فضائل، آداب، سنتیں اور شرائط

پہلی فصلی: **جمعه کی فضیلت**

جان لیجئے کہ یہ عظیم دن ہے۔ اس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسلام کو عزت بخشی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

إِذْ أُنزِلَتْ آيَاتُ الْوَيْلِ مِنَ رَبِّكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ (ب، ۲۸، الجمعة: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیوی امور میں مشغول ہونے کو اور ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا جو جمعہ کی طرف کوشش سے روکتا ہے۔

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تم پر اس دن

اور اس مقام پر جمعہ فرض فرمایا۔“ (۱)

## بلا عذر شرعی جمعہ نہ پڑھنے کا وبال:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

فرمایا: ”جس نے بلا عذر (شرعی) تین جمعے ترک کئے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔“ (۳)

ایک شخص حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا کے پاس کسی مرنے والے کے متعلق یہ پوچھنے

کے لئے حاضر ہوا کہ وہ نماز جمعہ اور باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: ”وہ جہنم میں جائے

گا۔“ وہ پورا مہینہ آپ کے پاس آکر اس کے متعلق پوچھتا رہا اور آپ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة..... الخ، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸، ج ۲، ص ۵، بتقدم و تاخر۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند المکین، حدیث ابی الجعد الضمری، الحدیث: ۱۵۳۹، ج ۵، ص ۲۸۰۔

③..... مجمع الزوائد، کتاب الصلاة، باب فیمن ترک الجمعة، الحدیث: ۳۱، ج ۲، ص ۲۲۲۔

حدیث پاک میں ہے کہ ”بے شک تورات و انجیل والوں کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس سے منہ موڑ لیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اس امت کے لئے موخر کیا اور اسے ان کے لئے عید بنایا۔ پس یہ امت سب لوگوں سے سبقت والی ہے اور تورات و انجیل والی امتیں اس کے تابع ہیں۔“ (۱)

## یَوْمُ الْمَزِيدِ:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهْلِيلِي میں سفید آئینہ لئے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا: ”یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب نے فرض فرمایا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے عید بن جائے۔“ میں نے پوچھا: ”اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کے لئے ایک بھلائی والی گھڑی ہے (۲)، جس نے اس میں ایسی بھلائی کی دعا کی جو اس کی قسمت میں تھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ وہ اسے عطا فرمائے گا یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لئے جمع کی جائے گی۔ یا اس نے ایسی برائی سے پناہ مانگی جو اس کے لئے لکھ دی گئی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس سے بڑی برائی سے پناہ عطا فرمائے گا اور یہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور آخرت میں ہم اسے يَوْمُ الْمَزِيدِ (یعنی زیادہ ثواب کا دن) کے نام سے پکارتے ہیں۔“ میں نے پوچھا: ”اس کی کیا وجہ ہے؟“ تو انہوں نے کہا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ عَلِيمِينَ سے اپنی شایان شان کرسی پر نزول فرمائے گا اور لوگوں کے لئے اپنی تجلّی ظاہر فرمائے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔“ (۳)

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، الحدیث: ۸۷، ج ۲، ص ۳۰۳، مفہوماً۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۷۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۷۔

③..... مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج ۲، ص ۳۱۹ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: وہ ساعت قبولیت دعا کی ہے رات میں روزانہ وہ ساعت آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، یقیناً نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔

مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن ان کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی (۱) اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک یَوْمُ الْمَزِيد (یعنی زیادہ ثواب کا دن) ہے۔ آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں اور یہ جنت میں دیدار خداوندی کا دن ہے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر جمعہ کے دن چھ لاکھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔“ (۳) حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو تمام دن سلامتی سے گزرتے ہیں۔“ (۴)

ایک روایت میں ہے کہ ”بے شک ہر روز زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو ہاں! جمعہ کے دن پڑھو کیونکہ یہ تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم کو نہیں جھونکا جاتا۔“ (۵) حضرت سیدنا کعب الاحبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شہروں میں مکہ مکرمہ زادھا

①..... مِرَاةُ الْمُنَاجِيحِ، ج 2، ص 319 پر ہے: پہلے بھی بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے اور آئندہ نہایت اہم اور سنگین واقعہ وقوع قیامت کا اسی دن ہوگا۔ اس لئے یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ خیال رہے کہ آدم عَلَيْهِ السَّلَام کا جنت میں جانا بھی اللہ کی رحمت تھی اور وہاں سے تشریف لانا بھی کیونکہ وہاں سیکھنے گئے تھے یہاں سکھانے اور خلافت کرنے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دن میں دینی اہم واقعات ہو چکے ہوں وہ دن تا قیامت افضل ہو جاتا ہے اور اس دن میں خوشیاں منانا عبادتیں کرنا بہتر ہوتا ہے دیکھو ماہ رمضان و شب قدر اس لئے افضل ہیں کہ ان میں قرآن شریف نازل ہوا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شب ولادت شب معراج وغیرہ بہت افضل راتیں ہیں ان میں عبادت کرنا خوشیاں منانا بہتر ہے اس کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، الحديث: 1، ص 225، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج 1، ص 114، بتقدم وتأخر۔

③..... شعب الايمان للبيهقى، باب فى الصلوات، فضل قراءة سورة الكهف..... الخ، الحديث: 111، ج 3، ص 114۔

④..... شعب الايمان للبيهقى، باب فى الصيام، فصل فى ليلة القدر، الحديث: 370، ج 3، ص 340۔

⑤..... سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث: 1083، ج 1، ص 203، مفهوماً۔

اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا كَوْمُهَيْنُوں میں ماہ رمضان المبارک کو، دنوں میں جمعہ کو اور راتوں میں شبِ قدر کو فضیلت بخشی۔“ (۱)  
 نیز منقول ہے کہ ”جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے کوڑے ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں سلامتی ہو، سلامتی ہو  
 یہ عمدہ دن ہے۔“ (۲)

## جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت:

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال ہو اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس کے لئے شہید کا اجر لکھتا اور اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔“ (۳)

### ..... ایصالِ ثواب کا انتظار.....

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ارشادِ مشکبار ہے: ”مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و مافیہا (یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے) سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ (یعنی تحفہ) کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، زندوں کا ہدیہ مردوں کے لئے دعائے مغفرت کرنا ہے۔“ (شعب الایمان، الحدیث ۷۹۰۵، ج ۶، ص ۲۰۳)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۷، دون من اللیالی لیلة القدر۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۷، دون کتب اللہ لہ اجر شہید۔

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث ۶۶۵، ج ۲، ص ۵۹۰۔

شرح الصدور، باب من لایستل فی القبر، ص ۱۵، دون لیلة الجمعة۔

④..... مِرَاةُ الْمُنَاجِحِ، ج ۲، ص 328 پر ہے: جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن مرنے والے مومن سے نہ حسابِ قبر ہونہ عذابِ قبر۔ کیونکہ

اس دن کی موت شہادت کی موت ہے اور شہید حساب و عذاب سے محفوظ ہے۔ جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔



## جمعہ کی شرائط

دوسری فصل:

جان لیجئے کہ نمازِ جمعہ کی وہی شرائط ہیں جو دیگر تمام نمازوں کی ہیں البتہ یہ چھ شرائط میں دیگر نمازوں سے ممتاز ہے۔

## جمعہ صحیح ہونے کی شرائط (۱):

﴿1﴾..... **وقت:** اگر امام نے عصر کے وقت میں نمازِ جمعہ کا سلام پھیرا تو نماز جمعہ فوت ہوگئی اور اس پر لازم ہے کہ ظہر کی چار رکعتیں (قضا) پڑھے اور مسبوق کے آخری رکعت وقت کے بعد ادا کرنے میں اختلاف ہے۔

﴿2﴾..... **مکان:** صحراؤں، میدانوں اور خیموں کے درمیان جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ ایک جامع جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں کی بستی غیر منقولہ ہو اور کم از کم ایسے 40 آدمیوں پر مشتمل ہو جن پر جمعہ فرض ہوتا ہو اور اس میں دیہات شہر کی طرح ہے۔ بادشاہ کی موجودگی یا اس کی اجازت شرط نہیں لیکن اس سے اجازت لینا پسندیدہ ہے۔

﴿3﴾..... **تعداد:** 40 آدمیوں سے کم کے ساتھ جمعہ منعقد نہیں ہوتا اور ان کے لئے شرط ہے کہ وہ سب مرد، مکلف، آزاد اور مقیم ہوں گرمی، سردی میں وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتے ہوں۔ اگر کم ہوں کہ خطبہ یا نماز میں تعداد پوری نہ ہو تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں، اول تا آخر پوری تعداد ہونا ضروری ہے۔

﴿4﴾..... **جماعت:** اگر چالیس آدمیوں نے ایک گاؤں یا شہر میں علیحدہ علیحدہ جمعہ ادا کیا تو ان کا جمعہ صحیح نہیں۔ لیکن مسبوق نے جب ایک رکعت پائی تو اس کے لئے انفرادی طور پر دوسری رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اگر اس نے دوسری رکعت کا رکوع نہ پایا تو اقتدا کرے اور ظہر کی نیت کرے اور جب امام سلام پھیر دے تو ظہر کی نماز مکمل کرے (۲)۔

﴿5﴾..... اس شہر میں کسی اور جگہ جمعہ کی نماز نہ پڑھی گئی ہو: اگر سب لوگوں کا ایک جامع مسجد میں جمع ہونا مشکل

①..... احناف کے نزدیک: جمعہ پڑھنے کے لئے چھ شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو ہوگا ہی نہیں۔ (۱)..... مصر (شہر) یا فائے مصر (۲)..... سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا (۳)..... وقت ظہر (۴)..... خطبہ (۵)..... جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مرد (۶)..... اذن عام۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۶۲ تا ۷۷)

**نوٹ:** مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا مطالعہ کیجئے۔

②..... احناف کے نزدیک: جس نے جمعہ کا قعدہ پالی یا سجدہ سہو کے بعد شریک ہوا اسے جمعہ مل گیا۔ لہذا اپنی دوہی رکعتیں پوری

کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۷۷)

ہو تو ضرورت کے مطابق دو، تین یا چار مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو وہی جمعہ درست ہے جہاں سب سے پہلے نیت کی گئی ہو۔ ضرورت کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ افضل امام کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو زیادہ قدیم مسجد میں ادا کرے۔ اگر دونوں مسجدیں بھی برابر ہوں تو قریبی مسجد میں پڑھے اور لوگوں کی کثرت کی بھی فضیلت ہے اس کا بھی لحاظ رکھے (کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں پڑھے)۔

﴿6﴾..... دو خطبے: یہ دونوں فرض ہیں۔ ان میں قیام اور دونوں کے درمیان بیٹھنا فرض ہے۔ پہلے خطبہ میں چار چیزیں ضروری ہیں: (۱)..... تمجید اس کی کم سے کم مقدار الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔ (۲)..... حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر درود و سلام پڑھنا۔ (۳)..... اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سے ڈرنے کی وصیت کرنا۔ (۴)..... قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا۔ اسی طرح دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں ضروری ہیں: مگر اس میں قراءت کی جگہ دعا کرنا ہے۔ چالیس آدمیوں کا خطبہ سننا واجب ہے۔

## جمعہ کی سنتیں:

جب سورج ڈھل جائے، مؤذن اذان کہہ دے اور امام منبر پر بیٹھ جائے تو سوائے تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے<sup>(۱)</sup>۔ خطبہ شروع ہونے تک کلام منع نہیں۔ خطیب جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو انہیں سلام کرے<sup>(۲)</sup> اور لوگ سلام کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو تو خطیب لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ تلوار، عصا یا منبر پر رکھے تاکہ کوئی لغو کام نہ کر سکے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے۔ دو خطبے کہے ان کے درمیان مختصر جلسہ کرے۔ خطبہ میں اجنبی الفاظ استعمال نہ کرے۔ الفاظ کو نہ زیادہ لمبا کرے اور نہ ہی گانے کے انداز میں پڑھے۔ نیز خطبہ مختصر فصیح و بلیغ ہو اور دوسرے خطبے میں کوئی آیت پڑھے کہ مستحب ہے۔ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو آنے والا سلام نہ کرے، اگر سلام کر دے تو جواب کا مستحق نہیں، البتہ اشارے سے۔

①..... احناف کے نزدیک: جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک نماز واذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ یوہیں جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلد جلد پوری کر لے۔ (بہار شریعت، ج ۱، حصہ ۴، ص ۷۷۴)

②..... احناف کے نزدیک: خطیب کے لئے سنت یہ ہے کہ سلام نہ کرے۔

(النہر الفائق شرح کنز الدقائق، کتاب الصلوٰۃ، بابصلوٰۃ الجمعة، ج ۱، ص ۳۵۹)

سے جواب دینا مستحسن ہے اور اسی طرح چھینکنے والے کے جواب میں يَرْحَمُكَ اللهُ بھی نہ کہا جائے<sup>(۱)</sup>۔ یہ جمعہ کے صبح ہونے کی شرائط ہیں۔

## جمعہ واجب ہونے کی شرائط:

نماز جمعہ مرد، عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد اور ایسی بستی میں مقیم پر واجب ہے جس میں مذکورہ صفات کے حامل 40 آدمی رہتے ہوں یا شہر کے مضافات کی بستی ہو جہاں اذان کی آواز پہنچتی ہو جبکہ شور نہ ہو اور مؤذن کی آواز بلند ہو۔ کیونکہ اللهُ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ<sup>ط</sup> (پ ۲۸، الجمعة: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

## ترک جمعہ کے پانچ اعذار:

(۱)..... (تیز) بارش (۲)..... کیچڑ (۳)..... گھبراہٹ (۴)..... مرض (۵)..... مریض کی عیادت کے لئے جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے جبکہ کوئی اور تیمارداری کرنے والا نہ ہو۔ پھر ان عذر والوں کے لئے مستحب ہے کہ ظہر کی نماز مؤخر کریں یہاں تک کہ لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں۔ اگر جمعہ کی نماز میں بیمار، مسافر، غلام یا عورت آجائیں تو ان کی نماز جمعہ صحیح ہوگی اور ظہر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 774 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نقل فرماتے ہیں: جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔

## تیسری فصل: عادات کی ترتیب کے مطابق آدابِ جمعہ کا بیان

(یہ فصل دس امور پر مشتمل ہے)

### ﴿1﴾..... جمعرات سے جمعہ کی تیاری کرنا:

(نماز جمعہ پڑھنے والا) جمعہ کی تیاری کے عزم اور اس کی فضیلت کے استقبال کے طور پر جمعرات کو ہی تیاری شروع کر دے۔ جمعرات کو نماز عصر کے بعد دعا و استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ یہ جمعہ کے دن کی مقبول گھڑی کے مقابل کا وقت ہے۔

بعض بزرگانِ دین رَجَمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ فرماتے ہیں: ”بندوں کی روزی کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مزید فضل فرماتا ہے اور یہ فضل وہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو جمعرات کی شام اور جمعہ کے دن سوال کرے۔“<sup>(۱)</sup>

اس دن اپنے کپڑے دھوئے، انہیں پاک صاف کرے، اگر خوشبو موجود نہ ہو تو اسے حاصل کرے، دل کو ان کاموں میں مشغول ہونے سے روکے جو جمعہ کے لئے جلدی جانے سے مانع ہیں، شب جمعہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کرے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن صرف جمعہ کا نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ ملا لے کیونکہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ شب جمعہ عبادت میں گزارے کیونکہ جمعہ کی رات بڑی فضیلت والی ہے اور اس پر جمعہ کے دن کی فضیلت کا اضافہ سونے پہ سہاگہ ہے۔ شب جمعہ یا روز جمعہ بیوی سے ہم بستری کرے کہ بعض علمائے کرام رَجَمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام نے اسے مستحب کہا ہے اور اس فرمانِ مصطفیٰ سے یہی مراد لیا ہے۔ چنانچہ،

ارشادِ گرامی ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جو (جمعہ کے لئے) پہلے آئے اور جلدی کرے، غسل کرانے اور خود غسل کرے۔“<sup>(۲)</sup> غسل کرانے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے لئے غسل کا سبب پیدا کرے (یعنی جماع کرے)۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب کپڑے دھونا ہے اور یہ ”غَسَلَ“ کے بجائے تخفیف کے ساتھ ”غَسَلَ“ بھی مروی ہے اور ”اغْتَسَلَ“ کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کو دھوئے۔ اس کے ساتھ استقبالِ جمعہ کے آداب مکمل ہو جاتے

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۰۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الطہارة، باب فی الغسل یوم الجمعة، الحدیث: ۳۲، ج ۱، ص ۱۵۸۔

ہیں اور بندہ ان غافل لوگوں سے نکل جاتا ہے کہ جب وہ صبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ”یہ کون سا دن ہے؟“  
 بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِیْنُ فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن زیادہ مکمل حصے والا شخص وہ ہے جو ایک دن پہلے  
 سے ہی اس کا انتظار کرتا اور اس کی رعایت کرتا ہے اور سب سے کم حصے والا شخص وہ ہے جو صبح کے وقت کہتا ہے کہ یہ  
 کون سا دن ہے؟“ اور بعض بزرگ تو نمازِ جمعہ پانے کے لئے جمعہ کی رات بھی مسجد میں گزارتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## ﴿2﴾..... طلوع فجر کے بعد غسل کرنا:

اگر جلدی مسجد میں نہ جاسکے تو اس کے قریب قریب جانا بہتر ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرنے کا وقت جمعہ کے  
 قریب ہو۔ غسل کرنا بہت پسندیدہ ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے حدیث کی بنا  
 پر اسے واجب قرار دیا ہے۔

## غسل جمعہ کے متعلق روایات:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ  
 پرواجب ہے۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا نافع رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت کیا ہے کہ  
 ”جو جمعہ کے لئے آئے، اسے چاہئے کہ غسل کرے۔“<sup>(۳)</sup>

نیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”جو مرد و عورت جمعہ کے لئے حاضر ہو اسے چاہئے کہ غسل کرے۔“<sup>(۴)</sup>  
 اہلِ مدینہ جب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا: ”تم اس شخص سے بھی برے ہو  
 جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔“<sup>(۵)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۷، مفہومًا۔

②..... صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب غسل الجمعة... الخ، الحديث: ۸۴۶، ص ۴۲۲۔

③..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ذكر الامر بغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۱۲۲، ج ۲، ص ۲۶۳۔

④..... الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ذكر الاستحباب للنساء..... الخ، الحديث: ۱۲۲، ج ۲، ص ۲۶۳۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۸۔

## روزِ جمعہ غسل نہ کرنے کا جواز:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خطبہ دے رہے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حاضر ہوئے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”(اے عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ!) کیا یہ (جمعہ کے لئے) آنے کا وقت ہے؟“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: ”میں نے اذان سننے کے بعد صرف وضو کیا اور چلا آیا۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”صرف وضو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔“ (۱)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے وضو کرنے سے غسل نہ کرنے کا جواز معلوم ہو گیا۔ نیز اس کے متعلق حدیث پاک بھی مروی ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو جمعہ کے دن وضو کرے تو خیر اور اچھا کیا اور جو نہائے تو نہانا بہت اچھا ہے۔“ (۲)

## ایک ہی نیت کافی ہے:

جمعہ کے دن غسل جنابت کرنے والا غسل جمعہ کی نیت سے اپنے بدن پر دوبارہ پانی بہائے، اگر ایک ہی غسل پر اکتفا کیا تب بھی کافی ہے اور دونوں غسلوں کی نیت کر لے گا تو اسے فضیلت حاصل ہو جائے گی اور غسلِ جمعہ غسلِ جنابت میں داخل ہو جائے گا۔

## حکایت: بیٹے کی تربیت:

(جمعہ کے دن) ایک صحابی اپنے بیٹے کے پاس تشریف لائے وہ غسل کئے ہوئے تھے پوچھا: ”(اے بیٹے!) کیا یہ جمعہ کا غسل ہے؟“ عرض کی: ”نہیں! غسلِ جنابت ہے۔“ تو انہوں نے بیٹے سے فرمایا دوبارہ غسل کرو (۳) اور ہر بالغ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۱۸۔

صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديد ۸۴، ج ۱، ص ۳۰۴۔

②..... سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب فى الرخصة فى ترك الغسل..... الخ، الحديد ۳۵، ج ۱، ص ۱۶۱۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۱۹۔

پر غسل جمعہ واجب ہونے کے متعلق حدیث بیان فرمائی۔<sup>(۱)</sup>

## دوبارہ غسل کا حکم دینے کی توجیہ:

انہوں نے دوبارہ غسل کا حکم اس لئے دیا تھا کہ ان کے بیٹے نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی۔ یہ کہنا بعید نہیں کہ مقصود پاکیزگی ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہوگئی تھی لیکن نیت نہ کرنا وضو پر اعتراض کا باعث بنے گا کیونکہ شریعت نے نیت کو ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ لہذا اس کی فضیلت طلب کرنا ضروری ہے اور جس نے جمعہ کا غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا تو اس کا غسل باطل نہیں ہوگا صرف وہ وضو کر لے لیکن اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے (یعنی غسل کے بعد حتی الامکان حدث سے بچے)۔

## ﴿3﴾..... زینت اختیار کرنا:

جمعہ کے دن زینت اختیار کرنا مستحب ہے۔ نیز یہ تین چیزوں میں موجود ہوتی ہے: (۱)..... لباس (۲)..... جسمانی صفائی اور (۳)..... خوشبو لگانا۔ مسواک کرنا، بال کٹوانا، ناخن ترشوانا، مونچھیں پست کرنا جسمانی صفائی میں شامل ہے۔ نیز کتاب الطہارت میں بیان کردہ تمام چیزیں بھی جسمانی صفائی میں شامل ہیں۔

## روز جمعہ ناخن تراشنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ عزوجل اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

اگر جمعرات یا بدھ کو حمام میں جائے تب بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اس دن اچھی خوشبو لگائے جو اس کے پاس ہوتا کہ وہ ناپسندیدہ بو پر غالب آجائے اور قریب بیٹھے ہوئے حاضرین کے دماغ کو بھی خوشبو اور آرام پہنچائے۔

## مردوں اور عورتوں کی پسندیدہ خوشبو:

مردوں کی پسندیدہ خوشبو وہ ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ پوشیدہ ہو اور عورتوں کی پسندیدہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ

①..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب طیب السواد یوم الجمعة، الحدیث: ۸۴، ص ۲۲۲۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۱۹۔

ظاہر اور بوشیدہ ہو۔ حدیث میں اسی طرح مروی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## غم دور اور عقل میں اضافہ ہو:

حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی فرماتے ہیں: ”جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائے اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔“

جہاں تک کپڑوں کا معاملہ ہے تو سفید کپڑے پسندیدہ لباس ہے کیونکہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کو سفید کپڑے پسند ہیں۔ لباسِ شہرت نہ پہننے اور کالے کپڑے پہننا سنت نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت ہے بلکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کے ایک گروہ نے کالے کپڑے پہننے والے کی طرف دیکھنا بھی ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے بعد نبی ایجاد ہے۔ جمعہ کے دن عمامہ باندھنا مستحب ہے۔

## جمعہ کے دن عمامہ باندھنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا واغلہ بن اسقع رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

اگر گرمی تنگ کرے تو (عمامہ) نماز سے پہلے اور بعد اُتارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن گھر سے جمعہ کے لئے جاتے ہوئے، نماز کے وقت، امام کے منبر پر چڑھتے وقت اور خطبہ کے وقت نہ اُتارے۔

## ﴿4﴾..... جامع مسجد کی طرف جلدی جانا:

مستحب یہ ہے کہ ایسی جامع مسجد میں جائے جو دو یا تین فرسخ (ایک فرسخ آٹھ کلومیٹر کا ہوتا ہے یعنی 24 کلومیٹر) دور ہو۔ نیز صبح سویرے یعنی صبح صادق کے فوراً بعد جائے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے لئے جاتے ہوئے خشوع خضوع اور عاجزی اپنائے۔ نماز کے وقت تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہے اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے جمعہ کے لئے حاضری کی جو ندا آئی ہے اس کی طرف اور مغفرت و رضائے الہی کی طرف جلدی کرنے کا ارادہ کرے۔

①..... سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب من کرهه، الحدیث ۴۰۴۸، ج ۴، ص ۶۸، مفہوماً۔

②..... الکامل فی صعفاء الرجال، ایوب بن مدرک الحنفی، ج ۵، ص ۵، عن ابی درداء۔



## جمعہ کے لئے جلد آنے کی فضیلت:

سرکارِ مدینہ، سلطانِ باقرینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشادِ رحمتِ بنیاد ہے: ”(نمازِ جمعہ کے لئے) پہلی ساعت میں آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے۔ دوسری ساعت میں آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ تیسری ساعت میں آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرتا ہے۔ چوتھی ساعت میں آنے والا اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرتا ہے۔ پانچویں ساعت میں آنے والا اس کی مثل ہے جو اٹدھ صدقہ کرتا ہے اور جب امام (خطبہ کے لئے) بیٹھ جاتا ہے تو اعمالِ نامے لپیٹ دیئے جاتے اور قلمیں اٹھالی جاتی ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذکرِ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیا وہ صرف حق نماز کے لئے آیا اس کے لئے مزید کوئی فضیلت نہیں۔“<sup>(۱)</sup>

پہلی ساعت طلوعِ آفتاب تک ہے۔ دوسری ساعت سورج بلند ہونے تک۔ تیسری ساعت سورج کی روشنی پھیلنے تک ہے جب پاؤں جلنے لگیں۔ چوتھی اور پانچویں ساعت بڑی چاشت کے وقت سے زوال تک ہے۔ ان دونوں کی فضیلت (پہلی تین کی نسبت) کم ہے اور زوال کا وقت نماز کے حق کا وقت ہے، اس میں مزید کوئی فضیلت نہیں۔

## تین بہترین عمل:

سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تین عمل ایسے ہیں اگر لوگ جان لیں کہ ان میں کیا اجر ہے تو انہیں پانے کے لئے اونٹوں پر سوار ہو جائیں: (۱)..... اذان (۲)..... صفِ اوّل اور (۳)..... جمعہ کے لئے جلدی جانا۔“

حضرتِ سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلُ فرماتے ہیں: ”ان (یعنی حدیث میں مذکور تین اعمال) میں سے افضل جمعہ کے لئے جلدی جانا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

①..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب الطیب والسواک يوم الجمعة، الحدیث: ۸۵۸، ص ۴۲۳، باختصار۔

السنن الكبرى للبيهقي، کتاب الجمعة، باب فضل التكبير الى الجمعة، الحدیث: ۵۸۶، ج ۳، ص ۳۲۱، مفہومًا۔

②..... فتح الباری لابن رجب، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، ص ۳۵۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۸۔

## فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں:

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سے کون پہلے آیا اور کون بعد میں۔“<sup>(۱)</sup>

## فرشتوں کی دعا:

ایک روایت میں ہے کہ ”جب کوئی شخص جمعہ کے دن پیچھے رہ جاتا ہے اور فرشتے اسے نہیں پاتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں: فلاں کے ساتھ کیا ہوا اور کس وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا؟ پھر دعا کرتے ہیں: اے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! اگر وہ غریبی کی وجہ سے پیچھے رہا تو اسے مال دار کر دے۔ اگر بیماری کی وجہ سے پیچھے رہا تو اسے شفا یاب فرما۔ اگر کسی کام میں مشغولیت اس کے پیچھے رہ جانے کا سبب بنی تو اسے اپنی عبادت کے لئے فرصت عطا فرما۔ اگر کھیل کود کی وجہ سے پیچھے رہا تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔“<sup>(۲)</sup>

## پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ:

پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جاتا تھا وہ چراغ لئے ہوئے (نماز جمعہ کے لئے) جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑنا ہے۔<sup>(۳)</sup> افسوس! مسلمانوں کو کسی طرح یہود و نصاریٰ سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ نیز طلبگاران دنیا خرید و فروخت اور حصول نفع دنیوی کے لئے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے۔ نیز منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو سویرے سویرے نماز جمعہ کے لئے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

①..... روح البیان، الجزء الثامن والعشرون، سورة الجمعة، ۹، ص ۵۲۳۔

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب فضل التكبير الى الجمعة، الحديث: ۵۸۶، ج ۳، ص ۳۲۱، مفہومًا۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۷۔

عَنْهُ (ایک بار روز جمعہ) صبح سویرے جامع مسجد میں تشریف لائے تو تین آدمیوں کو موجود پایا جو جلدی کرنے میں ان سے سبقت لے گئے تھے۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ غَمَّكِينَ ہو گئے اور اپنے نفس کو عتاب کرتے ہوئے کہنے لگے: ”چار میں سے چوتھا۔“ حالانکہ چوتھا شخص جلدی کرنے میں پیچھے رہنے والا نہیں۔

### ﴿5﴾..... مسجد میں داخل ہونے کے آداب:

مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، نہ ان کے سامنے سے گزرے اور جلدی جانا اس بات کو آسان کر دے گا (کہ اسے گردنیں نہیں پھلانگنی پڑیں گی) نیز گردنیں پھلانگنے کے متعلق حدیث مبارکہ میں شدید وعید وارد ہے کہ ”ایسے شخص کو بروز قیامت (جہنم پر) پل بنایا جائے گا جسے لوگ روندیں گے۔“<sup>(۱)</sup>

### جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے پر وعید:

حضرت سیدنا ابن جریج رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے دیکھا یہاں تک کہ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نماز مکمل کر لی تو اس شخص کو دیدار سے نواز اور ملاقات کا شرف عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! تمہیں کس چیز نے آج ہمارے ساتھ جمع ہونے (یعنی نماز جمعہ ادا کرنے) سے روکا؟“ اس نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میں آپ کے ساتھ ہی تو تھا۔“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کیا ہم نے تمہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے نہیں دیکھا؟“<sup>(۲)</sup>

اس فرمان سے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس کا عمل ضائع ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟“ اس نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟“ ارشاد فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ تم دیر سے آئے اور لوگوں کو اذیت پہنچائی۔“<sup>(۳)</sup> یعنی جلدی آنے سے پیچھے رہ گئے اور

①..... سنن الترمذی، کتاب الجمعة، باب ماجاء فی کراهیة..... الخ، الحدیث ۵۱۴، ج ۲، ص ۴۸۔

②..... المعجم الاوسط، باب السین، من اسمہ سعید، الحدیث ۳۶۰، ج ۲، ص ۳۸۷، مفہومًا۔

③..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب تحطی رقاب الناس یوم الجمعة، الحدیث ۱۱۱، ج ۱، ص ۴۱۳۔

حاضرین کو تکلیف دی۔

بعض اوقات پہلی صف خالی ہوتی ہے۔ اس صورت میں بعد میں آنے والے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا جائز ہے کیونکہ انہوں نے خود اپنا حق ضائع کیا اور فضیلت کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”ان لوگوں کی گردنیں پھلانگو جو جمعہ کے دن جامع مساجد کے دروازوں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔“ (۱)

جب مسجد میں صرف نماز پڑھنے والے موجود ہوں تو سلام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ غیر محل میں جواب کا پابند کرنا ہے۔

### ﴿6﴾.....حاضرین کا ادب:

لوگوں کے سامنے سے نہ گزرے، ستون یا دیوار کے قریب بیٹھ جائے تاکہ لوگ بھی اس کے سامنے سے نہ گزریں۔ مقصود یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے لوگ نہ گزریں۔ اس سے نماز تو نہیں ٹوٹی لیکن یہ ممنوع ہے۔

### نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے:

حضور انور، شافع محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”انسان کے لئے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”انسان راکھ بن جائے جسے ہوائیں ادھر ادھر پھینک دیں یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔“ (۳)

نمازی کے آگے سے گزرنے والے اور راستے میں نماز پڑھنے والے یا گزرنے میں کوتاہی کرنے والے کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ ”اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اور اس مقام پر نماز پڑھنے والا جانتا کہ ان

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۴۔

②..... صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب اثم المارّين بىدى المصلّى، الحديث: ۵۱، ج، ص ۱۹۰۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۳، ”عاما“ بدله ”سنة“۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۳، ”عاما“ بدله ”سنة“۔

التمهيد لما فى المواطن من المعانى والمسائيد، ابو النضر مولى عمر بن عبید اللہ، ص ۸، ص ۷۸۔

دونوں پر کیا گناہ ہے تو اس کے لئے نمازی کے آگے سے گزرنے سے 40 سال کھڑے رہنا بہتر ہوتا۔“ (۱)

ستون، دیوار، بچھی ہوئی جائے نماز نمازی کی حد ہے جو اس حد کے اندر سے گزرے تو نمازی کے لئے جائز ہے کہ اسے روک دے (۲)۔ چنانچہ،

آقائے دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”(کوئی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے تو) نمازی اسے دفع کرے (۳)، اگر نہ مانے تو پھر دفع کرے، پھر بھی نہ مانے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ شیطان ہے۔“ (۴)

حضرت سیڑنا ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آگے سے گزرنے والے کو دفع کرتے تھے حتیٰ کہ اسے گرا دیتے بلکہ کبھی تو وہ شخص آپ سے لپٹ جاتا اور مروان کے پاس آپ کی شکایت کرتا تو آپ بتاتے کہ ”حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس کا حکم دیا ہے۔“ (۵)

اگر نمازی کوئی ستون نہ پائے تو بطور سترہ اپنے سامنے کوئی چیز کھڑی کر دے جس کی اونچائی ایک ہاتھ ہوتا کہ یہ اس کی حد کی علامت بن جائے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اثم المارّين يدي المصلّي، الحديث: ۵۱، ج ۱، ص ۱۹۰۔

قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۳، دون ”سنة“۔

②..... احتاف کے نزدیک: نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 615 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوَى نقل فرماتے ہیں: میدان اور بڑی مسجد میں مصلیٰ (یعنی نمازی) کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں اگر سترہ نہ ہو۔

③..... مفسر شہیر حکیمہ الامّت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 2، ص 5 پر ”اسے دفع کرے“ کے تحت فرماتے ہیں: ”عمل قلیل سے ہاتھ کے ساتھ اسے ہٹا دے گزرنے نہ دے ظاہر یہ ہے کہ اُخْدٌ میں بچہ اور دیوانہ بھی داخل ہے ان کو بھی گزرنے سے روکا جائے یہاں سامنے سے گزرنے سے مراد ہے سترے اور نمازی کے درمیان گزرنا۔ کہ یہی ممنوع ہے۔“

④..... صحیح البخاری کتاب الصلاة، باب يرد مصلی من مرّين يديه، الحديث: ۵۰، ج ۱، ص ۱۸۹، باختصار۔

⑤..... المرجع السابق، مفہوم

## ﴿۷﴾..... پہلی صف کی کوشش کرنا:

پہلی صف پانے کی کوشش کرے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہم نے روایت ذکر کی۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ ”جس نے غسل کرایا اور غسل کیا، صبح سویرے اٹھا، امام کے قریب ہوا اور غور سے سنا تو یہ اس کے لئے دو جمعوں کے مابین اور مزید تین ایام کے گناہوں کا کفارہ ہے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اسے دوسرے جمعہ تک بخش دیتا ہے۔“

بعض روایات میں یہ قید ہے کہ ”وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔“ (۲)

## دور بیٹھنے میں ہی عافیت ہے:

پہلی صف پانے کے لئے تین باتوں سے غفلت نہ برتی جائے:

(۱)..... اگر خطیب کے قریب کوئی برائی دیکھے جسے بدلنے سے عاجز ہے مثلاً امام یا کسی اور نے ریشم پہن رکھا ہے یا کوئی شخص بہت زیادہ ہتھیار لئے نماز پڑھ رہا ہے جو نماز سے توجہ ہٹانے والے ہیں یا سنہری ہتھیار وغیرہ ہوں جس پر اعتراض کرنا اس شخص پر واجب ہے تو اس کے لئے پیچھے بیٹھنا سوچ منتشر ہونے سے بچنے اور زیادہ حفاظت کا باعث ہے کہ علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کی ایک جماعت نے سلامتی کے لئے ایسا کیا۔

## دلوں کا قرب مطلوب ہے نہ کہ اجسام کا:

حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي سے پوچھا گیا: ”ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سویرے آتے ہیں لیکن آخری صف میں نماز پڑھتے ہیں۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلِيهِ نے فرمایا: ”(قریب ہونے سے) دلوں کا قرب مطلوب ہے جسموں کا نہیں۔“ اس سے انہوں نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عمل دل کو زیادہ سلامت رکھتا ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۰۔

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل یوم الجمعة، الحدیث ۳۴۳، ج ۱، ص ۱۵۷، باختصار۔

المستدرک، کتاب الجمعة، من غسل یوم الجمعة..... الخ، الحدیث ۱۰۸، ج ۱، ص ۵۷۶، بتغییر الفاظ۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل یوم الجمعة، الحدیث ۳۴۳، ج ۱، ص ۱۵۹۔

## حکایت: کس حکمران سے دوری اختیار جائے:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَوِی نے حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کُوْمَنْبِر کے قریب دیکھا جو ابو جعفر منصور کا خطبہ سن رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”تمہارے اس کے قریب بیٹھنے نے میرے دل کو مشغول کر دیا، کیا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم ایسی بات سنو جس کا انکار کرنا تم پر لازم ہے لیکن تم انکار نہ کر سکو۔“ پھر حکمرانوں کے سیاہ کپڑے پہننے کی بدعت کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا شعیب بن حرب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے عرض کی: ”اے ابو عبد اللہ! کیا حدیث میں نہیں ہے کہ قریب ہو کر غور سے سنو۔“<sup>(۱)</sup> تو آپ نے فرمایا: ”تیرا برا ہو یہ تو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے متعلق ہے، رہے یہ لوگ تو تم ان سے جس قدر دور ہو گے اور جتنا ان کی طرف نظر کرنے سے بچو گے اتنا ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب پاؤ گے۔“

## ایثار کا انوکھا انداز:

حضرت سیدنا سعید بن عامر عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَاذِر فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے صفوں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا یہاں تک کہ آخری صف میں جا پہنچے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے عرض کی: ”کیا یہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہتر صف پہلی صف ہے؟“ تو آپ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فرمایا: ”جی ہاں! مگر یہ اُمت تمام اُمتوں میں سے زیادہ رحم کی گئی ہے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ جب اپنے کسی بندے کو نماز میں دیکھتا ہے تو اسے بھی اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوں سب کی بخشش فرما دیتا ہے، میں اس امید پر پیچھے ہو گیا کہ ان لوگوں میں سے کسی کی طرف اللہ عَزَّوَجَلَّ نظرِ رحمت فرمائے تو میری بھی بخشش ہو جائے۔“ ایک راوی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”یہ بات میں نے رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سے سنی ہے۔“<sup>(۲)</sup> پس جو اس نیت سے ایثار اور حسنِ خلق کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے رہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے موقع پر ہی کہا جاتا ہے کہ ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

①..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل یوم الجمعة، الحدیث: ۳۴، ج ۱، ص ۱۵۸، ”دون واستمع“۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۵۔

## مسجدوں میں نماز کے لئے جگہ مخصوص کر لینا کیسا؟

(۲)..... اگر خطیب کے پاس مسجد سے علیحدہ میں بادشاہوں کے لئے مخصوص جگہ نہ ہو تو پہلی صف پسندیدہ ہے ورنہ اس مخصوص جگہ میں داخل ہونے کو بعض علما نے مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ، حضرت سپیدنا حسن بصری اور حضرت سپیدنا بکر مزنی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمَا مَخْصُوص جگہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ حکمرانوں کے لئے مخصوص ہے اور یہ بدعت ہے جو مساجد میں زمانہ رسالت کے بعد شروع ہوئی۔ مسجد مطلقاً تمام لوگوں کے لئے برابر ہے لہذا کوئی جگہ علیحدہ کر دینا خلاف سنت ہے اور حضرت سپیدنا انس بن مالک اور حضرت سپیدنا عمران بن حصین رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا (حکمرانوں کے لئے) مخصوص جگہ میں نماز پڑھتے تھے اور قرب کے سبب اسے مکروہ نہیں کہا۔ غالباً کراہیت کچھ لوگوں کے لئے مخصوص کرنے اور کچھ کو منع کرنے کے سبب ہے ورنہ عام لوگوں کو منع نہ کیا جائے تو علیحدہ جگہ بنانے میں کراہت کا کوئی سبب نہیں۔

(۳)..... منبر بعض صفوں کو قطع کرتا ہو تو پہلی صف وہی ہے جو منبر سے متصل اور اس کے بعد ہے اور جو صفیں منبر کے دائیں بائیں ہیں وہ غیر متصل ہیں (لہذا انہیں پہلی صف نہیں کہہ سکتے)۔ حضرت سپیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي فرماتے تھے: ”پہلی صف وہ ہے جو منبر کے سامنے اور اس کے اگلے حصے سے الگ ہو۔“<sup>(۱)</sup> یہ بات درست ہے کیونکہ وہ متصل ہے اور اس لئے بھی کہ اس پر بیٹھنے والا خطیب کے سامنے ہوتا اور اسے سنتا ہے۔ نیز یہ کہنا بھی بعید نہیں کہ منبر والے معنی کی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف وہی قرار دی جائے جو قبلہ کے قریب ہو۔

بازاروں اور مسجد سے خارج کھلے میدانوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نیز بعض صحابہ کرام رَضُوا اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ اس پر لوگوں کو سزا دیتے اور انہیں کھلے میدانوں سے اٹھا دیا کرتے تھے۔

## ﴿۸﴾..... خطبہ کے آداب:

امام خطبہ کے لئے آئے تو اس وقت نماز پڑھنا اور کلام کرنا جائز نہیں۔ اذان کا جواب دے (۲) اور توجہ سے خطبہ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۵۔

②..... احناف کے نزدیک: مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب دینا منع ہے۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 151 پر ہے: ”مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہ دینا چاہئے یہی.....“



سنے۔ نمازیوں میں سے بعض کی عادت ہے کہ جب مؤذن اذان کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سجدہ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، نہ ہی کسی حدیث و روایت سے ثابت ہے۔ البتہ اگر اتفاقاً اس وقت سجدہ تلاوت آجائے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس وقت دعا بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ اضافی وقت ہے۔ نیز اس سجدے کے حرام ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کی حرمت کا کوئی سبب نہیں۔

### توجہ سے خطبہ سننے کی فضیلت:

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: ”جس نے بغور خطبہ سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دواجر ہیں اور جو خاموش رہا لیکن توجہ سے نہ سنا اس کے لئے ایک اجر ہے۔ جس نے سنا لیکن فضول کاموں میں مشغول رہا اس پر دو گناہ ہیں اور جس نے غور سے نہ سنا اور فضول کاموں میں منہمک رہا اس پر ایک گناہ ہے۔“

### دوران خطبہ کلام کرنے پر وعید:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو کہا خاموش ہو جا، ٹھہر جا بے شک اس نے لغوبات کی اور جس نے دوران خطبہ لغو بات کی اس کا جمعہ نہیں (یعنی جمعہ کا ثواب نہ پائے گا)۔“<sup>(۱)</sup>

### دوران خطبہ اشارے سے خاموش کرانے کا حکم:

اس فرمان عالیشان سے ثابت ہوتا ہے کہ دوران خطبہ زبان سے کسی کو خاموش کرانا جائز نہیں البتہ اشارے سے یا کنکری مار کر خاموش کرانا جائز ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ..... احوط (یعنی احتیاط سے قریب) ہے۔ ہاں اگر یہ جواب اذان یا (دو خطبوں کے درمیان) دعاء، اگر دل سے کریں، زبان سے تلفظ اصلاً نہ ہو تو حرج کوئی نہیں۔ اور امام یعنی خطیب اگر زبان سے بھی جواب اذان دے یا دعا کرے بلاشبہ جائز ہے۔

①..... سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة، الحديث: ۱۳۹، ص ۲۴۱، باختصار۔

سنن ابی داود، كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة، الحديث: ۱۰۵، ج ۱، ص ۳۹۳، مفهوماً۔

پوچھا: ”فلاں سورت کب نازل ہوئی؟“ تو انہوں نے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد منبر سے اترے تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے کہا: ”جاؤ، تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔“ انہوں نے بارگاہ رسالت میں جب یہ بات عرض کی تو کی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ابی بن کعب نے سچ کہا۔“<sup>(۱)</sup>

اگر کوئی خطیب سے دُور ہو تب بھی علم وغیرہ کے متعلق سوال نہ کرے بلکہ خاموش رہے کیونکہ اس سے پیدا ہونے والی آوازاں لگانے والوں تک پہنچے گی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جو باتوں میں مشغول ہوں۔ پس جو دُور ہونے کے سبب سننے سے عاجز رہا اسے بھی خاموش رہنا مستحب ہے<sup>(۲)</sup>۔ جب دوران خطبہ نماز پڑھنا مکروہ ہے تو کلام بدرجہ اُولیٰ مکروہ ہے۔

### چار مکروہ اوقات:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فرماتے ہیں: ”چار اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے: نماز فجر و عصر کے بعد، ضوہ کبریٰ سے زوال تک اور امام کے خطبہ کے دوران۔“<sup>(۳)</sup>

### ﴿۹﴾..... نماز جمعہ کے آداب:

نماز جمعہ میں ذکر کردہ شرائط کی رعایت کرے، اور جب امام کی قراءت سنے تو فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔  
(عند الاحناف امام کے پیچھے قرأت جائز نہیں)۔

### بعد نماز جمعہ سورہ فاتحہ، اخلاص اور معوذتین پڑھنے کی فضیلت:

جب جمعہ سے فارغ ہو تو بغیر کلام کئے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین (یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس) سات

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی الاستماع..... الخ، الحدیث: ۱۱۱، ج ۲، ص ۲۱، بتغییر الفاظ۔

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب الانصات للخطبة..... الخ، الحدیث: ۵۸۴، ج ۳، ص ۳۱۱، مفہومًا۔

②..... احناف کے نزدیک: جو لوگ امام (خطیب) سے دور ہوں کہ خطبہ کی آوازاں تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۷۴)

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۴۔

سات بار پڑھے۔ بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام سے منقول ہے کہ ”جس نے ایسا کیا وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہا اور یہ اس کے لئے شیطان سے بچاؤ ہے۔“ (۱)

## مخلوق سے بے نیازی اور حصول رزق کی دعا:

جمعہ کے بعد یہ کہنا بھی مستحب ہے: ”اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدٌ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدٌ يَا رَحِيمٌ يَا وَدُودٌ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ لِيَعْنِيَ اِلهٌ عَزَّ وَجَلَّ! اِلهٌ غَنِيٌّ! اِلهٌ حَمْدُ وَاَلِ! اِلهٌ اِبْتِدَاءٍ پید کرنے والے! اے (روز قیامت) لوٹانے والے! اے رحم فرمانے والے! اے محبت کرنے والے! مجھے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے اور اپنے فضل کے ساتھ ماسوا سے بے نیاز کر دے۔“ (۲)

منقول ہے کہ جو اس پر ہمیشگی اختیار کرے اللہ عَزَّ وَجَلَّ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی روایت میں ہے کہ ”حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔“ (۳) اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی روایت میں ہے کہ ”چار رکعت پڑھا کرتے تھے۔“ (۴) جبکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے چھ رکعتیں پڑھنا بھی مروی ہے۔“ (۵)

تمام روایات صحیح ہیں اور زیادہ مکمل کرنا (یعنی چھ رکعتیں پڑھنا) افضل ہے۔

- ①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۶۔
  - ②..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۶۔
  - ③..... صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، الحديث: ۹۳، ج ۱، ص ۳۲۲، مفهوماً۔
  - ④..... صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، الحديث: ۸۸، ص ۴۳۶۔
  - ⑤..... مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب فى سنة الجمعة، الحديث: ۳۱۹۳، ج ۲، ص ۴۲۶، دون ”عبد اللہ بن عباس“۔
- قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۶۔

## ﴿10﴾..... مسجد میں ٹھہرے رہنا:

جمعہ کے بعد نماز عصر پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا مستحب ہے۔ اگر مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ جس نے جامع مسجد میں عصر کی نماز پڑھی اس کے لئے حج کا ثواب ہے اور جس نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی اس کے لئے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے (یعنی جمعہ ادا کرنے کے بعد عصر و مغرب ادا کرنے کے لئے مسجد میں ٹھہرے رہنے پر یہ ثواب ہے)۔ اگر بناوٹ کے اظہار یا لوگوں کے اس کے اعتکاف کو دیکھ کر کسی آفت میں مبتلا ہونے یا بے مقصد باتوں میں مشغول ہونے کا خوف نہ ہو تو ایسا کرے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے، اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے اور غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی کرے کہ اس سے فضیلت والی گھڑی فوت نہ ہو جائے۔

مسجد میں دنیوی باتیں نہ کرے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ خدا کو ان سے کچھ کام نہیں۔“ (۱)

## چوتھی فصل: جمعہ کی سنتیں اور آداب

یہ ان آداب اور سنتوں کا بیان ہے جو سابقہ ترتیب سے خارج ہیں یہ تمام دن کو شامل ہیں اور یہ سات امور ہیں:

﴿1﴾..... نمازی صبح سویرے یا نماز عصر یا نماز جمعہ کے بعد علم کی مجلس میں حاضر ہو۔ قصہ گوئی کی مجالس میں شریک نہ ہو کیونکہ ان کے کلام میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیز جمعہ پڑھنے والے کو جمعہ کا پورا دن بھلائی کے کاموں اور دعاؤں میں گزارنا چاہئے تاکہ جب فضیلت والی گھڑی آئے تو اچھے کام میں مشغول ہو۔ نماز جمعہ سے پہلے لوگوں کے حلقوں میں نہ جائے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ ”حضور اکرم، شاہ نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا۔“ (۲) البتہ! اگر کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

①..... شعب الایمان للبيهقي، باب في الصلوات، الحديث ۲۹۶۴، ج ۳، ص ۸۷، بتقدم و تاخیر۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحديث ۱۰۴۹، ج ۱، ص ۲۰۲، بتغییر۔

معرفت رکھتا ہو، اس کے انعامات اور عذابات کے دنوں کو یاد کرتا، دین کی سمجھ رکھتا اور صبح کے وقت جامع مسجد میں درس دیتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے یوں وہ جلدی آنے اور غور سے سننے کو جمع کرنے والا ہوگا۔ نیز آخرت میں نفع بخش علم کو بغور سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔

## علم کی مجلس میں حاضر ہونے کی فضیلت:

حضرت سپیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت (نفل) نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“ (۱)

حضرت سپیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس فرمان باری تعالیٰ: ”فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ“ (پ: ۲۸، الجمعة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔“ کے متعلق فرمایا: ”اس سے مراد دنیا طلب کرنا نہیں بلکہ مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، علم سیکھنا اور رضائے الہی کی خاطر مسلمان بھائی سے ملاقات کے لئے جانا مراد ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کئی مقامات پر علم کو فضل کا نام دیا۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ  
اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝۱۳ (پ: ۵، النساء: ۱۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:  
وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَمِيْٓمًا فَضْلًا ۝۲۲ (پ: ۲۲، سبأ: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ ان آیات میں فضل سے مراد علم ہے۔ لہذا جمعہ کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل عبادات میں سے ہے اور قصہ گو واعظین کی مجالس سے نماز افضل ہے کیونکہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْنُ اسے بدعت سمجھتے اور ایسے قصہ گوؤں کو مسجد سے نکال دیتے تھے۔

①..... المدخل، فصل فی الاشتغال بالعلم یوم الجمعة، ج، ص ۳۳۳۔

## قصہ گوئی بدعت ہے:

ایک بار حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صبح سویرے مسجد میں اپنی نشست گاہ پر حاضر ہوئے تو اس جگہ ایک قصہ گو قصہ بیان کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا: ”میری جگہ سے اٹھ۔“ اس نے کہا: ”میں نہیں اٹھوں گا کیونکہ میں آپ سے پہلے آ کر بیٹھا ہوں۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو بلا کر اسے اٹھوا دیا۔ ”اگر یہ عمل (یعنی قصہ وغیرہ بیان کرنا) سنت ہوتا تو اسے وہاں سے اٹھانا جائز نہ ہوتا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھ جائے بلکہ یہ کہہ دے کہ جگہ دو اور جگہ وسیع کرو۔“ (۱)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا تو اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک قصہ گو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے باہر وسیع جگہ پر بیٹھتا تھا آپ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا کہ اس نے اپنی قصہ گوئی سے مجھے اذیت پہنچائی اور مجھے تسبیح سے روک دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس قدر مارا کہ آپ کا عصا ٹوٹ گیا پھر آپ نے (ٹوٹا ہوا) عصا پھینک دیا۔

﴿2﴾..... فضیلت والی گھڑی کی اچھی طرح نگرانی کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ”جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے جو مسلمان اسے پالے اور اس میں اللہ عزوجل سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے۔“ (۲) ایک روایت میں ہے کہ ”بندہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پالے (اور اللہ عزوجل سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اسے عطا فرمادیتا ہے)۔“ (۳)

## فضیلت والی گھڑی کونسی ہے؟

فضیلت والی گھڑی کے متعلق مختلف اقوال ہیں: (۱)..... وہ مبارک ساعت طلوع آفتاب کے وقت ہے۔

- ①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم اقامة الانسان..... الخ، الحدیث: ۲۱۷۷، ص ۱۹۸، بتغییر الفاظ۔
- ②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الجمعة، باب لا یقیم الرجل اخاه..... الخ، الحدیث: ۹۱، ج ۱، ص ۳۱۳، باختصار۔
- ③..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحدیث: ۸۵، ص ۲۲۲، بتغییر۔

(۲)..... زوال کے وقت۔ (۳)..... اذان کے وقت۔ (۴)..... جب امام منبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کر دے۔  
 (۵)..... جب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں۔ (۶)..... عصر کا آخری وقت ہے۔ (۷)..... سورج غروب ہونے  
 سے پہلے کا وقت ہے کہ شہزادی گوین حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کا خیال رکھا کرتیں اور اپنی خادمہ کو  
 حکم دیتیں کہ وہ سورج کو دیکھے اور اس کے جھکنے کے بارے میں آگاہ کرے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غروب آفتاب  
 تک دعا و استغفار میں مشغول رہتیں اور بتاتیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور اسے پیارے مصطفیٰ صلی  
 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتیں۔ (۸)<sup>(۱)</sup>..... یہ ساعت شب قدر کی طرح (جمعہ کے) پورے دن میں مخفی  
 ہے تاکہ اس کی حفاظت کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو۔ (۹)<sup>(۲)</sup>..... شب قدر کی طرح جمعہ کے دن میں یہ ساعت  
 تبدیل ہوتی رہتی ہے یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ اس میں ایک راز ہے جس کا ذکر علم معاملہ کے مناسب نہیں مگر جو کچھ  
 حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک زمانے کے دنوں میں تمہارے رب کی طرف سے خوشبودار جھونکے ہیں۔  
 سنو! انہیں حاصل کرو۔“ (۳) اور جمعہ کا دن بھی انہیں ایام میں سے ہے۔ لہذا بندے کو چاہئے کہ جمعہ کا سارا دن اس  
 گھڑی کے حصول کے لئے دل کو حاضر رکھے، ذکر کو لازم پکڑے اور دنیا کے وسوسوں سے بچے تو قریب ہے کہ وہ ان  
 خوشبودار جھونکوں میں سے کچھ حصہ پالے۔ (۱۰)..... حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ جمعہ  
 کی آخری ساعت ہے اور یہ غروب آفتاب کے وقت ہے۔“ (۴) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ  
 آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ وہ ایسے بندے  
 کے موافق ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں۔“ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:  
 کیا مکی مدنی سرکار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ”نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الجمعة، الحدیث ۲۹، ج ۳، ص ۹۳، مفہومًا۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۰-۱۲۱، مفہومًا۔

③..... المعجم الاوسط، الحدیث ۲۸۵۶، ج ۲، ص ۱۵۵۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۱، باختصار۔

نماز میں ہے۔“ (۱) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جی ہاں! یہ تو فرمایا ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”یہ نماز ہی ہے۔“ (یہ سن کر) حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ (۲)

حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف مائل تھے کہ اس دن کا حق پورا کرنے والوں کے لئے یہ ایک رحمت ہے اور اس کے بھیجنے کا وقت وہ ہے جب بندہ عمل سے مکمل طور پر فارغ ہو جائے۔

**خلاصہ کلام** یہ ہے کہ یہ اور اس کے ساتھ امام کے منبر پر بیٹھنے کا وقت باعثِ فضیلت ہے۔ لہذا ان دو وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہئے۔

﴿3﴾..... روز جمعہ حسن انسانیت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر کثرت سے درودِ پاک پڑھنا مستحب ہے۔

## 80 سال کے گناہ معاف:

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سید، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درودِ پاک پڑھے گا اللہ عزوجل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمادے گا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ پر درود کیسے بھیجیں؟“ ارشاد فرمایا: ”یوں کہو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ لَعْنَى أَعْيُنِ الْمَلَأَى وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! اپنے بندے، اپنے رسول اور اپنے امی نبی حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر رحمت نازل فرما۔“ (۳)

## شفاعتِ مصطفیٰ:

منقول ہے کہ جو شخص لگاتار سات جمعوں تک سات بار مذکور درودِ پاک پڑھے تو اس کے لئے حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی شفاعت واجب ہوگی: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ آدَاءً وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَعْنَى أَعْيُنِ الْمَلَأَى وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في الساعة..... الخ، الحديث: ۱۱۳، ج ۲، ص ۳۱۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۱۔

③..... سنن الترمذی، کتاب الجمعة، باب ماجاء في الساعة..... الخ، الحديث: ۴۹، ج ۲، ص ۳۳، مفہومًا۔



عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کی آل پر ایسا درود بھیج جو تیرے لئے باعثِ رضا اور ان کے حق کی ادائیگی ہو اور انہیں مقامِ وسیلہ عطا فرما اور اس مقامِ محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا اور ہماری جانب سے انہیں ایسا اجر عطا فرما جو ان کی شایانِ شان ہو اور اس سے افضل جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی۔ نیز آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور صالحین کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ پر رحمت نازل فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے!، (۱)

اگر مزید پڑھنا چاہے تو یہ مسنون درود پاک پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَاصِي بَرَكَاتِكَ وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَنُّنِكَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبِرِّ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ اِدْرُدْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَزَلُّفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقَرُّبُ بِهِ عَيْنَهُ يَغِيْطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ اَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الرَّيْفَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْمُنِيفَةَ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدًا سَوْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى الْمَقَرَّبِينَ دَرَجَتَهُ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا فِي أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا قَاتِنِينَ وَلَا مُفْتُونِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ-

یعنی: اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! اپنے مبارک ترین دُرد، اپنی بہترین خوبی، اپنی بخشش، اپنی نرمی و رحمت اور اپنا سلام انبیاء کے سردار حضرت سیدنا محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر نازل فرما جو پرہیزگاروں کے امام، آخری نبی، تمام جہانوں کے رب کے رسول، بھلائی کی طرف لے جانے والے، نیکی کے دروازے کھولنے والے، نبی رحمت اور سردارِ اُمت ہیں۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! انہیں مقامِ محمود پر فائز فرما جس کے سبب ان کے قرب کو مزید قرب نصیب ہو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ ان پر اگلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! سرکارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فضل، فضیلت، بزرگی، وسیلہ، بلند درجہ اور بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! حضرت سیدنا محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سوال کو پورا فرما، ان کی امید ان تک پہنچا، انہیں پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا دے۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرما، ان کے ترازو کو بھاری کر دے، ان کی دلیل کو بچھنے والی

۱..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۱، دون "وصل عليه"۔

بنادے، بلندتر مقررین میں ان کا مرتبہ بلند فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا، ان کی شفاعت کے مستحقین میں سے کر دے، ان کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کی ملت پر موت دے، ہمیں ان کے حوض کوثر پر پہنچا، ان کے پیالہ سے سیراب فرما کہ ہم نہ رسوا ہوں، نہ نادام ہوں، نہ شک کرنے والے، نہ تبدیلی کرنے والے، نہ گمراہ کرنے والے اور نہ ہی گمراہ کئے گئے ہوں، اے تمام جہانوں کے رب! ہماری دعا قبول فرما۔<sup>(۱)</sup>

### خلاصہ کلام:

دُرودِ پاک کے جو بھی الفاظ کہے خواہ تشہد میں پڑھے جانے والے مشہور الفاظ کہے (یعنی دُرودِ ابراہیمی پڑھے) تو وہ دُرود پڑھنے والا شمار ہوگا اور دُرودِ پاک کے ساتھ استغفار بھی ملا لینا چاہئے کیونکہ روزِ جمعہ کثرت سے استغفار کرنا مستحب ہے۔

﴿4﴾..... جمعہ کے دن قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہئے خصوصاً سورہ کہف کی۔

### شب جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم سے مروی ہے کہ ”جو شخص شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ پڑھتا ہے وہاں سے مکہ تک اسے نور عطا کیا جاتا ہے اور دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں بلکہ مزید تین دن کے گناہ بھی۔ نیز اس کے لئے صبح تک 70 ہزار فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اسے بیماری، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برص، کوڑھ کے مرض نیز دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا۔“<sup>(۲)</sup>

اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن اور شب جمعہ ختم قرآن کرنا چاہئے کہ اس میں ختم قرآن مستحب ہے۔ اگر رات کو پڑھے تو فجر کی دو رکعتوں میں قرآن ختم کرے یا مغرب کی دو رکعتوں میں یا جمعہ کی اذان و اقامت کے درمیان ختم کرے کہ بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ عبادت گزار لوگ جمعہ کے دن ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا پسند کرتے تھے۔ نیز

①..... سنن ابن ماجہ کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث: ۹۰، ج ۱، ص ۴۸۹، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۱-۱۲۲، بتقدم و تاخیر۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۲۔

منقول ہے کہ جو شخص دس یا بیس رکعات میں ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے تو یہ پورا قرآن پاک ختم کرنے سے افضل ہے۔ نیز عبادت گزار لوگ دن بھر میں ہزار بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے اور ہزار بار یہ تسبیح پڑھتے تھے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اگر روز جمعہ یا شنب جمعہ مُسَبِّحَاتِ سورتیں<sup>(۱)</sup> پڑھے تو بہت اچھا ہے۔

حضور نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے معین سورتیں پڑھنا مروی نہیں سوائے روز جمعہ اور شنب جمعہ کے کہ جمعہ کی رات آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نمازِ مغرب میں سورہ کافرون و سورہ اخلاص اور نمازِ عشا میں سورہ جمعہ و سورہ منافقین کی تلاوت فرماتے تھے۔<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جمعہ کی دو رکعتوں میں یہ سورتیں (سورہ جمعہ و منافقین) پڑھتے تھے، جبکہ جمعہ کے دن نمازِ فجر میں سورہ سجدہ، سورہ لقمان اور سورہ دھر کی تلاوت فرماتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

## مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے:

﴿5﴾..... جب جامع مسجد میں داخل ہو تو اس طرح چار رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے کہ ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص پڑھے تاکہ مجموعہ 200 بار ہو جائے۔ کیونکہ مروی ہے کہ ”جو شخص ایسا کرے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا یا اسے اس کا ٹھکانا دکھا دیا جائے گا۔“<sup>(۴)</sup>

دو رکعت تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ضرور پڑھے اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو لیکن مختصر پڑھے کہ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔<sup>(۵)</sup>

ایک غیر مشہور روایت میں ہے کہ ”دورانِ خطبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو حضور نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

①..... مُسَبِّحَاتِ وہ سورتیں جن کے شروع میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۳۔

③..... صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، الحديث: ۸۷۹، ص ۲۳۵۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۲۔

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والامام يخطب، الحديث: ۸۷۷، ص ۲۳۳۔

وَاللهُ وَسَلَّمَ خَامُوشٌ هُوَ كَيْفَ تَحْتِي كَمَا اس نَع دُور كَعْتِي نِ پُڑھ لِيَس۔“ (۱)

علمائے کوفہ کا قول ہے کہ دورانِ خطبہ اگر امام کسی کے لئے خاموشی اختیار کرے تو وہ دو رکعت تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ پڑھ لے۔ روزِ جمعہ اور شبِ جمعہ چار رکعتیں اس طرح پڑھنا مستحب ہے کہ ان میں یہ چار سورتیں پڑھے: سورۃ النعام، سورۃ کہف، سورۃ طہ، سورۃ یٰسین۔ اگر یہ سورتیں اچھی طرح یاد نہ ہوں تو سورۃ یٰسین، سورۃ سجدہ، سورۃ لقمان، سورۃ دخان، سورۃ ملک پڑھے۔ نیز شبِ جمعہ مذکورہ چار سورتوں کی تلاوت پابندی سے کرے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو پورا قرآن صحیح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو جس قدر صحیح پڑھ سکے پڑھے کہ وہی اس کے لئے ختم قرآن کے قائم مقام ہے اور سورۃ اخلاص تو بکثرت پڑھے۔ نیز روزِ جمعہ صَلَوةُ التَّسْبِيحِ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا طریقہ نوافل کے باب میں بیان کیا جائے گا کہ حضور پر نور، شافع یوم النشور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”اسے ہر جمعہ کو پڑھو۔“ (۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا روزِ جمعہ زوال کے بعد اس نماز کو پابندی سے پڑھا کرتے اور بتاتے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ (۳)

## جمعہ کے دن وقت کی تقسیم:

بہتر یہ ہے کہ روزِ جمعہ زوال تک کا وقت نماز کے لئے، نمازِ جمعہ کے بعد سے عصر تک کا وقت علم سیکھے سکھانے کے لئے اور عصر سے مغرب تک کا وقت تسبیح و استغفار کے لئے مقرر کرے۔

﴿6﴾..... جمعہ کے دن خاص طور پر صدقہ کرنا مستحب ہے کیونکہ اس دن دگنا اجر ملتا ہے بشرطیکہ مسائلِ امام کے خطبے کے دوران سوال نہ کرے، کیونکہ اس وقت مانگنے والا خطبے کے دوران گفتگو کرنے والا ہوگا حالانکہ اس وقت گفتگو کرنا مکروہ ہے۔

حضرت سیدنا صالح بن احمد عَلِيُّ رَحْمَةُ اللهِ الصَّمْدُ فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن دورانِ خطبہ میرے والد کے پاس بیٹھے ایک مسکین نے سوال کیا تو ایک شخص نے میرے والد کو کلڑا دیا تاکہ وہ اسے دے دیں تو والد صاحب نے وہ کلڑا

①..... سنن الدارقطنی، کتاب الجمعة، باب فی الرکتین اذا جاء الرجل..... الخ، الحدیث: ۱۶۰، ج ۲، ص ۱۸۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب صلاة التسبیح، الحدیث: ۱۲۹، ج ۲، ص ۴۴۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۳، ”یوم الجمعة“ بدلہ ”کل یوم“۔

نہ پکڑا۔“ (۱)

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جب کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو وہ اسی کا مستحق ہے کہ اسے نہ دیا جائے اور جب قرآن کے نام پر مانگے تو بھی اسے نہ دو۔“ (۲)

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ نے جامع مسجد میں ایسے سائلین کو صدقہ دینے سے منع فرمایا ہے جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں۔ البتہ! اگر وہ گردنیں پھلانگے بغیر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سوال کرے تو دے سکتے ہیں (۳)۔

### اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے:

حضرت سیدنا لعب الاحبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جو جمعہ میں حاضر ہو پھر لوٹ کر دو مختلف چیزیں صدقہ کرے، پھر پلٹ کر رکوع و سجود کی تکمیل اور خشوع کے ساتھ دو رکعتیں پڑھے اور یہ دعائے مانگے: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيَسْمِكَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِىْ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لِّعْنِىْ اے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اللّٰہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اور تیرے نام سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات جو خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ۔ تو وہ جو کچھ مانگے اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ اسے عطا فرمادیتا ہے۔“ (۴)

### جو دعائے مانگے قبول ہوگی:

بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”جو شخص جمعہ کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلائے، صبح سویرے نماز جمعہ کے لئے جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور امام کے سلام پھیرتے وقت یہ کہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ وَتَعْفِيْنِيْ مِنَ النَّارِ لِّعْنِىْ اے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا خود

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى والعشرون فيه كتاب الجمعة..... الخ، ج، ص ۱۲۵۔

②..... المرجع السابق، ص ۱۲۵۔

③..... احناف کے نزدیک: مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۷۷)۔

④..... قوت القلوب، ص ۱۲۵، بتقدم و تاخر۔

زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری بخشش فرمادے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے جہنم سے بچا۔ پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی۔“ (۱)

﴿7﴾..... جمعہ کا پورا دن (اعمال) آخرت کے لئے مقرر کر دے اور دنیاوی مشغولیات سے رک جائے، اوراد و وظائف کی کثرت کرے اور اس دن سفر شروع نہ کرے، کہ روایت میں ہے: ”جس نے شب جمعہ سفر کیا اس کے دونوں فرشتے اس کے لئے بددعا کرتے ہیں۔“ (۲) نیز (روز جمعہ) طلوع فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ البتہ، اگر رفتائے سفر کے چلے جانے کا اندیشہ ہو تو سفر کرنا جائز ہے۔

بعض اکابرین رَحْمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیْنُ فرماتے ہیں: ”سقاء (پانی فراہم کرنے والے) سے مسجد میں پینے کے لئے یا مفت پلانے کے لئے پانی خریدنا جائز نہیں حتیٰ کہ مسجد میں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں کیونکہ مسجد میں خرید و فروخت مکروہ ہے۔“ بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”اگر قیمت مسجد سے باہر ادا کر دے اور مسجد میں لے کر پی لے یا کسی کو پلا دے تو کوئی حرج نہیں۔“

## حاصل کلام:

جمعہ کے دن اوراد و وظائف اور بھلائی کے کاموں کی کثرت کرنی چاہئے۔ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے فضیلت والے اوقات میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ بندہ فضیلت والے اوقات میں برے اعمال میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وقت کی برکت سے محروم ہونے اور اس کی حرمت کو توڑنے کے سبب اس شخص کے عذاب میں زیادتی اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی میں اضافہ ہو۔ جمعہ کے دن دعائیں مانگنا مستحب ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کتاب الدَّعَوَات (دعاؤں کے باب) میں اس کا ذکر آئے گا۔ ہر چہ بنے ہوئے بندے پر اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہو۔



①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون فیہ کتاب الجمعة..... الخ، ج ۶، ص ۱۲۵-۱۲۶۔

②..... کنز العمال، کتاب السفر، الحدیث: ۱۷۵۳، ج ۶، ص ۳۰۲۔

## متفرق مسائل کا بیان

باب نمبر 6:

اس باب میں وہ متفرق مسائل بیان کئے جائیں گے جن میں عام لوگ مبتلا ہیں اور راہِ آخرت کا مسافر انہیں جاننا چاہتا ہے اور جو مسائل شاذ و نادر پیش آتے ہیں وہ ہم نے کتبِ فقہ میں بیان کر دیئے ہیں۔

### عملِ قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی:

مسئلہ ۱: عملِ قلیل سے اگرچہ نماز نہیں ٹوٹی مگر بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

ضرورت کی چند مثالیں: آگے سے گزرنے والے کو روکنا اور خوفناک بچھو کو ایک یا دو ضربوں سے مارنا تین ضربوں سے مارا تو عمل کثیر ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح جوئیں اور پسو اگر اذیت دیتے ہوں تو انہیں دُور کرنا بھی جائز ہے۔ یوں ہی کھجانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ نہ کھجانے سے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔

### حالت نماز میں جوں اور پسو مارنے کا حکم:

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز میں جوں اور پسو پکڑ لیا کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نماز میں پسو کو مار ڈالتے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر خون نظر آتا۔<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا امامِ نخبی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِيَةُ فرماتے ہیں: ”نمازی اسے پکڑ کر سست کر دے اور اگر مار بھی دے تو کوئی حرج نہیں۔“<sup>(۳)</sup>

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”اسے پکڑ لے اور مسل کر پھینک دے۔“<sup>(۴)</sup>

حضرت سیدنا مجاہد عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِدِ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ پسند ہے کہ اسے چھوڑ دے لیکن اگر اذیت دے کر نماز سے غافل کرے تو اس قدر مسل دے کہ اذیت نہ دے سکے پھر پھینک دے۔“<sup>(۵)</sup>

یہ رخصت ہے ورنہ کمال تو یہ ہے کہ نماز میں عملِ قلیل سے بھی بچا جائے۔ اسی لئے بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ

①.....المصنف لابن ابی شبة، کتاب صلاة التطوع والامامة، الرجل ياخذ اللقمة في الصلاة، الحديث: ج ۲، ص ۲۶۱۔

②.....المرجع السابق، الحديث: ج ۲، ص ۲۶۱۔ ③.....المرجع السابق، الحديث: ۵، ص ۲۶۲، باختصار۔

④.....المرجع السابق، الحديث: ۴، ص ۲۶۱۔ ⑤.....المرجع السابق، الحديث: ۹، ص ۲۶۲، باختصار۔

السُّبَّانِ نماز میں مکھی کو بھی نہیں اڑاتے تھے اور فرماتے: ”میں اپنے نفس کو اس چیز کا عادی نہیں بناتا اور نہ میری نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ فاسق لوگ بادشاہوں کے سامنے سخت تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں اور حرکت تک نہیں کرتے۔“

جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ اولیٰ ہے۔ (نماز میں) چھینک آئے تو دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد کرے، زبان کو حرکت نہ دے، اگر ڈکار آئے تو سر آسمان کی طرف نہ اٹھائے، اگر چادر گر جائے تو اسے اٹھا کر برابر نہ کرے اسی طرح عمامہ کے کناروں کا حکم ہے یہ تمام امور بلا ضرورت مکروہ ہیں۔

مسئلہ ۲: جو توں میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ جو توں کا اتارنا آسان ہے اور موزے پہنے نماز پڑھنے کی رخصت اس وجہ سے نہیں کہ ان کا اتارنا مشکل بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اتنی نجاست معاف ہے اور یہی حکم پائنتابوں کا ہے۔

### جوتے پہنے نماز پڑھنے کی دلیل:

مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نعلین شریفین میں نماز پڑھی پھر نعلین مبارکین اتارے تو صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نے بھی جوتے اتار دیئے۔ (نماز کے بعد) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے استفسار فرمایا: ”تم نے جوتے کیوں اتارے؟“ عرض کی: ”آپ کو جوتے اتارتے دیکھ کر ہم نے بھی اتار دیئے۔“ ارشاد فرمایا: ”بے شک حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَامُ میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ ان میں کچھ لگا ہوا ہے (اس لئے میں نے جوتے اتار دیئے) لہذا جب تم میں سے کوئی مسجد آنے کا ارادہ کرے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے اگر ان میں کوئی نجاست لگی ہو تو انہیں زمین سے رگڑ دے پھر ان میں نماز پڑھ لے (۱)۔“ (۲)

بعض علمائے کرام رَجَمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”جو توں میں نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم نے جوتے کیوں اتارے؟ اور یہ مبالغہ ہے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان سے اس لئے پوچھا تا کہ ان کے سامنے جوتے اتارنے کا سبب بیان کریں کیونکہ آپ کو علم تھا کہ انہوں نے جوتے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی پیروی میں اتارے ہیں۔“

①..... اس پر حاشیہ صفحہ 399 پر گزر چکا ہے۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، الحدیث ۱۱۱۵، ج ۴، ص ۴۱۔



حضرت سیدنا عبد اللہ بن سائب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے (نماز سے قبل) اپنے جوتے اتارے۔“ (۱)

گویا آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے دونوں طرح عمل کیا (یعنی جوتے پہنے ہوئے بھی نماز پڑھی اور اتار کر بھی)۔ پس جو جوتے اتارے اسے چاہئے کہ انہیں اپنے دائیں یا بائیں نہ رکھے ورنہ نمازیوں کے لئے جگہ تنگ ہو جائے گی اور قطعاً صف بھی ہوگی بلکہ اپنے سامنے رکھے، اپنے پیچھے بھی نہ رکھے ورنہ دل ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ جن علمائے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا قول کیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس معنی کا لحاظ رکھا ہو یعنی دل کا جوتوں کی طرف متوجہ ہونا۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لے۔“ (۲)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے ایک نمازی سے فرمایا: جوتے پاؤں کے درمیان رکھ لے تاکہ ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ امامت کے دوران جوتے اپنے بائیں جانب رکھتے۔ (۳) امام ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بائیں جانب کوئی نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ جوتے قدموں کے درمیان نہ رکھے ورنہ (رکوع و سجود کی حالت میں) وہ اسے مشغول رکھیں گے بلکہ قدموں کے آگے رکھے، شاید! حدیث سے یہی مراد ہے۔

حضرت سیدنا جبیر بن مطعم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ فرماتے ہیں: ”نمازی کا اپنے قدموں کے درمیان جوتے رکھنا بدعت ہے۔“ (۴)

مسئلہ ۳: نماز میں تھوکنے سے نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ یہ عمل قلیل ہے۔ جب تک تھوکنے سے آواز پیدا نہ ہو کلام شمار نہیں ہوتا نیز تھوکنے سے آواز پیدا ہوتی بھی نہیں، البتہ بغیر ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہئے اور صرف وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس کی سرکارِ دو عالم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ،

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی النعل، الحدیث: ۶۴۸، ج ۱، ص ۲۶۰، ”خلع“ بدلہ ”وضع“۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب المصلی اذخل نعلیه..... الخ، الحدیث: ۶۵، ج ۱، ص ۲۶۲۔

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة فی النعل، الحدیث: ۶۴۸، ج ۱، ص ۲۶۰، باختصار۔

④..... تفسیر قرطبی، سورہ طہ، ج ۱، ص ۷۸۔

## جانب قبلہ تھو کتنا کیسا؟

بعض صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لیبِ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے قبلہ کی جانب تھوک دیکھا تو سخت جلال میں آگئے اور اپنے ہاتھ میں موجود ٹہنی سے اسے کھرچ دیا اور ارشاد فرمایا: ”خوشبو لاؤ۔“ چنانچہ، آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے چہرے پر تھوکے؟“ ہم نے عرض کی: ”کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔“ ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے اوپر قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی اپنے سامنے یادائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑوں میں تھوکے اور عملاً بتایا کہ اسے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ دے۔“ (۱)

**مسئلہ ۴:** (امام کے پیچھے) مقتدی کے کھڑا ہونے کے لئے سنت بھی ہے اور فرض بھی۔ سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کے تھوڑا پیچھے اس کے دائیں طرف کھڑا ہو اور ایک عورت مقتدی ہو تو امام کے پیچھے کھڑی ہو اگر امام کے پہلو میں کھڑی ہو جائے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے۔ (۲) اگر عورت کے ساتھ ایک مرد بھی مقتدی ہو تو مرد امام کی دائیں جانب اور عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہو۔ کوئی شخص پچھلی صف میں اکیلا کھڑا نہ ہو بلکہ اگر جگہ پائے تو اگلی صف میں شامل ہو جائے یا صف میں سے کسی کو کھینچ کر پیچھے کر لے۔ اگر اکیلا کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔

## اتصال صفوف:

کھڑا ہونے میں مقتدی کے لئے فرض یہ ہے کہ صف میں اتصال ہو یوں کہ امام و مقتدی کے درمیان جامع

①..... صحیح مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب حدیث جابر الطویل..... الخ، الحدیث: ۳۰۰۸، ص ۱۶۰۳، باختصار۔

②..... احناف کے نزدیک: عورت اگر مرد کے محاذی ہو تو مرد کی نماز جاتی رہے گی۔ اس کے لئے چند شرطیں ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی

معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت جلد اول“ صفحہ 587 کا مطالعہ کیجئے!

رابطہ ہو یعنی دونوں جماعت میں ہوں اگر دونوں مسجد میں ہوں تو جامع ہونے کے لئے یہ کافی ہے کیونکہ مسجد اسی لئے بنائی جاتی ہے۔ لہذا صف کے متصل ہونے کی حاجت نہیں بلکہ امام کے افعال کا علم ہونا ضروری ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر امام کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ اگر مقتدی مسجد سے باہر راستے یا صحرا میں ہو کہ دونوں کے درمیان کوئی عمارت (حائل) نہ ہو تو تیر کے نشانے کی مقدار قرب کافی ہے اور (جامع ہونے کے لئے) یہ رابطہ کافی ہے کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کے فعل سے ملا ہوا ہے۔ اگر مقتدی مسجد کی دائیں یا بائیں جانب والے مکان کے صحن میں ہو اور اس کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا ہو تو اب شرط یہ ہے کہ مسجد کی صف اس کی دہلیز سے صحن تک بغیر کسی انقطاع کے متصل ہو۔ یوں جو لوگ اس صف میں اور اس سے پچھلی صف میں ہوں گے ان کی نماز صحیح ہوگی لیکن جو آگے ہوں گے ان کی نماز صحیح نہ ہوگی (اگر چہ امام سے پیچھے ہوں) مختلف عمارتوں کا یہی حکم ہے۔ بہر حال ایک عمارت یا وسیع میدان کا حکم وہی ہے جو صحرا کا ہے۔

### مسبق کے احکام<sup>(۱)</sup>:

**مسئلہ ۵:** مسبوق امام کی نماز کا آخری حصہ پائے تو وہ نماز کے ابتدائی حصے کی طرح ہے۔ لہذا امام کی موافقت کرے، باقی نماز کو اسی پر مکمل کرے اور فجر کی نماز کے آخر میں تنہا قنوت پڑھے اگر چہ امام کے ساتھ قنوت پڑھ چکا ہو (عند الشوافع)۔ اگر امام کے ساتھ قیام کا بعض حصہ پائے تو دعا میں مشغول نہ ہو (یعنی ثناء وغیرہ نہ پڑھے) بلکہ جلدی سے اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے (عند الشوافع)، اگر اس کے فاتحہ سے فارغ ہونے سے پہلے امام رکوع میں چلا جائے تو اگر فاتحہ پڑھ کر رکوع میں شامل ہو سکتا ہو تو پڑھ لے وگرنہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اور بعض فاتحہ کل فاتحہ کے حکم میں ہے، لہذا یہ اس سے نکل جانے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔

مسبق اگر سورت پڑھ رہا ہو اور امام رکوع میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دے۔

اگر امام کو سجدے یا تشہد میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر تکبیر انتقال کہے بغیر بیٹھ جائے (۲) لیکن اگر امام کو رکوع میں

① ..... مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہو اور آخر تک شامل رہا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۸۸)

② ..... احناف کے نزدیک تکبیر کہے گا جیسا کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ ۵۸۹ پر ہے کہ مسبوق نے امام کو قعدہ میں پایا، تو تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں کرے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قعدہ میں جائے۔

پائے تو (تکبیر تحریرہ کے بعد) رکوع میں جاتے ہوئے دوبارہ تکبیر کہے کیونکہ یہ انتقال اس کے لئے شمار ہوگا یعنی رکعت مل جائے گی۔ نماز میں اصلی انتقالات کے لئے تکبیریں ہوتی ہیں نہ کہ عارضی کے لئے۔

(رکوع میں شامل ہونے والا) رکعت پانے والا تب شمار ہوگا جب امام کے ساتھ اطمینان سے رکوع کر لے، اگر امام حد رکوع سے نکل آئے (پھر یہ رکوع میں جائے) تو اس کی وہ رکعت فوت ہو جائے گی۔

## قضا اور باجماعت نماز کے احکام:

**مسئلہ ۶:** جس کی نماز ظہر فوت ہوگئی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا (اور وہ صاحب ترتیب ہو تو بہتر یہ ہے کہ) پہلے ظہر پڑھے پھر عصر ادا کرے۔ اگر پہلے عصر پڑھی تو ادا ہو جائے گی لیکن خلاف اولیٰ ہے اور وہ اختلاف کے شبہ میں داخل ہو جائے گا۔ اگر امام کو (عصر کی جماعت میں) پائے تو پہلے عصر کی نماز پڑھے پھر ظہر پڑھے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اولیٰ ہے (۱)۔

اگر اول وقت میں اکیلے نماز پڑھ لی پھر جماعت پائی تو جماعت سے نماز پڑھے اور وقتی نماز کی نیت کرے، اللہ عزَّوَجَلَّ جسے چاہے گا شمار فرمائے گا، اگر فوت شدہ یا نفل نماز کی نیت کی تو بھی جائز ہے (۲)۔

اگر پہلے جماعت سے نماز پڑھ چکا تھا پھر دوسری جماعت پائی تو فوت شدہ یا نفل نماز کی نیت کرے، جماعت سے ادا کی ہوئی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ ماقبل صورت میں جماعت کی فضیلت پانے کا احتمال تھا (اس لئے وہاں وقتی نماز کی نیت کا حکم ہے)۔

## دوران نماز یا بعد نماز کپڑوں پر نجاست نظر آنا:

**مسئلہ ۷:** جس نے نماز پڑھنے کے بعد (قدر مانع) کپڑوں پر نجاست دیکھی تو نماز دوبارہ پڑھنا بہتر ہے ضروری نہیں۔

①..... احتاف کے نزدیک: عصر کی نماز اس صورت میں جائز ہوگی جب اسے ظہر کی نماز یاد نہ رہی یا وہ صاحب ترتیب نہ ہو یعنی اس وقت اس کے ذمہ پانچ سے زیادہ نمازیں ہوں ورنہ عصر کی نماز نہ ہوگی۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۵) صاحب ترتیب کے تفصیلی احکام جاننے کے لئے بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 703 تا 707 کا مطالعہ کیجئے۔

②..... احتاف کے نزدیک: فرض نماز دوبارہ پڑھنا جائز نہیں، نفل کی نیت سے پڑھ سکتا ہے اگر فرض کی نیت سے پڑھے گا تو وہ نفل ہی

ہوگی۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۷، ص ۳۹۷ ملخصاً)

اگر نماز کے دوران نجاست دیکھے تو نجس کپڑا اتار دے اور نماز مکمل کر لے، البتہ، نئے سرے سے پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نعلین شریفین اتارنے والا واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ نعلین مبارک پر کچھ لگا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سرے سے نماز نہ پڑھی<sup>(۱)</sup>۔

## سجدہ سہو کے احکام:

**مسئلہ ۸:** جس نے پہلا تشہد یا دعائے قنوت چھوڑ دی یا قعدہ اولیٰ میں (بعد تشہد) دُرودِ پاک نہ پڑھا<sup>(۲)</sup> یا کوئی ایسا فعل بھول کر کیا کہ اگر اسے جان بوجھ کر کرتا تو نماز فاسد ہو جاتی یا شک ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو یقین پر عمل کرے اور سلام سے پہلے دو سجدے کرے<sup>(۳)</sup>۔

اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آجائے تو کر لے۔ اگر بعد سلام سجدہ سہو کرنے کے بعد بے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہوگئی کیونکہ جب (بعد سلام) سجدہ سہو کیا تو گویا اس نے بھول کر غیر محل میں سلام پھیر دیا لہذا اس سلام کے ساتھ وہ نماز سے باہر نہیں ہوا بلکہ دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اسی لئے سجدہ سہو کے بعد وہ دوبارہ سلام پھیرے گا۔ اگر مسجد سے نکلنے یا زیادہ دیر بعد سجدہ سہو یاد آیا تو اب سجدہ سہو فوت ہو گیا۔

## نماز کی نیت کرتے وقت وسوسے آنا:

**مسئلہ ۹:** نماز کی نیت میں وسوسے عقل کی خرابی یا شرعی احکام سے لاعلمی کے سبب آتے ہیں کیونکہ نیت کے معاملے میں حکم الہی کو بجالانا دوسروں کے حکم کو بجالانے کی طرح اور اس کی تعظیم دوسروں کی تعظیم کی طرح ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی عالم دین آئے اور وہ تعظیماً اس کے لئے کھڑا ہو جائے اور اس کے داخل ہوتے ہی کہے: ”میں زید عالم فاضل

①..... احناف کے نزدیک: مصلیٰ (یعنی نمازی) کے بدن کا حدث اکبر و اصغر اور نجاست حقیقیہ قدر مانع سے پاک ہونا نیز اس کے کپڑے اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے، نجاست حقیقیہ قدر مانع سے پاک ہونا (شرط ہے)۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۴۷۶) چنانچہ بقدر مانع نجاست حقیقیہ دیکھی تو نماز شروع ہی نہ ہوگی نئے سرے سے پاک کپڑوں میں نماز پڑھنی ہوگی رہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نماز نہ لوٹنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ”نعلین مبارک میں نجاست نہ تھی۔“ (ماخوذ از مراۃ المناجیح، ج ۱، ص ۴۷۰)

②..... احناف کے نزدیک: فرض و وتر و سنن روا تب میں قعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۱۸)

③..... احناف کے نزدیک: سجدہ سہو سلام کے بعد ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۰۸)

کی آمد پر اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونے کی نیت کرتا اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔“ تو ایسا شخص بے وقوف ہے۔ بلکہ جیسے ہی وہ اسے دیکھے اور اس کی فضیلت کا علم ہو، تعظیم کا سبب پایا جائے اور اسے کھڑا کر دے تو وہ تعظیم کرنے والا ہوگا بشرطیکہ کسی دوسرے کام کے لئے غفلت میں کھڑا نہ ہوا ہو۔ نیت نماز میں امر الہی کی تعمیل کے لئے ظہر، ادا اور فرض کا ہونا اسی طرح شرط ہے جیسے آنے والے عالم دین کی تعظیم کے لئے اس کے آتے ہی کھڑا ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کا کوئی دوسرا سبب نہ ہونا (شرط ہے)۔ نیز تعظیم اسی صورت میں ہوگی کہ تعظیم کا ارادہ بھی ہو کیونکہ اگر وہ اس سے پیڑھے پھیر کر کھڑا ہو گیا یا کچھ دیر ٹھہر کر کھڑا ہوا تو یہ تعظیم نہیں۔ پھر ان صفات کا معلوم و مقصود ہونا بھی ضروری ہے اور دل میں ان کی موجودگی ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ البتہ! اس پر دلالت کرنے والے الفاظ کی ترتیب میں وقت لگتا ہے یا تو وہ زبان سے بولتا ہے یا دل میں سوچتا ہے۔ جو شخص اس طریقے پر نیت کا علم رکھتا ہو گیا وہ نیت کو سمجھا ہی نہیں کیونکہ نیت یہی ہے کہ جب تمہیں وقت پر نماز کی ادائیگی کے لئے بلا یا جائے تو حکم کی تعمیل کے لئے فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ اب وسوسہ محض جہالت ہے۔

جسے وسوسے آتے ہیں وہ اپنے دل کو اس بات کا مکلف بناتا ہے کہ دل میں ظہر، ادا اور فرض ہونے کو ایک ہی حالت میں تفصیلاً ادا کرے اور اسے ملحوظ خاطر رکھے حالانکہ یہ محال ہے۔ اگر (اس طریقے پر) وہ خود کو عالم کی تعظیم کے لئے قیام کا پابند کرے گا تو یہ اس پر دشوار ہوگا۔ الغرض اس حالت کے جان لینے سے ہی وسوسے دور ہو جائیں گے کہ نیت (کے معاملے) میں حکم الہی کی تعمیل غیر کے حکم کی تعمیل کی طرح ہے۔

## اقتدا کے احکام:

مسئلہ ۱۰: مقتدی رکوع و سجود میں آتے جاتے اور تمام ارکان میں امام سے نہ تو آگے بڑھے اور نہ ہی امام کے برابر ہو بلکہ اس سے پیچھے رہے۔ یہی اقتدا کا معنی ہے۔ اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ ساتھ ارکان ادا کئے تب بھی اس کی نماز باطل نہ ہوگی جیسا کہ امام کے پہلو میں اس کے بالکل برابر کھڑا ہونے میں نماز باطل نہیں ہوتی۔

کسی رکن کی ادائیگی میں امام سے بڑھ جانے کی صورت میں نماز باطل ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ بات بعید نہیں کہ اسے اس پر قیاس کیا جائے کہ جس طرح امام سے آگے کھڑے ہونے کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی اسی

طرح کسی رکن کی ادائیگی میں امام سے بڑھ جانے کی صورت میں بھی نماز باطل ہو بلکہ یہاں باطل ہونا ہی زیادہ مناسب ہے (احناف کے نزدیک باطل نہیں ہوگی) کیونکہ جماعت کھڑے ہونے میں نہیں بلکہ فعل میں اقتدا کا نام ہے اور فعل میں امام کی پیروی کرنا زیادہ اہم ہے۔ نیز مقتدی کے لئے امام سے آگے کھڑا نہ ہونے کی شرط اس لئے لگائی ہے تاکہ فعل میں اتباع آسان ہو اور اتباع کا طریقہ معلوم ہو جائے کیونکہ امام کے شانِ شانِ یہی ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو۔ لہذا عمل میں اس سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں ہاں بھول کر ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اسی لئے حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سختی سے اس کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا سر گدھے کا سر کر دے۔“ (۱)

ایک رکن میں امام سے پیچھے رہنے کی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی مثلاً مقتدی رکوع میں نہیں گیا کہ امام رکوع سے سیدھا کھڑا ہو گیا (اس سے نماز تو باطل نہیں ہوگی) لیکن اس حد تک پیچھے رہنا مکروہ ہے۔

اگر امام نے سجدے کے لئے پیشانی زمین پر رکھ دی اور مقتدی ابھی تک رکوع کی حد تک نہیں جھکا تو مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر امام نے دوسرے سجدے کے لئے پیشانی زمین پر رکھ دی اور مقتدی نے ابھی تک پہلا سجدہ بھی نہیں کیا تو بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی (احناف کے نزدیک مذکورہ صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی)۔

### صفیں درست کرنا اور دائیں جانب کی فضیلت:

مسئلہ ۱۱: نماز کے لئے حاضر ہونے والے پر لازم ہے کہ اگر کسی کو نماز میں غلطی کرتا دیکھے تو اسے بتادے اور درست کروائے۔ اگر یہ عمل کسی جاہل سے صادر ہو تو اسے نرمی سے سمجھائے۔ مثلاً صفوں کو برابر کرنے کے لئے کہنا، صف سے علیحدہ تنہا کھڑے ہونے والے کو روکنا، امام سے پہلے سر اٹھانے والے کو روکنا اور اس کے علاوہ دیگر امور۔

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جاہل کی وجہ سے اس عالم کے لئے ہلاکت ہے جو جاہل کو سکھاتا نہیں۔“ (۲)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”جو نماز میں غلطی کرنے والے کو دیکھے اور منع نہ کرے تو

①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تحریم سبق الامام برکوع..... الخ، الحدیث ۴۲، ص ۲۲۸۔

②..... کنز العمال، کتاب العلم، الحدیث ۲۹۰۳۳، ج ۱۰، ص ۸۶، دون ”حیث لا یعلمہ“۔

وہ اس کے گناہ میں شریک ہے۔“

حضرت سیدنا بلال بن سعد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَحَدُ فرماتے ہیں: ”گناہ جب پوشیدہ ہو تو صرف گناہ کرنے والے کو نقصان دیتا ہے لیکن جب ظاہر ہو اور اسے بدلانہ جائے تو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے۔“ (۱)

حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُخُنُونَ پر درے مار کر صفیں درست کرواتے۔ (۲)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”نماز میں اپنے بھائیوں کو نہ پاؤ تو انہیں تلاش کرو۔ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو۔ اگر تندرست ہوں تو انہیں جھڑکو۔“

جھڑکنے سے مراد جماعت چھوڑنے پر تنبیہ کرنا ہے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہئے۔

### حکایت: گویا وہ مردہ ہے:

اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ اس معاملہ میں مبالغہ کرتے حتیٰ کہ بعض بزرگان دین رَجَمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينُ جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کی طرف جنازہ (کی چار پائی) اٹھا کر لے جاتے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ مردہ جماعت سے پیچھے رہتا ہے نہ کہ زندہ۔

مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ صف کی دائیں جانب بیٹھنے کا ارادہ کرے، کہ زمانہ رسالت میں (صف کے) دائیں جانب لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا حتیٰ کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ”بائیں طرف کو چھوڑ دیا گیا۔“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے بائیں جانب کو آباد کیا اس کے لئے دُگنا اجر ہے۔“ (۳)

(نماز میں حاضر ہونے والا) صف میں کسی نا سمجھ بچے کو پائے اور اپنے کھڑے ہونے کی جگہ نہ پائے تو بچے کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ نماز کے وہ مسائل کہ جن میں عام لوگ مبتلا ہیں یہ ان میں سے چند ہیں جن کے بیان کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ نماز کے متفرق احکام اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کتاب الاوراد میں آئیں گے۔



①.....حلیۃ الاولیاء، بلال بن سعد، الحدیث ۹: ۷۰۱، ج ۵، ص ۲۵۳۔

②.....طبقات الحنابلة، الطبقة الاولى، باب المیم، ج ۱، ص ۳۲۸۔

③.....سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیہا، باب فضل میمنة الصف، الحدیث ۱۰۹، ج ۱، ص ۵۳۲، بتغییر۔



## نوافل کا بیان

باب نمبر 7:

جان لیجئے! فرض کے علاوہ دیگر نمازوں کی تین اقسام ہیں: (۱)..... سنت (۲)..... مستحب اور (۳)..... نفل۔

﴿1﴾..... سنت: سے وہ نمازیں مراد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے ادا فرمایا۔ جیسے نمازوں کے بعد کی سنتیں، نماز چاشت، وتر اور تہجد وغیرہ کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے۔

﴿2﴾..... مستحب: سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی فضیلت پر احادیث وارد ہوں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو۔ جیسا کہ ہم عنقریب ہفتہ بھر کی دن رات کی نمازوں کے بیان میں نقل کریں گے۔ مثلاً گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت کی اور اس جیسی دیگر نمازیں۔

﴿3﴾..... تطوع: سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کے متعلق خاص طور پر کوئی حدیث وارد نہ ہوئی ہو لیکن لوگ خود انہیں پڑھتے ہوں کیونکہ شریعت میں نماز کے ذریعے اللہ عزوجل سے مناجات کی ترغیب دی گئی ہے۔ گویا لوگ خود انہیں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نماز معین طریقے پر مستحب نہیں اگرچہ مطلقاً مستحب ہے اور تطوع، تبرع کو کہتے ہیں۔

ان تینوں اقسام کو اس اعتبار سے نوافل کہا جاتا ہے کہ نفل کا معنی زائد ہے اور یہ تمام اقسام فرض پر زائد ہیں۔ انہی مقاصد کو بیان کرنے کے لئے ہم نے نفل، سنت، مستحب اور تطوع کی اصطلاح قائم کر لی ہے، اگر کوئی اس اصطلاح کو بدلے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مقاصد کو سمجھنے کے بعد الفاظ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہر قسم کے درجات فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث اور اقوال صحابہ مروی ہیں یا بیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہمیشگی فرمائی یا اس کے متعلق مروی روایات صحیح اور مشہور ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے: جماعت کی سنتیں انفرادی سنتوں سے افضل ہیں۔ باجماعت سنتوں میں سے افضل عیدین کی نماز ہے، پھر سورج گرہن کی، پھر نماز استسقا۔ انفرادی سنتوں میں افضل وتر، پھر فجر کی دو رکعتیں، پھر اس کے بعد اپنے اپنے مرتبے کے مطابق باقی سنن مؤکدہ ہیں۔

### اضافت کے اعتبار سے نوافل کی تقسیم:

جان لیجئے! نوافل کی اپنے متعلقات کی طرف اضافت کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں: (۱)..... جن کا تعلق اسباب سے ہوتا ہے جیسے نماز کسوف و استسقا۔ (۲)..... جن کا تعلق اوقات سے ہوتا ہے اور اوقات سے متعلقہ نوافل کی بھی

کچھ اقسام ہیں: شب و روز کے نوافل، ہفتہ وار نوافل اور سالانہ نوافل۔ ان تمام کی چار اقسام ہیں۔

## ﴿1﴾..... وہ نمازیں جو ہر دن رات پڑھی جاتی ہیں:

یہ آٹھ ہیں۔ پانچ ان میں سے سنت مؤکدہ ہیں جو پانچ نمازوں کی سنتیں ہیں۔ تین اس کے علاوہ ہیں اور وہ نماز چاشت، مغرب و عشا کے درمیان (یعنی ادائین) کے نوافل اور نماز تہجد ہے۔

## (۱)..... فجر کی سنتیں:

یہ دو رکعتیں ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں مروی ہے کہ آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“ (۱)

ان کا وقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق کناروں میں پھیلنے والی روشنی ہوتی ہے نہ کہ لمبائی میں۔ ابتدا میں مشاہدے کے ساتھ اس کا ادراک مشکل ہوتا ہے مگر یہ کہ چاند کی منازل کا علم ہو یا یہ کہ فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو صبح صادق اس کے ساتھ متصل ہوگی پس اس طرح ستاروں کے ذریعے اس پر رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مہینے کی دوراتوں میں چاند کے ذریعے یہ وقت معلوم ہوتا ہے کیونکہ چھبیسویں کی رات چاند فجر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور مہینے کی بارہویں رات چاند کے غروب ہونے کے ساتھ فجر طلوع ہوتی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض برجوں میں فرق بھی پڑتا ہے، اس کی تشریح طویل ہے۔ ساک کے لئے چاند کی منازل کا جاننا، ہم امور میں سے ہے تاکہ وہ دن رات کے اوقات کی مقدار پر مطلع ہو سکے۔

فجر کی فرض نماز کا وقت فوت ہو جانے سے فجر کی سنتیں فوت ہو جاتی ہیں اور وہ طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ انہیں فرض نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو فرض نماز ادا کرے کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں۔“ (۲)

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب رکعتی سنة الفجر، الحدیث: ۷۴، ص ۳۶۶۔

②..... المرجع السابق، باب کراهة الشروع فی نافلة بعد شروع..... الخ، الحدیث: ۷۱، ص ۳۵۸۔

جب فرض نماز سے فارغ ہو تو اٹھ کر سنتیں ادا کر لے (۱) اور صحیح یہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا ہی ہوں گی کیونکہ یہ دونوں وقت میں فرض کے تابع ہیں۔ تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ان میں ترتیب اس وقت سنت ہے جب جماعت نہ ہو اور جماعت ہو اور ہی ہو اور جماعت ہو اور ہی ہو تو ترتیب بدل جائے گی لیکن ادائیگی باقی رہے گی (۲)۔

مستحب یہ ہے کہ سنتیں گھر میں مختصر طور پر ادا کرے۔ پھر مسجد میں داخل ہو اور دو رکعت تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا کرے اور بیٹھ جائے (۳) پھر فرض نماز تک کوئی نماز نہ پڑھے۔ نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں ذکر و فکر، فجر کی دو رکعتوں اور فرض نماز پر اکتفا کرے۔

## (۲)..... ظہر کی سنتیں:

یہ چھ رکعات ہیں۔ دو فرض کے بعد ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں اور چار فرض سے پہلے ہیں، وہ بھی سنت ہیں لیکن فرضوں کے بعد والی دو رکعتوں کے مقابلے میں کم اہم ہیں۔

## ظہر کی چار سنتوں کی فضیلت:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے زوال کے بعد چار رکعتیں پڑھیں ان میں اچھی طرح قراءت کی اور رکوع و سجود کیا اس کے

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 664 پر ہے: فجر کی سنت قضا ہوگی اور فرض پڑھ لے تو اب سنتوں کی قضا نہیں البتہ امام محمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فرماتے ہیں: کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اور طلوع سے پیشتر (سورج نکلنے سے پہلے) بالاتفاق ممنوع ہے۔ آج کل اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔

②..... بہار شریعت جلد اول صفحہ 665 پر ہے: جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوا سنت فجر کے کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے۔

③..... بہار شریعت جلد اول صفحہ 455 پر ہے: حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی (نفل) نماز نہیں سوا دو رکعت

فجر کے“ (المعجم الاوسط لطبرانی، الحدیث: ۸۱، ج ۱، ص ۲۳۸)

لہذا احتیاط کے نزدیک: طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کہ اس درمیان میں سوا دو رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔

ساتھ 70 ہزار فرشتے نماز پڑھتے اور رات تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زوال کے بعد چار طویل رکعتیں پڑھنا ترک نہ کرتے اور ارشاد فرماتے: ”اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میرا عمل بلند ہو۔“ (۲)

### ہر روز بارہ رکعت سنت ادا کرنے کی فضیلت:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کیں اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا: دو رکعتیں نماز فجر سے پہلے، چار ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، دو عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔“ (۳)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر روز کی دس رکعتیں یاد کیں۔“ پھر انہوں نے فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ وہ تمام ذکر کیں جو ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ صبح کے وقت بارگاہ رسالت میں کوئی نہیں جاتا تھا مگر میری بہن ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتایا کہ ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں دو رکعت نماز ادا فرما کر باہر تشریف لے جاتے تھے۔“ (۴)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ظہر سے پہلے دو رکعت سنت اور دو عشا کے بعد بیان کیں یوں ظہر سے قبل دو رکعتیں چار کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہو گئیں اور ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔

### زوال کے وقت کی پہچان:

زوال کی پہچان یہ ہے کہ کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو کر مشرق کی طرف جھکے تو اس کا سایہ زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ طلوع

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة فی الايام..... الخ، ج ۱، ص ۵۲۔

②..... المرجع السابق۔ شرح معانی الآثار، کتاب الصلاة، باب التطوع باللیل والنهار، الحدیث: ۱۹۴، ج ۱، ص ۳۳۶۔

③..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب ثواب من صلی فی الیوم..... الخ، الحدیث: ۱۸۰، ص ۳۰۸۔

④..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب الرکعتان قبل الظہر، الحدیث: ۱۱۸۱-۱۱۸۱، ج ۱، ص ۳۹۸، مفہومًا۔

کے وقت سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے جوں جوں سورج بلند ہوتا جاتا ہے سایہ کم ہوتا اور مغرب کی سمت سے ہٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ سورج اپنی انتہائی بلندی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ نصف النہار کی قوس ہے۔ یہاں سایہ کم ہونا رک جاتا ہے جب سورج انتہائی بلندی سے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب یہ اضافہ محسوس ہونے لگے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

### ابتدائے وقت عصر:

زوال کے وقت سائے کے سرے پر ایک علامت (مثلاً کوئی لکڑی) رکھی جائے جب سایہ اس لکڑی کی ایک مثل ہو جائے تو (ظہر کا وقت ختم اور) عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

### (۳)..... عصر کی سنتیں:

یہ عصر سے پہلے چار رکعات ہیں۔ حضرت سپیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں۔“<sup>(۲)</sup>

دعائے مصطفیٰ میں شامل ہونے کی امید پر یہ نماز پڑھنا نہایت مؤکد مستحب ہے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی دعا بالیقین قبول ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے دو سنتیں پڑھتے عصر سے قبل کی سنتوں پر اس طرح ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی۔

### (۴)..... مغرب کی سنتیں:

یہ فرض نماز کے بعد دو رکعتیں ہیں ان کے متعلق روایت میں اختلاف نہیں۔ البتہ نمازِ مغرب سے پہلے یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعتیں جلدی جلدی پڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کی ایک جماعت جیسے حضرت سپیدنا اُبی بن کعب، حضرت سپیدنا عبادہ بن صامت، حضرت سپیدنا ابو ذر اور حضرت

①..... احناف کے نزدیک: عصر کا وقت (کسی چیز کے) سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل سایہ ہونے پر شروع ہوتا ہے۔

(مختصر القدوری، ص ۳۴، ۳۵)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲، ج ۲، ص ۳۵، عن ابن عمر۔

سیدنا زید بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وغيره سے روایت منقول ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت یا کوئی اور صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ دستونوں کی طرف جلدی جلدی جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔“ (۱)

بعض صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ فرماتے ہیں: ”ہم مغرب سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرتے حتیٰ کہ داخل ہونے والا سمجھتا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں تو وہ پوچھتا کیا تم مغرب کی نماز پڑھ چکے ہو؟“ (۲)

یہ اس عام فرمان مصطفیٰ کے تحت داخل ہے کہ ”دواذانوں (یعنی اذان و اقامت) کے درمیان نماز ہے جو چاہے پڑھے (۳)۔“ (۳)

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّلُ یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے پر چھوڑ دیں وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں پڑھتے اس لئے میں نے بھی ترک کر دیں۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص یہ دو رکعتیں گھر میں پڑھے یا ایسی جگہ پڑھے جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے تو بہتر ہے۔“ (۵)

## ابتدائے وقت مغرب:

ایسی ہموار زمینیں جو پہاڑوں کے پیچھے نہیں چھپی ہوتیں ان میں مغرب کا وقت سورج کے نگا ہوں سے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اگر وہ مغرب کی طرف سے پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوں تو توقف کیا جائے یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے اندھیرا آتا دکھائی دے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب رات ادھر سے آجائے اور دن وہاں سے چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔“ (۶)

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين..... الخ، الحديث: ۸۳، ص ۴۱۸، عن انس بن مالك۔

②..... المرجع السابق، الحديث: ۸۳، ص ۴۱۸، مفہومًا۔

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل اذانين صلاة، الحديث: ۸۳، ص ۴۱۸۔

④..... احناف کے نزدیک: غروب آفتاب سے فرض مغرب تک نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج ۱، ص ۵۳)

⑤..... قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۱، ص ۲۴۸۔

⑥..... صحیح مسلم، کتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، الحديث: ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۰، ص ۵۵۲۔

مغرب کی نماز خصوصاً جلدی جلدی پڑھنا پسندیدہ ہے اگر اسے شفقِ احمر (سرخ) غائب ہونے سے پہلے جلدی جلدی پڑھ لے تو ادا ہوگی لیکن (اتنی تاخیر) مکروہ ہے<sup>(۱)</sup>۔ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر ہوگئی کہ ایک ستارہ نکل آیا تو آپ نے ایک غلام آزاد کیا اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اتنی تاخیر ہوگئی کہ دو ستارے نکلنے آئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔

## (۵)..... عشا کی سنتیں:

یہ فرض نماز کے بعد چار رکعتیں ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشا کی نماز کے بعد چار رکعت پڑھتے پھر آرام فرماتے۔“<sup>(۲)</sup>

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے (مذکورہ) احادیث کے مجموعہ سے فرضوں کی تعداد کے مطابق 17 سنتوں کو اختیار فرمایا: ”دور کعتیں فجر سے پہلے، چار ظہر سے پہلے دو بعد، چار عصر سے پہلے، دو مغرب کے بعد اور عشا کے بعد تین وتر۔“<sup>(۳)</sup>

جب آپ اس سلسلے میں وارد روایات کی پہچان حاصل کر چکے تو ان کی تعداد معین کرنے کا کیا معنی حالانکہ حضور انور، شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نماز جو مقرر کی گئی اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے تو جو چاہے زیادہ پڑھے اور جو چاہے کم پڑھے۔“<sup>(۴)</sup> لہذا راہِ آخرت کا ہر مسافر نمازوں میں سے اسی قدر اختیار کرتا ہے جس قدر وہ بھلائی میں رغبت رکھتا ہے۔ ہماری ذکر کردہ تفصیل سے واضح ہوا کہ بعض نوافل کی دیگر بعض سے زیادہ تاکید ہے اور مؤکد

①..... احناف کے نزدیک: وقت مغرب: غروب آفتاب سے غروبِ شفق تک ہے۔ شفق ہمارے مذہب میں اس سپیدی کا نام ہے، جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۴۵۰، ۴۵۱)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب الصلاة بعد العشاء، الحدیث ۴۱۳۰، ج ۲، ص ۲۶، باختصار۔

③..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب کیف الوتر بثلاث؟، الحدیث ۱۶۹، ص ۲۹۳، ۲۹۴، مفہوماً۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضی اللہ عنہا، الحدیث ۲۵۲۷، ج ۹، ص ۹۸، مفہوماً۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث ۲۱۶۰، ج ۸، ص ۱۳۰، بتقدم و تاخیر۔

عمل کو ترک کرنا مناسب ہے خصوصاً اس صورت میں کہ فرائض کی تکمیل نوافل کے ذریعے ہوتی ہے تو جو کثرت سے نوافل نہ پڑھے تو قریب ہے کہ اس کے فرائض پورے نہ ہوں اور ان کے نقصان کے تدارک کی بھی کوئی صورت نہ ہو۔

## (۶)..... نماز وتر:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”مکی مدنی سرکار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عشا کے بعد تین رکعات وتر پڑھتے۔ پہلی رکعت میں ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْظَمَ“، دوسری میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور تیسری میں ”قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ“ کی تلاوت فرماتے۔“ (۱)

حدیث پاک میں ہے کہ ”مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وتر کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر ادا کرتے اور کچھ حصہ چار زانو پڑھتے تھے۔“ (۲)

بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ ”جب بستر پر تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو گھٹنوں کے بل اس کی طرف بڑھتے اور سونے سے پہلے اس پر دو رکعتیں ادا فرماتے اور ان میں ”سورۃ زلزال“ اور ”سورۃ تکوین“ پڑھتے۔“ (۳)

ایک روایت میں ہے کہ ”سورۃ تکوین“ کی جگہ ”سورۃ کافرون“ پڑھتے۔“ (۴)

وتر موصولاً یعنی ایک سلام کے ساتھ اور مفصلاً یعنی دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے (۵)۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصلاة، باب ماجاء فیما یقرا فی الوتر، الحدیث: ۱۷۱، ج ۲، ص ۴۷، ملخصاً۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب صلاة اللیل..... الخ، الحدیث: ۴۳، ص ۳۷۲۔

③..... حاشیة اعانة الطالبین، فصل فی صلاة النفل، ج ۱، ص ۳۳۱۔

قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون فی فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۲، ص ۲۷، دون ”یقرء“۔

④..... السنن الكبرى للبيهقي، کتاب الصلاة، باب فی الركعتین بعد الوتر، ج ۳، ص ۴۸۔

حاشیة اعانة الطالبین، فصل فی صلاة النفل، ج ۱، ص ۳۳۱۔

⑤..... احناف کے نزدیک: نماز وتر واجب ہے اور نماز وتر تین رکعت ہے اور اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے اور قعدہ اولیٰ میں صرف

التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے جیسے (نماز) مغرب میں کرتے ہیں اسی طرح کرے اور اگر قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں بلکہ سجدہ سہو کرے۔ وتر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ

سورت ملانا واجب۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۵۳، ۶۵۴)



نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک، تین، پانچ<sup>(۱)</sup> اور اسی طرح گیارہ رکعات سے وتر بناتے تھے۔<sup>(۲)</sup> تیرہ رکعتوں والی روایت میں اضطراب ہے۔<sup>(۳)</sup> ایک غیر معروف روایت میں ۱۷ رکعت وتر کا ذکر ہے۔<sup>(۴)</sup> تمام رکعتیں جنہیں ہم نے وتر کا نام دیا ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شب کی نماز یعنی تہجد تھی اور رات کو تہجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ عنقریب کتاب الاوراد (یعنی وظائف کے بیان) میں اس کا ذکر آئے گا۔

## وتر کتنی رکعت پڑھنا افضل ہے؟

وتر کی فضیلت میں اختلاف ہے: (۱)..... ایک رکعت وتر پڑھنا افضل ہے کیونکہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھنے کی اختیار فرماتے تھے۔ (۲)..... (وتر تین رکعت) ملا کر پڑھنا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ نہ رہے خصوصاً جب امام پڑھا رہا ہو کیونکہ بعض اوقات اس کی اقتدا میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو ایک رکعت نماز کا قائل نہیں ہوتا (مثلاً کوئی حنفی مقتدی ہو)۔ اگر ملا کر پڑھے تو تمام سے وتر کی نیت کرے۔ اگر عشا کی دو سنتوں یا فرضوں کے بعد ایک رکعت وتر کی نیت سے پڑھے تو یہ بھی درست ہے۔ کیونکہ نماز وتر میں شرط یہ ہے کہ وہ طاق ہو اور غیر کو بھی طاق بنا دے جیسے پہلے گزرا کہ اس نماز نے فرض نماز کو وتر بنا دیا۔ عشا سے قبل وتر پڑھنا درست نہیں یعنی وتر کی فضیلت نہ پائے گا جو اس کے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔<sup>(۵)</sup> ورنہ جب بھی ایک رکعت پڑھے درست ہے (عند الشوافع)۔ عشا سے پہلے صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عملاً اجماع امت کے خلاف ہے۔ نیز اس سے پہلے کوئی نماز نہیں جو اس کے ساتھ وتر بن سکے۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة اللیل..... الخ، الحدیث: ۴۳، ص ۳۷۱۔

سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب کیف الوتر بثلاث؟، الحدیث: ۱۶۹، ص ۲۹۲۔

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة اللیل..... الخ، الحدیث: ۴۳، ص ۳۷۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة اللیل..... الخ، الحدیث: ۴۳، ص ۳۷۵۔

سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب فی صلاة اللیل، الحدیث: ۱۳۶، ج ۲، ص ۶۶۔

③..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب فی صلاة اللیل، الحدیث: ۱۳۶، ج ۲، ص ۶۶۔

④..... الزهد لابن المبارک، الجزء العاشر، الحدیث: ۱۲۴، ص ۴۵۱۔

⑤..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب استحباب الوتر، الحدیث: ۱۴۱، ج ۲، ص ۸۹۔

اگر تین وتروں کو علیحدہ علیحدہ پڑھے تو دو رکعتوں کی نیت میں تامل ہے کیونکہ اگر اس سے وہ تہجد یا عشا کی سنتوں کی نیت کرے تو وہ وتر نہ ہوں گے اور اگر وتروں کی نیت کرے تو وہ ذاتی طور پر وتر نہیں کہ وتر تو اس کے بعد ہیں۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ وتر کی نیت کرے جیسا کہ متصلاً تین رکعت میں وتر کی نیت کرتا ہے۔

## وتر کے معانی:

وتر کے دو معانی ہیں: ایک یہ کہ وہ فی نفسہ وتر ہیں اور دوسرا یہ کہ اسے بعد والی رکعت سے ملا کر وتر بنا دیا جائے اور تین کا مجموعہ وتر بن جائے۔ تین رکعتوں میں سے دو رکعتوں کا وتر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہے۔ اگر اس کا عزم ہو کہ تیسری رکعت کے ساتھ وتر بنالے گا تو ان دونوں سے وتر کی نیت کرے کہ تیسری رکعت بنفسہ وتر ہے اور غیر کو وتر بنانے والی ہے۔ دو رکعتیں نہ تو بذات خود وتر ہیں اور نہ ہی کسی اور کو وتر بناتی ہیں لیکن دوسری نماز کے ساتھ وتر بن جاتی ہیں۔ نماز وترات کی نماز کے آخر میں ہونی چاہئے یوں یہ تہجد کے بعد واقع ہوگی۔

نماز وتر و تہجد کے فضائل اور ان دونوں کے درمیان ترتیب کا طریقہ کار ان شاء اللہ عزوجل کتاب ترتیب الاوراد (وظائف کی ترتیب کے بیان) میں آئے گا۔

## (۷)..... نماز چاشت:

نماز چاشت پر پیشگی اختیار کرنا اچھا اور باعث فضیلت ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بہن حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ”حضور انور، شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں، انہیں نہایت طویل اور عمدگی سے پڑھا۔“<sup>(۱)</sup> یہ تعداد کسی اور صحابی نے نقل نہیں کی بلکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار انبیا، محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی چار رکعات پڑھتے تھے اور مزید جتنی اللہ عزوجل چاہتا پڑھتے۔“<sup>(۲)</sup> زیادتی کی کوئی حد نہیں یعنی چار رکعات پر پیشگی اختیار فرماتے تھے اس سے کم

①..... صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحو، الحديث: ۳۳، ص ۱۸۶، دون ”اطالعن وحسنهن“۔

قوت القلوب، الفصل السادس والثلاثون في فضائل اهل السنة..... الخ، ج ۳، ص ۲۴۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحی..... الخ، الحديث: ۷۱، ص ۳۶۲۔

نہ پڑھتے، البتہ کبھی زیادہ پڑھ لیتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے چاشت کی چھ رکعتیں ادا فرماتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## چاشت کا وقت:

جہاں تک اس کے وقت کا تعلق ہے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک ﷺ دو وقتوں میں چاشت کی چھ رکعتیں پڑھتے تھے: (۱)..... جب سورج روشن اور بلند ہو جاتا تو دو رکعتیں پڑھ لیتے۔ یہ دن کے وظائف میں سے دوسرے وظیفے کا پہلا حصہ ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ (۲)..... جب سورج مشرقی جانب آسمان کے چوتھے حصے میں پھیل جاتا تو چار رکعت پڑھتے۔<sup>(۲)</sup>

پہلی (دو رکعت) اس وقت پڑھتے جب سورج نصف نیزہ بلند ہو جاتا اور باقی رکعات دن کا چوتھائی حصہ گزر جانے پر پڑھتے جو نماز عصر کا مقابل وقت ہوتا کیونکہ عصر کا وقت وہ ہے کہ جب دن کا چوتھائی حصہ باقی رہے۔ ظہر کا وقت نصف دن سے شروع ہوتا ہے۔ چاشت کا وقت طلوع آفتاب اور زوال کے نصف میں ہوتا ہے جیسا کہ عصر کا وقت زوال اور غروب آفتاب کے نصف میں ہوتا ہے۔ یہ تمام اوقات میں افضل وقت ہے۔ الغرض سورج بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک چاشت کا وقت ہے۔

## (۸)..... صلوة الاوائین:

یہ نماز بھی سنت مؤکدہ ہے (عند الشوافع)۔ اس کی چھ رکعات منقول ہیں۔<sup>(۳)</sup> اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ:

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

سے۔

(پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

منقول ہے کہ ”اس فرمان عالیشان سے یہی (یعنی صلوة الاوائین) مراد ہے۔ نیز مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ

①..... المعجم الكبير، الحديث: ۱۰۶۳، ج ۲۳، ص ۲۳۵۔

②..... سنن النسائي، كتاب الامامة، باب الصلاة قبل العصر..... الخ، الحديث: ۸۷۸، ص ۱۵۲، مفہومًا۔

③..... المعجم الصغير، باب الميم، ج ۲، ص ۲۸۔

اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مغرب و عشا کے درمیان نماز پڑھی تو یہ اوابین کی نماز ہے۔“ (۱)

## صلوۃ الاوابین پڑھنے کی فضیلت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لیبِ صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص خود کو مغرب و عشا کے درمیان مسجد میں روکے رکھے، نماز و تلاوت قرآن کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے لئے جنت میں دو ایسے محل بنائے کہ ہر محل کی لمبائی 100 سال کی مسافت ہوگی اور اس کے لئے ان دونوں کے درمیان ایسا درخت لگائے کہ اگر تمام اہل زمین اس میں گھومیں تو سب کے لئے کافی ہو۔“ (۲)

باقی فضائل اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کتاب الاوراد کے بیان میں آئیں گے۔

## ﴿2﴾..... ہفتہ وار شب و روز کے نوافل:

یہ ہفتے کے تمام دنوں اور راتوں کی نمازیں ہیں۔ رہی دن کی نمازیں تو ہم ہفتے کے دن سے شروع کرتے ہیں:

### اتوار کے نوافل

### جنت میں خالص کستوری کا شہر:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ نبی مدنی سرکار صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھی یوں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات (امن الرسول سے آخر تک) پڑھیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے تمام نصرانی مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھے گا۔ اسے ایک نبی کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے لئے ایک حج و عمرے کا ثواب لکھے گا۔ ہر رکعت کے بدلے ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر حرف کے بدلے جنت میں خالص کستوری کا شہر عطا فرمائے گا“ (۳)۔“

کا (۳)۔“

①..... الزهد لابن المبارك، الجزء العاشر، الحديدي ۱۲۵۹، ص ۴۴۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادي عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۔

③..... اس حدیث کو علمائے موضوع قرار دیا ہے لہذا اسے بیان نہ کیا جائے۔

④..... قوت القلوب، الفصل الحادي عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۲۔

## چار رکعت پڑھنے کی فضیلت:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اتوار کے دن کثرتِ نماز سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت بیان کرو۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس جس نے اتوار کے دن نمازِ ظہر کے فرض و سنتوں کے بعد چار رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تنزیل السجدہ پڑھی اور دوسری میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ ملک پڑھی پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا پھر آخری دو رکعتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور ان میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ جمعہ کی تلاوت کی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی حاجت طلب کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرمادے۔“ (۱)

## پیر کے نوافل

## تمام گناہ معاف:

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص بروز پیر سورج بلند ہوتے وقت دو رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک بار آیۃ الکرسی، ایک بار سورۃ اخلاص اور ایک ایک بار معوذتین (یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس) پڑھے پھر سلام پھیر کر دس بار استغفار کرے اور دس بار مجھ پر درودِ پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا۔“ (۲)

## فرشتے استقبال کریں گے:

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص بروز پیر بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد بارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور بارہ بار استغفار کرے تو بروز قیامت ندا دی جائے گی: ”فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ثواب لے لے۔“ چنانچہ بطورِ ثواب اسے پہلے ہزار حُلّے اور تاج عطا

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۲-۵۳۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۳۔

کئے جائیں گے اور کہا جائے گا: ”جنت میں داخل ہو جا۔“ پس ایک لاکھ فرشتے ایک لاکھ تحفوں سے اس کا استقبال کریں گے اور اسے تحفے پیش کریں گے حتیٰ کہ وہ نور سے بنے ہوئے ہزار محلات پر جائے گا جو جگمگا رہے ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

## منگل کے نوافل

### شہادت کی موت:

حضرت سیّدنا یزید رقاشی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا اِسْمٰئِيْلُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے منگل کے دن نصف دن کے وقت دس رکعت نماز پڑھی۔“ ایک روایت میں ہے کہ ”سورج بلند ہوتے وقت دس رکعت نماز پڑھی ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیۃ الکرسی اور تین بار سورہ اخلاص پڑھی تو 70 دن تک اس کی کوئی برائی نہ لکھی جائے گی اگر 70 دن کے اندر مر گیا تو شہادت کی موت مرے گا اور اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“<sup>(۲)</sup>

## بدھ کے نوافل

### عذاب قبر اور قیامت کی سختیوں سے نجات:

حضرت سیّدنا ابودردیس خولانی قَدَسَ سِرُّهُ التُّوْرَانِي حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس نے بدھ کے دن سورج بلند ہوتے وقت بارہ رکعت نماز ادا کی ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیۃ الکرسی، تین بار سورہ اخلاص اور تین تین بار معوذتین (یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس) پڑھیں تو عرش کے پاس ایک منادی ندا دیتا ہے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے! نئے سرے سے عمل کرتیرے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تجھ سے قبر کا عذاب، اس کی تنگی و تاریکی اور قیامت کی سختیوں کو اٹھالیا۔“ اس دن ایک نبی کے عمل کے برابر اس کا عمل بلند ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۳، ”يشيعونه“ بدله ”يسعون به“۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۳۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۳، ليس فيه ذكر آية الكرسي۔

## جمعرات کے نوافل

### مؤمنین و متوکلین کی تعداد کے برابر نیکیاں:

حضرت سیدنا عمرؓ نے رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں پڑھیں پہلی رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 100 بار آیتہ الکرسی اور دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 100 بار سورہ اخلاص پڑھی اور 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والے کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے لئے حج کرنے والے کی مثل ثواب ہے۔ نیز اس کے لئے مؤمنین و متوکلین کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔“<sup>(۱)</sup>

## جمعہ کے نوافل

### نیکیاں ہی نیکیاں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَبِيْرُ سے مروی ہے کہ آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جمعہ کا پورا دن نماز کے لئے ہے۔ جب سورج قرار پکڑ لے اور نیزے کی مقدار یا اس سے زیادہ بلند ہو جائے تو کوئی بندہ مومن اچھی طرح وضو کرے پھر حالت ایمان اور ثواب کی امید پر دو رکعت نماز چاشت پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 200 نیکیاں لکھتا، اس کے 200 گناہ مٹاتا ہے اور جو چار رکعتیں پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت میں اس کے 400 درجات بلند فرماتا ہے اور جو آٹھ رکعتیں پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت میں اس کے 800 درجات بلند فرماتا اور اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اور جو بارہ رکعتیں پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے 2200 نیکیاں لکھتا، 2200 گناہ مٹاتا ہے اور جنت میں اس کے 2200 درجات بلند فرماتا ہے۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیدنا نافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت کرتے ہیں

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۴، بتغییر۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۴، بتغییر۔

کہ حضور نبی اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا یا اسے دکھا دیا جائے گا۔“ (۱)

## ہفتہ کے نوافل

### عرش الہی کے سائے میں انبیا و شہداء علیہم السلام کا ساتھ:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص ہفتہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ عزوجل ہر حرف کے بدلے اس کے لئے ایک حج و عمرے کا ثواب لکھتا، ہر حرف کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب بڑھاتا، ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور (بروز قیامت) وہ انبیائے کرام و شہدائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔“ (۲)

ہفتہ وار شب کے نوافل۔

## شب اتوار کے نوافل

### انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخلہ:

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص شب اتوار میں رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ، 50 بار سورۃ اخلاص اور ایک ایک بار معوذتین (سورۃ فلق و ناس) پڑھے پھر 100 بار استغفار کرے پھر اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے 100 بار مغفرت کی دعا مانگے، 100 بار درود پاک پڑھے، اپنی طاقت و قوت سے براءت کا اظہار کرے اور اللہ عزوجل کی

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۴۔

②..... المرجع السابق، ص ۵۵، ”قل هو اللہ احد“ بدلہ ”قل یا ایہا الکفرون“۔



پناہ طلب کرے پھر کہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت آدم عَلَیْهِ السَّلَامُ صَفِيُّ اللّٰهِ ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلَامُ خَلِيلُ اللّٰهِ، حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَلِيمُ اللّٰهِ، حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ رُوحُ اللّٰهِ اور حضرت محمد صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ حَبِيبُ اللّٰهِ ہیں تو اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اولاد کی دعا مانگنے اور نہ مانگنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب ہے۔ بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے امن والوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔“ (۱)

## شبِ پیر کے نوافل

### صلوٰۃ الحاجت پڑھنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا عَمْرٍو رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهِ حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، رسول مختتم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو پیر کی شب چار رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 10 بار سورۃ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 20 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تیسری میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 30 بار سورۃ اخلاص پڑھے، چوتھی میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 40 بار سورۃ اخلاص پڑھے پھر سلام پھیر کر 75 بار سورۃ اخلاص پڑھے پھر اپنے اور اپنے والدین کے لئے 75 بار استغفار کرے پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرمادے۔“ (۲)

## شبِ منگل کے نوافل

جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں 15 بار سورۃ فاتحہ، 15 بار سورۃ اخلاص اور 15 بار مُعَوِّذَتَيْنِ (یعنی سورۃ فلق و ناس) پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 15 بار آیت الکرسی پڑھے اور 15 بار اللہ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار کرے تو اس کے لئے عظیم ثواب اور بڑا اجر ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاۃ..... الخ، ج ۱، ص ۵۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاۃ..... الخ، ج ۱، ص ۵۵-۵۶، بتغییر۔

## جہنم سے آزادی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص منگل کی رات دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور سات بار سورۃ قدر اور سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرمادے گا اور بروزِ قیامت یہ نماز اس کے لئے جنت کی طرف راہنما اور دلیل ہوگی۔“ (۱)

## شبِ بدھ کے نوافل

### 4 لاکھ 90 ہزار ملائکہ کا نزول:

شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے کہ نانائے حسنین، دکھی دلوں کے چین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص بدھ کی رات چار رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 10 بار سورۃ فلق پڑھے، دوسری میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور 10 بار سورۃ ناس پڑھے پھر سلام کے بعد 10 بار استغفار کرے اور 10 بار مجھ پر درودِ پاک پڑھے تو ہر آسمان سے 70 ہزار فرشتے نازل ہوں گے جو قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔“ (۲)

### اہل خانہ کے 10 افراد کی شفاعت کا حق:

ایک روایت میں ہے کہ ”جو (اس رات) 16 رکعت نماز پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد جتنا چاہے (قرآن) پڑھے اور ہر دو رکعت کے آخر میں 30 بار آیت الکرسی پڑھے اور پہلی دو رکعتوں میں 30 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ اپنے گھر والوں میں سے ان 10 اشخاص کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔“

### 70 سال کے گناہ معاف:

شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۶، باختصار۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۶، لیس فیہ ذکر الاستغفار والتسليم۔

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شب بدھ چھ رکعات پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت: **قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ** بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھے، جب فارغ ہو تو یوں کہے: **جَزَا اللَّهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ** یعنی اللہ عزوجل ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شایان شان جز عطا فرمائے۔ تو اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی۔“

## شب جمعرات کے نوافل

### شہدا و صدیقین کا مرتبہ:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے جمعرات کی رات مغرب و عشا کے درمیان دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پانچ بار آیہ الکرسی، پانچ بار سورہ اخلاص اور پانچ پانچ بار معوذتین (یعنی سورہ فلق و ناس) پڑھیں اور سلام کے بعد 15 بار استغفار کیا اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچایا تو تحقیق اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اگرچہ ان کا نافرمان ہو اور اللہ عزوجل اسے شہدا و صدیقین کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔“ (۱)

## شب جمعہ کے نوافل

### 12 سال شب و روز عبادت کی مثل:

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص شب جمعہ مغرب و عشا کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 12 سال اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کی کہ دن روزے میں اور رات قیام میں گزاری۔“ (۲)

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۶۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۔





(5)..... وقت کا خیال رکھنا: عید کی نماز کا وقت طلعِ آفتاب سے زوال تک ہے۔

## قربانی کا وقت:

قربانی کے وقت کی ابتدا دو خطبوں اور دو رکعتوں جتنی دیر کے بعد سے لے کر تیرہ ذی الحجہ کے آخر (یعنی غروب آفتاب سے پہلے) تک ہے (۱)۔ قربانی کی وجہ سے عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے اور عید الفطر میں تاخیر مستحب ہے تاکہ پہلے صدقہ فطر تقسیم ہو جائے، یہی سنت ہے۔ (۲)

## نماز عید کا طریقہ:

(6)..... نماز عید کے لئے جاتے ہوئے لوگ راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ جب امام عید گاہ پہنچے تو نہ بیٹھے، نہ نفل پڑھے اور لوگ بھی نفل نہ پڑھیں پھر ایک منادی اعلان کرے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ امام انہیں دو رکعتیں پڑھائے پہلی رکعت میں امام تکبیر تحریمہ اور تکبیر رکوع کے علاوہ سات تکبیریں کہے اور ہر دو تکبیروں کے درمیان یہ تسبیح پڑھے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“، تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کہے: اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ فَطَرَّ السَّلٰوٰتِ وَالْاَسْرَءِ (یعنی میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے) اور آٹھویں تکبیر تک تعوذ (یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ) نہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ق اور دوسری میں اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (سورہ قمر) پڑھے۔ دوسری رکعت میں قیام اور رکوع کی تکبیروں کے علاوہ زائد تکبیریں پانچ ہیں، اس میں بھی ہر دو تکبیروں کے درمیان مذکورہ تسبیح پڑھے۔ نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے ان کے درمیان کچھ دیر بیٹھے۔ جس کی نماز عید فوت ہو جائے وہ اس کی قضا کرے (۳)۔

①..... احناف کے نزدیک: قربانی کا وقت دسویں ذی الحجہ کے طلوعِ صبح صادق سے بارہویں کے غروبِ آفتاب تک ہے۔

(بہار شریعت، ج ۳، ص ۳۳۶)

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة العیدین، باب الغدو الى العیدین، الحدیث ۶۱۴، ج ۳، ص ۳۹۹۔

③..... احناف کے نزدیک: امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہوگئی تو اگر

دوسری جگہ مل جائے پڑھے ورنہ نہیں پڑھ سکتا، ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۸۳)

**نوٹ:** نماز عید کا طریقہ حنفی کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد اول، حصہ چہارم کے صفحہ 781، 782 کا مطالعہ کیجئے!

## قربانی:

(7)..... مینڈھے کی قربانی کرنا (سنت ہے) کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دو چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور پڑھا: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَيِّحْ مِنْ اُمَّتِي يَعْنِي اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ“ کے نام سے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے۔ یہ قربانی میری طرف سے اور میری اُمت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔“ (۱)

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔“ (۲)

حضرت سیدنا ابویوب انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”ایک شخص عہد رسالت میں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا وہ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔“ (۳) قربانی کا گوشت تین دن بلکہ اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں پہلے اس کی ممانعت تھی پھر رخصت دے دی گئی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”عید الفطر کے بعد 12 رکعتیں پڑھنا اور عید الاضحیٰ کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ (جبکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ سنت ہے۔“

نماز تراویح: نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ ان کا طریقہ مشہور ہے اور یہ بھی سنتِ مؤکدہ ہیں اگرچہ اس کا درجہ عیدین سے کم ہے۔

## تراویح تنہا پڑھنا افضل ہے یا باجماعت (۴):

اس میں اختلاف ہے کہ نماز تراویح باجماعت پڑھنا افضل ہے یا تنہا کیونکہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ

- ①..... سنن ابی داؤد، کتاب الضحایا، باب ما يستحب من الضحایا، الحدیث: ۲۷۹، ج ۳، ص ۱۲۶، بتغییر۔
- ②..... صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجۃ..... الخ، الحدیث: ۱۹۴، ص ۱۰۹۲، مفہومًا۔
- ③..... سنن الترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء أن الشاة الواحدة..... الخ، الحدیث: ۱۵۱، ج ۳، ص ۱۶۸۔
- ④..... احناف کے نزدیک: تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھی لی تو گنہگار نہیں مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۹۱)

وَسَلَّمَ تَرَاوُحَ كِي جَمَاعَتِ كَل لَئِ دَوِيَا تِي ن رَا تِي ن تَشْرِيفِ لَئِ پَهْر تَشْرِيفِ نَد لَئِ اَوْر اَر شَا د فَر مَآيَا: ”مَجْه خُوفِ هَ كَل تَم  
پَر وَا جِب نَه هُو جَا ئَ“ (۱)

جِب وَجِي مَنقَطَعِ هُونِ كَل سَبَبِ اَس كَل وَا جِب هُونِ كَا ذَر نَه رَا تُو اَمِي ر اَلْمُو مَنِي ن حَضْر ت سَيِّدُ نَا عَمْر فَا رُوقِ اَعْظَمِ  
رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ لُوْغُو نَ كُو بَا جَمَاعَتِ تَرَاوُحِ كَل لَئِ جَمْعِ كَر دِيَا۔ اَس بِنَا پَر كَهَا گِيَا كَه اَمِي ر اَلْمُو مَنِي ن رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ  
كَل عَمَلِ كِي وَجِهَ سَ تَرَاوُحِ كِي جَمَاعَتِ اَفْضَلِ هَ كِيُو نَكَه اِجْتِمَاعِ كِي بَر كَتِ وَفَضِي لَتِ هَ اَوْر اَس كِي دَلِي لَ فَرَضِ نَمَازِ هَ۔  
نِي ز تَهْنَائِي مِي ن اَكْثَر سَتِي پِي دَا هُو جَاتِي هَ جِب كَه بَه ت سَ لُوْغُو نَ كُو دِكْهَ كَر چُسْتِي پِي دَا هُو تِي هَ۔ اِي ك قَوْلِ يَه هَ كَه تَهْنَا پَر هَنَّا  
اَفْضَلِ هَ كِيُو نَكَه يَه اِي سِي سَن تِ هَ جُو شَعَا رَ اِسْلَامِ مِي ن سَ نَهِي سَ جِي سَ عِي دِي ن كِي نَمَازِي ن شَعَا رَ اِسْلَامِ مِي ن سَ نَهِي سَ۔ پَس  
اَسَ چَا شَتِ كِي نَمَازِ اَوْر تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ كَل سَا تَه مَلَا نَا زِيَا دَه بَه تَر هَ اَوْر اَس مِي ن جَمَاعَتِ مَشْرُوعِ نَهِي سَ اَوْر عَادَتِ  
جَا رِي هَ كَه چَن د لُوْگِ اَكْطَه مَسْجِدِ مِي ن دَا خَلِ هُو تَ هِي ن تُو پَهْر بَهِي بَا جَمَاعَتِ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نَهِي سَ پَر هَتَ كِيُو نَكَه حَضْر نَبِي  
كَرِيْمِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَ اَر شَا د فَر مَآيَا: ”نَفْلِ نَمَازِ گَهْرِ مِي ن پَر هَنَّا مَسْجِدِ مِي ن پَر هَنَ سَ اَتِنِي اَفْضَلِ هَ جَتْنِي فَرَضِ  
نَمَازِ مَسْجِدِ مِي ن پَر هَنَّا گَهْرِ مِي ن پَر هَنَ سَ اَفْضَلِ هَ“ (۲)

## مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے افضل عمل:

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كَل پِيَا رَ عِ حَبِيْب، حَبِيْبِ لَبِيْبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَ اَر شَا د فَر مَآيَا: ”مِي رِي اَس مَسْجِدِ مِي ن  
اِي ك نَمَازِ پَر هَنَّا دِي گَر مَسْجِدِ مِي ن 100 نَمَازِي ن پَر هَنَ سَ اَفْضَلِ اَوْر مَسْجِدِ حَرَامِ مِي ن اِي ك نَمَازِ پَر هَنَّا مِي رِي مَسْجِدِ مِي ن هَزَارِ  
نَمَازِي ن پَر هَنَ سَ اَفْضَلِ هَ اَوْر اِن تَمَامِ سَ اَفْضَلِ يَه هَ كَه كُو ئِي شَخْصِ اِپَنَ گَهْرِ كَل كُو نَ مِي ن دَوْر كَتِ نَمَازِ پَر هَ  
جِس كَا عِلْمِ صَرَفِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُو هُو“

## وضاحت:

بعض اوقات باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں ریا اور بناوٹ آجاتی ہے اور تنہائی میں بندہ اس سے محفوظ ہوتا

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان..... الخ، الحديث: ۷۶، ص ۳۸۳، مفہومًا۔

②..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء في فضل صلاة التطوع في البيت، الحديث: ۴۵، ج ۱، ص ۴۴، مفہومًا۔

المصنف لابن ابی شيبية، کتاب صلاة التطوع والامامة، من امر بالصلاة في البيوت، الحديث: ۵، ج ۲، ص ۱۵۷، مفہومًا۔



ہے۔ لہذا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ریا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ قول ارشاد فرمایا۔

## خلاصہ کلام:

مختار قول یہ ہے کہ تراویح باجماعت پڑھنا افضل ہے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کا خیال تھا کیونکہ بعض نوافل میں جماعت جائز ہے اور نماز تراویح کے زیادہ مناسب ہے کہ یہ باجماعت ہو کیونکہ یہ ان شعار میں سے ہے جس کا اظہار مناسب ہے۔ جماعت کی صورت میں ریا کی طرف اور علیحدہ پڑھنے کی صورت میں سستی کی طرف توجہ دینا فضیلتِ جماعت کے مقصود سے پھرنا ہے جو کہ اس کے جماعت ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ گویا اس کا قائل کہتا ہے کہ ”ستسئی کے سبب ترک کرنے سے نماز پڑھنا بہتر ہے اور اخلاص ریا سے بہتر ہے۔“ ہم اس مسئلہ کو یوں فرض کرتے ہیں کہ جسے خود پر اعتماد ہو کہ اگر علیحدہ پڑھے تو سستی نہ کرے گا اور جماعت میں دکھاوانہ کرے گا تو اس کے لئے کون سی صورت افضل ہے؟ تو نظر جماعت کی برکت اور تنہا پڑھنے میں قوتِ اخلاص اور حضورِ قلبی کے درمیان گھومتی ہے۔ اس صورت میں ایک کو دوسری پر فضیلت دینے میں تردد ہی رہے گا۔

ماہِ رمضان کے آخری پندرہ دنوں میں وتروں میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب ہے (۱)۔

## ماہِ رجب المرجب کے نوافل

### اہل خانہ کے 700 افراد کی شفاعت کا حق:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے پھر مغرب و عشا کے درمیان 12 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ قدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد مجھ پر 70 بار یہ درود پاک پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ پھر سجدہ کرے اور سجدے میں 70 مرتبہ سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ پڑھے، پھر سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے: رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ (یعنی اے رب عَزَّوَجَلَّ! میری

①..... احتیاف کے نزدیک:، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت آہستہ پڑھے امام ہو یا منفرد یا مقتدی، ادا ہو یا قضاء،

رمضان میں ہو یا اور دنوں میں - (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۵۴، ۲۵۵)

مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما بے شک تو عزت و بزرگی والا ہے۔) پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں بھی پہلے سجدے کی طرح تسبیح پڑھے پھر اپنی حاجت کا سوال کرے تو وہ پوری کر دی جائے گی۔“ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ، ریت کے زرّات، پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور بروز قیامت وہ اپنے گھر کے اُن 700 افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔“ (۱)

یہ نماز مستحب ہے۔ ہم نے اسے یہاں اس لئے ذکر کیا کیونکہ یہ سال کے بدلنے سے بدلتی ہے۔ اگرچہ اس کا مرتبہ نماز تراویح اور نماز عید کو نہیں پہنچتا کیونکہ اس نماز کا ثبوت خبر واحد سے ہے لیکن میں نے تمام اہلِ اہلِ بیت (یعنی بیت المقدس والوں) کو دیکھا ہے کہ وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور اسے ترک نہیں کرتے، اس لئے میں نے اسے یہاں ذکر کرنا اچھا سمجھا۔

## ماہ شعبان المعظم کے نوافل

شعبان المعظم کی پندرہویں رات 100 رکعتیں پڑھے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اگر چاہے تو 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ دیگر نفل نمازوں کے ضمن میں یہ بھی مروی ہے۔ اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ اسے پڑھتے اور صَلَوَةُ الْخَيْرِ کا نام دیتے، اس کے لئے اکٹھے ہوتے اور بعض اوقات جماعت سے بھی پڑھتے تھے۔

## 70 بار نظرِ رحمت:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِيّ فرماتے ہیں: مجھ سے 30 صحابہ کرام رَضَوْنَا اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نے بیان فرمایا کہ ”جو شخص شبِ براءت کی رات یہ نماز پڑھے اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس کی طرف 70 بار نظرِ رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر کے ساتھ اس کی 70 حاجت پوری فرماتا ہے جن میں سے سب سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے۔“ (۲)

①.....جامع الاصول، کتاب الصلاة، الفصل السابع في صلاة الرغائب، الحديث ۴۲۶۸، ج ۶، ص ۱۷۰، باختصار۔

②.....قوت القلوب، الفصل العشرون في ذكر احياء الليالي.....الخ، ج ۱، ص ۱۱۳۔

## ﴿4﴾..... اسباب سے متعلق نوافل کا بیان:

وہ نوافل جو عارضی اسباب کے ساتھ متعلق ہیں کسی خاص وقت سے ان کا تعلق نہیں، یہ تعداد میں نو ہیں: نمازِ خسوف و کسوف (سورج و چاند گرہن کی نماز)، نمازِ استسقا (طلب بارش کے لئے نماز)، تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَتَحِيَّةُ الْوُضُوءِ، اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعتیں، گھر سے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت کی دو رکعتیں اور دیگر اس جیسی نمازیں۔

### (1)..... گرہن کی نماز:

جب حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صاحب زادے حضرت سَيِّدُنا ابراہیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا، لوگ کہنے لگے: ”ابن رسول کے وصال پر اسے گرہن لگ گیا۔“ تب حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”سورج اور چاند اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی پر انہیں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم (سورج یا چاند) گرہن دیکھو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر اور نماز کی طرف جلدی کرو (۱)۔“ (۲)

### نمازِ گرہن کا طریقہ و وقت:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ مکروہ (۳) یا غیر مکروہ وقت میں جب سورج گرہن ہو تو آواز دی جائے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ امام مسجد میں لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے، ہر رکعت میں دو رکوع کرے (۴)، دوسری کے مقابلے میں پہلی رکعت لمبی پڑھے، قراءت بلند آواز سے نہ کرے، پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ جبکہ دوسرے

①..... مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 2، ص 381 پر ہے: اس کلام شریف میں اس جہالت کے عقیدہ کا رد ہے جو اہل عرب میں پھیلا ہوا تھا اور اتفاقاً اس دن حضرت ابراہیم کا انتقال بھی ہوا تھا اس سے ان کے خیالات میں اور پختگی ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ ارشاد فرمایا۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر النداء بصلاة الكسوف..... الخ، الحدیث: ۹۱، ص ۴۵۶، مفہوماً۔

③..... احناف کے نزدیک مکروہ وقت میں نماز گرہن نہ پڑھی جائے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۸۷)

④..... احناف کے نزدیک: یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۸۷)

قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ ال عمران پڑھے، دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ نساء جبکہ دوسرے قیام میں سورہ فاتحہ اور سورہ مائدہ پڑھے یا ان کی مقدار میں جہاں سے چاہے پڑھے۔ اگر ہر قیام میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے تو بھی کافی ہے اور اگر چھوٹی سورت پر اکتفا کرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اسے سورج روشن ہونے تک طویل کرے۔ پہلے رکوع میں سو آیات، دوسرے میں دو سو آیات، تیسرے میں تین سو آیات اور چوتھے میں چار سو آیات کی مقدار تسبیح پڑھے اور ہر رکعت میں سجدے بھی رکوع کے برابر ہونے چاہئیں۔ پھر نماز کے بعد دو خطبے پڑھے جن کے درمیان ایک جلسہ ہو اور لوگوں کو صدقہ، غلام آزاد کرنے اور توبہ کا حکم دے۔ چاند گرہن میں بھی اسی طرح کرے۔ البتہ، اس میں قراءت بلند آواز سے کرے کیونکہ وہ رات کی نماز ہے۔

**وقت:** سورج گرہن کی نماز کا وقت سورج گرہن لگنے سے شروع ہو کر اس کے روشن ہونے تک ہے اور سورج غروب ہونے پر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سورج کی ٹکئہ ظاہر ہونے پر چاند گرہن کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت رات کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گرہن لگنے سے چاند چھپ جائے تو بھی اس کا وقت ختم نہیں ہوتا کیونکہ پوری رات چاند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر نماز کے دوران گرہن ختم ہو جائے تو نماز مختصر کر دے۔ جو امام کے ساتھ دوسرا رکوع پائے اس کی وہ رکعت فوت ہوگی کیونکہ اصل پہلا رکوع ہے۔

## (2).....نماز استسقا:

جب نہروں کا پانی اندر چلا جائے، بارش بند ہو جائے یا نالیاں سوکھ جائیں تو امام کے لئے مستحب ہے کہ اولاً لوگوں کو تین دن روزہ رکھنے کا حکم دے اور حسب استطاعت صدقہ دیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ پھر چوتھے دن مردوں، بوڑھی عورتوں اور بچوں کو لے کر نکلیں۔ پاک صاف پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عاجزی کرتے ہوئے مسکینی کی حالت میں جائیں نہ کہ عید کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے۔ ایک قول کے مطابق چوپاؤں کو ساتھ لے جانا مستحب ہے کیونکہ وہ بھی حاجت میں شریک ہیں۔ نیز حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”اگر بچے دودھ پینے والے، بوڑھے رکوع کرنے والے اور چوپائے چرنے والے نہ ہوتے تو تم پر شدت سے عذاب کی بارش ہوتی۔“<sup>(۱)</sup>

①.....السنن الكبرى للبيهقي، كتاب صلاة الاستسقاء، باب استسقاء الخروج.....الخ، الحديث ۶۳۹۱، ۶۳۹۲، ج ۳، ص ۸۱، بتغير۔

اگر ذمی (۱) علیحدہ طور پر نکلیں تو انہیں منع نہ کیا جائے۔

جب لوگ وسیع صحرا میں جمع ہو جائیں تو یہ آواز دی جائے: ”نماز کھڑی ہونے والی ہے۔“ امام لوگوں کو نمازِ عید کی طرح بغیر اقامت کے دو رکعت نماز پڑھائے پھر دو خطبے پڑھے اور ان کے درمیان مختصر سا جلسہ کرے، دونوں خطبوں میں زیادہ تر استغفار ہو، دوسرے خطبہ کے درمیان امام لوگوں سے منہ پھیر کر قبلہ رخ ہو جائے اور حالت بدلنے کے لئے نیک فالی کے طور پر اپنی چادر الٹائے کہ سنت ہے۔ (۲) یوں کہ اوپر والے حصے کو نیچے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف کر دے۔ لوگ بھی اسی طرح کریں، اس وقت آہستہ آواز میں دعا مانگیں۔ پھر امام لوگوں کی طرف منہ کر کے خطبہ پڑھے اور چادریں اسی طرح اٹھی ہوئی رہنے دیں حتیٰ کہ جب کپڑے اتاریں، چادریں بھی تب ہی اتاریں۔

## دُعا:

دعا یوں مانگیں: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَا كَمَا أَمَرْتَنَا فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّ فَاثْمَنُ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَتِكَ مَا قَارَفْنَا وَإِجَابَتِكَ فِي سُقْيَانَا وَسِعَةَ أَرْضِ قَنَا لَعْنِ اءِ اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ! تو نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم نے تیرے حکم کے مطابق دعا مانگی پس تو اپنے وعدے کے مطابق قبول فرما۔ اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! ہم پر کرم فرما کر ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں بارش عطا فرمانے اور ہمارے رزق کو کشادہ فرمانے کی صورت میں قبولیت دعا کے وعدے کو پورا فرما۔“ (۳)

تینوں دن نماز استسقاء کے لئے نکلنے سے پہلے نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس (حالت میں) دعا کے لئے کچھ باطنی آداب و شرائط ہیں: وہ یہ کہ توبہ کریں اور دوسروں کے حقوق وغیرہ ادا کریں۔ مزید تفصیل اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کتاب الدعوات میں بیان کی جائے گی۔

## (3).....نمازِ جنازہ:

اس کا طریقہ مشہور ہے، اس میں پڑھی جانے والی دعائے ماثورہ وہ ہے جو حضرت سیدنا عوف بن مالک رَضِيَ اللّٰهُ

①..... فتاویٰ فیض الرسول، ج 1 صفحہ 501 پر فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا بادشاہ اسلام نے جزیہ کے بدلے ذمہ لیا ہو۔“

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة الاستسقاء، الحدیث: ۸۹۴، ص ۴۴۳۔

③..... معرفة السنن والاثار للبيهقي، کتاب الاستسقاء، باب السنة في صلاة الاستسقاء، الحدیث: ۲۰۱، ج ۳، ص ۹۸۔

تَعَالَى عَنْهُ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ چنانچہ، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھتے دیکھا آپ نے جو دعا پڑھی اسے میں نے حفظ کر لیا۔ دعا یہ ہے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ لَعْنَى أَعْيُنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ! اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، عافیت عطا فرما، اسے معاف فرما، اس کی اچھی طرح مہمانی فرما، اس کی قبر کشادہ فرما، اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اسے خطاؤں سے ایسا پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اسے اس کے گھر سے اچھا گھر، گھر والوں سے اچھے گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔“ حضرت سیدنا عوف بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں:

”میں نے تمنا کی کہ کاش! وہ میت میں ہوتا۔“<sup>(۱)</sup>

جو شخص دوسری تکبیر پائے اسے چاہئے کہ دل میں نماز کی ترتیب کا خیال رکھے اور امام کے ساتھ تکبیریں کہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اپنی فوت شدہ تکبیر کہہ لے جس طرح مسبوق (یعنی جس کی ایک یا چند رکعتیں رہ گئی ہوں) کرتا ہے۔ اگر مقتدی تکبیرات میں جلدی کرے تو اس نماز میں اقتدا کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تکبیریں نماز جنازہ کے ظاہری ارکان ہیں، انہیں دیگر نمازوں کی رکعات کے قائم مقام قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ یہ توجیہ میرے (یعنی امام غزالی کے) نزدیک زیادہ مناسب ہے اگرچہ دیگر توجیہات کا بھی احتمال ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں، انہیں ذکر کر کے ہم بات کو طول نہیں دیتے، اس کی عظیم فضیلت کیونکہ نہ ہوگی حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے؟ نفل اس کے حق میں ہے کہ دوسروں کی شرکت کے سبب جس پر شریک ہونا ضروری نہ ہو پھر بھی اسے فرض کفایہ ہی کا ثواب ملے گا اگرچہ اس کا جانا ضروری نہ ہو کیونکہ شریک ہونے والوں نے فرض کفایہ کی ادائیگی کر کے دوسروں سے حرج کو دور کیا ہے۔ لہذا یہ نفل نماز کی طرح نہ ہوگی کہ جس کی ادائیگی سے کسی سے فرض ساقط نہیں ہوتا۔ جنازے میں زیادہ لوگوں کو تلاش کرنا مستحب ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کی شرکت اور دعائیں باعث برکت ہیں، نیز ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔

①..... صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت فی الصلاة، الحدیث ۹۶۶، ص ۴۷۹-۴۸۰۔

## جنازہ میں 40 لوگوں کے شریک ہونے کی برکت:

حضرت سیدنا کریم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا: ”اے کریم! کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں؟“ میں نکلا تو کچھ لوگ جمع ہو ہی گئے تھے، میں نے آپ کو خبر دی۔ فرمایا: ”کیا تم کہہ سکتے ہو کہ چالیس ہوں گے۔“ میں نے کہا: ”ہاں۔“ فرمایا: میت کو لاؤ۔ میں نے رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ارشاد فرماتے سنا کہ ”جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں چالیس آدمی ہوں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بارے میں ان کی سفارش ضرور قبول فرماتا ہے۔“ (۱)

## قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ:

جب جنازے کے ساتھ قبرستان جائے یا ویسے ہی جائے تو یوں کہے:

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَآجِقُونَ“ یعنی ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلام ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔“ (۲)

## دفن کرنے کے بعد کی دعا:

افضل یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے واپس نہ آئے۔ جب میت پر قبر برابر کر دی جائے تو وہاں کھڑا ہو کر یہ

دعا کرے:

”اللَّهُمَّ عَبْدُكَ رَدَّ إِلَيْكَ فَارَأْفُ بِهِ وَارْحَمَهُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضِ عَنْ جَنَبِيهِ وَافْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِقَبُولِ حَسَنِ اللَّهِمْ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعَفْ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ“ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیرا بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا، اس پر نرمی کر اور اس پر رحم فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے، اس کی روح کے لئے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے اچھی طرح قبول فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں کا ثواب دگننا فرما اور اگر گنہگار

①..... صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب من صلی علیہ اربعون شفوعافیہ، الحدیث: ۹۴، ص ۴۳۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لاهلہا، الحدیث: ۹۷، ص ۴۸۔

تھا تو اس سے درگزر فرما۔“ (۱)

#### (4)..... تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ:

دو یا اس سے زیادہ رکعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں۔ اگرچہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو پھر بھی ساقط نہ ہوں گی (عند الشوافع) باوجود یہ کہ توجہ سے خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر (مسجد میں داخل ہوتے ہی) فرض یا قضا نماز میں مشغول ہو جائے تو اسی سے تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کے نوافل ادا ہو گئے اور فضیلت بھی حاصل ہو گئی کیونکہ مقصود یہ ہے کہ مسجد کے حق کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اسی وجہ سے مسجد میں بے وضو داخل ہونا مکروہ ہے۔ اگر مسجد سے گزرنے یا وہاں بیٹھنے کے لئے داخل ہو تو چار مرتبہ یہ کلمات کہے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ (۲) منقول ہے کہ یہ کلمات فضیلت میں دو رکعتوں کے برابر ہیں۔

حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي کا مسلک یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ مکروہ نہیں (۳) اور وہ فجر و عصر کے بعد کا وقت، زوال کا وقت، طلوع و غروب آفتاب کا وقت ہے۔ کیونکہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عصر کے بعد دو رکعتیں ادا فرمائیں تو عرض کی گئی: ”کیا آپ نے ہمیں اس (یعنی نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے) سے منع نہیں فرمایا؟“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دو رکعتیں میں ظہر کے بعد پڑھتا تھا (آج ملاقات کے لئے آئے) ایک وفد کی وجہ سے نہ پڑھ سکا۔“ (۴)

#### حدیث سے حاصل شدہ دو فوائد:

(۱)..... صرف وہ نماز مکروہ ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو اور سبب سے کمزور سبب نوافل کی قضا میں علما کا اختلاف ہے کہ جب وہ ایسا عمل کرے جیسا فوت ہوا تو کیا یہ قضا ہوگی (یا ادا)؟ تو جب سبب سے کمزور سبب

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، فی الدعاء للمیت بعد ما یدفن..... الخ، الحدیث، ج ۳، ص ۲۱۲۔

②..... قوت القلوب، الفصل التاسع فیہ ذکر وقت الفجر..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۔

③..... احناف کے نزدیک: (کوئی شخص) ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر و تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تہلیل و درود شریف میں مشغول ہو تو مسجد ادا ہو جائے گا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الرکعتین..... الخ، الحدیث: ۸۳، ص ۲۱۷۔



(یعنی نوافل کی قضا) کی وجہ سے کراہیت ختم ہوگئی تو مسجد میں داخل ہونے سے بھی کراہیت ختم ہونی چاہئے کیونکہ یہ قوی سبب ہے، اسی لئے (اس وقت میں) جب جنازہ آجائے تو نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں اور نہ ہی ان اوقات میں نماز خسوف و استسقا مکروہ ہے (عند الشوافع) کیونکہ ان کے لئے بھی اسباب ہیں۔

(۲)..... نوافل کی بھی قضا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی قضا کی اور ہمیں آپ کی پیروی بہتر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں: ”میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جس رات نیند یا مرض کے غلبہ کے سبب قیام نہ فرما سکتے تو دن کے شروع میں 12 رکعت نماز ادا فرماتے۔“<sup>(۱)</sup>

علمائے کرام فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں مشغول ہونے کے سبب اذان کا جواب نہ دے سکے تو سلام پھیرنے کے بعد بطور قضا اذان کا جواب دے اگرچہ مؤذن خاموش ہو چکا ہو۔ جب معاملہ ایسا ہو تو قائل کے اس قول کہ ”یہ ادا ہے قضا نہیں“ کا کوئی معنی نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مکروہ وقت میں نفل نہ پڑھتے۔

### خلاصہ کلام:

کسی شخص کا وظیفہ ہو اور کسی عذر کی وجہ سے وقت پر نہ پڑھ سکے تو اسے چاہئے کہ اپنے نفس کو اس کے چھوڑنے کی رخصت نہ دے بلکہ کسی دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرے تاکہ اس کا نفس آسائش و آرام کی طرف مائل نہ ہو اور نفس کے مجاہدہ کے طور پر اس کا تدارک اچھا ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔“<sup>(۲)</sup>

اس سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ کئے جانے والے عمل میں کوتاہی نہ ہو۔ کیونکہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا ہو، پھر اکتا کر اسے چھوڑ دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر غضب

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل..... الخ، الحدیث: ۷۴، ص ۷۵، مفہومًا۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضیلة العمل الدائم..... الخ، الحدیث: ۷۸، ص ۹۲۔

ناک ہوتا ہے۔“ (۱)

لہذا اس وعید کا مستحق بننے سے ڈرنا چاہئے۔ اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اکتاہٹ کے سبب چھوڑنے پر غضب فرماتا ہے، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور رحمت الہی سے دوری نہ ہوتی تو اس پر اکتاہٹ مسلط نہ ہوتی۔

### (5).....تَحِيَّةُ الْوُضُو:

وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے کیونکہ وضو ایک عبادت ہے، اس کا مقصود نماز ہے اور بے وضو ہونا ایک عارضہ ہے۔ بسا اوقات انسان پر نماز سے پہلے حدث طاری ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا اور محنت رائگاں جاتی ہے۔ لہذا جلدی جلدی دو رکعت ادا کر لینے سے وضو کا مقصود فوت ہونے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ نیز حضرت سیدنا بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی حدیث سے یہ بات جانی جاسکتی ہے کہ جب رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں جنت میں داخل ہوا تو بلال کو وہاں پایا۔ میں نے بلال سے پوچھا: کس عمل کے سبب تم جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟“ بلال نے عرض کی: ”اور تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ اتنی بات ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔“ (۲)

### (6).....گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت کے نوافل:

گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت دو رکعت نفل (پڑھنا مستحب) ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لو یہ تمہیں برے نکلنے سے باز رکھیں گی اور جب گھر میں داخل ہو تو دو رکعت پڑھ لو یہ تمہیں برے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔“ (۳)

ہر ذی مرتبہ کام شروع کرنے کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اسی لئے احرام کے وقت دو رکعتیں، (۴) ابتداء سفر

①.....قوت القلوب، الفصل التاسع فيه ذكر وقت الفجر.....الخ، ج ۱، ص ۴۴۔

②.....صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال رضى الله عنه، الحديث ۲۴۵۵، ص ۱۳۳۵، ۱۳۳۴، مفهوماً۔

③.....شعب الايمان للبيهقي، باب في الصلوات، فضل الاذان والاقامة للصلاة المكتوبة، الحديث ۳۰۴، ج ۳، ص ۱۲۴۔

④.....صحيح البخارى، كتاب الحج، باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم.....الخ، الحديث ۵۳۳۱، ج ۱، ص ۵۱۶، مفهوماً۔

میں دو رکعتیں<sup>(۱)</sup> اور سفر سے واپسی پر گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں دو رکعتیں پڑھنا<sup>(۲)</sup> حدیث پاک میں وارد اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ بعض صالحین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ جب کچھ کھاتے یا پانی پیتے تو دو رکعتیں پڑھتے۔ اسی طرح انہیں جو معاملہ بھی پیش آتا اس وقت دو رکعت نماز پڑھتے۔ ہر کام کا آغاز کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے برکت حاصل کرنی چاہئے۔ اس کے تین درجے ہیں:

- (۱)..... بعض کام کئی بار کئے جاتے ہیں جیسے کھانا پینا تو ان کا آغاز تسمیہ سے کیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی اہم کام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔“<sup>(۳)</sup>
- (۲)..... کئی کام ایسے ہیں جو بار بار نہیں کئے جاتے لیکن وہ اہم ہوتے ہیں۔ جیسے عقد نکاح اور نصیحت و مشورہ کی ابتدا۔ اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد سے شروع کرے۔ لہذا نکاح کرانے والا یوں کہے: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ زُوِّجْتُکَ اِنْتِیْ“۔ قبول کرنے والا یوں کہے: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ قَبِلْتُ النِّکَاحَ۔“ صحابہ کرام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنُ کی عادت تھی کہ کوئی پیغام بھیجتے یا نصیحت اور مشورہ کرتے تو حمد الہی سے آغاز کرتے۔
- (۳)..... عمل میں تکرار تو نہیں ہوتا لیکن جب کیا جائے تو دہرایا ہوتا ہے گویا وہ بھی اہم کام ہوتا ہے۔ جیسے سفر کرنا، نیا گھر خریدنا، احرام باندھنا یا اس جیسے دیگر اعمال۔ لہذا ان سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا ادنیٰ درجہ گھر سے نکلنا اور داخل ہونا ہے کیونکہ یہ بھی قریبی سفر کی ایک قسم ہے۔

## (۷)..... نمازِ استخارہ:

جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے لیکن اس کے انجام کا علم نہ ہو اور نہ ہی یہ جانتا ہو کہ اس کے کرنے میں بہتری ہے یا چھوڑنے میں تو ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے پر دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کہ ”پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون، دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ جب نماز سے فارغ

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، الرجل یرید السفر، الحدیث: ج ۱، ص ۵۲۹۔

②..... صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب حدیث توبة کعب بن مالک، الحدیث ۲۷۹۹، ص ۱۲۸۳، مفہومًا۔

③..... الجامع الصغیر، حرف الکاف، الحدیث ۶۲۸، ص ۳۹۱، بلفظ ”اقطع“۔

کشف الخفاء، حرف الکاف، تحت الحدیث ۱۹۶، ج ۲، ص ۱۰۹۔

ہوتویوں دعا مانگے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أُقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ أَيْنَمَا كَانَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، تیرے علم اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو غیبیوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ عزوجل! اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین و دنیا اور انجام کار میں، اس وقت یا آئندہ تو اسے میرے لیے مقدّر کر دے اور آسان کر پھر میرے لیے اس میں برکت دے اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام برا ہے میرے دین و دنیا اور انجام کار میں، اس وقت یا آئندہ تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقدّر فرما جہاں بھی ہو بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔“ (۱)

اسے حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے جیسے قرآن پاک کی سورت تعلیم فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے: ”جب تم میں سے کوئی کسی کام کا قصد کرے تو دو رکعت نفل پڑھے پھر اس کام کا نام لے اور (مذکورہ) دعا مانگے۔“ (۲)

## (8)..... نماز حاجت:

جس شخص پر کوئی معاملہ تنگ ہو جائے اور اسے دین و دنیا کے معاملے میں کسی ایسے معاملے کی حاجت ہو جو اس پر مشکل ہو تو اسے چاہئے کہ یہ نماز پڑھے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، الحدیث ۶۳۸۴، ج ۴، ص ۲۱۱، ۲۱۲۔

منحة الخالق علی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج ۱، ص ۹۱-۹۲، باختصار۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، الحدیث ۶۳۸۴، ج ۴، ص ۲۱۲، بتغییر الفاظ۔

## دعا ضرور قبول ہو:

حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک ایسی دعا ہے جو رُوئیس کی جاتی کہ بندہ 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، آیۃ الکرسی اور سورۃ اخلاص پڑھے جب نماز سے فارغ ہو تو سجدہ کرے، پھر یوں کہے: ”سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْوَعْدُ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِيُ التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْكَرَمِ وَسُبْحَانَ ذِي الطُّوْلِ أَسْأَلُكَ بِمُعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِأَسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الْعَامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي پاك ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور اسے پسند کیا۔ پاك ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اسے اپنایا۔ پاك ہے وہ ذات جس کے احاطہ علم میں ہر چیز ہے۔ پاك ہے وہ ذات جس کے لئے تسبیح ہے۔ احسان و فضل والی ذات پاك ہے۔ عزت و کرم والی ذات پاك ہے۔ نعمت والی ذات پاك ہے۔ میں تجھ سے عزت کی ان خصلتوں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جن کا تعلق تیرے عرش سے ہے، تیری کتاب کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو رحمت کی انتہا ہے، تیرے اسم اعظم، بلند و برتر شان اور ان کامل و عام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ جن سے کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر رحمت نازل فرما۔“ (۱)

پھر اپنی اس حاجت کا سوال کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو ان شاء اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔

حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ کہا جاتا تھا: بے وفوں کو یہ دعا نہ سکھاؤ ورنہ وہ اس کے ذریعے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی نافرمانی پر مدد حاصل کریں گے۔“

## جسے چار نعمتیں ملیں وہ چار سے محروم نہ ہوگا:

بعض حکما فرماتے ہیں: ”جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اس سے چار چیزیں نہ روکی جائیں گی: (۱)..... جسے شکر کی نعمت عطا کی گئی اس سے مزید نعمت نہ روکی جائے گی۔ (۲)..... جسے توبہ کی توفیق دی گئی اس سے قبولیت نہ روکی جائے گی۔ (۳)..... جسے استخارہ کی توفیق دی گئی اس سے بھلائی نہ روکی جائے گی۔ (۴)..... جسے مشورہ کی توفیق دی گئی اسے سیدھی راہ سے نہ روکا جائے گا۔“

①..... حلیۃ الاولیاء، وہیب بن الورد، الحدیث: ۱۱۷۵، ج ۸، ص ۱۶۸۔

## (9)..... صَلَوةُ التَّسْبِيحِ اور اس کی فضیلت:

یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں۔ ہفتے یا مہینے میں ایک بار پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا عمرؓ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے (اپنے چچا) حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”(اے چچا!) کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ دوں کہ جب تم کرو تو اللہ عزوجل تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصداً کیا چھوٹا اور بڑا پوشیدہ اور ظاہر۔ تم چار رکعت نماز پڑھو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھو، جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جاؤ تو حالت قیام میں 15 بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پڑھو، پھر رکوع کرو اور رکوع میں دس بار پڑھو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور دس بار پڑھو، پھر سجده میں جاؤ اور دس بار پڑھو، پھر سجده سے سر اٹھا کر دس بار پڑھو، پھر سجده میں جاؤ اور دس بار پڑھو پھر دوسرے سجدے کے بعد دس بار پڑھو۔ یوں ہر رکعت میں 15 بار تسبیح ہوئی، چاروں رکعتوں میں اسی طرح کرو۔ اگر یہ نماز ہر روز ایک بار پڑھ سکو تو پڑھو، اگر ایسا نہ کر سکو تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار پڑھو۔“<sup>(۱)</sup>

## صَلَوةُ التَّسْبِيحِ کا عمدہ طریقہ:

ایک روایت میں ہے کہ اس نماز کے شروع میں یوں ثنا پڑھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔“ پھر قراءت سے پہلے 15 بار تسبیح پڑھے اور قراءت کے بعد 10 بار تسبیح پڑھے اور دیگر اركان میں گزشتہ ترتیب سے دس دس بار تسبیح پڑھے اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر تسبیح نہ پڑھے۔<sup>(۲)</sup> یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ دو روایتوں کے مجموعہ سے 300 تسبیحات بنتی ہیں۔ یہ نماز اگر دن میں پڑھے تو ایک سلام سے پڑھے اور رات میں پڑھے تو دو

①..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب صلاة التسبیح، الحدیث: ۱۲۹، ج ۲، ص ۴۳-۴۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس عشر فی ذکر ورد العبد من التسبیح..... الخ، ج ۱، ص ۸۲، بتغییر۔

سلاموں سے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ”رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔“<sup>(۱)</sup> اور اگر تسبیح کے بعد یہ کلمات کہے تو اچھا ہے: ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔“<sup>(۲)</sup>

مذکورہ نوافل احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے سوائے تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ کے کوئی نماز مکروہ اوقات میں پڑھنا بہتر نہیں (احناف کے نزدیک مکروہ وقت میں سوائے نماز جنازہ کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے)۔ تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ، سفری اور گھر سے نکلتے وقت نماز اور نماز استخارہ مکروہ اوقات میں جائز نہیں کیونکہ اس سے تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور یہ اسباب کمزور ہیں، لہذا یہ نوافل نماز خسوف و استسقا اور تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ کے درجے تک نہیں پہنچتے۔

میں نے بعض بناوٹی صوفیوں کو مکروہ اوقات میں تَحِيَّةِ الْوُضُوءِ پڑھتے دیکھا ہے حالانکہ یہ بعید از قیاس ہے کیونکہ وضو نماز کا سبب نہیں بلکہ نماز وضو کا سبب ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا چاہئے نہ یہ کہ وضو کرنے کی وجہ سے نماز پڑھے۔ ہر بے وضو شخص جو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بے وضو نہیں پڑھ سکتا تو کراہت کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ مناسب یہی ہے کہ وضو کرتے وقت دو رکعت وضو کی نیت نہ کرے جیسے دو رکعت تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ کی نیت کی جاتی ہے۔ بلکہ جب وضو کرے دو نفل پڑھے تاکہ وضو رائیگاں نہ جائے جیسا کہ حضرت سپید ناب لال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کیا کرتے تھے۔ یہ صرف نفل ہیں جو وضو کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت سپید ناب لال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ نماز خسوف و تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ کی طرح وضو بھی (نماز کا) سبب ہے کہ دو رکعت وضو کی نیت کی جائے۔ وضو سے نماز کی نیت کرنی چاہئے نہ کہ نماز سے وضو کی نیت۔ یہ کیسے درست ہے کہ وضو میں وہ کہے کہ نماز کے لئے وضو کرتا ہوں اور نماز میں کہے میں وضو کی وجہ سے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو شخص مکروہ وقت میں وضو کو بیکار ہونے سے بچانا چاہے وہ قضا کی نیت کرے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ذمہ ایسی نماز ہو جس میں کسی سبب سے خلل واقع ہو گیا ہو اور مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں<sup>(۳)</sup> لیکن نفل کی نیت کی کوئی وجہ نہیں۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها..... الخ، باب صلاة الليل مثنى..... الخ، الحدید: ۴۴، ص ۷۷۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس عشر فی ذکر ورد العبد من التسبیح..... الخ، ج ۱، ص ۸۲۔

③..... احناف کے نزدیک: مکروہ اوقات میں قضا نمازیں پڑھنا جائز نہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 702 پر ہے: قضا کے لئے کوئی وقت معین نہیں عمر میں جب پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا مگر طلوع وغروب اور زوال کے وقت کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔

## اوقاتِ مکروہہ میں ممانعتِ نماز کی وجوہات:

مکروہ اوقات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں:

❶..... سورج کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔

❷..... شیاطین کے منتشر ہونے سے بچنا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں۔ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور جب بلند ہو جاتا ہے تو سینگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب ٹھہرتا (یعنی زوال کا وقت ہوتا) ہے پھر اس سے مل جاتے ہیں، جب ڈھل جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں، جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس سے مل جاتے ہیں اور جب ڈوب جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

اس وجہ سے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور اس خرابی پر تنبیہ کی گئی۔

❸..... راہِ آخرت کے مسافر تمام اوقات میں نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی طریقے پر عبادت کرنے سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک گھڑی کے لئے بندے کو روکا جائے تو اس کی چستی میں اضافہ ہوتا اور عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ نیز انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے وہ اس کا زیادہ حریص ہوتا ہے۔ ان اوقات میں عبادت سے روکنا زیادہ طمع کا سبب بنتا ہے اور بندہ وقت ختم ہونے کا منتظر رہتا ہے۔

لہذا ان اوقات کو تسبیح و استغفار کے ساتھ خاص کیا گیا تاکہ تسلسل سے نماز کے باعث طبیعت اکتانہ جائے اور ایک قسم سے دوسری قسم کی عبادت کی طرف منتقل ہونے سے طبیعت خوش ہو کیونکہ نئی چیز میں لذت و نشاط ہوتی ہے جبکہ ایک ہی چیز پر مستقل عمل پیرا رہنا بھاری پن اور اکتاہٹ کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے نماز محض رکوع و سجود یا قیام کا نام نہیں بلکہ عبادت مختلف اعمال اور جدا جدا اذکار کا نام ہے اور ان میں سے ہر عمل کی طرف انتقال سے دل نئی لذت پاتا ہے اگر وہ مسلسل ایک ہی چیز پر رہے تو جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اوقاتِ مکروہہ میں نماز کی ممانعت کے متعلق یہ اہم امور ہیں، اس کے علاوہ دیگر اسرار بھی ہیں لیکن اس پر آگاہ ہونا (عام) انسانی قوت کے بس کی بات نہیں،

❶..... سنن النسائی، کتاب المواقی، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، الحدیث ۵۵، ص ۹۹، باختصار۔



اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بہتر جانتے جانتے ہیں۔

جب ایسی بات ہے تو ان اہم وجوہ کو صرف اسی بنیاد پر چھوڑا جاسکتا ہے کہ شرعی طور پر اہم اسباب پائے جاتے ہوں جیسے نماز کی قضا، نماز استسقا، نماز کسوف اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وغیرہ (عند اشواغ) لیکن جو ضعیف اسباب ہوں تو ان کی وجہ ان اہم وجوہ کو نہ چھوڑا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ بات زیادہ مناسب ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جانتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے کہ اسی کی مدد اور حسن توفیق سے ”احیاء علوم الدین“ کے باب ”نماز کے اسرار“ کی تکمیل ہوئی۔ اب ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ”زکوٰۃ کے اسرار“ کا بیان آئے گا۔

سب خوبیاں اس خدائے وَحْدَةَ لَا شَرِيكَ کے لئے ہیں جو اکیلا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے بہترین ذات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں اور خوب سلام ہو۔



### ..... حدیث قدسی ..... ﴿

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 54 صفحات پر مشتمل کتاب ”نصیحتوں کے مدنی پھول“  
بوسیۃ احادیث رسول“ صَفْحَہ 51 تا 52 پر ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم! جس نے نہس نہس کر گناہ  
کئے میں اسے زُلازلِ کربنم میں ڈالوں گا اور جو میرے خوف سے روتا رہا میں اسے خوش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔  
اے ابن آدم! کتنے غنی ایسے ہیں جو روزِ حساب محتاجی و مفلسی کی تمنا کریں گے؟ ..... کتنے بے رحم ایسے ہیں  
جنہیں موت ذلیل و رسوا کر دے گی؟ ..... کتنی شیریں چیزیں ایسی ہیں جنہیں موت تلخ کر دے گی؟ ..... نعمتوں پر  
کتنی خوشیاں ایسی ہیں کہ جنہیں موت گدلا کر دے گی؟ ..... کتنی خوشیاں ایسی ہیں جو اپنے بعد طویل غم لائیں گی؟

(مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، المواعظ فی الاحادیث القدسیۃ، ص ۷۷)

## زکوٰۃ کے اسرار کا بیان<sup>(۱)</sup>

سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس کی طرف سے سعادت مندی و بدبختی ہے اور جس نے زندگی اور موت دی، ہنسایا اور رُلا یا، وجود بخشا اور فنا کیا، فقیر و غنی بنایا، روکا اور عطا کیا، جس نے حیوان کو مادہ منویہ کے قطرے سے پیدا کیا، وہ صفتِ غنا کے ساتھ مخلوق سے ممتاز ہے، پھر اپنے بعض بندوں کو نیکی کے ساتھ خاص کیا اور ان میں سے جسے چاہا اپنی نعمتوں سے نوازا اور غنی کر دیا، رزق کمانے میں ناکام ہونے والوں کو امتحان اور آزمائش کے لئے ان بندوں کا محتاج کر دیا پھر زکوٰۃ کو دین کی بنیاد بنایا اور اس بات کو واضح کیا کہ اس کے بندوں میں سے جو پاک ہو اوہ اس کے فضل و کرم سے ہی پاک ہو اور جس کا مال پاک ہو اوہ بھی اس کے غنا سے ہی پاک ہو اور مخلوق کے سردار ہدایت کے سورج حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر رحمت ہو اور علم و تقویٰ کے ساتھ مخصوص آپ کے آل و اصحاب رِضْوَانُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن پر بھی رحمت ہو۔

بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا اور دین کی بڑی علامت نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

وَأَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (ب ۱، البقرة: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔

نیز مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔“<sup>(۲)</sup>

### زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام:

زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کوتاہی کرنے والوں کو سخت و عید سنائی۔ چنانچہ، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِیْنَ یُکْفِرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور

①..... زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1، حصہ 5، ص 866 تا 957 کا مطالعہ کیجئے۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ارکان الاسلام..... الخ، الحدیث 1، ص ۲۸-۲۷۔

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُمْ  
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ (پ ۱۰، التوبة: ۳۴) عذاب کی۔

اور انفاق فی سبیل اللہ کا معنی زکوٰۃ کا حق ادا کرنا ہے۔

حضرت سیدنا احنف بن قیس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَرَمَاتے ہیں: میں کچھ اہل قریش کے ساتھ تھا کہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے فرمایا: ”خزانے جمع کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان کی پیٹھوں میں داغ لگایا جائے گا جو ان کے پہلوؤں سے نکلے گا اور ان کی گدیوں میں داغ لگایا جائے گا جو ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوگا۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ان کے پستانوں کے اوپر رکھا جائے گا تو کندھوں کی نرم جگہ سے ظاہر ہوگا اور کندھوں کی نرم جگہ پر رکھا جائے گا تو پستانوں کے اوپر سے تھر تھراتا ہوا نکلے گا۔ (۲)

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کعبہ مشرفہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”رَبِّ کَعْبَةٍ قَسَمَ! وَهٖ خَسَارَةٌ پانے والے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”کثرت مال و دولت والے مگر وہ لوگ جو اپنے آگے پیچھے، دائیں بائیں اس طرح اُس طرح خرچ کریں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور جو اونٹ، گائے اور بکری کا مالک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جانور بروز قیامت پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندے گے جب آخری گزر جائے گا تو پہلا دوبارہ آجائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔“ (۳)

جب بخاری و مسلم میں اس قدر شدید وعید مذکور ہے تو زکوٰۃ کے اسرار، اس کی ظاہری و پوشیدہ شرائط اور ظاہری و باطنی معانی کو بیان کرنا دین کے ضروری امور میں سے ہے۔ نیز ان مسائل پر اکتفا ضروری ہے جن کی معرفت زکوٰۃ

①..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فی الكنزین للاموال والتغلیظ علیہم، الحدیث: ۹۹، ص ۴۹۸۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فی الكنزین للاموال والتغلیظ علیہم، الحدیث: ۹۹، ص ۴۹۷۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب تغلیظ عقوبۃ من لا یؤدی الزکاة، الحدیث: ۹۹، ص ۴۹۶، ۴۹۵۔

دینے اور لینے والے کے لئے ضروری ہے۔ ان امور کو چار فصلوں میں بیان کیا جائے گا۔

**پہلی فصل:** زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے وجوب کے اسباب۔

**دوسری فصل:** زکوٰۃ کے آداب اور اس کی ظاہری و باطنی شرائط۔

**تیسری فصل:** زکوٰۃ لینے والے اور اس کے مستحق ہونے کی شرائط کا بیان اور زکوٰۃ لینے کا طریقہ۔

**چوتھی فصل:** نقلی صدقہ اور اس کی فضیلت۔

## پہلی فصل: زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے وجوب کے اسباب

اپنے متعلقات کے اعتبار سے زکوٰۃ کی چھ اقسام ہیں: (۱)..... جانوروں کی زکوٰۃ (۲)..... سونے چاندی کی زکوٰۃ (۳)..... مال تجارت کی زکوٰۃ (۴)..... خزانے اور معدنیات کی زکوٰۃ (۵)..... زمینی پیداوار کی زکوٰۃ اور (۶)..... صدقہ فطر۔

### ﴿۱﴾..... جانوروں کی زکوٰۃ:

جانوروں وغیرہ کی زکوٰۃ آزاد مسلمان پر فرض ہے اس میں بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ یہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی واجب ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لئے شرائط ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے (۱)۔

### مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط (۲):

مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کی پانچ شرائط ہیں: (۱)..... جانور ہو (۲)..... چرنے والا ہو (۳)..... پورا سال باقی رہنے والا ہو (۴)..... نصاب پورا ہو اور (۵)..... کامل طور پر ملکیت اور تصرف میں ہو۔

①..... (احناف کے نزدیک) زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں: (۱)..... مسلمان ہونا (۲)..... بلوغ (۳)..... عقل (۴)..... آزاد ہونا (۵)..... مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا (۶)..... پورے طور پر اس کا مالک ہو (۷)..... نصاب کا دین (قرض) سے فارغ ہونا (۸)..... نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو (۹)..... مال نامی ہو۔ (۱۰)..... سال گزرنا، سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۸۵ تا ۸۸، ملخصاً)۔

②..... (احناف کے نزدیک) زکوٰۃ تین قسم کے مال پر ہے: (۱)..... شمن یعنی سونا چاندی (۲)..... مال تجارت (۳)..... سائمه یعنی

چرائی پر چھوٹے جانور۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۸۸۲)

## تفصیل:

(۱).....جانور ہو: لہذا اونٹ، گائے اور بکری کے علاوہ میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ گھوڑے، خچر، گلھے، ہرن اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہونے والے جانور میں زکوٰۃ واجب نہیں۔

(۲).....چرنے والا ہو: لہذا جسے (گھر پر) چارہ دیا گیا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں اور اگر کبھی چرایا گیا اور کبھی چارہ دیا گیا اور اس میں (خوراک وغیرہ کا) خرچ ظاہر ہو تو بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

(۳).....پورا سال باقی رہنے والا ہو: جیسا کہ حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کسی مال میں اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔“<sup>(۱)</sup>

جانوروں کے پیدا ہونے والے بچے اس شرط سے خارج ہیں کیونکہ ان پر مال کا حکم صادق آتا ہے اور ان کے اصول پر سال گزرنے سے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اور سال کے دوران جب کبھی مال بیچ دے یا کسی کو ہبہ کر دے تو سال پورا نہیں ہوگا (یعنی وہ جانور حساب میں شمار نہ ہوگا)۔

(۴).....کامل طور پر ملکیت اور تصرف میں ہو: لہذا رہن رکھے ہوئے جانوروں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود اس میں تصرف سے روکا ہوا ہے<sup>(۲)</sup>۔ گمشدہ یا غصب شدہ جانور میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ البتہ اگر وہ اپنے پورے منافع کے ساتھ واپس آجائے تو واپسی پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ اگر اس پر اتنا قرض ہے جو اس کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ وہ اس کے سبب غنی شمار نہ ہوگا اس لئے کہ غنا اس مال سے ہوتا ہے جو حاجت سے بچ جائے۔

(۵).....نصاب پورا ہو: (نصاب کی تفصیل درج ذیل ہے:)

①.....سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب فی زکاة السائمة، الحدیث ۱۵۷۳، ج ۲، ص ۱۴۴۔

②.....احناف کے نزدیک: شے مرہون (جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس) کی زکاۃ نہ مرہن (یعنی جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہو اس) پر ہے نہ راہن (گروی رکھنے والے) پر، مرہن تو مالک ہی نہیں اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور بعد رہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکاۃ واجب نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۸۷۷)

## اُونٹ کی زکوٰۃ:

پانچ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، پانچ اونٹوں میں جذمہ<sup>(۱)</sup> بھیڑ ہوگی یا بھینٹہ (یعنی بکری) جو تیسرے سال میں داخل ہو<sup>(۲)</sup>، دس اونٹوں میں دو بکریاں، پندرہ اونٹوں میں تین بکریاں، بیس اونٹوں میں چار بکریاں ہوں گی اور پچیس اونٹوں میں ایک بنتِ مخاض<sup>(۳)</sup> لیا جائے گا اور اگر اس کے مال میں بنتِ مخاض نہ ہو تو ایک ابن لبون<sup>(۴)</sup> لیا جائے گا اگرچہ وہ دو سال کا مادہ بچہ خرید سکتا ہو۔ چھتیس (سے پینتالیس تک) میں ایک بنت لبون (یعنی دو سالہ اونٹنی) لی جائے گی، چھیالیس (سے ساٹھ تک) ہوں تو ایک حقہ<sup>(۵)</sup> لی جائے گی، اکٹھ (سے پچھتر تک) ہوں تو ایک جذمہ لی جائے گی<sup>(۶)</sup>، چھتر (سے نوے تک) ہوں تو دو بنت لبون لی جائیں گی، اکیانوے (سے 120 تک) ہوں تو دو حقہ لی جائیں گی، 121 ہو جائیں تو تین بنت لبون لی جائیں گی اور جب 130 ہو جائیں تو حساب ٹھہر جائے گا پھر ہر پچاس میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون ہوگی<sup>(۷)</sup>۔

①..... جذمہ: جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو جائے (یعنی ایک سالہ بھیڑ)۔ از مصنف

②..... احناف کے نزدیک: زکوٰۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو۔ بکری دیں یا بکرا، اس کا اختیار ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الزکاة، باب نصاب الابل، ج ۳، ص ۲۳۸)

③..... بنتِ مخاض: اونٹ کا وہ مادہ بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔

④..... ابن لبون: اونٹ کا وہ بچہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔

⑤..... حقہ: وہ اونٹنی جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔

⑥..... جذمہ: وہ اونٹنی ہے جو پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہو۔ از مصنف

⑦..... احناف کے نزدیک: پانچ اونٹ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں اور جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں، مگر پچیس سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری، دس ہوں تو دو۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اور اگر پچیس اونٹ ہوں تو ایک بنتِ مخاض، پینتیس تک یہی حکم ہے یعنی وہی بنتِ مخاض دیں گے۔ چھتیس سے پینتالیس تک میں ایک بنت لبون، چھیالیس سے ساٹھ تک میں حقہ، اکٹھ سے پچھتر تک جذمہ، چھتر سے نوے تک میں دو بنت لبون، اکیانوے سے ایک سو بیس تک میں دو حقہ، اس کے بعد ایک سو پینتالیس تک دو حقہ اور ہر پانچ میں ایک بکری۔ مثلاً ایک سو پچیس میں دو حقہ ایک بکری اور ایک سو تیس میں دو حقہ دو بکریاں۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۸۹۳) تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت کے اسی مقام کا مطالعہ کیجئے۔

## گائے کی زکوٰۃ:

تیس سے کم گایوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، تیس گایوں میں ایک تَبِیع<sup>(۱)</sup>، چالیس میں ایک مُسِنَّہ<sup>(۲)</sup> اور ساٹھ میں دو تَبِیع، پھر حساب رک جائے گا اور اب ہر چالیس میں ایک مسنہ اور ہر تیس میں ایک تَبِیع ہوگی<sup>(۳)</sup>۔

## بکری کی زکوٰۃ:

چالیس سے کم بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، بکریاں چالیس (سے 120 تک) ہوں تو ایک جُذْعہ بھیڑ ہوگی یا بکری کا ایک ثَنَبِیہ ہوگا، 121 (سے 200 تک) میں دو بکریاں ہوں گی، 201 (سے 399 تک) میں تین بکریاں ہوں گی اور 400 میں چار بکریاں ہوں گی، پھر حساب رک جائے گا اور اب ہر 100 میں ایک بکری ہوگی۔

## نصاب میں شریک مالکوں کی زکوٰۃ کی صورت:

اگر ایک نصاب میں دو شخص شریک ہوں تو ان کی زکوٰۃ ایک مالک نصاب کی زکوٰۃ کی طرح ہے یعنی: جب دو آدمیوں کی مشترکہ 40 بکریاں ہوں تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر تین آدمیوں کی مشترکہ 120 بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری زکوٰۃ واجب ہوگی<sup>(۳)</sup>۔ پڑوس کی شرکت حصوں کی شرکت کی طرح ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا باڑہ ایک ہو اور وہ ایک جگہ پانی پیئیں، ایک ہی جگہ ان کا دودھ دو با جائے اور ان کی چراگاہ ایک ہو اور نرکا مادہ کو حفتی کرنا ایک وقت میں ہو اور دونوں مالک ان میں سے ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہو۔ ذمی اور مکاتب کے ساتھ

①..... تَبِیع: وہ گائے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔

②..... مُسِنَّہ: وہ جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ از مصنف

③..... احناف کے نزدیک: گائے بھینس کی زکوٰۃ میں اختیار ہے کہ نر لیا جائے یا مادہ، مگر افضل یہ ہے کہ گائے زیادہ ہوں تو چھٹیا اور نر زیادہ ہوں تو چھٹرا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۸۹۶)

④..... احناف کے نزدیک: مویشی میں شرکت سے زکوٰۃ پر کچھ اثر نہیں پڑتا، خواہ وہ کسی قسم کی ہو۔ اگر ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے تو دونوں پر پوری پوری زکوٰۃ واجب اور ایک کا حصہ بقدر نصاب ہے دوسرے کا نہیں تو اس پر واجب ہے، اس پر نہیں مثلاً ایک کی چالیس بکریاں ہیں دوسرے کی تیس تو چالیس والے پر ایک بکری تیس والے پر کچھ نہیں اور اگر کسی کی بقدر نصاب نہ ہوں مگر مجموعہ بقدر نصاب ہے تو کسی پر کچھ نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۰۰)

شرکت کا اعتبار نہیں۔ بعض اوقات اونٹ عمر میں کم ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ بنتِ محاض سے کم نہ ہو اور عمر کی کمی کو یوں پورا کیا جائے گا کہ ایک سال کی کمی کو دو بکریوں یا بیس درہم سے پورا کیا جائے گا اور دو سال کی کمی کو چار بکریوں یا چالیس درہم سے پورا کیا جائے گا اور عمر میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں مگر وہ جذعہ سے زیادہ بڑا نہ ہو اور جو زیادہ دیا اس کی کمی بیت المال کے کارندوں سے لی جائے گی۔ اگر بعض مال صحیح ہو تو زکوٰۃ میں بیمار جانور نہیں لیا جائے گا اگرچہ ایک ہی صحیح ہو۔ اچھے مال میں سے اچھا مال اور خراب میں سے خراب مال لیا جائے گا اور مال سے کھانے کے لئے تیار کیا ہو جانور، بچے جننے والا جانور، دودھ دینے والا جانور، ساٹا اور قیمتی مال نہ لیا جائے (بلکہ درمیانی قسم کا لیا جائے)۔

## ﴿2﴾..... زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ﴿۱﴾:

ہر اگنے والی چیز جسے بطور غذا استعمال کیا جائے جب آٹھ سو سیر یعنی بیس من ہو تو اس میں عشر واجب ہے (۲)۔ اس سے کم میں نہیں، پھلوں اور روئی میں عشر نہیں، لیکن اس غلے میں عشر ہے جسے بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ خشک کھجور (چھوہاروں) اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے۔ خشک کھجوروں اور کشمش جبکہ تر کھجور اور انگور نہ ہو تو اس پر عشر واجب ہونے میں بیس من کا اعتبار ہے اور وزن کا اعتبار خشک ہونے کے بعد ہوگا۔

## زمینی پیداوار میں شریک مالکوں کے عشر کی صورت:

جب حصوں میں شرکت ہو تو دو شریکوں کے مال کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پورا کیا جائے گا جیسے تمام شرکاء کے ورثا میں مشترکہ باغ میں آٹھ سو سیر یعنی بیس من کشمش ہو تو تمام پران کے حصوں کے اعتبار سے دو من کشمش واجب ہو گی اور اس میں پڑوس کی شرکت کا اعتبار نہیں۔ گندم کا نصاب جو سے پورا نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو کا نصاب سُلّت (یعنی چھلکے کے بغیر جو جسے پیغمبری جو کہتے ہیں) سے پورا کیا جائے گا کیونکہ یہ اسی کی قسم ہے۔

①..... زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کے مسائل تفصیلاً جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت ج 1، حصہ 5، ص 914 تا 921 کا اور 48 صفحات پر مشتمل ”عشر کے احکام“ نامی رسالے کا مطالعہ کیجئے۔

②..... احناف کے نزدیک: اس میں نصاب بھی شرط نہیں۔ ایک صاع بھی پیداوار ہو تو عشر (یعنی دسواں حصہ) واجب ہے۔

(بہار شریعت، ج 1، ص 914)



## زمینی پیداوار میں عشر کب واجب ہوگا؟

زمینی پیداوار میں عشر (یعنی دسواں حصہ) اس صورت میں واجب ہوگا جبکہ وہ فصل جاری پانی یا نالی سے سیراب ہوتی ہو اور اگر اسے اونٹ یا کنوئیں سے ڈولوں کے ذریعے سیراب کیا جائے تو نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دونوں طریقے جمع ہو جائیں (یعنی بارش اور کنوئیں کا پانی وغیرہ) تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ نیز کھجور، خشک کشمش اور خشک غلے سے بھوسہ وغیرہ دور کرنے کے بعد عشر لیا جائے تر کھجور اور انگور سے عشر نہ لیا جائے۔ البتہ اگر درختوں پر کوئی آفت آجائے اور پھل پکنے سے پہلے درختوں کو کاٹنا ضروری ہو تو تر کھجوروں سے بھی عشر لیا جائے ماپ کر نو حصے مالک کو اور ایک حصہ فقیر کو دیا جائے اور یہ تقسیم ہمارے اس قول کے مخالف نہیں کہ ”تقسیم بیع ہے۔“ (یعنی جب کچھ پھل کی خرید و فروخت جائز نہیں تو تقسیم کس طرح جائز ہوگی) بلکہ حاجت کے تحت اس کی اجازت دی جائے گی۔

## عشر واجب ہونے کا وقت:

عشر واجب ہونے کا وقت یہ ہے کہ پھلوں میں صلاحیت ظاہر ہو جائے اور دانہ سخت ہو جائے جبکہ عشر کی ادائیگی خشک ہونے کے بعد ہوگی۔

## ﴿3﴾..... سونے چاندی کی زکوٰۃ:

**چاندی کا نصاب:** خالص چاندی جب مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِیماً کے وزن سے 200 درہم (یعنی ساڑھے باون تولے چاندی) پر سال پورا ہو جائے تو اس میں پانچ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ چالیسواں حصہ ہے اور زائد میں اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی اگرچہ ایک درہم ہو<sup>(۱)</sup>۔ **سونے کا نصاب:** بیس مثقال (یعنی ساڑھے سات تولے) سونا ہے اور یہ بھی مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِیماً کے وزن سے ہے اس میں بھی چالیسواں حصہ ہے اور جو زیادہ ہو اس میں اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی اور اگر نصاب سے کچھ بھی کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ جس کے پاس کھوٹ ملے درہم ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ اس میں خالص چاندی کی بھی اتنی مقدار موجود ہو۔ سونے کی ڈلی، ممنوع زیورات

①..... احتاف کے نزدیک: نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر یہ زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے، مثلاً

دو سو چالیس درہم ہو تو زکوٰۃ میں چھ درہم واجب۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۰۳، ملخصاً)

جیسے سونے چاندی کے برتن اور مردوں کے لئے سونے کی کاٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور جائز (یعنی عورتوں کے استعمال) زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اگر قرض کسی ایسے شخص پر ہو جو دینے پر قادر ہو (لیکن دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہو) تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ ہے لیکن قرض وصول کرنے کے بعد واجب ہوگی اور اگر قرض کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو تو مدت پوری ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

#### ﴿4﴾..... مال تجارت کی زکوٰۃ:

یہ بھی سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ اگر رقم نصاب کے برابر ہو تو سال اس وقت سے شروع ہوگا جب وہ اس رقم کا مالک ہو جس سے اس نے سامان خریدا اور اگر رقم نصاب سے کم ہو یا اس نے سامان کے بدلے تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدی تو خریداری کے وقت سے سال کی ابتدا ہوگی اور ملک میں رائج سکوں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اسی کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی اگر کسی سکے سے سامان خریدا اور اس سے نصاب کامل ہے تو اپنے شہر کے سکے کے بجائے اسی سے قیمت لگانا زیادہ بہتر ہے۔

جس نے اپنے ذاتی مال میں تجارت کی نیت کی تو محض نیت سے سال شروع نہ ہوگا جب تک کہ اس سے کوئی چیز نہ خریدے۔ سال پورا ہونے سے پہلے تجارت کی نیت ختم ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے۔

سال کے آخر میں حاصل ہونے والے منافع پر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ اصل مال پر سال پورا ہو جائے، اس کے لئے الگ سال شروع نہ کیا جائے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرتے زرگروں (سناروں) کے درمیان

①..... احناف کے نزدیک: سونا چاندی جب کہ بقدر نصاب ہوں تو ان کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے، خواہ وہ ویسے ہی (ڈلی کی صورت میں) ہوں یا ان کے سکے جیسے روپے اشرفیاں یا ان کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو خواہ اس کا استعمال جائز ہو جیسے عورت کے لئے زیور، مرد کے لئے چاندی کی ایک نگ کی ایک انگوٹھی ساڑھے چار ماشے سے کم کی یا سونے چاندی کے بلا زنجیر کے بٹن یا استعمال ناجائز ہو جیسے چاندی سونے کے برتن، گھڑی، سرمہ دانی، سلوائی کے ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لئے حرام ہے یا مرد کے لئے سونے چاندی کا چھلایا زیور یا سونے کی انگوٹھی یا ساڑھے چار ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی یا چند انگوٹھیاں یا کئی نگ کی ایک انگوٹھی، غرض جو کچھ ہوزکا سب کی واجب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۰۳)

جاری رہنے والے باہمی تبادلوں سے ان کے مال میں سال ختم نہیں ہوتا جس طرح باقی تجارتوں میں ختم نہیں ہوتا۔  
مال مضاربت (۱) کے نفع میں مضارب پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ ابھی تقسیم نہ ہوا ہو قیاس کا تقاضا یہی ہے۔

### ﴿۵﴾..... دینوں اور معدنیات کی زکوٰۃ:

دینے کی زکوٰۃ: اس مال کو رکاز کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کہیں دفن کیا گیا اور ایسی جگہ سے ملا جس پر اسلام میں ملک جاری نہیں ہوئی تو اس خزانے کو پانے والے پر سونے چاندی کی صورت میں پانچواں حصہ لازم ہوگا اور سال پورا ہونے کا اعتبار نہ ہوگا اور بہتر تو یہ ہے کہ اسی طرح نصاب کا اعتبار بھی نہ ہو کیونکہ پانچواں حصہ واجب کرنے میں مال غنیمت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور نصاب کا اعتبار کرنا بھی بعید از قیاس نہیں کیونکہ اس کے استعمال کی جگہ وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے اسی لئے صحیح قول کے مطابق دینے کو سونے چاندی کے ساتھ خاص کیا جائے گا۔

معدنیات کی زکوٰۃ: سونے چاندی کے علاوہ معدنیات پر زکوٰۃ نہیں (۲)۔ دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق سونے چاندی کو بھٹی سے گزارنے اور خالص کرنے کے بعد ان میں سے چالیسواں حصہ لیا جائے گا اور اسی بنیاد پر نصاب معتبر ہوگا۔ سال پورا ہونے کے متعلق دو قول ہیں ایک قول کے مطابق خمس واجب ہے اس بنیاد پر نصاب کا اعتبار نہ ہوگا۔ نصاب کے متعلق بھی دو قول ہیں زیادہ مناسب یہ ہے (اور اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے) کہ واجب مقدار میں مال تجارت کی زکوٰۃ سے ملا دیں کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی کمائی ہے اور سال کے اعتبار سے عشری چیزوں کے ساتھ ملا دیں اس طرح سال کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ یہ بالکل نرمی کا برتاؤ ہے۔ البتہ! عشری چیزوں کی طرح نصاب کا اعتبار کیا جائے گا لیکن احتیاط اس میں ہے کہ قلیل و کثیر مقدار میں پانچواں حصہ نکالا جائے اور شبہ اختلاف سے بچتے ہوئے سونے چاندی کے عین سے نکالیں کیونکہ یہ گمان تعارض کے قریب ہے اور تعارض اشتباہ کے سبب ایک بات پر فتویٰ دینا ممکن نہیں۔

①..... مضاربت: تجارت میں ایک قسم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام اور منافع میں دونوں شریک مال دینے والے کو رب المال اور کام کرنے والے کو مضارب اور مالک نے جو دیا اسے اس المال کہتے ہیں۔

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، ص ۱)

②..... احناف کے نزدیک: کان سے لوہا، سیسہ، تانبہ، پیتل، سونا چاندی نکلے، اس میں خمس (پانچواں حصہ) لیا جائے گا اور باقی پانے والے کا ہے۔ (البتہ) فیروزہ و یا قوت و زمر دودگر جوہر اور سرمہ، پھلگری، چونا، موتی میں اور نمک وغیرہ بننے والی چیزوں میں خمس نہیں۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۱۲، مخلصاً)

## ﴿6﴾..... صدقہ فطر:

صدقہ فطر زبانِ مصطفیٰ سے ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے لئے عید الفطر کے دن اور رات کے کھانے سے ایک صاع زائد ان چیزوں میں سے ہو جسے بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے<sup>(۱)</sup> اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاع سے اس کا حساب لگایا جائے گا<sup>(۲)</sup> جو کہ دوسیر اور سیر کا تہائی حصہ ہے<sup>(۳)</sup>۔ اس چیز کی جنس سے دے جسے وہ خود کھاتا ہے یا اس سے افضل چیز سے دے۔ اگر وہ گندم کھاتا ہے تو صدقہ فطر میں جو دینا جائز نہیں<sup>(۴)</sup>۔ اگر مختلف اناج کھاتا ہے تو ان میں سے بہتر کو اختیار کرے بہر حال جس سے دے ادا ہو جائے گا اور صدقہ فطر کی تقسیم اموال کی زکوٰۃ کی تقسیم کی طرح ہے۔ لہذا اس میں تمام مصارفِ زکوٰۃ (یعنی جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے) کو گھیرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں آٹا یا ستودینا جائز نہیں<sup>(۵)</sup>۔

مسلمان مرد پر اپنی بیوی بچوں<sup>(۶)</sup>، غلاموں اور ہر اس قریبی رشتہ دار کا صدقہ فطر واجب ہے جو اس کے زیر کفالت ہو یعنی اس کے ماں باپ اور اولاد میں سے جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے گا<sup>(۷)</sup> کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان کا

①..... احناف کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کی شرائط درج ذیل ہیں: صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر جس کی نصاب حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہو واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۵)

②..... صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب زکاۃ الفطر علی المسلمین..... الخ، الحدیث: ۹۸، ص ۴۸۹۔

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1321 پر ہے: ”احناف کے نزدیک صدقہ فطر کی مقدار ایک سو پچھتر روپے آٹھنسی بھر“ وزن گہوں یا اس کا آٹا یا اتنے گہوں کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے (یعنی 2 کلوگرام سے 80 گرام کم)۔

④..... احناف کے نزدیک: جو وغیرہ دینا بھی جائز ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۹)

⑤..... احناف کے نزدیک: گہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۹)

⑥..... احناف کے نزدیک: اپنی عورت اور اولاد عاقل بالغ کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اگرچہ اپنا بیج ہو، اگرچہ اس کے نفقات اس کے ذمہ ہوں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۸)

⑦..... احناف کے نزدیک: ماں باپ، دادا دادی، نابالغ بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس کے ذمہ نہیں اور بغیر حکم ادا بھی نہیں کر سکتا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۸)

صدقہ فطر ادا کرو۔“ (۱)

مشترک غلام کا صدقہ فطر دونوں شریکوں پر واجب ہے (۲) لیکن اگر غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں۔ اگر زوجہ اپنی طرف سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا اور شوہر اس کی اجازت کے بغیر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بعض کا نفقہ ادا کر سکتا ہو تو بعض کا ہی ادا کر دے اور ان میں سے زیادہ حق دار وہ ہیں جن کا نفقہ زیادہ لازم ہے۔ چنانچہ، حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بچوں کے نفقہ کو بیوی کے نفقہ پر اور بیوی کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر مقدم فرمایا ہے۔ (۳)

پس یہ وہ فقہی احکام ہیں کہ جن کا جاننا مال دار شخص کے لئے ضروری ہے اور کبھی ان مسائل کے علاوہ نادر واقعات بھی پیش آتے ہیں تو ایسے واقعات کے پیش آنے پر علمائے پوچھنے میں حرج نہیں لیکن ان مسائل کو یاد رکھنا چاہئے۔

## دوسری فصل: زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی ظاہری و باطنی شرائط

جان لیجئے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے پر پانچ باتوں کی رعایت ضروری ہے:

### ﴿۱﴾..... نیت کرنا:

یعنی اپنے دل سے فرض زکوٰۃ کی نیت کرے مگر اس پر مال کو متعین کرنا لازم نہیں۔ اگر اس کا مال غائب ہو تو یوں کہے: یہ میرے غائب مال کی زکوٰۃ ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے ورنہ نقلی صدقہ ہو جائے یہ کہنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر وہ تصریح نہ کرتا اور مطلقاً کہتا تو بھی اسی طرح ہوتا اور ولی کی نیت پاگل اور بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے (اور بادشاہ اسلام اس سے جبراً لے لے) تو بادشاہ کی نیت اس کی نیت کے قائم مقام ہو جاتی ہے لیکن یہ ظاہری دنیوی حکم کے اعتبار سے ہے یعنی دنیا میں اس سے مطالبہ نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ نئے سرے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے کسی کو وکیل بنائے اور وکیل بناتے ہوئے نیت کر لے یا کسی کو نیت کا وکیل کرے تو کافی ہے کیونکہ نیت کا وکیل بنانا بھی نیت ہی ہے۔

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب اخراج زكاة الفطر عن نفسه..... الخ، الحديث ۸۶۸۲، ج ۴، ص ۷۷، مفہومًا۔

②..... احناف کے نزدیک مشترک غلام کا صدقہ فطر کسی پر واجب نہیں۔ چنانچہ، بہار شریعت میں عالمگیری کے حوالے سے ہے کہ دو یا چند شخصوں میں غلام مشترک ہے تو اس کا فطرہ کسی پر نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳)

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الزكاة، باب فی صلاة الرحم، الحديث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۱۸۳، مفہومًا۔

## (2)..... سال پورا ہونے پر ادائیگی میں جلدی کرنا:

سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جلدی ادا کر دے۔ صدقہ فطر میں عید الفطر کے دن سے تاخیر نہ کرے اور صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت ماہ رمضان کے آخری دن کے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے<sup>(۱)</sup> اور اسے جلدی ادا کرنے کا وقت پورا ماہ رمضان ہے۔ جو شخص قدرت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرے تو وہ گنہگار ہے لیکن اس سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی اگرچہ اس کا مال ضائع ہو جائے اور قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے مستحق زکوٰۃ مل جائے اور اگر اس نے مستحق نہ ملنے کے سبب زکوٰۃ دینے میں تاخیر کی اور مال ضائع ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ نصاب مکمل ہونے اور سال گزرنے کے بعد جلدی زکوٰۃ دینا جائز ہے<sup>(۲)</sup> اور دو سال کی زکوٰۃ جلدی ادا کر دینا بھی جائز ہے اور جلدی زکوٰۃ ادا کی پھر سال پورا ہونے سے پہلے مسکین مرگیا یا مرتد ہو گیا یا زکوٰۃ کے علاوہ مال کے سبب امیر ہو گیا یا مالک کا مال تلف ہو گیا یا مالک مرگیا تو دیئے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اس سے واپس بھی نہیں لے سکتا البتہ اگر دیتے وقت واپسی کی شرط لگائے تو واپس لے سکتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ جلدی دینے والے کو مورِ آخرت اور آخرت کی سلامتی کی طرف دھیان دینا چاہئے۔

## (3)..... مال کی جگہ قیمت نہ دینا:

مال کے بجائے قیمت نہ دے بلکہ جس کے بارے میں حکم ہے وہی مال دے۔ لہذا سونے کے بدلے چاندی یا چاندی کے بدلے سونا نہ دے اگرچہ یہ قیمت میں زیادہ ہو<sup>(۳)</sup>۔

①..... احناف کے نزدیک: عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۵)

②..... احناف کے نزدیک: زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے اور اس کی ادائیگی میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الزکوٰۃ، فصل فی مال التجارۃ، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۷۰)

③..... احناف کا موقف: کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی اور دونوں کی کامل نصابیں تو یہ ضرور نہیں کہ سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا قرار دے کر زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ ہاں زکوٰۃ دینے والا اگر صرف ایک چیز سے دونوں نصابوں کی زکوٰۃ ادا کرے تو اسے اختیار ہے کہ اس صورت میں یہ واجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہے۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۰۴)

#### ﴿۴﴾..... زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کرنا (۱):

چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کو دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کرے کیونکہ ہر شہر کے مساکین وہاں کے مالوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور دوسری جگہ منتقل کرنے سے بدگمانی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرے تو ایک قول کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن اختلاف کے شبہ سے نکلنا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا پورے مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور اسی شہر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ﴿۵﴾..... مصارف زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال زکوٰۃ تقسیم کرنا:

اپنے شہر میں موجود تمام مصارف زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال تقسیم کرے کیونکہ تمام مصارف زکوٰۃ کو گھیرنا واجب ہے (۲) کہ اس فرمان باری تعالیٰ کا ظاہری مفہوم اسی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ... الآية  
ترجمہ کنز الایمان: زکوٰۃ تو انہیں لوگوں کے لئے ہے محتاج اور  
نرے نادار۔ (پ۱۰، التوبة: ۶۰)

یہ مریض کے اس قول کے مشابہ ہے کہ ”میرا تہائی مال فقرا اور مساکین کے لئے ہے“ اور اس کا تقاضا ہے کہ مالک بنانے میں سب کو شریک کیا جائے اور عبادات میں ظاہری مفہوم مراد لینے سے بچا جائے۔

آٹھ اقسام میں سے دو قسم کے مستحق زکوٰۃ ایسے ہیں جو اکثر شہروں میں نہیں پائے جاتے: (۱)..... ایک مولفۃ القلوب (یعنی جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے زکوٰۃ دی جاتی ہے) اور (۲)..... عاھل (یعنی جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ

۱..... احناف کے نزدیک: دوسرے شہر کو زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے، مگر جب کہ وہاں اس (یعنی بھیجنے والے) کے رشتے والے ہوں تو ان کے لئے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہیں یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے یا طالب علم کے لئے بھیجے یا زاہدوں کے لئے یا دار الحرب میں ہے اور زکوٰۃ دار الاسلام میں بھیجے یا سال تمام سے پہلے ہی بھیج دے، ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ (نیز) شہر سے مراد وہ شہر ہے جہاں مال ہو، اگر خود ایک شہر میں ہے اور مال دوسرے شہر میں تو جہاں مال ہو وہاں کے فقرا کو زکوٰۃ دی جائے اور صدقہ فطر میں وہ شہر مراد ہے جہاں خود ہے، اگر خود ایک شہر میں ہے اس کے چھوٹے بچے اور غلام دوسرے شہر میں تو جہاں خود ہے وہاں کے فقرا پر صدقہ فطر تقسیم کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۳۳)

۲..... احناف کے نزدیک: زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان ساتوں قسموں کو دے یا ان میں کسی ایک کو دیدے، خواہ ایک قسم کے چند اشخاص کو یا ایک کو۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۲۷)

اور عرصہ وصول کرنے کے لئے مقرر کیا۔ چار قسم کے مستحق زکوٰۃ ایسے ہیں جو تمام شہروں میں پائے جاتے ہیں: (۱)..... فقرا  
(۲)..... مساکین (۳)..... قرض دار اور (۴)..... مسافر۔ دو قسم کے مستحق زکوٰۃ بعض شہروں میں پائے جاتے ہیں،  
بعض میں نہیں: (۱)..... جہاد کرنے والے اور (۲)..... مکاتب غلام<sup>(۱)</sup>۔

مثال کے طور پر اگر پانچ قسم کے لوگ موجود ہوں تو ان کے درمیان برابر برابر یا اس کے قریب قریب مال کی  
زکوٰۃ تقسیم کی جائے۔ ہر ایک کے لئے ایک حصہ مقرر کیا جائے پھر ہر قسم کو آپس میں برابر برابر یا تھوڑے بہت فرق  
کے ساتھ تین حصوں میں تقسیم کرے یا زیادہ حصے کرے اور کسی ایک قسم کے تحت سب کو برابر دینا واجب نہیں، اس کے  
لئے جائز ہے کہ دس یا بیس پر تقسیم کرے پس ہر ایک کا حصہ کم ہو جائے گا لیکن اقسامِ مصارف زیادتی یا کمی کو قبول نہیں  
کرتیں۔ لہذا ہر قسم میں تین سے کم نہ کرے اگر وہ پائے جاتے ہوں۔ پھر اگر صدقہ فطر میں ایک ہی صاع واجب ہو  
اور پانچ قسم کے مصارف پائے جائیں تو اسے چاہئے کہ پندرہ آدمیوں کو دے، اگر امکان کے باوجود ایک کو نہ پہنچے تو  
اس ایک کے حصے کا تاوان دے، اگر واجب کے کم ہونے کے سبب یہ (یعنی تقسیم) مشکل ہو تو ایک گروہ کو جن پر زکوٰۃ  
واجب ہو، اپنے ساتھ شریک کر لے اور اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملالے پھر مستحقین کو جمع کرے اور مال ان کے  
سپرد کر دے تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں کیونکہ یہ عمل اس کے لئے ضروری ہے۔

## زکوٰۃ کے باطنی آداب کی باریکیاں

جان لیجئے کہ راہِ آخرت کا ارادہ کرنے والے ہر شخص پر زکوٰۃ کے متعلق کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں:  
﴿1﴾..... زکوٰۃ کے وجوب اور اس کے معنی کو سمجھنا نیز اس کے ذریعے آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ اسے اسلام کے بنیادی  
ارکان میں سے کیوں قرار دیا گیا حالانکہ یہ محض مالی تصرف ہے، بدنی عبادت سے نہیں۔

## وجوب زکوٰۃ کی تین وجوہات:

پہلی وجہ: کلماتِ شہادت کی ادائیگی کا مقصد توحید کو لازم کرنا اور معبود کے ایک ہونے کی گواہی دینا ہے اور  
اسے پورا کرنے کی شرط یہ ہے کہ مَوْحِد (توحید کے قائل) کے لئے اس یکتا ذات کے سوا کوئی محبوب نہ رہے کیونکہ محبت  
①..... مکاتب: آقا اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے اور غلام اسے قبول بھی کر لے تو

(ماخوذ از بہار شریعت، ج ۲، حصہ ۹، ص ۲۹۲)

ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔



شرکت کو قبول نہیں کرتی اور زبان کے ساتھ وحدانیت کا اقرار کرنے میں کم آزمائش ہے اور محبوب کی جدائی سے محبت کے درجے کا امتحان لیا جاتا ہے اور بندوں کے نزدیک پسندیدہ و محبوب چیز اموال ہیں کیونکہ یہ دنیا میں ان کے لطف اٹھانے کا آلہ ہیں اور انہی اموال کے ذریعے وہ اس جہان سے مانوس ہوتے اور موت سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ اسی موت کے ذریعے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے۔ لہذا ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے محبوب چیز میں انہیں آزمایا جاتا اور ان سے اس مال کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو انہیں محبوب و مرغوب ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ  
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط (پ ۱، التوبة: ۱۱۱) اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے۔  
اور یہ فضیلت جہاد سے حاصل ہوتی ہے اور جہاد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کے شوق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا نام ہے اور مال سے چشم پوشی کرنا جان کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ جب مال و اسباب کے خرچ کرنے پر یہ معنی سمجھے گئے تو اب لوگوں کی تین قسمیں بن گئیں:

### اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کافی ہیں:

(۱)..... وہ لوگ جنہوں نے توحید کی تصدیق کی اور اپنے عہد کو پورا کیا، اپنا تمام مال چھوڑ دیا، درہم و دینار جمع نہ کئے اور ایسی نوبت ہی نہ آنے دی کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو یہاں تک کہ ان میں سے بعض سے پوچھا گیا کہ ”دوسو درہم میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟“ تو فرمایا: ”عوام پر تو شریعت کے حکم سے پانچ درہم ہیں لیکن ہم پر تمام مال خرچ کرنا واجب ہے۔“ اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پوچھا: ”اے عمر! گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟“ عرض کی: ”اسی کی مثل۔“ پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا: ”گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟“ عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول کافی ہیں۔“ تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلمات میں فرق ہے۔“ (۱) پس امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے تمام صدق کو پورا کر دیا

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب فی الرحمة فی ذلک، الحدیث ۱۶۸، ج ۲، ص ۱۸۰، بِدُونِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ۔

اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔

## مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں:

(۲)..... دوسری قسم کے لوگوں کا درجہ پہلی قسم کے لوگوں سے کم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال روک رکھتے ہیں۔ ضروریات اور خیرات کے موسموں کے منتظر رہتے ہیں۔ جمع کرنے سے ان کا مقصد عیش و عشرت نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہ حاجت سے زائد مال کو ضرورت پڑنے پر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ زکوٰۃ کی مقدار پر اکتفا نہیں کرتے اور ایک گروہ تابعین نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں جیسے حضرت سیدنا امام نخعی، حضرت سیدنا شعی، حضرت سیدنا عطاء اور حضرت سیدنا مجاہد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت سیدنا امام شعی رَحْمَةُ اللهِ الْوَكْبِيِّ سے پوچھا گیا کہ ”کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟“ فرمایا: جی ہاں! کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان نہیں سنا:

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو۔ (البقرہ: ۱۷۷)

نیز انہوں نے ان فرامین باری تعالیٰ سے استدلال کیا:

وَمَا سَأَلْتَهُمْ يَتَّقُونَ ۖ  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ (الانفال: ۳)

ایک مقام پر ارشاد ہوا:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ (المنافقون: ۱۰)

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ حکم آیت زکوٰۃ سے منسوخ نہیں بلکہ یہ مسلمان پر مسلمان کے حق میں داخل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مال زکوٰۃ کے علاوہ مال دار پر واجب ہے کہ جب وہ محتاج کو پائے تو اس کی حاجت پوری کرے۔ اس باب میں فقہ کی رو سے درست مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو حاجت تنگ کرے تو دوسروں پر اس کا ازالہ کرنا فرض کفایہ ہے کیونکہ کسی مسلمان کو ضائع کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ احتمال ہے کہ ”یوں کہا جائے کہ مال دار اسے اتنا مال

قرض دے دے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے اور جب مال دار اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو اب مزید کچھ خرچ کرنا اس پر لازم نہیں۔“ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”اسی وقت اس پر خرچ کرنا لازم ہے لیکن قرض دینا جائز نہیں یعنی فقیر کو قرض قبول کرنے کی تکلیف دینا لازم نہیں۔“ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

(۳)..... قرض لینا عوام کے درجات میں سے آخری درجے کی طرف اترنا ہے اور یہ تیسری قسم کا درجہ ان لوگوں کا ہے جو واجب کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہ اس سے کم کرتے ہیں، نہ زیادہ۔ (عارفین کے نزدیک) یہ تمام درجات سے کم درجہ ہے۔ عام لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وہ مال کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتے اور اس کی طرف میلان کی وجہ سے آخرت سے ان کی محبت کمزور ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ يَسْأَلُكُمْ فِي مَالِكُمْ تَبَدَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْعَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔

ان دونوں بندوں میں کتنا فرق ہے کہ ایک سے اس کا جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا اور دوسرے پر اس کے بخل کی وجہ سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کا جو حکم فرمایا یہ اس کے معانی میں سے ایک معنی ہے۔

دوسری وجہ: بخل کی صفت سے پاک ہونا کیونکہ یہ مہلکات میں سے ہے۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لیبب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: (۱)..... ایسا بخل جس کی اطاعت ہو (۲)..... ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے (۳)..... انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔“ (۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبٰغِلُونَ ﴿٩﴾ (پ ۲۸، الحشر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔

آگے مہلکات کے باب میں بخل کے ہلاکت خیز ہونے کی وجہ اور اس سے بچنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۵۴، ج ۱، ص ۴۷۱۔

## بخل سے بچنے کا طریقہ:

بخل کی صفت یوں زائل ہو سکتی ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے کیونکہ کسی چیز کی محبت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ انسان اس کے چھوڑنے پر نفس کو مجبور کرے یہاں تک کہ وہ اس کی عادت بن جائے اسی معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے یعنی صاحب مال کو ہلاکت خیز بخل کی برائی سے پاک کر دیتی ہے اور پاکیزگی اسی قدر حاصل ہوگی جس قدر بندہ خرچ کرتے اور زکوٰۃ دیتے وقت خوشی کا اظہار کرے گا۔

## مالی نعمتوں کا شکر:

تیسری وجہ: نعمت کا شکر ادا کرنا چونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندے پر اس کی جان اور مال کے اعتبار سے انعام فرمایا ہے۔ لہذا بدنی عبادت اور مالی عبادت اور مالی نعمتوں کا شکر ہیں۔ وہ شخص کتنا حقیر ہے جو کسی فقیر کو دیکھتا ہے کہ اُسے رزق کی تنگی لاحق ہے اور وہ اس کا محتاج ہے پھر بھی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنے پر مائل نہیں ہوتا کہ اُس نے اسے سوال سے بے نیاز کر دیا اور مال کے چالیسویں یا دسویں حصے میں دوسروں کو اس کا محتاج بنا دیا۔

﴿2﴾..... دوسری ذمہ داری وقتِ ادائیگی سے متعلق ہے۔ دیندار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ حکمِ الہی بجالانے میں اظہارِ رغبت کے لئے وقتِ وجوب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ فقرا کے دلوں میں خوشی داخل کریں اور حوادثِ زمانہ کی وجہ سے جلدی کرتے ہیں تاکہ بھلائی کے کام میں حرج واقع نہ ہو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تاخیر کرنے میں آفات ہیں نیز اگر وقتِ وجوب سے تاخیر ہوئی تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار باطن سے نیکی کی آواز آتی ہے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہئے کیونکہ یہ فرشتے کا القا ہوتا ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے کہ ”مومن کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔“

تو اس کا بدلنا کتنا تیز ہوگا جبکہ شیطان تنگدستی سے ڈراتا اور بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور فرشتے کے القا کے بعد شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ لہذا دل میں سببِ خیر گزرنے کو غنیمت جانے۔

## ادائیگی زکوٰۃ کے افضل اوقات:

اگر یک مشت زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو اس کے لئے ایک مہینہ مقرر کر لے اور افضل اوقات میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش

کرے تاکہ اس کے سبب ثواب زیادہ ہو اور زکوٰۃ دو گنا ہو جائے۔ جیسے محرم کا مہینہ کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے یا ماہ رمضان المبارک کہ آقائے دو عالم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام مخلوق سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہوتے کہ اس میں کوئی چیز نہ روکتے،<sup>(۱)</sup> رمضان شریف میں شب قدر کی فضیلت بھی ہے نیز قرآن پاک بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوا۔

## رمضان نہیں بلکہ ماہ رمضان کہو:

حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاٰدِ فَرَمَیَا کرتے تھے کہ ”رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہو کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔“  
 مَاہُ ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ بھی کثیر فضل و برکت والے مہینوں میں سے ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں حج اکبر ہے اور معلوم دن یعنی پہلے دس دن اور گئے ہوئے دن یعنی ایام تشریق بھی اسی میں ہیں<sup>(۲)</sup>۔ ماہ رمضان کے آخری اور ماہ ذُو الْحِجَّةِ کے پہلے دس دن افضل ہیں۔

## چھپا کر صدقہ کرنے کی فضیلت:

﴿3﴾..... تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پوشیدہ ادا کرنا کیونکہ یہ ریا اور نام و نمود سے دور ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”افضل صدقہ یہ ہے کہ کم کمانے والے کا محنت کر کے فقیر کو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا۔“<sup>(۳)</sup>  
 بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللہِ السَّلَامِ فرماتے ہیں: ”تین باتیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک

①..... صحیح البخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي..... الخ، الحديث: ج ۱، ص ۱۰، مفہومًا۔

②..... ایام تشریق کی وجہ تسمیہ: بقرعید کے دن یعنی دسویں ذی الْحِجَّةِ کے بعد والے تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل عرب قربانی کے گوشت سکھاتے نہیں دھوپ دیتے ہیں، تشریق بمعنی سکھانا، دھوپ دینا۔ (مرآة المناجیح، ج ۴، ص ۱۷۱)  
 ایام تشریق پانچ ہیں: چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 784 پر ہے: نوی ذی الْحِجَّةِ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک، ہر نماز فرض پچھگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور تین بار افضل اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، وہ یہ ہے: اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکْبَرُ اللّٰهُ اَکْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْد۔

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۰، ج ۸، ص ۱۳۰۔

پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ہے۔“ (۱)

نیز مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک بندہ پوشیدہ طور پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے پوشیدہ میں لکھ دیتا ہے پھر اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پوشیدہ سے نکال کر علانیہ میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ کسی کو بتاتا ہے تو پوشیدہ اور علانیہ دونوں سے نکال کر یا میں لکھ دیتا ہے۔“ (۲)

مشہور حدیث میں ہے کہ ”سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اس دن (عرش کا) سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے یوں صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔“ (۳)

ایک روایت میں ہے: ”صَدَقَةُ السِّرِّ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ يَعْنِي پوشیدہ صدقہ غضبِ الہی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔“ (۴)

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْ تَخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ  
لَكُمْ ط (پ۳، البقرة: ۲۷۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لئے  
سب سے بہتر ہے۔

### چھپا کر صدقہ دینے کا فائدہ:

پوشیدہ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ دکھاوے اور نام و نمود کی آفات سے بچ جاتا ہے۔ نیز مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا عمل قبول نہیں فرماتا جو لوگوں کو سنائے، ریا کاری کرے اور احسان جتائے۔“ (۵) جبکہ صدقے کا چرچا کرنے والا سنانے کی خواہش کرتا ہے اور لوگوں کی موجودگی میں صدقہ دینے والا ریا کاری چاہتا ہے اور پوشیدہ دینے والا، خاموش رہنے والا ریا کاری سے بچنے والا ہے۔

- ①..... شعب الایمان للبيهقي، باب في الصبر على المصائب، الحديث: ۱۰۰۵، ج ۷، ص ۲۱۵، ”اخفاء“ بدله ”كتمان“۔
- ②..... التفسير الكبير للرازي، سورة البقرة: ۲۷، ج ۳، ص ۶۲۔
- ③..... صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد..... الخ، الحديث: ۶۶، ج ۱، ص ۲۳۶۔
- ④..... شعب الایمان للبيهقي، باب في الزكاة، فصل في الاختيار في صدقة التطوع، الحديث: ۳۴۴، ج ۳، ص ۲۴۵۔
- ⑤..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۷۸۔

## صدقے میں نمود و نمائش سے بچنے کے طریقے:

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے ایک گروہ نے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی کہ صدقہ لینے والا دینے والے کو نہ پہچان سکے۔ ان میں سے بعض تو ناپینا کے ہاتھ میں صدقہ دیتے، بعض فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ رکھ دیتے جہاں سے وہ دیکھ لیتا لیکن دینے والا نظر نہ آتا، بعض سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے، بعض کسی دوسرے کے ہاتھ فقیر کی طرف بھیج دیتے تاکہ وہ دینے والے کو نہ جانے اور کہہ دیتا کہ اسے ہمارے بارے میں نہ بتائے۔ یہ تمام طریقے غضبِ الہی کو بھگانے والے، ریا کاری اور سنانے سے بچانے والے ہیں اگر ایک شخص کے پہچانے بغیر دینا ممکن نہ ہو تو وکیل کو دے کہ وہ مسکین کے حوالے کر دے اور مسکین کا نہ جاننا زیادہ بہتر ہے کیونکہ مسکین کے جاننے میں ریا کاری اور احسان جتلانا دونوں پائے جاتے ہیں جبکہ پہچانے والے کے جاننے میں صرف ریا کاری پائی جاتی ہے۔

## بخل اور ریا کاری سانپ اور بچھو کی صورت میں:

جب بھی شہرت مقصود ہوگی تو عمل ضائع ہو جائے گا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے خاتمے اور مال کی محبت کم کرنے کے لئے ہوتی ہے اور حب جاہ دل پر حب مال سے زیادہ غلبہ رکھتی ہے، دونوں میں سے ہر ایک آخرت میں نقصان دہ ہے۔ بخل قبر میں ڈنک مارنے والے بچھو کی شکل میں جبکہ ریا کاری زہریلے سانپ کی صورت میں آتی ہے اور انسان کو حکم ہے کہ ان دونوں کی تکلیف کو دور کرنے یا کم کرنے کے لئے دونوں کو کمزور کر دے یا مار دے۔ جب بھی وہ دکھاوے اور سنانے کا ارادہ کرے گا تو گویا بچھو کے بعض اعضاء کو سانپ کے لئے غذا بنا دے گا تو جس قدر بچھو کمزور ہوگا اسی قدر سانپ طاقتور ہو جائے گا اگر معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دیتا تو یہ اس پر زیادہ آسان ہوتا۔ ان صفات کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے انہیں تقویت ملتی اور ان کے تقاضے کے خلاف عمل کرنے سے یہ کمزور ہوتی ہیں (اور مقصد انہیں کمزور کرنا ہی ہے)۔ لہذا بخل کی طرف لے جانے والے امور کی مخالفت اور ریا کا سبب بننے والے امور کی اطاعت کا کیا فائدہ اس طرح تو ادنیٰ مزید کمزور اور مضبوط مزید قوی ہو جائے گا۔ عنقریب مہلکات کے باب میں ان معانی کے اسرار بیان کئے جائیں گے۔

﴿4﴾..... چونکہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب معلوم ہو کہ علانیہ صدقہ دینے سے لوگوں کو ترغیب ملے گی تو ظاہری طور پر صدقہ دے اور اپنے باطن کو ریا کاری کے طریقے سے اس طرح بچائے جو ہم ”کِتَابُ الرِّیَا“ میں ریا کے علاج کے سلسلے میں ذکر کریں گے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْبَاهُمْ ج (ب: البقرة: ۲۷۱) ترجمہ کنز الایمان: اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔

### صدقہ ظاہر کر کے دینے کی صورت:

یہ وہاں ہے جہاں حال ظاہر کرنے کا تقاضا کرتا ہو یا تو دوسروں کی اقتدا کے لئے یا اس لئے کہ سائل لوگوں کے مجمع میں مانگے۔ لہذا ریا سے ڈرتے ہوئے ظاہری طور پر صدقہ دینا ترک نہ کرے بلکہ اسے چاہئے کہ صدقہ کرے اور جہاں تک ہو سکے اپنے باطن کو ریا سے بچائے۔ نیز ظاہر کر کے صدقہ دینے میں احسان جتانے اور ریا کاری کے علاوہ تیسری ممنوع چیز بھی ہے اور وہ فقیر کی پردہ دری ہے کیونکہ اکثر فقیر کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ اسے محتاج کی صورت میں دیکھا جائے تو جس نے لوگوں کے سامنے سوال کیا اس نے اپنا پردہ خود فاش کیا۔ لہذا اسے علانیہ دینے میں یہ تیسری خرابی ممنوع نہ رہے گی جس طرح کہ کوئی شخص پوشیدہ فسق کرتا ہے تو اسے ظاہر کرنا ممنوع ہے اور اس کی ٹوہ میں پڑنا اور پیچھے سے اس کا ذکر کرنا بھی ممنوع ہے لیکن جو علانیہ فسق کا مرتکب ہوتا ہے اس پر حد قائم کرنا اس کی اشاعت ہی تو ہے لیکن اس کا سبب وہ خود ہے۔ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس ارشادِ گرامی: ”مَنْ اَلْفَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِیْبَةَ لَہٗ یعنی: جس نے حیا کی چادر اتار ڈالی اس کی کوئی غیبت نہیں۔“<sup>(۱)</sup> کا یہی معنی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ج (ب: فاطر: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر۔

علانیہ دینا بھی مستحب ہے کیونکہ اس میں ترغیب کا فائدہ ہے۔ پس بندے کو اس فائدے کے وزن کا اس کے متعلق وارد ممانعت کے ساتھ گہری نظر سے موازنہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ بات حالات اور لوگوں کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کے لئے علانیہ دینا افضل ہوتا ہے۔ جو خواہشات سے قطع نظر فوائد اور خرابیوں کو

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب الرجل من اهل الفقه..... الخ، الحديد: ۲۰۹، ج ۱، ص ۳۵۵۔



دیکھتا ہے اس کے لئے ہر حال میں مناسب اور بہتر بات سامنے آجاتی ہے۔

﴿۵﴾..... پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ احسان جتنا اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو فاسد نہ کرنا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور

لَا تَبْطُلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۗ

ایذا دے کر۔

(پ ۳، البقرة: ۲۶۴)

احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کی حقیقت میں علما کا اختلاف ہے۔ چنانچہ،

## احسان جتانے اور ایذا دینے کی حقیقت:

کہا گیا ہے کہ ”احسان جتانے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ دے کر اس کا تذکرہ کرے اور ایذا دینے سے مراد یہ ہے

کہ دینے کے بعد اسے ظاہر کرے۔“

حضرت سپید ناسفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ”جس نے احسان جتایا اس کا صدقہ فاسد ہو گیا۔“

عرض کی گئی: ”احسان جتنا کیا ہے؟“ فرمایا: ”اسے یاد کرے اور لوگوں کو بتائے۔“

ایک قول ہے کہ ”احسان جتنا یہ ہے کہ کچھ دے کر خدمت لینا اور اذیت پہنچانا یہ ہے کہ غربت کا طعنہ دینا۔“

بعض حضرات نے فرمایا: ”احسان جتنا یہ ہے کہ اپنے عطیہ کے سبب اس پر تکبر کرے اور اذیت پہنچانا یہ ہے کہ

سوال کرنے پر اسے جھڑکے اور برا بھلا کہے۔“ اور حضور صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔“ (۱)

(حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سپید ناما امام محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِی فرماتے ہیں: میرے نزدیک احسان جتانے کی ایک

بنیاد اور جڑ ہے اور وہ دل کے احوال اور اس کی صفات ہیں پھر اس سے ظاہری احوال زبان اور اعضاء پر مرتب ہوتے ہیں۔

## احسان جتانے کی بنیاد:

اس کی بنیاد یہ ہے کہ صدقہ دینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس پر انعام اور احسان کیا۔ جبکہ حق یہ ہے کہ فقیر تو محسن

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۷۸، مفہومًا۔

المعجم الكبير، الحديث ۷۵۴، ج ۸، ص ۱۱۹۔

ہے کہ اس نے اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق قبول کیا جو اس کے لئے طہارت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرتا تو یہ اس کے سبب گروی رہتا۔ لہذا اسے فقیر کا احسان مند ہونا چاہئے کہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق کو قبول کرنے کے لئے اپنی ہتھیلی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نائب بنایا۔ جیسا کہ رسول انور، شافع محشر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔“ (۱)

پس اسے یہ یقین رکھنا چاہئے کہ سائل کو دینے میں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق اسے پیش کر رہا ہے اور حاجت مند اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے کیونکہ حاجت مند کو ملنے سے پہلے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے۔ بالفرض اگر مال دار پر کسی کا قرض ہو اور قرض خواہ کہہ دے کہ یہ رقم میرے غلام یا خادم کو دے دینا جو میرے زیر کفالت ہے تو مقروض کا یہ خیال کرنا بے وقوفی و جہالت ہے کہ اس نے قرض وصول کرنے والے پر احسان کیا ہے کیونکہ احسان کرنے والا تو وہ ہے جو اس کے رزق کا کفیل ہے اس نے تو وہ چیز ادا کی ہے جو اپنی پسندیدہ چیز خریدنے کے سبب اس پر لازم ہوتی تھی۔ لہذا وہ اپنے حق میں کوشش کرنے والا ہے دوسروں پر اس کا کوئی احسان نہیں۔

الغرض جب وجوب زکوٰۃ کے متعلق ہمارے ذکر کردہ تین معانی کو وہ سمجھ لے یا ان میں سے ایک کو سمجھ لے تو وہ صرف اپنی ذات پر احسان خیال کرے گا یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اظہارِ محبت کے لئے مال کو خرچ کر رہا ہے یا بخل کی برائی سے خود کو پاک کر رہا ہے یا مزید کے حصول کے لئے مالی نعمت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بہر حال جو بھی صورت ہو یہ اس کا اور فقیر کا معاملہ نہیں کہ وہ خود کو فقیر پر احسان کرنے والا سمجھ بیٹھے۔ بعض اوقات جہالت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خود کو فقیر پر احسان کرنے والا سمجھتا ہے تو اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے جو احسان جتانے کے معنی میں ذکر کیا گیا یعنی وہ اسے بیان کرتا، اس کا اظہار کرتا اور اس سے بدلہ طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے اور دعا، خدمت، تعظیم و توقیر، حقوق کی ادائیگی، مجالس میں مقدم کرنا اور ہر بات میں اس کی پیروی کرنا وغیرہ امور کی خواہش رکھتا ہے اور یہ تمام باتیں احسان جتانے کا نتیجہ ہیں۔ احسان جتانے کا باطنی معنی وہ ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا۔

## اذیت پہنچانے کا ظاہر:

جہاں تک اذیت پہنچانے کا تعلق ہے تو اس کا ظاہر تو بیخ، عار دلانا، سخت کلامی، ترش روئی، اسے ظاہر کر کے پردہ دری

①..... المعجم الكبير، الحديث ۸۵۷۱، ج ۹، ص ۱۰۹۔

کرنا ہے اور اسے حقیر جاننے کے مختلف طریقے اختیار کرنا ہے۔

## اذیت پہنچانے کا باطن اور اس کی بنیاد:

اس کی بنیاد دو باتیں ہیں: (۱)..... مال سے اپنا ہاتھ اٹھالینے کو برا جانا اور اسے اپنے نفس پر گراں سمجھنا کیونکہ یہ بات مخلوق کے لئے بالیقین تنگی کا باعث بنتی ہے۔ (۲)..... خود کو فقیر سے بہتر سمجھنا اور یہ کہ فقیر اپنی حاجت کے سبب اس سے گھٹیا ہے۔ یہ دونوں باتیں جہالت کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی کو مال دینے کو ناپسند کرنا حماقت ہے کیونکہ جو ایک ہزار کے برابر چیز پر ایک درہم خرچ کرنا ناپسند کرتا ہے وہ بہت بڑا بے وقوف ہے اور یہ بات اظہر من الشمس (سورج سے زیادہ ظاہر) ہے کہ جو مال رضائے الہی پانے اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لئے خرچ کیا جاتا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو وہ خود کو بخل کی بری عادت سے پاک کرنے یا مزید کے حصول کے لئے بطور شکر خرچ کیا جاتا ہے۔ بہر حال کوئی سی بھی صورت ہونا پسندیدگی کی کوئی وجہ نہیں۔

دوسری بات (یعنی خود کو فقیر سے بہتر سمجھنا) بھی جہالت ہے کیونکہ اگر وہ غنا (مال داری) پر فقر کی فضیلت کو جانتا اور غنا کا خطرہ جانتا تو کبھی فقیر کو حقیر نہ سمجھتا بلکہ اس سے برکت لیتا اور اس کا درجہ پانے کی تمنا کرتا۔ لہذا فقر مال دار نیک لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”رَبِّ كَعْبَةِ كَيْ قَسَمَ! وَهُوَ خَسَارُهُ پانے والے ہیں۔“ حضرت سیدنا ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: ”کون؟“ ارشاد فرمایا: ”جو زیادہ مال دار ہیں۔“ (۱)

## مال دار شخص محتاج کا خادم ہے:

مال دار کیسے فقیر کو حقیر سمجھتا ہے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اُس کے لئے ذریعہ تجارت بنا دیا کیونکہ مال دار اپنی کوشش سے مال کماتا اور اس میں زیادتی چاہتا ہے اور بقدر حاجت اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اور اس پر لازم کیا گیا ہے کہ فقیر کو اس کی حاجت کی مقدار سپرد کر دے اور زائد مال اگر اس کے لئے نقصان دہ ہو تو وہ اس سے روک لے۔ پس فقیر کے رزق کے لئے کوشش کرنے میں امیر اس کا خادم ہے۔ پھر لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری، مشقت برداشت

①..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب تغلیظ عقوبة من لا یؤدی الزکاة، الحدیث: ۹۹، ص ۴۹۵۔

کرنے اور زائد مال کی حفاظت کرنے میں وہ فقیر سے جدا ہے۔ یہاں تک کہ جب امیر شخص مر جاتا ہے تو اس کا مال اس کے دشمن کھاتے ہیں۔ پس اس صورت میں جب ناپسندیدگی فرحت و مسرت میں بدل جاتی اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل نے اسے واجب کی ادائیگی کی توفیق بخشی اور فقیر مال قبول کر کے اسے ذمہ داری سے عہدہ برآ کرتا ہے اس وقت اذیت پہنچانے، جھڑکنے اور ترش روئی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر یہ باتیں خوشی، تعریف اور احسان قبول کرنے میں بدل جاتی ہیں۔ اذیت پہنچانے اور احسان جتانے کا مقصد یہی ہے (جو میں نے ذکر کیا)۔

### سوال جواب:

**سوال نمبر 1:** اگر آپ کہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کا اپنے آپ کو محسن سمجھنا بہت باریک معاملہ ہے۔ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس کے ذریعے اس کے دل کا امتحان لیا جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ خود کو احسان جتانے والا نہیں سمجھتا۔  
**جواب:** جان لیجئے کہ اس کی ایک باریک واضح علامت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر اس کا کوئی نقصان کر دے یا اس کے دشمن کی مدد کرے تو دیکھے کہ (دل میں) اس کی نفرت دوری جو اب پیدا ہوئی کیا یہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کی نفرت سے زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو اس کا صدقہ احسان جتانے کے شائبہ سے خالی نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے سبب اسے اب فقیر سے جو امید ہے وہ پہلے نہ تھی۔

**سوال نمبر 2:** اگر آپ کہیں کہ یہ بھی باریک معاملہ ہے اور کسی کا دل اس سے خالی نہیں اس کا علاج کیا ہے؟  
**جواب:** جان لیجئے کہ اس کے دو علاج ہیں: ایک باطنی اور ایک ظاہری۔

**باطنی علاج:** یہ ہے کہ ان حقائق (یعنی تین معانی) کی پہچان حاصل کرنا جو ہم نے وجوب کے سمجھنے میں ذکر کئے ہیں اور یہ کہ فقیر زکوٰۃ قبول کر کے اس کے مال کو پاک کرنے میں اس پر احسان کرتا ہے۔

**ظاہری علاج:** یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے جو ممنون آدمی کرتا ہے کیونکہ ظاہری اخلاق و افعال کا دل پر اثر ہوتا ہے جیسا کہ اس کتاب کے آخری حصے میں اس کے اسرار بیان کئے جائیں گے اسی لئے بعض بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِیِّنِ فقیر کے پاس صدقہ رکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور قبول کرنے کی درخواست کرتے تھے کہ سائل کی طرح کھڑے ہو جاتے اور ڈرتے کہ وہ رد نہ کر دے۔ بعض اپنی ہتھیلی پھیلا دیتے تاکہ فقیر اس کی ہتھیلی سے لے لے

اور فقیر کا ہاتھ اوپر رہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتیں تو لے جانے والے سے کہتیں کہ اس کے دعائیہ کلمات کو یاد رکھے پھر اس جیسے کلمات کے ساتھ جواب دیتیں اور کہتیں: دعا کے بدلے اس لئے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ رہے۔ الغرض صالحین تو دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ بدلے کے مشابہ ہے اور وہ دعا کے بدلے دعا دیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اصحاب قلوب حضرات اپنے دلوں کا علاج اسی طرح کیا کرتے تھے۔

ظاہری اعتبار سے اس کا علاج یہی اعمال ہیں جو عجزی و انکساری اور احسان قبول کرنے پر دلالت کرتے ہیں باطنی اعتبار سے اس کا علاج ان چیزوں کی پہچان ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ عمل کے اعتبار سے ہے اور وہ علم کے اعتبار سے جبکہ دل کا علاج علم و عمل دونوں کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی مذکورہ (باطنی) شرائط نماز میں خشوع و خضوع کے قائم مقام ہیں اور یہ دونوں باتیں (یعنی نماز و زکوٰۃ کی باطنی شرائط قرآن و حدیث سے ثابت ہیں):

(نماز کے متعلق) ارشاد ہوا: ”بندے کے لئے نماز میں وہی کچھ ہے جو اسے سمجھ آئے۔“ (۱)

(زکوٰۃ کے متعلق) ارشاد ہوا: ”اللہ عزَّ وَّجَلَّ احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔“ (۲)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَبْتَغُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور

ایزادے کر۔

(پ۳، البقرة: ۲۶۴)

البتہ فقیر کا فتویٰ کہ زکوٰۃ اپنے مقام پر پہنچ گئی اور اس کی ذمہ داری پوری ہوگئی یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہم نے

”کِتَابُ الصَّلَاةِ“ میں اس معنی کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

﴿6﴾..... چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو کم سمجھے کیونکہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو خود پسندی میں مبتلا ہوگا اور

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۶۹-۱۷۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۷۸، مفہومًا۔

المعجم الكبير، الحديث ۷۵۴، ج ۸، ص ۱۱۹۔

خود پسندی ہلاک کرنے والی ہے اور اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ، اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثْرَتِكُمْ  
فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (ب، ۱۰، التوبة: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ (۱)

کہا جاتا ہے کہ جب بھی نیکی کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک عظمت والی ہو جاتی ہے اور جب بھی نافرمانی کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک چھوٹی ہو جاتی ہے۔

## نیکی کی تکمیل:

منقول ہے کہ نیکی تین امور سے مکمل ہوتی ہے: (۱)..... نیکی کو چھوٹا سمجھنا (۲)..... اسے کرنے میں جلدی کرنا اور (۳)..... اسے چھپانا۔ نیز بڑا سمجھنا احسان جتانے اور اذیت پہنچانے کے علاوہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا مال مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر میں خرچ کرے تو اس میں بڑا سمجھنا ممکن ہے لیکن احسان جتانے یا اذیت پہنچانے کا امکان نہیں بلکہ خود پسندی اور بڑا سمجھنا تمام عبادات میں جاری ہوتے ہیں۔

①..... صَدْرُ الْإِقْبَاضِ مُفسِّرِ شَهِيرِ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي تفسیر خزانة العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: فتح مکہ سے تھوڑے روز بعد قبیلہ ہوازن وثقیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر بارہ ہزار یا اس سے زائد تھی اور مشرکین چار ہزار تھے جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے، یہ جگہ رسول کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بہت گراں گزرا کیونکہ حضور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت و کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا مشرکین بھاگے اور مسلمان مالی غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی اور تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا اور سید عالم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے ابن عم ابوسفیان بن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس کو خنم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں، ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی جب لڑائی خوب گرم ہوئی حضور صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے دست مبارک میں سنگ ریزے لے کر کفار کے مونہوں پر مارے اور فرمایا رَبِّ مُحَمَّدٍ كِي قَسَمِ بَهَاگ نَفَكِ، سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے اور رسول کریم صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرمادیں۔

## بخل اور خود پسندی کا علاج:

اس کا علاج علم و عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ دسواں یا چالیسواں حصہ کثیر میں سے قلیل ہے اور اس نے خرچ کرنے میں ہلکے درجے پر قناعت کی ہے جیسا کہ ہم نے وجوب کے باب میں ذکر کیا ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ اس پر اکتفا کرنے میں حیا کرے، وہ کیسے اسے بڑا سمجھتا ہے اگرچہ بلند درجے تک پہنچ جائے اور اپنا تمام یا اکثر مال خرچ کر دے۔ اسے غور کرنا چاہئے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا اور وہ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ یہ مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اسے مال عطا فرمایا اور خرچ کرنے کی توفیق بخشی۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حق میں اسے بڑا نہ سمجھے جو خود اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حق ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ آخرت کو پیش نظر رکھے اور ثواب کے لئے خرچ کرے، نیز اس مال کے خرچ کرنے کو کیوں بڑا سمجھتا ہے جس کے بدلے اسے دُگنا (اجر و ثواب) ملے گا؟

**عمل** سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے باقی مال اللہ عَزَّوَجَلَّ سے روکنے کے سبب شرمسار ہو۔ پس مال دیتے وقت اس کی عاجزی و انکساری کی کیفیت ہونی چاہئے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص امانت واپس کرتے ہوئے بعض مال روک لیتا ہے کیونکہ تمام مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اور تمام کا خرچ کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے لیکن اس نے تمام مال خرچ کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ فطرتی بخل کے سبب یہ اس پر گراں گزرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

فِي حِفْظِكُمْ تَبَخَّلُوا (پ ۲۶، محمد: ۳۷) ترجمہ کنز الایمان: اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے۔

﴿7﴾..... ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مال میں سے عمدہ، پسندیدہ اور پاک و صاف مال دے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پاک ہے اور پاک مال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اگر مال شبہ سے حاصل ہوا تو ممکن ہے کہ وہ اس کی ملک ہی نہ ہو لہذا اپنے موقع پر نہ ہوگا۔

## خوش بخت شخص:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”اس بندے کے لئے خوش خبری ہے جو اس مال

میں سے خرچ کرتا ہے جو اس نے بغیر کسی گناہ کے کمایا۔“ (۱)

زکوٰۃ میں گھٹیا مال دینا یہ بے ادبی ہے کیونکہ اگر اس نے بہترین مال اپنے لئے یا گھر والوں یا غلام کے لئے رکھا ہے تو اس نے غیر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ترجیح دی۔ اگر یہی سلوک وہ اپنے مہمان کے ساتھ کرے اور اس کے سامنے معمولی کھانا رکھے تو اس کا دل عداوت سے بھر جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی نظر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ہو اور اگر اس کی نظر اپنی ذات اور آخرت کے ثواب کی طرف ہو تو وہ شخص عقل مند نہیں جو غیر کو خود پر ترجیح دیتا ہے حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے صدقہ کیا اور وہ باقی رہے گا یا کھا کر فنا کر دیا اور جو وہ کھاتا ہے وہ تو فوری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ پس عقل مندی یہ نہیں کہ وہ فوری ضرورت پر نظر رکھے اور جمع کرنا چھوڑ دے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّبُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
أَنْ تُعْضُوا فِئْجَةً ط (ب، البقرة: ۲۶۷)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اپنی پاک کمائیوں میں سے  
کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا  
اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے  
تو نہ لو گے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو۔

یعنی تم ناپسند کرتے اور حیا کرتے ہوئے لیتے ہو، چشم پوشی کا یہی مطلب ہے۔ لہذا اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے لئے بھی  
ایسی بات کو ترجیح نہ دو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ”ایک درہم ہزار درہم پر سبقت لے گیا۔“ (۲) اس کی صورت یہ ہے  
کہ انسان اپنے حلال اور عمدہ مال میں سے ایک درہم نکالے اور اسے رضا مندی اور خوشی کے ساتھ ادا کرے اور کبھی  
اپنے ناپسندیدہ مال میں سے ایک لاکھ درہم خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کے  
حوالے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ترجیح نہیں دیتا۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ناپسندیدہ چیزوں کو  
اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام پر دیتے ہیں۔ چنانچہ،

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ط لا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزکاۃ، فصل فی کراہیۃ امساک..... الخ، الحدیث: ۳۳۸، ج ۳، ص ۲۲۵، مفہومًا۔

②..... سنن النسائی، کاب الزکاۃ، باب جہد المقل، الحدیث: ۲۵۲، ص ۴۱۵۔



(پ۱۴، النحل: ۶۲) بعض قراء حضرات نے حرف نفی ”لا“ پر وقف کیا اس طرح ان کو جھٹلایا پھر شروع کرتے ہوئے یوں پڑھا: جَرَمَ أَنْ كُفُّوا النَّاسَ (پ۱۴، النحل: ۶۲) جَرَمَ کا معنی کسب ہے یعنی اپنا ناپسندیدہ مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے خرچ کرنے کے سبب وہ جہنمی ہوئے۔ (عام قراءت لا جَرَمَ کے ساتھ ہے یعنی ان کے لئے جہنم کی آگ ہے)

﴿8﴾..... آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے صدقہ کے لئے ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے صدقہ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے عام لوگوں پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان میں سے بھی اسے دے جس میں چھ صفات پائی جائیں اور ان صفات کا خاص خیال رکھے وہ یہ ہیں:

### زکوٰۃ متقی و پرہیزگار حاجت مند کو دو:

(۱)..... متقی لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا سے کنارہ کش ہوں اور خود کو آخرت کی تجارت کے لئے خاص کر لیا ہو۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو صرف متقی کا کھانا کھا اور تیرا کھانا بھی متقی ہی کھائے۔“<sup>(۱)</sup> یہ اس لئے فرمایا کہ متقی شخص کھانے کے ذریعے تقویٰ پر مدد حاصل کرتا ہے تو اس طرح تم اس کی مدد کر کے اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ گے۔

ایک روایت میں ہے کہ ”اپنا کھانا متقیوں اور نیک مؤمنین کو کھلاؤ۔“<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اپنے کھانے کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو جس سے تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے محبت کرتے ہو۔“<sup>(۳)</sup>

### اولیا میں سے ایک ولی:

ایک عالم صاحب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانا وغیرہ صدقہ کرنے میں فقرا صوفیائے عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کو دیگر فقرا پر ترجیح دیتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ”اگر آپ تمام فقرا کے ساتھ عمومی طور پر نیکی کریں تو افضل ہے۔“ فرمایا: ”نہیں، یہ (یعنی فقرا صوفیا) ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہمت و ارادے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف لگا رکھا ہے اور

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب من یؤمر ان یجالس، الحدیث ۴۸۳۲، ج ۴، ص ۳۲۱، باختصار۔

②..... الزهد لابن المبارک، باب ماجاء فی تخویف عواقب الذنوب، الحدیث ۴۷، ص ۲۴۔

③..... الزهد لابن المبارک، باب جلیس الصدق وغیر ذلک، الحدیث ۳، ص ۱۲۴۔

جب یہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ پس میں ایک شخص کی توجہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف لگا دوں تو مجھے یہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ ان ہزار آدمیوں کو کھانا کھلاؤں جن کا مقصد دنیا (کا حصول) ہے۔“ جب یہ بات سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے ذکر کی گئی تو انہوں نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا: ”یہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیا میں سے ایک ولی ہے میں نے آج تک ایسا عمدہ کلام نہیں سنا۔“ کچھ عرصے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے اور اس نے دکان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے اس کی طرف مال بھیجا اور فرمایا: ”اسے اپنے مال میں شامل کر لو اور دکان نہ چھوڑو بے شک تم جیسے لوگوں کو تجارت نقصان نہیں پہنچاتی۔“ یہ شخص سبزی فروش تھا فقرا کو جو کچھ دیتا اس کی قیمت نہیں لیتا تھا۔

### اپنے مال سے علما کی مدد کرنے کا جذبہ:

(۲)..... جسے زکوٰۃ دیں وہ خاص اہل علم سے ہو کیونکہ یہ علم پر اس کی مدد ہے اور علم سب سے معزز عبادت ہے جب کہ نیت صحیح ہو۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰیٰتُہٗ وَرَحْمٰتُہٗ کَثِیْرٰتٌ میں تقسیم فرماتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی: ”اگر آپ تمام لوگوں میں تقسیم کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے؟“ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”میں مقام نبوت کے بعد علما کے مقام سے بڑھ کر کسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھتا۔ جب ان میں سے کسی کا دل اپنی حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ علم کے لئے فراغت نہیں پاتا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا لہذا ایسے لوگوں کو حصول علم کے لئے فارغ کرنا افضل ہے۔“

### زکوٰۃ لینے والے کو کیسا ہونا چاہئے؟

(۳)..... زکوٰۃ لینے والا تقویٰ اور علم توحید میں سچا ہو۔ اسکی توحید یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز لے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد اور اس کا شکر بجالائے اور یقین رکھے کہ یہ نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی طرف سے ہے، کسی سبب کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے یعنی اس کا یقین ہے کہ تمام نعمتیں اسی خدائے واحد کی طرف سے ہیں۔ حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ اپنے اور رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان کسی کو انعام دینے والا نہ سمجھنا، کسی دوسرے کی طرف سے ملنے والی نعمت کو خود پر قرض سمجھنا، جس نے غیر خدا کا شکر یہ ادا کیا

گویا اس نے انعام دینے والے کو نہیں پہچانا اور اسے یقین نہیں کہ جو واسطہ ہوتا ہے وہ مغلوب اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مسخر ہوتا ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمل کی دعوت دینے والے امور اس پر مسلط کئے اور اس کے لئے اسباب کو آسان کر دیا لہذا وہ اس طرح دے رہا ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مغلوب ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ بھی کرے تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس عمل میں اس کے دین و دنیا کی بہتری ہے۔ نیکی پر ابھارنے والی بات جتنی زیادہ مضبوط ہوگی ارادہ بھی اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا اور طاقت ابھرے گی، نیز بندہ ترغیب دینے والی اس مضبوط بات کی مخالفت نہیں کر سکتا جس میں کسی قسم کا تردد نہیں۔ ان امور ترغیبیہ کو پیدا کرنے، انہیں حرکت دینے، ان سے کمزوری اور تردد کو دور کرنے اور ان امور کے تقاضے کے مطابق قدرت کو مسخر کرنے والی ذات اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی ہے اور جسے ایسا یقین حاصل ہو جائے اس کی نظر مُسَبَّبُ الْأَسْبَابِ کی طرف ہوتی ہے۔ اس قسم کے بندے کا یقین دوسروں کی طرف سے ملنے والی تعریف اور شکر یہ وغیرہ سے زیادہ مفید ہے کیونکہ وہ تو محض زبان کی حرکت ہے جس کا نفع عام طور پر کم ہوتا ہے اور اس قسم کے موحد بندے کی مدد ضائع نہیں ہوتی۔ نیز وہ شخص جو زکوٰۃ ملنے پر دینے والے کی تعریف کرتا اور بھلائی کی دعا دیتا ہے تو نہ دینے پر اس کی مذمت بھی کرے گا اور ایذا پہنچے پر بددعا دے گا اور اس کا حال ایک جیسا نہیں رہے گا۔

## ہر حال میں نظر مُسَبَّبُ الْأَسْبَابِ پر ہو:

مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک حاجت مند کی طرف صدقہ بھیجا اور لے جانے والے سے ارشاد فرمایا: ”جو کچھ وہ کہے اسے یاد رکھنا۔“ جب اس نے صدقہ وصول کیا تو کہا: ”تمام خوبیاں اس ذات کے لئے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتا نہیں اور اپنا شکر ادا کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔“ پھر کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے فلاں کو نہیں بھلایا پس تو اسے ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھلائے۔“ جب آقا صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہے گا۔“ (۱) پس غور کیجئے کہ کیسے اس نے اپنی توجہ ذات باری تعالیٰ پر محدود رکھی۔

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۸۲۔

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا: ”توبہ کر۔“ اس نے کہا: ”میں اللہ واحد کی طرف توبہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس نے حق دار کے حق کو پہچان لیا۔“ (۱)

جب واقعہ افاک میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت نازل ہوئی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا: ”اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کو بوسہ دو۔“ تو انہوں نے کہا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں ایسا نہیں کروں گی اور اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں کروں گی۔“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے ابوبکر! اسے چھوڑ دو۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ”میں تو اللہ عزوجل کا شکر کرتی ہوں نہ کہ آپ دونوں کا۔“ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر انکار نہ فرمایا (۳) حالانکہ ان تک براءت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے پہنچی تھی۔

## کفار کا طریقہ:

اشیاء کا غیر خدا کی طرف سے ہونے کا نظریہ رکھنا کفار کا طریقہ ہے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْرَأَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذْ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جیسی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔

(پ ۲۴، الزمر: ۴۵)

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند المکین، حدیث الاسود بن سریع، الحدیث ۱۵۵۸، ج ۵، ص ۳۰۳۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی قبلۃ الرجل ولده، الحدیث ۵۲۱۹، ج ۴، ص ۵۵۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۸۳۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۸۳، بتغییر۔

المعجم الکبیر، الحدیث ۱۶۲، ج ۲۳، ص ۱۲۲، باختصار۔

جس کا باطن واسطوں کو محض واسطہ نہیں سمجھتا تو اس کا باطن پوشیدہ شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لہذا وحدانیت کو شرک کی میل اور اس کے شبہات سے پاک کرنے کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔

## سفید پوش مستحق کو صدقہ دینے کا ثواب:

(۴)..... زکوٰۃ لینے والا اپنی ضرورت کو چھپاتا ہو، نہ تو اس کا چرچا کرے اور نہ ہی شکوہ کرے یا اہل مروت میں سے ہو کہ جس کی نعمت چلی گئی لیکن عادت باقی رہی کہ حسن و خوبی کی چادر اوڑھے رکھتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ (ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے) ارشاد فرماتا ہے:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج  
تَرْجَمَةُ كَنْزِ الْإِيمَانِ: نادان انہیں تو نگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں  
تَعْرِفُوهُمْ بِسَبَبِهِمْ لَا يَسْتَوْنَ النَّاسُ إِحْفَافًا ط  
ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ  
گڑگڑانا پڑے۔  
(پ ۳، البقرة: ۲۷۳)

یعنی وہ سوال کرنے میں حد سے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ اپنے یقین کے سبب غنی اور اپنے صبر کی وجہ سے معزز ہیں۔ لہذا ہر محلے میں ایسے دیندار لوگوں کو تلاش کیا جائے اور نیک لوگوں کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ انہیں صدقہ دینے کا ثواب ان لوگوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے جو ظاہر امانتے ہیں۔

(۵)..... زکوٰۃ لینے والا شخص عیال دار ہو یا کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کمانے سے رکا ہوا ہو، اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ارشاد پاک کا مفہوم پایا جاتا ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ج  
تَرْجَمَةُ كَنْزِ الْإِيمَانِ: ان فقیروں کے لئے جو راہ خدا میں روکے  
گئے۔  
(پ ۳، البقرة: ۲۷۳)

یعنی کسی بیماری یا معیشت کی تنگی یا اصلاح قلب کے سبب وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، یوں یہ لوگ آخرت کے راستے سے روک دیئے گئے ہیں کیونکہ ان کے پرکٹے ہوئے اور پاؤں رکے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بدولت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اہل بیت کرام کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیتے تھے جس میں دس یا اس سے زائد بکریاں ہوتی تھیں۔<sup>(۱)</sup>

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون في ذكر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۸۵۔

نیز حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کسی شخص کو اس کے اہل و عیال کے حساب سے مال عطا فرماتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے جُهْدُ الْبَلَا کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔“ (۱)

(۶)..... صدقہ لینے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہو تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی اور صلہ رحمی میں بے شمار ثواب ہے۔ چنانچہ،

### ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فرماتے ہیں: ”مجھے اپنے بھائی پر ایک درہم صدقہ کرنا کسی اور پر بیس درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے بھائی پر بیس درہم صدقہ کرنا کسی اور پر 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے بھائی پر 100 درہم خرچ کرنا ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“

جس طرح قریبی رشتہ دار اجنبی لوگوں پر مقدم ہے اسی طرح دوست اور دینی بھائی بھی صدقات کے حوالے سے دوسروں پر مقدم ہیں۔ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ یہ مطلوبہ صفات ہیں اور ہر صفت میں کچھ درجات ہیں پس اعلیٰ درجے کی جستجو ہونی چاہئے۔ اگر یہ تمام صفات اکٹھی حاصل ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب بھی کوئی اس معاملے میں کوشش کرے اور مقصد کو پالے تو اس کے لئے دوا اجر ہیں اور اگر خطا کرے تو ایک اجر ہے۔ دوا جروں میں سے فی الحال ایک تو یہ ملتا ہے کہ اس کا نفس بخل کی صفت سے پاک ہو جاتا، دل میں محبت الہی اور اطاعت میں کوشش پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی صفات اس کے دل کا تقویٰ ہیں جو اسے ملاقات خداوندی کا شوق دلاتی ہیں۔ دوسرا اجر زکوٰۃ لینے والے کی دعا اور توجہ کا حاصل ہونا ہے کیونکہ نیک لوگوں کے دلوں کے لئے موجودہ حالات اور آئندہ کے لئے کچھ علامات ہوتی ہیں۔ لہذا اگر (زکوٰۃ دینے میں) صحیح نتیجہ نکلے تو دوا اجر حاصل ہوں گے اور اگر خطا ہو جائے تو پہلا فائدہ حاصل ہوگا دوسرا نہیں۔ اسی وجہ سے اجتہاد میں درستی تک پہنچنے والے کو اس صورت میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی دو گنا ثواب ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جانتا ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۱۸۵۔ فیہ ذکر ”ابن عمر“۔

## تیری نسل: زکوٰۃ لینے والے مستحق ہونے کے اسباب اور قبضہ کے وظائف

### مستحق زکوٰۃ ہونے کے اسباب:

جان لیجئے! زکوٰۃ کا مستحق وہ آزاد مسلمان ہے جو ہاشمی یا مطلبی نہ ہو اور قرآن پاک میں مذکور آٹھ قسم کی صفات میں سے کسی صفت سے متصف ہو۔ کسی کافر، غلام، ہاشمی، مطلبی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بچے اور پاگل کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ ان کا ولی قبضہ کرے۔ ہم یہاں مصارف زکوٰۃ کی آٹھ قسموں کو ذکر کریں گے۔

﴿1﴾ ..... فقیر: فقیر<sup>(۱)</sup> وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو مال ہو اور نہ ہی وہ کمانے پر قادر ہو اگر اس کے پاس ایک دن کی خوراک اور فی الحال پہننے کے کپڑے ہوں تو وہ فقیر نہیں بلکہ مسکین ہے۔ اگر اس کے پاس نصف دن کا رزق ہے تو وہ فقیر ہے۔ اگر اس کے پاس قمیص ہو لیکن رومال، موزہ اور شلوار نہ ہو اور قمیص کی اتنی قیمت نہیں جو فقرا کے حال کے موافق ان تمام چیزوں کی قیمت کو پہنچ سکے تو وہ بھی فقیر ہے کیونکہ فی الوقت اس کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں جن کا وہ محتاج اور جن سے وہ عاجز ہے۔ لہذا فقیر میں یہ شرط نہیں رکھنی چاہئے کہ اس کے پاس ستر چھپانے کے علاوہ لباس ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اور عام طور پر ایسا آدمی نایاب ہوتا ہے۔

اگر اسے مانگنے کی عادت ہو تو وہ فقرا کے زمرے سے خارج نہیں ہوگا اور مانگنے کو کسب قرار نہیں دیا جائے گا البتہ اگر وہ کمانے پر قادر ہو تو فقرا کی صفت سے نکل جائے گا<sup>(۲)</sup>۔

① ..... مصارف زکوٰۃ کی تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد اول، حصہ پانچ کا مطالعہ کیجئے!

② ..... سوال: بھیک مانگنا کیسا؟ اور بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ ”فتاویٰ فیض الرسول، ج 1، ص 505“  
 پرفیقہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ”بھیک مانگنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار جیسے بہت سے قوم کے فقیر، جوگی اور سادھو۔ انہیں بھیک مانگنا حرام اور انہیں دینا بھی حرام۔ ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی۔ دوسرے وہ جو حقیقت میں فقیر ہیں یعنی نصاب کے مالک نہیں ہیں مگر مضبوط و تندرست ہیں، کمانے کی قوت رکھتے ہیں اور بھیک مانگنا کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ مزدوری وغیرہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے مفت کھانا کھانے کی عادت پڑی ہے جس کے سبب بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا حرام ہے اور.....“

اگر کسی آلہ کے ذریعے کمانے پر قادر ہو تو بھی وہ فقیر ہے اور اسے اوزار خرید کر دینا جائز ہے۔  
اگر ایسے کسب پر قادر ہو جو اس کی شان کے موافق نہیں تو بھی وہ فقیر سمجھا جائے گا۔  
اگر کوئی شخص فقیہ ہو اور فقہ کا حصول کسی کام میں مشغول ہونے سے رکاوٹ ہو تو وہ بھی فقیر ہے اور اس کا کسب  
وغیرہ پر قادر ہونا معتبر نہ ہوگا۔

اگر عابد ہے اور کوئی پیشہ اختیار کرنے سے عبادت اور معمول کے اور ادو وظائف میں خلل آتا ہو تو محنت مزدوری  
کرے کیونکہ اور ادو وظائف میں مشغول ہونے سے کسب معاش افضل ہے۔ چنانچہ،  
حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يَعْنِي  
حلال کی طلب ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔“<sup>(۱)</sup> اس سے مراد کمانے کے سلسلے میں کوشش کرنا ہے۔  
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”شبهه کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔“  
اگر اس کے پاس اس قدر مال ہو جو اس کے باپ یا دیگر زیر کفالت لوگوں کو کافی ہو تو یہ کمانے سے آسان ہے۔  
لہذا ایسا شخص بھی فقرا میں شمار نہ ہوگا۔

﴿2﴾..... مساکین (۲): مسکین وہ ہے جس کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ  
..... جو انہیں مانگنے سے ملے وہ ان کے لئے خبیث ہے حدیث شریف میں ہے: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَيْنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ۔ یعنی نہ کسی  
مالدار کے لئے صدقہ حلال ہے اور نہ کسی توانا تندرست کے لئے۔ ایسے لوگوں کو بھیک دینا منع ہے کہ گناہ پر مدد کرنا ہے۔ لوگ اگر نہیں  
دیں گے تو وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہوں گے قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (ب، ۶، المائدہ: ۲) یعنی گناہ اور  
زیادتی پر مدد نہ کرو۔ مگر ایسے لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ مالک نصاب نہیں  
ہیں اور بھیک مانگنے والوں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو نہ مال رکھتے ہیں اور نہ کمانے کی طاقت رکھتے ہیں یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے  
کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو اپنی حاجت پوری کرنے بھیک مانگنا جائز ہے اور مانگنے سے جو کچھ ملے وہ ان کے لئے حلال  
و طیب ہے اور یہ لوگ زکوٰۃ کے بہترین مصرف ہیں۔ انہیں دینا بہت بڑا ثواب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جھڑکنا حرام ہے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حقوق الاولاد والاهلین، الحدیث: ۸۷۴، ج ۶، ص ۲۲۰۔

②..... احتاف کے نزدیک: مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کا محتاج ہے کہ  
لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے، فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوا سے بغیر ضرورت و  
مجبوری سوال حرام ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۲۴)



ہزار درہم کا مالک ہونے کے باوجود مسکین ہو اور بعض اوقات وہ صرف کلہاڑی اور رسی کا مالک ہوتا ہے لیکن امیر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا مکان اور وہ کپڑا جس سے وہ بقدر ضرورت ستر ڈھانپتا ہے اسے مسکین کی صف سے خارج نہیں کرتا، اسی طرح گھر کا سامان ہے یعنی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور جو سامان اس کے حال کے مطابق ہو، اسی طرح کتب فقہ سے مسکین ہونے سے خارج نہیں کر سکتیں کہ جب وہ صرف کتب کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا حکم کپڑوں اور گھریلو سامان کی طرح ہے کیونکہ اسے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اسے چاہئے کہ کتاب کی ضرورت کے حوالے سے محتاط رہے۔

### کتاب کی ضرورت کے مقاصد:

صرف تین مقاصد کے لئے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے: (۱)..... تعلیم (۲)..... فائدہ حاصل کرنا (۳)..... مطالعہ کے ذریعے سرور کا حصول۔

**تفصیل:** جہاں تک سرور کے حصول کا تعلق ہے تو اس کا اعتبار نہیں جیسے اشعار کی کتب اور تاریخی کتب اور اس جیسی دیگر کتب جو آخرت میں نفع نہیں دیتیں، دنیا میں بھی محض لطف و سرور دیتی اور مانوس کرتی ہیں۔ ایسی کتابوں کو کفاروں اور صدقہ فطر (کی ادائیگی) کے لئے بیچا جائے اور ایسے شخص کو مسکین نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک **تعلیمی** ضرورت کا تعلق ہے تو اگر تعلیم کمانے کے لئے ہو جیسے تنخواہ پر علم و ادب سکھانے والے اور مدرسین وغیرہ تو ان کے لئے یہ کتب آلہ ہیں انہیں صدقہ فطر کے لئے نہیں بیچ سکتے یہ ایسے ہی ہیں جیسے درزی اور دیگر پیشوں کے لوگوں کے اوزار، اگر وہ فرض کفایہ کو قائم رکھنے کے لئے پڑھاتا ہے تو اس کی کتابیں نہ بیچی جائیں اور اس سے اس کے مسکین ہونے کی نفی نہ ہوگی کیونکہ یہ اہم حاجت ہے۔

کتب سے فائدہ حاصل کرنا اور سیکھنا جیسے طب کی کتابیں اس لئے اکٹھی کرنا تاکہ ان کے ذریعے اپنا علاج کر سکے یا وعظ کی کتابیں رکھنا تاکہ ان کا مطالعہ کر کے وعظ کرے، اگر شہر میں ڈاکٹر اور واعظ موجود ہیں تو اسے ان کتابوں کی ضرورت نہیں اور اگر موجود نہیں تو پھر یہ ان کتب کا محتاج ہے۔ پھر کبھی ایک مدت تک انسان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی تو اسے مدتِ ضرورت کو دیکھنا چاہئے۔ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ سال بھر تک جس کتاب کی

ضرورت نہیں پڑتی وہ ضرورت میں داخل نہیں۔

جو شخص ایک دن کے کھانے سے زائد چیز کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جب ہم نے خوراک کے سلسلے میں ایک دن کا تخمینہ لگایا تو گھر کے سامان اور بدن کے کپڑوں کی حاجت کے سلسلے میں ایک سال کا اندازہ ہونا چاہئے۔ گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں نہیں بیچے جاسکتے اور کتائیں کپڑوں اور گھریلو سامان کے زیادہ مشابہ ہیں اور بعض اوقات بندے کے پاس ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کی حاجت نہیں ہوتی اور اگر وہ کہے کہ ایک نسخہ زیادہ صحیح ہے اور دوسرا زیادہ عمدہ اور مجھے دونوں کی حاجت ہے تو ہم کہیں گے کہ صبح پر اکتفا کرو، احسن کو بیچ دو اور عیش و عشرت چھوڑ دو۔ اگر ایک ہی علم سے متعلق دو نسخے ہیں جن میں سے ایک کتاب بڑی اور دوسری مختصر ہے تو اگر اس کا مقصد استفادہ ہو تو وہ بڑی کتاب پر اکتفا کرے اور اگر پڑھانے کا ارادہ ہے تو اسے دونوں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں جو فائدہ ہے وہ دوسری میں نہیں۔

اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں، فن فقہ میں ان کے متعلق بحث نہیں کی گئی۔ ہم نے اسے یہاں اس لئے بیان کیا کہ اس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں نیز اس بات کا لحاظ دوسری چیزوں میں بھی کریں کیونکہ ان سب صورتوں کا ذکر کرنا ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہے مثلاً گھر کا سامان، اس کی مقدار، تعداد اور اقسام، بدن کے کپڑے اور مکان کی وسعت و تنگی کو دیکھا جاتا ہے۔ ان امور کے لئے کوئی حدود مقرر نہیں بلکہ مجتہد اپنی رائے سے اجتہاد کرتا اور رائے کے مطابق حد بندی کرتا ہے اور یوں شبہات کے خطرے میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ پرہیزگار آدمی احتیاط سے کام لیتا اور شک والی بات کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرتا ہے اور جو درجات درمیان میں ہیں اور دونوں طرف کے ظاہری امور کے درمیان ہیں وہ غیر واضح اور بہت زیادہ ہیں اور ان سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے اور اللہ عزوجل بہتر جانتا ہے۔

﴿3﴾..... عالمین (۱): یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر کے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ قاضی اور خلیفہ ان میں شامل نہیں۔

①..... حامل: وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکاۃ اور عشر وصول کرنے کے لئے مقرر کیا، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کا متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔

(بہار شریعت، ۱، ص ۹۲۳)

نگران، کاتب، وصول کرنے والا، حفاظت کرنے والا اور نقل کرنے والا ان میں شامل ہیں اور کسی کو رائج اجرت سے زیادہ نہ دی جائے۔ اگر آٹھویں حصے میں عام اجرت سے کچھ بچ جائے تو دوسرے مصارف کو دیں اور اگر کم ہو جائے تو دیگر ضرورتوں کے مال سے مکمل کیا جائے۔

﴿4﴾..... **مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ** (۱): وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کے لئے نرم کیا جائے، یہ معزز لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں تو قوم ان کی اطاعت کرتی ہے۔ ان کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور دیگر ان جیسے لوگوں اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ترغیب ملے۔

﴿5﴾..... **مکاتب**: (اس کی تعریف ماقبل گزر چکی ہے) مکاتب کا حصہ ان کے سردار کو دیا جائے اور اگر مکاتب کو بھی دیا تو جائز ہے۔ سردار اپنے مکاتب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اپنا غلام شمار ہوتا ہے۔

﴿6﴾..... **قرض دار** (۲): غارم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی عبادت یا کسی جائز کام کے لئے قرض لیتا ہے اور یہ فقیر ہے۔ اگر کسی گناہ کے لئے قرض لے تو اس وقت تک زکوٰۃ نہ دی جائے جب تک تو بہ نہ کرے، اگر غنی ہو تو اس کا قرض ادا نہ کیا جائے مگر یہ کہ اس نے کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی فتنے کو دبانے کے لئے قرض لیا ہو۔

﴿7﴾..... **مجاہدین**: یہ وہ ہیں کہ جن کا وظیفہ محافظ خانہ کے دفتر میں کچھ نہ ہو تو انہیں ایک حصہ دیا جائے اگرچہ وہ مال دار ہوں کیونکہ یہ جہاد پر مدد کرنا ہے۔

﴿8﴾..... **مسافر**: مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے شہر سے سفر کے لئے نکلا جبکہ گناہ کا ارادہ نہ ہو یا وہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر سے گزرا، اگر فقیر ہے تو اسے زکوٰۃ دی جائے اور اگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو اتنا دیا جائے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔

①..... مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ: باجماع صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجماع زمانہ صدیق میں منعقد ہوا۔ (ماخوذ از الہدایہ اولین، کتاب الزکوٰۃ، باب من یجوز دفع الصدقات الیہ و من لا یجوز، ص ۱۸)

②..... غارم: سے مراد مدیون (قرض دار) ہے یعنی اس پر اتنا دین (قرض) ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا داروں پر باقی ہو مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مدیون ہاشمی نہ ہو۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۲۶)

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں کہ یہ صفات کس طرح پہچانی جاسکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک فقیری و مسکینی کا معاملہ ہے تو وہ لینے والے کے قول سے معلوم ہوں گی، اس سے نہ تو دلیل طلب کی جائے گی اور نہ ہی قسم لی جائے گی بلکہ اس کے کہنے پر اعتماد کرنا جائز ہے جبکہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو۔ جہاد اور سفر تو مستقبل کا معاملہ ہے، اگر وہ کہے کہ میں جہاد پر جاؤں گا تو اسے زکوٰۃ دی جائے گی پھر اگر وہ اپنا قول پورا نہ کرے تو واپس لے لی جائے۔ ان کے علاوہ دیگر مصارف زکوٰۃ میں گواہی ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی شرائط ہیں۔ ہر مصرف زکوٰۃ کو کتنا کتنا دینا چاہئے اس کا بیان آگے آئے گا۔

## زکوٰۃ لینے والے کی ذمہ داری:

زکوٰۃ لینے والے کی پانچ ذمہ داریاں ہیں:

﴿1﴾..... پہلی ذمہ داری: وہ جانے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دوسروں پر اس کے لئے زکوٰۃ اس لئے فرض کی ہے تاکہ اس کی تمام فکریں ختم ہو جائیں صرف ایک باقی رہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندوں پر لازم کیا ہے کہ ان کی تمام فکریں ایک فکر میں جمع ہو جائیں اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور آخرت کی فکر ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا یہی معنی ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (پ ۲، الذریت: ۵۶)

لیکن چونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے پر خواہشات اور حاجات مسلط کی جائیں اور خواہش و حاجت بندے کی سوچ و فکر کو متفرق کر دیتی ہے تو اس کا کرمِ نعمت کی ایسی کثرت کا تقاضا کرتا ہے جو حاجات میں کفایت کرے۔ پس اس نے اموال کی کثرت کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ یہ ان کی حاجات کو پورا کرنے کا آلہ اور عبادت کے لئے فراغت کا وسیلہ بن جائے۔ بعض لوگوں کے لئے مال کی کثرت آزمائش و فتنہ کا سبب بن گئی اور انہیں خطرے میں ڈال دیا جبکہ بعض کو اپنا محبوب بنا لیا اور انہیں دنیا سے بچا لیا جیسے کوئی شفیق و مہربان شخص اپنے مریض کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان سے زائد مال کو دور رکھا اور بقدر حاجت مقدارِ اغنیا کے ذریعے ان تک پہنچائی کہ کمانے، جمع

کرنے اور حفاظت کرنے کی محنت و مشقت کی ذمہ داری مالداروں پر ہے اور اس کا فائدہ فقرا کو پہنچے اور وہ عبادت الہی اور سفر آخرت کی تیاری کے لئے فارغ ہوں، دنیا کا زائد مال انہیں عبادت سے نہیں پھیرتا اور فاقہ کشی سفر آخرت کی تیاری میں رکاوٹ نہیں بنتا، یہ نعمت کی انتہا ہے۔ لہذا فقیر پر لازم ہے کہ نعمت فقر کی قدر و قیمت پہچانے اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جو چیز مجھے عطا کی گئی اس کے مقابلے میں جو عطا نہیں کی گئی اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی تحقیق اور وضاحت فقر کے بیان میں آئے گی۔

### حاصل شدہ مال میں محتاج کی نیت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے فقیر کو جو کچھ حاصل ہو اسے اپنا رزق سمجھے اور اطاعت پر مددگار بنائے اور یہ نیت کرے کہ اس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر قوت حاصل کرے گا، اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو (بقدر حاجت رکھ کر) باقی کو جائز مصرف میں خرچ کر دے۔ اگر اس نے اس کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی پر مدد چاہی تو وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والا نیز رحمت الہی سے دوری اور اس کی ناراضی کا مستحق ہوگا۔

﴿2﴾..... دوسری ذمہ داری: دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اس کے لئے دعا کرے، اس کی تعریف کرے لیکن اس شکر اور دعا کے ذریعے اسے واسطہ ہونے سے نہ نکالے (یعنی حقیقی دینے والا نہ سمجھے) بلکہ اسے اپنے تک نعمت الہی پہنچنے کا راستہ سمجھے اور اس اعتبار سے راستے کا بھی ایک حق ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے راستہ اور ذریعہ بنایا (لہذا اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہئے) اور یہ نظریہ رکھنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے نعمت ملنے کے عقیدے کے خلاف نہیں۔ کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ“ یعنی جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔“ (۱)

بعض مقامات پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خود بندوں کے اعمال کے سبب ان کی تعریف فرمائی حالانکہ اعمال کا خالق اور اس کی قدرت پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّكَ أَوَّابٌ ۝ (پ ۲۳، ص: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا۔

اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں ایسے فرامین موجود ہیں۔

①..... سنن الترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی الشکر لمن احسن الیک، الحدیث: ۱۹، ج ۳، ص ۳۸۴۔

## زکوٰۃ لینے والے کو یوں دعا دے:

زکوٰۃ لینے والے کو چاہئے کہ (دینے والے کے لئے) یوں دعا کرے: ”طَهَّرَ اللَّهُ قَلْبَكَ فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَ زَكَّى عَمَلَكَ فِي عَمَلِ الْأَخْيَارِ وَ صَلَّى عَلَى رُوحِكَ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ، یعنی اللہ عزَّ وَّجَلَّ نیک لوگوں کے دلوں کے ساتھ تیرے دل کو پاک و صاف کرے، نیکو کاروں کے اعمال کے ساتھ تیرے عمل کو پاکیزگی بخشے اور شہداء کی روحوں کے ساتھ تجھ پر رحمت بھیجے۔“

نیز مروی ہے کہ حضور انور، شافع محشر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لئے دعا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا۔“ (۱)

کامل شکر یہ ہے کہ اگر عطیہ (یعنی دی گئی چیز) میں کوئی عیب ہو تو اسے چھپائے، نہ اس کی تحقیر کرے اور نہ ہی مذمت، اگر وہ نہ دے تو اس پر اسے عار نہ دلائے۔ دینے والے کے عمل کو خود بھی بڑا سمجھے اور لوگوں کے سامنے بھی اسے بڑا ہی قرار دے۔

## عطیہ دینے اور لینے والے کی نیت:

دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عطیہ کو تحقیر سمجھے جبکہ لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احسان مند ہو اور اسے بڑا خیال کرے۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے حق پر قائم رہے اور اس مسئلے میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ چھوٹا اور بڑا ماننے کے اسباب میں فرق ہے۔ دینے والے کے لئے چھوٹائی کے اسباب کا لحاظ نفع بخش ہے اور اس کا خلاف نقصان دہ جبکہ لینے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے اور دونوں صورتوں میں نعمت کو اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی طرف سے جاننے میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ جو واسطہ کو واسطہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے اور جو واسطہ کو اصل سمجھتا ہے وہ منکر ہے۔

﴿3﴾ ..... تیسری ذمہ داری: لینے والا دیکھے کہ وہ کیا لے رہا ہے اگر جائز نہ ہو تو نہ لے۔ کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝<sup>۱</sup> ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝<sup>ط</sup> نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا

جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ (۲)

(پ ۲۸، الطلاق: ۲، ۳)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الزکاۃ، باب عطیۃ من سأل اللہ عزوجل، الحدیث: ۱۶۷۴، ج ۲، ص ۷۸، مفہومًا۔

②..... صدر الأفاضل مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي اس آیت کے تحت فرماتے.....

حرام سے بچنے والا حلال کے ملنے سے محروم نہیں رہتا۔ پس ترکوں (یعنی سرکاری لوگوں)، سپاہیوں اور بادشاہوں کے اموال سے نہ لے نیز ان لوگوں سے بھی نہ لے جن کی اکثر کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ البتہ اگر اس پر معاملہ تنگ ہو جائے اور جو مال اسے دیا جا رہا ہے اس کا معین مالک معلوم نہ ہو تو وہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے خیرات کر دے جیسا کہ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا اور یہ اس صورت میں ہے جب حلال سے عاجز ہو جائے۔ نیز جب (اس قسم کا مال) لے گا تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا کیونکہ حرام مال سے دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

﴿4﴾..... چوتھی ذمہ داری: یہ ہے کہ جو کچھ وہ لے رہا ہے اس کی مقدار کے معاملے میں بھی شک و شبہ سے بچے۔ جائز مقدار میں بھی اس وقت لے جب ثابت ہو جائے کہ لینے کا حق دار ہونے کی صفت سے متصف ہے۔

اگر مکاتب یا قرض کے عوض لیتا ہے تو قرض کی مقدار سے زیادہ نہ لے۔  
اگر عامل (یعنی مال جمع کرنے پر مقرر ہو) اور عمل کی وجہ سے لے تو عام اجرت سے زیادہ نہ لے، اگر زیادہ دیا جائے تو انکار کر دے اور نہ لے کیونکہ دینے والا مال کا مالک نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ دے۔  
اگر وہ مسافر ہو تو زرادیرہ اور منزل تک سواری کے کرائے سے زیادہ نہ لے۔

اگر غازی ہو تو گھوڑے، اسلحے اور نفقے کے لئے جتنے مال کا محتاج ہے اسی قدر لے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ..... ہیں: سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کیلئے شہادت دینا غمراہ موت و شدائد روز قیامت سے خلاص کی راہ نکالے گا اور اس آیت کی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کیلئے کافی ہے۔ شان نزول: (حضرت سپینا) عوف بن مالک کے فرزند کو مشرکین نے قید کر لیا تو (حضرت) عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین نے قید کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی و ناداری کی شکایت کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھتے رہو (حضرت سپینا) عوف نے گھر آ کر اپنی بی بی سے یہ کہا اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا دشمن غافل ہو گیا تھا اس نے موقع پایا قید سے نکل بھاگا اور چلتے ہوئے چار ہزار بکریاں بھی دشمن کی ساتھ لے آیا، (حضرت سپینا) عوف نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یہ بکریاں ان کے لئے حلال ہیں؟ حضور نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔

اس کا اندازہ غور و فکر سے ہوگا اسی طرح زادِ سفر کا معاملہ ہے اور تقویٰ یہ ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر اسے اختیار کیا جائے جس میں شک نہ ہو۔

اگر تنگدستی کی وجہ سے لے رہا ہے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کو دیکھے کہ کیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو ذاتی طور پر اس کی ضرورت سے زائد ہے یا اسے اس کی عمدگی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اسے بدل کر وہ حاصل کرے جو اسے کافی ہو اور اس کی قیمت میں سے کچھ رقم بچ بھی جائے اور یہ تمام باتیں بندے کے غور و فکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں ایک ظاہری پہلو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہے اور ایک پہلو وہ ہے کہ جس سے اس کا مستحق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات امور ہیں۔ جو شخص شاہی چراگاہ کے آس پاس (جانور) چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں چرنے لگیں۔ نیز اس معاملے میں لینے والے کے ظاہری قول پر اعتماد کیا جائے گا۔ محتاج کے لئے تنگی اور وسعت کے اعتبار سے حاجات کا اندازہ لگانے کے سلسلے میں کئی مقامات ہیں، اس کے مراتب شمار نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ کا میلان تنگی کی طرف جبکہ سستی کرنے والے کا میلان وسعت کی طرف ہوتا ہے جس کے سبب وہ نفس کو کئی ضرورتوں کے لئے محتاج سمجھتا ہے اور یہ بات شریعت میں بری ہے۔

جب حاجت ثابت ہو جائے تو کثیر مال نہ لے بلکہ اتنا لے جو لینے کے وقت سے سال بھر تک ضرورت پوری کرے۔ رخصت کی انتہائی حد یہی (ایک سال) ہے کیونکہ جب سال لوٹ آتا ہے تو آمدنی کے اسباب بھی لوٹ آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سید المتوکلین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال ہی کی خوراک جمع فرمائی۔<sup>(۱)</sup> یہ حد بندی فقیر اور مسکین کی تعریف کے زیادہ قریب ہے، اگر اس نے ایک ماہ یا ایک دن کی ضرورت پر اکتفا کیا تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے مال سے لی جانے والی مقدار کے حکم میں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے مختلف مذاہب ہیں۔ چنانچہ،

### صدقات سے لی جانے والی مقدار کے حکم میں مختلف موقف:

(۱)..... بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے کمی میں مبالغہ کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات کی خوراک پر اکتفا کو واجب قرار دیا اور حضرت سیدنا سہل بن حنظلہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی اس روایت سے استدلال کیا کہ

①..... صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب حکم الفیء، الحدیث ۵۷۵۷، ص ۹۶۵، مفہومًا۔



حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے غنا (توگری) کے ہوتے ہوئے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ غنا کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: ”صبح اور شام کا کھانا غنا ہے۔“ (۱)

(۲)..... بعض فرماتے ہیں: غنا کی حد تک لے سکتا ہے اور وہی نصابِ زکوٰۃ ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اغنیاء پر ہی زکوٰۃ فرض فرمائی۔ انہوں نے زکوٰۃ لینے والے کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لئے نصابِ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔

(۳)..... ایک گروہ کا موقف ہے کہ غنا (مال داری) کی حد 50 درہم یا اتنی مالیت کا سونا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص بقدرِ ضرورت مال ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے تو بروزِ قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔“ پوچھا گیا: ”بقدرِ ضرورت کی حد کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔“ (۲)

(۴)..... بعض حضرات نے 40 درہم مقدار کو غنا قرار دیا ہے کیونکہ حضرت سیدنا عطاء بن یسار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّار سے ایک منقطع روایت مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایک اوقیہ (یعنی 40 درہم) سونا ہونے کے باوجود سوال کیا اس نے مانگنے میں مبالغہ کیا۔“ (۳)

(۵)..... بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے وسعت میں مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا: اتنی مقدار لے لے کہ جس سے سامان خرید کر عمر بھر کے لئے بے نیاز ہو جائے یا سامان تیار کر کے تجارت کرے اور اس کے ذریعے تمام عمر کے لئے مستغنی ہو جائے کیونکہ یہی غنا (مال داری) ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اتنا دو کہ لوگ غنی ہو جائیں۔“

(۶)..... ایک گروہ کا موقف ہے کہ اگر (کوئی مال دار) محتاج ہو جائے تو اس کے لئے اتنا مال لینا جائز ہے کہ وہ سابقہ حالت پر لوٹ آئے اگرچہ دس ہزار درہم ہو مگر حدِ اعتدال سے نہ نکلے۔

①..... سنن ابی داود، کتاب الزکاۃ، باب من یعطی من الصدقة..... الخ، الحدیث: ۱۶۲، ج ۲، ص ۱۶۳-۱۶۵، مفہومًا۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الزکاۃ، باب من یعطی من الصدقة..... الخ، الحدیث: ۱۶۲، ج ۲، ص ۱۶۳۔

③..... المرجع السابق، الحدیث: ۱۶۲، ص ۱۶۳۔

## کھجوروں کا باغ صدقہ کر دیا:

حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باغ کے سبب جب نماز سے توجہ کم ہونے لگی تو فرمایا: ”میں نے اسے صدقہ کیا۔“ تو آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسے اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کر دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔“ تو انہوں نے وہ باغ حضرت سیدنا حسان بن ثابت اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر صدقہ کر دیا۔<sup>(۱)</sup> اور کھجوروں کا ایک باغ دو آدمیوں کے لئے کثیر اور غنی بنانے والا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو اونٹنی کے ساتھ دودھ پیتا بچہ بھی عطا فرمادیا۔

## قول فیصل:

یہ سب کچھ وسعت (یعنی زیادہ دینے) کے معاملے میں منقول ہے۔ جہاں تک ایک دن کے رزق اور ایک اوقیہ (40 درہم) دینے کی صورت میں قلت کا تعلق ہے تو (اس کا حکم یہ ہے کہ) اتنا ہوتے ہوئے سوال نہ کرے اور درد کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے کیونکہ گداگری (یعنی مانگنے) کا پیشہ شرعاً برا ہے اور اس کا حکم اور ہے۔ یہ تجویز احتمال کے زیادہ قریب ہے کہ وہ سامان خرید کر غنی ہو جائے لیکن یہ بھی فضول خرچی کی طرف مائل ہے۔ اعتدال کے زیادہ قریب یہ ہے کہ (اتنا لے جو) ایک سال کے لئے کفایت کرے، اس سے زائد لینے میں خطرہ اور کم میں تنگی ہے۔ جن امور میں کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا جاسکتا ان میں توقف کیا جائے گا اور مجتہد پر جو حال ظاہر ہو اس کے مطابق حکم لگائے۔ پرہیزگار سے کہا جائے گا کہ ”اپنے دل سے فتویٰ لے اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں۔“<sup>(۲)</sup> کیونکہ گناہوں کے باعث دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر لینے والا مال کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی خدشہ محسوس کرے تو اللہ عزوجل سے ڈرے اور علمائے ظاہر کے فتویٰ کو علت بنا کر رخصت نہ ڈھونڈتا پھرے کیونکہ ان کے فتوؤں میں کچھ قیودات ہوتی ہیں اور وہ ضرورتوں کی قید سے آزاد بھی ہوتے ہیں۔ ان میں تخمینے اور شبہات پائے جاتے ہیں اور

①..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین..... الخ، الحدیث: ۹۹، ص ۵۰۰۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث وابصة بن معبد الاسدی، الحدیث: ۱۸۰۲، ج ۶، ص ۲۹۲، مفہوماً۔

شہادت سے بچنا دین داروں کا طریقہ اور راہِ آخرت پر چلنے والوں کی عادات میں سے ہے۔

﴿5﴾..... زکوٰۃ لینے والے کی پانچویں ذمہ داری: یہ ہے کہ وہ صاحبِ مال سے اس پر واجب زکوٰۃ کی مقدار معلوم کرے، وہ مال جو وہ دے رہا ہے اگر آٹھویں حصے سے زیادہ ہو تو نہ لے کیونکہ وہ اپنے شریک کے ساتھ صرف آٹھویں حصے کا مستحق ہے تو آٹھویں حصے سے بھی اتنا کم کرے جو اس قسم کے دو فرقہ کو مل سکے۔ اکثر لوگوں پر یہ بات پوچھنا واجب ہے کیونکہ وہ جہالت یا سستی کی وجہ سے اس تقسیم کی پرواہ نہیں کرتے۔ البتہ جب حرمت کا غالب گمان نہ ہو تو سوال نہ کرنا جائز ہے۔ سوال کے مواقع اور احتمال کے درجات کا بیان اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حلال و حرام کے بیان میں آئے گا۔

چوتھی فصل: نفلی صدقہ کے فضائل اور لینے دینے کے آداب

فضائل صدقہ کے متعلق 18 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہو کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک مٹاتا اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، اگر کچھ نہ پاؤ تو اچھے کلمے کے ذریعے بچو۔<sup>(۲)</sup>

﴿3﴾..... اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حلال (مال) ہی قبول فرماتا ہے، پس جو مسلمان بندہ حلال کمائی سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اسے اپنے دائیں دستِ قدرت سے پکڑتا ہے پھر اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اُونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

﴿4﴾..... کئی مدنی سلطان صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابودرداء عَرَضَی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”جب شور بہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اور اس میں سے کچھ انہیں دے کر ان کے ساتھ

①..... الزهد لابن المبارک، باب الصدقة، الحدیث ۶۵، ص ۲۲۹۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة..... الخ، الحدیث: ۱۰۱، ص ۵۰۷۔

③..... صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب الصدقة من کسب طیب، الحدیث: ۱۴۱، ج ۱، ص ۴۷۶، مفہومًا۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الزکاة، باب فضل الصدقة، الحدیث: ۱۸۴، ج ۲، ص ۴۰۳-۴۰۲، مفہومًا۔

بھلائی کرو۔“ (۱)

- ﴿5﴾..... جو بندہ اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ (۲)
- ﴿6﴾..... (بروز قیامت) ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ (۳)
- ﴿7﴾..... صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ (۴)
- ﴿8﴾..... پوشیدہ صدقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ (۵)
- ﴿9﴾..... جو شخص کسنادگی کی حالت میں صدقہ دیتا ہے وہ ثواب میں اس سے افضل نہیں جو حاجت کے سبب قبول کرتا ہے۔ (۶)

شاید اس سے مراد وہ ہے جو (علم) دین کے حصول کی خاطر فراغت کی نیت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو (ثواب میں) وہ دینے والے کے برابر ہوگا جو اپنی عطا سے دین کی تعمیر کا ارادہ کرتا ہے۔

﴿10﴾..... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! كُونِ سَاوِدَةً اَفْضَلَ هِيَ؟“ ارشاد فرمایا: ”اس حالت میں صدقہ کرنا افضل ہے جب تم تندرست ہو، مال کے حریص ہو، زندگی کی امید رکھتے ہو، فاقہ سے ڈرتے ہو اور اتنی تاخیر نہ ہو کہ روح حلق تک پہنچ جائے پھر تم کہو: فلاں کے لئے اتنا مال حالانکہ (اب تو) وہ فلاں کا ہو چکا۔“ (۷)

﴿11﴾..... ایک دن پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے صحابہ کرام رَضْوَانُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ سے ارشاد فرمایا: ”صدقہ دو۔“ ایک شخص نے عرض کی: ”میرے پاس ایک دینار ہے۔“ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

- 1..... صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب الوصیۃ بالجار والاحسان الیہ، الحدیث: ۲۶۲: ۵، ص ۱۴۱۳، عن ابی ذر۔
- 2..... الزهد لابن المبارک، باب الصدقۃ، الحدیث: ۶۴، ص ۲۲۷۔
- 3..... المستدرک، کتاب الزکاۃ، باب کل امری فی ظل صدقته..... الخ، الحدیث: ۵۵۵، ج ۲، ص ۴۳۔
- 4..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۴۴۰۲، ج ۴، ص ۲۷۴، الشر بدلہ السوء۔
- 5..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزکاۃ، فصل فی الاختیار فی صدقۃ التطوع، الحدیث: ۳۴۴، ج ۳، ص ۲۳۵۔
- 6..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۵۶، ج ۱۲، ص ۳۲۴، مفہوماً۔
- 7..... صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ، باب أی الصدقۃ افضل..... الخ، الحدیث: ۱۴۱، ج ۱، ص ۴۷۹۔

نے ارشاد فرمایا: ”اسے اپنے اوپر خرچ کر۔“ اس نے عرض کی: ”اور بھی ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”اسے اپنی زوجہ پر خرچ کر۔“ عرض کی: ”اور بھی ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”اسے اپنے بچے پر خرچ کر۔“ عرض کی: ”اور بھی ہے۔“ فرمایا: ”اسے اپنے خادم پر خرچ کر۔“ عرض کی: ”ایک اور بھی ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”جہاں بہتر سمجھو خرچ کرو۔“ (۱)

﴿12﴾..... آل محمد کے لئے صدقہ جائز نہیں، یہ تو لوگوں کی میل ہے۔ (۲)

﴿13﴾..... مانگنے والے کا حق لوٹاؤ اگرچہ پرندے کے سر کے برابر کھانا ہو۔ (۳)

﴿14﴾..... اگر مانگنے والا سچا ہو تو اسے (خالی ہاتھ) لوٹانے والا فلاح نہیں پاسکتا۔ (۴)

﴿15﴾..... حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص مانگنے والے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ لوٹاتا ہے تو سات دن تک رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔“

﴿16﴾..... اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی دو کام کسی کے سپرد نہیں فرماتے تھے۔ رات کو وضو کا پانی خود رکھتے اور اسے ڈھانپ کر رکھتے اور مسکین کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ (۵)

﴿17﴾..... مسکین وہ نہیں جسے ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے واپس لوٹا دیتے ہیں بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے چاہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھو: لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا (پ البقرة: ۲۷۳) ترجمہ کنز الایمان: لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑگڑانا پڑے۔ (۶)

﴿18﴾..... جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو لباس پہناتا ہے تو جب تک اس (کے جسم) پر ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے پہنانے والا اللہ عزوجل کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ (۷)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الزکاۃ، باب فی صلوۃ الرحم، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۱۸۴، بتغییر۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقۃ، الحدیث: ۱۰۴۰، ص ۵۴۰، بتغییر۔

③..... کتاب الضعفاء للعقیلی، اسحق بن نصیح الملطی، ۱۲۳، ج ۱، ص ۱۲۱، بتغییر۔

④..... المقاصد الحسنۃ، حرف اللام، الحدیث: ۸۹۲، ص ۳۵۱۔

⑤..... سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب تغطیۃ الاناء، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۲۲۶، مفہومًا۔

⑥..... صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب المسکین الذی لایجد غنی..... الخ، الحدیث: ۱۰۴۰، ص ۵۱۔

⑦..... سنن الترمذی، کتاب صفة القیامۃ، باب ۴، الحدیث: ۲۴۹۴، ج ۳، ص ۲۱۸، بتغییر۔

## فضائل صدقہ کے متعلق 17 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا عمرو بن زبیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے 50 ہزار (درہم) صدقہ کئے حالانکہ آپ کی اوڑھنی میں پیوند لگے ہوئے تھے۔“ (1)

﴿2﴾..... حضرت سیدنا مجاہد عَلِيُّ رَحْمَةُ اللهِ الْوَّاحِدِ اس فرمان باری تَعَالَى: وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَيْتِيًّا وَأَسِيرًا ﴿۸﴾ (پ۲۹، الدھر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر (قیدی) کو۔ کی تفسیر میں

فرماتے ہیں کہ ”وہ کھانے کی خواہش کے باوجود کھلاتے ہیں۔“ (۲)

﴿3﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ”اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! ہمارے اچھے لوگوں کو دولت عطا فرما کہ وہ اسے حاجت مندوں کی طرف لوٹائیں۔“

﴿4﴾..... حضرت سیدنا عبدالعزیز بن عمیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ”نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی،

روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا اور صدقہ اس میں داخل کر دیتا ہے۔“ (۳)

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابن ابی الجعد عَلِيُّ رَحْمَةُ اللهِ الْوَّاحِدِ فرماتے ہیں: ”بے شک صدقہ برائی کے 70 دروازے بند

کر دیتا ہے (۴) اور پوشیدہ صدقہ ظاہری صدقہ پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے (۵) اور یہ 70 شیاطین کے جڑے

چیر دیتا ہے۔“

﴿6﴾..... حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”ایک شخص نے 70 سال اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی

عبادت کی پھر ایک فاحشہ سے زنا کر بیٹھا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے پھر ایک مسکین کے پاس سے گزرا اور اس

پر ایک روٹی صدقہ کی تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے اس کا گناہ بخش دیا اور اس کے 70 سال کے اعمال لوٹا دیئے۔“ (۶)

①..... الزهد لابن المبارك، باب اصلاح ذات البین، الحدید ۷۵، ص ۲۶۰، بلفظ سبعین۔

②..... الدر المنثور، الجزء التاسع والعشرون، سورة الانسان ۸، ج ۸، ص ۳۷۰۔

③..... المستطرف فی کل فن مستطرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام..... الخ، الفصل الثالث فی الزکاة وفضلها، اج ص ۱۹۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۷۸۔

⑤..... تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، یزید بن بشر السکسکی: ۸۲۲، ج ۶۵، ص ۱۳۱، باختصار۔

⑥..... جامع العلوم والحکم، الحدیث: الثامن عشر، ص ۲۲، بتغییر۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”جب تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو صدقہ دے۔“ (۱)

﴿8﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”میں صدقہ کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں کے برابر زنی ہو۔“ (۲)

﴿9﴾..... حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابی رُوَادِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَادِ فرماتے ہیں: ”کہا جاتا ہے کہ تین باتیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: (۱)..... بیماری کو چھپانا (۲)..... صدقہ چھپا کر دینا اور (۳)..... مصیبتوں کو چھپانا۔“ (۳)

﴿10﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے: میں تم سب سے افضل ہوں۔“ (۴)

﴿11﴾..... حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا شکر صدقہ کیا کرتے اور فرماتے: ”میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان سنا ہے: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (پ ۴، آل عمران: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جانتا ہے کہ مجھے شکر بہت پسند ہے۔“ (۵)

﴿12﴾..... حضرت سیدنا امام شعی علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”مجھے عیب دار چیز راہ خدا میں صدقہ کرنا پسند ہے۔“

﴿13﴾..... حضرت سیدنا عبید بن عمیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”بروز قیامت لوگ اتنے بھوکے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے، اتنے پیاسے ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہ تھے اور ایسے برہنہ ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہ تھے تو جس نے (دنیا میں) رضائے الہی کے لئے کسی کو کچھ کھلایا یا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پیٹ بھر کر کھلایا، جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کسی کو کچھ پلایا یا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سیراب فرمائے گا اور جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر کسی کو لباس پہنایا

①..... البر والصلۃ، باب ماجاء فی الصدقة والنفقة، الحدیث: ۲۸، ص ۱۴۳۔

②..... المستطرف فی کل فن مستظرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام..... الخ، الفصل الثالث فی الزکاة وفضلها، اج ص ۱۹۔

③..... اللانی المصنوعة، کتاب المرض والطب، ج ۴، ص ۳۲۹، عن ابن عمر۔

④..... المستظرف فی کل فن مستظرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام..... الخ، الفصل الثالث فی الزکاة وفضلها، اج ص ۱۹۔

⑤..... الدر المنثور، الجزء الرابع، سورة آل عمران ۹۴، ج ۲، ص ۲۶۲۔

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اسے (جنتی) لباس پہنائے گا۔“ (۱)

﴿14﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا تو تمہیں غنی کر دیتا تم میں کوئی فقیر نہ ہوتا لیکن اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزما یا۔“ (۲)

﴿15﴾..... حضرت سیدنا امام شعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: ”جو شخص خود کو صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ سمجھے جتنا فقیر صدقے کا محتاج ہے تو اس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا اور اسے اپنے چہرے پر دے مارا۔“ (۳)

﴿16﴾..... حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَلِک فرماتے ہیں: ”ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ خوش حال شخص صدقہ کے پانی یا مسجد کے پانی سے پئے کیونکہ وہ پیاسوں کے لئے ہوتا ہے جو بھی پیاسا ہو نیز اس پر فقط اہل حاجت اور مساکین لوگ ہی نہیں آتے۔“

﴿17﴾..... منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے قریب سے ایک دلال گزرا اس کے ساتھ ایک لوٹدی بھی تھی۔ آپ نے دلال سے پوچھا: ”کیا تم اس کی ایک یا دو درہم قیمت پر راضی ہو؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”جاؤ! اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک پیسے اور ایک لقمے کے بدلے جنتی حُور دینے پر راضی ہوتا ہے۔“ (۴)

### صدقہ کو چھپانا اور ظاہر کرنا

اس سلسلے میں اخلاص کی جستجو کرنے والوں کا راستہ مختلف ہے۔ کچھ حضرات اس طرف مائل ہوئے کہ پوشیدہ دینا افضل ہے اور کچھ حضرات کا موقف یہ ہے کہ ظاہری طور پر دینا افضل ہے۔ ہم دونوں میں سے ہر ایک میں موجود معانی اور آفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر حق بات سے پردہ اٹھائیں گے۔

### پوشیدہ طور پر دینے میں پانچ حکمتیں:

﴿1﴾..... اس طرح لینے والے کا پردہ رہ جاتا ہے کیونکہ ظاہری طور پر لینے سے اس کی مروّت پوشیدہ نہیں رہتی،

①..... المستطرف فی کل فن مستظرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام..... الخ، الفصل الثالث فی الزکاة..... الخ، اج ص ۱۹۔

②..... الدر المنثور، الجزء التاسع عشر، سورة الفرقان: ۲، ج ۶، ص ۲۴۲، عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

③..... المستطرف فی کل فن مستظرف، الباب الاول فی مبانی الاسلام..... الخ، الفصل الثالث فی الزکاة وفضلها، اج ص ۱۹۔

④..... روح البیان، سورة التوبة، الجزء العاشر، ج ۳، ص ۴۷۴۔



حاجت سامنے آجاتی ہے اور وہ اس پسندیدہ عفت کی صفت سے خارج ہو جاتا ہے جس سے متصف شخص کو جاہل لوگ مالدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سوال کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔

﴿2﴾..... اس طرح لوگوں کی زبانیں اور دل محفوظ رہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ حسد کرتے اور اس کے لینے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اسے بلا ضرورت لینے والا گمان کرتے ہیں یا زیادہ لینے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ حسد، بدگمانی اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور لوگوں کو ان سے بچانا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: ”میں نے اس ڈر سے نئے کپڑے پہننا چھوڑ دیئے کہ کہیں میرے پڑوسی حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔“ کسی زاہد (دنیا سے کنارہ کش شخص) کا قول ہے کہ ”بعض اوقات میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے کسی چیز کا استعمال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟“ حضرت سیدنا ابراہیم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِيِّ کے دوستوں نے انہیں نئی قمیص پہنے دیکھ کر پوچھا: ”یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟“ فرمایا: ”مجھے میرے بھائی خیشمہ نے پہنائی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے متعلق ان کے گھر والوں کو معلوم ہے تو میں قبول نہ کرتا۔“ (۱)

﴿3﴾..... چھپا کر دینے والے کے عمل کو پوشیدہ رکھنے میں اس کی مدد کرنا ہے کیونکہ پوشیدہ دینے کی ظاہر اَدینے سے زیادہ فضیلت ہے اور نیکی کو مکمل کرنے پر مدد کرنا بھی نیکی ہے اور کسی چیز کو مکمل طور پر دو آدمیوں کے ذریعے چھپایا جاسکتا ہے تو جب ایک (یعنی مسکین) کا حال ظاہر ہو جائے تو دینے والے کا معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔

## اسلاف ظاہر اَدی گئی چیز قبول نہ کرتے:

منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی عالم کو کوئی چیز ظاہری طور پر دی تو انہوں نے واپس کر دی، دوسرے نے پوشیدہ طور پر دی تو قبول فرمائی ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ”پوشیدہ دینے والے نے نیکی چھپانے میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا میں نے قبول کر لی جبکہ پہلے نے نیکی چھپانے میں ادب کو پیش نظر نہیں رکھا اس لئے میں نے واپس لوٹا دی۔“ ایک شخص نے کسی صوفی کو مجمع میں کوئی چیز دی تو انہوں نے واپس کر دی۔ اس شخص نے کہا: ”آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عطیہ کیوں واپس کر دیا۔“ تو صوفی صاحب نے فرمایا: ”جو چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے تھی تم نے اس میں

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والاربعون فی ذکر فضائل الفقر..... الخ، ج، ص ۳۳۸۔

غیر اللہ کو شریک کر لیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر قناعت نہ کی تو میں نے تیرا شرک تجھے واپس لوٹا دیا۔“  
ایک عارف نے پوشیدہ طور پر دی گئی وہی چیز قبول کر لی جو علانیہ ملنے پر واپس لوٹا دی تھی۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: ”تم نے علانیہ دے کر گناہ کیا تو میں گناہ میں تمہارا شریک نہیں بننا چاہتا تھا اور پوشیدہ دے کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی فرمانبرداری کی تو میں نے نیکی پر تمہاری مدد کی۔“

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَوِی فرماتے ہیں: ”اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی شخص اپنے صدقہ کا ذکر نہیں کرے گا اور کسی سے بیان نہیں کرے گا تو میں ضرور اس کا صدقہ قبول کر لوں۔“ (۱)

﴿4﴾..... ظاہری طور پر لینے میں ذلت اور توہین ہے اور مومن کے لئے درست نہیں کہ وہ اپنے نفس کو رسوا کرے۔ بعض علما پوشیدہ طور پر دی گئی چیز لے لیتے تھے جبکہ علانیہ دی گئی چیز نہیں لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: ”اس کے ظاہر کرنے میں علم کی رسوائی اور اہل علم کی توہین ہے۔ لہذا میں علم کو پست اور اہل علم کو رسوا کر کے کسی دنیوی چیز کو بلند نہیں کر سکتا۔“  
﴿5﴾..... پوشیدہ طور پر لینے میں شرکت کے شبہ سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں کی موجودگی میں جسے کوئی چیز بطور ہدیہ دی جائے تو اس میں لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔“ (۲)  
اگر وہ چاندی یا سونا ہو تب بھی ہدیہ ہی رہے گا کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے محض چاندی کو بھی ہدیہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحِمَتْهُمُ اللَّعْلَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”افضل ہدیہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کو دیتا ہے وہ چاندی یا اسے روٹی کھلانا ہے۔“ (۳)

لہذا مجلس میں سب کی رضا مندی کے بغیر کسی ایک کو دینا مکروہ ہے اور شبہ سے خالی نہیں تو جب تنہائی میں انفرادی طور پر لے گا تو شرکت کے شبہ سے بچ جائے گا۔

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والاربعون فی ذکر فضائل الفقر..... الخ، ج، ۴، ص ۲۳۹، مفہومًا۔

②..... المعجم الكبير، الحديث ۱۱۸۳، ج ۱، ص ۸۵۔

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والاربعون فی ذکر فضائل الفقر..... الخ، ج، ۴، ص ۳۳۹۔

## ظاہری طور پر دینے میں چار حکمتیں:

- ﴿1﴾..... اخلاص، سچائی، اپنے مال کی لوگوں کے دھوکے اور ریاکاری سے سلامتی ہے۔
- ﴿2﴾..... جاہ و مرتبہ کو دور کرنا، بندگی اور غربت کو ظاہر کرنا، تکبر اور استغنا کے دعویٰ سے بری ہونا اور لوگوں کی نگاہوں میں نفس کو گرانا ہے۔

## حکایت: صدقہ ظاہر کرنے کی فضیلت:

معرفتِ الہی رکھنے والے ایک بزرگ نے اپنے شاگرد سے فرمایا: ”اگر تم صدقہ لو تو ہر حال میں اسے ظاہر کرو کیونکہ تم دو میں سے ایک شخص سے خالی نہ ہو گے ایک شخص وہ ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو اس کے دل سے گرجاؤ گے اور یہی مقصود ہے کیونکہ اس میں تمہارے دین کی سلامتی زیادہ اور نفس کی آفات کم ہیں یا دوسرا وہ شخص کہ تمہارے سچ ظاہر کرنے کے سبب اس کے دل میں تمہارا مقام بلند ہوگا اور تمہارا بھائی بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ وہ تم سے جس قدر زیادہ محبت کرے گا اور تمہاری تعظیم کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا اور چونکہ تم اس کے لئے مزید ثواب کا باعث بنے لہذا تمہیں بھی اجر دیا جائے گا۔

﴿3﴾..... عارف کی نظر اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ہوتی ہے اس کے حق میں پوشیدہ و علانیہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پس حال کا مختلف ہونا تو حید میں شرک ہے۔ بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِیْنُ فرماتے ہیں: ”ہم اس شخص کی دعا کا اعتبار نہیں کرتے جو پوشیدہ تولے لے مگر علانیہ لوٹا دے۔ لوگ موجود ہوں یا غائب ان کی طرف متوجہ ہونا فوری نقصان کا باعث ہے بلکہ بندے کی نظر ہمیشہ اللہ واحد پر لگی رہے۔“

## حکایت: اللہ دیکھ رہا ہے!

منقول ہے کہ ایک بزرگ کو اپنے ایک مرید سے بہت زیادہ محبت تھی دوسروں کو یہ بات بہت ناگوار تھی، بزرگ نے لوگوں کے سامنے اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ، ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک اکیلا جائے اور اسے وہاں جا کر ذبح کرے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔“ لہذا ہر شخص نے تنہائی میں جا کر مرغی ذبح کر دی لیکن وہ مرید زندہ مرغی واپس لے آیا۔ شیخ نے دیگر مریدوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہم نے

شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ پھر شیخ نے مرید خاص سے پوچھا کہ ”تم نے اپنے دوستوں کی طرح مرغی ذبح کیوں نہ کی؟“ اس نے جواب دیا: ”مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تو (مجھے) ہر جگہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔“ یہ سن کر شیخ نے فرمایا: ”اسی خوبی کی وجہ سے میں اس کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہوں کیونکہ یہ غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔“

﴿4﴾..... علانیہ طور پر دینے میں سنتِ شکر کو قائم کرنا ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** ﴿۳۰﴾ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور چھپانا نعمت کی ناشکری ہے۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے عطا کردہ مال کو پوشیدہ رکھنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والے کو بخیل کا ساتھی قرار دیا۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا: **الَّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** ﴿۵﴾ (پ ۵، النساء: ۳۷) ترجمہ کنز الایمان: جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لئے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اُسے چھپائیں۔

نیز حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دکھائی دے۔“ (۱)

ایک شخص نے کسی عارف کو کوئی چیز چھپا کر دی تو انہوں نے اسے اٹھا کر فرمایا: ”یہ دنیا میں سے ہے اور اسے ظاہر کرنا افضل ہے جبکہ امورِ آخرت کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے۔“

اسی لئے بعض علما نے فرمایا: جب تمہیں لوگوں میں عطا کیا جائے تو لے لو پھر پوشیدہ طور پر لوٹا دو اور اس پر شکر یہ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ،

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بھی شکر ادا نہ کیا۔“ (۲)

اور شکر یہ ادا کرنا بھی بدلہ دینے کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ،

①..... سنن الترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء ان اللہ تعالیٰ یحب..... الخ، الحدیث: ۲۸۲۵، ج ۲، ص ۳۷۴، مفہومًا۔

②..... سنن الترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الشکر لمن احسن الیک، الحدیث: ۱۹۱۹، ج ۳، ص ۳۸۴۔

مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی اچھی تعریف کرو اور اس کے لئے دعا کرو حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نے بدلہ دے دیا۔“<sup>(۱)</sup>

نیز جب مہاجرین نے شکر کے بارے میں عرض کی: ”یا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ہم نے ان لوگوں (یعنی انصار) سے بہتر کسی کو نہ دیکھا کہ ہم ان کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے ہمارے درمیان اپنے اموال بھی تقسیم کر دیئے یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ سارا اجر یہ لے جائیں گے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نے جو ان کا شکر یہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی یہی اس کا بدلہ ہے۔“

### فیصلہ مغزالی:

اب جبکہ تم نے یہ معافی سمجھ لئے تو جان لیجئے کہ اس میں لوگوں کا اختلاف اصل مسئلہ میں اختلاف نہیں بلکہ یہ حالت میں اختلاف ہے۔ حقیقت حال یوں واضح ہوگی کہ ہم قطعاً فیصلہ نہیں دے سکتے کہ ہر حال میں پوشیدہ دینا افضل ہے یا علانیہ؟ بلکہ نیتوں کے بدلنے سے حکم اور احوال و اشخاص کے بدلنے سے نیتیں بدل جاتی ہیں۔ پس مخلص شخص کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہئے کہ ہمیں وہ دھوکے کی رسی میں نہ لٹک جائے، طبیعت اور شیطان کے مکر و فریب میں نہ پھنس جائے۔ نیز دونوں صورتوں میں دھوکے کا عمل دخل ہے مگر علانیہ دینے کی بنسبت پوشیدہ دینے میں مکر و فریب زیادہ ہے۔

**پوشیدہ طور پر لینے میں فریب کا دخل اس طرح ہے کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے۔** نیز اس میں جاہ و مرتبہ کی حفاظت اور لوگوں کی نظروں سے اپنی عزت کو گرنے سے بچانا ہے اور اس سے بھی احتراز ہے کہ لوگ اس کی طرف توہین آمیز نظروں سے دیکھیں اور دینے والے کو منعم و محسن خیال کریں۔ یہ لا علاج بیماری اور نفس میں قرار پکڑتی ہے۔ شیطان اس کے ذریعے اچھے معافی کو ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ مذکورہ پانچوں (پوشیدہ دینے کے) معافی کو علت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان تمام کا معیار و کسوٹی ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ اسے اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے کا اتنا ہی غم ہو جتنا اسے اپنے دوسرے احباب کے صدقہ کے ظاہر ہونے سے دکھ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غیبت، حسد، بدگمانی یا پردہ درسی سے بچیں یا دینے والے کی پوشیدہ دینے پر اعانت یا علم کی ذلت سے حفاظت مقصود ہو تو یہ تمام باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ کا حال کھلنے سے بھی ہوں گی۔ اگر اس کا حال کھلنے کا انکشاف

①.....سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب عطیة من سأل اللعوج، الحدیث: ۱۶۷۴، ج ۲، ص ۷۸، مفہوماً۔

دوسروں کا حال کھلنے کے انکشاف سے زیادہ بھاری محسوس ہو تو پوشیدہ لینے کے ان معانی کا بہانہ بنانا محض جھوٹ اور شیطان کا دھوکا ہے کیونکہ علم کا ذلیل ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ علم ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ زید یا عمر کا علم ہے اور غیبت اس اعتبار سے ممنوع ہے کہ یہ محفوظ عزت کو عیب لگانا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ خاص طور پر زید کی عزت کو عیب لگانا ہے۔ لہذا جو آدمی ان باتوں کو اچھی طرح پیش نظر رکھتا ہے بعض اوقات شیطان اس سے عاجز آ جاتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ زیادہ عمل کر کے کم فائدہ پاتا ہے۔

جہاں تک ظاہری طور پر صدقہ دینے کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف طبیعت کا میلان اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے دینے والے کو دلی خوشی ہوتی ہے اور اسے ایسے کاموں کی ترغیب ملتی ہے۔ دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ (یعنی لینے والا) شخص بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے تاکہ وہ اس کی عزت کریں اور اس پر مال خرچ کریں۔ یہ باطنی لاعلاج بیماری ہے اور شیطان دیندار آدمی پر اسی صورت میں قادر ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایسے کاموں کو سنت کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے: ”شکر ادا کرنا سنت ہے جبکہ پوشیدہ رکھنا ریا کاری ہے۔“ نیز اس کے سامنے ہمارے ذکر کردہ (ظاہر کر کے دینے والے چار) معانی پیش کرتا ہے تاکہ اسے ظاہر کر کے دینے پر ابھارے حالانکہ اس کا مقصد وہی ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کا معیار و کسوٹی یہ ہے کہ وہ شکر کی طرف اپنے نفس کا میلان دیکھے یہاں تک کہ اس کی خبر دینے والے کو بھی نہ پہنچے اور نہ ان لوگوں تک پہنچے جو اسے دینے کی رغبت رکھتے ہیں اور جن کی عادت ہے کہ وہ اسی کو دیتے ہیں جو پوشیدہ رکھتا ہے اور شکر یہ ادا نہیں کرتا۔ اگر اس کے نزدیک یہ احوال برابر ہوں تو جان لے کہ اس کا مقصد سنت کو قائم کرنا اور نعمت کا اظہار کرنا ہے ورنہ یہ دھوکا ہے۔

پھر جب وہ جان لے کہ اس کا سبب شکر یہ ادا کرنے میں سنت کو اپنانا ہے تو دینے والے کو اس کا حق ادا کرنے میں غافل نہ ہو۔ پس وہ غور کر لے کہ اگر وہ شکر یہ ادا کرنے اور اس کے ظاہر ہونے کو پسند کرتا ہے تو چاہئے کہ مخفی رکھے اور شکر یہ ادا نہ کرے کیونکہ اس کے حق کو پورا کرنا یہ ہے کہ ظلم پر اس کی مدد نہ کرے اور اس سے شکر یہ ادا کرنے کا مطالبہ کرنا ظلم ہے اور جب اس کا حال اس بات پر دلالت کرے کہ وہ شکر یہ ادا کرنے کو پسند نہیں کرتا اور نہ اس کا ارادہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کا شکر یہ ادا کرے اور اس کا صدقہ ظاہر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے ارشاد

فرمایا: ”تم نے اس کی گردن مار دی (۱) اگر وہ سنتا تو کامیابی نہ پاتا۔“ (۲) حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کئی لوگوں کی ان کے سامنے تعریف کی کیونکہ آپ ان کے یقین کے متعلق مطمئن تھے اور جانتے تھے کہ یہ چیز انہیں نقصان نہیں دے گی بلکہ ان کی رغبت میں اضافہ کرے گی۔ چنانچہ،

## کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا کیسا؟

ایک شخص سے ارشاد فرمایا: ”یہ جنگل والوں کا سردار ہے (۳)۔“ (۴)

ایک سے ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے پاس قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی تکریم کرو (۵)۔“ (۶)

ایک شخص کی (فصح و بلیغ) گفتگو سن کر پسند فرمائی اور ارشاد فرمایا: ”إِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا لِّعَيْنِ بَعْضِ بَيَّانِ جَادٍ وَهُوَ تَوْتِي هِيَ۔“ (۷)

ایک روایت میں ہے کہ ”جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی نیکی کا علم ہو تو اسے بتادے کیونکہ اس سے نیکی میں

رغبت بڑھتی ہے۔“ (۸)

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند البصريين، حديث ابى بكره..... الخ، الحديد: ۵۴، ج ۷، ص ۳۳۲، بتغير الفاظ۔  
 ②..... مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 6، ص 455 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: ”وہ شخص ایسی طبیعت کا ہے کہ تیری تعریف سن کر مغرور و متکبر ہو جائے گا۔ ایسے شخص کی منہ پر تعریف اسے نقصان دیتی ہے۔“  
 ③..... یہ بات حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا قیس بن عاصم تمیمی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ کے متعلق ارشاد فرمائی تھی۔ (مرآة المناجیح، ج ۱، ص ۳۲۷)

④..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر قیس بن عاصم المنقری، الحدیث: ۶۲۲، ج ۴، ص ۸۰۳۔  
 ⑤..... اس روایت کا سبب کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبد اللہ بجلی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ اپنی قوم کے سردار اور معزز شخص تھے۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی تعظیم و توقیر فرمائی اور ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھادی اور ارشاد فرمایا: ”جب تمہارے پاس قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی تکریم کرو۔“

(عمدة القاری لعینی، کتاب المناقب، باب مناقب الانصار، ذکر جریر بن عبد اللہ البجلي رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ ج ۱، ص ۵۳۵)

⑥..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه، الحدیث: ۳۷۱، ج ۴، ص ۲۰۸، بتغير۔

⑦..... صحيح البخاری، کتاب الطب، باب من البيان سحرا، الحدیث: ۵۷۶، ج ۴، ص ۲۱۔

⑧..... تهذيب التهذيب، علم الجرح والتعديل، ج ۲، ص ۲۲۔

ایک روایت میں ہے کہ ”جب کسی مومن (کے سامنے اس) کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا لوگوں کی تعریف اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔“

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ سے فرمایا: ”جب میں تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کروں اور اس پر تم سے زیادہ خوش ہوں اور اسے اپنے اوپر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت شمار کروں تو تم میرا شکر یہ ادا کرو ورنہ میرا شکر یہ ادا نہ کرو۔“ (۲)

اپنے دل کی نگرانی کرنے والے کو ان باریک معانی کا لحاظ کرنا چاہئے کیونکہ ان مقاصد سے غفلت کے باوجود اعضاء کو عمل میں لگا دینا شیطان کا قہقہہ اور خوشی ہے کہ اس میں تھکاوٹ زیادہ اور نفع کم ہے۔ اس قسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ علم کے ذریعے زندگی بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہے، جبکہ جہالت کی وجہ سے عمر بھر کی عبادت مردہ اور ختم ہو جاتی ہے۔

## حرف آخر:

لوگوں کے سامنے لینا اور علیحدگی میں واپس کرنا تمام راستوں سے عمدہ اور محفوظ راستہ ہے۔ اسے ملمع سازی سے دُور نہیں کرنا چاہئے۔ البتہ معرفت مکمل ہو جائے یعنی پوشیدہ و ظاہر برابر ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن ایسا شخص سرخ گندھک کی طرح (نایاب) ہے جس کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اللہ کریم عَزَّوَجَلَّ سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

## صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ:

(اس میں دو موقف ہیں) (۱)..... حضرت سیدنا ابراہیم خواص، حضرت سیدنا جنید بغدادی اور ایک گروہ صوفیا

①..... تہذیب التہذیب، علم الجرح والتعديل، ج، ص ۲۴۔ المعجم الكبير، الحديث ۴۲، ج ۱، ص ۱۷۱۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی والاربعون فی ذکر فضائل الفقراء..... الخ، ج، ص ۳۱۔



رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى کے نزدیک صدقہ لینا افضل ہے۔ (وجہ ترجیح) کیونکہ زکوٰۃ لینے کی صورت میں مساکین کی مزاحمت اور ان پر تنگی کرنا ہے۔ نیز بعض اوقات زکوٰۃ لینے میں قرآن پاک میں ذکر کردہ اوصاف کے مطابق صفت استحقاق کی تکمیل نہیں ہوتی لیکن صدقہ کے معاملے میں چونکہ زیادہ وسعت ہے (اس لئے صدقہ لینا افضل ہے)۔

(۲)..... کچھ حضرات کا موقف ہے کہ زکوٰۃ لینا افضل ہے نہ کہ صدقہ۔ (وجہ ترجیح) کیونکہ یہ واجب کی ادائیگی پر مدد کرنا ہے اور اگر تمام مساکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ نیز زکوٰۃ میں احسان جتنا بھی نہیں پایا جاتا اس لئے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے واجب حق اور اس کے محتاج بندوں کا رزق ہے۔ نیز زکوٰۃ حاجت کے سبب لی جاتی ہے اور انسان یقینی طور پر اپنی حاجت کو جانتا ہے جبکہ صدقہ دین کے بدلے میں لینا ہوتا ہے کیونکہ اکثر دینے والا اسے دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے۔ نیز مساکین کی موافقت ذلت و غربت میں زیادہ داخل کرتی اور تکبر سے دور رکھتی ہے اس لئے کہ بعض اوقات انسان صدقہ ہدیہ کے طور پر لے لیتا ہے اور یوں صدقہ اور ہدیہ میں فرق نہیں رہتا مگر زکوٰۃ میں لینے والے کی ذلت اور حاجت واضح ہو جاتی ہے۔

## فیصلہ مغزالی:

اس میں درست قول یہ ہے کہ یہ بات لوگوں کے احوال کے مطابق مختلف ہوتی ہے کہ اس پر کیا غالب ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟

اگر اس کے صفت استحقاق سے متصف ہونے میں شبہ ہو تو زکوٰۃ نہیں لیننی چاہئے اور جب معلوم ہو کہ وہ قطعی طور پر مستحق ہے جیسا کہ اس پر کوئی قرض ہو اور اسے پورا کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو اسے زکوٰۃ اور صدقہ میں اختیار ہے۔

اگر صدقہ دینے والے کی صورت یہ ہو کہ اگر یہ نہ لیتا تو وہ صدقہ نہ دیتا تو صدقہ لے لے کیونکہ زکوٰۃ دینے والا اس کے مستحق تک واجب زکوٰۃ پہنچا دے گا۔ اس میں خیر میں اضافہ کرنا اور مساکین پر وسعت کرنا ہے۔

اگر مال صدقہ کے لئے رکھا ہو اور زکوٰۃ لینے کی صورت میں مساکین پر تنگی بھی نہ آتی ہو تو اسے اختیار ہے اور ان دونوں صورتوں میں معاملہ مختلف ہے اور اکثر احوال میں نفس کی سرکشی کو توڑنے اور اسے رسوا کرنے میں زکوٰۃ لینا زیادہ

موثر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بہتر جانتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد، اس کی مدد اور حسن توفیق سے ”اَسْرَارُ الزَّكْوَةِ“ کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے نوراً بعد ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ ”اَسْرَارُ الصَّوْمِ“ کا بیان شروع ہو گا۔

## دُعا:

تمام خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، تمام انبیاء و مرسلین، تمام فرشتوں، زمین و آسمان کے ہر مقرب بندے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے آل و اصحاب پر تا قیامت ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمتیں اور خوب سلام ہو۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ہم کو بس (کافی) ہے اور کیا اچھا کار ساز۔



## ..... اچھی عادتوں کی نصیحت ..... ﴿﴾

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 43 صفحات پر مشتمل کتاب ”امام اعظم عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْبَرِ مِی وِصِيَّتَيْهِ“ صَفْحَه 27 پر حضرت سیدنا امام اعظم عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْبَرِ نے اپنے ایک شاگرد کو یوں نصیحت فرمائی: ”تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفا کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا۔“

## روزوں کا بیان

تمام خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے اپنے بندوں پر احسانِ عظیم فرمایا کہ ان سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کیا، اس کی امید کو مردود اور اس کے گمان کو ناکام کر دیا۔ روزوں کو اپنے دوستوں کے لئے قلعہ اور ڈھال بنایا۔ ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے اور انہیں اس بات کی پہچان کرائی کہ ان کے دلوں تک شیطان کے پہنچنے کا ذریعہ خواہشات ہیں۔ خواہشات کو ختم کرنے سے نفسِ مطمئنہ دشمن شیطان کو ختم کرنے میں غالب اور قوی ہوتا ہے۔ مخلوق کے قائد اور سنت پر چلانے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت اور خوب سلام ہو جو روشن بصیرت اور ترجیح یافتہ عقول والے ہیں۔

### فضائل روزہ کے متعلق 11 فرامینِ مصطفیٰ:

بے شک روزہ چوتھائی ایمان ہے۔ کیونکہ

﴿1﴾..... روزہ آدھا صبر ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... اور صبر آدھا ایمان ہے۔<sup>(۲)</sup>

پھر روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دوسرے تمام ارکان کی بنسبت اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ،

﴿3﴾..... حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک

ہے سوائے روزہ کے۔ بے شک یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“<sup>(۳)</sup>

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فی الصوم زکاة الجسد، الحدیث: ۱۷۴، ج ۲، ص ۳۴۔

سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ۹۴، الحدیث: ۳۵۳، ج ۵، ص ۳۰۸۔

②..... تاریخ بغداد، مطیع بن عبد اللہ بن مطیع بن راشد الکبریٰ: ۷۱۹، ج ۱۳، ص ۲۲۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، الحدیث: ۱۱۵، ص ۵۷۔

صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب ذکر اعطاء الرب..... الخ، الحدیث: ۱۸۹، ج ۳، ص ۱۹۷، بتغییرِ قلیل۔

ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے  
حَسَابٍ ۱۰ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰)  
گابے گنتی۔

روزہ صبر کا نصف ہے اس کا ثواب اندازہ و حساب سے بڑھ کر ہے اور اس کی فضیلت جاننے کے لئے یہی بات  
کافی ہے کہ سرور عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

﴿4﴾..... اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بواللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک  
مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے: ”یہ شخص اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لئے چھوڑتا ہے پس  
روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“ (۱)

﴿5﴾..... جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ (۲)  
روزے کی جزا کے طور پر روزہ دار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا ہے۔

﴿6﴾..... روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کے  
وقت۔ (۳)

﴿7﴾..... ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ (۴)

﴿8﴾..... روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ (۵)

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ  
وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر  
دیئے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک منادی ندا کرتا ہے: اے بھلائی کے طالب! آگے بڑھ اور اے

①..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: یریدون ان یدلوا..... الخ، الحدیث: ۴۹، ج ۴، ص ۵۷۲۔

صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب فضل الصوم، الحدیث: ۱۸۹۲، ج ۱، ص ۶۲۴، باختصار۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، الحدیث: ۱۱۵، ص ۵۸۱۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، الحدیث: ۱۱۵، ص ۵۸۰۔

④..... الزهد لابن المبارک، الجزء الحادی عشر، الحدیث: ۱۴۲، ص ۵۰۰، بتغییر قلیل۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، اخبار و حکایات فی الصیام، الحدیث: ۳۹۳، ج ۳، ص ۲۱۵۔

برائی چاہنے والے! باز آ۔“ (۱)

حضرت سیدنا کعب علیہ رحمۃ اللہ البیدیع نے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان: **كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَفْتُمْ فِي الذَّيْءِ وَالْعَالِيَةِ** (پ ۲۹، الحاقۃ: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ کے متعلق فرمایا: اس سے مراد روزوں کے ایام ہیں کیونکہ ان دنوں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں زہد اختیار کرنے اور روزہ رکھنے کے رتبہ پر فخر کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔

﴿10﴾ ..... بے شک اللہ عزوجل نوجوان عابد پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے لئے اپنی خواہش کو ترک کرنے والے، میرے لئے اپنی جوانی خرچ کرنے والے نوجوان! تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔“ (۲)

﴿11﴾ ..... آقائے دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے متعلق فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے فرشتو! میرے بندے کو دیکھو، اس نے اپنی خواہش، اپنی لذت اور اپنا کھانا پینا میرے لئے چھوڑ دیا۔“ (۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ  
أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

(پ ۲۱، السجدة: ۷)

اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں کا عمل روزے رکھنا ہے کیونکہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ ﴿۱۰﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰)

گابے گنتی۔

①..... سنن الترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی فضل شہر رمضان، الحدیث ۶۸۴، ج ۲، ص ۱۵۵، بتغییر۔

②..... جمع الجوامع، حرف الهمزة، الحدیث ۵۵۳۲، ج ۲، ص ۲۶۶، بتقدم و تاخیر۔

قوت القلوب، الفصل الثانی والعشرون: الصیام وترتیبہ..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۲، ”مبذل“ بدلہ ”مبتدل“۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثانی والعشرون: الصیام وترتیبہ..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۲، بتقدم و تاخیر۔

لہذا روزہ دار کو اس کی جزا وافر اور بے حساب دی جائے گی جو کسی گمان اور پیمانے کے تحت نہیں ہوگی اور مناسب یہی ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ روزہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہے اور اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اسے خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے اگرچہ تمام عبادات اسی کے لئے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بَيْتُ اللہ شریف کو تمام زمین پر فضیلت حاصل ہے اگرچہ تمام زمین اسی کی ہے کیونکہ بیت اللہ شریف کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

## دیگر عبادات پر روزے کی افضلیت کی وجہ:

اس کی دو وجوہات ہیں: (۱)..... روزہ عمل کو چھوڑنے اور اس سے رکنے کا نام ہے اور یہ ذاتی طور پر پوشیدہ ہے اس میں دکھائی دینے والا کوئی عمل نہیں جبکہ دیگر تمام اعمال لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ روزے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ملاحظہ فرماتا ہے اور وہ محض صبر کے ذریعے باطنی عمل ہے۔ (۲)..... یہ دشمن خدا (شیطان مردور) پر غلبہ پانے کا ذریعہ ہے کیونکہ شیطان لعین کا وسیلہ خواہشات ہیں (جن کے ذریعے وہ بنی آدم کو دھوکا دیتا ہے) اور شہوات کو تقویت کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے اسی لئے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے پس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔“<sup>(۱)</sup> اسی وجہ سے حضور نبی اکرم، رسول محتشم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: ”ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہو۔“ انہوں نے عرض کی: ”کس چیز سے؟“ ارشاد فرمایا: ”بھوک سے۔“<sup>(۲)</sup>

عَنْ قَرِيبٍ ”مَهْلِكَات“ کے بیان میں کھانے کی خرابی اور اس کے علاج کے ضمن میں بھوک کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ لہذا (دیگر عبادات کے مقابلے میں) بالخصوص روزہ شیطان کی جڑ کاٹنے والا، اس کے راستوں کو روکنے اور تنگ کرنے والا ہے تو وہ خصوصی طور پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ نسبت کا مستحق ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن کی تیخ کنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد سے ہی ممکن ہے اور مدد الہی تب شامل حال ہوگی جب بندہ دین الہی کی مدد کرے۔ چنانچہ، قرآن مجید، فرقان

①..... التفسیر الکبیر للرازی، ارکان الاستعاذۃ، ج ۱، ص ۸۵۔

قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون: کتاب اساس المریدین..... الخ، ج ۱، ص ۱۷۰۔

②..... کشف الخفاء، حرف الدال المهملة، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۳۶۷۔

قوت القلوب، الفصل التاسع والثلاثون فی ترتیب الاقوات..... الخ، ج ۱، ص ۲۸۸، مفہومًا۔

حمید میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَثْبُتْ  
أَقْدَامَكُمْ ﴿۷﴾ (پ: ۲۶، محمد: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔

پس ابتداءً جدوجہد بندے کا کام ہے اور ہدایت کے ساتھ بدلہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا  
﴿۲۱﴾ (العنکبوت: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنْفُسِهِمْ ﴿۱۱﴾ (الرعد: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔

اور یہ تبدیلی خواہشات کی کثرت کی وجہ سے ہوئی کیونکہ خواہشات شیطان کی چراگا ہیں ہیں اور جب تک یہ تروتازہ رہتی ہیں شیطان کا آنا جانا بند نہیں ہوتا اور جب تک وہ آتا رہتا ہے بندے کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جلال ظاہر نہیں ہوتا اور وہ اس کی ملاقات سے پردے میں رہتا ہے۔ (اسی لئے) مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر بنی آدم کے دلوں پر شیاطین چکر نہ لگاتے تو وہ آسمانوں کی بادشاہی دیکھ لیتے۔“ (۱)

اسی وجہ سے روزہ عبادت کا دروازہ اور ڈھال بن گیا۔ جب اس کی فضیلت اس قدر ہے تو اس کے ارکان و سنن کو بیان کرنے کے ساتھ ظاہری و باطنی شرائط کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم اسے تین فضلوں میں بیان کریں گے۔

﴿.....تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ.....﴾

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ.....﴾

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۸۶۲۸، ج ۳، ص ۲۷۰، بتغیر الفاظ۔

## پہلی فصل: روزے کے واجبات، ظاہری سنتیں اور روزہ توڑنے والے لازم امور کا بیان

### ظاہری واجبات:

روزے کے ظاہری واجبات توچھ ہیں:

﴿1﴾..... ماہِ رمضان شروع ہونے کا خیال رکھنا: یہ چاند دیکھنے سے ہوتا ہے اور اگر مطلع ابراؤد ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کرے۔ رویت سے مراد علم ہے اور یہ ایک عادل آدمی کے قول سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ عبادت میں محتاط طریقہ اختیار کیا گیا ہے اسی لئے شوال کا چاند دو عادل شخصوں کے قول سے ثابت ہوتا ہے اور جس نے کسی عادل شخص سے سنا اور اسے اس کے قول پر اعتماد اور اس کے سچا ہونے کا گمان غالب ہو تو اس پر روزہ لازم ہے اگرچہ قاضی فیصلہ نہ کرے۔ لہذا اپنی عبادت کے معاملے میں ہر شخص اپنے غالب گمان کی پیروی کرے۔

اگر کسی شہر میں چاند دکھائی دے اور دوسرے میں دکھائی نہ دے اور دونوں کے درمیان دو مرحلوں (یعنی دودن کی مسافت) سے کم فاصلہ ہو تو سب پر روزہ واجب ہے اور اگر دو مرحلوں سے زیادہ فاصلہ ہو تو ہر شہر کے لئے الگ حکم ہوگا اور وجوب متعدی نہ ہوگا (یعنی ایسا نہیں کہ ایک شہر میں واجب ہو گیا تو دوسرے میں بھی واجب ہو) (۱)۔

### نیت کے متعلق احکام:

﴿2﴾..... نیت کرنا: ہر روزے کے لئے رات کو پختہ نیت کرنا اور اسے متعین کرنا لازم ہے۔ ہم نے ”مُكَلَّ لَيْلَةٍ“ (ہر شب) کی قید اس لئے لگائی کہ اگر ایک ہی بار پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی تو یہ کافی نہ ہوگی۔

”مُبَيَّنَةٌ“ (رات) کی قید اس لئے لگائی کہ اگر دن میں (ضوہ کبریٰ سے پہلے) نیت کی تو یہ نقلی روزے کے لئے تو

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 979 پر

ہے: ”ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لئے نہیں، بلکہ تمام جہاں کے لئے ہے۔ مگر دوسری جگہ کے لئے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے یعنی دیکھنے کی گواہی یا قاضی کے حکم کی شہادت گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خبر دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے روزہ رکھایا عید کی ہے۔“



کا رآمد ہو سکتی ہے لیکن ادائے روزہ رمضان، قضا اور نذر کے روزوں کے لئے کافی نہ ہوگی<sup>(۱)</sup>۔

”مُعِينَةٌ“ (متعین کرنا) کی قید اس لئے لگائی کہ اگر مطلق روزے کی نیت کی یا مطلق فرض کی نیت کی تو یہ نیت صحیح

نہیں جب تک کہ یوں نیت نہ کرے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے رمضان کا فرض روزہ ہے<sup>(۲)</sup>۔

”جَازِمَةٌ“ کی قید اس لئے لگائی کہ اگر کسی نے شک کی رات (یعنی شعبان کی تیسویں رات) نیت کی کہ اگر کل رمضان

ہو تو روزہ رکھوں گا تو یہ نیت صحیح نہیں کیونکہ یہ یقینی نہیں مگر یہ کہ وہ اپنی نیت کی نسبت کسی عادل شاہد کے قول کی طرف کرے

اور اس عادل کے قول میں غلطی یا جھوٹ کا احتمال یقیناً کو نہیں بدلتا یا موجودہ صورت حال کی طرف منسوب کرے جیسے

رمضان المبارک کی آخری رات شک پڑنا کہ یہ نیت کی پختگی کو نہیں بدلتا یا اجتہاد کی طرف منسوب کرے جیسے کوئی شخص کسی

تہہ خانے میں قید ہو اور اجتہاد کی بنیاد پر اسے ظن غالب ہو جائے کہ رمضان شریف داخل ہو چکا ہے تو اس کا شک اسے نیت

سے نہیں روکے گا اور جب شک کی رات وہ شک میں ہوگا تو زبان سے پختہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا کیونکہ نیت کا محل دل

ہے اور اس میں شک کے ساتھ پختہ ارادہ متصور نہیں ہو سکتا جیسا کہ اگر وہ رمضان کے درمیان میں کہے: ”اگر کل رمضان

ہو تو میں روزہ رکھوں گا“ تو یہ بات اسے نقصان نہیں دیتی کیونکہ یہ الفاظ میں تردّد دے اور نیت کے محل (یعنی دل) میں تردّد

نہیں بلکہ اسے یقین ہے کہ کل رمضان ہے۔ جس نے رات کو روزہ کی نیت کرنے کے بعد کھایا تو اس کی نیت فاسد نہ

ہوئی۔ اگر کسی عورت نے حیض میں روزہ کی نیت کی پھر فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہے۔

﴿3﴾..... روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر پیٹ تک کوئی چیز پہنچانے سے رکنا: کھانے پینے، ناک میں

دوائی چڑھانے اور حقنہ لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور رگ کٹوانے، کچھنے لگوانے، سرمہ ڈالنے اور کان یا عضو

①..... احناف کے نزدیک دن میں نیت کرنا بھی مفید ہے۔ چنانچہ بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 967 پر ہے: ”ادائے روزہ رمضان

اور نذر معین اور نفل کے روزوں کے لئے نیت کا وقت غروب آفتاب سے ضحوة کبریٰ تک ہے، اس وقت میں جب نیت کر لے، یہ

روزے ہو جائیں گے۔

②..... احناف کے نزدیک مطلق نیت بھی مفید ہے۔ چنانچہ بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 970 پر ہے: ”رمضان کی ادا اور نفل و نذر معین

مطلق روزہ کی نیت سے ہو جاتے ہیں خاص انہیں کی نیت ضروری نہیں۔ یوہیں نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض و

مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا ہوگا۔“

تناسل میں سلائی داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ اگر عضو تناسل میں ایسی چیز ڈال دے جو مٹانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

بلا قصد راستے کا جو غبار یا کھسی پیٹ تک پہنچ جائے یا گھٹی سے جو چیز پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر گھٹی کرنے میں مبالغہ کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ ہم نے ”عمداً“ کی قید اسی لئے لگائی ہے۔ روزہ یاد ہونے کی قید اس لئے لگائی ہے تاکہ بھولنے والے کا استثناء ہو جائے کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس نے دن کے دونوں اطراف میں جان بوجھ کر کھایا پھر اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے یقینی طور پر دن کے وقت کھایا ہے تو اس پر قضا لازم ہے اور اگر (یقین نہ ہو اور) وہ اپنے گمان اور اجتہاد پر قائم رہا تو اس پر قضا لازم نہیں لہذا اسے چاہئے کہ دن کے شروع (طلوع صبح صادق کے وقت) اور آخر میں (یعنی غروب آفتاب کے وقت) رات کے غالب گمان کے بغیر نہ کھائے۔

﴿4﴾..... جماع سے رکنا: اس کی حد حشفہ کا غائب ہونا ہے۔ اگر بھول کر جماع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر رات کو جماع کیا یا احتلام کے سبب جنبی ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بیوی سے صحبت میں مشغول تھا کہ فجر طلوع ہو گئی اگر فوراً جدا ہو گیا تو روزہ صحیح ہے اور اگر ٹھہرا رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا (۱)۔

﴿5﴾..... منیٰ خارج کرنے سے رکنا: اس سے مراد جماع یا بغیر جماع کے منیٰ خارج کرنا ہے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی بیوی کا بوسہ لینے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ مکروہ ہے البتہ اگر بوڑھا ہو یا خود پر قابو رکھ سکتا ہو تو بوسہ لینے میں حرج نہیں لیکن نہ لینا بہتر ہے۔ اگر بوسہ لینے سے انزال کا ڈر ہو اور بوسہ لیا اور منیٰ خارج ہو گئی تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

## قے کے احکام:

﴿6﴾..... قے (اٹی) کرنے سے بچنا: جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگر بلا اختیار قے

①..... اس صورت میں احتناف کے نزدیک قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔ چنانچہ بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 990 پر ہے: ”صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یا یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔“

آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا<sup>(۱)</sup>۔ اگر اپنے حلق یا سینے سے بلغم کھینچ کر نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں ابتلائے عام کی وجہ سے رخصت ہے۔ البتہ منہ میں پہنچنے کے بعد نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا<sup>(۲)</sup>۔

## روزہ توڑنے سے لازم ہونے والے امور:

روزے توڑنے سے چار باتیں لازم آتی ہیں: (۱)..... قضا (۲)..... کفارہ (۳)..... فدیہ اور (۴)..... روزہ داروں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے باقی دن کھانے پینے سے رکے رہنا۔

## تفصیل:

﴿1﴾..... قضا: یہ ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے، خواہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑے یا بغیر عذر کے، حائضہ روزے کی قضا کرے گی اسی طرح مرتد بھی (جب دوبارہ اسلام لائے تو زمانہ ارتداد کی) قضا کرے گا (احناف کے نزدیک نہیں کرے گا) لیکن کافر، بچے اور پاگل پر کوئی قضا نہیں، قضاے رمضان کے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ جیسے چاہے قضا کر سکتا ہے۔

﴿2﴾..... کفارہ: کفارہ فقط جماع سے واجب ہوتا ہے۔ منیٰ خارج کرنے، کھانے پینے اور جماع کے علاوہ امور سے کفارہ لازم نہیں آتا<sup>(۳)</sup>۔

①..... احناف کے نزدیک قے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی درجہ ذیل صورتیں ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1048 پر ہے: ﴿۱﴾ روزہ میں خود بخود کتتی ہی قے (اٹلی) ہو جائے (خواہ بالٹلی ہی کیوں نہ بھر جائے) اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ﴿۲﴾ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصداً (یعنی جان بوجھ کر) قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے (یعنی جسے بلا تکلف نہ روکا جاسکے) تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ﴿۳﴾ قصداً منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا (پانی) یا صفراء (یعنی کڑوا پانی) یا خون آئے۔ ﴿۴﴾ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ﴿۵﴾ قصداً قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹتا۔ ﴿۶﴾ منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ﴿۷﴾ منہ بھر قے بلا اختیار ہوگی تو روزہ نہ ٹوٹتا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹتا۔

②..... کھنکھار منہ میں آیا اور کھا گیا اگرچہ کتنا ہی ہو، روزہ نہ جائے گا مگر ان باتوں سے احتیاط چاہئے۔ (بہار شریعت، حصہ پنجم، ۱/۹۸۳)

③..... احناف کے نزدیک درج ذیل صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ چنانچہ، بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 991 پر ہے: ”رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ اداے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے،.....

## روزے کا کفارہ:

ایک غلام آزاد کرنا، اگر غلام میسر نہ ہو تو لگا تار دو ماہ کے روزے رکھنا، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہر ایک کو ایک ایک مد (یعنی ایک کلو گرام) دینا ہے<sup>(۱)</sup>۔

﴿3﴾..... باقی دن میں نہ کھانا: جس نے روزہ توڑ کر نافرمانی کی یا کوتاہی کی اس پر واجب ہے کہ دن کا بقیہ حصہ کھانے پینے سے باز رہے۔ حائضہ جب پاک ہو تو اس پر بقیہ دن کھانے پینے سے رکننا ضروری نہیں۔ مسافر جب دو دن کی مسافت طے کر کے آئے تو اس پر بھی کھانے پینے سے رکننا ضروری نہیں اور شک کے دن اگر ایک عادل شخص چاند نظر آنے کی خبر دے تو کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اور سفر کے دوران افطار کے بجائے روزہ رکھنا افضل ہے۔ البتہ اگر طاقت نہ ہو تو نہ رکھے، جس دن سفر شروع کرنا ہو اور دن کی ابتدا میں گھر میں ہو تو اس دن کا روزہ نہ چھوڑے اور روزے کی حالت میں سفر سے آئے تو بھی روزہ نہ توڑے۔

﴿4﴾..... فدیہ: حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے تو ان پر فدیہ واجب ہے<sup>(۲)</sup>..... اُس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں یا اس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پانی یا کوئی ایسا فعل کیا، جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر قصداً کھاپی لیا، مثلاً فصد یا پچھتا لیا یا سُر مہ لگا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھو یا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرتِ فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا پاخانہ کے مقام میں خشک اُنگی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھالیا۔ تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔“

①..... احناف کے نزدیک روزے کے کفارے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ چنانچہ فیضان سنت، جلد اول، صفحہ 1084 پر ہے: ”روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے اور یہ نہ کر سکے مثلاً اس کے پاس نہ لوٹڈی، غلام نہ اتنا مال کہ خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں جیسا کہ آج کل لوٹڈی غلام نہیں ملتے۔ تو اب پے در پے ساٹھ روزے رکھے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساٹھ مسکین کو ایک ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو گرام سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے ساٹھ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو ساٹھ دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیں۔ (ملخص از رد المحتار ج 3 ص 390)

②..... احناف کے نزدیک حاملہ اور دودھ پلانے والی پر صرف قضا لازم فدیہ واجب نہیں۔ چنانچہ، شیخ الاسلام برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر فرغانی مرغینانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: ”حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچہ کی جان جانے کا.....“

کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک مُد (یعنی ایک کلو) گندم دیں اور قضا بھی کریں اور شیخ فانی<sup>(۱)</sup> (یعنی بہت بوڑھا شخص) ہر دن کے بدلے ایک مُد گندم دے۔

## روزے کی سنتیں:

(۱)..... سحری میں تاخیر کرنا (۲)..... نماز مغرب سے پہلے کھجور یا پانی سے افطار میں جلدی کرنا (۳)..... زوال کے بعد مسواک نہ کرنا (۴)..... ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرنا جیسا کہ ”کتابُ الزَّكَاةِ“ میں اس کے فضائل بیان ہو چکے ہیں (۵)..... قرآنِ پاک کا دور کرنا (یعنی سننا سنانا) (۶)..... مسجد میں اعتکاف کرنا۔

خصوصاً آخری عشرے میں کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عادت مبارکہ تھی کہ ”جب آخری عشرہ آتا تو بستر پلٹ دیتے اور عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی خوب عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی ترغیب دلاتے۔“ (۳) یعنی: عبادت پر ہیشگی اختیار کرتے کیونکہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہے اور ظن غالب یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے اور زیادہ امکان اکیسویں، تیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں رات کا ہے۔

..... صحیح اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھیں بعد میں قضا کر لیں اس صورت میں نہ ان پر کفارہ ہے نہ نذیہ۔

(ماخوذ از الہدایہ شرح بدایۃ المبتدی، کتاب الصوم، باب ما یوجب القضاء و الکفارة، ج ۱، ص ۱۲۴)

①..... فیضان سنت، جلد اول، صفحہ 1076 پر ہے: ”شیخ فانی“، یعنی وہ معمر بزرگ جن کی عمر اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہ بے چارے روز بروز کمزور ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ بالکل ہی روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائیں۔ یعنی نہ اب رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ روزے کی طاقت آنے کی امید ہے انہیں اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہذا ہر روزہ کے بدلہ میں (بطور نذیہ) ایک صدقہ فطر (صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو گرام سے 80 گرام کم ہے) کی مقدار مسکین کو دیں۔

②..... بہار شریعت، جلد اول، صفحہ 997 پر ہے: ”روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تراگرچہ پانی سے ترکی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد کسی وقت مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لئے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب (یعنی احناف) کے خلاف ہے۔

البتہ، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فتاویٰ رضویہ، ج 1، ص 511 پر فرماتے ہیں کہ ”اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہئے۔“

③..... قوت القلوب، الفصل العشرون فی ذکر احیاء اللیالی..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۵۔

## اعتکاف کے احکام (۱):

اعتکاف میں تسلسل قائم رکھنا (مسلل دس دن مسجد میں ٹھہرنا) زیادہ مناسب ہے اور اگر مسلسل اعتکاف کرنے کی نذر مانی یا اس کی نیت کی (اور اعتکاف کیا) تو بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا جیسے وہ کسی کی عیادت کے لئے یا گواہی کے لئے یا جنازہ کے لئے یا کسی سے ملاقات کے لئے یا تازہ وضو کرنے کے لئے نکلے (جبکہ پہلے سے با وضو ہو)۔

اگر قضائے حاجت کے لئے نکلا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اسے چاہئے کہ گھر میں وضو کرے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور چلتے چلتے ہی بیمار پرسی بھی فرمالتے تھے۔“ (۲)

جماع کرنے سے اعتکاف کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے مگر بوسہ لینے سے نہیں ٹوٹتا اور مسجد میں خوشبو لگانے، عقد نکاح کرنے، کھانے (پینے) سونے اور طشت میں ہاتھ دھونے میں کوئی حرج نہیں، مسلسل اعتکاف میں ان سب کاموں کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض بدن کو مسجد سے باہر نکالنے سے اعتکاف کا تسلسل نہیں ٹوٹتا کہ حضور انور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور حجرہ مبارکہ کی طرف جھکا دیتے تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ میں کھڑی کھڑی ہی موئے مبارک میں گنگھی کر دیتیں۔ (۳)

جب معتکف قضائے حاجت سے لوٹے تو اسے دوبارہ اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے اور اگر پہلے ہی دس دن کی نیت کر چکا ہے تب بھی نئی نیت کرنا افضل ہے۔

۱..... اعتکاف کے احکام جاننے اور تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1173 تا 1280 کا مطالعہ کیجئے۔ علمیہ

۲..... صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض..... الخ، الحديث: ۲۹، ص ۱۷۰، باختصار۔

سنن ابی داود، کتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، الحديث: ۲۴، ج ۲، ص ۴۹۲، باختصار۔

۳..... صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض..... الخ، الحديث: ۲۹، ص ۱۷۰۔

## دوسری فصل: روزے کے اسرار اور اس کی باطنی شرائط

جان لیجئے کہ روزے کے تین درجے ہیں: (۱)..... عوام کا روزہ (۲)..... خواص کا روزہ اور (۳)..... اخص  
الخواص کا روزہ۔

### تفصیل:

**عام لوگوں:** کا روزہ یہ ہے کہ بدن اور شرمگاہ کو خواہش پوری کرنے سے روکنا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔  
**خاص لوگوں:** کا روزہ (کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ) کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام  
اعضاء کو گناہوں سے روکنا ہے۔

**خاص الخاص لوگوں:** کا روزہ دل کو برے خیالات اور دنیوی فکروں بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر چیز سے مکمل طور  
پر خالی کرنا ہے۔ اس صورت میں جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اور قیامت کے سوا کوئی دوسری فکریا دنیوی فکر آئے گی تو روزہ ٹوٹ  
جائے گا۔ البتہ اگر دنیوی فکر دین کے لئے ہو تو اس کا حکم مختلف ہے کیونکہ یہ زیاد آخرت سے ہے نہ کہ دنیا سے۔ بعض  
اہل دل حضرات کا قول ہے کہ ”جو شخص دن کے وقت یہ بات سوچے کہ کس چیز سے افطار کروں گا تو اس پر خطا لکھ دی  
جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل اور اس کے رزق موعود (یعنی اس نے رزق دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس) پر کامل یقین  
نہ ہونے کی دلیل ہے۔“

یہ (آخری درجہ) انبیاء، صدیقین اور مقربین عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا رتبہ ہے اس کی تفصیل میں زیادہ کلام نہیں کیا  
جائے گا لیکن اس کی عملی تحقیق بیان کی جائے گی کیونکہ یہ روزہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف لو لگانے اور مکمل طور پر غیر اللہ سے  
کنارہ کش ہونے سے حاصل ہوتا ہے جبکہ بندہ اس ارشاد باری تعالیٰ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے:

قُلِ اللّٰهُ لَا شَرَّكَ لَهُ فِي حَوْضِهِمْ  
تَرْجَمَةُ كَنْزِ الْاِيْمَانِ: اللّٰهُ كَبُوْهُرٍ اَنْبِيَاً جَهُوْذِ دَوَانِ كِي بِيهُوْدِ كِي  
مِيْنِ كِهِيْتَا۔ (پ، الانعام: ۹۱)

خاص لوگوں کا روزہ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کا روزہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ یہ  
روزہ چھ باتوں سے مکمل ہوتا ہے:

﴿۱﴾..... آنکھ کا روزہ: ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا جو بری اور مکروہ ہیں اور نظر کو ہر اس چیز سے بچانا جو دل کو (دنیاوی کاموں میں) مشغول کر کے ذکر الہی سے غافل کر دے۔ چنانچہ، سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نظر ابلیس ملعون کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے خوف کے سبب بدنگاہی کو ترک کر دیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔“ (۱)

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب، مَنَّانِ الْعِیُوبِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”پانچ چیزیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں: (۱)..... جھوٹ (۲)..... غیبت (۳)..... چغلی (۴)..... جھوٹی قسم اور (۵)..... شہوت سے دیکھنا (۲)۔“ (۳)

﴿۲﴾..... زبان کا روزہ: زبان کو بیہودہ گفتگو کرنے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، ظلم، لڑائی، ریاکاری اور خاموشی اختیار کرنے سے بچا کر ذکر الہی اور تلاوتِ قرآن میں مشغول رکھنا۔

حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَافِی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے نقل فرمایا کہ ”غیبت روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔“

حضرت سیدنا لیث رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِد سے نقل فرماتے ہیں کہ ”دو خصلتیں غیبت اور جھوٹ روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔“

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک روزہ ڈھال ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ جہالت کی اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑایا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔“ (۴)

①..... المعجم الكبير، الحديث ۱۰۳۶۲، ج ۱۰، ص ۱۷۳، بتغیر۔

②..... ان امور سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ چنانچہ، فیضانِ سنت جلد اول صفحہ ۱۰۵۷ پر ہے: ”جھوٹ، چغلی، غیبت، بدنگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی منڈانا وغیرہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہیت آتی اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔“

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۸۹۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب فضل الصوم، الحديث ۱۸۹۴، ج ۱، ص ۶۲۴، دون قوله: اذا كان احدكم قائما۔



## حکایت: انسانی گوشت خوردہ دار:

حدیث پاک میں ہے کہ زمانہ رسالت میں دو عورتوں نے روزہ رکھانے کے اختتام پر انہیں بھوک اور پیاس نے تنگ کیا قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتیں، چنانچہ، انہوں نے کسی کو بارگاہ رسالت میں بھیج کر روزہ افطار کی اجازت طلب کی تو حضور پر نور، شافع یوم النشور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا: ”ان دونوں سے کہو کہ تم نے جو کھایا ہے اس کی پیالے میں قے کرو۔“ چنانچہ، ایک نے تازہ خون اور گوشت کی قے کی اور دوسری نے بھی اس جیسی قے کی حتیٰ کہ دونوں نے پیالہ بھر دیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کردہ چیز سے افطار کیا، یوں کہ دونوں میں سے ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور دونوں لوگوں کی غیبت کرنے لگیں تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے (غیبت کی صورت میں) کھایا۔“ (۱)

﴿3﴾ ..... **کانوں کاروزہ:** یہ ہے کہ انہیں ہر بری بات سننے سے روکنا کیونکہ جس بات کا کرنا حرام ہے اس کی طرف توجہ دینا بھی حرام ہے۔ اسی لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے غور سے سننے والے اور مالِ حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ط  
ترجمہ کنز الایمان: بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور۔  
(۶، المائدہ: ۴۲)

اور ارشاد فرمایا:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّ لَيَبْنَونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ط  
ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔  
(۶، المائدہ: ۶۳)

لہذا غیبت پر خاموشی اختیار کرنا حرام ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّكُمْ إِذَا مَشَّيْتُمْ ط  
ترجمہ کنز الایمان: ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔  
(۵، النساء: ۱۴۰)

①..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، حدیث عبید مولی النبی، الحدیث: ۲۳۷، ج ۹، ص ۱۶۵، مفہومًا۔

اسی لئے آقائے دو جہاں، محبوبِ رحمن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”غیبت کرنے والا اور سننے والوں گناہ میں (برابر کے) شریک ہیں۔“ (۱)

## حرام زہر جبکہ حلال دوا ہے:

﴿4﴾..... بقیہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا: ہاتھ پاؤں کا روزہ: گناہوں اور ناپسندیدہ امور سے بچنا۔ پیٹ کا روزہ: افطار کے وقت اسے شہات سے بچانا۔ کیونکہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں حلال کھانے سے رکا جائے پھر حرام پر افطار کر لیا جائے۔ ایسے روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محل بناتا ہے اور شہر کو گرا دیتا ہے، کیونکہ حلال کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان دیتا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ نیز روزے کا مقصد کھانے میں کمی کرنا ہے۔ زیادہ دوا کو اس کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر زہر کھانے والا بے وقوف ہے۔ حرام دین کو ہلاک کرنے والا زہر جبکہ حلال دوا ہے جس کا قلیل نفع کا باعث اور کثیر نقصان دہ ہے اور روزے کا مقصد اس حلال غذا کو کم کرنا ہے۔ چنانچہ، حضور نبی اکرم، نورِ جسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“ (۲)

## شرح حدیث:

اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں: (۱)..... اس سے مراد وہ ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے (۲)..... اس سے مراد وہ ہے جو حلال کھانے سے تو رکتا ہے لیکن غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے کیونکہ غیبت حرام ہے (۳)..... اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتا۔

﴿5﴾..... افطار کے وقت پیٹ بھر کر حلال کھانے سے بچنا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک اس پیٹ سے بُرا برتن کوئی نہیں جو حلال سے بھر جائے۔ روزے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن (شیطان) پر غلبہ پانے اور شہوت کو توڑنے کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا جبکہ روزہ دار دن کے وقت ہونے والی کمی کو افطار کے وقت پورا کر لے۔ بعض اوقات بندے کے پاس

①..... المقاصد الحسنیۃ، حرف المیم، الحدیث: ۱۰۳، ص ۳۹۵۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی الغیبۃ والرث للصائم، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۳۲۰، مفہومًا۔

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۲۱۳، ج ۱۲، ص ۲۹۲، مفہومًا۔

انواع واقسام کے کھانے جمع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اب تو یہ عادت بن چکی ہے کہ رمضان کے لئے کھانے جمع کئے جاتے ہیں اور اس مہینے میں وہ کھانے کھائے جاتے ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں کھائے جاتے حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ روزے کا مقصد پیٹ کو خالی رکھنا اور خواہشات کو توڑنا ہے تاکہ نفس تقویٰ پر قوت حاصل کر لے۔ لیکن جب صبح سے شام تک معدے کو کنٹرول کئے رکھا یہاں تک کہ خواہش نے جوش مارا اور رغبت مضبوط ہوگئی پھر اسے لذیذ کھانے دے کر سیر کیا گیا تو اس کی لذت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کی قوت دُگنی ہوگئی اور وہ خواہشات اُبھریں جو عادتاً پیدا نہیں ہوتیں۔

### روزے کی روح اور راز:

روزے کی روح اور راز ان قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو برائیوں کی طرف لوٹانے میں شیطان کا ذریعہ ہیں اور یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے یوں کہ وہ اتنا کھانا کھائے جتنا روزہ دار نہ ہونے کی صورت میں ہر رات کھاتا ہے۔ اگر اس نے صبح سے شام تک کا کھانا کھایا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ روزے کے آداب میں سے ہے کہ وہ دن کو زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور اعضاء کی کمزوری محسوس ہو، دل اسی صورت میں صاف ہوگا پھر ہر رات اسی قدر کمزوری پیدا ہوگی تو اس پر تہجد اور دیگر اوراد و وظائف پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ پس ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل پر چکر نہ لگائے اور وہ ملکوت کی بادشاہی دیکھ لے اور لیلۃ القدر اسی رات کو کہتے ہیں جس میں ملکوت کی کوئی چیز منکشف (ظاہر) کی جاتی ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ (پ ۳۰، القدر: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اُتارا۔

سے یہی مراد ہے۔ لہذا جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان کھانے کا پردہ حائل کر دے وہ اس (یعنی عالم ملکوت کے مشاہدہ) سے پردے میں رہتا ہے اور جس نے اپنے معدے کو خالی رکھا تو محض یہ بات بھی پردہ اٹھنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ وہ اپنی سوچ غیر خدا سے ہٹانے لے۔ مقصد حقیقی یہی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف ہی لوگی رہے اور ان تمام معاملات کی ابتدا کم کھانا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ”کھانے کے بیان“ میں آئے گی۔

﴿6﴾..... افطار کے بعد روزے دار کا دل امید و خوف کے درمیان معلق و متردد رہے: کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر لیا گیا اور وہ مقررین میں سے ہے یا رد کر دیا گیا اور دُھنکارے ہوؤں میں سے ہے؟ نیز ہر عبادت

کے بعد اس کی دلی کیفیت یہی ہو۔

## مقابلے کا میدان:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیِّ عید کے دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، انہیں ہنستے دیکھ کر فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ماہِ رمضان کو اپنی مخلوق کے لئے مقابلے کا میدان بنایا اور وہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں مقابلہ کرتے ہیں، کچھ لوگ سبقت لے گئے اور کامیاب ہو گئے جبکہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ہو گئے۔ پس اس دن کھیلنے اور ہنسنے والے پر انتہائی تعجب ہے جس میں سبقت لے جانے والے کامیاب اور ناکام ہونے والے خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو بھلائی کرنے والا اپنی بھلائی میں اور برائی کرنے والا اپنی برائی میں مشغول ہوگا یعنی مقبول کی خوشی اسے کھیل کود سے بے پرواہ کر دے گی اور مردود کا افسوس اس پر ہنسی کا دروازہ بند کر دے گا۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا حنف بن قیس رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ سے عرض کی گئی: ”آپ عمر رسیدہ بزرگ ہیں اور روزے آپ کو کمزور کر دیں گے۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے فرمایا: ”میں اسے ایک لمبے سفر کا سامان بناتا ہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔“ یہ روزے کے باطنی امور ہیں۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کہیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے رکنے پر اکتفا کرے اور ذکر کردہ باطنی امور کو چھوڑ دے اس کا روزہ صحیح ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ جان لیجئے کہ ظاہری فقہا ظاہری شرائط کو ایسے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں جو ان دلائل سے کمزور ہوتے ہیں جو ہم نے ان باطنی شرائط میں بیان کئے ہیں خصوصاً غیبت اور اس کی مثل دوسری چیزیں۔

## روزے کا مقصد:

فقہائے ظاہر وہی پابندیاں بیان کرتے ہیں جو عام غافل اور دنیا کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کے لئے آسان ہوں لیکن علمائے آخرت روزے کی صحت سے قبولیت مراد لیتے ہیں اور قبولیت سے مراد مقصود تک رسائی ہے

اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق سے متصف ہونا ہے اور وہ بے نیازی ہے۔ نیز اس کا ایک مقصد شہوات سے بچ کر فرشتوں کی پیروی کرنا ہے کیونکہ وہ شہوات سے پاک ہیں۔ نیز انسان کا مرتبہ جانوروں کے رتبہ سے بلند ہے کیونکہ انسان نورِ عقل کے ذریعے شہوات کو ختم کر سکتا ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے (عام) انسانوں کا رتبہ کم ہے کیونکہ ان پر شہوات غالب ہیں اور انہیں مجاہدے میں مبتلا کیا گیا ہے۔ لہذا جب وہ شہوات میں منہمک ہوتا ہے تو سب سے نچلے درجے میں گرتا ہے اور جانوروں کے درجے میں چلا جاتا ہے اور جب شہوات کا خاتمہ ہوتا ہے تو اعلیٰ علیین میں چلا جاتا اور عالم ملکوت سے جا ملتا ہے اور فرشتے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقرب ہیں اور جو شخص فرشتوں کی اقتدا کرتا اور ان کے اخلاق سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مقرب بن جاتا ہے کیونکہ قریب کی مشابہت اختیار کرنے والا بھی قریب ہوتا ہے اور وہاں مکان کا قرب نہیں بلکہ صفات کا قرب ہوتا ہے۔

جب اہل عقل اور اہل دل حضرات کے نزدیک روزے کا مقصد اور راز یہ ہے تو ایک کھانے کو مؤخر کر کے دنوں کو شام کے وقت اکٹھا کرنے نیز دن بھر شہوات میں منہمک رہنے کا کیا فائدہ؟ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو پھر حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کا کیا مطلب ہوگا کہ ”کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“<sup>(۱)</sup>

## پہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل و راجح:

حضرت سیدنا ابوذر عَضِی اللہ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: ”عقل مند شخص کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا ہے وہ بے وقوف کے روزے اور بیداری کو کیسے برانہ جانے؟ البتہ یقین اور تقویٰ والوں کا ذرہ (بھر بھلائی) دھوکے میں مبتلا لوگوں کی پہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل اور راجح ہے۔“

اسی لئے بعض علمائے فرمایا: کتنے ہی روزہ دار، بے روزہ اور کتنے ہی بے روزہ، روزہ دار ہوتے ہیں۔ روزہ نہ رکھنے کے باوجود روزہ دار وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے اگرچہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود بے روزہ وہ شخص ہے جو بھوکا پیاسا رہتا اور اپنے اعضاء کو (گناہوں کی) کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی الغیبة والرفث للصائم، الحدیث: ۱۶۹، ج ۲، ص ۳۲۰، مفہوماً۔

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۲۱۳، ج ۱۲، ص ۲۹۲، مفہوماً۔

## گناہوں میں ملوث رہنے والے روزہ دار کی مثال:

روزے کا مفہوم اور اس کی حکمت سمجھنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کھانے (پینے) اور جماع سے توڑکا رہے لیکن گناہوں میں ملوث ہونے کے باعث روزہ توڑ دے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو وضو میں اپنے کسی عضو پر تین بار مسح کرے اس نے ظاہر میں تعداد کو پورا کیا لیکن مقصود یعنی اعضاء کو دھونا ترک کر دیا تو جہالت کے سبب اس کی نماز اس پر لوٹا دی جائے گی۔ جو کھانے کے ذریعے روزہ دار نہیں لیکن اعضاء کو ناپسندیدہ افعال سے روکنے کے سبب روزہ دار ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے اعضاء کو ایک ایک بار دھوتا ہے اس کی نماز ان شاء اللہ عزوجل قبول ہوگی کیونکہ اس نے اصل کو پختہ کیا اگرچہ زائد کو چھوڑ دیا اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہر عضو کو تین تین بار دھوتا ہے اس نے اصل اور زائد دونوں کو جمع کیا اور یہی کمال ہے۔

مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک روزہ امانت ہے تو تم اپنی امانت کی حفاظت کرو۔“

## اعضاء بھی امانت ہیں:

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (پ: ۵، النساء: ۵۸)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔

اور اپنا ہاتھ کان اور آنکھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا: ”سماعت و بصارت بھی امانت ہے۔“ (۱)

اور اگر یہ روزے کی امانتوں میں سے نہ ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہ فرماتے کہ ”وہ یوں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔“ (۲) یعنی زبان میرے پاس امانت ہے تاکہ میں اس کی حفاظت کروں۔ لہذا تمہیں جواب دینے کے لئے اسے کیسے کھلا چھوڑ دوں۔

اب یہ بات واضح ہوگئی کہ ہر عبادت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، چھلکا بھی ہے اور مغز بھی۔ اس کے چھلکوں

①..... قوت القلوب، الفصل الثانی والعشرون، الصیام وترتیبہ..... الخ، ج، ص ۱۳۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب حفظ اللسان للصائم، الحدیث: ۱۱۵، ص ۵۷۹۔

کے کئی درجات اور ہر درجے کے کئی طبقات ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم مغز چھوڑ کر چھلکے پر قناعت کرو یا عقل مندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔

## تیسری فصل: نفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب

جان لیجئے کہ فضیلت والے دنوں میں روزوں کا مستحب ہونا مؤکد ہے اور فضیلت والے دنوں میں بعض سال میں ایک بار، بعض ہر مہینے میں اور بعض ہر ہفتے میں پائے جاتے ہیں۔

### تفصیل:

﴿1﴾..... سال میں ایک بار آنے والے افضل ایام: سال میں رمضان المبارک کے بعد عرفہ (نویں ذوالحجہ) کا دن<sup>(۱)</sup>، دسویں محرم کا دن، ذوالحجہ کے ابتدائی نو دن، محرم الحرام کے ابتدائی دس دن اور عزت والے مہینے (ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور رجب) روزوں کے لئے عمدہ مہینے اور یہ فضیلت والے اوقات ہیں۔ نیز مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ گمان ہوتا کہ یہ ماہ رمضان ہے۔“<sup>(۲)</sup>

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔“<sup>(۳)</sup>

کیونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لہذا اسے نیکی میں گزارنا زیادہ پسندیدہ اور دائمی برکت کی امید ہے۔

## ایک روزہ 30 روزوں سے افضل:

مکی مدنی سلطان، رحمت عالمیان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”حرمت والے مہینے کا ایک روزہ

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1405 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہُ نقل فرماتے ہیں:

”حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے، اسے عرفہ (یعنی ذوالحجۃ الحرام) کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کہ حضرت سیدنا ان خزیمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے راوی (یعنی روایت فرماتے ہیں) کہ حضور پر نور، شافع یوم النشور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عرفہ کے دن (یعنی ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو) عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔“

(صحیح ابن خزیمہ، ج ۳، ص ۲۹۲ الحدیث: ۲۱۰)

②..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم شعبان، الحدیث: ۱۹۶۹-۱۹۷۰، ج ۱، ص ۶۳۸، دون بعض الالفاظ۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث: ۱۱۶۳، ص ۵۹۔

دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کا ایک روزہ حرمت والے مہینے کے 30 روزوں سے افضل ہے۔“ (۱)

## 900 سال کی عبادت کا ثواب:

ایک روایت میں ہے کہ ”جو آدمی حرمت والے مہینے میں تین دنوں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کے لئے ہر دن کے بدلے 900 سال کی عبادت (کا ثواب) لکھتا ہے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”نصف شعبان کے بعد رمضان المبارک تک کوئی روزہ نہیں۔“ (۳)

اس لئے مستحب ہے کہ رمضان المبارک سے چند دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے۔ اگر شعبان کو (روزوں کے ذریعے) رمضان کے ساتھ ملا دیا تو بھی جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا (۴) اور کئی بار دونوں کو جدا جدا رکھا (۵) (یعنی شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا چھوڑ دیا)۔ نیز استقبالِ رمضان کے لئے دو یا تین دن پہلے کے روزے رکھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی کے معمول کے موافق ہوں تو رکھ سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پورا ماہِ رجب المرجب روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیا تا کہ ماہِ رمضان سے مشابہت نہ ہو جائے۔

## فضیلت و حرمت والے مہینے:

فضیلت والے مہینے چار ہیں: (۱)..... ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ (۲)..... مُحَرَّمُ الْحَرَامِ (۳)..... رَجَبُ الْمَرْجَبِ اور (۴)..... شَعْبَانُ الْمُعَظَّمِ اور حرمت والے مہینے بھی چار ہیں: (۱)..... ذُو الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ (۲)..... ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ (۳)..... مُحَرَّمُ الْحَرَامِ اور (۴)..... رَجَبُ الْمَرْجَبِ۔ ایک (یعنی رَجَبُ الْمَرْجَبِ) الگ اور باقی تین لگاتار ہیں۔ ان میں سے افضل ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ ہے کیونکہ اس میں حج اور وہ ایام ہیں جنہیں ایام معلومہ اور معدودہ کہا گیا

①..... قوت القلوب، الفصل الثانی والعشرون..... الخ، ج، ص ۱۳۴۔

②..... المعجم الاوسط، الحدیث ۱۷۸۹، ج ۱، ص ۲۸۵، بلفظ عبادۃ سنتین۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب ماجاء فی النهی ان یتقدم..... الخ، الحدیث: ۱۶۵، ج ۲، ص ۳۰۲۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب فیمن یصل شعبان برضوان، الحدیث: ۲۳۳، ج ۲، ص ۴۳۸۔

⑤..... سنن ابی داؤد، کتاب الصوم، باب من قال: فان غم علیکم..... الخ، الحدیث: ۲۳۲، ج ۲، ص ۴۳۵۔



ہے۔ ذُو الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ حُرْمَتِ وَالے اور حج کے مہینوں میں سے ہے، شَوَّالُ الْمُكَرَّمِ حج کے مہینوں میں سے ہے لیکن حُرْمَتِ وَالے مہینوں میں سے نہیں جبکہ مُحَرَّمُ الْحَرَامِ اور رَجَبُ الْمَرْجَبِ (حُرْمَتِ وَالے مہینوں میں سے تو ہیں لیکن حج کے مہینوں میں سے نہیں۔

## راہِ خدا میں جہاد سے افضل عمل:

حدیثِ پاک میں ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے نزدیک ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَامِ کے دس دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک اعمال کرنا زیادہ افضل اور پسندیدہ ہوں، اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔“ عرض کی گئی: ”کیا راہِ خدا میں جہاد بھی نہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! راہِ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر جو شخص اپنے گھوڑے کو زخمی کرے اور اس کا خون بہائے (یعنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے)۔“<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... ہر مہینے میں آنے والے افضل ایام: جو دن مہینے میں بار بار آتے ہیں وہ مہینے کے اوّل، درمیان اور آخر ہے اور درمیان میں ایامِ بیض یعنی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ ہے۔

﴿3﴾..... ہر ہفتے میں آنے والے افضل ایام: ہفتے میں بار بار آنے والے دن پیر، جمعرات اور جمعہ ہے۔ یہ فضیلت والے ایام ہیں ان میں روزے رکھنا اور بکثرت خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے اس کا اجر دگنا ہو۔

## کچھ صوم دہر کے بارے میں:

جہاں تک صومِ دہر (یعنی عمر بھر کے روزے) کا تعلق ہے تو وہ ان تمام اور مزید کچھ دنوں کو شامل ہے۔ مگر سائلین کی اس بارے میں کئی آراء ہیں۔ بعض نے اسے مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ روایات اس کی کراہت پر دلالت کرتی ہیں۔<sup>(۲)</sup> لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دو باتوں کی وجہ سے مکروہ ہے: (۱)..... عیدین اور ایامِ تشریق میں بھی روزہ نہ چھوڑا جائے اور یہ

①..... سنن الترمذی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی العمل فی ایام العشر، الحدیث ۷۵۸، ۷۵۹، ج ۲، ص ۱۹۱، ۱۹۲، مفہوماً۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر لمن تضر بہ..... الخ، الحدیث ۱۱۵۹، ص ۵۸۷۔

صحیح البخاری، کتاب الصیام، باب حق الاھل فی الصوم، الحدیث ۱۹۷۷، ج ۱، ص ۲۵۰۔

عمر بھر کا روزہ ہے۔ (۲)..... افطار کے معاملے میں سنت کو چھوڑ کر خود پر روزہ لازم کر لینا حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ رخصت کو بھی پسند فرماتا ہے جیسا کہ وہ عزیمت کو پسند فرماتا ہے۔ (۱) لہذا جب ان دونوں میں سے کوئی بات نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھنے کے معاملے میں نفس کی اصلاح کا پہلو نمایاں ہو تو صوم دہر کے روزے رکھنا جائز ہے کہ صحابہ کرام و تابعین عظام رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ کے ایک گروہ نے ایسا کیا ہے۔

نیز حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو عمر بھر روزہ رکھے اس پر جہنم تنگ کر دی جائے گی اور اپنے ہاتھ سے توڑے کا عدد بنایا۔“ (۲) اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے جہنم میں کوئی جگہ نہیں رہتی (یعنی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا)۔ اس سے کم ایک اور درجہ ہے اور وہ نصف دھر کا روزہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے اور یہ نفس پر زیادہ شدید اور اسے مغلوب کرنے میں زیادہ قوی ہے۔ نیز اس کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں کیونکہ اس میں بندہ ایک دن روزہ رکھتا اور دوسرے دن شکر ادا کرتا ہے۔

## سب سے افضل روزے:

سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر دنیا اور زمین کے خزانوں کی کھنیاں پیش کی گئیں لیکن میں نے واپس کر دیں اور کہا: ”(اے اللہ عَزَّوَجَلَّ!) میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا جب سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیری تعریف کروں گا اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا۔“ (۳)

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 868 صفحات پر مشتمل کتاب ”اصلاح اعمال“ جلد اول، صفحہ 687 اور 688 پر ہے: رخصت کا لغوی معنی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے بندے کو کسی کام میں دی گئی سہولت و آسانی۔ شرعی و اصطلاحی معنی: عذر والوں (یعنی معذوران شرعی) پر مہربانی اور انہیں وسعت دینے کے لئے حکم کو اصل سے تخفیف و سہولت کی طرف پھیر دینے کا نام رخصت ہے۔ اور صفحہ 695 پر ہے: عزیمت کا لغوی معنی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے واجب کردہ احکام میں سے ایک واجب حکم۔ شرعی و اصطلاحی معنی: وہ چیز جو شریعت میں ابتداء ہی سے بندوں کے اعذار پر مبنی نہ ہو اور اس میں فرض، واجب، سنت، نفل، حرام، مکروہ اور مباح سب شامل ہیں۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، الحدیث: ۱۹۷۳، ج ۷، ص ۱۶۸، بتغییر۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثانی والعشرون: الصیام و ترتیبہ..... الخ، ج ۱، ص ۱۳۳۔

ایک روایت میں ہے کہ ”سب سے افضل روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔“ (۱)

اس کی تاکید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (بارگاہ رسالت میں) عرض کی: ”میں اس (یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار) سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔“ تو مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔“ عرض کی: ”میں اس سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں۔“ ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔“ (۲)

مروی ہے کہ ”حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہ رکھے۔“ (۳) بلکہ غیر رمضان میں روزہ چھوڑ بھی دیتے۔

جو نصف دہر کے روزوں پر قادر نہ ہو تو تہائی حصے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑ دے اور جب مہینے کی ابتدا، درمیان اور اختتام پر تین روزے رکھے تو یہ بھی تہائی ہے اور یہ فضیلت کے اوقات میں واقع ہوں گے اور پیر جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے تو یہ بھی تہائی کے قریب ہے۔ جب فضیلت کے اوقات ظاہر ہو گئے تو کمال یہ ہے کہ انسان روزے کا معنی سمجھے اور یہ کہ اس کا مقصود دل کو پاک کرنا اور اپنی تمام تر فکر کو اللہ عزوجل کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ باطن کی باریکیوں کو جاننے والا شخص اپنے احوال کو دیکھتا ہے کبھی اس کا حال ہمیشہ روزہ رکھنے کا تقاضا کرتا ہے اور کبھی ہمیشہ افطار کا اور کبھی روزے اور افطار دونوں کو ملانے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب وہ (لفظ صوم سے حاصل ہونے والا) معنی سمجھ گیا اور دل کی نگرانی کے ذریعے طریق آخرت پر چلنے میں اس کی کوشش ثابت ہو گئی تو اس پر اپنے دل کی اصلاح پوشیدہ نہیں رہے گی اور یہ چیز ہمیشہ کی ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی۔

اسی لئے مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ کہا جاتا اب روزہ نہیں چھوڑیں گے اور روزے رکھنا ترک فرمادیتے یہاں تک کہ کہا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں گے

①..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر لمن تضربه..... الخ، الحدیث ۱۱۵۹، ص ۵۸۸۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر لمن تضربه..... الخ، الحدیث ۱۱۵۹، ص ۵۸۲۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان..... الخ، الحدیث ۱۱۵۴، ص ۵۸۳۔

اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آرا م فرماتے یہاں تک کہ کہا جاتا اب (نفل نماز کے لئے) قیام نہیں کریں گے اور قیام فرماتے یہاں تک کہ کہا جاتا اب آرا م نہیں فرمائیں گے۔“ (۱)

اور یہ سب کچھ اس کے مطابق ہوتا جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لئے اوقات کے حقوق کے سلسلے میں نور نبوت سے منکشف ہوتا۔ (اہل باطن) علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے یوم عید اور ایام تشریق کا اندازہ لگاتے ہوئے چار دن سے زیادہ مسلسل روزہ نہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے اس بنا پر کہ یہ دل کو سخت کرتا، گھٹیا عادات کو جنم دیتا اور خواہشات کے دروازے کھولتا ہے۔ میری زندگی کی قسم! یہ اکثر لوگوں کے حق میں اسی طرح ہے خصوصاً وہ لوگ جو رات اور دن میں دو مرتبہ کھاتے ہیں۔ ذکر کردہ کلام وہ ہے جو ہم نے نفلی روزے کی ترتیب کے سلسلے میں ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

## دُعا:

روزے کے اسرار کا بیان پایہ تکمیل کو پہنچا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے اس کی تمام خوبیوں پر جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اس کی تمام نعمتوں پر جو ہم جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ کے آل و اصحابِ رِضْوَانُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن اور زمین و آسمان کے ہر برگزیدہ بندے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کا نزول اور سلام و کرم کی برسات ہو۔



﴿.....تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ اسْتَغْفِرِ اللّٰہُ.....﴾

﴿.....صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ.....﴾

①.....صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم.....السخ الحديث ۱۱۵۴، ص ۵۸۳، باختصار۔

## حج کا بیان

سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے کلمہ توحید کو اپنے بندوں کے لئے پناہ گاہ اور قلعہ بنایا، اپنے قابل تکریم گھر کعبۃ اللہ المشرفہ کو لوگوں کے لوٹنے اور امن کی جگہ بنایا، خاص کرتے اور احسان کرتے ہوئے اسے اپنی طرف منسوب کر کے شرف بخشا، اس کی زیارت و طواف کو بندے اور عذاب کے درمیان پردہ و ڈھال بنایا، والی امت، حضور نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو حق کی طرف لانے والے اور مخلوق کے سردار ہیں رحمت اور خوب سلام ہو۔

حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ یہ عمر بھر کی عبادت، انجام کار، اسلام کی تکمیل اور دین کا کمال ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“ (پ ۶، المائدہ: ۳) ترجمہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔“ نیز حضور سید دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص (باوجود فرض ہونے کے) حج کئے بغیر مر جائے تو چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر۔“ (۱)

وہ عبادت کس قدر عظمت والی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے دین کا کمال ختم ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑنے والا گمراہی میں یہود و نصاریٰ کی طرح ہے۔ پس جب یہ اس قدر اہم عبادت ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس کی تشریح، ارکان کی تفصیل، سنن و آداب اور فضائل و اسرار کو بیان کیا جائے اور یہ تمام باتیں توفیق الہی سے تین ابواب میں واضح ہو جائیں گی۔ پہلے باب میں حج، مکہ مکرمہ زَادَهَا اللہُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا کے فضائل، ارکان اور وجوب کی شرائط کا بیان ہے۔ دوسرے باب میں سفر کی ابتدا سے لوٹنے تک بالترتیب ظاہری اعمال کا بیان ہے۔ تیسرے باب میں آداب کی باریکیوں، خفیہ اسرار اور باطنی اعمال کا بیان ہے۔



①..... سنن الترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء من التغلیظ فی ترک الحج، الحدیث: ۸، ج ۲، ص ۲۱۹، مفہومًا۔

## فضائل حج کا بیان

باب نمبر ۱:

(اس میں دو فضیلتیں ہیں)

پہلی فصل: حج، بیت اللہ، مکہ و مدینہ کے فضائل اور مساجد کی  
جانب سفر کرنے کا بیان

حج کی فضیلت:

اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى  
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَبِيبٍ ﴿٢٧﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ  
تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دہلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی  
راہ سے آتی ہیں۔ (پ ۱، الحج: ۲)

حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ  
الصَّلوة والسلام کو لوگوں میں حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو آپ عَلَيْهِ الصَّلوة والسلام نے ندائی: ”اے لوگو! بے شک  
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک گھر بنایا ہے پس تم اس کا حج کرو۔“

اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (پ ۱، الحج: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: تاکہ وہ اپنا فائدہ  
پائیں۔ منقول ہے کہ اس سے مراد موسم حج کی تجارت اور آخرت کا اجر ہے۔

بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا: ”رب کعبہ کی قسم! ان کی بخشش ہو گئی۔“

قرآن کریم میں ہے:

لَا تُعَدُّنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾  
ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی  
تاک میں بیٹھوں گا۔ (پ ۸، الاعراف: ۱۶)

اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مکہ کا راستہ ہے۔ شیطان اس پر بیٹھتا ہے تاکہ  
لوگوں کو اس سے روکے۔

## فضائل حج پر مشتمل ۱۱ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... جس نے حج کیا اور رفث (نخس کلام) اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔<sup>(۱)</sup>

﴿۲﴾..... شیطان جس طرح یوم عرفہ میں ذلیل، حقیر، دُھتکارا ہوا اور غضب ناک ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ نزولِ رحمت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿۳﴾..... منقول ہے کہ ”کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف وقوفِ عرفہ سے معاف ہوتے ہیں۔“<sup>(۳)</sup> اس روایت کو حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الصَّمَدِ نے رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی طرف منسوب کیا ہے۔

## ایک بزرگ اور شیطان کا مکالمہ:

ایک مقرب بارگاہِ الہی کا بیان ہے کہ ابلیس ملعون میدانِ عرفات میں اس کے سامنے انسانی صورت میں اس حالت میں ظاہر ہوا کہ دُبلاتلا، رنگ زرد، گریاں چشم اور پیٹھ ٹوٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا: ”تجھے کس چیز نے رُلا یا؟“ کہا: ”حاجیوں کے بغیر نیت تجارت اس (یعنی بیت اللہ شریف) کی طرف نکلنے نے۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قصد کیا اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں رُسوا نہیں کرے گا اور یہ بات مجھے غمزہ کر دیتی ہے۔“ انہوں نے پوچھا: ”تیرا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟“ کہا: ”راہِ خدا میں گھوڑوں کے ہنہانے کی وجہ سے، حالانکہ مجھے یہ بات زیادہ محبوب تھی کہ یہ میری راہ پر ہوتے۔“ پوچھا: تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے۔“ اس نے کہا: ”اطاعت پر لوگوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے، اگر نافرمانی پر باہم تعاون کرتے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہوتا۔“ پوچھا: ”تیری پیٹھ کیوں ٹوٹی ہوئی؟“ کہا: ”اس لئے کہ بندہ کہتا ہے: (اے اللہ عَزَّوَجَلَّ!) میں تجھ سے اچھے خاتمہ کا سوال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں: ہائے میری ہلاکت! یہ کب اپنے عمل پر خود پسندی میں مبتلا ہوگا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے یہ بات

①..... صحیح البخاری، کتاب المحصر، باب قول اللہ: ولا فسوق..... الخ، الحدیث: ۱۸۲، ج ۱، ص ۶۰۰،

خرج من ”ذنوبہ“ بدله ”رجع“۔

②..... الموطا للامام مالک، کتاب الحج، باب جامع الحج، الحدیث: ۹۸، ج ۱، ص ۳۸۶-۳۸۷۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۹۔

معلوم نہ ہو جائے (کہ اپنے عمل پر اترا نا نہیں چاہئے بلکہ رحمت الہی کی امید رکھنی چاہئے)۔“

﴿4﴾..... ”جو حج یا عمرہ کے لئے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لئے حج و عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا اور جس کا حرمین شریفین میں سے کسی جگہ انتقال ہوا تو اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ اس کا حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا: تو جنت میں داخل ہو جا۔“ (۱)

﴿5﴾..... ”حج مقبول دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور حج مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔“ (۲)

﴿6﴾..... ”حج و عمرہ کرنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا وفد اور اس کی زیارت کرنے والے ہیں، اگر وہ اس سے سوال کریں تو وہ عطا فرماتا، اگر معافی چاہیں تو معاف فرماتا ہے، اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر شفاعت کریں تو شفاعت قبول ہوتی ہے۔“ (۳)

﴿7﴾..... ”لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو عرفہ میں کھڑا ہو اور یہ گمان کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔“ (۴)

﴿8﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بیت اللہ شریف پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لئے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لئے اور 20 زیارت کرنے والوں کے لئے ہیں۔“ (۵)

﴿9﴾..... ”بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو کیونکہ یہ ان میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے جنہیں تم

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک، فضل الحج والعمرة، الحدیث: ۲۰۹-۲۱۰، ج ۳، ص ۴۷۴، باختصار۔

②..... سنن النسائی، کتاب مناسک الحج، باب فضل الحج المبرور، الحدیث: ۲۶۱، ص ۴۳۲۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۹۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب فضل دعاء الحاج، الحدیث: ۲۸۹۲-۲۸۹۳، ج ۳، ص ۲۱۰-۲۱۱۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۹۔

④..... کشف الخفاء، حرف الهمزة مع العین المهملة، الحدیث: ۴۲، ج ۱، ص ۱۳۱۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۹۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک، فضیلة الحجر الاسود..... الخ، الحدیث: ۴۰۵، ج ۳، ص ۴۵۵،

دون قوله ”ینزل علی هذا البیت“۔



بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے اور یہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ قابل رشک ہوگا۔“ (۱) اسی لئے حج و عمرہ کے علاوہ طواف مستحب ہے۔

﴿10﴾..... ”جس نے ننگے پاؤں اور ننگے سر طواف کے سات چکر لگائے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور جس نے بارش میں طواف کے سات چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (۲)

منقول ہے کہ ”جب اللہ عَزَّوَجَلَّ عرفات میں کسی بندے کے گناہ بخشا ہے تو وہاں پہنچنے والے ہر شخص کے گناہ بھی بخش دیتا ہے۔“

### دو عیدیں:

بعض بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْمُبِینُ فرماتے ہیں: ”عرفہ (یعنی نویں ذوالحجہ) کا دن جمعہ کو آجائے تو تمام اہل عرفہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں سب سے افضل دن ہوتا ہے۔ اسی دن حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حجة الوداع ادا فرمایا اور میدان عرفات ہی میں تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ  
ترجمہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دیناً پسند کیا۔ (پ ۶، المائدۃ: ۳)

اہل کتاب نے کہا: ”اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ دو عیدوں یعنی یوم عرفہ اور جمعہ کے دن حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل ہوئی اور آپ عرفہ میں وقوف فرماتے تھے۔“ (۳)

﴿11﴾..... ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! حج کرنے والے کو بخش دے اور جس کے لئے حاجی بخشش کی دعا کرے اسے بھی

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۸۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۱۹۸، دون ”اسبوعاً“۔

③..... صحیح مسلم، کتاب التفسیر، الحدیث ۳۰۱، ص ۱۶۰۸-۱۶۰۹، مفہوماً۔

قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۲۰۰۔

بخش دے۔“ (۱)

## حکایت: جنت میں داخلے کی بشارت:

منقول ہے کہ حضرت سیدنا علی بن موفی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی طرف سے کئی حج کئے۔ فرماتے ہیں: ”میں خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہوا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے ابن موفی! تو نے میری طرف سے حج کئے؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں!“ ارشاد فرمایا: ”تو نے میری طرف سے تلبیہ کہا۔“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں!“ ارشاد فرمایا: ”میں قیامت کے دن تجھے ان کا بدلہ دوں گا اور موقوف (یعنی محشر) میں تیرا ہاتھ تھام کر تجھے جنت میں داخل کروں گا جبکہ لوگ ابھی حساب کی سختی میں ہوں گے۔“

## فضائل حج پر مشتمل اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا مجاہد عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِدِ اور دیگر علمائے کرام رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اونٹ پر سوار حاجیوں کو سلام، دراز گوش (گدھے) پر سوار حاجیوں سے مصافحہ کرتے اور پیدل چلنے والوں سے گلے ملتے ہیں۔“

﴿2﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”جو رمضان کے بعد یا غزوہ کے بعد یا حج کے بعد مراوہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔“

﴿3﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے اور حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لئے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

اسلاف کرام رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَامُ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ مجاہدین کو رخصت کرتے اور حاجیوں کا استقبال کرتے، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے اور انہیں دعا کے لئے کہتے اور یہ کام سلف صالحین ان کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے پہلے کرتے۔

1..... المستدرک، کتاب المناسک، باب وفد اللہ ثلاثہ..... الخ، الحدیث: ۱۶، ج ۲، ص ۸۴۔

## چھ کے صدقے چھ لاکھ کا حج قبول:

حضرت سیدنا علی بن موفیق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: میں نے ایک سال حج کیا جب عرفہ کی رات آئی تو میں مسجد خیف میں منیٰ کے مقام پر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ سبز حلوں میں ملبوس دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو پکارا: اے عبد اللہ! دوسرے نے کہا: ”میں حاضر ہوں، اے عبد اللہ!“ اس نے پوچھا: ”کیا تم جانتے ہو کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟“ کہا: ”میں نہیں جانتا۔“ اس نے کہا: ”چھ لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟“ کہا: ”نہیں۔“ کہا: ”صرف چھ آدمیوں کا۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: پھر وہ دونوں ہوا میں بلند ہو گئے اور مجھ سے غائب ہو گئے۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور بہت زیادہ غمگین ہوا اور مجھے میرے معاملے نے پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا: جب فقط چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا تو میں چھ آدمیوں میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ جب میں عرفات سے واپس آیا تو مشعر حرام کے پاس کھڑا حاجیوں کی کثرت اور ان لوگوں کی قلت کے متعلق سوچنے لگا جن کا حج قبول ہوا، مجھے نیند نے آیا تو دیکھا کہ پہلے دو کی صورت پر دو شخص آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو پکارا اور اسی طرح کا کلام کیا پھر پوچھا: ”کیا تم جانتے ہو کہ آج رات ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ نے کیا حکم فرمایا؟“ اس نے کہا: ”نہیں۔“ کہا: ”بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چھ میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ دے دیئے۔“ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”میں بیدار ہوا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔“

## حکایت: خواب میں دیدار الہی:

انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں: ایک سال میں نے حج کیا جب مناسک حج ادا کر چکا تو ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا جن کا حج قبول نہ ہوا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اپنا حج اور اس کا ثواب ان لوگوں کو دیا جن کا حج قبول نہیں ہوا۔“ فرماتے ہیں: میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے علی! کیا مجھ پر سخاوت کرتا ہے حالانکہ سخاوت اور سخیوں کو میں نے ہی پیدا فرمایا، میں ہی سب سے بڑھ کر جو دو کرم کرنے والا اور میں ہی تمام جہان والوں سے زیادہ جو دو کرم کا حق رکھتا ہوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کا حج قبول نہیں ہوا ان کے حوالے کر دیا ہے جن کا حج قبول ہوا (یعنی مقبولوں کے صدقے ان کا بھی قبول ہو گیا)۔“

## بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کے فضائل:

حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل نے اس گھر سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ آدمی اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرمادے گا اور کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا اور اس کا حج کرنے والے تمام لوگ اس کے پردوں سے لٹکے ہوں گے، وہ اس کے گرد چکر لگائیں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔“ (۱)

حدیث پاک میں ہے کہ ”بے شک حجرِ اسود جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اسے بروز قیامت یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے یہ کلام کرے گا اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔“ (۲)

مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسود کو بہت زیادہ بوسے دیا کرتے تھے۔“ (۳)

ایک روایت میں ہے کہ ”آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود پر پیشانی رکھی۔“ (۴) اور آپ سواری پر طواف فرماتے ہوئے اپنے عصا مبارک کا مڑا ہوا کنارہ اس پر رکھ دیتے پھر اس کنارے کو بوسہ دیتے۔ (۵)

## حجرِ اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسہ دے کر فرمایا: ”بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے

- ①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۲۰۱۔
- ②..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب استلام الحجر، الحدیث: ۲۹۴، ج ۳، ص ۲۳۳، بتغییر۔
- ③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۲۰۱۔
- ④..... سنن النسائی، کتاب مناسک الحج، باب کیف یقبل، الحدیث: ۲۹۴، ص ۴۷۸، عن عمر رضی اللہ عنہ۔
- ⑤..... قوت القلوب الفصل الثالث، والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۲۰۱۔
- ⑥..... قوت القلوب الفصل الثالث، والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج، ص ۲۰۱۔
- ⑦..... المستدرک، کتاب المناسک، باب استلام الحجر وتقبیله..... الخ، الحدیث: ۱۷۴، ج ۲، ص ۱۰۶۔
- ⑧..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب جواز الطواف علی بعیر..... الخ، الحدیث: ۱۲۷۱-۱۲۷۵، ص ۶۶۳۔

بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔“ پھر آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی آواز بلند ہوگئی۔ پھر اپنے پیچھے کی جانب متوجہ ہوئے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو دیکھ کر فرمایا: ”اے ابوالحسن! یہاں پر آنسو بہائے جاتے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے کہا: ”اے امیر المؤمنین! بلکہ یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔“ پوچھا: ”وہ کیسے؟“ کہا: ”بے شک اللہ عزوجل نے جب بندوں سے عہد لیا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی، پس یہ مومن کے حق میں ایفائے عہد کی اور کافر کے خلاف اس کے انکار کی گواہی دے گا۔“ (۱)

### حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کی دعا:

منقول ہے کہ اسے بوسہ دیتے ہوئے لوگوں کے مذکور کلمات پڑھنے کا یہی معنی ہے: ”اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ لِعَنِي اے اللہ عزوجل! میں تجھ پر ایمان لاتے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے (اسے بوسہ دیتا ہوں)۔“

### ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر:

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے کہ ”مکہ مکرمہ زادنا اللہ شرفاً وتَعْظِيْمًا میں ایک دن کا روزہ ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے۔ ایک درہم صدقہ کرنا ایک لاکھ درہم کے برابر ہے۔ اسی طرح ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے۔“

منقول ہے کہ ”سات مرتبہ طواف کرنا ایک عمرہ کے برابر ہے اور تین عمرے ایک حج کے برابر ہیں۔“

### ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔“ (۲)

①.....المستدرک، کتاب المناسک، باب الحجر الاسود یمین اللہ..... الخ، الحدیث: ۱۴۴، ج ۲، ص ۱۰۹-۱۱۰، باختصار۔

②.....صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل العمرة فی رمضان، الحدیث: ۱۲۵، ص ۶۵۷۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں پہلا وہ شخص ہوں جس سے زمین کھولی جائے گی، پھر میں بقیع والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع کئے جائیں گے، پھر اہل مکہ کی طرف آؤں گا تو دونوں حرموں کے درمیان میرا حشر ہوگا۔“ (۱)

حدیث پاک میں ہے کہ ”جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مناسک حج (یعنی حج کے ارکان و افعال) ادا کر لئے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے عرض کی: اے آدم! آپ کا حج مقبول ہوا، ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر کا حج کیا۔“ (۲)

### طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی بخشش:

ایک روایت میں ہے کہ ”بے شک اللہ عزوجل ہر رات اہل زمین کی طرف نظر فرماتا ہے، سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر فرماتا ہے اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو جسے طواف میں مشغول پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، جسے نماز پڑھتے دیکھتا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور جسے کعبہ کی طرف منہ کئے ہوئے کھڑا دیکھتا ہے اسے بھی بخش دیتا ہے۔“ (۳)

ایک ولی فرماتے ہیں مجھے کشف ہوا: ”میں نے دیکھا کہ تمام وادیوں کے کشادہ مقامات، عبادان (۴) کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور عبادان کو دیکھا کہ وہ جدہ کی جانب جھکا ہوا ہے۔“

### کعبہ اور قرآن اٹھائے جانے کا وقت:

منقول ہے کہ ”جب تک ابدال (۵) میں سے کوئی شخص بیت اللہ کا طواف نہ کر لے اس دن کا سورج غروب نہیں

①..... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الحدیث: ۳۷۱، ج ۵، ص ۳۸۸۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۲۰۱-۲۰۲۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۲۰۲۔

④..... بصرہ کے قریب بحر فارس کے کنار مشرقی جانب ایک شہر ہے جو جانب جنوب جھکا ہوا ہے۔ (اتحاف السادة المتقين، ج ۴، ص ۴۷۲)

⑤..... (اولیا کی اقسام میں سے چوتھا مرتبہ) ابدال کا ہے: یہ ہر دور میں سات ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ عزوجل سات زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے یہ ساتوں بالترتیب ان سات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں: (۱)..... حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ (۲)..... حضرت سیدنا موسیٰ.....

ہوتا اور جب تک اوتاد (۱) میں سے کوئی طواف نہ کر لے فجر طلوع نہیں ہوتی۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو یہ بیت اللہ کے زمین سے اٹھنے کا سبب ہوگا۔ لوگ صبح کریں گے تو کعبہ اٹھالیا گیا ہوگا حتیٰ کہ اس کا نشان تک بھی باقی نہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب اس پر سات سال یوں گزر جائیں گے کہ کوئی شخص اس کا حج نہ کرے گا۔ پھر مصحف میں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا لوگ صبح کریں گے تو کاغذ سفید چمکتے ہوں گے ان پر حروف نہ ہوں گے۔ پھر قرآن پاک دلوں سے اٹھالیا جائے گا حتیٰ کہ اس کا ایک کلمہ بھی یاد نہ رہے گا۔ پھر لوگ اشعار، گانوں اور زمانہ جاہلیت کی باتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ پھر دجال نکلے گا اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نزول ہوگا، آپ دجال کو قتل کریں گے اور اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ حاملہ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے۔“

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”اس گھر کا طواف کثرت سے کرو قبل اس کے کہ اسے اٹھالیا جائے، یہ دو مرتبہ گرایا گیا اور تیسری مرتبہ اٹھالیا جائے گا۔“ (۲)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”جب میں دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کروں گا تو اپنے گھر سے ابتدا کروں گا اس کے بعد دنیا کو ختم کروں گا۔“ (۳)

## مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنا کیسا؟

خائفین اور محتاط علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے تین وجہ سے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنے کو مکروہ (ناپسند) جانا:

..... کلیم اللہ (۳)..... حضرت سیدنا ہارون (۴)..... حضرت سیدنا ادریس (۵)..... حضرت سیدنا یوسف (۶)..... حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور (۷)..... حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.....

①..... (اولیاء میں تیسرا مرتبہ) **اوتاد** کا ہے: یہ ہر دور میں صرف چار ہی ہوتے ہیں۔ اللہ عزوجل ان چاروں کے ذریعے چاروں جہات یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان میں ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے۔ ان کے صفاتی نام یہ ہیں: عبدالحی، عبدالعظیم، عبدالقادر اور عبدالمرید۔ (جامع کرامات اولیاء، ج ۱، ص ۶۹، مطبوعہ: مرکز اہل سنت برکات رضا)

②..... صحیح ابن خزیمہ، کتاب المناسک، باب الامر بتعجیل الحج خوف..... الخ، الحدیث: ۲۵، ج ۲، ص ۱۲۹۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۲۰۴۔

کشف الخفاء، حرف الهمزة مع الذال المعجمة، الحدیث: ۱۹۴، ج ۱، ص ۷۰، دون ”علی اثرہ“۔

﴿1﴾..... اُکتا جانے اور بیت اللہ سے انس پیدا ہونے کا خوف: کیونکہ یہ چیز بعض اوقات احترام کے سلسلے میں دل کی حرارت کو مٹا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حج کے بعد حاجیوں کو مارتے اور فرماتے: ”اے اہل یمن! یمن کو جاؤ۔ اے اہل شام! شام کو جاؤ اور اے اہل عراق! عراق کو جاؤ۔“ نیز آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لوگوں کو کثرت طواف سے منع کیا اور فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف سے مانوس نہ ہو جائیں (کیونکہ کسی چیز سے انسیت کے سبب اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے)۔“

﴿2﴾..... جدائی کی وجہ سے دوبارہ آنے کا شوق پیدا ہوتا ہے: کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بیت اللہ شریف کو مرجع اور امان بنا یا یعنی وہ اس کی طرف بار بار لوٹیں اور اس سے ان کی خواہش پوری نہ ہو۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں: ”تم کسی بھی شہر میں ہو لیکن تمہارا دل مکہ کا مشتاق ہو اور اس گھر سے لگا ہوا ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم مکہ میں ہو اور اس سے اُکتا جاؤ اور تمہارا دل کسی اور شہر کا مشتاق ہو۔“

بعض بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام فرماتے ہیں: ”کتنے ہی لوگ خراسان میں ہیں لیکن طواف کرنے والوں سے زیادہ بیت اللہ کے قریب ہیں۔“

منقول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ قرب الہی کے حصول کے لئے کعبۃ اللہ المشرفہ ان کا طواف کرتا ہے۔“

﴿3﴾..... رہائش اختیار کرنے میں کہیں گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب نہ ہو جائے: اس لئے خطرہ ہے کہ کہیں اس مقام کے شرف و بزرگی کی بے حرمتی کے سبب غضب الہی کا شکار نہ ہو جائے۔

حضرت سیدنا وہیب بن ورد کی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَكِي فرماتے ہیں: میں ایک رات حطیم میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان سے یہ کلام سنا: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے، پھر اے جبرئیل تم سے شکایت کرتا ہوں کہ میرا طواف کرنے والے دنیوی باتوں میں غور و فکر کرتے اور لغو و فضول باتیں کرتے ہیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو میں ایسی حرکت کروں گا کہ میرا ہر پتھر اس پہاڑ کی طرف چلا جائے گا جس سے وہ جدا کیا گیا تھا۔“

**حرم میں ارادہ گناہ پر بھی مواخذہ ہے:**

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”مکہ کے علاوہ کسی شہر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ گناہ کرنے سے



پہلے محض نیت پر مؤاخذہ نہیں فرماتا، پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۵﴾ (پ ۱، الحد: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

یعنی محض ارادہ کرنے پر یہ سزا ملے گی۔“

منقول ہے کہ ”نیکوں کی طرح یہاں گناہوں کی سزا بھی دگنی ہو جاتی ہے۔“ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”حرم مکہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا بے دینی ہے۔“ منقول ہے کہ ”حرم مکہ میں جھوٹ بولنا بھی بے دینی ہے۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”مجھے رکیہ (۱) میں 70 گناہ کرنا مکہ میں ایک گناہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“

اس (یعنی بے حرمتی کے) خوف کے سبب مکہ مکرمہ میں رہنے والے بعض حضرات حرم شریف میں قضائے حاجت نہ کرتے بلکہ قضائے حاجت کے وقت حدود حرم سے باہر نکل جاتے۔ بعض حضرات نے وہاں ایک مہینہ قیام کیا لیکن زمین پر اپنا پہلو نہ لگایا۔ مکہ میں رہنے کی ممانعت کے سبب بعض علمائے وہاں کے مکانات کے کرایہ کو ناپسند جانا ہے۔

## ازالہ وہم:

(اے سننے والے!) تجھے یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ وہاں ٹھہرنے کی کراہت اس مقام کی فضیلت کو کم کر دے گی کیونکہ کراہت کی وجہ مخلوق کی کمزوری اور اس مقام کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ہے۔ لہذا ہمارے اس قول کہ ”وہاں نہ ٹھہرنا افضل ہے“ کا معنی یہ ہے کہ اس مقام سے اکتانے اور اس کی تعظیم میں کوتاہی کی صورت میں ایسا ہے ورنہ اس مقام کا حق ادا کرنے کی صورت میں کہیں اور ٹھہرنا کیسے افضل ہو سکتا ہے اور مکہ شریف کیسے افضل نہ ہوگا جبکہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”يَقِينًا تَوَّالِلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كِيْ بَهْتَرِيْنَ زَمِيْنِ هِيَ اَوْرُ مَجْهِيْ اَسْ كَيْ تَمَامِ شَهْرُوْنَ سَيَّ زِيَادَهْ مَجْبُوْبْ هِيَ۔ اَكْرُ مَجْهِيْ يِهَا مِنْ سَيَّ نَكْلُنِيْ پْر مَجْبُوْرِنِ“

①..... رکیہ: مکہ و طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ (از مصنف)

کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔“<sup>(۱)</sup> اور ایسا کیونکر نہ ہو جبکہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نیز اس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

### مدینہ منورہ کی افضلیت:

مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً سے افضل کوئی زمین نہیں، اس میں بھی نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔

### ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر:

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری اس مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔“<sup>(۲)</sup> اسی طرح مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً میں کیا جانے والا ہر عمل ایک ہزار کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس کا مرتبہ ہے۔ اس میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مسجدوں کی پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور اسی طرح تمام اعمال ہیں۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مسجد نبوی میں ایک نماز 10 ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ بیت المقدس میں ایک نماز ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔“<sup>(۳)</sup>

### شفاعت کی بشارت:

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مدینہ منورہ کی سختی اور اس کی شدت پر صبر کیا بروز قیامت میں اس کا شفیق ہوں گا۔“<sup>(۴)</sup>

①..... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل مکة، الحدیث: ۳۹۵، ج ۵، ص ۴۸۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدی مکة والمدینة، الحدیث: ۱۳۹، ص ۲۰۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۳، ص ۲۰۴۔

الترغیب والترہیب، کتاب النوافل، الترغیب فی قیام اللیل، الحدیث: ۹۴، ج ۱، ص ۲۹۲، مفہوماً۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة..... الخ، الحدیث: ۱۳۴، ص ۷۱۶، بتقدم و تاخر۔

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔“ (۱)

ان تین مقامات مقدسہ کے بعد اسلامی سرحدوں کے علاوہ تمام مقامات برابر ہیں کیونکہ اسلامی سرحد پر دشمن کی نگرانی کے لئے قیام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لئے حضور سید دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تین مسجدوں کے سوا کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں: مسجد حرام، میری یہ مسجد (یعنی مسجد نبوی) اور مسجد اقصیٰ (۲)۔“ (۳)

## زیارت قبور کے لئے سفر کرنے کا حکم:

بعض اہل علم نے اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے متبرک مقامات اور علما و اولیا کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کرنے سے منع کیا ہے لیکن مجھ (یعنی امام غزالی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي) پر جو بات ظاہر ہوئی ہے یہ کہ زیارت قبور کے لئے سفر کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب

①..... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل المدینة، الحدیث: ۳۹۴، ج ۵، ص ۴۸۳، مفہوماً۔

②..... مُفَسِّرٌ شَهِيرٌ حَكِيمٌ الْأَمْتِ حَضْرَتِ مَفْتِي أَحْمَدِ يَارْخَانَ عَلَيهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاقَةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 1، ص 431 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: وہابی حضرات نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ سوائے ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر ہی حرام ہے۔ لہذا عرس زیارت قبور وغیرہ کے لئے سفر حرام اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت، علاج، دوستوں کی ملاقات، علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لئے سفر حرام ہوں گے اور ریلوے کا محکمہ معطل ہو کر رہ جائے گا اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہی ہوگی اور دیگر احادیث کے بھی۔ رب (عَزَّ وَجَلَّ) فرماتا ہے: قُلْ سَيُرَوِّفِي الْأَرْضَ ضَمًّا أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ ③ (پ: الانعام: ۱۱، ترجمہ کنز الایمان: تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا)۔ (صاحب) مرقاۃ نے اسی جگہ اور شامی نے زیارت قبور میں فرمایا کہ چونکہ ان تین مساجد کے سوائے تمام مسجدیں برابر ہیں اس لئے اور مسجدوں کی طرف سفر ممنوع ہے اور اولیاء اللہ کی قبریں فیوض و برکات میں مختلف ہیں، لہذا زیارت قبور کے لئے سفر جائز، کیا یہ جہلاء انبیاء کرام کے قبور کی طرف سفر بھی منع کریں گے؟

③..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد، الحدیث: ۱۳۹، ص ۷۲، بتقدم و تاخیر۔

زیارت کیا کرو (۱) لیکن نامناسب کلام نہ کرو۔“ (۲)

## مزارات اولیا کی زیارت کا حکم:

ما قبل حدیث مساجد کے متعلق مروی ہے اور مقامات مقدسہ کا حکم ایسا نہیں کیونکہ تین مساجد کے علاوہ دیگر مساجد برابر ہیں اور کوئی شہر ایسا نہیں جس میں مسجد نہ ہو لہذا کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ رہا

①..... مُفَسِّرُ شَہِیرِ حَکِیمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیحِ، ج 2، ص 522 پر ”زیارت قبور سے منع کیا تھا“ کے تحت فرماتے ہیں: شروع اسلام میں زیارت قبور مسلمان مردوں عورتوں کو منع تھی کیونکہ لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے اندیشہ تھا کہ بت پرستی کے عادی ہونے کی وجہ سے اب قبر پرستی شروع کر دیں جب ان میں اسلام راسخ ہو گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی، جیسے جب شراب حرام ہوئی تو شراب کے برتن استعمال کرنا بھی ممنوع ہو گیا تاکہ لوگ برتن دیکھ کر پھر شراب یاد نہ کر لیں، جب لوگ ترک شراب کے عادی ہو گئے تو برتنوں کے استعمال کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔ ”اب زیارت کیا کرو“ کے تحت فرماتے ہیں: یہ امر استجابی ہے حق یہ ہے کہ اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ انہیں بھی زیارت قبور کی اجازت دی گئی (لمعات، اشعہ، مرقاۃ) لیکن اب عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے یعنی گھر سے زیارت قبور کے لئے نہ نکلیں سوائے روضہ اطہر حضور انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی قبر منور کی زیارت کے، ہاں اگر کہیں جاری ہوں اور راستہ میں قبر واقع ہو تو زیارت کر لیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) نے حضرت عبدالرحمن (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) کی قبر کی زیارت کی، اور اگر کسی گھر میں ہی اتفاقاً قبر واقع ہو تو زیارت کر سکتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) کے گھر میں حضور انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کی قبر شریف تھی جہاں آپ مجاورہ و منظمہ تھیں۔ خیال رہے کہ زُورُواً مطلق امر ہے لہذا مسلمانوں کو زیارت قبر کے لیے سفر بھی جائز ہے، جب ہسپتالوں اور حکیموں کے پاس سفر کر کے جاسکتے ہیں تو مزارات اولیاء پر بھی سفر کر کے جاسکتے ہیں کہ ان کی قبور روحانی ہسپتال ہیں، نیز اگر کہیں قبر پر لوگ ناجائز حرکتیں کرتے ہوں تو اس سے زیارت قبور نہ چھوڑے، ہو سکے تو ان حرکتوں کو بند کرے کیونکہ زُورُواً مطلق ہے، دیکھو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے ہجرت سے پہلے بتوں کی وجہ سے کعبہ نہ چھوڑا بلکہ جب موقع ملا تو بت نکال دیئے آج بھی نکاح میں لوگ ناجائز حرکتیں کرتے ہیں مگر اس کی وجہ سے نہ نکاح بند کیے جاتے ہیں نہ وہاں کی شرکت، نکاح بھی سنت مطلقہ ہے اور زیارت قبور بھی سنت مطلقہ، نکاح و زیارت قبور دونوں کے لیے سفر بھی درست ہے اور ناجائز امور کی وجہ سے ان میں شرکت ممنوع نہیں، یہ دونوں مسائل شامی نے جلد اول باب زیارت قبور میں بہت تفصیل سے بیان فرمائے۔

**نوٹ:** مزید تفصیل جاننے کے لئے اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ کا رسالہ ”جَمَلُ النَّوْرِ فِي نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ“ (نور کے جملے، عورتوں کو زیارت قبور سے روکنے کے بارے میں) فتاویٰ رضویہ، ج 9، ص 541 تا 567 کا مطالعہ کیجئے۔

②.....المستدرک، کتاب الجنائز، باب زیارة النبهلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، الحدیث: ۱۴۳۳، ج ۱، ص ۷۱۱۔

مقامات مقدسہ کا معاملہ تو وہ ایک جیسے نہیں بلکہ ان کی زیارت کی برکت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک ان کے درجات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں مسجد نہ ہو تو اس کے لئے ایسی جگہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے جہاں مسجد ہو اور اگر چاہے تو مکمل طور پر وہیں منتقل ہو جائے۔ کاش میں جان لیتا کہ کیا یہ منکر انبیائے کرام مثلاً حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وغیرہ کی قبور کی زیارت سے بھی منع کرے گا اور اس سے منع کرنا تو بہت محال ہے۔ جب انبیائے کرام عَلَیْہم الصلوٰۃ والسلام کے مزارات کی زیارت جائز ہے تو اولیا، علما اور صلحا کے مزارات کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ بات بعید نہیں کہ سفر سے مزارات اولیا پر حاضری مقصود ہو جیسے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی حیات میں ان کی زیارت کے لئے سفر کا قصد کیا جاتا ہے۔

یہاں تک تو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کے متعلق بحث تھی۔ جہاں تک اقامت اختیار کرنے کا تعلق ہے تو مرید کے لئے بہتر یہ ہے کہ جب سفر سے مقصود علم کا حصول نہ ہو تو اپنے وطن میں ہی سکونت اختیار کرے جبکہ وہاں رہنے میں سلامتی ہو اور اگر وہاں سلامتی نہ ہو تو ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، اس کا دین زیادہ محفوظ ہو، اس کا دل فارغ ہو اور عبادت کے لئے آسانی ہو تو ایسی جگہ اس کے لئے سب سے افضل ہے۔ چنانچہ، حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تمام شہر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہیں اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں۔ پس تم جہاں آسانی پاؤ وہیں ٹھہر جاؤ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر کرو۔“<sup>(۱)</sup>

حدیث پاک میں ہے کہ ”جسے کسی چیز میں برکت دی گئی تو اسے چاہئے کہ اسے لازم پکڑے اور جس کا ذریعہ معاش کسی چیز میں رکھا گیا ہو تو وہ اس سے دوسری چیز کی طرف منتقل نہ ہو جب تک کہ ذریعہ معاش نہ بدل جائے۔“<sup>(۲)</sup>

## حکایت: حفاظت دین کی فکر:

حضرت سیدنا ابو نعیم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِیٰ توشہ دان کندھے پر رکھے اور پانی کا کوزہ ہاتھ میں لئے دیکھا گویا کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ، میں نے پوچھا: ”اے ابو عبد اللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟“ فرمایا: ”ایسے شہر کا جہاں تھیلی کو دراہم سے بھریں۔“ ایک روایت میں ہے،

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الزبير بن العوام، الحديث: ۱۲۴، ج ۱، ص ۳۵۰، مفہومًا۔

②.....سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب اذقسم للرجل رزق.....الخ، الحديث: ۲۱۴۸-۲۱۴۹، ج ۳، ص ۱۰۱، مفہومًا۔

فرمایا: ”مجھے خبر پہنچی ہے کہ فلاں گاؤں میں انانج بہت سستا ہے لہذا میں وہاں رہائش اختیار کروں گا۔“ حضرت سیدنا ابو نعیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: میں نے کہا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ بھی ایسا کریں گے؟“ فرمایا: ”ہاں! جب تم کسی شہر میں ارزانی دیکھو (یعنی وہاں مہنگائی نہ ہو) تو وہاں کا قصد کرو کیونکہ اس سے تمہارا دین محفوظ ہوگا اور فکریں کم ہوں گی۔“ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرمایا کرتے تھے: ”یہ برے لوگوں کا زمانہ ہے۔ اس میں گناہ رہنے والے بھی محفوظ نہیں تو مشہور لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یہ انتقال کا زمانہ ہے بندہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔“

### میں کہاں رہائش اختیار کروں؟

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر میں سکونت اختیار کروں؟“ عرض کی گئی: ”خراسان میں۔“ فرمایا: ”وہاں مختلف مذاہب اور فاسد خیالات (کے لوگ) ہیں۔“ عرض کی گئی: ”شام میں۔“ فرمایا: ”تمہاری طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا یعنی تمہاری شہرت ہوگی۔“ عرض کی گئی: ”عراق میں۔“ فرمایا: ”ظالموں کا ملک ہے۔“ عرض کی گئی: ”مکہ مکرمہ میں۔“ فرمایا: ”یہ عقل و جسم کو پکھلا دیتا ہے۔“

### تین وصیتیں:

ایک اجنبی شخص نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کی خدمت میں عرض کی: ”میرا مکہ مکرمہ زادہا اللہ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں رہائش اختیار کرنے کا ارادہ ہے، مجھے نصیحت فرمائیے!“ فرمایا: ”میں تجھے تین نصیحتیں کرتا ہوں: (۱)..... پہلی صف میں نماز نہ پڑھنا (۲)..... کسی قرشی کی صحبت اختیار نہ کرنا (۳)..... صدقہ ظاہر نہ کرنا۔“ پہلی صف سے اس لئے منع فرمایا کیونکہ اس سے بندہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر جب غائب ہو تو مفقود سمجھا جاتا (یعنی تلاش کیا جاتا) ہے، یوں اس کے عمل میں دکھاوا اور بناوٹ آ جاتی ہے۔

{..... صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ.....}

دوسری فصل: **وجوب حج کی شرائط، ارکان کی درستی اور**

**واجبات و ممنوعات کا بیان<sup>(۱)</sup>**

**حج کی شرائط:**

حج صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں: (۱)..... وقت کا پایا جانا (۲)..... مسلمان ہونا۔ بچے کا حج صحیح ہے، اگر تمیز رکھتا ہو تو خود احرام باندھے اور اگر چھوٹا ہو تو ولی اس کی طرف سے احرام باندھے اور اس سے وہ تمام افعال کرائے جو حج میں کئے جاتے ہیں جیسے طواف وسعی وغیرہ۔

**حج کا وقت:**

شوال المکرم، ذوالقعدة الحرام، ذوالحجة الحرام کے نو دن اور یوم نحر (یعنی قربانی کے دن) کی فجر طلوع ہونے تک ہے۔ جس نے اس مدت کے علاوہ حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ کہلائے گا (۲) اور عمرہ کا وقت پورا سال ہے لیکن جو شخص منیٰ کے دنوں میں حج کے احکام کا پابند ہو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہئے کیونکہ وہ منیٰ کے افعال کی ادائیگی میں مشغولیت کے سبب اس کے بعد عمرے کے افعال ادا نہ کر سکے گا۔

**فرض حج ادا ہونے کی شرائط:**

حج اسلام ادا ہونے کی پانچ شرائط ہیں: (۱)..... اسلام (۲)..... آزادی (۳)..... بلوغ (۴)..... عقل اور (۵)..... وقت (۳)۔ اگر بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفہ یا مزدلفہ میں غلام آزاد ہو گیا اور بچہ بالغ ہو گیا اور

①..... فقہ حنفی کے مطابق ارکان حج و شرائط حج، واجبات و ممنوعات جاننے اور تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت، جلد اول، حصہ 6، صفحہ 1032 تا 1232 حج کے بیان کا مطالعہ کیجئے!

②..... احناف کے نزدیک حج کا وقت شوال سے دسویں ذی الحجہ تک ہے کہ اس سے پیشتر حج کے افعال نہیں ہو سکتے، سو احرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگرچہ کمزور ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۳۶)

③..... احناف کے نزدیک حج فرض ادا ہونے کے لئے نو شرطیں ہیں: (۱)..... اسلام (۲)..... مرتے وقت تک اسلام ہی پر رہنا (۳)..... عاقل (۴)..... بالغ ہونا (۵)..... آزاد ہونا (۶)..... اگر قادر ہو تو خود ادا کرنا (۷)..... نفل کی نیت نہ ہو (۸)..... دوسرے کی طرف سے حج کرنے کی نیت نہ ہو (۹)..... فاسد نہ کرنا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۴۷)

طلوع فجر سے پہلے عرفہ کی طرف لوٹ آیا تو ان دنوں کا حج اسلام ادا ہو جائے گا<sup>(۱)</sup> کیونکہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ البتہ، دنوں پر بطور دم ایک بکری لازم ہوگی۔ عمرہ ادا ہونے کی بھی یہی شرائط ہیں سوائے وقت کے۔

## حج نفل ادا ہونے کی شرائط:

آزاد بالغ شخص کے نفلی حج کے ادا ہونے کی شرائط درج ذیل ہیں: حج نفل حج اسلام سے بری الذمہ ہونے کے بعد ہوگا کیونکہ حج اسلام مقدم ہے۔ پھر اس حج کی قضا ہے جو وقوف (عرفہ) کی حالت میں فاسد کر دیا ہو۔ پھر نذر کا حج، پھر کسی کا نائب بن کر حج کرنا، پھر حج نفل ہے اور یہ ترتیب ضروری ہے۔ اسی طرح حج ادا ہوگا اگرچہ اس کے خلاف نیت کرے۔

## حج واجب ہونے کی شرائط:

حج واجب ہونے کی پانچ شرائط ہیں: (۱)..... بالغ ہونا (۲)..... مسلمان ہونا (۳)..... عاقل ہونا (۴)..... آزاد ہونا اور (۵)..... صاحب استطاعت ہونا (۶)۔ جس پر فرض حج لازم ہو اس پر فرض عمرہ بھی لازم ہے (۷)۔

جو زیارت یا تجارت کے لئے مکہ مکرمہ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں داخل ہو اور لکڑیاں بیچنے والا نہ ہو تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام باندھنا لازم ہے، پھر عمرہ یا حج کرنے کے بعد احرام کھول دے (۸)۔

①..... احناف کے نزدیک: نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پیشتر بالغ ہو گیا تو اگر اسی پہلے احرام پر رہ گیا حج نفل ہو جائے گا۔ البتہ، حج نفل ہو اور اگر سرے سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کیا تو حجۃ الاسلام ہو۔ غلام نے اپنے مولیٰ (آقا) کے ساتھ حج کیا تو یہ حج نفل ہو جائے گا۔ حج نفل ہو اور اگر سرے سے احرام باندھ کر حج کیا تو حجۃ الاسلام ادا ہوگا اور اگر مولیٰ کے ساتھ حج کو جاتا تھا، راستہ میں اس نے آزاد کر دیا تو اگر احرام سے پہلے آزاد ہوا، اب احرام باندھ کر حج کیا تو حجۃ الاسلام ادا ہوگی اور احرام باندھنے کے بعد آزاد ہوا تو حجۃ الاسلام نہ ہوگا، اگرچہ نیا احرام باندھ کر حج کیا ہو۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۳۸)

②..... احناف کے نزدیک: حج واجب ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں، جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں: (۱)..... اسلام (۲)..... دار الحرب (۳)..... بلوغ (۴)..... عاقل ہونا (۵)..... آزاد ہونا (۶)..... تندرست ہو (۷)..... سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو (۸)..... وقت۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۳۶ تا ۱۰۴۳) تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا مطالعہ کیجئے۔

③..... احناف کے نزدیک: زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ (الدر المختار و رد المحتار، ج ۳، ص ۵۴۵)

④..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ ۱۰۶۸ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں: (کسی کا) مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ نہ.....



## استطاعت کی اقسام:

استطاعت دو اعتبار سے ہوتی ہے:

﴿1﴾..... خود اعمال حج کا بجالانا: اس کے کئی اسباب ہیں، وہ یا تو اس کی ذات سے متعلق ہیں یعنی اس کا صحت مند ہونا یا راستے سے متعلق یعنی راستہ سہل اور پر امن ہو، سمندری اور خطرناک نہ ہو اور نہ ہی راستے میں ظالم دشمن موجود ہو۔ مال کے اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہو خواہ اس کے اہل و عیال ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ وطن کی جدائی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیز ان لوگوں کے اخراجات ادا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو جن کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لئے بھی مال موجود ہو۔ سواری یا اس کے کرائے پر قادر ہو۔ کجاوہ یا سواری ہو بشرطیکہ اس پر ٹھہر سکتا ہو۔

﴿2﴾..... جو خود اعمال حج ادا نہ کر سکتا ہو (یعنی اپنا حج ہو) اس کے اعتبار سے استطاعت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اجرت پر لے جو فرض حج سے فارغ ہو چکا ہو تاکہ اس کی طرف سے حج کرے اور اس قسم میں، جانے کے لئے سواری کے اخراجات کافی ہیں<sup>(۱)</sup>۔

..... ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ مثلاً جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جاسکتا ہے، لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ حیلہ کر سکتا ہے بشرطیکہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلاً جدہ جانے کا ہو۔ نیز مکہ معظمہ حج اور عمرہ کے ارادے سے نہ جاتا ہو، مثلاً تجارت کے لئے جدہ جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے اور اگر پہلے ہی سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو اب بغیر احرام نہیں جاسکتا۔ جو شخص دوسرے کی طرف سے حج بدل کو جاتا ہو اسے یہ حیلہ جائز نہیں۔

①..... احناف کے نزدیک: حج واجب ہونے کے لئے تندرست ہونا بھی ضروری جبکہ معذور اشخاص پر حج واجب نہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 1039 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ وَاجبات حج کی شرائط نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: تندرست ہو کہ حج کو جاسکے، اعضا سلامت ہوں، اٹھیار ہو، اپنا حج اور فاج والے اور جس کے پاؤں کٹے ہوں اور بوڑھے پر کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج فرض نہیں۔ یو ہیں اندھے پر بھی واجب نہیں اگرچہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اسے ملے۔ ان سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرادیں یا وصیت کر جائیں اور اگر تکلیف اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہو یعنی اس کے بعد اگر اعضا درست ہو گئے تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا وہی پہلا حج کافی ہے۔ اگر پہلے تندرست تھا اور دیگر شرائط بھی پائے جاتے تھے اور حج نہ کیا پھر اپنا حج وغیرہ ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے۔ خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔

اگر اپنا حج شخص کا بیٹا اس کی خدمت کے لئے تیار ہو جائے تو وہ استطاعت والا شمار ہوگا اور اگر بیٹا اپنا مال پیش کر دے تو اس صورت میں صاحب استطاعت شمار نہ ہوگا<sup>(۱)</sup> کیونکہ خود کو خدمت کے لئے پیش کرنا بیٹے کی عزت و سعادت مندی ہے جبکہ مال خرچ کرنا باپ پر احسان کرنا ہے۔ استطاعت کے ساتھ ساتھ جس میں تمام شرائط پائی جائیں اس پر حج لازم ہے، اگر چہ تاخیر جائز ہے مگر خطرہ ہے۔

### استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کا حکم:

اگر آخری عمر میں بھی حج کی سعادت مل گئی تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض ہونے کے بعد ادائیگی سے پہلے مر گیا تو حج چھوڑنے کی وجہ سے بارگاہ الہی میں گنہگار حاضر ہوگا۔ اس صورت میں اس کے ترکہ سے کیا جائے گا اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو جیسے تمام فرضوں کا معاملہ ہے۔

اگر ایک سال میں صاحب استطاعت ہو اور لوگوں کے ساتھ حج کے لئے نہ نکلا اور اسی سال لوگوں کے حج کرنے سے پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا۔ جس نے خوشحالی کے باوجود حج نہ کیا اور مر گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں نے عزم کیا ہے کہ حکام کو لکھوں کہ جو باوجود استطاعت حج نہیں کرتا اس پر جزیہ لازم کر دو۔“

منقول ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، حضرت سیدنا ابراہیم نخعی، حضرت سیدنا ماجد اور حضرت سیدنا طاووس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ فرماتے ہیں: ”اگر کسی دولت مند شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ واجب ہونے کے باوجود وہ حج کئے بغیر مر گیا تو ہم اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیں۔“

منقول ہے کہ ”ایک بزرگ کا خوشحال پڑوسی حج کئے بغیر مر گیا تو انہوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما فرمایا کرتے تھے: ”جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کئے اور حج کئے بغیر مر گیا وہ دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا سوال کرے گا پھر آپ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی:

①..... احناف کے نزدیک: کسی نے حج کے لئے مال ہبہ کیا تو قبول کرنا اس پر واجب نہیں۔ دینے والا اجنبی ہو یا ماں، باپ، اولاد وغیرہ مگر قبول کر لے گا تو حج واجب ہو جائے گا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب! مجھے واپس پھیر دیجئے،  
شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔

رَبِّ ارْجِعُونِ ۙ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُنَادِيَ  
تَرَكَتُ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۹۹)

اور اس کی تفسیر میں فرمایا: اس سے مراد حج ہے۔“

## حج کے ارکان:

ارکان کے جن کے بغیر حج درست نہیں ہوتا پانچ ہیں: (۱)..... احرام باندھنا (۲)..... طواف کرنا (۳)..... سعی کرنا (۴)..... عرفات میں ٹھہرنا اور (۵)..... سرمنڈانا (۱)۔ ایک قول کے مطابق سرمنڈوانا بھی ارکان حج میں شامل ہے (جبکہ ایک قول کے مطابق واجبات میں سے ہے)۔ عمرہ کے ارکان بھی یہی ہیں سوائے وقوف عرفہ کے۔

## حج کے واجبات:

واجبات حج کہ جن کے رہ جانے سے دم لازم آتا ہے (۲) چھ ہیں (۳): (۱)..... میقات سے احرام باندھنا پس

①..... احناف کے نزدیک: حج کے سات ارکان ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 1047 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں: حج میں یہ چیزیں فرض ہیں: (۱)..... احرام، کہ یہ شرط ہے۔ (۲)..... وقوف عرفہ یعنی نویں ذی الحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی صبح صادق سے پیشتر تک کسی وقت عرفات میں ٹھہرنا۔ (۳)..... طواف زیارت کا اکثر حصہ، یعنی چار پھیرے پچھلے دونوں چیزیں یعنی وقوف و طواف رکن ہیں۔ (۴)..... نیت۔ (۵)..... ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا پھر وقوف پھر طواف۔ (۶)..... ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا، یعنی وقوف اس وقت ہونا جو مذکور ہوا اس کے بعد طواف اس کا وقت وقوف کے بعد سے آخر عمر تک ہے۔ (۸)..... مکان یعنی وقوف زمین عرفات میں ہونا سوا بطن عنبرہ کے اور طواف کا مکان مسجد الحرام شریف ہے۔

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیق الحرمین صفحہ 228 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بولبال محمد الیاس عطّار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: دم: یعنی ایک کبرا (اس میں نر، مادہ، دنبہ، بھیڑ، نیزگائے یا اونٹ کا سا تو اں حصہ سب شامل ہیں)۔

③..... احناف کے نزدیک: حج کے 28 واجبات ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 1048 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں: حج کے واجبات یہ ہیں: (۱)..... میقات سے احرام باندھنا، یعنی میقات سے بغیر احرام نہ گزرنے اور اگر میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو جائز ہے۔ (۲)..... صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو سعی کہتے ہیں۔ (۳)..... سعی کو صفا سے شروع کرنا اور اگر مروہ سے شروع کی تو پہلا پھیرا شمار نہ کیا جائے، اُس کا اعادہ کرے۔ (۴)..... اگر عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، سعی کا طواف

جو میقات سے احرام باندھے بغیر گزر گیا تو اس پر بطور دم ایک بکری لازم ہے۔ (۲)..... جمرات کو کنکریاں مارنا۔ ایک قول کے مطابق اسے چھوڑنے پر بھی دم لازم ہوگا۔ (۳)..... غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ (۴، ۵)..... مزدلفہ و منیٰ میں رات گزارنا اور (۶)..... طواف وداع<sup>(۱)</sup>۔ مؤخر الذکر چار (واجبات) کو چھوڑنے پر ایک

معتد بہ کے بعد یعنی کم سے کم چار پھیروں کے بعد ہونا۔ (۵)..... دن میں وقوف کیا تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب ڈوب جائے خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا ہو یا بعد میں، غرض غروب تک وقوف میں مشغول رہے اور اگر رات میں وقوف کیا تو اس کے لیے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں مگر وہ اُس واجب کا تارک ہو کہ دن میں غروب تک وقوف کرتا۔ (۶)..... وقوف میں رات کا کچھ جز آجانا۔ (۷)..... عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا یعنی جب تک امام وہاں سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے، ہاں اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اُسے امام کے پہلے چلا جانا جائز ہے اور اگر بھیڑ وغیرہ کسی ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد ٹھہر گیا ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے۔ (۸)..... مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ (۹)..... مغرب و عشا کی نماز کا وقت عشا میں مزدلفہ میں آکر پڑھنا۔ (۱۰)..... تینوں جہروں پر دسویں، گیارہویں، بارہویں تینوں دن کنکریاں مارنا یعنی دسویں کو صرف جمرۃ العقبہ پر اور گیارہویں بارہویں کو تینوں پر رمی کرنا۔ (۱۱)..... جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا۔ (۱۲)..... ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا۔ (۱۳)..... سر موٹڈ انا یا بال کتر وانا۔ (۱۴)..... اور اُس کا ایام نحر اور (۱۵)..... حرم شریف میں ہونا اگر چہ منیٰ میں نہ ہو۔ (۱۶)..... قرآن اور تمتع والے کو قربانی کرنا اور (۱۷)..... اس قربانی کا حرم اور ایام نحر میں ہونا۔ (۱۸)..... طوافِ افاضہ کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا۔ عرفات سے واپسی کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اُس کا نام طوافِ افاضہ ہے اور اُسے طوافِ زیارت بھی کہتے ہیں۔ طوافِ زیارت کے اکثر حصہ سے جتنا زائد ہے یعنی تین پھیرے ایام نحر کے غیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ (۱۹)..... طوافِ حطیم کے باہر سے ہونا۔ (۲۰)..... وہنی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ طواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو۔ (۲۱)..... عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، یہاں تک کہ اگر گھسٹتے ہوئے طواف کرنے کی منت مانی جب بھی طواف میں پاؤں سے چلنا لازم ہے اور طوافِ نفل اگر گھسٹتے ہوئے شروع کیا تو ہو جائے گا مگر افضل یہ ہے کہ چل کر طواف کرے۔ (۲۲)..... طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی جنب و بے وضو نہ ہونا، اگر بے وضو یا جنابت میں طواف کیا تو اعادہ کرے۔ (۲۳)..... طواف کرتے وقت ستر چھپا ہونا یعنی اگر ایک عضو کی چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ کھلا رہا تو دم واجب ہوگا اور چند جگہ سے کھلا رہا تو جمع کریں گے، غرض نماز میں ستر کھلنے سے جہاں نماز فاسد ہوتی ہے یہاں دم واجب ہوگا۔ (۲۴)..... طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا، نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔ (۲۵)..... کنکریاں پھینکنے اور ذبح اور سر مُنڈانے اور طواف میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں پھینکے پھر غیر مُفرد قربانی کرے پھر سر مُنڈائے پھر طواف کرے۔ (۲۶)..... طوافِ صدر یعنی میقات سے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا۔ اگر حج کرنے والی حیض یا نفاس سے ہے اور طہارت سے پہلے قافلہ روانہ ہو جائے گا تو اس پر طوافِ رخصت نہیں۔ (۲۷)..... وقوفِ عرفہ کے بعد سر مُنڈانے تک جماع نہ ہونا۔ (۲۸)..... احرام کے ممنوعات، مثلاً سلا کپڑا پہننے اور مونہ یا سر چھپانے سے بچنا۔

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیق الحرمین صفحہ 35 پر شیخ طریقت.....

قول کے مطابق دم لازم ہوگا جبکہ ایک قول کے مطابق استحباً ہی طور پر دم ہوگا۔

## حج و عمرہ کی ادائیگی کے طریقے:

حج و عمرہ کی ادائیگی کے تین طریقے ہیں:

﴿1﴾..... حج افراد: یہ افضل ہے (۱)۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صرف حج کرے، جب فارغ ہو تو حل کی طرف (یعنی حد و حرم سے باہر) نکل جائے اور احرام باندھ کر عمرہ کرے۔ عمرہ کے احرام کے لئے حِل میں افضل جگہ جِعْرَانہ ہے پھر تَنْعِيم پھر حُدَّيْبِيہ۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی لازم نہیں بلکہ نفل ہے۔

﴿2﴾..... حج قرآن: اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کو جمع کرے اور کہے میں حج و عمرہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ دونوں کے ساتھ محرم (یعنی دونوں کا احرام باندھنے والا) ہو جائے گا اس کے لئے حج کے اعمال کافی ہیں اور عمرہ حج کے تحت آجائے گا جیسے وضو غسل کے ضمن میں ہو جاتا ہے۔ البتہ، جب وہ طواف کرے اور وقوف عرفہ سے پہلے سعی کرے تو اس کی سعی دونوں عبادتوں کی طرف سے شمار ہوگی لیکن طواف شمار نہیں ہوگا کیونکہ حج کے فرض طواف کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ وقوف عرفہ کے بعد ہو اور قارن پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ البتہ، اگر وہ مکہ مکرمہ کا رہائشی ہو تو اس پر کچھ لازم نہیں کیونکہ اس نے میقات کو ترک نہیں کیا اس لئے کہ اس کا میقات مکہ ہی ہے۔

﴿3﴾..... حج تمتع: اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میقات سے عمرے کے احرام کے ساتھ داخل ہو اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور وقت حج تک ممنوعاتِ احرام سے فائدہ اٹھائے، پھر حج کا احرام باندھے۔

## تمتع کی شرائط:

تمتع کی پانچ شرائط ہیں: (۱)..... حج تمتع کرنے والا مسجدِ حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور اس کے حاضرین میں سے وہ ہے جو اتنی مسافت پر ہو جس میں نمازِ قصر نہ ہوتی ہو۔ (۲)..... وہ عمرہ کو حج پر مقدم کرے۔ (۳)..... عمرہ حج کے مہینوں میں ہو۔ (۴)..... احرام حج کے لئے میقات حج یا اس کے برابر مسافت کی طرف نہ لوٹے۔ (۵)..... حج..... امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطا قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یہ ہر ”آفاقی“ (میقات کے باہر سے آنے والے) حاجی پر واجب ہے۔

①..... احناف کے نزدیک: سب سے افضل حج قرآن پھر تمتع پھر افراد ہے۔ (رد المحتار، کتاب الحج، باب القران، ج ۳، ص ۲۳۱)

و عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہو<sup>(۱)</sup>۔

جب یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ حج تمتع کرنے والا ہوگا اور اس پر بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ اگر بکری نہ پائے تو یوم نحر (یعنی قربانی کے دن) سے پہلے حج کے دنوں میں تین روزے رکھے خواہ متفرق طور پر ہوں یا لگاتار اور وطن واپس آنے کے بعد سات روزے رکھے۔ اگر تین روزے رکھے بغیر وطن واپس لوٹ آیا تو مسلسل یا متفرق طور پر دس روزے رکھے۔ قرآن اور تمتع کی قربانی ایک جیسی ہے۔ ان میں افضل حج افراد ہے پھر تمتع پھر قرآن (عند الشوافع)۔

## حج و عمرہ کے ممنوعات:

حج و عمرہ (یعنی حالت احرام) میں چھ امور ممنوع ہیں:

﴿۱﴾..... شلوار قمیص اور موزے پہننا، عمامہ باندھنا، ازار، رداء (یعنی دو چادریں) اور چپل پہننے اور چپل نہ پائے تو جوتے پہننے۔ اگر ازار نہ پائے تو شلوار پہن لے۔ کمر بند باندھنے اور کجاوے کے سائے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنا سر نہ ڈھانپنے کیونکہ مرد کا احرام اس کے سر میں ہے۔ عورت ہر سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے۔ البتہ، چہرے کو ایسی چیز سے نہ ڈھانپنے جو چہرے کو مس کرتی ہو کیونکہ اس کا احرام اس کے چہرے میں ہے۔

①..... احناف کے نزدیک: تمتع کی 10 شرائط ہیں۔ چنانچہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 1158 پر صدر الشریعہ، بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْعَلِیِّ نقل فرماتے ہیں: تمتع کی دس شرطیں ہیں: (۱)..... حج کے مہینے میں پورا طواف کرنا یا اکثر حصہ یعنی چار پھیرے۔ (۲)..... عمرہ کا احرام حج کے احرام سے مقدم ہونا۔ (۳)..... حج کے احرام سے پہلے عمرہ کا پورا طواف یا اکثر حصہ کر لیا ہو۔ (۴)..... عمرہ فاسد نہ کیا ہو۔ (۵)..... حج فاسد نہ کیا ہو۔ (۶)..... المام صحیح نہ کیا ہو۔ المام صحیح کے یہ معنی ہیں کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے اور وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے پیدائش کا مقام اگر چہ دوسری جگہ ہو، لہذا اگر عمرہ کرنے کے بعد وطن گیا پھر واپس آ کر حج کیا تو تمتع نہ ہو اور اگر عمرہ کرنے سے پیشتر گیا یا عمرہ کر کے بغیر حلق کیے یعنی احرام ہی میں وطن گیا پھر واپس آ کر اسی سال حج کیا تو تمتع ہے۔ یو ہیں اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر حج کا احرام باندھ کر وطن گیا تو یہ بھی المام صحیح نہیں، لہذا اگر واپس آ کر حج کرے گا تو تمتع ہوگا۔ (۷)..... حج و عمرہ دونوں ایک ہی سال میں ہوں۔ (۸)..... مکہ معظمہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، لہذا اگر عمرہ کے بعد پکا ارادہ کر لیا کہ یہیں رہے گا تو تمتع نہیں اور دو ایک مہینے کا ہو تو ہے۔ (۹)..... مکہ معظمہ میں حج کا مہینہ آجائے تو بے احرام کے نہ ہو، نہ ایسا ہو کہ احرام ہے مگر چار پھیرے طواف کے اس مہینے سے پہلے کر چکا ہے، ہاں اگر میقات سے باہر واپس جائے پھر عمرہ کا احرام باندھ کر آئے تو تمتع ہو سکتا ہے۔ (۱۰)..... میقات سے باہر کارہنے والا ہو۔ مکہ کارہنے والا تمتع نہیں کر سکتا۔

﴿2﴾..... خوشبو لگانا: لہذا محرم ہر اس چیز سے بچے جسے عقلاً خوشبو شمار کرتے ہیں۔ اگر اس نے خوشبو لگائی یا سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس پر بطور دم ایک بکری لازم ہوگی۔

﴿3﴾..... بال منڈانا اور ناخن ترشوانا: ان میں بھی فدیہ یعنی بکری کا خون بہانا لازم ہوگا۔ سرمہ لگانے، حمام میں جانے، چھپنے یا سینگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿4﴾..... جماع کرنا: اگر احرام کھولنے سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد ہو گیا اور اس میں اونٹ، گائے یا سات بکریوں کی قربانی لازم ہے۔ اگر احرام کھولنے کے بعد جماع کیا تو ایک اونٹ قربان کرنا لازم ہے لیکن حج فاسد نہیں ہوگا۔

﴿5﴾..... جماع کی طرف لے جانے والے امور: جیسے بوسہ دینا یا اس طرح چھونا کہ اگر عورت کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اس میں ایک بکری کی قربانی واجب ہے۔ یہی حکم مشیت زنی (یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے) کا ہے۔ حالت احرام میں نکاح کرنا یا کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ، اس میں دم واجب نہیں کیونکہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا<sup>(۱)</sup>۔

﴿6﴾..... خشکی کا شکار کرنا: یعنی جو جانور رکھایا جاتا ہے یا جو حلال اور حرام کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو، اگر محرم نے کسی جانور کو قتل کیا تو اس پر اس کی مثل جانور لازم ہوگا یعنی جو جسمانی طور پر اس جتنا ہو اور سمندری شکار حلال ہے، اس میں کوئی بدلہ نہیں<sup>(۲)</sup>۔

- ①..... احناف کے نزدیک: احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے (جامعت جائز نہیں)۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۲۱۶)
- ②..... احناف کے نزدیک: درج ذیل امور حالت احرام میں ممنوع ہیں: (۱)..... عورت سے صحبت۔ (۲)..... بوسہ۔ (۳) مساس۔ (۴)..... گلے لگانا۔ (۵)..... اُس کی اندام نہانی پر نگاہ جب کہ یہ چاروں باتیں بشہوت ہوں۔ (۶)..... عورتوں کے سامنے اس کام کا نام لینا۔ (۷)..... فحش۔ (۸)..... گناہ ہمیشہ حرام تھے اب اور سخت حرام ہو گئے۔ (۹)..... کسی سے دنیوی لڑائی جھگڑا۔ (۱۰)..... جنگل کا شکار۔ (۱۱)..... اُس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا۔ یا (۱۲)..... کسی طرح بتانا۔ (۱۳)..... بندوق یا بارود یا اُس کے ذبح کرنے کو چھری دینا۔ (۱۴)..... اس کے انڈے توڑنا۔ (۱۵)..... پُر اُکھیرنا۔ (۱۶)..... پاؤں یا بازو توڑنا۔ (۱۷)..... اُس کا دودھ دوہنا۔ (۱۸)..... اُس کا گوشت۔ یا (۱۹)..... انڈے پکانا، بھوننا۔ (۲۰)..... بیچنا۔ (۲۱)..... خریدنا۔ (۲۲)..... کھانا۔ (۲۳)..... اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کترانا۔ (۲۴)..... سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا۔ (۲۵)..... مونہ، یا (۲۶)..... سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا۔ (۲۷)..... بستہ یا کپڑے کی بُقچی یا گٹھری سر پر رکھنا۔ (۲۸)..... عمامہ باندھنا۔ (۲۹)..... بُرقع۔ (۳۰)..... دستاں پہننا۔ (۳۱)..... موزے یا بُزائیں وغیرہ جو وسط قدم کو چھپائے (جہاں عربی جوتے کا تمہ ہوتا ہے).....

## ابتدائے سفر سے واپسی تک کے دس آداب

باب نمبر: 2

﴿1﴾..... گھر سے نکلنے سے لے کر احرام تک کے آداب:

اس میں آٹھ امور مسنون ہیں:

(1)..... مال سے متعلق امور: حج پر جانے والا توبہ سے ابتدا کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، قرض وغیرہ لیا ہو تو واپس کرے، زیر کفالت لوگوں کو واپسی تک کے اخراجات دے، لوگوں کی امانتیں پاس ہوں تو لوٹا دے، اپنے ساتھ پاک حلال مال لے جائے جو اسے جانے سے واپسی تک کے لئے کافی ہو بلکہ اتنا مال ہو کہ خرچ کرنے میں کمزوروں اور فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی گنجائش ہو، نکلنے سے پہلے کوئی چیز صدقہ کرے، سوار ہونے کے لئے ایک قوی سواری خرید لے جو کمزور نہ ہو یا کرائے پر لے لے، اگر کرائے پر لے تو سواری کے مالک کو سب کچھ بتا دے کہ وہ کتنا سامان لادے گا تھوڑا یا زیادہ اور اس میں اس کی رضامندی حاصل کر لے۔

(2)..... رفیق سفر سے متعلق سنتیں: اسے چاہئے کہ کسی نیک شخص کو رفیق سفر بنائے جو بھلائی کا خواہاں اور اس پر مدد گار ہو کہ اگر یہ بھول جائے تو وہ یاد دلائے اور یاد ہو تو اس کی مدد کرے، اگر یہ بزدلی کا مظاہرہ کرے تو وہ اسے شجاعت پر آمادہ کرے، اگر عاجز آجائے تو وہ اسے قوی کرے، اگر (مصائب و آلام کے باعث) یہ تنگ دل ہو تو وہ اسے صبر کی..... پہننا اگر جو تیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنیں کہ وہ تسمہ کی جگہ نہ چھپے۔ (۳۲)..... سلا کپڑا پہننا۔ (۳۳)..... خوشبو بالوں، یا (۳۴)..... بدن، یا (۳۵)..... کپڑوں میں لگانا۔ (۳۶)..... ملا گیری یا کسم، کیسے غرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جب کہ ابھی خوشبودر رہے ہوں۔ (۳۷)..... خالص خوشبو مشک، عنبر، زعفران، جاوتری، لونگ، لالچی، دارچینی، زنجبیل وغیرہ کھانا۔ (۳۸)..... ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک، عنبر، زعفران۔ (۳۹)..... سر یا داڑھی کو خطمی یا کسی خوشبودار یا ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مرجائیں۔ (۴۰)..... وسملہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔ (۴۱)..... گوند وغیرہ سے بال جمانا۔ (۴۲)..... زیتون، یا (۴۳)..... تیل کا تیل اگر چہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا۔ (۴۴)..... کسی کاسر مونڈنا اگر چہ اُس کا احرام نہ ہو۔ (۴۵)..... جوں مارنا۔ (۴۶)..... پھینکنا۔ (۴۷)..... کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ (۴۸)..... کپڑا اس کے مارنے کو دھونا۔ یا (۴۹)..... دھوپ میں ڈالنا۔ (۵۰)..... بالوں میں پارہ وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا غرض جوں کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔



تلقین کرے، اپنے مقیم دوستوں، بھائیوں اور پڑوسیوں سے رخصت ہوتے وقت انہیں دعاؤں کی درخواست کرے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی دعاؤں میں بھلائی رکھی ہے۔

### کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا:

رخصت کے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے: اَسْتَوِدِعُ اللّٰهَ دِينَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ لَعْنِي فِي دِينِ تِيرِي اَمَانَتِ اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کرتا ہوں۔“ (۱)

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ”فِي حِفْظِ اللّٰهِ وَكُنْفِهِ زَوْدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰی وَعَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا كُنْتَ لَعْنَتِي فِي حِفْظِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كِي حَفَاظَتِ اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ تقویٰ کو تیرا توشہ کرے، تیرے گناہ بخش دے اور تو جہاں بھی ہو تیرے لئے بھلائی میسر کرے۔“ (۲)

(3)..... گھر سے نکلنے کے وقت کی سنتیں: جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے تو پہلے دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اخلاص و سچی نیت سے بارگاہ الہی میں دعا کرے۔

### سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کی دعا:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِي السَّفَرِ وَاَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ وَالْاَصْحَابِ اِحْفَظْنَا وَاِيَّاهُمْ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاوَةِ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَلِكُ فِي مَسِيْرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰی وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَلِكُ اَنْ تَطْوِيْ لَنَا الْاَرْضَ وَتَهْوَنَ عَلَيْنَا السَّفَرُ وَاَنْ تَرْزُقْنَا فِي سَفَرِنَا سَلَامَةَ الْبَدَنِ وَالدِّیْنِ وَالْمَالِ وَتُبَلِّغْنَا حَجَّ بَيْتِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ وَالْاَصْحَابِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا وَاِيَّاهُمْ فِي جَوَارِكَ وَلَا تَسْلِبْنَا وَاِيَّاهُمْ نِعْمَتَكَ وَلَا تَغْيِرْ مَا بِنَا وَبِهِمْ مِنْ عَافِيَتِكَ لَعْنِي: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی سفر کا رفیق اور اہل و مال اور اولاد و احباب کی حفاظت فرمانے والا ہے، ہمیں اور انہیں ہر آفت و مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم اپنے اس سفر میں نیکی، تقویٰ اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لئے

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول اذا ودع انساناً، الحدیث ۳۴۵۴، ج ۵، ص ۲۷۷۔

②..... کنز العمال، کتاب السفر، فصل فی آدابہ، الحدیث: ۱۷۵۹، ج ۶، ص ۳۰۸۔

زمین لپیٹ دے، ہم پر سفر آسان فرما، ہمیں سفر میں بدن، دین اور مال کی سلامتی عطا فرما اور ہمیں اپنے گھر کا حج اور اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ عزوجل! ہم سفر کی سختی، بُری واپسی، اہل و مال اور اولاد و اصحاب کے بُرے حالات دیکھنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں اور انہیں اپنے جو رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سے نعمت سلب نہ فرما اور عطا کی ہوئی عافیت کو ہم سے تبدیل نہ فرما۔

(4)..... دروازے پر پہنچنے سے متعلق سنتیں: جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُّجْهَلَ عَلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ لَمُ اَخْرَجْ اَشْرًا بَطْرًا وَلَا رِبَاً وَلَا سَمْعَةً بَلْ خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخِطِكَ وَاِتِّبَاعًا مَّرْصَاتِكَ وَقَضَاءَ فَرْضِكَ وَاِتِّبَاعًا سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَشَوْقًا اِلٰی لِقَائِكَ لَعِنَی: میں اللہ عزوجل کے نام سے جاتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ عزوجل کی طرف سے، میں اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے رب عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، ذلیل ہوں یا ذلیل کیا جاؤں، لغزش کروں یا مجھے کوئی لغزش دے، کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جاہل ہوں یا مجھے جاہل بنایا جائے۔ اے اللہ عزوجل! میں ناشکری، تکبر اور دکھاوے کے لئے نہیں نکلا بلکہ تیری ناراضی سے ڈرنے، تیری رضا چاہنے، تیرے فرض کو ادا کرنے اور تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اور تیری ملاقات کے شوق میں نکلا ہوں۔“

## روانہ ہوتے وقت کی دعا:

جب روانہ ہو تو یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ بِكَ اِنْتَشَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَّتِيْ وَاَنْتَ رَجَائِيْ فَكُنِّيْ مَا اَهْمَنِيْ وَمَا لَا اِهْتَمُّ بِهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اللّٰهُمَّ زَوِّدْنِيْ التَّقْوٰی وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَجِّهْنِيْ لِخَيْرِ اٰیْمَانًا تَوَجَّهْتُ لَعِنَی: اے اللہ عزوجل! تیری مدد سے میں نکلا، تجھی پر بھروسہ کرتا، تیری پناہ لیتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! مجھے تجھی پر اعتماد دے اور تو ہی میری امیدگاہ، مجھے کفایت کر اس چیز سے جو مجھے فکر میں ڈالے اور اس سے جس کی میں فکر نہیں کرتا اور اس سے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیری پناہ لینے والا باعزت ہے، تیری شابند و بالا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ عزوجل! تقویٰ کو میرا ادارہ کر اور میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے خیر کی طرف متوجہ کر جدھر میں توجہ کروں۔“ جس منزل سے چلے اسے پڑھ لیا کرے۔

## سوار ہوتے وقت کی دعا:

(5).....سوار ہونے سے متعلق سنتیں: جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَهَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلَيْكَ وَفَوَضْتُ اَمْرِي كُلَّهُ اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ اَمُوْرِي عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عِنِّي: میں اللہ عزوجل کے نام سے سوار ہوتا ہوں، اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے، میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ عزوجل کی طرف سے جو سب سے بلند عظمت والا ہے، جو اللہ عزوجل نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا، پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اے اللہ عزوجل! میں تیرے طرف متوجہ ہوا، اپنا تمام تر معاملہ تیرے سپرد کیا، اپنے تمام امور میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا تو مجھے کافی ہے اور اچھا کارساز۔“

جب سواری پر پرسکون ہو کر بیٹھ جائے تو سات بار یہ پڑھے: ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اور یہ بھی پڑھے: ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْر عِنِّي: پاکی ہے اللہ عزوجل کے لئے، تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں، اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے۔ سب خوبیاں اللہ عزوجل کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ عزوجل نہ دکھاتا۔ اے اللہ عزوجل! تو اس (یعنی سواری) کی پیٹھ پر بٹھانے والا ہے اور تمام امور میں تو ہی مددگار ہے۔“

(6).....کسی جگہ ٹھہرنے سے متعلق سنتیں: جب تک دن گرم نہ ہو جائے کسی جگہ پڑاؤ نہ کرے، زیادہ تر سفر رات میں ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم رات میں سفر کیا کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے جو دن میں نہیں لپیٹی جاتی۔“ (۱)

## کسی منزل پر ٹھہرے تو یہ دعا پڑھے:

رات میں کم سوئے تاکہ سفر پر مدد ملے، جب کسی منزل پر ٹھہرے تو یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَا وَرَبَّ الْاَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَا وَرَبَّ الشَّيْطٰنِ وَمَا اَضَلَّلْنَا وَرَبَّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنَا وَرَبَّ الْبِحَارِ وَمَا جَرَيْنَا اَسْئَلُكَ

①.....سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الدرجۃ، الحدیث: ۲۵۷۱، ج ۳، ص ۴۰، بدون قولہ: مالاتطوی بالنہار۔

خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرِ أَهْلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ إِصْرِفْ عَنِّي شَرَّ رَاهِمٍ ۚ يَعْنِي: اے اللہ عزوجل! ساتوں آسمانوں کے رب اور ان کے جن پر ان کا سایہ ہے، ساتوں زمینوں کے رب اور ان کے جن کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، شیاطین کے رب اور ان کے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، ہواؤں کے رب اور ان کے جسے وہ اڑائیں، سمندروں کے رب اور ان کے جسے وہ بہائیں! میں تجھ سے اس مقام اور اس میں رہنے والوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس کے شر اور اس میں موجود چیزوں کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یہاں کے شریر لوگوں کے شر کو مجھ سے دور کر دے۔“

جب کسی مقام پر پڑھ لے تو دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھے: ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۚ يَعْنِي فِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ“ ان کلمات تامہ کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا۔“

### رات کے وقت یہ دعا پڑھے:

جب رات چھا جائے تو یہ دعا پڑھے: ”يَا أَرْضُ! رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَالْوَالِدِ وَمَا وَكَدَ وَكَلَدَ مَا سَكَنَ فِي الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ يَعْنِي: اے زمین! میرا اور تیرا رب اللہ عزوجل ہے، میں تیرے شر، تجھ میں موجود چیزوں کے شر اور تجھ پر چلنے والی چیزوں کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں شیر، اژدھے، سانپ، بچھو، شہر میں رہنے والے اور باپ (شیطان)

اور اس کی اولاد کے شر سے اللہ عزوجل کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں اور وہی ہے سنتا جانتا۔“

(7)..... **حفاظتی اقدامات:** دن کے وقت خوب احتیاط برتتے اور قافلے سے الگ تنہا نہ چلے کیونکہ بعض اوقات انسان غفلت میں قتل کر دیا جاتا یا قافلے سے پھٹ جاتا ہے، رات کو ہوشیار ہو کر سوئے۔ اگر رات کے ابتدائی حصہ میں آرام کرے تو بازوؤں کو بچھالے اور اگر آخری حصے میں سوئے تو بازوؤں کو کھڑا کر لے اور سر ہتھیلی پر رکھے لے کہ ”پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اسی طرح آرام فرمایا کرتے تھے۔“<sup>(۱)</sup> کیونکہ بسا اوقات نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا (اور فجر قضا ہو جاتی) ہے اور بندے کو خبر تک نہیں ہوتی حالانکہ نماز جو قضا ہو جاتی ہے وہ حج میں ملنے والے ثواب سے افضل تھی۔ رات کے وقت بہتر یہ ہے کہ دو رفیق باری باری حفاظت کریں کہ جب ایک سو جائے تو دوسرا حفاظت کرے، یہی سنت ہے۔

①..... الشمائل المحمدية للترمذی، باب ماجاء فی صفة نوم رسول اللہ، الحدیث ۲۴، ص ۱۵۹، مفہوماً۔

## دشمن یا کسی درندہ کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے:

اگر رات یا دن میں دشمن یا کسی درندے کے حملے کا خوف ہو تو دعا یہ پڑھے: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَجْيِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَيَّعٌ عَلَيْهِمُ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (پ: ۳، البقرة: ۲۵۵ تا ۲۵۷)، شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابًا بِمَا لُقِيَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (پ: ۳، آل عمران: ۱۸، ۱۹)، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پھر یہ دعا پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَأْتِي بِالْخَيْرِ إِلَّا اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى وَلَا دُونَ اللَّهِ مُلْجَأٌ كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلِينَ أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ تَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَاسْتَعْتَمْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ احْرِسْنَا بِعَيْنِكَ الْيَتِيمَ لَا تَعَامُرْ وَاحْكِنْفِنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا تَهْلِكْ وَأَنْتَ تَثَقُّنَا وَرَجَاؤُنَا اللَّهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوبَ عِبَادِكَ وَإِمَانِكَ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ۔

یعنی: میں اللہ عزوجل کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ عزوجل چاہے (وہی ہوتا ہے)، اللہ عزوجل کے سوا کوئی طاقت نہیں، مجھے اللہ عزوجل کافی ہے، میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا جو اللہ عزوجل چاہے (وہی ہوتا ہے)، اللہ عزوجل کے سوا کوئی بھلائی نہیں لاسکتا جو اللہ عزوجل چاہے (وہی ہوتا ہے)، اللہ عزوجل کے سوا کوئی برائی کو نہیں ٹال سکتا، مجھے اللہ عزوجل کافی ہے، وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اللہ عزوجل کے سوا کوئی انتہا و ٹھکانا نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے، میں نے عظمت والے رب کے قلعہ میں پناہ لی، اس زندہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جسے کبھی موت نہیں۔ اے اللہ عزوجل! اپنی اس نظر کے ساتھ ہماری حفاظت فرما جو سوتی نہیں، اپنے اس سہارے کے ساتھ ہماری حفاظت فرما جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اے اللہ عزوجل! ہم پر اپنی قدرت کے مطابق رحم فرماتا کہ ہم ہلاک نہ ہوں کہ ہمیں

تجھ پر ہی بھروسا ہے اور تو ہی ہماری امید گاہ ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے بندوں اور بندویوں کے دلوں کو اپنی رحمت و مہربانی سے ہم پر مہربان فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔

(8)..... بلندی پر چڑھنے اور ڈھلان میں اترنے کی سنیتیں: جب راستے میں زمین کے کسی بلند مقام پر پہنچے تو تین بار اللہ اکبر کہنا اور یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: ”اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرْفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ“ یعنی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو سب سے بزرگ و برتر ہے اور ہر حال میں تیری ہی حمد ہے۔“ جب ڈھلان میں اترے تو سُبْحَانَ اللَّهِ کہے۔

## ڈر خوف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھے:

دوران سفر ڈر خوف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّتِ السَّمَوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ“ یعنی: پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ جو مقدس بادشاہ ہے، وہ فرشتوں اور جبرئیل علیہم السلام کا رب ہے، اسی کی عزت و غلبہ کے ساتھ آسمانوں کو بزرگی حاصل ہوئی۔“

## ﴿2﴾..... احرام باندھنے سے لے کر دخول مکہ تک کے آداب:

اس میں پانچ امور مستحب ہیں:

(1)..... غسل سے متعلق امور: احرام کی نیت سے غسل کرے یعنی جب اس مشہور میقات تک پہنچے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں (تو غسل کرے) اور خوب صفائی ستھرائی سے کام لے، داڑھی اور سر میں کنگھی کرے، ناخن تراشے، اور مونچھیں پست کرے الغرض طہارت کے باب میں بیان کئے گئے طریقے کے مطابق اچھی طرح غسل کرے۔

(2)..... کپڑوں سے متعلق امور: سہلے ہوئے کپڑے نہ پہنے بلکہ احرام کی دو چادریں پہنے، سفید افضل ہیں کہ سفید کپڑے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اوپر اوڑھ لے اور دوسری کو بطور تہبند باندھ لے، کپڑوں اور جسم پر خوشبو لگائے، ایسی خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں کہ احرام کے بعد جس کا جرم باقی رہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو استعمال کی تھی باندھنے کے بعد بھی کچھ خوشبو سرانور پر پائی گئی تھی (۱)۔ (۲)

①..... احناف کے نزدیک: بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے، اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم (یعنی تہ) باقی رہے گا جیسے مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۷۲)

②..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب الطیب للمحرم عند الاحرام، الحدیث: ۱۱۹، ص ۶۰۹، مفہومًا۔

(3)..... احرام باندھنے کے بعد کے امور: احرام باندھنے کے بعد کچھ دیر توقف کرے یہاں تک کہ سواری سے لے کر اٹھے جبکہ سوار ہو، اگر پیدل ہو تو چلنا شروع کرے، اس وقت حج یا عمرہ کے احرام کی نیت کرے حج قرآن یا افراد جو بھی اس کا ارادہ ہو، احرام کے انعقاد کے لئے فقط نیت کافی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نیت کے ساتھ تلبیہ بھی کہہ لے اور یوں کہے: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“ یعنی: میں حاضر ہوں، اے اللہ عزوجل! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد، نعمت اور بادشاہی تیرے لئے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

اگر زیادہ کہنا چاہے تو یوں کہے: ”لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًّا تَعْبُدًا وَرِقًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ“ یعنی: میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں اور تمام بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تیری طرف رغبت ہے۔ میں تیری بندگی و غلامی کرتے ہوئے حق کے ساتھ حج کے لئے حاضر ہوں۔ اے اللہ عزوجل! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔“

### احرام باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

(4)..... تلبیہ کہہ لینے کے بعد کے امور: جب تلبیہ کے ساتھ احرام منعقد ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَأَعِينِي عَلَىٰ آدَاءِ فَرِيضَتِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ آدَاءَ فَرِيضَتِكَ فِي الْحَجِّ فَأَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَكَ وَأَمِنُوا بِوَعْدِكَ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَكَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ عَنْهُمْ وَأَرْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ فَيَسِّرْ لِي آدَاءَ مَا نَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اللَّهُمَّ قَدْ أَحْرَمَ لَكَ لَحْمِي وَشَعْرِي وَدَمِي وَعَصْبِي وَمِخْيَ وَعِظَامِي وَحَرَمْتُ عَلَيَّ نَفْسِي النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ وَكَبَسَ الْمُخِيطِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ“ یعنی: اے اللہ عزوجل! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لئے آسان فرمادے، حج فرض ادا کرنے پر میری مدد فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اے اللہ عزوجل! میں نے حج میں تیرے فرض کو ادا کرنے کی نیت کی، تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے تیرا حکم مانا، تیرے وعدے پر ایمان لائے، تیرے حکم کی پیروی کی، ان لوگوں کے گروہ میں سے کہ جن سے تو راضی ہوا، جنہیں تو نے راضی کیا اور جنہیں مقبول بنایا۔ اے اللہ عزوجل! میں نے حج کا ارادہ کیا ہے لہذا اس کی ادائیگی میرے لئے آسان فرما۔ اے اللہ عزوجل! میرے گوشت، بالوں، خون، اعصاب، مغز اور ہڈیوں نے تیرے لئے احرام باندھا اور میں نے تیری رضا جوئی اور دار آخرت کے حصول کے لئے عورتوں، خوشبو اور سلے ہوئے کپڑوں کو خود پر

حرام کر لیا۔

احرام باندھتے ہی اس پر ہماری ماقبل ذکر کردہ چھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان سے بچئے۔

(5)..... بار بار تلبیہ کہنے سے متعلق امور: احرام باندھے ہوئے بار بار تلبیہ کہنا مستحب ہے، خصوصاً جب رفقاء سے ملاقات ہو، لوگ جمع ہوں، ہر بار چڑھائی پر چڑھتے، اترتے، سواری پر سوار ہوتے اور اترتے وقت با آواز بلند تلبیہ کہے لیکن گلا پھاڑ کر نہ کہے، نہ ہی سانس رکے کیونکہ وہ کسی بہرے یا غائب کو نہیں سن رہا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے<sup>(۱)</sup>۔ نیز تین مساجد (یعنی مسجد حرام، مسجد میقات اور مسجد خیف) میں بلند آواز سے تلبیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ارکان حج کی جگہ واقع ہیں، ان کے علاوہ دیگر مساجد میں آہستہ آواز سے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

**کوئی چیز اچھی لگے تو یہ پڑھو:**

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تو فرماتے: ”لَبَّيْكَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ“ یعنی میں حاضر ہوں بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

**﴿3﴾..... دخول مکہ سے طواف تک کے آداب:**

اس میں چھ امور مستحب ہیں:

(1)..... مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے متعلق امور: دخول مکہ کے لئے ذی طویٰ کے مقام پر غسل کرے، حج میں مستحب مسنون غسل 9 ہیں: (۱)..... میقات سے احرام کے لئے (۲)..... مکہ میں داخل ہونے کے لئے (۳)..... طوافِ قدم (۳) کے لئے (۴، ۵)..... وقوف عرفہ و مزدلفہ کے لئے (۶، ۷، ۸)..... (ایام تشریق میں) جمرات کو کنکریاں مارنے کے تین غسل (یوم نحر) جمرہ عقبی کی رمی کے لئے غسل کرنا مستحب نہیں (۹)..... طوافِ وداع کے

①..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة..... الخ، الحدیث ۲۷۰۴، ص ۱۴۵۰۔

②..... المسند للامام الشافعی، ومن کتاب المناسک، ص ۱۲۔

③..... مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر (جو) پہلا طواف (کیا جاتا ہے اسے طواف قدم کہتے ہیں) یہ ”افراد“ یا ”قرآن“ کی نیت سے حج

کرنے والوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔ (رفیق الحرمین، ص ۳۴)



لئے۔ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے نزدیک طوافِ زیارت<sup>(۱)</sup> اور طوافِ وداع کے لئے نئے غسل کی ضرورت نہیں، اس طرح یہ 7 رہ جاتے ہیں<sup>(۲)</sup>۔

### حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا:

(2)..... حدود حرم میں داخل ہونے سے متعلق امور: حرم شریف کے شروع میں داخل ہوتے وقت مکہ مکرمہ سے باہر ہی یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ لِحَيْمِي وَدَمِي وَسَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَأَمْنِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَانِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ“ یعنی: اے اللہ عزوجل! یہ تیرا حرم اور امن کی جگہ ہے۔ پس میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میری کھال آگ پر حرام فرما دے، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، مجھے اپنے اولیا اور اطاعت گزار بندوں میں سے کر دے۔“

### مکہ شریف میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنت:

(3)..... مکہ شریف میں داخل ہونے سے متعلق امور: وادیِ اَبْح سے مکہ شریف میں داخل ہو اور وہ ثنیہ کدّا (یعنی کدّا کی گھاٹی) ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عام راستے سے ہٹ کر اسے اختیار فرمایا تھا۔ (۳) لہذا حضور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی زیادہ بہتر ہے، جب نکلے تو ثنیہ کدّا سے نکلے۔ ثنیہ کدّا بلند جبکہ کدّا پست گھاٹی ہے۔

### بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت کی دعا:

(4)..... جب مکہ مکرمہ زادھا اللہ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں داخل ہو اور جو نبی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے: ”لَا اِلٰهَ اِلَّا

- ①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیقِ الحرمین صفحہ 34 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء رقادری دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ نقل فرماتے ہیں: اسے طوافِ افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کارکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے بارہ ذوالحجہ کے غروبِ آفتاب تک ہے مگر دس ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے۔
- ②..... احناف کے نزدیک: عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے اور وقوفِ عرفہ و مزدلفہ، حاضری حرم و حاضری سرکارِ اعظم، طواف، دخولِ منیٰ، جمروں پر کتکریاں مانے کے لئے اور عرفہ کی رات غسل کرنا مستحب ہے۔

(الدرالمختار، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۳۳۹-۳۴۲)

③..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب دخول مکة من الثنیة العلیا..... الخ، الحدیث ۱۲۵۸-۱۲۵۹، ص ۲۵۷۔

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَيْتَكَ عَظَمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ اللَّهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيمًا وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مِنْ حَجَّةٍ بَرًّا وَكَرَامَةً اللَّهُمَّ فَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتِكَ وَأَعِزَّنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ عزوجل! تو سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی ہے، تیرا گھر سلامتی والا گھر ہے، اے جلال و بزرگی والے! تو برکت والا ہے۔ اے اللہ عزوجل! بے شک تو نے اپنے اس گھر کو بزرگی، کرامت اور شرف عطا فرمایا۔ اے اللہ عزوجل! اس کی تعظیم، شرف و بزرگی اور اس کے رعب میں اضافہ فرما، اس کا حج کرنے والے کی نیکی اور بزرگی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ عزوجل! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مجھے جنت میں داخل فرما اور شیطان مردود سے محفوظ فرما۔“

(5)..... مسجد حرام میں داخلے سے متعلق امور: جب مسجد حرام میں داخل ہو تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو اور یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یعنی: اللہ عزوجل کے نام سے، اسی کی مدد سے، اسی کی طرف سے، اسی کی طرف، اسی کی راہ میں اور اس کے رسول کے دین پر قائم رہتے ہوئے داخل ہوتا ہوں۔“

### بیت اللہ کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھے:

جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُولِكَ“ یعنی: سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں، اس کے پسندیدہ بندوں پر سلام ہو۔ اے اللہ عزوجل! اپنے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، اپنے تمام انبیاء اور رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام پر رحمت نازل فرما۔“

پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنْاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَأَنْ تَجَاوِزَ عَنِّي حَطِيئَتِي وَتَضَعَ عَنِّي وَزْرِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَّنًا وَجَعَلَهُ مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَدْدُ بَدْدُكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُكَ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَسْأَلُكَ الْمَضْطَرَّ الْخَائِفَ مِنْ عَقُوبَتِكَ الرَّاجِي لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرْضَاتِكَ“ یعنی: اے اللہ عزوجل! میں اس مقام پر اور حج کے پہلے عمل پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، میرا بوجھ مجھ سے اتار دے۔ سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے مجھے اپنے عزت والے گھر تک پہنچایا جسے اس نے لوگوں کے لوٹنے اور امن کی جگہ بنایا، اسے مبارک اور تمام جہانوں

کے لئے ہدایت بنایا۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیرا بندہ ہوں، یہ شہر تیرا شہر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ گھر تیرا گھر ہے، میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا طلبگار بن کر حاضر ہوا ہوں، میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح کوئی مجبور شخص تیرے عذاب سے خوف زدہ، تیری رحمت کا امیدوار اور تیری رضا کا متلاشی سوال کرتا ہے۔“

### حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ دعا پڑھے:

(6)..... حجر اسود سے متعلق امور: اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائے اور اسے دائیں ہاتھ سے چھو کر بوسہ دے اور یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ امانتی اديتها وميثاقي وقبته اشهد لي بالموافقة ليعني: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اپنی امانت ادا کر دی، اپنا وعدہ پورا کیا تو اس وفا پر گواہ رہنا۔“ اگر بوسہ نہ دے سکے تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر مذکورہ دعا پڑھے پھر طوافِ قدوم کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کرے۔ البتہ، اگر لوگوں کو فرض نماز میں مشغول پائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھے پھر طواف کرے۔

### ﴿4﴾..... طواف کے آداب:

جب طواف کا ارادہ ہو خواہ طوافِ قدوم ہو یا کوئی اور تو ان چھ امور کا خیال رکھے:

(1)..... نماز کی شرائط کا خیال رکھے: جیسے با وضو ہونا، لباس، جسم، جگہ کا پاک ہونا اور ستر عورت وغیرہ کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز کی طرح ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس میں کلام کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ طواف کی ابتدا میں اضطباع کرے۔ اضطباع کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے سے لے جا کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر جمع کر دے، اس کے ایک کنارے کو پیٹھ کی جانب لٹکا دے جبکہ دوسرے کو سینے پر رکھے۔ طواف شروع کرتے ہی تلبیہ کہنا چھوڑ دے اور ان دعاؤں میں مشغول ہو جائے جو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

(2)..... اضطباع کے بعد کے معمولات: جب چادر کندھے پر ڈال لے حجر اسود کے پاس یوں کھڑا ہو کہ بیت اللہ شریف اس کے دائیں جانب ہو لیکن اس سے کچھ دُور رہے تاکہ حجر اسود اس کے سامنے ہو اور وہ طواف کی ابتدا میں اپنے پورے جسم کے ساتھ پورے حجر اسود کے سامنے سے گزرے، اپنے اور بیت اللہ شریف کے درمیان تین قدموں کا فاصلہ رکھے تاکہ خانہ کعبہ کے قریب رہے کیونکہ یہ افضل ہے، نیز شاذ روان (یعنی دیوار کے پایہ کے ساتھ عرض میں چھوڑے ہوئے حصے) کے اندر طواف کرنے والا نہ ہو کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ حجر اسود کے پاس شاذ روان زمین سے ملا ہوا ہے، اس میں طواف کرنے والے کا طواف صحیح نہیں کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے والا شمار

ہوتا ہے۔ شاذروان وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کی چوڑائی سے بچ گیا تھا جب اوپر سے دیوار تنگ ہو گئی تھی۔ پھر اسی جگہ سے طواف شروع کرے۔

(3)..... طواف شروع کرنے سے پہلے کے معمولات: حجرِ اسود کے پاس سے گزرنے سے پہلے بلکہ طواف کی ابتدا میں یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْنِي: اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے نام سے شروع، اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سب سے بڑا ہے۔ اے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! میں تجھ پر ایمان لاتے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے، تیرے وعدے کو پورا کرتے اور تیرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔“

### طواف کا طریقہ

اب طواف کرے، حجرِ اسود سے آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ آتا ہے وہاں یہ کلمات کہے: ”اللّٰهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهَذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهَذَا الْأَمْنُ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ لِيَعْنِي: اے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ امن تیری جانب سے ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جہنم کی آگ سے تیری پناہ طلب کی جاتی ہے۔“

### مقامِ ابراہیم کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے:

مذکورہ کلمات پڑھتے ہوئے جب مقام کا ذکر آئے تو آنکھوں سے مقامِ ابراہیم کی طرف اشارہ کرے اور یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِزَّنِيْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لِحْمِيْ وَدَمِيْ عَلٰى النَّارِ وَاَمِّنِيْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِيْ مَوْوَنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِيَعْنِي: اے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! بے شک تیرا گھر عظیم اور تیری ذات کریم ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، جہنم اور شیطان مردود سے مجھے پناہ عطا فرما، میرے گوشت اور خون کو آگ پر حرام فرما، مجھ کو زمخشر کی ہولناکیوں سے امن عطا فرما اور دنیا و آخرت کی مشقتوں میں مجھے کفایت فرما۔“

پھر اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے رکنِ عراقی تک پہنچے اور یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشَّقَاقِ وَسُوْءِ الْاُخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ لِيَعْنِي: اے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! میں شرک، شک، کفر، نفاق، بدبختی، بد اخلاقی اور اہل و مال و اولاد کے متعلق برائی دیکھنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔“

## میزاب رحمت کے پاس یہ دعا پڑھے:

جب میزاب رحمت کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اِظْلَمْنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ اللَّهُمَّ اَسْقِنِي بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا یعنی: اے اللہ عزوجل! ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے (عرش کے) سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ عزوجل! مجھے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کوزے سے ایسا جام پلانا کہ اس کے بعد میں کبھی پیسا نہ ہوں۔“

رکن شامی کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبًّا مَبْرُورًا وَسَعِيًّا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُودَ يَاعَزِيزُ يَا غَفُورُ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَجَاوِزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ یعنی: اے اللہ عزوجل! اس حج کو مقبول فرما، اس کوشش کو قبولیت عطا فرما، گناہ معاف فرما اور اسے نہ ختم ہونے والی تجارت بنا۔ اے عزیز! اے غفور! اے رب عزوجل! مجھے بخش دے، رحم فرما، میرے گناہوں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر فرما بے شک تو بہت عزت و اکرام والا ہے۔“

رکن یمانی کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یعنی: اے اللہ عزوجل! میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فقر، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنہ، نیز دنیا و آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ یعنی: اے اللہ عزوجل! اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں اپنی رحمت سے فتنہ قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔“

حجر اسود کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ اَعُوذُ بِرَبِّ هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْفَقْرِ وَصَبِغِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ یعنی: اے اللہ عزوجل! اپنی رحمت سے مجھے بخش دے۔ میں قرض، تنگدستی، سینے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس پتھر کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔“

اس وقت طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح سات چکر پورے کرے ہر بار مذکورہ دعائیں پڑھے۔

(4)..... رمل سے متعلق امور: پہلے تین پھیروں میں رمل کرے اور بقیہ میں عادت کے مطابق چلے۔ رمل کا طریقہ

یہ ہے کہ پاؤں قریب قریب رکھتے ہوئے تیز تیز چلنا۔ یہ دوڑنے سے کم لیکن عام عادت سے کچھ تیز ہے۔ رمل و اضطباع سے مقصود بے خونی اور قوت کا اظہار ہے۔ شروع میں کفار کا طمع ختم کرنے کے لئے اس کا مقصد یہی تھا، اب بھی یہ سنت باقی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب سے رمل کرنا افضل ہے اگر بھیڑ کے سبب ایسا ممکن نہ ہو تو دور سے رمل کرنا افضل ہے۔ مطاف (مقام طواف) کے کنارے پر چلتے ہوئے تین پھیروں میں رمل کرے پھر بیت اللہ شریف کے قریب ہجوم میں آجائے اور چار پھیروں میں عام طریقے پر چلے۔ اگر ہر چکر میں حجر اسود کا استلام (۱) کر سکے تو زیادہ اچھا ہے اور اگر ہجوم رکاوٹ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لے۔ اسی طرح رکن یمانی کا استلام بھی مستحب ہے دیگر ارکان (یعنی رکن شامی و عراقی) کا استلام مستحب نہیں۔ مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کا استلام کرتے، (۲) اسے بوسہ دیتے (۳) اور اپنا رخسار پُر انوار اس پر رکھ دیتے تھے۔“ (۴) جو خاص طور پر حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو استلام کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

(5)..... طواف کے بعد کے معمولات: جب طواف کے سات چکر پورے ہو جائیں تو ملترم کے پاس آئے اور یہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں بیت اللہ شریف سے چمٹ جائے، پردوں سے لٹک جائے، اپنے پیٹ کو بیت اللہ شریف سے ملا لے، اس پر اپنا دایاں رخسار رکھ دے، اپنے بازو اور تھیلیاں اس پر پھیلا دے۔

## طواف کے بعد کی دعا:

پھر یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اعْتَقِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعِدْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَقِنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيْمَا آتَيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنْ أُمَّةٍ.....“  
 ①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیق الحرمین صفحہ 70 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب استلام الرکنین الیمانیین..... الخ، الحدیث ۱۲۶، ص ۶۶۱۔

③..... المستدرک، کتاب المناسک، باب تقبیل الرکن الیمانی..... الخ، الحدیث ۱۰۴، ج ۲، ص ۱۰۴۔

④..... المستدرک، کتاب المناسک، باب تقبیل الرکن الیمانی..... الخ، الحدیث ۱۰۴، ج ۲، ص ۱۰۴۔

النَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيَّ كَيْفَ لَيْسَ: اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! اے قدیم گھر کے رب! میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اور مجھے شیطان مردود سے پناہ عطا فرما اور ہر برائی سے پناہ دے اور جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر قناعت کی توفیق عنایت فرما اور میرے لئے اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ بندہ تیرا بندہ ہے اور یہ دوزخ سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! مجھے اپنی بارگاہ میں آنے والوں میں سے بہتر لوگوں میں کر دے۔“ اس مقام پر کثرت سے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی حمد و ثناء بیان کرے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام رسل و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بکثرت درودِ پاک پڑھے۔ اپنی خاص حاجات کے لئے دعا مانگے، گناہوں کی بخشش چاہے۔

منقول ہے کہ بعض بزرگ اس مقام پر اپنے خدام سے فرماتے: ”مجھ سے دور ہو جاؤ تا کہ میں رب عزَّ وَّجَلَّ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں۔“

(6)..... طواف کی دو رکعتیں (۱): طواف وغیرہ کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ طواف کی دو رکعتیں ہیں۔ حضرت سپید ناما زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”یہ سنت ہے کہ بندہ ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے۔ اگر کوئی بار طواف کر کے دو رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہے۔ (۲) کہ یہ بھی سنت ہے۔ ہر سات پھیروں کے بعد ایک طواف ہے۔

## دو رکعت طواف کے بعد کی دعا:

طواف کی دو رکعتوں کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي الْيُسْرَى وَجَنِّبِي الْعُسْرَى وَاعْفُرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَأَعِصِمْنِي بِالطَّافِكِ حَتَّى لَا أَعْصِيكَ وَأَعِزِّي عَلَى طَاعَتِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَجَنِّبْنِي مَعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَجُوبُ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرَسُولَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ فَكَمَا هَدَيْتَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَبَتَّنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكِ وَوَلَّيْتَنِي لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَاجْرِنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ لَيْسَ: اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! میرے لئے آسانی کو آسان فرما، مجھے تنگی سے بچا، دنیا و آخرت میں میری بخشش فرما، اپنی مہربانیوں کے ذریعے

①..... یہ نماز واجب ہے۔ (بہار شریعت، ۱، ص ۱۱۰۲)

②..... صحیح البخاری، کتاب الحج، تحت الباب صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسبوعہ رکعتین، ج ۱، ص ۵۴۳۔

مجھے بچالے تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، اپنی توفیق سے عبادت پر میری مدد فرما، مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچا، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے، تیرے فرشتوں، تیرے رسولوں اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جیسا کہ تو نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی تو اپنی مہربانیوں سے مجھے اس پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اپنی اور اپنے رسول کی فرمانبرداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما۔“ پھر حجرِ اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کر کے طواف ختم کر دے۔

## غلام آزاد کرنے کا ثواب:

حضور نبی انور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو بیت اللہ شریف کا ایک ہفتہ طواف کرے (۱) اور دو رکعت نماز پڑھے تو اس کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔“ (۲)

یہ طواف کا طریقہ مذکور ہوا۔ نماز کی شرائط (مثلاً طہارت، ستر عورت وغیرہ) کے بعد مذکورہ امور میں سے واجب یہ ہے کہ پورے بیت اللہ شریف کے سات چکر مکمل کرے، حجرِ اسود سے ابتدا کرے، خانہ کعبہ بائیں جانب ہو اور مسجد کے اندر طواف کرے لیکن خانہ کعبہ سے باہر ہو، نہ تو بنیاد پر طواف کرے، نہ ہی حطیم کے اندر کرے، پے در پے سات چکر پورا کرے، ان میں عام عادت سے زیادہ فرق نہ ہو۔ ان کے علاوہ امور سنت و مستحب ہیں۔

## ﴿5﴾..... سعی کے آداب:

جب طواف سے فارغ ہو جائے تو باب صفا سے نکلے، یہ رُکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان موجود دیوار کے مقابل ہے۔ جب اس دروازے سے باہر نکل کر صفا پہاڑی تک پہنچے تو اس کے نیچے سے انسانی قد کے برابر کچھ اوپر چلا جائے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آگیا۔ (۲) پہاڑ کے دامن سے سعی شروع کرنا بھی کافی ہے اور یہ زیادتی (یعنی اوپر چڑھنا) مستحب ہے۔ لیکن درجے نئے بنائے گئے ہیں لہذا انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ اس طرح وہ، سعی مکمل کرنے والا نہ ہوگا۔ جب یہاں سے ابتدا کرے تو صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی کرے۔

①..... اس طرح کے مسلسل ایک ہفتہ طواف کرے، کوئی دن ناغہ نہ ہو۔ (مرآة المناجیح، ج ۴، ص ۱۳۴)

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب فضل الطواف، الحدیث ۲۹۵، ج ۳، ص ۴۳۹، باختصار۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث ۱۲۱۸، ص ۶۳۵۔



## صفا پر چڑھے تو یہ دعا پڑھے:

صفا پر چڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرے اور یہ دعا پڑھے: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَيَّ مَا هَدَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلِّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنِي: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّ سَبَّ بِيَدِهِ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّ سَبَّ بِيَدِهِ، سَبَّ خُوبِيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ لَمْ يَكُنْ لِي هُدًى عِطْفَر مَانِي، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ تَمَامِ تَعْرِيفُونَ كَيْ سَاهَا اس كَيْ حَمْدِهِ۔

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ سَوَا كُوْنِي مَعْبُودِيْهِمْ وَهَ اَكِيْلَا هِي، اس كا كوْنِي شَرِيك نِيْهِمْ اسِي كَيْ لِيْ بَادِشَاهَت هِي، اسِي كَيْ لِيْ تَعْرِيف هِي، وَه جَلَا تَا اور مَارَتَا هِي، اسِي كَيْ قَبْضَه قَدْرَت ميْن بَهْلَانِي هِي، وَه سَب كُجْه كَرْ سَكْتَا هِي۔ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ سَوَا كُوْنِي مَعْبُودِيْهِمْ وَه تَبَاهِي، اس نِيْ اِنَا وَعَدَه سَجَا كِيَا، اِنِيْ بِنْدِيْ كِي مَدْفَر مَانِي، اِنِيْ لَشْكُر كُو عِزَّت عِطْفَر مَانِي اور تَبَاهِي دَشْمَن كَيْ لَشْكُرُونَ كُو بَهْگَا دِيَا، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ سَوَا كُوْنِي مَعْبُودِيْهِمْ نِيْهِمْ، هَم صَرَف اسِي كَيْ عِبَادَت كَرْتِي هِيْن اِگَر چَ كَافِرُونَ كُو نَا پَسَنْد هُو، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ سَوَا كُوْنِي مَعْبُودِيْهِمْ، هَم صَرَف اسِي كَيْ عِبَادَت كَرْتِي هِيْن سَب خُوبِيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْ لِيْ هِيْن، تُوَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي پَا كِي بُولُو جَب شَام كَرُو اور جَب صَبْح هُو اور اسِي كَيْ تَعْرِيف هِي آسْمَانُونَ اور زَمِيْن ميْن اور كُجْه دِن رَهِيْ اور جَب تَمِهِيْن دُو پِيْر هُو، وَه زَنْدِه كُو نَا كَاتَا هِيْ مَرْدِيْ سِيْ اور مَرْدِيْ كُو نَا كَاتَا هِيْ زَنْدِه سِيْ اور زَمِيْن كُو جَلَا تَا هِيْ اس كَيْ مَرْدِيْ سِيْ پِيْچْچِيْ اور يُوْنِيْ هِيْ تَم نَا لِيْ جَاؤْ گِيْ اور اس كِي نَشَانِيُون سِيْ هِيْ يِه كَيْ تَمِهِيْن پِيْدَا كِيَا مِثْلِيْ سِيْ پُجْر جِجِيْ تَم اِنْسَان هُو دُنْيَا ميْن پِيْچِيْ لِيْ هُوِيْ۔ اِيْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! ميْن تَجْه سِيْ دَائِمِيْ اِيْمَان، سِيْ يَقِيْن، عِلْم نَافِع، دُرْنِيْ وَالِيْ دَل اور ذِكْر وَالِيْ زَبَان كَا سَوَال كَرْتَا هُوْن اور تَجْه سِيْ بَخْشِش، دَائِمِيْ عَافِيَت اور دُنْيَا وَآخِرَت ميْن مَعَانِي طَلَب كَرْتَا هُوْن۔ پُجْر بَار گَا رِ سَالَت ميْن هِدِيْءِ دَرُو دِپِيْش كَرِيْ اور اس كَيْ بَعْدِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِيْ جَس حَاجَت كِي چَا هِيْ دَعَا كَرِيْ۔

پھر صفا سے اتر کر یہ کہتے ہوئے سعی شروع کر دے: ”رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَجَاوِزْ عَمَّا تَعَلَّمَ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ  
 اَللّٰهُمَّ اِنِّنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ یعنی: اے رب عزوجل! مجھ پر رحم فرما اور میری جو خطائیں تو  
 جانتا ہے ان سے درگزر فرما، بے شک تو بہت زیادہ عزت و اکرام والا ہے۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں  
 آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔“

اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سبز میل تک پہنچے، یہ صفا سے اترتے ہوئے سب سے پہلے آتا ہے اور یہ مسجد حرام  
 کے کونے پر ہے۔ جب اس کے اور سبز میل کے درمیان چھ گز فاصلہ رہ جائے تو تیز چلنا شروع کر دے یعنی رمل کرے  
 یہاں تک کہ میلین اخضرین تک جا پہنچے اب عام رفتار سے چلے جب مروہ کے پاس پہنچے تو اس پر اسی طرح چڑھے جس  
 طرح صفا پر چڑھا تھا اور چہرہ صفا کی طرف کر لے اور ایسی ہی دعا کرے جیسی صفا پر کی تھی۔ یہاں ایک مرتبہ سعی مکمل ہو  
 گئی۔ جب صفا کی طرف لوٹے گا تو دو چکر مکمل ہو جائیں گے۔ یوں سات چکر لگائے اور ہر چکر میں تیز چلنے کی جگہ تیز  
 اور آہستہ کی جگہ آہستہ چلے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور ہر بار صفا و مروہ پر چڑھے۔ جب ایسا کر لیا تو طوافِ قدوم اور  
 سعی سے فارغ ہو گیا اور یہ دونوں سنت ہیں۔ سعی کے لئے وضو مستحب ہے واجب نہیں جبکہ طواف میں وضو واجب  
 ہے۔ جب سعی کر لی تو اب وقوفِ عرفہ کے بعد دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں، بطورِ رکن یہ سعی کافی ہے کیونکہ سعی میں یہ  
 شرط نہیں کہ وقوفِ عرفہ کے بعد ہو البتہ، فرض طواف میں یہ شرط ہے۔ ہاں! ہر سعی میں یہ شرط ہے کہ وہ طواف کے بعد  
 ہو خواہ وہ کوئی بھی طواف ہو (طوافِ قدوم یا فرض طواف)۔

## ﴿6﴾..... وقوف عرفہ اور اس سے پہلے کے آداب:

اگر حاجی نو ذی الحجہ کے دن عرفات پہنچے تو وقوفِ عرفہ سے پہلے طوافِ قدوم اور مکہ مکرمہ کی حاضری کے لئے نہ  
 جائے، اگر کچھ دن پہلے پہنچے تو طوافِ قدوم کرے اور ذی الحجہ کی سات تاریخ تک حالت احرام میں رہے۔ ساتویں  
 تاریخ کو امام ظہر کے بعد کعبہ شریف کے پاس خطبہ دیتا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یومِ ترویہ (یعنی آٹھ ذی الحجہ) کو منیٰ جانے  
 کی تیاری کریں اور وہاں رات گزاریں، دوسرے دن صبح عرفات میں جائیں تاکہ زوال کے بعد وقوف کر کے فرض کی  
 ادائیگی کریں کیونکہ وقوف کا وقت (نو ذی الحجہ کے) زوال سے لے کر یومِ نحر (یعنی قربانی کے دن) کی طلوع صبح صادق تک  
 ہے۔ چنانچہ، تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ کی طرف نکلے، اگر طاقت رکھتا ہو تو مکہ سے لے کر حج ختم ہونے تک تمام ارکان حج

بیدل ادا کرے کہ مستحب ہے۔ مسجد ابراہیم (یہ میدان عرفات میں ہے وہاں) سے جائے وقوف تک بیدل چلنا افضل ہے اور اس کی زیادہ تاکید ہے۔

## منیٰ میں پہنچ کر یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنِّي فَأَمِّنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ أَوْلِيَانِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ لَعْنِي: اے اللہ عزوجل! یہ منیٰ ہے، مجھ پر ایسے ہی کرم فرما جیسے تو نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ اور نیک بندوں پر کرم فرمایا۔“

یہ رات منیٰ میں گزارے یہاں صرف رات گزارنا ہے، حج کا کوئی عمل اس سے متعلق نہیں۔

## عرفات کی جانب جائے تویہ دعا پڑھے:

نو ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز پڑھے اور کوہِ خبیر پر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف جائے اور یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا قَطُّ وَأَقْرَبَهَا مِنْ رِضْوَانِكَ وَأَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ الْيَكْ غَدَوْتُ وَإِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ ارْتَدْتُ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَبَاهَىٰ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَفْضَلُ لَعْنِي: اے اللہ عزوجل! اس صبح کو ان تمام صبحوں سے بہتر کر دے جو میں نے کی ہیں، اسے اپنی رضا کے قریب اور اپنی ناراضی سے دُور کر دے۔ اے اللہ عزوجل! میں نے تیری طرف صبح کی، تیری طرف رجوع کیا، تجھ سے امید رکھی، تجھی پر بھروسا کیا اور تیرا ہی ارادہ کیا، پس مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن پر آج تو ان (یعنی فرشتوں) کے سامنے نفع فرماتا ہے جو مجھ سے بہتر اور افضل ہیں۔“

جب میدان عرفات میں پہنچ جائے تو مقام نمبرہ میں مسجد کے قریب خیمہ لگائے کہ حضور نبی پاک صَلَّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی یہیں خیمہ لگایا تھا۔<sup>(۱)</sup> نمبرہ عرَنہ کا نچلا حصہ ہے جو موقف اور عرفات کے علاوہ ہے۔ وقوف کے لئے غسل کرنا سنت ہے۔ جب زوال کا وقت ہو جائے تو امام ایک مختصر خطبہ دے کر بیٹھ جائے، مؤذن اذان دے اور امام دوسرا خطبہ دے، اقامت کو اذان کے ساتھ اس طرح ملایا جائے کہ مؤذن کے اقامت کہنے کے ساتھ امام خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز ملا کر پڑھے، (اگر شرعی مسافر ہوں تو) نماز قصر پڑھے۔ پھر موقف کی طرف چل پڑے اور عرفات میں ٹھہر جائے، وادی عرَنہ میں نہ ٹھہرے۔ مسجد ابراہیم وادی عرَنہ سے شروع ہو کر عرفہ میں ختم ہوتی ہے، لہذا جس نے مسجد کے اگلے حصے میں وقوف کیا اسے وقوف عرفہ حاصل نہ ہوگا۔

①.....صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ۱۲۱۸، ص ۶۳۶۔

مسجد میں عرفات کی جگہ کو بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے ممتاز کیا گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ ان پتھروں کے پاس امام کے قریب قبلہ رو ہو کر سواری پر کھڑا ہو۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل اور توبہ و استغفار کی کثرت کرے۔ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ مسلسل دعا پر قوت حاصل ہو، عرفہ کے دن تلبیہ کہنا نہ چھوڑے بلکہ کبھی تلبیہ کہے اور کبھی دعا میں مشغول ہو۔ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہئے تاکہ عرفات میں دن اور رات جمع ہو جائے، چاند کے شبہ کی وجہ سے آٹھویں تاریخ کی ایک ساعت وہاں ٹھہرنا ممکن ہو تو یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ جو شخص دس ذی الحجہ کی طلوع فجر تک وقوف نہ کر سکے اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس پر لازم ہے کہ عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر حج فوت ہونے کی وجہ سے جانور ذبح کرے اور آئندہ سال قضا کرے۔ اس دن سب سے اہم مشغولیت دعا کرتے رہنا ہے کیونکہ اس قسم کی جگہ، اس قسم کے اجتماع میں دعاؤں کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ وہ دعائیں جو وقوف عرفہ کے دن پڑھنے کے بارے میں منقول ہیں ان کا پڑھنا بہتر ہے۔

## وقوف عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعائیں:

﴿1﴾..... "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي" یعنی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، سب خوبیاں اسی کے لئے ہیں، وہ جلاتا اور مارتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، تمام بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے دل، میری سماعت، میری بصارت اور میری زبان کو منور فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان فرما۔" (۱)

## دعائے حضر:

﴿2﴾..... حضرت سیدنا حضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول دعا بکثرت پڑھے، جو یہ ہے: "يَا مَنْ لَا يُشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَا مَنْ لَا تَغْلُطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ يَا مَنْ لَا

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب افضل الدعاء يوم عرفه، الحديث ۹۳۴، ج ۵، ص ۱۹۰،

بدون: "يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير"

يَبْرُمُهُ الْحَاكُمُ الْمُلْحِقِينَ وَلَا تَضْجُرُهُ مَسْأَلَةُ السَّائِلِينَ اِدْقُنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مُنَاجَاتِكَ یعنی: اے وہ ذات کہ جسے نہ تو ایک کام دوسرے کام سے، نہ ایک بات کا سننا دوسری بات کے سننے سے مشغول رکھتا ہے، نہ ہی اس پر آوازیں مشتبه ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جسے مسائل میں غلطی نہیں لگتی، نہ ہی زبانیں اس پر مختلف ہوتی ہیں۔ اے وہ ذات جو گریہ کرنے والوں کے گریہ سے بے چین نہیں ہوتی، نہ ہی سوال کرنے والوں کا سوال اسے تنگ کرتا ہے، ہمیں اپنے درگزر کی ٹھنڈک اور قبولیت دعا کی مٹھاس چکھا۔“

اس کے علاوہ جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھے۔ نیز اپنے لئے، اپنے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے استغفار کرے۔ خوب گڑگڑا کر دعا مانگے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مطرف رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے میدانِ عرفات میں بارگاہِ الہی میں یوں عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعا رد نہ کرنا۔“

حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مرنی عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِي فرماتے ہیں: ایک شخص نے کہا کہ ”جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا تو گمان کیا کہ اگر میں ان میں نہ ہوتا تو ان کی بخشش کر دی جاتی۔“

## ﴿7﴾..... حج کے بقیہ اعمال و آداب:

وقوفِ عرفہ کے بعد (مزدلفہ میں) رات گزارنا، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا اور طواف کرنا۔ جب غروبِ آفتاب کے بعد عرفات سے واپس آئے تو سکون و وقار کے ساتھ واپسی ہو، گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑانے سے بچے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے کیونکہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے گھوڑے دوڑانے اور اونٹوں کو تیز چلانے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو، کسی کمزور کو نہ روندو اور نہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچاؤ۔“ (۱)

جب مزدلفہ پہنچے تو غسل کرے کیونکہ مزدلفہ حرم سے ہے، لہذا غسل کر کے وہاں داخل ہو۔ اگر پیدل داخل ہو سکے تو یہ افضل ہے اور تعظیم حرم کے زیادہ قریب ہے۔ راستے میں با آواز بلند تلبیہ کہتا جائے۔

## مزدلفہ کی دعا:

جب مزدلفہ پہنچے تو یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مَزْدَلِفَةٌ جَمَعَتْ فِيهَا السَّنَةُ مُخْتَلِفَةٌ نَسْتُلُكَ حَوَائِجَ مَوْتِنَفَةً فَاجْعَلْنِي

①..... کنز العمال، کتاب الحج والعمرة، باب فی واجبات الحج و مندوباتہ، الحدیث: ۱۲۶۱، ج ۵، ص ۸۱، مفہوماً۔

مِنْ دَعَاكَ فَاسْتَجِبْتَ لَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْكَ فَاكْفَيْتَهُ یعنی: اے اللہ عزَّ وَجَلَّ! یہ مزدلفہ ہے، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جمع ہیں، ہم تجھ سے نئے سرے سے حاجات کا سوال کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کی دعاؤں کو تو نے قبول فرمایا اور انہوں نے تجھ پر توکل کیا تو انہیں کافی ہوا۔“

پھر مزدلفہ میں عشا کے وقت میں مغرب و عشا کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھے<sup>(۱)</sup>، (اگر مسافر ہو تو) عشا کی نماز قصر پڑھے دونوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے مغرب و عشا کی سنتیں، نوافل و وتر دونوں کے فرضوں کے بعد پڑھے<sup>(۲)</sup>، پہلے مغرب پھر عشا کے نوافل پڑھے جیسے فرضوں میں ترتیب قائم رکھی تھی، سفر میں بھی نوافل نہ چھوڑے کہ نوافل کا چھوڑنا ظاہری نقصان ہے۔ (مغرب و عشا کے) سنن و نوافل کی وقت میں ادیگی کا حکم دینا بھی تکلیف پہنچانا ہے، نیز نوافل و فرائض کے درمیان جو ترتیب ہے یعنی نفل فرض کے تابع ہیں اسے ختم کرنا ہے۔ جب تابع ہونے کے حکم سے ایک تیمم کے ساتھ نوافل کو فرائض کے ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے تو فرائض کے تابع کر کے انہیں جمع کر کے پڑھنا بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ نیز اس سے نوافل کا فرائض سے بعض باتوں میں جدا ہونا رکاوٹ نہیں بنتا مثلاً نفل سواری پر ادا ہو سکتے ہیں (جبکہ فرائض سواری پر ادا نہیں ہو سکتے) یہ اس لئے رکاوٹ نہیں بنتے کہ یہ فرض کے تابع ہیں اور حاجت بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔

رات مزدلفہ میں ٹھہرے کہ یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے۔ جو رات کے پہلے نصف حصے میں وہاں سے نکل جائے اور وہاں رات نہ گزارے تو اس پر دم (یعنی بکری ذبح کرنا) لازم ہے<sup>(۳)</sup>۔ جس سے ہو سکے وہ اس رات کو عبادت

①..... احناف کے نزدیک: عرفات میں ظہر و عصر کے لئے ایک اذان اور دو اقامتیں ہیں اور مزدلفہ میں مغرب و عشا کے لئے ایک اذان اور ایک اقامت۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۳۳)

②..... احناف کے نزدیک: دونوں نمازوں کے درمیان میں سنت و نوافل نہ پڑھے۔ مغرب کی سنتیں بھی بعد عشا پڑھے اگر درمیان میں سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو ایک اقامت اور کبھی جائے یعنی عشا کے لئے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۳۳)

③..... مزدلفہ میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی یہاں گزار لیا تو وقوف ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جس نے فجر کے وقت میں یہاں نماز فجر ادا کی اس کا وقوف صحیح ہو گیا۔ جو صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلا گیا اس کا واجب ترک ہو گیا۔ لہذا اس پر دم واجب ہے۔ ہاں، عورت، بیمار یا ضعیف یا کمزور کہ جنہیں بھیڑ کے سبب ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو اگر ایسے لوگ مجبوراً چلے گئے تو کچھ نہیں۔ (رفیق الحرمین، ص ۱۵۲)

میں گزارے کہ اس مبارک رات کو عبادت میں گزارنا عمدہ عبادت میں سے ہے۔ جب نصف رات گزر جائے تو جانے کی تیاری کرے، وہاں سے کنکریاں لے لے کیونکہ وہاں نرم پتھر ہیں۔ 70 کنکر لے لے کہ اتنے ہی کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات کوئی کنکری گر جاتی ہے۔ نیز کنکریاں چھوٹی ہوں تاکہ انگلیوں کے پوروں میں آسکیں۔ پھر اندھیرے میں نماز فجر پڑھ کر چل پڑے۔

### مشعر حرام میں یہ دعا پڑھے:

جب مشعر حرام تک پہنچ جائے جو مزدلفہ کا اختتام ہے تو وہاں کھڑا ہو جائے اور صبح روشن ہونے تک یہ دعا کرتا رہے: ”اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَلْبِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ یعنی: اے اللہ عزوجل! مشعر حرام، بیت اللہ شریف، حرمت والے مینے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا واسطہ! اے عزت و بزرگی والے! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلام پہنچا اور ہمیں سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل فرما۔“

پھر طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ”وادیٰ مُحَسِّر“ میں پہنچ جائے۔ اس جگہ سواری کو تیز کرنا مستحب ہے حتیٰ کہ وادی سے نکل جائے، اگر پیدل ہو تو تیز تیز چلے۔ جب یوم نحر (یعنی قربانی کے دن) کی صبح ہو تو تکبیر اور تلبیہ کو ملانے کہ کبھی تلبیہ کہے اور کبھی تکبیر حتیٰ کہ مٹی پہنچ جائے اور جمرات (یعنی کنکریاں مارنے) کے تین مقامات میں سے پہلے اور دوسرے سے گزر جائے کیونکہ یوم نحر یہاں اس کا کوئی کام نہیں یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائے، قبلہ رخ ہونے کی صورت میں جمرہ عقبہ دائیں جانب راستے میں پہاڑ کے نیچے کچھ اونچائی پر ہے اور کنکریوں کی جگہ میں سے یہ واضح ہے۔ ایک نیزہ سورج بلند ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے۔

### کنکریاں مارنے کا طریقہ<sup>(۱)</sup>:

قبلہ رو کھڑا ہو، اگر جمرہ کی طرف منہ کرے تو بھی حرج نہیں، ہاتھ بلند کر کے سات کنکریاں مارے اور تلبیہ کو تکبیر

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیق الحرمین صفحہ 154 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاء قادری دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں: کنکریاں مارنے کا طریقہ اس طرح تحریر فرماتے ہیں: سات کنکریاں اپنے اٹے ہاتھ میں رکھ لیں بلکہ دو تین کنکریاں زائد لے لیں۔ اب.....





## ذبح کرنے کے بعد کی دعا:

ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَالْبَيْتُ تَقَبَّلُ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرٰهِيْمَ  
يعنى: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، اے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! یہ قربانی تجھ سے، تیرے ساتھ اور تیرے لئے، اسے  
میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابرہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے قبول فرمائی۔“  
سب سے افضل اونٹ کی قربانی ہے، پھر گائے کی، پھر بکری کی۔ اونٹ اور گائے میں سات لوگوں کے شریک  
ہونے سے بکری کی قربانی افضل ہے۔ بکری سے دنبہ کی قربانی افضل ہے۔

## بہترین قربانی:

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین قربانی سینگوں والے  
مینڈھے کی ہے۔“ (۱) سفید رنگ کا دنبہ ٹیالے اور سیاہ دنبے سے افضل ہے۔

## ایک دنبہ دو دنبوں سے افضل:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”قربانی میں ایک سفید دنبہ دو سیاہ دنبوں سے افضل ہے۔“  
اگر نقلی قربانی ہو تو اس میں سے کچھ کھائے (۲)۔

## وہ عیب کہ جن کے سبب قربانی جائز نہیں:

لنگڑا ہونا، ناک یا کان کا کٹا ہونا، کان کا اوپر یا نیچے سے چرا ہونا، سینگوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، پاؤں کٹے ہوئے ہونا،  
خارش زدہ ہونا (۳)، کان کے اگلے یا پچھلے حصے میں سوراخ ہونا اتنا دبلّا و کمزور کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہے۔ جس جانور

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب کراہیۃ المغالاة فی الکفن، الحدیث: ۳۱۵، ج ۳، ص ۲۶۷۔

②..... احناف کے نزدیک: قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتا ہے کھلا سکتا ہے بلکہ اس سے کچھ  
کھا لینا قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے بلکہ اس کو  
صدقہ کر دینا واجب ہے وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔

③..... احناف کے نزدیک: خارش جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فرہ (موٹا، سخت مند) ہو اور اتنا لاغر کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز  
نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۳، ص ۳۲۰) **نوٹ:** مزید تفصیل کے لئے بہار شریعت کے مذکورہ مقام کا مطالعہ کیجئے!

میں مذکورہ عیوب میں سے کوئی عیب ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔

قربانی کے بعد سر منڈائے۔ سنت یہ ہے کہ قبلہ رو ہو، سر کے اگلے حصے سے شروع کرے اور دائیں طرف سے گھڑی پر ابھری ہوئی ہڈیوں تک حلق کرائے پھر باقی سر کا حلق کرائے۔

## حلق کرانے کے بعد کی دعا:

سر منڈوانے کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اَنْتَ لِيْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ وَاَمْرٌ عَنِّيْ بِهَا سَيِّئَةٌ وَاَرْفَعُ لِيْ بِهَا عُنْدَكَ دَرَجَةً“ یعنی:

اے اللہ عزوجل! ہر بال کے بدلے میرے لئے نیکی لکھ دے اور گناہ مٹا دے اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرما دے۔“

عورت (پورے برابر) بال کتروائے۔ گنچے کے لئے سر پر استرہ پھر وانا مستحب ہے<sup>(۱)</sup>۔ جھروں کو کنکریاں مارنے کے بعد جب حلق کرائے تو احرام سے باہر ہو گیا، سوائے عورتوں اور شکار کے تمام ممنوع کام حلال ہو گئے۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے اور ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق طواف کرے، یہ طواف حج کا رکن ہے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔

## طواف زیارت کا وقت:

اس کا اول وقت قربانی کی نصف رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ افضل وقت قربانی کا دن ہے۔ اس کے لئے آخری وقت مقرر نہیں بلکہ اسے مؤخر کر سکتا ہے لیکن احرام کی قید باقی رہے گی، اس طواف کے بعد ہی اس کے لئے عورت کا قرب حلال ہوگا۔ احرام سے مکمل طور پر اس وقت باہر ہوگا جب طواف زیارت کر لے، بیوی سے جماع بھی تب ہی جائز ہوگا۔ اب صرف ایام تشریق کی کنکریاں مارنا اور منیٰ میں رات گزارنا باقی ہے، احرام سے نکلنے کے بعد حج کی اتباع میں یہ واجب ہے۔ دو رکعتوں کے ساتھ طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو طواف قدم کا ہے۔ جب دو رکعتیں پڑھ چکے تو ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق (صفا و مروہ کے درمیان) سعی کرے بشرطیکہ طواف قدم کے بعد سعی نہ کی ہو اور اگر سعی کر چکا ہے تو اس کا یہ رکن ادا ہو گیا اب دوبارہ سعی کرنا ضروری نہیں۔

## احرام سے نکلنے کے اسباب:

احرام سے نکلنے کے تین اسباب ہیں: (۱)..... کنکریاں مارنا (۲)..... سر منڈوانا (۳)..... فرض طواف کرنا۔ ان

①..... احناف کے نزدیک: جس کے سر پر بال نہ ہوں اسے استرہ پھر وانا واجب ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۴۲)

تین میں سے دو باتیں پائی گئیں تو اس کے لئے دو میں سے ایک حلت پائی گئی اور ذبح کے ساتھ ان تینوں کو مقدم و مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارے، پھر ذبح کرے، پھر سر منڈائے پھر طواف کرے۔ اس دن امام کے لئے سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد خطبہ دے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا الوداعی خطبہ تھا۔

## حج کے خطبات:

حج میں چار خطبے ہیں: (۱)..... ساتویں ذوالحجہ کا خطبہ (۲)..... یوم عرفہ (نویں ذوالحجہ) کا خطبہ (۳)..... قربانی کے دن کا خطبہ (۴)..... منیٰ سے واپسی کے پہلے دن (یعنی بارہویں ذوالحجہ) کا خطبہ<sup>(۱)</sup>۔ یہ تمام خطبے زوال کے بعد ہوں گے۔ تمام میں ایک خطبہ ہوگا سوائے عرفات کہ اس میں دو خطبے ہوں گے جن کے درمیان بیٹھنا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائے تو رات گزارنے اور کنکریاں مارنے کے لئے منیٰ واپس لوٹے اور وہ رات منیٰ میں گزارے۔ اس رات کو لیلۃ القدر (یعنی ٹھہرنے کی رات) کہا جاتا ہے کیونکہ دوسرے دن لوگ منیٰ میں ٹھہرتے ہیں، وہاں سے جاتے نہیں۔ جب عید کا دوسرا دن آئے اور سورج ڈھل جائے تو کنکریاں مارنے کے لئے غسل کرے اور پہلے جمرہ جو عرفات سے ملا ہوا ہے اس کا قصد کرے، یہ راستے کی دائیں جانب ہے، اسے سات کنکریاں مارے جب اس سے آگے نکل جائے تو راستے کی دائیں جانب سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑا ہو اور اللہ عزَّ وَجَلَّ کی حمد کرے، لا اِلهَ اِلَّا اللهُ اور اللهُ اَكْبَرُ پڑھے، پھر حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے، دعا مانگتے ہوئے سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار قبلہ رو کھڑا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کی طرف جائے اور اسے بھی پہلے جمرہ کی طرح کنکریاں مارے اور یہاں بھی پہلے کی طرح کھڑا ہو کر دعا مانگے، پھر جمرہ عقبہ کی طرف آئے اور سات دفعہ کنکریاں مارے، پھر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو بلکہ اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹے اور یہ رات بھی منیٰ میں گزارے، اس رات کو لیلۃ النفر الاول (یعنی پہلے کوچ کی رات) کہا جاتا ہے، یہیں صبح کرے اور ایام تشریق کے دوسرے دن جب ظہر کی نماز پڑھ لے تو اس دن بھی 21 کنکریاں مارے جیسے گزشتہ دن ماری تھیں، پھر اسے اختیار ہے کہ منیٰ میں رات گزارے یا مکہ مکرمہ واپس لوٹ جائے۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے منیٰ سے نکلا تو اس پر کچھ لازم نہیں، اگر رات تک صبر کیا تو نکلنا جائز نہیں بلکہ رات

①..... احناف کے نزدیک: حج میں تین خطبے سنت ہیں: (۱)..... امام کا مکہ میں ساتویں کو اور (۲)..... عرفات میں نویں کو اور

(۳)..... منیٰ میں گیارہویں کو خطبہ پڑھنا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۵)

گزارنا لازم ہے یہاں تک کہ دوسرے گُوج کے دن 21 کنکریاں مارے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ منیٰ میں رات نہ گزارنے اور کنکریاں نہ مارنے کی وجہ سے جانور ذبح کرنا لازم ہوتا ہے اور اسے چاہئے کہ اس کا گوشت صدقہ کر دے (خود نہ کھائے)۔ منیٰ کی راتوں میں زیارت بیت اللہ شریف کے قصد سے جاسکتا ہے بشرطیکہ رات منیٰ ہی میں گزارے (۱) کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہی طریقہ تھا۔ (منیٰ میں موجود) مسجد خیف میں امام کے ساتھ فرض نماز کی حاضری کو ترک نہ کرے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب منیٰ سے واپس آئے تو افضل یہ ہے کہ ”وادئِ مَحْصَب“ میں ٹھہرے، وہاں عصر، مغرب اور عشا کی نماز پڑھے اور کچھ دیر سو جائے کہ یہ سنت ہے، اسے ایک گروہ صحابہ رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نے روایت کیا، اگر ایسا نہ کیا تب بھی اس پر کچھ لازم نہیں۔

### ﴿8﴾..... عمرہ اور طواف وداع تک کے دیگر آداب:

جو شخص حج سے پہلے یا بعد عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ غسل کر کے میقات سے عمرے کا احرام باندھ لے جیسا کہ حج کے بیان میں گزر چکا ہے اور عمرے کا افضل میقات جِعْرَانَه ہے پھر تنعیم پھر حدیبیہ۔ عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ کہے، مسجد عائشہ کا قصد کرے اور وہاں دو رکعتیں پڑھے اور جو چاہے دعا مانگے پھر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ آجائے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو تلبیہ کہنا چھوڑ دے، سات مرتبہ طواف کرے اور سات مرتبہ ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق سعی کرے، جب فارغ ہو جائے تو سر منڈوائے، یوں اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔

جو شخص مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو اسے چاہئے کہ عمرے اور طواف کثرت سے کرے، بیت اللہ شریف کی زیارت بکثرت کرے، اگر (خوش نصیبی سے) بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کی سعادت مل جائے تو تعظیماً ننگے پاؤں داخل ہو اور دو ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے کہ یہ افضل ہے۔

میرے قدم تو اس قابل بھی نہیں!.....!

کسی بزرگ سے پوچھا گیا: ”کیا آج آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے ہیں؟“ فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی..... ① احتاف کے نزدیک: یہ چیزیں حج کی سنتوں میں سے ہیں: نویں رات منیٰ میں گزارنا۔ آفتاب نکلنے کے بعد منیٰ سے عرفات کو روانہ ہونا۔ وقوف عرفہ کے لئے غسل کرنا۔ عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا اور آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے منیٰ کو

چلے جانا۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۰۵۰)

قسم! بیت اللہ شریف میں داخل ہونا تو دور کی بات میں تو اپنے قدموں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ یہ بیت اللہ شریف کا طواف کریں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں چلے اور کس طرف چلے ہیں۔“

## زمزم پئے اور یہ دعاما نگے:

خوب پیٹ بھر کر زمزم پئے، اگر ممکن ہو تو کسی کی مدد لئے بغیر خود نکال کر پئے اور یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ وَأَرْزُقْنِي الْإِخْلَاصَ وَالْبِقِينَ وَالْمَعَاوَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنِي: اے اللہ عزوجل! اسے ہر بیماری اور کمزوری کے لئے شفا بنا اور مجھے اخلاص، بیقین اور دنیا و آخرت میں عافیت کی نعمت سے سرفراز فرما۔“

حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”آب زمزم اسی مقصد کے لئے ہے جس کے لئے اسے پیا جائے۔“<sup>(۱)</sup> یعنی جس بیماری سے شفا کی نیت سے پیا جائے اس سے شفا مل جاتی ہے۔

## ﴿۹﴾..... طوافِ وداع کے آداب:

حج و عمرہ کی تکمیل کے بعد جب وطن واپسی کا ارادہ ہو تو پہلے دیگر کام کر لے، سواری پر کجاوہ کس لے اور بیت اللہ شریف سے رخصتی سب سے آخر میں ہو۔

## مکہ مکرمہ سے رخصتی کے آداب:

مکہ شریف سے رخصت ہونے سے قبل رمل و اضطباع کے بغیر بیت اللہ شریف کا سات بار طواف کرے، جب طواف کر لے تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، آب زمزم پئے پھر ملتزم کی طرف آئے اور خوب گڑ گڑا کر یوں دعاما نگے: ”اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَإِبْنَ عَبْدِكَ وَإِبْنَ أُمَّتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سِيرْتَنِي فِي بِلَادِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَارْزُقْ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمَنْ أَلَانَ قَبْلَ تَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ هَذَا أَوْ أَنْ ائْتَصِرَ فِي إِنْ اذْنَتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِلٍ بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبَ عَنكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ اصْحِبْنِي الْعَاقِبَةَ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَأَرْزُقْنِي طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ عَهْدِي بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْتَهُ آخِرَ عَهْدِي

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الشرب من زمزم، الحدیث ۳۰۶، ج ۳، ص ۳۹۰، دون ”ماء“۔

فَعُوْضِنِيْ عَنْهُ الْجَنَّةَ.

یعنی: اے اللہ عزوجل! یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ بندہ تیرا بندہ، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہے، اپنی مخلوق میں سے مجھے تو نے اس چیز پر سوار کیا جسے تو نے میرے قابو میں کیا حتیٰ کہ مجھے اپنے شہروں کی سیر کرائی، اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا، ارکان حج کی ادائیگی میں میری مدد فرمائی، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مزید رضاء عطا فرما، اگر راضی نہیں تو اپنے اس گھر سے واپسی سے پہلے پہلے مجھ پر احسان فرما، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری جگہ کسی اور کو اختیار نہ کروں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہ چاہوں، تجھ سے اور تیرے گھر سے منہ نہ پھیروں۔ اے اللہ عزوجل! مجھے بدن میں عافیت اور دین میں حفاظت عطا فرما، میرا لوٹنا اچھا فرما، مجھے ہمیشہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، میرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی جمع فرما، بے شک تو ہر چاہے پر قادر ہے۔ اے اللہ عزوجل! میری بیت اللہ شریف کی اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، اگر تو نے اسے میری آخری حاضری بنایا تو مجھے اس کے بدلے جنت عطا فرما۔“

مستحب یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف سے اوجھل نہ ہو اس سے نگاہ نہ پھیرے۔

## ﴿10﴾..... زیارتِ مدینہ اور اس کے آداب:

### تین فرامینِ مصطفیٰ:

﴿1﴾..... مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ وَفَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ یعنی جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فَقَدْ جَفَانِيْ یعنی جو باوجود قدرت میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی۔

﴿3﴾..... مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لِّإِيْهِمُّهُ الْاِزِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اللّٰهُ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا یعنی جو میری زیارت کے لئے آیا اس کا میری زیارت کے سوا کوئی مقصد نہ تھا تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کا شفیع بنوں۔<sup>(۲)</sup>

## مدینہ منورہ کے درود یوار پر نظر پڑے تو یہ پڑھو!

جس کا زیارتِ مدینہ کا ارادہ ہو وہ راستے میں حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر کثرت سے دُرودِ پاک

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ۱۰۲۷، ج ۵، ص ۴۰۳، مفهوماً۔

②..... المعجم الكبير، الحديث ۱۳۱۲، ج ۱، ص ۲۲۵، مفهوماً۔

پڑھے۔ جب مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً کے درو دیوار اور درختوں پر نظر پڑے تو یوں کہے: ”اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمٌ رُسُوكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسَوْءِ الْحِسَابِ“ یعنی اے اللہ عزوجل! یہ تیرے رسول پاک کا حرم ہے، اسے میرے لئے جہنم سے بچنے، عذاب اور برے حساب سے امان کا سبب بنا۔“

## مدینہ منورہ کے آداب:

مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے بئر ححرہ (حرہ کے مقام پر ایک کنواں ہے اس کے پانی) سے غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف کپڑے پہنے، عاجزی و انکساری کرتے، تعظیم بجالاتے ہوئے داخل ہو اور یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رُسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا“ یعنی: اللہ عزوجل کے نام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر داخل ہوتا ہوں اے میرے رب! مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔“

## مسجد نبوی کے آداب:

پھر مسجد نبوی شریف کا قصد کرے، مسجد میں داخل ہو، منبر کے پاس دو رکعت نماز ادا کرے، منبر کے ستون کو اپنے دائیں کندھے کے مقابل رکھے، منہ اس ستون کی طرف کرے جس طرف صندوق ہے، مسجد کے قبلہ میں جو دائرہ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو کہ مسجد کی تبدیلی (یعنی از سر نو تعمیر) سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے یہیں کھڑے ہوتے تھے۔ مسجد کے اس حصے میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے جو توسیع سے پہلے تھی۔

## روضہ اقدس پر حاضری:

پھر روضہ اقدس کے پاس حاضر ہو اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی جانب رخ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو اور روضہ مبارکہ کی دیوار کی طرف رخ کر کے اس ستون سے چار گز کے فاصلے پر کھڑا ہو جو روضہ اقدس کی دیوار سے متصل ہے، قندیل سر پر رہے۔ روضہ انور کی دیوار کو چھونا اور بوسہ دینا ادب کے خلاف ہے بلکہ دور کھڑا ہونا احترام کے زیادہ قریب ہے۔ مذکورہ طریقے کے مطابق کھڑا ہو کر یوں ہدیہ سلام پیش کرے:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَمِيْنَ اللّٰهُ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَأَ الْقَاسِمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَاجِحِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِبُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَشِيرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيرُ السَّلَامُ  
عَلَيْكَ يَا طَهْرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمُ وَلَدِ أَدَمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ  
يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْخَيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْبُرِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ  
يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْأُمَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمَحْجَلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِينَ  
أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ الطَّيِّبِينَ وَعَلَى زَوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ  
الْمُؤْمِنِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا  
غَفَلَ عَنكَ الْغَافِلُونَ وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَعْلَى وَأَجْلُ وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ  
مِنْ خَلْقِهِ كَمَا اسْتَنْقَذْنَا بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَرْنَا بِكَ مِنَ الْعِمَايَةِ وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالََةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَ  
نَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ عَدُوَّكَ وَهَدَيْتَ أُمَّتَكَ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى آتَاكَ الْبُقَيْنُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ  
الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمْ وَشَرَفْ وَكْرَمْ وَعَظَّمْ۔

یعنی: اے اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر سلام ہو، اے اللہ عزوجل کے نبی! آپ پر سلام ہو،  
اے اللہ عزوجل کے امین! آپ پر سلام ہو، اے اللہ عزوجل کے حبیب! آپ پر سلام ہو، اے اللہ عزوجل کے چنے ہوئے! آپ  
پر سلام ہو، اے اللہ عزوجل کے بہتر مخلوق! آپ پر سلام ہو، اے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر سلام ہو، اے محمد صلی اللہ  
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر سلام ہو، اے ابوالقاسم! آپ پر سلام ہو، اے گناہوں کو مٹانے والے! آپ پر سلام ہو، اے سب سے  
آخر میں آنے والے! آپ پر سلام ہو، اے جمع کرنے والے! آپ پر سلام ہو، اے خوشخبری دینے والے! آپ پر سلام ہو، اے آنے  
والے خطرات سے متنبہ کرنے والے! آپ پر سلام ہو، اے پاک ذات! آپ پر سلام ہو، اے طاہر! آپ پر سلام ہو، اے اولاد آدم  
میں سب سے زیادہ مکرم! آپ پر سلام ہو، اے تمام رسولوں کے سردار! آپ پر سلام ہو، اے سب سے آخری نبی! آپ پر سلام  
ہو، اے تمام جہانوں کے رب کے رسول! آپ پر سلام ہو، اے بھلائی کے قائد! آپ پر سلام ہو، اے نیکی کا دروازہ کھولنے والے!  
آپ پر سلام ہو، اے نبی رحمت! آپ پر سلام ہو، اے ہادی امت! آپ پر سلام ہو، اے چمکتے چہرے والوں کے قائد! آپ پر سلام



ہو، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کہ جن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ناپاکی کو دور اور انہیں خوب ستھرا کیا سلام ہو، آپ پر، آپ کے پاکیزہ اصحاب اور آپ کی پاکباز ازواج مؤمنین کی ماؤوں پر سلام ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ ہماری طرف سے آپ کو اس سے افضل جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کی قوم یا کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی، اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحمت نازل فرمائے جب بھی یاد کرنے والے آپ کو یاد کریں، جب بھی غفلت شعار آپ سے غافل رہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر پہلوں اور پچھلوں میں وہ رحمت نازل فرمائے جو کسی مخلوق پر نازل ہونے والی رحمت سے زیادہ فضیلت والی، زیادہ کامل، زیادہ بلند اور زیادہ پاک ہو جیسا کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں گراہی سے بچایا اور ہمیں (دلی) اندھے پن سے بچا کر بصیرت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے، رسول، امین، چنے ہوئے اور اس کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی، کفار سے جہاد کیا، اپنی امت کو ہدایت دی، تمام زندگی عبادت میں گزاری، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت، سلام، بزرگی، کرامت اور عظمت کا نزول ہو۔

## بارگاہ رسالت میں کسی کا سلام پہنچانے کا طریقہ:

اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش کرنے کی نصیحت کی ہو تو یوں کہے: ”السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ“ یعنی (يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!) فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ پر سلام ہو یا فلاں بنت فلاں کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔“

## بارگاہ صدیقی و فاروقی میں ہدیہ سلام:

پھر بارگاہ صدیقی میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لئے ایک گز کی مقدار پیچھے ہٹ جائے کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا سر مبارک رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مبارک کندھے کے پاس ہے اور بارگاہ فاروقی میں ہدیہ سلام کرنے کے لئے ایک گز کی مقدار اور پیچھے ہٹ جائے کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مبارک سر امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے کندھے کے قریب ہے۔ پھر باری باری دونوں کی بارگاہ میں یوں سلام پیش کرے: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا وَزِيرِي رَسُولِ“

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَاوِينُ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِاللَّيْلِ مَا دَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِينَ فِي أُمَّتِهِ بَعْدَهُ بِأُمُورِ الدِّينِ تَتَّبِعَانِ فِي ذَلِكَ آثَارَهُ وَتَعْمَلَانِ بِسُنَّتِهِ فَجَزَاكَمُ اللَّهُ خَيْرَ مَا جَزَى وَزَيْرَى نَبِيِّ عَنْ دِينِهِ لَعْنَى: اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں، سرکار کی حیات مبارکہ میں دین متین کو قائم رکھنے میں ان کی مدد کرنے والوں اور وصال (ظاہری) کے بعد امت میں دین کے امور کو قائم رکھنے والوں! تم پر سلام ہو، اس معاملے میں تم نے حضور کے طریقے پر عمل کیا اور سنت رسول کی پیروی کی، اللہ عزوجل تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کے دووزیروں کو دین کے معاملے میں دیا۔

### حضور کے وسیلے سے دعا:

پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور ستون (جو سپد ناما نما غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے دور میں تھا اس) کے درمیان سرکار کے سر اقدس کے سامنے جانب قبلہ منہ کر کے کھڑا ہو، اللہ عزوجل کی حمد و بزرگی بیان کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے اور یوں عرض کرے: ”اے اللہ عزوجل! بے شک تو نے ارشاد فرمایا اور تیرا قول برحق ہے، (پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے):

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٤٠﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

(پ: ۵، النساء: ۶۴)

پھر عرض کرے: ”اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَأَطَعْنَا أَمْرَكَ وَقَصَدْنَا نَبِيَّكَ مُتَشَفِّعِينَ بِكَ فِي ذُنُوبِنَا وَمَا أَثْقَلُ ظُهُورَنَا مِنْ أَوْزَارِنَا تَائِبِينَ مِنْ زَلِيلِنَا مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَانَا وَتَقْصِيرِنَا فَتُبَّ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا وَشَفِّعْ نَبِيَّكَ هَذَا فِيْنَا وَارْفَعْنَا بِمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكَ وَحَقِّهِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَغْفِرْ لَنَا وَإِلَّاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ لَعْنَى: اے اللہ عزوجل! بے شک ہم نے تیرا فرمان سنا، تیرے حکم کی پیروی کی، اپنے گناہوں کے معاملے میں تیرے نبی کو شفیق بناتے ہوئے ان کی بارگاہ کا قصد کیا، گناہوں سے ہماری پٹھیں بوجھل ہو گئیں، ہم اپنی لغزشوں سے توبہ کرتے، اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ عزوجل! ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے حق میں اپنے نبی کی سفارش قبول فرما، تیری بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ اور تجھ پر ان کا جو حق ہے اس کے طفیل ہمیں بلندی عطا فرما، اے

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما، ہماری اور ہمارے اُن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے نبی کے مزار پر انوار اور اپنے حرم شریف میں ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے!

## ریاضُ الْجَنَّةِ کی فضیلت:

پھر ریاض میں حاضر ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور حسب استطاعت کثرت سے دعا کرے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: ”مَا بَيْنَ قَبْرِیْ وَمَنْبَرِیْ رُوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِیْ عَلٰی حَوْضِیْ یعنی میری قبر اور میرے منبر کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔“<sup>(۱)</sup>

منبر کے پاس بھی دُعا کرے اور مستحب ہے کہ اپنا ہاتھ نچلے پائے پر رکھے کہ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی خطبہ کے دوران اپنا ہاتھ اسی پائے پر رکھتے تھے۔<sup>(۲)</sup> جمعرات کے دن شہدائے اُحد کی قبروں کی زیارت کے لئے جانا مستحب ہے، نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کر کے زیارت کے لئے نکل جائے اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آ کر ادا کرے، ہر فرض نماز مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرے۔

## جنت البقیع میں حاضری<sup>(۳)</sup>:

ہر روز بارگاہ رسالت میں ہدیہ سلام پیش کر کے جنت البقیع میں حاضری دے کہ مستحب ہے، وہاں امیر المؤمنین

①..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب مابین القبر والمنبر..... الخ، الحدیث: ۱۳۹۱-۱۳۹۰، ص ۷۲۰، ”قبری“ بدلہ ”بیتی“۔

②..... وفاء الوفاء، مساحة المنبر، الجزء الثانی، ج ۱، ص ۲۰۲۔

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 304 صفحات پر مشتمل کتاب رفیق الحرمین صفحہ 200 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہُ نقل فرماتے ہیں: جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں باہر ہی کھڑے ہو کر سلام عرض کریں اور باہر ہی سے دعا مانگیں کیونکہ نجدیوں نے جنت البقیع شریف نیز جنت المعلی (مکہ مکرمہ) دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو نہایت ہی بے دردی اور گستاخی کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ ہزار ہا صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ اور بے شمار اہلبیت اطہار رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنِ واولیائے کبار رَحِمَہُمُ اللہُ وَعشاق زار رَحِمَہُمُ اللہُ کے مزارات کے نقوش تک مٹا دیئے ہیں۔ آپ اگر اندر تشریف لے گئے تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا پاؤں کسی صحابی یا کسی ولی کے مزار شریف پر پڑ رہا ہے بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ جو راستہ قبریں منہدم کر کے بنایا جائے اس پر چلنا حرام ہے۔ بلکہ امام اہلسنت، اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ الرَّحْمَہُ فرماتے ہیں کہ اگر کسی راستے کے بارے میں شک بھی ہو کہ یہ راستہ.....

حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا حسن بن علی، حضرت سیدنا علی بن حسین، حضرت سیدنا محمد بن علی اور حضرت سیدنا جعفر بن محمد کی قبور کی زیارت کرے اور مسجد فاطمہ میں نماز پڑھے، نیز ابن رسول حضرت سیدنا ابراہیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ (وازاوج مطہرات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ) کے مزارات کی زیارت کرے۔ یہ تمام مزارات جنت البقیع میں ہیں۔ ہر ہفتے کے دن مسجد قبا میں جانا اور وہاں نماز پڑھنا مستحب ہے۔

## ایک عمرے کا ثواب:

مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو اپنے گھر سے نکلے یہاں تک کہ مسجد قبا میں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اس کے لئے ایک عمرے کا ثواب ہے۔“ (۱)

پھر مسجد قبا کے قریب اریس نامی کنوئیں پر آئے، اس سے وضو کرے، اس کا پانی چئے، منقول ہے کہ آقائے دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ (۲) پھر مقام خندق کے پاس مسجد فتح میں آئے۔ اسی طرح تمام مساجد اور مقامات مقدسہ پر حاضری دے۔ منقول ہے کہ مدینہ منورہ زادھا اللہ شرفاً وتَعْظِيماً میں مساجد اور مقدس مقامات 30 ہیں جن کے متعلق شہر کے لوگ جانتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان (کی زیارت) کا قصد کرے۔ اسی طرح ان کنوئوں پر بھی جائے جن سے حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وضو غسل فرماتے اور ان کا پانی پیتے تھے، یہ سات کنوئیں ہیں، حصول برکت و شفا کی نیت سے ان پر حاضر ہو۔ (۳)

اگر مدینہ پاک کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں رہنا ممکن ہو تو اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو مدینہ کی سختی اور شدت پر صبر کرے گا میں بروز قیامت اس کا..... قبروں کو مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام ہے۔ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى - جنت البقیع کے دروازے پر ہی حاضر ہو کر سلام عرض کرنا ضروری نہیں۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اس سمت سے حاضر ہوں جہاں سے قبلہ کو آپ کی پیٹھ ہو اور مدنونین کے چہرے آپ کی طرف ہوں۔

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة..... الخ، باب ماجاء فی الصلاة..... الخ، الحدیث: ۱۴۱۱، ج ۲، ص ۷۵، مفہومًا۔

②..... المجموع شرح المہذب، باب صفة الحج، ج ۸، ص ۲۷۶، فیہ: یاتی بئر اریس۔

③..... المجموع شرح المہذب، باب صفة الحج، ج ۸، ص ۲۷۶، دون للشفاء وتبرکابہ۔

شفیع ہوں گا۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں بروز قیامت اس کا

شفیع اور گواہ ہوں گا (۲)۔“ (۳)

## مدینہ منورہ سے واپسی کے آداب:

(زار) جب تمام تر مشغولیات سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زاکمہ اللہ شرفاً وتَعْظِيماً سے نکلنے کا ارادہ ہو تو روضہ انور پر

حاضر ہو کر بیان کردہ طریقے کے مطابق دعا و زیارت کرنا مستحب ہے۔ نیز بارگاہ رسالت میں الوداعی سلام پیش کرے

اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کرے کہ دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، سفر میں سلامتی کی دعا مانگے، پھر روضہ صغیرہ میں دو

رکعت نماز پڑھے یہ مسجد میں مقصورہ کے اضافہ سے پہلے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے کھڑا ہونے کی جگہ تھی۔ مسجد

سے نکلنے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالے پھر دایاں اور یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْہٗ

اٰخِرَ الْعٰہِدِ بِنَبِیِّکَ وَحَطَّ اَوْزَارِیْ بِرِیَازَتِہٖ وَاَصْحَبِیْنِیْ فِیْ سَفَرِی السَّلَامَہٗ وَیَسِّرْ رُجُوْعِیْ اِلٰی اٰہْلِیْ وَوَطَنِیْ سَالِمًا یَا اَرْحَمَ

①..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب الترغیب فی سکنی المدینة..... الخ، الحدیث ۱۳۷۴، ص ۱۵۔

②..... مُقَدِّر شہیر حکیمُ الْاُمّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 4، ص 222 پر اس کے تحت فرماتے

ہیں: ظاہر یہ ہے کہ یہ بشارت اور ہدایت سارے مسلمانوں کو ہے نہ کہ صرف مہاجرین کو یعنی جس مسلمان کی نیت مدینہ پاک میں

مرنے کی ہو وہ کوشش بھی وہاں ہی مرنے کی کرے کہ خدا نصیب کرے تو وہاں ہی قیام کرے خصوصاً بڑھاپے میں اور بلا ضرورت مدینہ

پاک سے باہر نہ جائے کہ موت و دفن وہاں کا ہی نصیب ہو، حضرت عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ دعا کرتے تھے کہ مولیٰ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں

شہادت کی موت دے، آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سبحان اللہ فجر کی نماز مسجد نبوی محراب النبی، مصلے نبی اور وہاں شہادت: میں

نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ تیس چالیس سال سے مدینہ منورہ میں ہیں، حد و مدینہ بلکہ شہر مدینہ سے بھی باہر نہیں جاتے، اسی خطرہ سے کہ

موت باہر نہ آ جائے حضرت امام مالک کا بھی یہی دستور رہا: یہاں شفاعت سے مراد خصوصی شفاعت ہے، گنہگاروں کے سارے گناہ

بخشوانے کی شفاعت اور نیک کاروں کے بہت درجے بلند کرنے کی شفاعت، ورنہ حضور انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اپنی ساری ہی امت

کی شفاعت فرمائیں گے: خیال رہے کہ مدینہ پاک میں رہنا بھی افضل، وہاں مرنا بھی اعلیٰ اور وہاں دفن ہونا بھی بہتر: بعض صحابہ بعد

موت مدینہ میں لا کر دفن کیے گئے: اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مدینہ پاک میں مرنے و دفن ہونے کی کوشش کرے وہ

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ایمان پر مرے گا، کیونکہ اس کے لئے شفاعت خاص کا وعدہ ہے اور شفاعت صرف مومن کی ہو سکتی ہے۔

③..... سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب فی فضل المدینة، الحدیث ۳۹۴۲، ج ۵، ص ۸۳۔

الرَّاحِمِينَ یعنی: اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے نبی کی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا، اس زیارت کے طفیل میرے (گناہوں وغیرہ کے) بوجھ کو اتار دے، سفر میں مجھے سلامتی عطا فرما اور مجھے اپنے وطن و گھر والوں کے پاس خیر و عافیت سے پہنچا، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے!“

(زار سے) جس قدر ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں رہنے والوں پر صدقہ کرے۔ نیز مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کے درمیان آنے والی مساجد میں حاضری دے اور وہاں نماز پڑھے، یہ 20 مساجد ہیں۔

## سفر سے واپسی کے آداب:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو زمین کی ہر بلند جگہ پر تین دفعہ تکبیر کہتے اور یہ کلمات پڑھتے تھے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّوبُ تَابُيُونُ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“ یعنی: اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کو سجدہ کرنے والے اور تعریف کرنے والے ہیں، اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تہما، (دشمن کے) لشکروں کو بھگا دیا۔“ (۱)

بعض روایات میں ہے کہ یہ (آیت مبارکہ بھی) پڑھتے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۸۸) (پ ۲۰، القصص ۸۸)

ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اس کی طرف پھر جاوے گا۔

واپسی میں اس سنت پر عمل کرے۔ جب اپنے شہر کے قریب پہنچے تو اپنی سواری کو حرکت دے اور یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا“ یعنی: اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمیں اس شہر میں سکون اور اچھا رزق عطا فرما۔“ (۲)

۱..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ما يقول اذا قفل من سفر الحج وغيره، الحديث: ۱۳۴، ص ۴۰۱۔

۲..... کنز العمال، کتاب الفضائل / فضائل الامكنة، الحديث: ۳۸۱۵، ج ۱۲، ص ۶۰۔

کسی کو گھر بھیج کر اپنے آنے کی خبر دے تاکہ اچانک گھر نہ جائے کہ یہی سنت ہے۔<sup>(۱)</sup>  
 رات کے وقت گھر والوں کے پاس نہ جائے۔ جب شہر میں داخل ہو تو پہلے مسجد میں جائے اور دو رکعت نماز  
 پڑھے کہ سنت ہے<sup>(۲)</sup> حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اسی طرح کیا کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>  
 جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: ”تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا لِعِنِّي: میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا  
 ہوں، اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ ہم پر کوئی گناہ باقی نہ رکھے۔“

## حج مقبول کی علامت:

جب گھر لوٹ کر مطمئن ہو جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے بیت اللہ شریف، حرم شریف اور روضہ انور کی زیارت  
 کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائیں انہیں نہ بھلائے۔ (لوٹنے کے بعد) اگر دوبارہ لہو و لعب، غفلت اور گناہوں میں  
 مشغول ہو جائے تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ نیز یہ حج مقبول کی علامت نہیں بلکہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ وہ  
 دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور زیارت بیت اللہ شریف کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات  
 کی تیاری کرے۔



### {..... منافق کی تین نشانیاں.....}

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں: (۱)..... جب  
 بات کرے تو جھوٹ بولے (۲)..... جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور (۳)..... جب اس کے پاس  
 امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔“  
 (صحیح البخاری، الحدیث: ۳۳، ج ۱، ص ۲۴)

①..... قال العراقي: لم اجد فيه ذكر الارسال، هامش الاحياء، ج ۱، ص ۵۹۰۔

②..... صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك..... الخ، الحديث: ۲۷۹۹، ص ۱۴۸۳۔

③..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب الدعاء اذا سفر، الحديث: ۱۰۳۰، ج ۵، ص ۲۱۰۔

## باب نمبر 3: حج کی باریکیاں اور باطنی اعمال دس قابل توجہ آداب:

﴿1﴾..... نفقہ حلال کمائی سے ہو اور ہاتھ دل کو مشغول کرنے والی اور خیالات کو منتشر کرنے والی تجارت سے خالی ہو تاکہ مکمل توجہ اللہ عزوجل ہی کی طرف ہو، دل مطمئن اور اللہ عزوجل کے ذکر اور اس کی نشانیوں کی تعظیم کی طرف متوجہ ہو۔ مروی ہے کہ ”آخری زمانے میں لوگ حج کے لئے چار قسمیں ہو کر نکلیں گے: بادشاہ عیش و عشرت کے لئے، امرا تجارت کے لئے، فقرا مانگنے کے لئے اور قراء دکھاوے کے لئے۔“ (۱)

مذکورہ حدیث پاک میں ایسے دنیوی مقاصد کی طرف اشارہ ہے جو حج کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں اور ایسی تمام چیزیں حج کی فضیلت کے حصول میں رکاوٹ بنتی اور خصوصی حج کی حد سے نکال دیتی ہیں، خصوصاً جب نفس حج کے بدلے تجارت کرے یعنی کسی کی طرف سے اجرت پر حج کرے اور اخروی عمل کے بدلے دنیا طلب کرے۔ متقی و پرہیزگار اہل دل نے اسے ناپسند فرمایا سوائے یہ کہ اس کا مکمل نکر مد زائدہا اللہ شرفاً وتَعْظِیماً میں ٹھہرنے کا ارادہ ہو اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو وہاں تک پہنچادے تو اس ارادے سے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دنیا کے ذریعے دین کا حصول مقصود ہو۔ اس وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہئے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گا اور اپنے بھائی سے فرض ساقط کر کے اس کی مدد کرے گا۔

### ایک حج کے بدلے تین کا جنت میں داخلہ:

حضور انور، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل ایک حج کے بدلے تین شخصوں کو داخل جنت فرمائے گا: (۱)..... وصیت کرنے والا (۲)..... اسے نافذ کرنے والا (۳)..... اپنے بھائی کی طرف سے حج کرنے والا۔“ (۲)

میں یہ نہیں کہتا کہ اجرت لینا جائز نہیں یا فرض حج ادا کرنے کے بعد کسی کا ایسا کرنا حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۹۳-۱۹۴۔

کنز العمال، کتاب الحج والعمرة، الباب الثالث، الحدیث: ۱۲۳۵، ج ۵، ص ۵۲، بتغیر۔

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب النيابة في الحج..... الخ، الحدیث: ۹۸۵، ج ۵، ص ۲۹۳، مفہوماً۔



نہ کرے اور اسے کمائی و تجارت کا ذریعہ نہ بنائے کیونکہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ دین کے بدلے دنیا عطا فرمادیتا ہے لیکن دنیا کے بدلے دین نہیں دیتا۔

## حج پر اجرت لینے والے کی مثال:

حدیث پاک میں ہے کہ ”جو راہِ خدا میں جہاد کرتا اور اجرت لیتا ہے اس کی مثال حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ماں کی سی ہے جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور اجرت لیتی تھی۔“ (۱)

حج پر اجرت لینے والے کی مثال حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ماں کی سی ہو تو اس کے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تو اس لئے لیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے حج و زیارت ممکن ہو، نہ کہ اجرت لینے کے لئے حج کرتا ہے بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حج پر قادر ہو سکے، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ماں اجرت لیتی تھی تاکہ ان کے لئے دودھ پلانا آسان ہو جائے کیونکہ لوگوں پر ان (یعنی ام موسیٰ) کا حال پوشیدہ تھا۔

﴿۲﴾..... ٹیکس دے کر اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے دشمن کی مدد نہ کرے اور وہ مسجد حرام سے روکنے والے مکہ کے امر اور وہ اعراب (یعنی دیہاتی) ہیں جو راستے میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ انہیں مال دینا ظلم پر ان کی مدد کرنا اور اسباب مہیا کر کے ان کے لئے آسانی کرنا ہے اور یہ خود اس کام میں مدد کرنے کے قائم مقام ہے۔ لہذا اس سے چھٹکارے کی تدبیر کرنی چاہئے اگر اس پر قادر نہ ہو تو بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: اگر نفلی حج چھوڑ دے اور راستے سے واپس آجائے تو یہ ظالموں کی مدد کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ بدعت ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی۔ اگر ان لٹیروں کی بات مان لی جائے تو یہ عام رواج بن جائے گا، نیز جزیہ دینے کے سبب مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے، کسی کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کہ مجھ سے لیا گیا، میں مجبور تھا کیونکہ اگر وہ گھر میں بیٹھا رہتا اور راستے سے واپس آجاتا تو اس سے کوئی چیز نہ لی جاتی بلکہ بعض اوقات خوشحالی کے اسباب ظاہر ہونے کے سبب ان کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے، اگر فقر کی وضع قطع اپنائے ہوتا تو اس سے مطالبہ نہ ہوتا۔ پس اس نے اپنے آپ کو خود حالتِ اضطرار میں مبتلا کیا۔

①..... الکامل فی ضعفاء الرجال، اسماعیل بن عیاش ۲، ج ۱، ص ۷۶، بتغییر۔

﴿3﴾..... زادِ راہ میں وسعت ہو، خوش دلی سے افراط و تفریط کے بغیر میانہ روی سے خرچ کرے۔ اسراف سے مراد مالداروں کی عادت کے مطابق طرح طرح کے کھانے کھانا اور مشروبات پینا ہے۔

### اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں:

محض زیادہ خرچ کرنے میں اسراف نہیں کیونکہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کام میں کوئی اسراف نہیں جیسے منقول ہے کہ ”راہِ حج میں مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور ایک درہم کے بدلے 700 درہم ہیں۔“

### سچی ہونے کی ایک علامت:

حضرت سپیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”سفر میں خوش دلی سے خرچ کرنا انسان کے سچی ہونے کی علامت سے ہے۔“ نیز فرمایا کرتے تھے: ”افضل حاجی وہ ہے جس کی نیت خالص، خرچ پاک اور یقین عمدہ ہو۔“ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! حج کی مقبولیت کس چیز سے ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اچھا کلام کرنا اور کھانا کھلانا۔“<sup>(۱)</sup>

﴿4﴾..... رفق، فسق اور جدال ترک کر دے جیسا کہ قرآن پاک میں حکم ہے۔ رفق: سے مراد ہر فضول، بیہودہ اور بے حیائی والی بات ہے، عورتوں کے بارے میں عشقیہ اور دل لگی کی باتیں کرنا، جماع اور اس کے مقدمات کے بارے میں گفتگو کرنا بھی اس میں شامل ہے کیونکہ یہ چیز جماع پر ابھارتی ہے جو اس وقت ممنوع ہے اور ممنوع کی طرف لے جانے والا کام بھی ممنوع ہوتا ہے۔ فسق: اطاعت الہی سے خارج ہر کام کو شامل ہے۔ جدال: سے مراد بہت زیادہ جھگڑنا ہے جس سے کینہ پیدا ہو جائے، اسی وقت ہمت منتشر اور حسن اخلاق ختم ہو جائے۔

حضرت سپیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”جس نے بیہودہ بات کی اس کا حج فاسد ہو گیا۔“ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کے ساتھ اچھی گفتگو کو بھی حج کی قبولیت کا سبب قرار دیا اور جھگڑا اچھی گفتگو کے منافی ہے۔ لہذا اپنے رفیق، اونٹ ہانکنے والے اور دیگر رفقا پر زیادہ اعتراض نہ کرے بلکہ اپنے پہلو کو نرم

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۹۹۵، ج ۳، ص ۲۸۶، باختصار۔

السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، الحدیث: ۱۰۳۹، ج ۵، ص ۲۳۱، بتقدم و تاخر۔

کرے، بیت اللہ شریف کی طرف جانے والوں کے لئے عاجزی کے بازو چھائے، حسن اخلاق کو لازم پکڑے۔ حسن خلق صرف اذیت دور کرنے کا نام نہیں بلکہ (دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی) اذیت برداشت کرنا بھی حسن خلق ہے۔

## سفر کو سفر کہنے کی وجہ:

منقول ہے کہ سفر کو سفر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، اسی وجہ سے جب ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سپید ناعمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کہا کہ میں فلاں شخص کو جانتا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس سے اس کے اچھے اخلاق کا پتا چلتا؟“ عرض کی: ”نہیں۔“ فرمایا: ”میرا خیال ہے کہ تم اسے نہیں جانتے۔“

## ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر:

﴿5﴾..... اگر ہو سکے تو پیدل حج کرے کہ افضل ہے۔ حضرت سپید ناعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بوقت موت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے میرے بیٹو! پیدل حج کرو کیونکہ پیدل حج کرنے والے کے لئے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے سات سو نیکیاں ہیں؟“ عرض کی گئی: ”حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟“ فرمایا: ”ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔“

راستے کی بنسبت، ارکان حج ادا کرتے ہوئے مکہ شریف سے میدان عرفات اور منیٰ کی طرف پیدل چلنے کی زیادہ تاکید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ط (ب، ۲، البقرة: ۱۹۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو۔

امیر المؤمنین حضرت سپید ناعمر فاروق، امیر المؤمنین حضرت سپید ناعلی المرتضیٰ اور معلم الامم حضرت سپید ناعبد اللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”اگر گھر سے ہی احرام باندھ کر چلے تو یہ حج کی تکمیل ہے۔“

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”سوار ہونا افضل ہے کیونکہ اس میں مال خرچ کرنا ہے۔ نیز اس میں نفس کو زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اسے اذیت میں مبتلا نہیں کیا جاتا، سلامتی زیادہ اور حج کو مکمل کرنا ہے۔“

## تطبیق:

حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہونی چاہئے اور یوں کہا جائے کہ جس کے لئے پیدل چلنا آسان ہو اس کے لئے پیدل چلنا افضل ہے اور جو کمزور ہو کہ پیدل نہ چل سکے، نیز پیدل چلنے کے سبب بد اخلاقی اور عمل میں کوتاہی پیدا ہو تو سوار ہونا افضل ہے جیسا کہ مسافر کے لئے روزہ افضل ہے اور مریض کے لئے تب افضل ہے جبکہ کمزوری اور بد اخلاقی پیدا نہ ہو۔

## جو نفس پر گراں گزرتا ہو وہ عمل افضل ہے:

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام سے عمرے کے متعلق پوچھا گیا کہ اس میں پیدل چلے یا ایک درہم کے بدلے سواری کرائے پر لے لے تو فرمایا: ”اگر ایک درہم خرچ کرنا زیادہ معلوم ہوتا ہو تو کرائے پر جانا پیدل چلنے سے افضل ہے اور اگر پیدل چلنا مشکل لگتا ہو جیسا کہ امراتو اس کے لئے پیدل چلنا افضل ہے۔“

گویا انہوں نے مجاہدہ نفس کا طریقہ اختیار کیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ پیدل چلے اور درہم کو بھلائی کے کام میں خرچ کر دے اور ایسا کرنا سواری کرائے پر لینے سے بہتر ہے۔ اگر اس کا نفس پیدل چلنے اور مال خرچ کرنے کی دوہری مشقت برداشت نہ کرے تو مذکورہ (بعض علما کی بیان کردہ) صورت ہی مناسب ہے۔

## سوار ہونے سے متعلق آداب:

﴿6﴾..... بوجھ اٹھانے والے جانور پر بغیر کجاوے کے سوار ہو۔ البتہ، جب خوف ہو کہ کسی عذر کی وجہ سے جانور (کی پیڑھ) پر نہ ٹھہر سکے گا تو کجاوے میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں: (۱)..... سواری پر تخفیف کرنا کیونکہ کجاوہ اسے تکلیف دیتا ہے (۲)..... خوشحال متکبر لوگوں کی وضع قطع سے بچنا۔

مروی ہے کہ ”حضور نبی اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے جس سواری پر سوار ہو کر حج کیا اس پر پرانا کجاوہ اور پھٹا ہوا کپڑا تھا جس کی قیمت چار درہم تھی،<sup>(۱)</sup> اور سواری پر ہی طواف فرمایا تاکہ لوگ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

1..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الحج علی الرحل، الحدیث ۲۸۹، ج ۳، ص ۴۰۹، بتغییر۔

وَسَلَّمَ كَطَرِيقَتِيْ وَأُرْعَادَتِيْ مَبَارَكَةً كَوَدِيْكَهِيْنَ۔“ (۱) اور ارشاد فرمایا: ”اپنے ارکانِ حج مجھ سے سیکھ لو۔“ (۲)

منقول ہے کہ کجاوے میں سوار ہونا حاجی بن یوسف ثقفی کا ایجاد کردہ طریقہ ہے اور اس دور کے علما سے ناپسند کرتے تھے۔

### حکایت: پسندیدہ حاجی:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِيْ كَالِدِ الْمُحْتَرَمِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتِيْ هِيْنَ: ”مِيْنَ حَجِّ كَلَيْ ” كَوْفَه“ سِي ” قَادِسِيَه“ كِي طَرَفِ كِيَا، وَهَاهُنَا شَهْرُ كَرَفَقَاعِلِ كَسِيْ، مِيْنَ نِيْ دِيْكَهَا كِي تَمَامِ حَاجِي سَوَارِ هِيْنَ اِن كِي پَاسِ كَجَاوِيْ وَ اُرْعَادَه فَتَم كِي كِيْطْرِيْ تَحِيْ سَوَائِيْ دَو كِي كِي وَه صَرَفِ كَجَاوِيْ وَ پَر سَوَارِ تَحِيْ۔ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَصِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِيْ حَاجِيُوْ كِي لِبَاسِ اُوْر كَجَاوِيْ وَ كَوِيْ كِيَا تُو فَرَمَا يَا: ” حَاجِي كَمِ اُوْر سَوَارِ زِيَادَه هِيْنَ۔“ پھر ایک مسکین شخص کو دیکھا جس کی حالت کمزور تھی، اس کے نیچے اونی کپڑا تھا تو فرمایا: ”یہ کتنا اچھا حاجی ہے۔“

### حاجی کو کیسا ہونا چاہئے؟

﴿7﴾..... حاجی کا لباس عام و سادہ ہو، پراگندہ حال اور کھڑے بالوں والا ہو، زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال میں زیادتی چاہنے کے اسباب کی طرف مائل ہو ورنہ اس کا نام متکبرین اور دنیا داروں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا اور وہ کمزوروں، مسکینوں اور نیکوکاروں کے گروہ سے نکل جائے گا حالانکہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پراگندہ بالوں اور ننگے پاؤں والا ہونے کا حکم دیا، (۳) ہمیش و عشرت اور عیاش ہونے سے منع فرمایا۔ (۴)

①..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب جواز الطواف علی بعیر وغیرہ..... الخ، الحدیث: ۱۲۴۳، ص ۲۶۲۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب رمی جمرة العقبة..... الخ، الحدیث: ۱۲۹، ص ۲۷۵۔

③..... مجمع الزوائد، کتاب اللباس، باب ترک الرفاہیة، الحدیث: ۸۶۰-۸۶۱، ج ۵، ص ۲۳۰، مفہومًا۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، الحدیث: ۴۱۶، ج ۴، ص ۱۰۲، فیہ لفظ ”ینہاناعن کثیر من الرفاہ۔“

ایک روایت میں ہے کہ ”حج کرنے والا وہ ہے جو میلا اور بو والا ہو<sup>(۱)</sup>۔ (۲) اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو وہ میرے پاس دور دور سے پراگندہ بالوں اور گرد آلود چہروں کے ساتھ آئے ہیں۔“ (۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (پ ۱، الحج: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: پھر اپنا میل کچیل اُتاریں۔

”تَفَثٌ“ کا معنی بالوں کا بکھرا ہونا اور چہرے کا گرد آلود ہونا ہے اور ”قَضَاءُ“ سے مراد بال منڈانا، موچھیں ترشوانا اور ناخنوں کا ٹنا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے لشکروں کے سرداروں کو لکھا کہ ”پرانے اور کھر درے لباس پہنو۔“

منقول ہے کہ حاجیوں کی زینت اہل یمن ہیں کیونکہ وہ عاجزی اور مسکینی اختیار کرتے اور اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام کے طور طریقوں پر چلتے ہیں۔ لہذا حاجی کو خصوصی طور پر سرخ لباس اور عمومی طور پر لباس شہرت سے بچنا چاہئے۔ مروی ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ سفر میں تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جب اونٹ چرنے لگے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پالانوں پر سرخ کپڑے دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخ رنگ تم پر غالب آنے لگا ہے۔“ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اسی وقت اٹھے اور ان کی پیٹھوں سے وہ کپڑے اتار لئے یہاں تک کہ بعض اونٹ بدکنے لگے۔ (۴)

①..... مُفسِّر شہیر حکیمُ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 4، ص 96 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: سوال یہ تھا کہ کامل حاجی کون ہے۔ فرمایا جس پر دو علامتیں ہوں۔ پراگندگی بال سر میلا، کیونکہ بحالت احرام بال ٹوٹنے کے اندیشہ سے سر کم دھوتے ہیں اور بو والا کیونکہ بحالت احرام خوشبو لگانا منع ہے، اور بسا اوقات پسینہ اور لوگوں کے ازدہام سے کچھ بوسے محسوس ہونے لگتی ہے: خلاصہ یہ ہے کہ حاجی بحالت حج دنیاوی، تکلفات سے ایک دم کنارہ کش ہو جاتا ہے۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب مایو جب الحج، الحدیث ۲۸۹، ج ۳، ص ۳۱۲۔

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک / فضل الوقوف بعرفات، الحدیث ۴۰۶، ج ۳، ص ۴۶۰۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی الحمرة، الحدیث ۴۰۷، ج ۴، ص ۷۴، مفہوماً۔

## سواری کے متعلق آداب:

﴿8﴾..... سواری کے ساتھ نرم برتاؤ کرے، اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادے، کجاوہ بھی اس کی طاقت سے باہر ہے، سواری پر سونا اس کے لئے اذیت کا باعث اور اس پر بوجھ بنتا ہے۔ اہل تقویٰ سوار یوں پر نہیں سوتے تھے صرف بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور اس پر زیادہ دیر بیٹھتے بھی نہیں تھے۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسیاں نہ بناؤ۔“<sup>(۱)</sup>

صبح و شام سواری کے جانور سے اترنا مستحب ہے کہ اس سے وہ راحت پائے گا۔<sup>(۲)</sup> نیز یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس بارے میں اسلاف کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ اس شرط پر جانور کرائے پر لیتے تھے کہ جانور سے اتریں گے نہیں اور پوری اجرت دیں گے پھر اتر جاتے تھے تاکہ یوں وہ جانور سے بھلائی کرنے والے ہو جائیں۔ پس یہ عمل ان کی نیکی شمار ہوتا اور (بروز قیامت) ان کے میزان میں رکھا جائے گا کرائے پر دینے والے کے میزان میں نہیں رکھا جائے گا۔ جس نے کسی چوپائے کو اذیت دی اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابودرداء عَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بوقت موت اپنے اونٹ سے فرمایا: ”اے اونٹ! اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے نہ بھگڑنا، میں نے تجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لاد۔“

## خلاصہ کلام:

ہر گرم جگر (یعنی جاندار چیز) میں اجر ہے۔ لہذا سواری اور کرائے پر دینے والے کے حق کی رعایت کرنی چاہئے اور گھڑی بھر اس سے اترنے میں سواری کو راحت دینا اور اس کے مالک کے دل کو خوش کرنا ہے۔

## تقویٰ ہو تو ایسا:

ایک شخص نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سے کہا: ”میرا یہ خط فلاں تک پہنچادیں۔“ آپ نے فرمایا: ”(ٹھہرو!) میں سواری کے مالک سے اجازت لے لوں کیونکہ میں نے یہ جانور کرائے پر لیا ہے۔“

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند المکین، حدیث معاذ بن انس الجہنی، الحدیث: ۱۵۶۵، ج ۵، ص ۳۱۵، مفہومًا۔

②..... مجمع الزوائد، کتاب الحج، باب المشی عن الرواحل، الحدیث: ۵۳۱، ج ۳، ص ۲۹۲۔

غور کیجئے! انہوں نے خط اٹھانے کے معاملے میں بھی تقویٰ اختیار کیا حالانکہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تقویٰ میں یہ احتیاط کا طریقہ ہے کیونکہ اگر تھوڑے کام کا دروازہ کھل جائے تو یہ آہستہ آہستہ زیادہ کی طرف لے جاتا ہے۔

﴿۹﴾..... جانور کا خون بہا کر (یعنی قربانی کر کے) قرب الہی حاصل کرے اگرچہ واجب نہ ہو اور کوشش کرے کہ جانور موٹا تازہ اور عمدہ ہو۔ اگر نقلی قربانی ہو تو اس میں سے کھائے اور واجب ہو تو نہ کھائے (عند الشوافع)۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿۳۱﴾ (پہ ۱، الحج: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

اس فرمان باری تعالیٰ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ یہاں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ میقات سے قربانی کا جانور لے جانا افضل ہے جبکہ مشقت اور دشواری نہ ہو، خریدتے وقت قیمت نہ گھٹائے، کہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْنِ تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے اور کم کرانے کو ناپسند کرتے تھے: (۱)..... ہدی (۱) (۲)..... قربانی کا جانور اور (۳)..... غلام۔ کیونکہ ان میں زیادہ قیمت والا مالک کے نزدیک زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔

### سیدنا فاروق اعظم اور 300 دینار:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے لئے ایک بختی اونٹ لائے، آپ سے 300 دینار میں طلب کیا گیا، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بیچ کر دوسرا اونٹ خرید لوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اسے ہی قربان کرو۔“ (۲)

اس لئے کہ تھوڑی اعلیٰ چیز زیادہ ادنیٰ چیز سے بہتر ہے اور تین سو دینار کے تیس جانور آسکتے تھے، ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا لیکن مقصود گوشت نہیں بلکہ مقصود تو نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے تعظیم و حسن و خوبی سے مزین کرنا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

۱..... ہدی: اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لئے حرم کو لے جایا جائے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۲۱۳)

۲..... سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب تبدیل الہدی، الحدیث ۱۷۵۷، ج ۲، ص ۲۰۷، مفہوماً۔



لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ  
يَبَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ<sup>ط</sup> (پ ۱، الحج: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

اور تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب قیمت میں عمدگی کی رعایت کی جائے چاہے تعدا کم ہو یا زیادہ۔  
حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی: ”حج کی نیکی کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”الْعَبْرُ وَالشَّيْبُ“ عِبْرٌ سے مراد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور نَجْحٌ سے مراد جانور کی قربانی کرنا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بقرہ عید کے دن سب سے افضل نیکی:

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔“<sup>(۲)</sup>

حدیث پاک میں ہے کہ ”تمہارے لئے قربانی کے جانور کی اون کے ہر بال کے عوض نیکی ہے اور خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ہے، یہ نیکیاں میزان میں رکھی جائیں گی، پس تمہارے لئے خوشخبری ہے۔“<sup>(۳)</sup>  
ایک روایت میں ہے کہ ”اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گی۔“<sup>(۴)</sup>

{10}..... راہ حج میں زادراہ یا قربانی وغیرہ میں جو مال خرچ کرے خوش دلی سے کرے، نیز مال یا بدن میں کسی قسم کا نقصان ہو یا کوئی مصیبت پہنچے تو اسے بھی خوش دلی سے قبول کرے (اور صبر کرے) کیونکہ یہ حج قبول ہونے کی دلیل ہے۔

①..... مسند البزار، مسند ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ الحدیث: ۷۴، ج ۱، ص ۱۴۴۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الاضاحی، باب ثواب الاضحیۃ، الحدیث: ۳۱۲، ج ۳، ص ۵۳۱۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون فی ذکر دعائم الاسلام..... الخ، ج ۴، ص ۱۹۶-۱۹۷۔

④..... تلخیص الحبیر، کتاب الضحایا، الحدیث: ۱۹۵۳، ج ۴، ص ۳۴۱، مفہومًا۔

## سفر حج میں مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت:

سفر حج میں مصیبت پر صبر کرنا راہ خدا میں خرچ (یعنی صدقہ) کرنے کے برابر ہے کہ ایک درہم کے بدلے 700 درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز یہ جہاد میں تکلیف پہنچنے کی مثل ہے۔ لہذا حاجی جو بھی تکلیف پائے یا نقصان اٹھائے (صبر کرنے پر) اسے ثواب ملے گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔

## قبولیت حج کی ایک علامت:

منقول ہے کہ قبولیت حج کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن نافرمانیوں میں مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، لہو و لعب اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محافل اختیار کرے۔

## باطنی اعمال اور اخلاص

باطنی اعمال، خلوص نیت، مقامات مقدسہ سے کچھ حاصل کرنے، ان میں غور و فکر کرنے

اور ابتدائے حج سے اختتام تک کے اسرار و معانی کو یاد کرنے کا بیان

جان لیجئے! حج کے متعلق چند امور کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ دین میں حج کا کیا مقام ہے، پھر اس کا شوق رکھنا، اس کا عزم کرنا، اس سے روکنے والی چیزوں کو ختم کرنا، احرام کے کپڑے خریدنا، زادِ راہ خریدنا، کرائے پر سواری لینا، حج کے لئے نکلنا، جنگلوں کا سفر طے کرنا، میقات سے تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا، مکہ مکرمہ ذَاکَمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں داخل ہونا پھر بیان کردہ طریقے کے مطابق افعال حج کو مکمل کرنا۔ ان امور میں سے ہر ایک میں نصیحت ماننے والے کے لئے نصیحت، عبرت حاصل کرنے والے کے لئے عبرت، مرید صادق کے لئے تنبیہ اور ہر ذہین کے لئے معرفت و اشارہ ہے۔ ہم ان کی کنجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کا دروازہ کھل جائے اور تم ان کے اسباب جان لو اور ہر حاجی کے لئے ان کے وہ اسرار و رموز کھل جائیں جنہیں ان کی قلبی صفائی، باطنی طہارت اور سمجھ بوجھ کی رسائی چاہتی ہے۔

## حج کا مفہوم:

جان لیجئے کہ بارگاہِ الہی تک رسائی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ شہوات سے بچا جائے، لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، ضرورتوں پر اکتفا کیا جائے اور تمام حرکات و سکنات میں اخلاص اپنایا جائے، اسی وجہ سے سابقہ امتوں کے راہب مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے اور مخلوق سے وحشت کو ترجیح دی تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ انیسیت حاصل کریں۔ پس انہوں نے رضائے الہی کی خاطر لذات کو ترک کر دیا اور آخرت میں رغبت رکھتے ہوئے مجاہدات کو خود پر لازم کر لیا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قَسِيْسِيْنَ وَمُرْهَبَانًا  
وَآنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ (پ ۶، المائدہ: ۸۲)

ترجمہ کنز الایمان: یہ اس لئے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔

## سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد:

جب یہ چیز مٹ گئی اور لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے تنہائی اختیار کرنے کو چھوڑ دیا اور اس میں سستی کرنے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ آخرت کے راستے کو زندہ کریں اور اس پر چلنے میں پہلے رسولوں کی سنت کی تجدید فرمائیں۔ جب مختلف مذاہب کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دین میں رہبانیت (یعنی گوشہ نشینی) اور سیاحت کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں اس کے بدلے جہاد اور ہر بلند مقام پر تکبیر کہنے کا حکم دیا۔“<sup>(۱)</sup> یہاں جہاد سے مراد حج ہے اور سیاحوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”وہ روزے دار ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو ان کے لئے رہبانیت قرار دیا، بیت اللہ شریف کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے عزت عطا فرمائی اور اسے اپنے بندوں کے ارادوں کا مقام بنایا، اس کی شان و عظمت کے پیش نظر اس کے ارد گرد کو حرم قرار دیا، میدان عرفات کو حرم کے میدان کی طرح کر دیا، مکہ مکرمہ کے شکار اور درختوں کی حرمت بیان

①..... سنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب فی النهی عن السباحة، الحدیث: ۲۴۸، ج ۳، ص ۹، باختصار۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب فضل الحرس والتکبیر فی سبیل اللہ، الحدیث: ۲۷، ج ۳، ص ۳۲۲، باختصار۔

②..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصیام، باب فی فضل شہر رمضان..... الخ، الحدیث: ۸۵، ج ۴، ص ۵۰۳۔

کر کے اس کی حرمت کو مزید پختہ اور بادشاہوں کے دربار کی طرح قرار دیا، اس کی طرف دور دراز سے پراگندہ بالوں اور گرد آلود چہروں والے زائرین بیت اللہ شریف کے رب کے لئے عاجزی کرتے اور اس کی جلالت و عزت کے سامنے خشوع و خضوع اپناتے ہوئے حاضر ہوتے اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک ہے کہ کوئی گھریا شہر اس کا احاطہ کرے تاکہ ان کی غلامی اور بندگی مزید بڑھے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی تکمیل ہو۔

## اعمال حج اور دیگر عبادات میں فرق:

حج میں ان اعمال کی بجا آوری کا حکم ہے جن سے لوگ مانوس نہیں اور نہ ہی عقل ان کے باطنی معنی تک رسائی پاتی ہے جیسے رمی جمار اور صفا مروہ کی سعی۔ اس جیسے اعمال سے غلامی اور بندگی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ میں نرمی ہے، اس کی حکمت سمجھ آتی اور عقل اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ روزہ اس خواہش کو توڑتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن شیطان کا آلہ ہے اور مصروفیات سے رُک کر عبادت کے لئے فارغ ہونا ہے۔ نماز میں رکوع و سجود ایسے افعال ہیں جن کی ادائیگی کے طریقے میں ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی پائی جاتی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعظیم سے لوگوں کو انس ملتا ہے لیکن بار بار صفا مروہ کے درمیان دوڑنے، جمرات کو کنکریاں مارنے اور اس جیسے دیگر افعال حج میں نفوس کا کوئی حصہ نہیں، نہ ان سے طبیعت کو انس ملتا ہے اور نہ ہی عقل کی ان کے باطنی معانی تک رسائی ہوتی ہے۔ لہذا ان کی بجا آوری کا باعث محض حکم الہی ہے، حکم کی بجا آوری اس اعتبار سے ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، عقل کو اس میں تصرف سے روکنا اور نفس و طبیعت کو ان کے محل انس سے پھیرنا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس کے معنی تک عقل کی رسائی ہو طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو یہ میلان حکم ماننے میں معاون ثابت ہوتا اور اس کام کا باعث بنتا ہے، اس سے غلامی اور فرمانبرداری کا کمال ظاہر نہیں ہوتا اسی لئے حضور انور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حج کے متعلق خصوصی طور پر ارشاد فرمایا: ”میں حج کے لئے حاضر ہوں جو خالص بندگی کا حق ہے۔“<sup>(۱)</sup> جبکہ نماز وغیرہ کے متعلق یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔

## حکمت الہی کا تقاضا:

حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ مخلوق کی نجات ان اعمال سے مربوط ہو جو طبیعتوں کی خواہش کے مخالف ہوں اور

①.....مجمع الزوائد، کتاب الحج، باب الاہلال، والتلبیۃ، الحدیث: ۵۳۶، ج ۳، ص ۵۰۷۔

مخلوق کی لگام شریعت کے ہاتھ میں ہو اور وہ انہیں تسلیم کرنے اور بندگی کے طریقے پر بجالائیں۔ کیونکہ جن اعمال کے باطنی معانی سمجھ نہیں آتے وہ تزکیہ نفس، طبیعت کے تقاضے اور عادات کو بندگی کی طرف پھیرنے کے سلسلے میں زیادہ بلیغ ہوتے ہیں (اس لئے کہ ان میں خالص بندگی پائی جاتی ہے)۔ یہ بات سمجھ جاؤ تو تم جان لو گے کہ ان عجیب افعال میں نفوس کا تعجب کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ عبادات کے اسرار سے بے خبر ہیں۔ حج کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے اتنی وضاحت کافی ہے۔

## حج کا شوق:

اس کا شوق تب پیدا ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بیت اللہ شریف اللہ عزوجل کا گھر ہے، یہ حاضری بادشاہوں کے دربار میں حاضری کی مثل ہے، اس کا قصد کرنے والا اللہ عزوجل کا قصد کرنے والا اور اس کی زیارت کرنے والا ہے۔ بے شک جس نے دنیا میں بیت اللہ شریف کا قصد کیا وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی زیارت ضائع نہ ہو، اسے مقررہ مدت میں زیارت کا مقصود عطا کر دیا جائے اور وہ آخرت میں دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے کیونکہ دنیا میں فنا ہونے والی اور ناقص آنکھ میں اللہ عزوجل کے وجہ کریم کو قبول کرنے کی تاب نہیں، نہ ہی اسے برداشت کر سکتی اور اپنی کمزوری کے باعث اسے بطور سرمہ بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے، اس کے برعکس آخرت میں اسے باقی رہنے پر مدد ملے گی اور تغیر و فنا کے اسباب سے پاک ہو جائے گی تو دیدار الہی کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن وہ بیت اللہ شریف کا قصد کرنے اور اس کا دیدار کرنے کے سبب یقینی طور پر وعدہ الہی کے مطابق بیت اللہ کے رب کے دیدار کا مستحق ہو جائے گا۔ محبت ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جسے اس کے محبوب سے نسبت ہوتی ہے۔ جب بیت اللہ شریف کو رب عزوجل سے نسبت ہے تو محض اس نسبت کی وجہ سے اس کا مشتاق ہونا چاہئے چہ جائیکہ اس پر وہ عظیم ثواب ملے یا نہ ملے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

## حج کا عزم:

عازم مکہ و مدینہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال، وطن اور خواہشات و لذات کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہے تو اس کے دل میں بیت اللہ شریف اور اس کے رب کی تعظیم ہونی چاہئے اور اسے

معلوم ہونا چاہئے کہ اس نے رفیع الشان کام کا ارادہ کیا ہے، جس کا معاملہ مشکل ہے اور جو بڑے کام کا ارادہ کرتا ہے اسے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا اس کا عزم خالص رضائے الہی کے لئے ہو جس میں دکھاوے اور شہرت کا شائبہ بھی نہ ہو، اسے یقین ہونا چاہئے کہ اس کی نیت اور عمل میں سے وہی قبول ہوگا جس میں اخلاص ہوگا۔ یہ بہت بڑی برائی ہے کہ کوئی بادشاہ کے گھر اور اس کے حرم کا ارادہ کرے لیکن مقصود کچھ اور ہو۔ پس اس کا ارادہ صحیح ہونا چاہئے اور یہ تب صحیح ہوگا جب اخلاص ہوگا اور اخلاص تب ہوگا جب دکھاوے و شہرت وغیرہ سے مکمل اجتناب کرے گا۔ لہذا عمدہ چیز کے بدلے حقیر چیز لینے سے بچنا چاہئے۔

### تمام تر خیالات سے دل کو پاک کرنا:

اس کا معنی یہ ہے کہ ظلماً لیا ہوا مال واپس کرنا اور تمام گناہوں سے خالصتاً اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے لئے توبہ کرنا۔ ہر زیادتی ایک علاقہ ہے اور ہر علاقہ قرض خواہ کی طرح ہے جو اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے: ”تو کس طرف متوجہ ہے؟ کیا تو بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا حالانکہ اپنے گھر میں تو اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، اسے حقیر جان رہا اور اس کی تعمیل نہیں کر رہا کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ اس کی بارگاہ میں نافرمان بندے کی طرح پیش ہو اور وہ تجھے ٹھکرادے، قبول نہ کرے؟ اگر تیری خواہش ہے کہ تیرا یہ زیارت کرنا قبول ہو تو اس کے احکام پر عمل کر، ظلماً لیا ہوا مال لوٹا دے، پہلے اس کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے سچی توبہ کر، اپنے دل کو کسی اور جانب متوجہ ہونے سے روک لے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جیسے ظاہری چہرہ سے اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں اپنے اس سفر میں تجھے تھکاؤٹ و بدبختی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور آخرت میں تجھے دھتکار کر لوٹا دیا جائے گا۔ اپنے وطن کے ساتھ تعلقات کو اس طرح دل سے نکال دے جس طرح کوئی شخص وطن کو چھوڑ دیتا اور دل میں خیال کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنے اہل و عیال کے لئے وصیت لکھے کیونکہ مسافر اور اس کا مال خطرے میں ہوتے ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ عزَّ وَّجَلَّ محفوظ رکھے۔ جب سفر حج کے لئے جدا ہو رہا ہو تو سفر آخرت کے لئے سب سے جدا ہونے کو یاد کرے کیونکہ وہ بھی قریب اور سامنے ہے۔ سفر حج میں جو کچھ پیش آئے اسے سفر آخرت کی آسانی کا ذریعہ سمجھے کیونکہ وہ مستقل ٹھکانا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لہذا اس سفر کی تیاری کے وقت اُس سفر سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔

## زاہراہ:

زاہراہ حلال جگہ سے حاصل کرے، جب محسوس کرے کہ نفس اس کی کثرت کا حریص ہے اور چاہتا ہے کہ دور دراز سفر کے باوجود وہ بچا رہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئے اور نہ ہی مقصد تک پہنچنے سے پہلے وہ خراب ہو تو یاد کرے کہ سفرِ آخرت اس سفر سے بہت طویل ہے، اس کا زاہراہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ جس چیز کو زاہراہ گمان کیا جاتا ہے وہ موت کے وقت دنیا میں ہی رہ جائے گی اور خیانت کرے گی، وہ اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گی جیسے تازہ کھانا جو سفر کی پہلی منزل پر ہی خراب ہو جاتا ہے اور ضرورت کے وقت انسان حیران و پریشان اور محتاج ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہوتا، لہذا اسے ڈرنا چاہئے کہ اس کے وہ اعمال جو آخرت کا زاہراہ ہیں موت کے بعد اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ وہ ریا کاری کے شائبے اور کوتاہی کی میل کچیل سے خراب ہو جائیں گے۔

## سواری:

جب سواری کے پاس پہنچے تو دل سے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کے لئے سواری کو مسخر کیا تاکہ اس سے تکلیف دور اور مشقت کم کرے، اس وقت اس سواری کو یاد کرے جس پر سوار ہو کر آخرت کی طرف جائے گا اور وہ جنازہ (کی چارپائی) ہے جس پر ڈال کر اسے لے جایا جائے گا کیونکہ حج کا معاملہ ایک اعتبار سے سفرِ آخرت کی طرح ہے تو اسے دیکھنا چاہئے کہ کیا اس سواری پر سفر اس قابل ہے کہ اس سواری (جنازہ) پر سفرِ آخرت کرے اور وہ سفر اس کے کس قدر قریب ہے، اسے کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ موت قریب ہو اور سواری پر سوار ہونے سے پہلے ہی اسے جنازہ کی چارپائی پر سوار ہونا پڑے۔ جنازہ پر سوار ہونا تو یقینی ہے جبکہ اسبابِ سفر کی آسانی مشکوک ہے۔ تو کوئی عقل مند کیسے مشکوک اسبابِ سفر میں احتیاط سے کام لیتا، اس کے لئے زاہراہ اور سواری لیتا ہے اور یقینی سفر کا معاملہ مہمل چھوڑ دیتا ہے؟

## احرام کے کپڑے خریدنا:

احرام کے کپڑے خریدتے ہوئے کفن اور اس میں لپیٹے جانے کو یاد کرے کیونکہ عنقریب بیت اللہ شریف سے قریب ہوتے وقت وہ احرام کی ایک چادر نیچے اور دوسری اوپر باندھے گا اور ہو سکتا ہے اس کا سفر مکمل بھی نہ ہو اور وہ یقینی

طور پر کفن کے کپڑوں میں لپٹا ہوا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرے تو جس طرح وہ عام لباس کے برعکس لباس میں بیت اللہ شریف سے ملاقات کرتا ہے اسی طرح موت کے بعد دنیوی لباس کے مخالف لباس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرے گا۔ احرام بھی کفن کی طرح بغیر سلا ہوا ہوتا ہے۔

## روانگی:

شہر سے روانہ ہوتے وقت اسے علم ہونا چاہئے کہ اس نے اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ دیا اور ایسے سفر کی طرف پیش قدمی کر دی ہے جو دنیوی سفروں کے مشابہ نہیں۔ لہذا اپنے دل میں یہ بات حاضر کرے کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ کس کی طرف متوجہ ہے؟ کس کی زیارت کا قصد کر رہا ہے؟ دیگر زائرین کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہے، جنہیں پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا، انہیں زیارت کا شوق دلایا گیا تو وہ مشتاق ہو گئے، انہیں رغبت دلانی گئی تو وہ تیار ہو گئے، انہوں نے تمام رشتے ناٹے ختم کر دیئے، لوگوں سے جدائی اختیار کر لی اور بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے جس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شان بلند فرمائی، اسے قدر و منزلت عطا فرمائی تاکہ وہ ربّ کعبہ سے ملاقات کی جگہ بیت اللہ شریف کی ملاقات سے دل کو تسلی دے لیں یہاں تک کہ ان کی آخری تمنا پوری کر دی جائے اور وہ اپنے ربّ عَزَّوَجَلَّ کے دیدار کی سعادت پالیں۔ اُسے چاہئے کہ دل میں بارگاہِ الہی تک رسائی اور قبولیت کی اُمید رکھے اور یوں نہ کہے کہ میں نے اتنی مدت سے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو چھوڑا ہوا ہے بلکہ فضلِ الہی پر بھروسہ رکھے اور یہ امید رکھے کہ جو اس کے گھر کی زیارت کرے اس سے وعدہ پورا کیا جاتا ہے اور امید رکھے کہ اگر کعبۃ اللہ المشرفہ تک نہ پہنچ سکا اور راستے میں موت آگئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یوں ملاقات کرے گا کہ وہ اس کی طرف سفر کرنے والا ہوگا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن مجید، فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ ورسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آیا تو اس کا ثواب اللہ

کے ذمہ پر ہو گیا۔

عَلَى اللَّهِ ط (۵، النساء: ۱۰۰)



## جنگل و بیابان کا سفر:

میقات کی طرف جاتے ہوئے جنگلوں میں داخل ہونے اور ان گھاٹیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس وقت کو یاد کرے کہ موت سے قیامت تک کے عرصہ میں جو ہول ناک معاملہ پیش آئے گا اور سوالات ہوں گے، ڈاکوؤں کے خوف سے منکر نکیر کے سوالات کی ہول ناک کو یاد کرے، درندوں سے قبر کے پچھوؤں، کیڑے مکوڑوں اور سانپوں کو یاد کرے، گھر بار اور رشتہ داروں سے جدائی کو قبر کی تنہائی، سختی اور تنہائی کا پیش خیمہ سمجھے۔ الغرض اپنے اعمال و اقوال میں جس چیز سے بھی خوف کرے اسے قبر کی ڈراؤنی چیزوں کے لئے سامان بنائے۔

## میقات سے احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا:

جان لیجئے کہ اس کا معنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پکار کو قبول کرنا ہے تو اس کے مقبول ہونے کی امید رکھے اور اس سے ڈرے کہ کہیں ”لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“ یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں، نہ کہہ دیا جائے۔ پس اُمید اور خوف کے درمیان رہے، اپنی قوت و طاقت کے بجائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے کیونکہ تلبیہ کا وقت ابتدائی معاملہ ہے اور یہ خطرے کا مقام ہے۔

## کہیں ”لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“ نہ کہہ دیا جائے:

حضرت سپد ناسفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: حضرت سپد ناعلی بن حسین (یعنی سپد نامام زین العابدین رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ) جب حج کے ارادے سے احرام باندھ کر سواری پر بیٹھ گئے تو رنگ زرد ہو گیا اور کپکپی طاری ہو گئی حتیٰ کہ تلبیہ بھی نہ کہہ سکے۔ عرض کی گئی: ”آپ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟“ فرمایا: ”مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں۔“ جب تلبیہ کہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور سواری سے نیچے تشریف لے آئے، حج مکمل کرنے تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔

حضرت سپد نا احمد بن ابی حواری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَارِی فرماتے ہیں: میں حضرت سپد نا ابوسلیمان دارانی قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِی کے ساتھ تھا جب آپ نے احرام کا ارادہ کیا تو تلبیہ نہ کہہ سکے ہم ایک میل ہی چلے تھے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو فرمایا: اے احمد! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سپد ناموسی عَلَیْهِ نَبِیْنَا وَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی طرف وحی فرمائی

کہ ”بنی اسرائیل کے ظالموں کو حکم دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔“ اے احمد! تیرا برا ہو مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو ناجائز مال سے حج کرے اور تلبیہ کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”تیری حاضری قبول نہیں جب تک کہ تو لوگوں کا غضب کیا ہو مال لوٹا نہ دے۔“ تو ہم اس سے بے خوف نہیں کہ ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے۔

میقات میں تلبیہ کہتے وقت تلبیہ کہنے والے کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پکار پر لبیک کہا جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (ب ۱، الحج: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے۔

نیز صور پھونکنے کے ذریعے مخلوق کو ندا کرنے، ان کے قبروں سے اٹھنے اور میدانِ محشر میں جمع ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پکار پر جواب دینے اور مقربین و مغضوبین اور مقبولین و مردودین میں ان کی تقسیم کو یاد رکھے اور ابتدا میں وہ خوف و اُمید کے درمیان متردد ہوں گے جیسے حاجی میقات میں متردد ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے لئے حج کی تکمیل اور قبولیت آسان ہوگی یا نہیں؟

## مکہ مکرمہ میں داخلہ:

مکہ مکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں داخل ہوتے وقت یہ یاد رکھے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امن والے گھر میں پہنچ گیا ہے، اس وقت یہ اُمید رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے بھی امن میں رہے گا اور یہ خوف بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قرب کا اہل ہی نہ ہو اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود نامراد لوٹا دیا جائے اور ناراضی کا مستحق ٹھہرے لیکن تمام اوقات میں امید غالب رہنی چاہئے کہ کرم عام اور رب عَزَّوَجَلَّ کی صفت رحیم ہے، بیت اللہ شریف کا شرف عظیم ہے، اس کی زیارت کرنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور پناہ طلب کرنے والے کی حرمت ضائع نہیں کی جاتی۔

## بیت اللہ شریف پر پہلی نظر:

جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو دل میں اس کی عظمت کو حاضر کرے اور انتہائی تعظیم کی بدولت یوں سمجھے گویا بیت اللہ شریف کے رب کی زیارت کر رہا ہے اور یہ اُمید رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے وجہ کریم کی زیارت نصیب

فرمائے گا جیسا کہ اس نے عظیم گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس مرتبہ تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے گروہ کے ساتھ ملایا۔ اس وقت قیامت میں لوگوں کے دخول جنت کی امید سے اس کی طرف جانے کو یاد کرے کہ ان میں سے بعض کو داخلے کی اجازت ملے گی اور بعض کو لوٹا دیا جائے گا یوں ہی بعض کا حج قبول ہوگا اور بعض کا رد کر دیا جائے گا۔ الغرض جو چیز دیکھے اس سے امورِ آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو کیونکہ حاجیوں کے تمام احوالِ آخرت پر دلیل ہیں۔

### طواف خانہ کعبہ:

جان لیجئے کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے، لہذا بوقت طواف دل میں تعظیم، خوف، امید اور محبت کو حاضر کرے جیسا کہ ”کتاب الصلوٰۃ“ میں ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں اور جان لو کہ طواف کرتے ہوئے تم عرش کے گرد چکر لگانے والے مقرب فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہو اور یہ گمان نہ کرو کہ صرف جسم سے طواف کرنا مقصود ہے بلکہ ربِّ کعبہ کے ذکر کے ساتھ دل کا طواف مقصود ہے حتیٰ کہ اسی سے ذکر کی ابتدا کی جائے اور اختتام بھی اسی پر کیا جائے جیسا کہ بیت اللہ شریف سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور بیت اللہ پر ہی ختم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ حقیقت میں طواف بارگاہِ الہی میں دل کا طواف ہے، بیت اللہ شریف تو ظاہری دنیا میں اس حاضری کی ایک مثال ہے جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم ملکوت ہے جیسا کہ بدن عالم شہادت میں دل کے لئے ظاہری مثال ہے جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب میں ہے۔ عالم دنیا و عالم شہادت اس شخص کے لئے عالم غیب اور عالم ملکوت کی طرف زینہ (ذریعہ) ہیں جس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ عالم غیب کا دروازہ کھول دے۔ اسی مناسبت سے اشارہ کیا گیا کہ کعبہ شریف کے عین اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جس کا فرشتے اسی طرح طواف کرتے ہیں جس طرح انسان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو جب اکثر لوگ فرشتوں جیسے طواف سے کم رتبہ میں ہیں تو انہیں حکم دیا گیا کہ حتیٰ الامکان ان کی مشابہت اختیار کریں اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ یعنی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔“ (۱) اور جو شخص ان جیسا طواف کر سکتا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کعبہ اس کی زیارت اور طواف کرتا ہے جیسا کہ بعض اہل کشف نے بعض اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کو ملاحظہ فرمایا۔

①.....سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرة، الحدیث: ۴۰۳، ج ۴، ص ۶۲۔

## حجر اسود کا استلام:

حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت پر اس کی بیعت کرنے والا ہے۔ لہذا اپنی بیعت کو پورا کرنے کا عزم مصمم کرے کیونکہ جو بیعت میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا مستحق ہو جاتا ہے۔

## دایاں دست قدرت:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”حجر اسود زمین میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دایاں دست قدرت ہے اس کے ساتھ وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

## غلاف کعبہ سے لپٹنا اور ملتزم سے چمٹنا:

غلاف کعبہ سے لپٹتے اور مقام ملتزم سے چمٹتے وقت یہ نیت ہو کہ محبت و شوق کے ساتھ کعبہ اور رب کعبہ کا قرب طلب کر رہا اور اسے چھو کر برکت حاصل کر رہا ہوں اور یہ امید ہو کہ بدن کا جو بھی جزئیات اللہ شریف سے لگا ہوا ہے وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ نیز یہ نیت ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے طلب معافی اور امان کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں جیسا کہ مجرم اس شخص کے کپڑوں سے لپٹ جاتا ہے جس کا حق تلف کیا ہو اور اس سے معافی مانگنے میں گریہ وزاری کرتا اور ظاہر کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اس کے عفو و کرم کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں، معافی ملے بغیر اس کا دامن نہیں چھوڑے گا اور مستقبل میں بھی امن کی ضمانت دے دے۔

## صفا و مروہ کی سعی:

كَعْبَةُ اللَّهِ الْمَشْرَفَةَ کے صحن میں صفا و مروہ کے درمیان سعی اسی طرح ہے جیسے بندہ بادشاہ کے دربار کے صحن میں بار بار آتا جاتا اور متردد ہوتا ہے، خدمت میں خلوص ظاہر کرتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھا

①.....الكامل في ضعفاء الرجال، اسحاق بن بشير ۱۷۱، ج ۱، ص ۵۵۷، بتغير۔

كشف الخفاء، حرف الحاء المهملة، الحديث ۱۱۰، ج ۱، ص ۳۱۱، باختصار۔

جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ بادشاہ اس کے حق میں کیا فیصلہ فرمائے گا، اسے قبول کرے گا یا رد کر دے گا۔ چنانچہ وہ بار بار محل کے صحن میں آتا جاتا ہے اس امید پر کہ اگر پہلی بار رحم نہ کیا گیا تو دوسری بار ضرور رحم کیا جائے گا۔ نیز صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے میدانِ قیامت میں میزان کے دو پلڑوں کے درمیان چکر لگانے کو یاد کرے، صفا کو نیکیوں کا پلڑا اور مروہ کو برائیوں کا پلڑا تصور کرے اور یاد رکھے کہ دونوں پلڑوں کے درمیان اسی طرح دوڑے گا اور دیکھے گا کہ کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کون سا ہلکا؟ اور وہ عذاب و بخشش میں متردد ہوگا۔

## وقوف عرفہ:

میدانِ عرفات میں قیام کے دوران لوگوں کے ہجوم، آوازوں کے بلند ہونے، زبانوں کے اختلاف، میدانِ محشر میں مختلف گروہوں کے اپنے ائمہ کے ساتھ مقاماتِ مقدّسہ پر جانے، امتوں کے انبیائے کرام و ائمہ عظام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے ساتھ جمع ہونے، ہر امت کے اپنے نبی کے پیچھے چلنے، ان کی شفاعت طلب کرنے اور میدانِ محشر میں رد و قبول کے درمیان حیران و ششدر کھڑے ہونے کو یاد کرے، جب اس بات کو یاد کر لے تو اپنے دل میں عاجزی کو لازم کر لے اور بارگاہِ الہی میں خوب گڑگڑا کر دعا مانگ تجھے رحم کئے گئے کامیاب لوگوں میں اٹھایا جائے گا اور قبولیت دعا کی پختہ امید رکھ۔ موقف (یعنی میدانِ عرفات) مقامِ شرف ہے اور رحمتِ الہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے زمین کے اوتاد کے عزیز دلوں کے واسطے سے تمام مخلوق تک پہنچتی ہے اور موقف کسی بھی وقت ابدال و اوتاد، صالحین اور اہلِ دل کے طبقہ سے خالی نہیں ہوتا۔ جب ان کی ہمتیں جمع ہو جائیں، دل عاجزی اور گریہ و زاری کے لئے خالی ہو جائیں، ہاتھ بارگاہِ الہی میں اٹھ جائیں، گردنیں اس کی طرف اور ان کی نگاہیں آسمان کی جانب بلند ہوں اور حصولِ رحمت کے لئے سب کی ہمتیں اکٹھی ہوں تو یہ گمان نہ کرنا کہ ان کی امیدنا کام ہوگی، کوشش ضائع ہو جائے گی اور انہیں ڈھانپنے والی رحمت روک کر جمع کر دی جائے گی۔ اسی لئے منقول ہے کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ ”بندہ عرفات میں حاضر ہو اور یہ گمان کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی بخشش نہیں فرمائی۔“ چنانچہ، سب ہمتوں کا اجتماع اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے ابدال و اوتاد کا جمع ہو کر ان کا ساتھ دینا ہی حج کا بھید اور اصلی مقصد ہے۔ لہذا جہاں ہمتیں جمع ہوں اور

ایک وقت میں ایک ہی میدان میں دل ایک دوسرے کے معاون ہوں تو رحمتِ الہی کے حصول کا کوئی طریقہ اس طریقے جیسا نہیں۔

## جمرات کو نکریاں مارنا:

نکریاں مارتے وقت حکم کی اطاعت، غلامی اور بندگی کا اظہار کرے، محض حکم کی بجا آوری کے لئے تیار ہو جس میں عقل و نفس کا کوئی حصہ نہ ہو، پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مشابہت کا ارادہ کرے کہ اس جگہ ابلیس ملعون نے ان کے حج میں شبہ ڈالنے یا انہیں نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ عزوجل نے انہیں حکم فرمایا کہ اسے نکریوں کے ساتھ بھگا دیں اور اس کی امید ختم کر دیں۔

**وسوسہ:** اگر تیرے دل میں وسوسہ آئے کہ شیطان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہوا تھا، انہوں نے اسے دیکھا تھا اسی لئے نکریاں ماری تھیں لیکن میرے سامنے تو شیطان نہیں آتا (لہذا میں نکریاں کیوں ماروں)؟

**علاج وسوسہ:** جان لو کہ یہ وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، اسی نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی تاکہ تیرے نکریاں مارنے کا ارادہ کمزور ہو جائے اور تیرے دل میں یہ خیال ڈالے کہ اس کام میں کوئی فائدہ نہیں اور یہ کہ یہ کھیل کے مشابہ ہے پھر تو اس میں کیوں مشغول ہے؟ لہذا خوب نکریاں مار کر اسے بھگاؤ اور ذلیل و رسوا کرو اور یقین رکھو کہ بظاہر ستونوں کو نکریاں مار رہے ہو لیکن حقیقت میں شیطان کے منہ پر نکریاں مار رہے ہو، اس کی پیٹھ پر مار رہے ہو کیونکہ شیطان تبھی ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ عزوجل کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کیا جائے جس میں نفس و عقل کا کوئی حصہ نہ ہو۔

## قربانی کرنا:

جان لیجئے کہ جانور ذبح کرنے میں بھی حکم الہی پر عمل کرنا اور اس کا قرب ملنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا کامل قربانی کرے اور امید رکھے کہ اللہ عزوجل قربانی کے جانور کے ہر حصہ بدن کے بدلے اس کے جسم کا وہ حصہ جہنم سے آزاد فرمائے گا، اسی طرح وعدہ منقول ہے۔ چنانچہ، قربانی کا جانور جتنا بڑا اور اس کے اجزائے زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی

زیادہ تیرے لئے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔

## مدینہ طیبہ کی حاضری:

جب نگاہیں مدینہ شریف کے درو دیوار پر پڑیں تو اس شہر کو یاد کر جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لئے منتخب فرمایا اور انہیں اس کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے فرائض و سنن کو شروع فرمایا، اس کے دشمن سے جہاد کیا، مرتے دم تک اس کے دین کو غالب کیا یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا وصال ظاہری ہو گیا پھر ان کی آخری آرام گاہ اور ان کے دو وزیروں کی قبریں وہیں بنائیں جنہوں نے ان کے بعد حق کو قائم کیا۔ جب اس شہر میں چلے تو سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قدمین شریفین لگنے کی جگہوں کا تصور کرے کہ جہاں بھی قدم رکھ رہا ہوں وہاں پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نورانی قدم لگے ہوں گے، لہذا اپنے پاؤں سکون و وقار کے ساتھ رکھ اور یاد کرے کہ ان گلیوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم چلے ہیں اور یہاں آپ کے قدم لگے ہیں، چلنے میں آپ کے خشوع و خضوع کا تصور قائم کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے قلب مبارک میں جو اپنی معرفت رکھی، ان کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا کر بلندی عطا فرمائی اسے بھی ذہن میں حاضر کرے۔

نیز یہ تصور بھی قائم کرے کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کے تمام اعمال ضائع کر دیئے گئے اگرچہ صرف ان کی آواز سے آواز اونچی ہو۔ پھر لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس احسان کو یاد کرے جو اس نے ان پر کیا کہ انہیں حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بابرکت صحبت نصیب فرمائی، ان کے دیدار سے مشرف فرمایا، ان کا کلام سننے کی سعادت عطا فرمائی اور تجھے اس پر بہت افسوس کرنا چاہئے کہ تو مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اور صحابہ کرام رَضَوَانُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی صحبت نہ پاسکا۔ پھر سوچ کہ تو دنیا میں تو زیارت سے محروم رہا اور آخرت میں بھی زیارت کا یقین نہیں۔ پھر ممکن ہے کہ بروز قیامت تو حسرت بھری نگاہ سے انہیں دیکھے کہ تیرے اور ان کے مابین تیرے برے اعمال حائل ہو جائیں جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عَزَّوَجَلَّ بعض لوگوں کو میرے پاس لائے گا وہ کہیں گے: ”اے محمد! اے محمد!“ میں بارگاہِ الہی میں عرض کروں گا:

”اے ربِّ عَزَّوَجَلَّ! یہ میرے اصحاب ہیں (۱)۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: ”آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا باتیں پیدا کیں؟“ (۲) تو میں کہوں گا اسے دوری ہو جو میرے بعد تبدیلی کرے۔ (۳)

اگر تو نے حرمت شریعت کی پاسداری نہ کی اگرچہ لمحہ بھر کے لئے تو اس سے بے خوف نہ رہنا کہ حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بتائے ہوئے راستے سے روگردانی تیرے اور ان کے درمیان حجاب بن جائے۔ لیکن اس کے باوجود قوی امید رکھ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تیرے اور ان کے مابین کوئی چیز حائل نہ فرمائے گا کہ اس نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تجھے وطن سے روضہ رسول کی زیارت کے لئے بلایا کہ نہ تو تیری تجارت کی نیت تھی اور نہ ہی دنیا سے کچھ لینا مقصود تھا بلکہ محض مصطفیٰ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت اور شوق میں حاضر ہوا تا کہ ان کے مبارک آثار اور مزار اقدس کی زیارت کر سکے کیونکہ جب تو حیات مبارکہ میں زیارت کے شرف سے محروم رہا تو اب صرف تو نے اسی مقصد (یعنی مزار اقدس کی زیارت) کے لئے سفر کیا، لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شان کے لائق ہے کہ وہ تیری طرف نظر رحمت فرمائے۔

جب مسجد نبوی میں پہنچے تو یاد کر کہ یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، ابتدائی مسلمانوں اور افضل گروہ کے لئے پسند فرمایا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض سب سے پہلے اسی جگہ ادا کئے گئے،

①..... مُفَسِّرُ شَہِیْرِ حَکِیْمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مَفْتٰی اَحْمَدِ یَارْحٰنِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمُنَاجِیْمِ، ج 7، ص 408 پر اس جز کے تحت فرماتے ہیں: میرے دوست یا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میرا نام لینے والے ہیں حضور انور (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کا یہ فرمان ان کو زیادہ ذلیل کرنے کے لئے ہوگا۔ جیسے رب تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائے گا: ”ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ“ (پ ۲۵، الدخان: ۴۹)۔ تو چکھ تو بڑا عزت والا کرم والا ہے، یہ مطلب نہیں کہ حضور انور پہچانیں گے نہیں ابھی فرمان عالی گزرا ”اَعْرَضْہُمْ“ میں انہیں پہچانتا ہوں۔ نیز یہ واقعہ حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو آج تو معلوم ہے کل کیسے بھول جاوے گا۔ نیز ان کے منہ کا لے ہاتھ بندھے ہوئے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیے ہوں گے رب فرماتا ہے: ”یَعْرِفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِیِّئٰتِہُمْ“ (پ ۲، الرحمن: ۴۱)۔

②..... ص 409 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: فرشتوں کا یارب تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم نہیں جانتے، ان مرتدین پر اظہار غضب کے لئے ہے جیسے بلاشبہ باپ بیٹے کو مارنے لگے ماں جو اس سے سخت نالاں تھی محبت مادری میں بچانا چاہے باپ کہے تو اس حیثیت کو نہیں جانتی اسے تو میں ہی جانتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے مت بچا مجھے سزا دے لینے دے رب تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتا ہے: ”لَا تَعْلَمُہُمْ“ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۱)۔ ”انہیں تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں حالانکہ حضور (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) منافقین کو خوب جانتے تھے، فرماتا ہے: ”وَلَتَعْرِفْہُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ“ (پ ۲۶، محمد: ۳۰)۔ تم انہیں کلام کی روش سے ہی پہچان لیتے ہو۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا..... الخ، الحدیث: ۲۳۰، ص ۱۲۶۱، مختصراً۔



مخلوق میں سے زندگی میں اور بعد وصال بھی سب سے افضل لوگ اسی جگہ جمع ہیں۔ لہذا تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پُر امید ہونا چاہئے کہ تجھے وہاں داخل کر کے تجھ پر رحم فرمائے گا، لہذا خشوع و خضوع اور تعظیم سے داخل ہو اور یہ جگہ اس کے لائق ہے کہ ہر مومن سے دلی خشوع کا مطالبہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدِيسٍ سِرَّةُ النُّوْرَانِي سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا اولیس قرنی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِي نے حج کیا اور مدینہ شریف میں داخل ہو گئے۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ دو عالم کے تاجدار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا روضہ مبارکہ ہے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو فرمایا: ”مجھے یہاں سے لے چلو کہ میں وہاں نہیں رہ پاؤں گا جہاں روضہ رسول ہے (کیونکہ میں یہاں کے آداب کا خیال نہ رکھ سکوں گا)۔“<sup>(۱)</sup>

## زیارتِ روضہ رسول:

زیارت کرنے والے کو چاہئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق کھڑا ہو اور وصال ظاہری کے بعد بھی اسی طرح زیارت کی جائے جیسے زندگی میں کی جاتی تھی، روضہ مبارکہ کے زیادہ قریب کھڑا نہ بلکہ اتنا قریب کھڑا ہو جتنا کہ حیات طیبہ میں کھڑا ہوتا اگر ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما ہوتے۔ جس طرح حیات طیبہ میں جسم اطہر کو چھونا اور بوسہ وغیرہ دینا خلاف تعظیم اور سوء ادب تھا بلکہ دور ہی سے کھڑے کھڑے زیارت کر لی جاتی تھی اب بھی ایسا ہی کرنا چاہئے کیونکہ مقدس ہستیوں کے مزارات کو چھونا اور بوسے دینا یہود و نصاریٰ کی عادت ہے۔ نیز روضہ انور پر حاضر ہونے والا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تیرے حاضر ہونے، کھڑے ہونے اور زیارت کرنے کو جانتے ہیں اور تیرا درود و سلام ان تک پہنچتا ہے۔ حضور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی حسین صورت کو اپنے سامنے لحد میں موجود تصوّر کرے اور اپنی معرفت کے مطابق دل میں آپ کے عظیم مرتبہ کا تصور باندھے۔

## درود و سلام بارگاہ تک پہنچتا ہے:

مروی ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے روضہ انور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ

①.....تاریخ مدینہ دمشق، ذکر من اسمہ اوس، الرقم: ۸۴، اویس بن عامر بن مالک، ج ۹، ص ۴۵۰۔

امت میں سے جب بھی کوئی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر سلام بھیجتا ہے تو وہ اس کا سلام بارگاہ رسالت تک پہنچاتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

یہ فضیلت تو اس کے حق میں ہے جو قبر انور پر حاضر نہ ہو سکا تو وہ شخص جس نے وطن سے جدائی اختیار کی، ملاقات کے شوق میں جنگلوں کا سفر طے کیا اور حضور کی حیات مبارکہ میں زیارت سے مشرف نہ ہو سکا اس لئے روضہ مقدسہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا، اسے کیسی فضیلت حاصل ہوگی۔

## ایک کے بدلے دس:

حضور نبی کریم، رءوف رحیم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دُرودِ پاک پڑھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔“<sup>(۲)</sup> جب زبان سے درودِ پاک بھینچنے کی یہ جزا ہے تو اپنے بدن کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کا کیا مقام ہوگا۔

پھر منبر رسول کے پاس حاضر ہوا اور تصوؤ رکھے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہیں اور دل میں روشن چہرے کا تصور لائے کہ منبر پر تشریف فرما ہیں، مہاجرین و انصار آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور آپ انہیں اپنے خطبہ کے ساتھ اطاعت الہی پر ابھار رہے ہیں۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سوال کر کہ وہ قیامت میں تیرے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔

## اختتامی کلمات:

یہ اعمال حج کے باطنی آداب ہیں۔ جب ان تمام امور سے فارغ ہو جائے تو اس کا دل لازمی طور پر غم و حزن اور خوف میں مبتلا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا حج قبول کر کے اسے پسندیدہ بندوں کے گروہ میں رکھا گیا ہے یا رد کر کے دھکے مارے ہوؤں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے دل اور اعمال کی کیفیت سے اس چیز کو سمجھے، اگر اس کے دل کی، دنیا سے بے رغبتی بڑھ گئی اور وہ آخرت کی طرف پھر گیا اور اس نے اپنے اعمال کو شریعت کے ترازو کے مطابق پایا تو

①..... مجمع الزوائد، الحدیث ۱۷۲۹، ج ۱۰، ص ۲۵۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث ۴۰، ص ۲۱۶۔

قبولیت حج کا یقین رکھے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی سے قبول فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنا ولی (دوست) بنا لیتا، اس پر اپنی محبت کے آثار غالب فرما دیتا ہے اور اس سے اپنے دشمن ابلیس ملعون کا غلبہ ہٹا دیتا ہے، لہذا جب اس پر یہ چیز غالب ہو تو یہ قبولیت پر دلیل ہے لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو قریب ہے کہ اسے اپنے سفر سے کلفت و تھکاؤٹ کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ ہم اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔



### {..... دودن اور دوراتیں.....}

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 84 صفحات پر مشتمل کتاب، ”دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی“ صَفْحَہ 76 پر ہے: حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ارشاد فرماتے ہیں: ”کیا میں تمہیں ان دو دنوں اور دوراتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی: (۱) ایک دن وہ ہے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی کا مژدہ لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام اور (۲) دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لئے بارگاہِ الہی میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں۔ (اور دوراتوں میں سے) (۱) ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی اور اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ اور (۲) دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔“

## تلاوتِ قرآن کا بیان

سب خوبیاں اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے پیارے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور قرآن مجید کے ذریعے بندوں پر احسان فرمایا، قرآن پاک کی شان (بیان کرتے ہوئے اللہ عزَّ وَّجَلَّ ارشاد فرماتا) ہے: ”لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ ۖ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ“<sup>(۱)</sup> یہاں تک کہ غور و فکر کرنے والوں پر اس کے قصوں اور خبروں سے عبرت پانے کا راستہ کشادہ اور سیدھا راستہ واضح ہو گیا جس میں احکام کی تفصیل اور حلال و حرام کی تفریق ہے، یہ روشنی اور نور ہے، اس کے ذریعے غرور سے نجات ملتی ہے، اس میں سینے کی بیماریوں سے شفا ہے، ظالموں میں سے جس نے اس کی مخالفت کی اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اس کی کمر توڑ دی، جس نے اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں علم تلاش کیا اسے گمراہ کر دیا، یہ مضبوط رسی، واضح نور اور پختہ گرہ اور مکمل طور پر محفوظ پناہ گاہ ہے، یہ قلیل و کثیر اور چھوٹے بڑے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے، اہل علم کے نزدیک کوئی چیز اس کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتی، تلاوت کرنے والوں کے نزدیک بار بار تلاوت کرنے سے بھی یہ پرانی نہیں ہوتی، یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کی رہنمائی فرمائی، جب جنوں نے اسے سنا تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں ڈراتے ہوئے کہا: ”فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ یَّہْدِیْۤ اِلَی الرُّشْدِ فَاَمَّا نَا بِہٖ ۙ وَکُنْ شُرَکَآءَ بَرِیًٔا ۙ اَحَدًا“<sup>(۲)</sup>

اس پر ایمان لانے والا توفیق یافتہ ہو گیا، اس کا قائل ہی اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اسے مضبوطی سے تھامنے والا ہدایت یافتہ ہو گیا، اس پر عمل کرنے والا فلاح پا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ“<sup>(۳)</sup> قلوب و مصاحف میں قرآن کے محفوظ رہنے کا سبب اس کی پابندی سے تلاوت کرنا اور ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ نیز قرآن پاک کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس میں بیان کردہ باطنی اعمال اور ظاہری آداب کی

۱..... ترجمہ کنز الایمان: باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب

خوبیوں سرا ہے کا۔ (پ ۲۴، حم السجدة: ۴۲)

۲..... ترجمہ کنز الایمان: تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو

اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ (پ ۲۹، الجن: ۲۰، ۱)

۳..... ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بیشک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ (پ ۱۴، الحجر: ۹)

پابندی کرنا بھی اس کے محفوظ رہنے کا سبب ہے، اس لئے ان امور کا بیان اور ان کی تفصیل ضروری ہے اور اس کے مقاصد چار ابواب میں بیان کئے جائیں گے:

- ﴿1﴾..... قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت کا بیان۔
- ﴿2﴾..... تلاوت کے ظاہری آداب کا بیان۔
- ﴿3﴾..... تلاوت کے باطنی آداب کا بیان۔
- ﴿4﴾..... قرآن پاک سمجھنے اور اس کی تفسیر بالرائے وغیرہ کا بیان۔



### {..... "بِسْمِ اللّٰهِ" شریف کی برکات و فوائد.....}

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب، "فیضانِ سنت جلد اول" صفحہ 134 تا 135 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہُ نقل فرماتے ہیں: ﴿1﴾ جو کوئی سوتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 21 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے لے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اس رات شیطان، چوری، اچانک موت اور ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہے۔ ﴿2﴾ جو کسی ظالم کے سامنے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 50 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اُس کے شر سے بچا رہے۔ ﴿3﴾ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 300 بار اور (کوئی بھی) درود شریف 300 بار پڑھے اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور (روزانہ پڑھنے سے) اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ایک سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ ﴿4﴾ کند ذہن اگر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 786 بار (اول آخر ایک بار درود شریف) پڑھے کہ پانی پر دم کر کے پی لے تو اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے۔ (شمس المعارف مترجم، ص ۷۳)

## باب نمبر ۱: قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت

### فضائل تلاوت کے متعلق ۱۱ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... ”جس نے قرآن پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی کو اس سے افضل عطا کیا گیا تو تحقیق اس نے اس چیز کو چھوٹا جانا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عظمت دی۔“ (۱)

﴿۲﴾..... ”بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا قرآن پاک سے زیادہ مرتبہ والا نہ ہوگا نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی اور۔“ (۲)

﴿۳﴾..... ”اگر قرآن پاک چڑھے میں ہو تو اسے آگ نہ چھوئے گی۔“ (۳)

﴿۴﴾..... ”أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّيِّ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِعِنِّي مِيرَى أُمَّتٍ كِي أَفْضَلِ عِبَادَتِ تِلَاوَةِ قُرْآنِ هِيَ۔“ (۴)

﴿۵﴾..... ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے سورہ طہ اور یسین کی تلاوت فرمائی، جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے: خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گی۔“ (۵)

①..... الزهد لابن المبارك، باب ماجاء فی ذنب التمتع فی الدنيا، الحدید: ۹۹، ص ۲۷۵-۲۷۶، مفہومًا۔

②..... بستان الواعظین، مجلس فی ذکر میزان والصراف، ص ۷۷۔

③..... مُحْيِي السَّنَةِ حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن محمد بغوی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: ”إِهَابٍ (چڑھے)“ سے بندے کا دل مراد ہے اور حضرت سیدنا ابو عبد اللہ بوشنجی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَكِي کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ”اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو بروز قیامت جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔“ اگر اسے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو پھر یہ زمانہ رسالت کے ساتھ خاص تھا۔

(شرح السنة للبعوی، کتاب فضائل القرآن، باب فی فضل تلاوة القرآن، تحت الحدیث: ۱۱۷، ج ۳، ص ۸)

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی تنویر موضع القرآن، الحدیث: ۲۷، ج ۲، ص ۵۵۵، مفہومًا۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی ارمان تلاوته، الحدیث: ۲۰۲، ج ۲، ص ۳۵۳، دون اللفظ ”تلاوة“۔

⑥..... المجالسة وجواهر العلم، الجزء الاول، الحدیث: ۱۴، ج ۱، ص ۲۱۔

﴿6﴾ ..... ”خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“ یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے (۱)۔“ (۲)

﴿7﴾ ..... حدیث قدسی، اللہ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگئے اور سوال کرنے سے مشغول

(روک) رکھے میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔“ (۳)

﴿8﴾ ..... ”تین قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان

سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فراغ ہوں۔ (ان میں سے ایک:) وہ شخص ہے جس نے رضائے

الہی کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔“ (۴)

﴿9﴾ ..... ”اہل قرآن اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں (۵)۔“ (۶)

﴿10﴾ ..... دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

﴿1﴾ ..... مُفَسِّرٌ شَمِيرٌ حَكِيمٌ الْأُمَّتِ“ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَانِيهِ، ج 3، ص 217 پر اس کے تحت فرماتے

ہیں: قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے، بچوں کو قرآن کے سبب روزانہ سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام

بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیائے کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا سب قرآن ہی کی تعلیم ہے صرف الفاظ

قرآن کی تعلیم مراد نہیں، لہذا یہ حدیث فقہاء کے اس فرمان کے خلاف نہیں، کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے کیونکہ فقہ احکام

قرآن ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے لہذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر اور اسرار قرآن

الفاظ قرآن سے افضل ہیں کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے کان مبارک پر ہوا اور اسرار احکام کا نزول حضور

انور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے دل پر ہوا، تلاوت سے علم فقہ افضل رب تعالیٰ فرماتا ہے نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ (البقرہ: ۹) عمل بالقرآن علم

قرآن کے بعد ہے، لہذا عالم عامل سے افضل ہے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام عالم تھے فرشتے عامل مگر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام

افضل مجبور ہے۔

﴿2﴾ ..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب خیر کم من تعلم القرآن وعلمه، الحدیث: ۵۰۲، ج ۳، ص ۴۱۰۔

﴿3﴾ ..... کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب السابع فی تلاوة القرآن وفضائله، الحدیث: ۲۴۳، ج ۱، ص ۲۷۳۔

﴿4﴾ ..... شعب الایمان للبيهقي، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی ارمان تلاوته، الحدیث: ۲۰۰، ج ۲، ص ۳۲۸، بتغییر۔

﴿5﴾ ..... اہل قرآن سے مراد: اس کی حفاظت کرنے والے، پابندی سے اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے

والے ہیں۔ (اتحاف السادة المتقين، کتاب آداب تلاوت، ج ۵، ص ۱۳)

﴿6﴾ ..... سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب فی فضل من تعلم القرآن وعلمه، الحدیث: ۲۱، ج ۱، ص ۱۴۰۔

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اس کی جلا (صفائی) کس چیز سے ہوگی؟“ ارشاد فرمایا: ”تلاوتِ قرآن اور موت کی یاد سے۔“ (۱)  
**﴿11﴾** ..... ”گانے والی لوٹھی کا مالک جتنی توجہ سے اسے سنتا ہے اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس سے زیادہ توجہ قرآن پڑھنے والے کی طرف فرماتا ہے۔“ (۲)

## 17 اقوال بزرگان دین:

- ﴿1﴾** ..... حضرت سیدنا ابوامامہ باہلی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”قرآن پڑھا کرو، یہ لٹکے ہوئے قرآن تمہیں مغالطے میں نہ ڈالیں بے شک اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس دل کو عذاب نہ دے گا جو قرآن پاک کے لئے برتن ہے۔“ (۳)
- ﴿2﴾** ..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جب تم حصول علم کا ارادہ کرو تو قرآن پاک میں غور و فکر کرو کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔“ (۴)
- ﴿3﴾** ..... انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں: ”قرآن پڑھو بے شک تمہیں اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے بلکہ ”الف“ ایک حرف، ”لام“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے۔“
- ﴿4﴾** ..... مزید فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ سے قرآن کے متعلق ہی پوچھے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا اور اسے پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اگر قرآن سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔“
- ﴿5﴾** ..... حضرت سیدنا عمرو بن عاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ جنت کا ایک درجہ اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے۔“
- ﴿6﴾** ..... مزید فرماتے ہیں: ”جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان جمع کر لیا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔“

①..... شعب الایمان للبيهقي، باب في تعظيم القرآن، فصل في ارمان تلاوته، الحديث: ۲۰۱، ج ۲، ص ۳۵۳۔

②..... سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، الحديث: ۱۳۴، ج ۲، ص ۱۳۱، بتغيير۔

③..... المصنف لابن ابى شيبة، كتاب فضائل القرآن، في الوصية بالقرآن..... الخ، الحديث: ۷، ج ۷، ص ۱۷۶۔

④..... تذكرة الحفاظ للذهبي، الطبقة الاولى، ابن مسعود الامام الرباني رضى الله عنه..... الخ، ج ۱، ص ۱۔



﴿7﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے اور شیاطین آ جاتے ہیں۔“

﴿8﴾..... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذکر فرماتے ہیں: میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا، میں نے عرض کی: ”اے رب عَزَّوَجَلَّ! تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے جس کے ذریعے مقربین تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”اے احمد! وہ میرا پاک کلام (قرآن پاک) ہے۔“ میں نے عرض کی: ”اے رب عَزَّوَجَلَّ! اسے سمجھ کر پڑھنے یا بغیر سمجھے پڑھے۔“ ارشاد فرمایا: ”سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے۔“

﴿9﴾..... حضرت محمد بن کعب قرظی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”قیامت کے دن جب لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا لگے گا گویا کبھی انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں۔“

﴿10﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں: ”قرآن یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو چاہئے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، نہ اسے خلفا سے کوئی سروکار ہو اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور سے بلکہ لوگوں کو اس کا محتاج ہونا چاہئے۔“

﴿11﴾..... مزید فرماتے ہیں: ”حافظ قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اسے چاہئے کہ وہ حق قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے لہو و لعل، بھولنے والوں اور لغو کام کرنے والوں کا ساتھ نہ دے۔“

﴿12﴾..... حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔“

﴿13﴾..... حضرت سیدنا عمرو بن ميمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”جس نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کھولا اور اس کی 100 آیات تلاوت کیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تمام اہل دنیا کے عمل کی مثل بلندی عطا فرمائے گا۔“

مروی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ”قرآن پاک میں سے کچھ تلاوت کیجئے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

(پ ۱۴، النحل: ۹۰)

اس نے عرض کی: ”پھر پڑھئے۔“ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دوبارہ پڑھی تو کہنے لگا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! اس میں مٹھاس ہے، اس پر خوبصورتی ہے، اس کا نچلا حصہ پتوں والا، اوپری پھل دار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔“ (۱)

﴿14﴾..... حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور اس کے بعد کوئی فاقہ نہیں۔“

﴿15﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّاب فرماتے ہیں: ”جس نے صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں پھر اسی دن مر گیا تو اس پر شہدا کی مہر لگا دی جائے گی۔ جس نے شام کے وقت پڑھیں پھر اسی رات مر گیا تو اس کے لئے بھی شہدا کی مہر لگا دی جائے گی۔“

﴿16﴾..... حضرت سیدنا قاسم بن عبد الرحمن عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّحْمَن فرماتے ہیں: میں نے ایک عابد سے پوچھا: ”کیا یہاں کوئی ایسا نہیں جس سے تمہیں انس ہو؟“ تو انہوں نے قرآن پاک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ کر فرمایا: ”مجھے اس سے انس ہے۔“

﴿17﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم فرماتے ہیں: ”تین چیزیں توت حافظہ میں اضافہ کرتی اور بلغم کو ختم کرتی ہیں: (۱) مسواک کرنا (۲) روزے رکھنا (۳) قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔“

## غفلت سے تلاوت کرنے والوں کی مذمت:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔“

حضرت سیدنا میسرہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”فاسق و فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے۔“

①..... دلائل النبوة للبيهقي، باب اعتراف مشركى قريش، بما فى كتاب الله..... الخ، ج، ص ۱۹۹۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدس سرُّہ التُّورٰنی فرماتے ہیں: ”جب حافظ، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کریں تو ایسے حافظ کو فرشتے بتوں کے پجاریوں سے پہلے پکڑیں گے۔“

بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”جب ابن آدم دوران تلاوت لغو باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟“

حضرت سیدنا ابن رماح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”قرآن حفظ کر کے مجھے بڑی ندامت ہوئی کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بروز قیامت حاملین قرآن سے وہی سوال ہوگا جو انبیاء سے ہوگا۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”حافظ قرآن کو ان صفات سے پہچاننا چاہئے: رات سے جب لوگ سو رہے ہوں، دن سے جب لوگ کوتاہی کر رہے ہوں، غم سے جب لوگ خوش ہوں، رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں، خاموشی سے جب لوگ باتیں کر رہے ہوں، عاجزی و انکساری سے جب لوگ تکبر کرتے ہوں۔ نیز حافظ قرآن کو چاہئے کہ وہ خاموشی کا پیکر اور نرم مزاج ہو، بد اخلاق، جھگڑالو، چیخ و پکار، شور و غل کرنے والا اور غصیلانہ ہو۔“ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”اس امت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”قرآن پڑھو یہ تمہیں نافرمانی سے روکے گا، اگر تلاوت قرآن تمہیں نافرمانی سے نہ روکے تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے قرآن کے حرام کو حلال جانا اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔“ (۳)

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے منقول ہے کہ ”بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔“ عرض کی گئی: ”یہ کیسے؟“ فرمایا: ”جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔“

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۳۵-۶۶۳۵، ج ۲، ص ۵۸۷۔

②.....مجمع الزوائد، کتاب العلم، باب فیمن لم ینتفع بعلمہ، الحدیث: ۸۷، ج ۱، ص ۴۴۰۔

③.....سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، الحدیث: ۲۹۲، ج ۴، ص ۴۲۱۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”بندہ قرآن پڑھتا ہے اور خود پر لعنت کرتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وہ پڑھتا ہے:

اَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۲، ہود: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

حالانکہ وہ خود پر (یا کسی اور پر) ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے:

لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۱﴾ (پ ۳، آل عمران: ۶۱) ترجمہ کنز الایمان: جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔

حالانکہ وہ جھوٹوں میں سے ہوتا ہے۔“

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے قراء سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”تم نے قراءت قرآن کو منزلیں اور رات کو اونٹ مقرر کر لیا ہے جس پر سوار ہو کر اپنی منزلیں طے کرتے ہو جبکہ تم سے پہلے کے لوگ ربَّ عَزَّوَجَلَّ کے پیغام بصورت رسائل دیکھتے تو رات کو ان میں غور و فکر کرتے اور دن میں انہیں خود پر نافذ کرتے۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”قرآن لوگوں پر اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا ہے بے شک تم میں سے کوئی شخص سورہ فاتحہ سے آخر تک قرآن پڑھ لیتا ہے اس میں سے کوئی حرف بھی نہیں چھوڑتا لیکن اس پر عمل چھوڑ دیتا ہے۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی روایت میں ہے کہ ”ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان قرآن سے پہلے دیا گیا، حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر جب کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام، اُمر و نواہی کو سیکھ لیتا اور جہاں توقف کرنا مناسب ہوتا وہاں توقّف کرتا، پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا وہ سورہ فاتحہ سے آخر تک پورا قرآن پاک پڑھ لیتا لیکن اس کے اُمر و نواہی کو نہیں جانتا اور نہ یہ جانتا کہ کہاں توقف کرنا مناسب ہے۔ وہ اسے ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتا چلا جاتا ہے۔“ (۱)

کیا تیرے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہی نہیں؟

تورات شریف میں ہے کہ (اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ کہ تو راستے

1..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قيل يومهم، الحديث ۵۲۹، ج ۳، ص ۱۷۱۔

میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا جبکہ یہ میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ! اس میں تیرے لئے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے! تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے، اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟



### ..... اچھی عادتوں کی نصیحت ..... ❁

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 43 صفحات پر مشتمل کتاب، ”امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی وصیتیں“ صفحہ 27 پر حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے اپنے ایک شاگرد کو یوں نصیحت فرمائی: ”تم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے عزت دینا، شرفاء کی عزت اور اہل علم کی تعظیم و توقیر کرنا، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق و فاجر کو ذلیل و رسوا نہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے اخلاق و عادات میں کوتاہی نہ کرنا، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹیا شخص کی تعریف نہ کرنا۔“

## تلاوت کے ظاہری آداب

باب نمبر: 2

### ﴿1﴾ ..... قاری قرآن کی حالت:

تلاوت کرنے والے کو چاہئے کہ با وضو ہو، ادب و سکون کی حالت میں قبلہ رُو ہو کر سر جھکائے کھڑا یا بیٹھا ہو، نہ چوڑی مار کر بیٹھے، نہ ٹیک لگا کر اور نہ ہی متکبرانہ انداز میں بیٹھے بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ سب سے افضل حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز میں کھڑے ہو کر قراءت کرے اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اگر بغیر وضو بستر پر لیٹے قراءت کی تو اس میں بھی فضیلت ہے مگر کم ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ۗ (پ ۴، مال عمران: ۱۹۱) ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام کی تعریف فرمائی مگر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والوں کو مقدم کیا پھر بیٹھ کر اور لیٹ کر ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔

### ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجْهَهُ الْكَرِيمُ فرماتے ہیں: ”جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لئے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لئے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں اور جو نماز کے علاوہ با وضو تلاوت کرے اس کے لئے 25 نیکیاں ہیں اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لئے 10 نیکیاں ہیں اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔“

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: ”دن کو کثرت سے سجدے اور رات کو طویل قیام افضل ہے۔“

### ﴿2﴾ ..... قراءت کی مقدار:

تلاوت کی کمی اور زیادتی کے سلسلے میں قراءت کی عادات مختلف ہیں۔ بعض دن اور رات میں ایک بار پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دو بار، بعض تین بار اور بعض مہینے میں ایک بار ختم کرتے ہیں لیکن مقدار کے سلسلے میں سب سے

بہتر بات وہ ہے جو حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا: ”جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں (۱)۔“ (۲) یہ اس لئے فرمایا کیونکہ زیادہ پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مانع ہے۔

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک شخص کو تیزی سے قرآن پڑھتے دیکھا تو فرمایا: ”اس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ خاموش رہا۔“

نیز حضور انور، شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہر سات دن میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔ (۳) اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک گروہ ہر جمعہ کو قرآن ختم کرتا تھا جیسے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

## ختم قرآن کے سلسلے میں درجات:

ختم قرآن کے سلسلے میں چار درجات ہیں: (۱)..... دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرنا اسے ایک گروہ نے مکروہ قرار دیا۔ (۲)..... مہینے میں ایک ختم کرنا یوں کہ ہر روز ایک س پارہ پڑھا جائے، گویا یہ کمی میں مبالغہ ہے جیسا کہ ما قبل درجہ کثرت میں مبالغہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان دو معتدل درجات ہیں: (۳)..... ہفتے میں ایک بار ختم کرنا

①..... مُفسِّر شہیر حکیمُ الأُمّت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃُ المَنان مِرَاةُ المَنَاجِحِ، ج 3، ص 270 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: جو شخص ہمیشہ تین دن سے کم میں ختم قرآن کیا کرے، وہ جلدی تلاوت کی وجہ سے نہ تو الفاظ قرآن صحیح طور پر سمجھ سکے گا، اور نہ اس کے ظاہری معنی میں غور کر سکے گا، خیال رہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اگر بہت جلدی تلاوت کریں، تو زبان لپٹ جاتی ہے حرف صحیح ادا نہیں ہوتے خواص کا حکم اور ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ایک ایک رکعت میں پانچ پانچ چھ چھ پارے پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک رات میں ختم قرآن کیا ہے، داؤد علیہ السلام چند منٹ میں زبور ختم کر لیتے تھے، حضرت علی گھوڑا کنے سے پہلے ختم قرآن کر لیتے تھے۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة والسنة فیہا، باب فی کم یستحب یختم القرآن، الحدیث: ۱۳۴، ج ۲،

ص ۱۳۵، بتقدم و تاخر۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر..... الخ، الحدیث: ۱۱۵۵، ص ۵۸۵۔

(۴)..... ہفتے میں دو بار ختم کرنا یعنی تقریباً تین دن میں ختم ہو اور زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ایک ختم رات میں کرے اور ایک ختم دن میں، دن کا ختم پیر شریف کی نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد ہو اور رات کا ختم جمعہ کی رات مغرب کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد ہوتا کہ دن اور رات کے آغاز کا ختم قرآن سے استقبال کرے کیونکہ اگر کوئی شخص رات کو ختم قرآن کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر دن کو ختم کرے تو شام تک فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں یوں ان کی برکت پورے دن رات کو شامل ہو جاتی ہے۔

### خلاصہ کلام:

مقدار قراءت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابدین اور عمل کی راہ پر چلنے والوں میں سے ہے تو ہفتے میں دو سے کم بار ختم نہ کرے اور اگر قلبی اعمال اور فکر کے ذریعے راہ سلوک طے کرتا ہے یا علم پھیلانے میں مشغول ہے تو ہفتے میں ایک بار پراکتفا کرنے میں حرج نہیں اور اگر قرآن کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے تو مہینے میں ایک بار پراکتفا کرے کیونکہ اسے بار بار پڑھنے اور سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

### ﴿3﴾..... مقدار قراءت کی تقسیم:

جو شخص ہفتے میں ایک بار ختم کرے وہ قرآن پاک کو سات حصوں میں تقسیم کر لے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی قرآن پاک کو حصوں میں تقسیم کیا۔<sup>(۱)</sup> چنانچہ، مروی ہے کہ ”امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی رات سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک پڑھتے، ہفتے کی رات سورہ انعام سے سورہ ہود تک تلاوت کرتے، اتوار کی رات سورہ یوسف سے سورہ مریم تک تلاوت فرماتے، پیر کی رات سورہ طہ سے سورہ طسم تک پڑھتے، منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ ص تک تلاوت کرتے، بدھ کی رات سورہ تنزیل سے سورہ رحمن تک تلاوت فرماتے اور جمعرات کی رات ختم کرتے۔“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کو کئی اقسام میں تقسیم کر لیتے تھے لیکن ان کی یہ ترتیب نہ تھی۔ منقول ہے کہ قرآن کریم کی منزلیں سات ہیں۔ پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں، دوسری میں پانچ، تیسری میں

①..... سنن ابی داؤد، کتاب شہر رمضان، باب تخریب القرآن، الحدیث ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۷۹۔



سات، چوتھی میں نو، پانچویں میں گیارہ، چھٹی میں 13 جبکہ ساتویں منزل میں سورہ ق سے آخر تک (66 سورتیں) ہے۔ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے اسے یونہی تقسیم کیا ہوا تھا اور اسی طرح تلاوت کرتے تھے، نیز اس سلسلے میں حدیث پاک بھی مروی ہے۔<sup>(۱)</sup> یہ تب کی بات ہے جب اسے پانچ، دس یا تیس حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا یہ تقسیم بعد کی ہے۔

#### ﴿4﴾..... کتابت قرآن کے آداب:

قرآن پاک کو واضح طور پر اور خوبصورتی سے لکھنا مستحب ہے، اس پر نقطے اور سرخ علامات وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ زینت، وضاحت اور پڑھنے والوں کو غلطی سے بچانا ہے۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری اور حضرت سیدنا امام ابن سیرین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا پانچ یا دس یا تیس پاروں کی تقسیم کو ناپسند کرتے تھے۔

حضرت سیدنا امام شعمی اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا سے سرخ نقطے لگانے اور اس پر اجرت لینے کی کراہت مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”قرآن کو صاف رکھو۔“ ان کے متعلق یہی گمان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس دروازے کو کھولنا اس خوف سے ناپسند کیا کہ کہیں یہ چیز زیادتیوں کی طرف نہ لے جائے، لہذا انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے اور قرآن کو تبدیلی سے بچانے کے جذبے کے تحت ایسا کیا، لیکن اگر اس سے کوئی ممنوع بات لازم نہ آئے اور امت اتفاق کرے کہ اس (نقطے وغیرہ لگانے) سے قرآن کی معرفت بڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا محض نیا ہونا ممانعت کی دلیل نہیں کتنے ہی نئے کام اچھے ہیں جیسا کہ تراویح میں جماعت قائم کرنے کے متعلق منقول ہے کہ یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جاری کی اور یہ بدعتِ حسنہ ہے اور بدعتِ مذمومہ وہ ہوتی ہے جو سنتِ قدیمہ کے مخالف ہو یا اس کی تبدیلی کا سبب بنے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ ”میں نقطوں والے قرآن سے پڑھ لیتا ہوں لیکن خود اپنے لئے نقطے نہیں لگاتا۔“

حضرت سیدنا امام اوزاعی اور حضرت سیدنا امام یحییٰ بن ابی کثیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن پاک مصاحف میں نقطوں وغیرہ سے خالی تھا، سب سے پہلے اس میں ب اور ت پر نقطے لگائے گئے اور علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ اس کا نور ہے پھر انہوں نے آیات کے اختتام پر بڑے

①..... مجمع الزوائد، کتاب الصلاة، باب ثمان منه، الحدیث ۳۶۱، ج ۲، ص ۵۲۹۔

بڑے نقطے لگائے اور فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس کے ذریعے آیت ختم ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آغاز و اختتام کی علامات لگائی گئیں۔

حضرت سیدنا ابو بکر ہدی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مصاحف پر سرخ نقطے لگانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ نقطے کیا ہیں؟“ میں نے عرض کی: ”کلمہ کو عربی میں اعراب لگاتے ہیں۔“ تو فرمایا: ”قرآن پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں۔“

حضرت سیدنا خالد بن مہران حدیث اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ النبیین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں نقطوں والے قرآن سے تلاوت کرتے دیکھا حالانکہ آپ نقطے لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔“

## قرآن پر اعراب کس نے لگوائے؟

منقول ہے کہ یہ (یعنی نقطے و اعراب وغیرہ لگانے کا) کام حجاج بن یوسف نے کیا اس نے قرآن کو کرام رحمہم اللہ السلام کو جمع کیا یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کے کلمات اور حروف کو شمار کیا اور اس کے اجزا کو برابر کر کے تین حصوں میں تقسیم کیا اور کچھ اور تقاسیم بھی کیں۔

## ﴿5﴾..... ترتیل قرآن کے آداب:

قرآن پاک میں ترتیل (یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا) مستحب ہے، عنقریب ہم بیان کریں گے کہ تلاوت سے مقصود غور و فکر کرنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس پر مددگار ہے اسی لئے ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے تھے۔“ (۱)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران ترتیل اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا بغیر ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔“ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ ”مجھے سورہ زلزال اور قارعہ ترتیل سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا سورہ بقرہ اور آل عمران بغیر ترتیل جلدی جلدی پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔“

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب استحباب الترتیل فی القراءۃ، الحدیث: ۱۴۶، ج ۲، ص ۱۰۵، بتغییر الفاظ۔

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے نماز پڑھنے والے دو آدمیوں کے متعلق پوچھا گیا، ان کا قیام ایک جیسا تھا مگر ایک نے فقط سورہ بقرہ پڑھی جبکہ دوسرے نے پورا قرآن پڑھا تو آپ نے فرمایا: ”دونوں کا اجر ایک جیسا ہے۔“ جان لیجئے کہ ترتیل مستحب ہے نہ کہ صرف غور و فکر کرنا اس لئے کہ عجمی شخص جو قرآن کا معنی نہیں سمجھتا اس کے لئے بھی قراءت میں ترتیل مستحب ہے کیونکہ اس میں عزت و احترام زیادہ ہے نیز یہ جلدی پڑھنے کی بنسبت دل میں زیادہ تاثیر کا باعث بنتی ہے۔

### ﴿6﴾..... رونا:

قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قرآن پڑھو اور روؤ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”جو شخص قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔“ (۲)

حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمۃ اللہ الکی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ نے استفسار فرمایا: ”اے صالح! یہ تلاوت قرآن ہے تو رونا کہاں ہے؟“

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”جب تم اللہ عزوجل کے لئے آیت سجدہ تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رونے لگو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کے دل کو رونا چاہئے۔“

جکٹف رونے کا طریقہ: یہ ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے کہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہذا جب تم اس کی قراءت کرو تو غم ظاہر کرو۔“ (۳)

### سب سے بڑی مصیبت:

غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ: یہ ہے کہ اس میں وارد تئبیہات و وعیدات اور عہد و پیمان کو یاد کرے، پھر اس

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة والسنة فیہا، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳، ج ۲، ص ۱۲۹، بتغییر۔

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: واسروا قولکم..... الخ، الحدیث: ۴۵۲، ج ۴، ص ۵۸۶۔

③..... مجمع الزوائد، کتاب التفسیر، باب القراءة بالحزن، الحدیث: ۱۱۶۹، ج ۷، ص ۳۵۱، مفہوماً۔

کے ادا مرنو اہی کے معاملے میں اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو بالیقین وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا۔ اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت طاری نہ ہو جیسے صاف دل والوں پر طاری ہوتی ہے تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔

## ﴿7﴾..... آیات کے حق کی رعایت کے آداب:

جب آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ کرے، اسی طرح جب کسی دوسرے سے آیت سجدہ سنے تو جب تلاوت کرنے والا سجدہ کرے یہ بھی سجدہ کرے اور باد وضو سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ سورہ حج میں دو سجدے ہیں (۱)، سورہ ص میں سجدہ نہیں (۲)۔

## سجدہ تلاوت کا طریقہ (۳):

اس کی کم از کم حد یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر سجدہ کرے اور تلاوت کردہ آیت کے مناسب دعا مانگے۔ مثال کے طور پر یہ آیت مبارکہ پڑھے:

اٰمٰیۡرٌ مِّنْ بٰیۡتِنَا الَّذِیۡنَ اِذَا ذُکِّرُوۡا بِهَا  
خَسُّوۡا سَجۡدًا وَّاَسْبَحُوۡا بِحَمۡدِ رَبِّہِمۡ وَہُمۡ لَا  
یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ ﴿۱۵﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے (۳)۔

①..... احناف کے نزدیک: سورہ حج میں ایک سجدہ ہے۔ پہلی جگہ جہاں سجدے کا ذکر ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت جس میں سجدہ کا ذکر ہے اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں کہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۶، ۲۹)۔

②..... احناف کے نزدیک: سورہ ص میں سجدہ ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۲)۔

③..... احناف کے نزدیک: سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہو سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہو کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۳۱)۔

**نوٹ:** سجدہ تلاوت کے تفصیلی احکام جاننے کے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 726 تا 739 کا یا 49 صفحات پر مشتمل مطبوعہ رسالے ”تلاوت کی فضیلت“ کا مطالعہ کیجئے۔

④..... یہ آیت سجدہ ہے اور آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۸)۔

تویوں دُعا کرے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ السَّجِدِيْنَ لَوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ اَوْ عَلٰى اَوْلِيَاكَ يَعْنِيْ اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی رضا کے لئے سجدہ کرنے والوں میں سے بنا جو تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے حکم اور تیرے اولیا سے تکبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔

جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے:

وَيَخْشَوْنَ لِلّٰهِ ذِقَانَ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ (پ ۱، بنی اسرائیل: ۱۰۹) ترجمہ کنز الایمان: اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے (۱)۔

تویوں دعا مانگے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِئِيْنَ اِلَيْكَ الْخَائِشِيْنَ لَكَ يَعْنِيْ: اے اللہ عزوجل! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری بارگاہ میں رونے والے اور تیرے لئے خشوع کرنے والے ہیں۔

اسی طرح ہر سجدے میں کرے۔ سجدہ تلاوت میں نماز کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جیسے ستر عورت، استقبال قبلہ، طہارت۔ جو شخص آیت سجدہ سنتے وقت با وضو نہ ہو تو جب با وضو ہو تب سجدہ کر لے۔

سجدہ تلاوت کے کامل ہونے کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے، پھر سجدے کے لئے جھکتے ہوئے تکبیر کہے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہے، پھر سلام پھیرے۔ بعض نے تشہد کا بھی اضافہ کیا ہے (۲)۔ اس کی کوئی اصل نہیں سوائے اس کے کہ اسے سجدہ نماز پر قیاس کیا ہو اور یہ قیاس بعید از عقل ہے، کیونکہ صرف سجدے کا حکم وارد ہوا ہے اس لئے اسی کی پیروی کی جائے گی اور جھکنے کے لئے تکبیر کہنا ابتدا کے زیادہ قریب ہے اس کے علاوہ دیگر قیودات لگانا درست نہیں۔

مقتدی امام کے سجدہ (تلاوت) کرتے وقت سجدہ کرے، اگر مقتدی خود آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ نہ کرے۔

## ﴿۸﴾..... قراءت شروع کرنے کے آداب:

قراءت کی ابتداء یوں کرے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ

①..... یہ آیت سجدہ ہے اور آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۲۸)

②..... احناف کے نزدیک: سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے نہ سلام۔

(بہار شریعت، ج ۱، ص ۷۲۸)

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ یعنی میں شیطان مردود سے خدائے سمیع و بصیر کی پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب! تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب! تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ نیز سورۃ ناس اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور جب قراءت سے فارغ ہو تو یوں کہے: صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَهُمْ أَنْفَعْنَا بِهِ وَبَارَكْ لَنَا فِيهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے سچ پہنچایا۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اس سے نفع عطا فرما اور ہمیں اس میں برکت عطا فرما، سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جو مالک سارے جہان والوں کا اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتا ہوں جو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔

قراءت کے دوران جب آیت تسبیح پر پہنچے تو تسبیح اور تکبیر کہے، جب دعا و استغفار والی آیت پر پہنچے تو دعا و استغفار کرے، جب اُمید (ورحمت) والی آیت پر پہنچے تو سوال کرے، جب خوف والی آیت پر پہنچے تو پناہ مانگے اور اسے اختیار ہے کہ یہ کام اپنی زبان سے کرے یا دل سے۔ آیت تسبیح پر پہنچے تو یوں کہے: سُبْحَانَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے پاکی ہے، ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں رزق عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم پر رحم فرما۔

حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی پاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اقتدا میں نماز ادا کی آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی جب آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو رحمت کا سوال کرتے، جب آیت عذاب سے گزرتے تو پناہ طلب کرتے، جب آیت تازیہ (یعنی ایسی آیت جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کی گئی ہو) کی تلاوت کرتے تو سُبْحَانَ اللَّهِ کہتے۔<sup>(۱)</sup> جب فارغ ہوئے تو وہی دعا مانگی جو ختم قرآن کے وقت کرتے تھے: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَأَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهَلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَأَجْعَلْهُ لِي حِجَّةً يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم فرما، اسے میرے لئے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس میں سے جو میں بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے اور جس سے میں لاعلم ہوں وہ مجھے سکھا دے اور مجھے رات کی گھڑیوں اور دن کے اطراف میں (یعنی صبح شام) اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة..... الخ، الحدیث ۷۷۴، ص ۳۹۱، مفہوماً۔

## ﴿۹﴾..... بلند آواز سے قراءت کرنا:

اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی آواز سے قراءت کرے کہ خود سن لے کیونکہ قراءت اس چیز کا نام ہے کہ حروف کو آواز کے ساتھ واضح طور پر ادا کرے، لہذا آواز کا ہونا ضروری ہے، قراءت کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ قراءت کرنے والا خود سن لے اگر خود بھی نہ سنے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ اتنی بلند آواز سے قراءت کرنا کہ دوسرا بھی سن لے یہ ایک اعتبار سے پسندیدہ ہے اور ایک اعتبار سے مکروہ۔

## آہستہ آواز سے قراءت مستحب:

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”سری (یعنی آہستہ) قراءت کی بلند آواز سے قراءت پر اتنی فضیلت ہے جتنی پوشیدہ صدقہ کی علانیہ صدقہ پر۔“<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔“<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”پوشیدہ عمل علانیہ عمل پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو۔“<sup>(۴)</sup>

حدیث پاک میں ہے کہ ”مغرب اور عشا کے درمیان کی قراءت میں تم ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو۔“<sup>(۵)</sup>

## حکایت: حاکم مدینہ کی عاجزی:

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ایک رات مسجد نبوی میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن

①..... قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجهر بالقرآن..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔

②..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة..... الخ، الحدیث ۱۳۳۳، ج ۲، ص ۵۶۔

③..... قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجهر بالقرآن..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔

شعب الایمان للبيهقي، باب في محبة الله، فصل في اقامة ذكر الله، الحدیث: ۵۵، ج ۱، ص ۴۰۸، مفہومًا۔

④..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص، الحدیث: ۱۴، ج ۱، ص ۳۶۲، بتقدم و تاخر۔

⑤..... سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، الحدیث: ۳۳، ج ۲، ص ۶۵، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجهر بالقرآن..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔

عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزُ کو نماز میں بلند آواز سے قراءت کرتے سنا، آپ کی آواز بھی اچھی تھی تو اپنے غلام سے فرمایا: ”اس نمازی سے کہو کہ آواز آہستہ کرے۔“ غلام نے عرض کی: ”مسجد ہماری نہیں اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔“ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے بلند آواز سے فرمایا: ”اے نمازی! اگر نماز سے رضائے الہی مقصود ہے تو اپنی آواز پست کر لے اور اگر لوگوں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ہاں یہ تیرے کچھ کام نہ آئے گی۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزُ نے اپنی آواز آہستہ کر لی، نماز مختصر کی، سلام پھیرا اور خاموشی سے تشریف لے گئے حالانکہ اس وقت آپ حاکم مدینہ تھے۔

### بلند آواز سے قراءت مستحب:

بلند آواز سے قراءت کے مستحب ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے رات کی نماز میں صحابہ کرام رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمْ أَجْمَعِينَ کے ایک مجمع کو بلند آواز سے قراءت کرتے سنا تو اسے (یعنی ان کے بلند آواز سے پڑھنے کو) درست قرار دیا۔<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھو تو بلند آواز سے قراءت کرو کیونکہ فرشتے اور گھر میں رہنے والے جنات اس کی قراءت سنتے اور اسی کی مثل نماز پڑھتے ہیں۔“<sup>(۲)</sup>

ایک رات پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے تین صحابہ کرام رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمْ أَجْمَعِينَ کے پاس سے گزرے، ان کے احوال مختلف تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس سے گزرے جو آہستہ قراءت کر رہے تھے، ان سے آہستہ پڑھنے کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس سے گزرے جو بلند آواز سے قراءت کر رہے تھے، ان سے بلند آواز سے قراءت کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگا تا ہوں۔“ حضرت سیدنا بلال حبشی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے

①..... قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، كتاب الجهر بالقرآن..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، كتاب الجهر بالقرآن..... الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔



پاس سے گزرے، وہ کچھ آیات ایک سورت سے اور کچھ دوسری سے تلاوت کر رہے تھے، ان سے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کر کی: ”میں طیب کے ساتھ طیب کو ملاتا ہوں۔“ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم سب نے اچھا اور درست کیا۔“<sup>(۱)</sup>

## مذکورہ روایات میں تطبیق:

آہستہ پڑھنا ریا اور بناوٹ سے دور کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں افضل ہے جسے خود پر اس کا خوف ہو اور اگر ریا کاری وغیرہ کا خوف نہ ہو اور بلند آواز سے پڑھنے میں کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے اور دوسروں تک پہنچنے والی بھلائی ایک شخص تک محدود بھلائی سے افضل ہے۔

## بلند آواز سے پڑھنے کے فوائد:

بلند آواز سے قراءت، پڑھنے والے کے دل کو بیدار رکھتی، اس کی فکر کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف اکٹھا کرتی، اسے اس طرف متوجہ رکھتی، نیند کو دور کرتی، چستی بڑھاتی اور سستی کم کرتی ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے میں سوئے ہوئے شخص کے بیدار ہونے کی امید ہوتی ہے تو یہ اس کے بیدار ہونے کا سبب ہے، نیز بعض اوقات کوئی غافل و بے کار شخص اسے دیکھ کر اس کی چستی کے سبب چُست ہو جاتا ہے اور اس میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر قاری قرآن کی ان میں سے کوئی نیت ہو تو بلند آواز سے قراءت کرنا افضل ہے اور جب یہ تمام نیتیں جمع ہو جائیں تو اجر و ثواب دُگنا ہو جاتا ہے۔

## جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ<sup>(۲)</sup>:

نیوٹوں کی کثرت سے نیک لوگوں کے اعمال کا تزکیہ ہوتا اور ان کے اجر دُگنا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک عمل

①.....سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة.....الخ، الحدیث: ۱۳۲۹-۱۳۳۰، ج ۲، ص ۵۵۔

قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجہر بالقرآن.....الخ، ج ۱، ص ۱۱۰۔

②..... اچھی اچھی نیتوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 616

صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت بركاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ”نیکی دعوت“ (حصہ اول) صفحہ 109 تا 129 کا مطالعہ کیجئے!

میں 10 نیتیں ہوں تو اس کے 10 اجر ملیں گے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس سے عمل میں، دیکھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے اٹھانا بڑھ جاتا ہے لہذا اس کے سبب اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیز منقول ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کا سات گنا اجر ہے کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

## کثرت تلاوت کے سبب.....؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس دو صحف شریف شہید گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے۔

## صبح تک اسے بند نہیں کرتا:

مصر کے ایک فقیہ ایک روز صبح کے وقت حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت آپ قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس فقیہ سے فرمایا: ”تمہیں فقہ نے قرآن پاک سے غافل کر دیا، میں عشا کی نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک میرے سامنے ہوتا ہے، پھر صبح تک اسے بند نہیں کرتا۔“

## ﴿10﴾..... خوش الحانی و عمدگی سے قراءت کرنا:

قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے لیکن حروف کو اتنا زیادہ نہ کھینچے کہ آواز بدل جائے یا نظم قرآن تبدیل ہو جائے۔ نیز حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“ (۳)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب استحباب الترتیل فی القراءۃ، الحدیث: ۱۴۶، ج ۲، ص ۱۰۵۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب استحباب تحسین..... الخ، الحدیث: ۷۹، ص ۳۹۷-۳۹۸۔

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: واسروا قولکم..... الخ، الحدیث: ۷۵۲، ج ۴، ص ۵۸۶۔

## سیدنا سالم رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی:

مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتظار فرما رہے تھے۔ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو استفسار فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے روکا؟“ عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میں نے ایک شخص کو قراءت کرتے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی۔“ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور کافی دیر تک اس کی قراءت سنتے رہے، پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا: ”یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام خوبیاں اللہ عزَّ وَّجَلَّ کو جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔“ (۱)

اسی طرح ایک رات امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود کی طرف گئے اور کافی دیر پڑھنے ان کی قراءت سنتے رہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص قرآن پاک کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی طرح قراءت کرے۔“ (۲)

## سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی:

ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”میرے سامنے تلاوت کرو۔“ عرض کی: ”میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔“ چنانچہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے۔ (۳)

## سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی:

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت سن کر

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة والسنة فیہا، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳، ج ۲، ص ۱۳۰، بتغییر۔

②..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب المناقب، عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۸۲۵-۸۲۷، ج ۵، ص ۷۱۔

③..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب البکاء عند قراءة القرآن، الحدیث: ۵۰۵، ج ۳، ص ۲۱۸، مفہومًا۔

ارشاد فرمایا: ”اسے داؤد عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سی خوش آوازی عطا ہوئی ہے۔“<sup>(۱)</sup> جب یہ بات حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو پہنچی تو انہوں نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الحانی سے پڑھتا۔“<sup>(۲)</sup>

### حکایت: خوش نصیب قاری قرآن:

حضرت سیدنا قاری پیشم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”تو ہی پیشم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”جی ہاں!“ تو دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔“ مروی ہے کہ صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے کہ ”قرآن کی کوئی سورت سناؤ۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرماتے: ”ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔“ وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کہا جاتا: ”نماز نماز۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے: ”کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔“ آپ کے اس قول سے اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے: ”وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَكْثَرِ الْإِيمَانِ: اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔“

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ”جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے، بروز قیامت وہ اس کے لئے نور ہوگی۔“<sup>(۳)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”اس کے لئے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔“<sup>(۴)</sup>

قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے بشرطیکہ ریاکاری و بناوٹ کی نیت نہ ہو۔



①.....صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة، الحدیث: ۵۰۴، ج ۳، ص ۲۱۶۔

②.....قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجہر بالقرآن.....الخ، ج ۱، ص ۱۱۲۔

③.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرة، الحدیث: ۸۵۰، ج ۳، ص ۲۴۵، ”استمع“ بدلہ ”تلا“۔

④.....قوت القلوب، الفصل التاسع عشر، کتاب الجہر بالقرآن.....الخ، ج ۱، ص ۱۱۱۔

## تلاوت کے باطنی آداب

باب نمبر ۳:

تلاوت کے باطنی آداب دس ہیں: (۱)..... اصل کلام کا سمجھنا (۲)..... اس کی تعظیم کرنا (۳)..... حضور قلبی کے ساتھ تلاوت کرنا (۴)..... اس کے معانی میں غور و فکر کرنا (۵)..... معانی کو سمجھنا (۶)..... سمجھنے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنا (۷)..... تخصیص (۸)..... تاثر (۹)..... ترقی (۱۰)..... براءت کا اظہار کرنا۔

### ﴿۱﴾ ..... کلام کی عظمت و بلندی کو سمجھنا:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و احسان اور لطف و کرم کو یوں سمجھنا کہ اس نے عرش بریں سے ایسا آسان کلام اتارا کہ مخلوق کی سمجھ میں آجائے، اس پر غور کرنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اپنی مخلوق پر کتنی مہربانی ہے کہ وہ کلام جو اس کی صفت قدیمہ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو مخلوق کی سمجھ تک پہنچا دیا، وہ صفت حروف و اصوات (آوازوں) سے کس طرح ظاہر ہوئی حالانکہ حروف و اصوات بشری صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ وہ اپنی صفات کے وسیلہ کے بغیر صفات الہیہ کو سمجھ سکے، لہذا ان حروف و اصوات کے پیرائے میں اس صفت کلام کو ڈھال دیا گیا، اگر بالفرض کلام الہی کے جلال کی حقیقت حروف کے پیرائے میں چھپی نہ ہوتی تو عرش بھی اسے سن کر نہ ٹھہر سکتا، نہ خاک کو اس کے سننے کی تاب ہوتی، اس کی عظمت اور نور جلال سے فرشتے تا عرش سب ناپید ہو جاتے۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو ثابت قدم نہ رکھتا تو ان میں کلام الہی سننے کی تاب نہ ہوتی جیسے پہاڑ اذنی تھلکی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کلام الہی کی عظمت کو ایسی مثالوں کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں جن تک مخلوق کی عقل کی رسائی ہو۔ اسی لئے بعض عارفین نے اسے یوں تعبیر کیا کہ کلام الہی میں سے ہر حرف لوح محفوظ میں کوہ قاف پہاڑ سے بڑا ہے، اگر تمام فرشتے ایک حرف کو اٹھانے کے لئے جمع ہو جائیں تو بھی نہ اٹھ پائیں البتہ لوح محفوظ پر مامور فرشتے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اسے اٹھا لیتے ہیں لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن اور اس کی رحمت سے نہ کہ اپنی طاقت و قوت سے، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور یہ کام انہی کے سپرد ہے۔ کلام الہی کے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انسان کی عقل کو اس کے معانی سمجھنے تک رسائی عطا فرمائی اور اسے ثابت رکھا حالانکہ انسان کا مرتبہ کم ہے۔

## کلام الہی کے معانی کو اس مثال سے سمجھو:

ایک بزرگ نے کلام کے معانی تک پہنچنے کی ایک لطیف صورت بیان فرمائی بلکہ ایک مثال بھی پیش کی ہے۔ چنانچہ، فرماتے ہیں: کسی دانا شخص نے ایک بادشاہ کو انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کی (لائی ہوئی) شریعت کی دعوت دی تو بادشاہ نے چند سوال کئے تو دانا نے بادشاہ کی سمجھ کے مطابق جوابات دیئے۔ بادشاہ نے کہا: ”میں نے دیکھا ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ جو کلام لاتے ہیں تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ یہ لوگوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا کلام ہے، پھر لوگ اسے کیسے سمجھتے ہیں؟“ اس دانا شخص نے جواب دیا: ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی جانور یا پرندے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں مثلاً آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، سامنے منہ کرنا اور پشت پھیرنا وغیرہ اور وہ جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی عقل سے تحسین و تزئین اور عجیب تنظیم کے ساتھ صادر ہونے والے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو وہ جانوروں کے رنگ میں ڈھل کر کلام کرتے ہیں اور اپنے مقصود کو ان میں ایسی آواز سے پہنچاتے ہیں جو ان کی سمجھ کے مناسب ہو مثلاً ٹُخ ٹُخ کرنا، سیٹی بجانا اور ایسی آوازیں جو ان کی آوازوں کے قریب قریب ہوں تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ اسی طرح لوگ بھی کلام الہی کو اس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ نے بھی ان کے ساتھ وہی انداز اختیار کیا جو لوگ جانوروں کے ساتھ برتتے ہیں یعنی اس کلام پاک کو ایسے الفاظ و حروف میں بیان کیا جس سے لوگ اس کی حکمت کو سمجھ جائیں جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے ان کے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف اور اصوات میں پوشیدہ رہتے ہیں لہذا ان معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب کلام کی سمجھ آتی ہے تو گویا آواز حکمت کے لئے جسم اور مکان جبکہ حکمت آواز کے لئے جان اور روح ہے۔ جس طرح آدمی کا جسم روح کے سبب مکرم و معزز ہوتا ہے اسی طرح کلام کے اصوات و حروف بھی ان میں موجود حکمتوں کی وجہ سے مشرف و مقصود ہوتے ہیں اور کلام بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، غلبہ میں زبردست، حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا، حاکم عادل اور پسندیدہ گواہ ہے، اسی سے امر و نہی کا صدور ہوتا ہے باطل کو تاب نہیں کہ پُر حکمت کلام کے سامنے ٹھہر سکے جیسے سایہ سورج کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، بندوں میں طاقت نہیں کہ حکمت کی گہرائی کے پار جائیں جیسے وہ اپنی آنکھوں کو سورج کی روشنی کے پار نہیں کر سکتے۔ البتہ، سورج کی روشنی سے انہیں اتنا

حاصل ہوتا ہے کہ جس سے ان کی آنکھوں میں نور آجائے اور وہ اپنی ضروریات کی طرف رہنمائی حاصل کر لیں۔  
کلامِ الہی چھپے ہوئے بادشاہ کی مانند ہے جس کا چہرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کا حکم جاری ہے یا گویا وہ سورج ہے جس کی روشنی ظاہر ہے مگر وہ خود پوشیدہ ہے یا چمکتے ستارے کی مثل ہے کہ جسے اس کی چال سے واقفیت نہیں ہوتی وہ بھی اس کے ذریعے راہ پالیتا ہے۔

## خلاصہ کلام:

کلامِ الہی نہایت عمدہ خزانوں کی چابی ہے۔ یہ آبِ حیات ہے کہ جس نے اس میں سے پیواہ حیاتِ ابدی سے متصف ہو گیا اور ایسی دوا ہے کہ جس نے اس کو نوش کیا کبھی بیمار نہ ہوا۔ یہ دانا شخص نے جو بیان کیا ہے کلام کے معنی کو سمجھنے کے لئے ایک مختصر سی بات ہے، اس سے زیادہ بیان کرنا علمِ معاملہ کے مناسب نہیں لہذا اسی پر اکتفا کرنا چاہئے۔

## ﴿۲﴾..... متکلم کی تعظیم:

قاری قرآن کو چاہئے کہ تلاوتِ قرآن شروع کرتے وقت دل میں متکلم کی عظمت ظاہر کرے اور یہ جانے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں۔ کلامِ مجید کی تلاوت میں بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

لَا يَسْتَسْمِعُ إِلَّا الظَّاهِرُونَ ﴿۷۹﴾ (پ ۲، الواقعة: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: اسے نہ چھوئیں مگر با وضو۔

جس طرح ظاہری جلدِ قرآن اور اس کے اوراق کا یہ ادب ہے کہ آدمی کا جسم بغیر طہارت انہیں نہ لگے اسی طرح اس کے معانی کا باطن بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے پردے میں ہے جو دل کے اندر ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہوئے بغیر اور نورِ تعظیم و توقیر سے منور ہوئے بغیر نہیں آسکتے۔ جس طرح ہر ایک ہاتھ جلدِ مصحف کو چھونے کے لائق نہیں اسی طرح ہر زبان اس کے حروف کی تلاوت کی بھی لیاقت نہیں رکھتی، نہ ہر ایک دل میں اس کے معانی حاصل کرنے کی قابلیت ہے۔ اسی تعظیم کے سبب حضرت سیدنا عمر بن ابی جہل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب قرآن پاک کھولتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور فرماتے: ”یہ میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے، یہ میرے رب عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے۔“

کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں تب تک نہیں آسکتی جب تک کہ اس کی

صفات اور جلال و افعال میں فکر نہ کریں۔ پس جب قاری کے دل میں عرش، کرسی، آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں یعنی جن و انس اور درخت و حیوانات آئیں اور وہ یقین سے جانے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا، ان پر قدرت رکھنے والا، انہیں روزی دینے والا واحد و یکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے فضل و رحمت اور عذاب و سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کرے گا تو اپنے فضل سے اور اگر عذاب دے گا تو اپنے عدل سے۔ اسی کا ارشاد ہے کہ ”یہ لوگ بہشت کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ لوگ دوزخ کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔“ یہ عظمت و بزرگی کی انتہا ہے۔ ایسے امور میں غور و فکر کرنے سے مستکمل کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے پھر کلام کی عظمت اس میں جاگزیں ہوتی ہے۔

### ﴿3﴾..... حضور قلب کے آداب:

حضور قلب کے ساتھ تلاوت کرنا اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو ترک کرنا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں: اس فرمان باری تعالیٰ: ”يَجِيئُ حَذَّالِكُتْبَ بِقُوَّةٍ“ (پ ۱۶، ص ۱۲) میں ”قوة“ سے مراد کوشش و اجتہاد ہے اور کوشش کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت کے وقت صرف اسی کی طرف توجہ ہو کسی دوسری جانب نہ ہو۔

### قرآن سے زیادہ محبوب کچھ نہیں:

کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کے دوران آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں (یعنی دل میں کسی اور چیز کا خیال آتا ہے)؟ انہوں نے فرمایا: ”کیا کوئی چیز مجھے قرآن سے زیادہ محبوب ہوگی کہ میں نفس سے اس کے بارے میں گفتگو کروں۔“

بعض بزرگ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے اور دل اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو اسے دوبارہ پڑھتے۔ یہ صفت تعظیم کلام سے پیدا ہوتی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا کیونکہ جو شخص پڑھے جانے والے کلام کی تعظیم کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا اور اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا۔

### باغات، حجرے، دہنیں اور ریشمی لباس وغیرہ:

قرآن پاک میں انس کی باتیں ہیں اگر پڑھنے والا اس کا اہل ہو تو وہ غیر کے ذریعے کیسے انس حاصل کرے گا۔



قرآن پاک میں سیر و سیاحت اور خوشی کے مقامات ہیں اور جو شخص سیر و تفریح کے مقام پر ہو وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ قرآن پاک میں میدان، باغات، حجرے، دلہنیں، ریشمی لباس، باغیچے اور سرائیں ہیں۔ لفظ میم قرآن پاک کے میدان ہیں، لفظ ذا قرآن پاک کے باغات ہیں، لفظ حا اس کے حجرے ہیں، تسبیح سے شروع ہونے والی سورتیں قرآن پاک کی دلہنیں ہیں، حمہ قرآن پاک کے ریشمی کپڑے ہیں، مفصل سورتیں اس کے باغیچے ہیں اور اس کے علاوہ سرائیں ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھنے والا میدانوں میں داخل ہوتا، باغات سے پھل چنتا، حجروں میں داخل ہو کر دلہنوں کے پاس جاتا، ریشمی لباس پہنتا، باغیچوں میں سیر کرتا ہے اور سرائے میں سکونت اختیار کرتا ہے تو یہ سب اسے گھیر لیتا اور اپنے ماسوا سے پھیر دیتا ہے، پھر نہ تو اس کا دل دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سوچ منتشر ہوتی ہے۔

﴿۴﴾..... غور و فکر کرنا:

یہ حضور قلب کے علاوہ ہے کیونکہ کبھی تلاوت کرنے والا قرآن کے علاوہ میں غور تو نہیں کرتا مگر فقط قرآن سننے پر اکتفا کرتا ہے، اس میں تدبیر نہیں کرتا حالانکہ قراءت سے مقصود تدبیر کرنا ہے، اسی لئے ترتیل سے (یعنی ٹھہر ٹھہر کر) تلاوت کرنا مسنون ہے کیونکہ اگر ظاہر اٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو غور و خوض بھی کرے گا۔

انمول موتی:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَدَمَ اللہُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں: ”اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو اور اس قراءت میں کوئی بہتری نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔“

اگر بار بار پڑھے بغیر غور و فکر پر قادر نہ ہو تو بار بار پڑھے۔ البتہ، امام کی اقتدا میں ہو تو ایسا نہ کرے کیونکہ اگر وہ ایک آیت میں غور و فکر کرتا رہا اور امام دوسری میں مشغول ہو گیا تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ کوئی اس کے کان میں کوئی کلمہ کہے اور وہ اس کے ایک لفظ سے تعجب کرنے لگے اور باقی کلام میں غور و فکر نہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ رکوع کی تسبیح میں ہو اور اس آیت میں غور و فکر کرنا شروع کر دے جو امام صاحب نے پڑھی تو یہ وسوسہ ہے۔

حکایت: اس بارگاہ سے کیسے پھروں:

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: ”مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔“

عرض کی گئی: ”کیا دنیاوی معاملات کے وسوسے آتے ہیں؟“ فرمایا: ”مجھے دنیا کے وسوسوں سے زیادہ پسند یہ ہے کہ مجھ میں نیزے آر پار کر دیئے جائیں۔ میرا دل ربِّ عَزَّوَجَلَّ کے حضور کھڑا ہونے میں لگ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ اس بارگاہ سے کیسے پھروں۔“

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اسے وسوسہ شمار کیا اور یہ وسوسہ ہی ہے کہ نمازی جو کچھ پڑھ رہا ہو اسے سمجھنے نہیں دیتا اور شیطان کامل الایمان لوگوں پر اسی طرح قابو پاتا ہے کہ انہیں کسی دینی کام میں مشغول کر دیتا بلکہ اس کے ذریعے افضل کام سے روکتا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے یہ بات کی گئی تو آپ نے فرمایا: ”اگر تم ان کے متعلق یہ سچ کہتے ہو تو ہم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ احسان نہیں فرمایا۔“

### تلاوت ہو تو ایسی:

مروی ہے کہ ”ایک بار حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی اور اسے 20 مرتبہ دہرایا۔“ 20 بار اس لئے دہرایا کیونکہ آپ اس کے معانی میں غور و فکر کر رہے تھے۔

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ایک رات حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہمارے پاس قیام فرمایا آپ ایک ہی آیت مقدسہ بار بار پڑھتے رہے۔ وہ آیت یہ ہے:

ان تَعُدُّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ: ۷، المائدة: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بیشک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ (۱)

ایک رات حضرت سیدنا تمیم بن اوس داری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے رہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (پ: ۲۵، الجاثية: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

حضرت سیدنا سعید بن جبیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ایک رات کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کرتے رہے:

وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيْهَا الْمَجْرُمُونَ (پ: ۲۳، يس: ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو!

①.....سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ والنسۃ فیہا، باب ماجاء فی القراءۃ.....الخ، الحدیث: ۱۳۵، ج ۲، ص ۱۳۷، بتغییر۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور اس میں ایسی بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں اور وہ سورت مکمل نہیں ہوتی۔“

ایک اور بزرگ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے ہیں: ”جس آیت مبارکہ کو میں سمجھے بغیر بے توجہی سے پڑھتا ہوں اسے باعث ثواب نہیں سمجھتا۔“

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: ”میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو چار پانچ راتیں اسی میں غور و فکر کرتے گزر جاتی ہیں اگر میں خود اس میں غور و فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔“

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”میں 6 ماہ سورہ ہود کو بار بار پڑھتا رہا لیکن اس میں غور و فکر کرنے سے فرصت نہ ملی۔“ معرفت الہی رکھنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”میں ہر جمعہ ایک ختم قرآن کرتا ہوں اور ہر مہینے میں ایک ختم کرتا ہوں اور ہر سال ایک ختم کرتا ہوں اور تیس سال سے ایک ختم کر رہا ہوں جس سے ابھی تک فارغ نہیں ہوا اور یہ مدت تدبر و تفتیش کے درجات کے اعتبار سے ہے۔“

انہی کا قول ہے، فرماتے ہیں: ”میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام ٹھہرا لیا ہے اسی لئے میں اس سے روزانہ بھی کام لیتا ہوں، ہفتہ وار بھی، ماہانہ بھی اور سالانہ بھی۔“

### ﴿5﴾..... سمجھنا:

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی اس کے مطابق وضاحت کرنا کیونکہ قرآن پاک اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی صفات، اس کے افعال اور انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور انہیں جھٹلانے والوں کے احوال کے ذکر پر مشتمل ہے اور یہ کہ وہ کیسے ہلاک کئے گئے۔ نیز قرآن پاک احکام الہی، تنبیہات اور جنت و دوزخ کے ذکر پر مشتمل ہے۔

### صفات باری تعالیٰ:

صفات کا بیان ان آیات میں ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱۱﴾ ترجمہ کنزالایمان: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔

(پ ۲۵، الشوریٰ: ۱۱)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُهَيَّبُ  
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط (پ ۲۸، الحشر: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امان  
بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عظمت والا تکبر والا۔

ان اسماء و صفات کے معانی میں غور و فکر کیجئے تاکہ ان کے اسرار منکشف ہوں۔ ہر ایک کے تحت بہت سے معانی پوشیدہ ہیں جو صرف توفیق والوں پر ہی منکشف ہوتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ  
”مجھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی خفیہ بات نہ بتائی جو لوگوں سے چھپا رکھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ  
اللہ عز و جل کسی بندے کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔“ (۱) پس ہر ایک کو اس سمجھ کی طلب کا حریص ہونا چاہئے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”جو اولین و آخرین کا علم چاہتا ہو اسے چاہئے  
کہ قرآن میں بحث و مباحثہ کرے۔“

قرآن کے بڑے بڑے علوم اسماء و صفات الہیہ کے تحت ہیں کیونکہ اکثر مخلوق ان کا ادراک نہیں کر سکتی سوائے ان  
اُمور کے جو ان کی سمجھ میں آسکتے ہوں اور وہ اس کے واضح حقائق اور پوشیدہ باریک باتوں پر آگاہ نہیں ہوتے۔

## افعال الہیہ:

انہیں ان آیات سے سمجھا جاسکتا ہے جن میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تلاوت کرنے والا ان سے  
اللہ عز و جل کی صفات اور اس کے جلال کو سمجھے کیونکہ فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے کہ کام کی عظمت خالق کی عظمت پر  
دلالت کرتی ہے۔ لہذا بندے کو چاہئے کہ فعل میں فاعل کو دیکھے نہ کہ فعل کو۔ جس نے حق کو پہچان لیا وہ ہر چیز میں اسے  
دیکھتا ہے کیونکہ ہر چیز اسی سے ہے، اسی کی طرف ہے، اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے لئے ہے۔ حقیقتاً ہر ایک کا یہی  
مذہب ہے۔ جو ہر دیکھی ہوئی چیز میں اسے نہیں دیکھتا گویا اس نے اللہ عز و جل کو پہچانا ہی نہیں اور جس نے اسے پہچان  
لیا اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز باطل اور اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ مراد نہیں  
کہ وہ چیز دوسری حالت میں باطل ہے بلکہ اگر اس کی ذات کا اعتبار کیا جائے تو وہ ابھی باطل ہے اور اگر یوں اعتبار کیا

①.....سنن النسائی، کتاب القسامة والقود: سقوط القود من المسلم للكافر، الحدیث: ۴۷۵۳، ص ۷۶۴۔

جائے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی قدرت کے ساتھ موجود ہے تو وہ بالتحج قائم و ثابت ہے جبکہ ذاتی طور پر محض باطل ہے۔ یہ علم مکاشفہ کی ابتدائی باتوں میں سے ہے۔ اس لئے تلاوت کرنے والا جب ان آیاتِ طیبہ کی تلاوت کرے:

﴿۱﴾

أَفْرَعَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۱۳﴾ (پ ۲، الواقعة: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو جو بوٹے ہو۔

﴿۲﴾

أَفْرَعَيْتُمْ مَا تَسْبُونَ ﴿۵۸﴾ (پ ۲، الواقعة: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو۔

﴿۳﴾

أَفْرَعَيْتُمُ الْبَاءَ الَّتِي تَشْرَبُونَ ﴿۸۸﴾ (پ ۲، الواقعة: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو۔

﴿۴﴾

أَفْرَعَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿۷۱﴾ (پ ۲، الواقعة: ۷۱) ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔

تو اس کی نظر پانی، آگ، کھیتی اور منی پر نہ ٹھہر جائے بلکہ مادہ منویہ میں غور و فکر کرے جو اجزا کی مثل نطفہ ہے پھر اس کے گوشت، ہڈیوں، رگوں اور پٹھوں میں تقسیم ہونے کو دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے اعضاء مختلف شکلوں مثلاً سر، ہاتھ، پاؤں، جگر، اور دل وغیرہ میں کیسے منتقل ہوتے ہیں، پھر ان اچھی صفات کی طرف نظر کرے جو اس میں پیدا ہوتی ہیں: جیسے وہ سنتا، دیکھتا، سمجھتا ہے وغیرہ اور مذموم عادات کی طرف دیکھے: جیسے غصہ، شہوت، تکبر، جہالت، تکذیب اور جھگڑا وغیرہ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿۷۷﴾ (پ ۲۳، یس: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جی وہ صریح جھگڑا لو ہے۔

ان عجائبات میں غور کرے تاکہ سب سے زیادہ عجیب تک پہنچے اور یہ وہ صفت ہے جس سے یہ عجیب امور صادر ہوئے۔ لہذا مسلسل صنعت (کاری گری) میں غور و خوض کرتا رہے تاکہ صانع کو دیکھ لے۔

انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے احوال:

جہاں تک انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے احوال کا تعلق ہے تو جب سننے کہ ان حضرات کو کس طرح جھٹلایا

گیا، کیسے مارا گیا، کیسے بعض کو شہید کیا گیا تو اس سے سمجھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ رسولوں اور جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا ان سے بے نیاز ہے اور یہ کہ اگر وہ ان تمام کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بادشاہت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ جب انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی مدد کے بارے میں سنئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی واضح قدرت اور اس چیز کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ہی ارادہ فرماتا ہے۔

### جھٹلانے والوں کا تذکرہ:

جھٹلانے والوں مثلاً عاد و ثمود وغیرہ کے حالات اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کے متعلق پڑھے تو دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غلبہ و قدرت کا خوف پیدا کرے اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرے کہ اگر غافل اور بے ادب دی گئی مہلت سے دھوکے میں رہا تو ممکن ہے کہ اس پر بھی وہی عذاب نازل ہو اور اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہو (جوان کے حق میں ہوا)۔ اسی طرح جب جنت و دوزخ کے اوصاف اور جو کچھ قرآن میں اس کے متعلق ہے سنئے تو ان میں اپنی استطاعت کے مطابق غور کرے کیونکہ سب باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں اس لئے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کے لئے مقدر رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَرْطِبْ وَلَا يَاسِيسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۵۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نہ کوئی تراور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ (پ۷، الانعام: ۵۹)

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِسُبُلِهِ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ (پ۱۶، الکہف: ۱۰۹)

اسی لئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے فرمایا: ”اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔“

جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے سمجھنے کے طریقے پر آگاہ کرنا مقصود ہے تاکہ اس کا دروازہ کھلے۔ جہاں تک تفصیل بیان کرنے کا تعلق ہے تو اس کی طمع نہیں کی جاسکتی اور جو شخص قرآن کے مضامین کو ادنیٰ طور پر بھی نہ سمجھے تو وہ ان لوگوں

میں داخل ہے جن کا تذکرہ اس آیت طیبہ میں ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا  
مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا  
قَالَ أَنْفَاءُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ  
قُلُوبِهِمْ (پ۲۶، محمد: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے  
ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم  
والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا یہ ہیں وہ جن کے  
دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔

طالع (یعنی مہر) سے مراد وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم موانع فہم (سمجھ میں رکاوٹ بننے والے امور) کے تحت بیان کریں  
گے۔ منقول ہے کہ آدمی اس وقت تک مرید (ارادہ کرنے والا) نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مطلوب کو قرآن سے نہ پالے  
اور اس سے مزید نقصان نہ جان لے اور مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کی حمایت حاصل کر کے بندوں سے بے پروا نہ ہو جائے۔

### ﴿6﴾..... معانی سمجھنے میں رکاوٹ بننے والے اسباب کا خاتمہ:

بہت سے لوگ ان اسباب اور پردوں کی وجہ سے قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے سے رک گئے جو شیطان نے ان  
کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں۔ لہذا وہ قرآن پاک کے عجائب و اسرار سے اندھے ہو گئے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک،  
صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اگر بنی آدم کے دلوں پر شیاطین گھیرا نہ  
ڈالے ہوتے تو وہ عالم ملکوت کو دیکھ لیتے۔“ (۱)

قرآن کے معانی بھی ”ملکوت“ میں داخل ہیں اور ہر وہ چیز جو حواس ظاہرہ سے غائب ہو اور سوائے نور بصیرت  
کے کسی چیز کے ذریعے اس کا ادراک نہ کیا جاسکے وہ بھی ”ملکوت“ میں داخل ہے۔

### قرآن کے معنی سمجھنے میں حاصل رکاوٹیں:

قرآن کے معانی سمجھنے کی راہ میں چار رکاوٹیں حاصل ہیں:

پہلی رکاوٹ: یہ ہے کہ قاری قرآن کی تمام تر توجہ و فکر حروف کو مخارج سے ادا کرنے کی طرف رہے۔ اس کام کا ذمہ  
دار ایک شیطان ہے جو قاریوں پر مسلط ہے تاکہ انہیں کلام الہی کے معانی سمجھنے سے (دوسری طرف) پھیر دے۔ لہذا وہ

①..... التفسیر الکبیر، ج ۱، ص ۸۵۔

یہ خیال پیدا کر کے کہ ابھی حرف اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا مسلسل اس حرف کے بار بار پڑھنے پر ابھارتا رہتا ہے تو جب پوری توجہ و فکر مخرج حروف کی طرف رہے گی تو اس کے لئے معانی کیسے روشن ہوں گے اور شیطان کا سب سے بڑا مسخرہ وہ شخص ہے جو اس قسم کے مغالطے میں آجاتا ہے۔

**دوسری رکاوٹ:** یہ ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کی پیروی کرے اور اسی پر جم جائے، اپنی بصیرت و مشاہدے کے ذریعے اس تک پہنچے بغیر صرف انہیں باتوں کی پیروی کرے اور اس کے دل میں تعصب پیدا ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے جسے اس کے اعتقاد نے آگے بڑھنے سے قید کر رکھا ہے۔ اس کے دل میں اپنے عقیدے کے سوا کچھ بھی داخل نہیں ہو سکتا لہذا اس کی نظر اپنے سنے سنائے عقیدے پر ہی موقوف رہتی ہے، اگر دور سے اس کے لئے روشنی کی کوئی کرن چمکے اور معانی قرآن میں سے کوئی معنی ظاہر ہو لیکن وہ اس کے عقیدے کے خلاف ہو تو تقلید کا بھوت اس پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”تیرے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا حالانکہ یہ تیرے باپ دادا کے عقیدے کے خلاف ہے؟“ تو وہ اس معنی کو شیطان کا فریب خیال کر کے اس سے دور رہتا اور اس طرح دیگر معانی سے بچتا ہے۔

اسی قسم کے لوگوں کے لئے صوفیائے کرام رَجَمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامَ فرماتے ہیں: ”اِنَّ الْعِلْمَ حِجَابٌ لِّعَمٰی عِلْمٍ اَحَدٌ حِجَابٌ لِّعَمٰی“ علم سے ان کی مراد وہ عقائد ہیں جن پر بہت سے لوگ محض سنی سنائی باتوں کی پیروی یا ان مناظرانہ کلمات کی وجہ سے قائم ہیں جو مذہب کے متعصب لوگوں نے لکھ کر انہیں دے دیئے ہیں۔ علم حقیقی تو نور بصیرت کے ذریعے حاصل ہونے والے کشف و مشاہدہ کا نام ہے، یہ کیسے حجاب ہو سکتا ہے حالانکہ یہی تو مطلوب و مقصود کی انتہا ہے۔

یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے، اس وقت معانی قرآن سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جو ”اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ“ سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عرش پر ٹھہرے اور فرار پکڑے ہوئے ہے، اگر اس وقت اللّٰهُ قَدَّوَسْ عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں اس کے دل میں یہ خیال آئے بھی کہ وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مخلوق کے لئے جائز ہیں تو اس کا یہ عقیدہ اس خیال کو اس کے دل میں جمنے نہیں دے گا، اگر بالفرض جم بھی جائے تب بھی یہ اسے دوسرے کشف پھر تیسرے کشف کی طرف لے جائے گا اور وہ اس کے ذریعے صریح حق تک پہنچ جائے گا لیکن اس خیال کو اپنے دل سے نکالنے میں وہ جلدی کرے گا کیونکہ یہ اس کے باطل عقیدے سے ٹکراتا ہے۔



بعض اوقات تقلید حق ہوتی ہے لیکن پھر بھی معانی قرآن سمجھنے اور منکشف ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ مخلوق کو جس حق کے اعتقاد کا مکلف بنایا گیا ہے اس کے بہت سے مراتب و درجات ہیں۔ اس کا ایک ظاہری مبداء ہوتا ہے اور ایک باطنی گہرائی ہوتی ہے اور طبیعت کا ظاہر پر جم جانا باطنی گہرائی تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ اسے ہم نے ”تواعد عقائد کے بیان میں“ علم ظاہر و باطن میں فرق کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے۔

**تیسری رکاوٹ:** یہ ہے کہ قاری قرآن گناہ پر مصر یا صفت تکبر سے متصف ہو یا دنیوی خواہشات میں مبتلا ہو اور ان کے پیچھے چلے، یہ چیزیں قلب کے تاریک اور زنگ آلود ہونے کا سبب ہیں۔ یہ اس شیشے کی مانند ہے جس پر کوئی میل لگی ہو جس کے سبب عکس واضح نہ، اسی طرح یہ چیزیں حق کی تجلّی میں رکاوٹ ہوتی ہیں جس کے باعث حق دل پر صحیح طرح واضح و روشن نہیں ہوتا۔ یہ دل کے لئے بہت بڑا حجاب ہے اور اکثر لوگ اسی حجاب کا شکار ہیں۔ جیسے جیسے شہوات زیادہ ہوتی رہتی ہیں، کلام الہی کے معانی سمجھنے کی راہ میں حجاب بھی بڑھتا رہتا ہے اور جیسے جیسے دل سے دنیا کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، معانی قرآن کی تجلّی بھی قریب ہوتی رہتی ہے۔ پس دل، آئینہ کی مانند اور شہوات، زنگ کی مانند ہیں اور معانی قرآن ان صورتوں کی طرح ہیں جو شیشے میں دکھائی دیتی ہیں اور شہوات کو دور کرنے کے ساتھ ریاضت قلب کرنا شیشے سے زنگ کو صاف کرنے کی طرح ہے۔

### أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ كَرْنِ نَقْصَانِ:

رسول اکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب میری امت درہم و دینار کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان سے نکال لی جائے گی اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔“<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَهَّابِ نے اس قول ”وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ”وہ قرآن پاک کی سمجھ سے محروم ہو جائے گی۔“

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سمجھ اور نصیحت کے لئے (اپنی طرف) رجوع کرنے کو شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ (پ ۲۶، ق: ۸) ترجمہ کنز الایمان: سو جھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لئے۔

①..... موسوعۃ لابن ابی الدنیا، کتاب الامر بالمعروف..... الخ، الحدیث ۶۸، ج ۲، ص ۲۱۲۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿۱۳﴾ (پ۲۳، المؤمن: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۹﴾ (پ۲۳، الزمر: ۹) ترجمہ کنز الایمان: نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

پس وہ شخص جو دنیا کی فریب کاریوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے وہ عقل مندوں میں سے نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن پاک کے اسرار بھی اس کے لئے منکشف نہیں ہوتے۔

**چوتھی رکاوٹ:** یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ظاہری تفسیر پڑھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک کے کلمات کے وہی معانی ہیں جو حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس، حضرت سیدنا ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے منقول ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تفسیر بالرائے ہے اور جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا۔

معانی سمجھنے میں یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے۔ عنقریب چوتھے باب میں ہم تفسیر بالرائے کا معنی بیان کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے یہ بات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اس قول ”مگر یہ کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ اپنے کسی بندے کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے“ سے نہیں ٹکراتی۔ اگر کلمات قرآن کے معنی صرف اور صرف وہی ہوتے جو ظاہر اور منقول ہیں تو اس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہوتا۔

## ﴿7﴾ ..... تخصیص:

اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر خطاب میں یہ تصور کرے کہ اس سے میں ہی مقصود ہوں، مثلاً امر و نہی سننے تو یہ خیال کرے کہ یہ امر و نہی اسی کے لئے ہے، اگر وعدہ و وعید سننے پھر بھی یہی تصور کرے اور اگر گزرے ہوئے لوگوں اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سننے تو جان لے کہ ان کے ذکر کرنے کا مقصد محض قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، لہذا ان کے بیان سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس کے لانے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی امت کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَا نُنزِلُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ (پ ۱۲، ہود: ۱۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔

لہذا بندے کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، ان کے تکالیف پر صبر کرنے اور ان کے نصرت الہی کا انتظار کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ اس لئے ہیں تاکہ اس کا دل قائم و ثابت رہے اور یہ خیال کیوں نہ کیا جائے حالانکہ اللہ عزوجل نے قرآن پاک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص طور پر آپ کے لئے ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن پاک تو تمام عالمین کے لئے شفا و رحمت اور ہدایت و نور ہے۔ اسی لئے اللہ عزوجل نے تمام لوگوں کو قرآن پاک کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ،

(چند آیات مبارکہ ملاحظہ ہوں:)

﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ ۖ

(پ ۲، البقرة: ۲۳۱)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۙ (پ ۱، الانبیاء: ۱۰)

﴿۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اترا۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (پ ۱۴، النحل: ۴۴)

﴿۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۙ (پ ۲۶، محمد: ۳)

﴿۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

(پ ۲۴، الزمر: ۵۵)

﴿۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ

(پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۰)

﴿۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

(پ ۲۴، آل عمران: ۱۳۸)

لہذا جب خطاب کا مقصود تمام لوگ ہیں تو ہر شخص فرداً فرداً بھی اس خطاب کا مقصود ہوگا اور یہ اکیلا قرآن پاک پڑھنے والا بھی اس خطاب کا مقصود ہوگا تو اب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطہ؟ اسے یہ تصور کرنا چاہئے کہ وہی اس خطاب کا مقصود ہے۔ اللہ عزَّ وَّجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ آلِهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنَّكُمْ بِهِ وَمَنْ بَدَّخَطٌ (پ ۷، الانعام: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔

گویا اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے کلام فرمایا:

حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”مَنْ بَدَّخَطٌ فَكَاتَمْنَا كَلِمَةَ اللَّهِ لِيَعْنِي جَسَ كَ“

پاس قرآن پاک پہنچا گویا اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اس سے کلام فرمایا۔“

قرآن کس نیت سے پڑھا جائے:

جب اس پر قادر (یعنی یہ تصور کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ خطاب کر رہا ہے قائم) ہو جائے تو محض قرآن پاک پڑھ لینے کو ہی اپنا عمل

مقرر نہ کر لے بلکہ اسے اس طرح پڑھے جس طرح غلام اپنے آقا کے خط کو پڑھتا ہے جو اس کی طرف اس لئے لکھا ہے تاکہ یہ اس میں غور و فکر کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اسی وجہ سے بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام نے فرمایا: ”یہ قرآن وہ خطوط ہیں جو ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہمارے پاس عہد و پیمان کے ساتھ آئے ہیں تاکہ ہم نمازوں میں ان میں غور و فکر کریں، تنہائیوں میں ان سے آگاہی حاصل کریں اور طاعات و عبادات میں ان پر عمل پیرا ہوں۔“

## قرآن بہار ہے:

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظِيمَا فرمایا کرتے تھے: ”اے اہل قرآن! قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ بے شک جیسے بارش زمین کے لئے بہار ہے ایسے ہی قرآن مومن کے لئے بہار ہے۔“  
حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ سِدُو سِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی نے فرمایا: ”جو شخص بھی قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ نفع یا نقصان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ چنانچہ، اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَا یُزِیْدُ  
الظَّالِمِیْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۶﴾ (پ ۱، بنی اسرائیل: ۸۶)

ترجمہ کنز الایمان: وہ چیز جو ایمان والوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔

## ﴿۸﴾..... حَآ ثِر:

اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کا دل مختلف آیات سے مختلف طرح کا اثر لے، ہر آیت کے معنی سمجھنے کے مطابق دل میں حال و وجد کی مختلف کیفیت پیدا ہو یوں کہ دل خوف و غم اور امید و رحمت وغیرہ صفات سے موصوف ہو، تو جب اس کی معرفت مکمل ہو جائے گی تو دل میں خشیت الہی تمام احوال پر غالب ہوگی کیونکہ آیات قرآنیہ پر تنگی غالب ہے اس لئے جہاں بھی مغفرت و رحمت کا ذکر ہوتا ہے، چند شرائط کے ساتھ ملا ہوتا ہے جنہیں پانے سے عارف قاصر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَ اِنِّی لَعَفَّارٌ ﴿۱۶﴾ (طہ: ۸۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔

پھر اس کے بعد چار شرطوں کا ذکر فرمادیا:

ترجمہ کنز الایمان: اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔

لَسِنَّ تَابَ وَأَمْرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا مُّهْتَدِي ۝۸۱  
(پ: ۱۶، طہ: ۸۲)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اس زمانہ محبوب کی قسم! بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۝۳ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝۴ (پ: ۳۰، العصر: ۱ تا ۳)

اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار شرائط ذکر فرمائی ہیں۔ وہ مقام کہ جہاں ایک ایسی شرط پراکتفا کیا جو سب کو

شامل ہے یہ ہے۔ چنانچہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۵۶  
(پ: ۸، الاعراف: ۵۶)

(اس آیت مبارکہ میں حصول رحمت کے لئے احسان کو شرط قرار دیا ہے اور) احسان تمام شرائط کو شامل ہے۔

ایسے ہی جو شخص قرآن پاک میں شروع سے آخر تک تلاش و جستجو کرے (وہ اس طرح کے مضامین پائے گا)۔ پس

جس نے یہ بات سمجھ لی اس کے لائق یہی ہے کہ اس پر خوف و غم کی کیفیت طاری ہو۔

اس کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے:

حضرت سپیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی قسم! جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا زیادہ اور ہنسنا کم ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ و مشغولیت زیادہ اور راحت و فراغت کم ہو جاتی ہے۔“

حضرت سپیدناؤ ہیب بن وَرْدِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں: ”روایات اور وعظوں میں غور کیا تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی اور غم و حزن لانے والی کوئی چیز نہ پائی۔“

## یوں تلاوت کرے:

بندہ تلاوتِ قرآن سے اس طرح اثر لے کہ تلاوت کی جانے والی آیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے یوں کہ جب وعید کا ذکر ہو اور مغفرت کو شرائط کے ساتھ خاص کیا جائے تب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے اتنا چھوٹا اور حقیر بن جائے گویا مرنے کے قریب ہے۔ جب رحمتِ الہی کی وسعت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تب اتنا خوش ہو گویا خوشی سے اڑ رہا ہے۔ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے اسما و صفات کا ذکر ہو تب اس کے جلال کے سامنے عاجزی کرتے اور اس کی عظمت کو پکارتے ہوئے جھک جائے۔ جب کفار کی ان باتوں کا ذکر ہو جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر محال ہیں مثلاً ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے بیوی و اولاد ثابت کرنا، تب اپنی آواز کو پست کرے اور ان کے اس قبیح قول سے حیا کرتے ہوئے دل میں بے بسی کی کیفیت پیدا کرے۔ جب جنت کی صفات کا ذکر ہو تب دل میں جنت کا شوق پیدا ہو اور جب جہنم کی صفات کا ذکر ہو تو اس کے خوف کی وجہ سے جسم کا پنے لگ جائے کہ جب رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا: ”میرے سامنے تلاوت کرو۔“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی جب اس آیت پر پہنچا:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٣١﴾ (پ ۵، النساء: ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب! تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔

تو میں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی آنکھیں اشک بار دیکھیں۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اب بس کرو۔“ یہ کیفیت اس وجہ سے تھی کہ اس حالت کے مشاہدے نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دل کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔

خشیتِ الہی رکھنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وعید والی آیات کی تلاوت کے وقت ان پر غشی طاری ہو جاتی اور بعض کا تو وصال بھی ہو جاتا۔

## کلامِ الہی حکایت کی نیت سے نہ پڑھا جائے:

اس قسم کے احوال، تلاوت کرنے والے کو محض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کی حکایت کرنے والا نہیں رہنے دیتے۔ جب

یہ آیت مبارکہ پڑھے:

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ  
عَظِيمٍ ﴿٥﴾ (پ۵، الانعام: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے  
بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

تو دل میں خوف خدا بھی پیدا کرے وگرنہ وہ محض حکایت کرنے والا ہوگا۔ جب اس آیت طیبہ کی تلاوت کرے:  
رَبَّنَا عَلَيْنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ  
الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ (پ۲۸، الممتحنة: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا  
اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

تو اللہ عزوجل پر بھروسہ اور اس کی طرف رجوع کرے وگرنہ وہ محض حکایت کرنے والا ہوگا۔

جب یہ آیت مقدسہ پڑھے:

وَلِصَبْرٍ عَلَىٰ مَا أَدْبُرْنَا  
(پ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر  
کریں گے۔

تو صبر یا اس کا پختہ ارادہ کرے تاکہ تلاوت کی حلاوت کو پالے۔ اگر ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہو اور دل  
ان احوال کے مطابق تبدیل نہ ہو تو ان آیات کی تلاوت سے اس کا حصہ خود پر صریح لعنت کرتے ہوئے زبان کو حرکت  
دینے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ، ارشاد خداوندی ہے:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ (پ۱۲، ہود: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾  
(پ۲۸، الصف: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو  
جو نہ کرو۔

اور فرماتا ہے:

وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ مَعْرُضُونَ ﴿١﴾ (پ۱، الانبیاء: ۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:



ترجمہ کنز الایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا  
اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ  
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٦﴾ (پ ۲۷، النجم: ۲۹)

ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۱)

اس موضوع پر اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔ نیز یہ شخص ان فرامین باری تعالیٰ میں داخل ہے۔ چنانچہ،

ارشاد ہوتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں کچھ اُن پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو  
نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكُتُبَ إِلَّا  
أَمَانِي ﴿٤٨﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۸)

اور فرماتا ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں  
کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔

وَكَايِنٌ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥﴾

(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۵)

قرآن پاک زمین و آسمان کی نشانیوں کو بیان کرنے والا ہے اور جب تلاوت کرنے والا انہیں پڑھ کر آگے گزرتا ہے اور ان سے اتر نہیں لیتا تو گویا وہ ان سے بے خبر ہے۔

میرے کلام کو بھی چھوڑ دے:

اسی وجہ سے منقول ہے کہ وہ شخص جو قرآن پاک کے اخلاق سے متصف نہیں جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ندا فرماتا ہے: ”تجھے مجھ سے اور میرے کلام سے کیا تعلق؟ حالانکہ تو مجھ سے روگردانی کرتا ہے۔ اگر تو میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا تو میرے کلام کو بھی چھوڑ دے۔“

تلاوت کرنے والے نافرمان کی مثال:

قرآن پاک کو بار بار پڑھنے والے نافرمان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے خط کو ہر روز کئی بار پڑھے

جس میں یہ لکھا ہے کہ ملک کو آباد کرو اور یہ اسے ویران کرنے میں مشغول ہے، فقط خط پڑھنے پر ہی اکتفا کئے ہوئے ہے حکم پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ اسے نہ پڑھتا اور حکم کی مخالفت کرتا تو اس کے کلام سے کم مذاق کرنے والا اور ناراضی کا کم مستحق ٹھہرتا۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”میں قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب مجھے اس کے مضامین یاد آتے ہیں تو عذاب سے ڈر کر تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں۔“

قرآن پاک پر عمل سے روگردانی کرنے والے کا ذکر اس آیت طیبہ میں ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

فَبَدُّوْهُ وَسَرَآءُ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا  
قَلِيْلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۷۷﴾ (پ ۴، مال عمران ۱۸۴)

ترجمہ کنز الایمان: تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے تو کتنی بری خریداری ہے۔

**اکتاہٹ محسوس ہو تو تلاوت نہ کرو:**

مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تک دل لگے اور جسم نرم ہوں تب تک

قرآن پڑھتے رہو<sup>(۱)</sup> جب ادھر ادھر ہونے لگو تو پڑھنا چھوڑ دو۔“<sup>(۲)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ ”جب ادھر ادھر ہونے لگو تو اس سے اٹھ جاؤ<sup>(۳)</sup>۔“<sup>(۴)</sup>

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے) ارشاد فرماتا ہے:

①..... مُفَرَّرٌ شَبِيْرٌ حَكِيْمٌ اَلْاُمَمْتُ حَضْرَتِ مُفْتِيْ اَحْمَدِ يَارْحَانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيْحِ، ج 3، ص 265 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یہ قاعدہ ان خوش نصیب لوگوں کیلئے ہے جن کو قرآن شریف کی تلاوت میں لذت اور حضور قلب میسر ہوتا ہے، اور کبھی زیادہ تلاوت کی وجہ سے دل اکتا جاتا ہے وہ دل لگنے تک پڑھتے رہیں مگر وہ شخص جس کا دل تلاوت میں لگتا ہی نہ ہو وہ دل کو مجبور کر کے تلاوت کرے دل نہ لگنے کے عذر سے تلاوت چھوڑ نہ دے پہلے کچھ دن دل پر جبر کرنا پڑیگا پھر ان شاء اللہ دل لگنے لگے گا جیسا کہ تجربہ ہے۔

②..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اقروا القرآن..... الخ، الحدیث: ۵۰۶، ج ۳، ص ۴۱۹، بدون: ولانت له جلود کم۔

قوت القلوب، الفصل الثامن عشر فیہ کتاب ذکر الوصف المکروه..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۸۔

③..... مِرَاةُ الْمَنَاجِيْحِ، ج 3، ص 265 پر اس کے تحت ہے: کچھ دیر کے لئے تلاوت بند کر دو حتی کہ وہ حالت جاتی رہے تمام عبادات کا یہی حال ہے کہ دل لگا کر ادا کرو۔

④..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اقروا القرآن..... الخ، الحدیث: ۵۰۶، ج ۳، ص ۴۱۹۔

ترجمہ کنزالایمان: وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

(پ ۹، الانفال: ۲)

## اچھی آواز سے تلاوت کرنے والا کون؟

مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَىٰ لِعِنِّي لَوْ كُنتُمْ فِي سَبْتٍ سَمِعْتُمْ آوَاظَ قُرْآنٍ يُرْطَنُ بِهَا وَهُوَ وَالْوَاهُ شَخْصٌ هُوَ كَمَا جَسْتُمْ قُرْآنَ يُرْطَنُ سَنَوْتُ مَحْسُوسٌ كَرُوهُ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَعْدٌ رَهَابٌ“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”لَا يَسْمَعُ الْقُرْآنَ مِنْ أَحَدٍ أَشْهَىٰ مِنْهُ مِمَّنْ يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِعِنِّي خَوْفِ خَدَارِ كَهْنِ وَالِ شَخْصٌ سَعْدٌ زِيَادَةٌ أَجْهَىٰ آوَاظَ قُرْآنٍ كَسَىٰ سَعْدٌ سَنَىٰ جَاتِي“ (۲)

قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد یہی ہے کہ دل پر یہ احوال پیش آئیں اور اس پر عمل کیا جائے ورنہ خالی حروف کو پڑھنے کے ساتھ زبان کو حرکت دینا بہت آسان ہے۔

ایک قاری قرآن کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے اُستاد صاحب کو قرآن پاک سنایا، دوسری بار پڑھنے لگا تو انہوں نے روک دیا اور فرمایا: ”تو نے میرے سامنے قرآن کریم پڑھنے کو عمل بنا لیا ہے جا! جا کر اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے سامنے پڑھ پھر دیکھ کہ وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔“

## صرف چھ حافظ قرآن:

تمام احوال و اعمال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی مشغلہ تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو 20 ہزار (۳) صحابہ کرام علیہم الرضوان کو چھوڑا جن میں سے چھ کے علاوہ

①.....سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة.....الخ، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۵، ج ۲، ص ۱۳۰، مفہومًا۔

②.....کتاب الزهد لابن المبارک، باب ماجاء فی فضل العبادۃ، الحدیث: ۱، ص ۳۔

③.....شاید اس سے مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں ورنہ وصال ظاہری کے وقت صحابہ کرام کی کل تعداد ایک لاکھ 14 ہزار تھی جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 866 صفحات پر مشتمل کتاب ”اصلاح اعمال“.....

کوئی حافظ نہ تھا ان میں بھی دو کے بارے میں اختلاف ہے۔ (۱) اکثر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ ایک یا دو سورتیں حفظ کرتے تھے۔ جو کوئی سورہ بقرہ اور سورہ انعام حفظ کرتا اسے علما میں شمار کیا جاتا۔ (۲)

مردی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا جب اس آیت مقدسہ تک پہنچا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے  
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾ گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔  
(پ: ۳۰، الزلزال: ۷، ۸)

تو کہنے لگا: ”اتنا ہی کافی ہے، پھر واپس چلا گیا۔“ تو حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ شخص اس حال میں واپس گیا کہ یہ فقیہ ہے۔“

حقیقت میں پسندیدہ حالت وہی ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ بندہ مومن کو آیت سمجھ لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ محض زبان کو حرکت دینے کا فائدہ بہت کم ہے بلکہ جو شخص زبان سے تلاوت قرآن کرتا اور اس پر عمل کرنے سے روگردانی کرتا ہے وہ ان فرامین باری تعالیٰ کا مصداق ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۲۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لئے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔  
(پ: ۱۶، طہ: ۱۲۳)

اور ارشاد فرماتا ہے:

..... جلد اول صفحہ 115 پر سیدی عبدالغنی نابلسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ نقل فرماتے ہیں: حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وصال ظاہری کے وقت صحابہ کرام رِضْوَانُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار (1,14,000) تھی جو سب اہل علم تھے۔ (شرح العلامة الزرقانی علی المواہب، ج ۹، ص ۳۰۸۔ المواہب اللدنیة، المقصد السابع، الفصل الثالث، ج ۲، ص ۵۴۲۔ اتحاف السادة المتقين، ج ۵، ص ۱۱۹)

①..... المعجم الكبير، الحديث ۲۰۹، ج ۲، ص ۲۶۱، مفہوماً۔

قوت القلوب، الفصل الثامن عشر فیہ کتاب ذکر الوصف المکروہ..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۸۔

②..... سنن الترمذی، کتاب فضائل قرآن، باب ماجاء فی فضل سورة البقرة..... الخ، الحديث ۲۸۸، ج ۴، ص ۴۰۱، مفہوماً۔

كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْتَانَفْسَيْهِمَا وَكَذَلِكَ  
الْيَوْمِ تُنْشَى ﴿۱۲۶﴾ (پطہ: ۱۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: یونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو  
نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

یعنی تو نے قرآن پاک کو ترک کر دیا، نہ تو اس میں غور و فکر کیا اور نہ ہی اس کی کچھ پرواہ کی کیونکہ جو شخص کسی  
معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ”اس نے اس معاملے کو بھلا دیا۔“

## تلاوت قرآن کا حق:

قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا حصہ یہ ہے کہ وہ  
حروف کو ترتیل کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرے، عقل کا حصہ اس کے معانی کو ظاہر کرنا ہے اور دل کا حصہ اس کے اوامر و نواہی  
پر عمل پیرا ہو کر نصیحت حاصل کرنا اور اثر لینا ہے۔ لہذا زبان ترتیل کے ساتھ پڑھتی، عقل ترجمانی کرتی اور دل نصیحت  
قبول کرتا ہے۔

## ﴿۹﴾..... ترقی:

اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں اس حد تک ترقی کرے کہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل سے  
قرآن پاک کو سنے۔

## تلاوت قرآن کے درجات:

تلاوت قرآن کے تین درجے ہیں:

﴿۱﴾..... سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصوّر کرے کہ وہ اللہ عزوجل کو سن رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور  
اللہ عزوجل سے دیکھ رہا ہے اور اس کی تلاوت سن رہا ہے۔ (جب یہ تصوّر کرے گا تو) اس وقت اس کی حالت سوال، خوشامد  
کرنے اور عاجزی و انکساری والی ہوگی۔

﴿۲﴾..... دل سے یہ یقین کرے کہ اللہ عزوجل سے دیکھ رہا ہے، اپنے لطف و کرم سے اسے خطاب فرما رہا ہے اور اپنے  
انعام و احسان سے اسے راز بتا رہا ہے۔ (جب یہ تصوّر کرے گا تو) اس وقت اس کا مقام، حیا، تعظیم، سننا اور سمجھنا ہوگا۔

﴿۳﴾..... کلام میں متکلم اور کلمات میں صفات پر نظر رکھے، خود پر اور اپنی تلاوت پر نظر نہ رکھے اور نہ ہی انعام پر اس

حیثیت سے نظر کرے کہ یہ انعام اس پر ہوا ہے بلکہ اس کی پوری کی پوری توجہ و فکر متکلم کی طرف ہی ہو گیا کہ وہ دوسروں سے منہ پھیر کر صرف اور صرف متکلم کے مشاہدہ میں مستغرق ہے۔ (پہلا درجہ متعریفین و مریدین کا)، دوسرا اصحاب یمنین کا اور تیسرا مقررین کا ہے اور جوان سے خارج ہے وہ غافلین کے درجات میں ہے۔

سب سے بلند درجے کے بارے میں حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا:

”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے کلام میں مخلوق کے لئے تجلی فرمائی ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔“

### گویا اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے سن رہا ہوں:

ایک بار حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حالت نماز میں بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے افاقہ ہونے پر لوگوں نے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا: ”میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے سنا تو اس کی قدرت کے معائنہ کے لئے میرا جسم ٹھہر نہ سکا۔“

اس قسم کے درجہ میں مٹھاس اور مناجات کی لذت بڑھتی رہتی ہے۔ کسی دانشور کے بارے میں منقول ہے کہ میں قرآن پڑھتا لیکن اس کی حلاوت نہ پاتا تھی کہ میں نے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سن رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں، پھر میرا مرتبہ اس سے بلند کیا گیا اور میں اس طرح تلاوت کرتا گویا حضرت سیدنا جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام سے سن رہا ہوں اور وہ حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو سنارہے ہیں، پھر اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اب میں خود اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے سنتا ہوں اس وقت میں ایسی لذت اور سکون پاتا ہوں کہ اس سے رُک نہیں سکتا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: ”اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوں۔“

انہوں نے یہ صرف اس وجہ سے فرمایا کہ دل کی طہارت سے انسان ترقی کر کے کلام میں متکلم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا ثابت بن ابی قیس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں نے 20 برس قرآن پاک سے مشقت اٹھائی اور پھر 20 برس اس کی حلاوت پائی۔“

اگر انسان متکلم کے مشاہدہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھے تو اس فرمان باری تعالیٰ پر عمل کرنے والا ہوگا:

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی طرف بھاگو۔

فَقِرًّا وَإِلَى اللَّهِ ط (پ ۲، الذریت: ۵۰)

اور اس فرمان پر بھی عمل کرنے والا ہوگا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ط (پ ۲، الذریت: ۵۱)

تو جو شخص تمام معاملات میں صرف اسی کی طرف نظر نہ کرے وہ اس کے غیر کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ شے کہ جس کی طرف کوئی شخص التفات کرے، اس کا التفات شرکِ خفی کو شامل ہوگا۔ تو حید خالص یہ ہے کہ بندہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

### ﴿10﴾..... براءت کا اظہار:

اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت اور اپنے نفس کی طرف رضا و تزکیہ کی نگاہ کرنے سے براءت ظاہر کرے۔ جب نیک لوگوں کی تعریف اور ان کے لئے انعامات کے وعدے پر مشتمل آیات کی تلاوت کرے تو خود کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کو پیش نظر رکھے اور اس بات کا شوق رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ جب نافرمانی و کوتاہی کرنے والوں کی مذمت اور ناراضی پر مشتمل آیات کی تلاوت کرے تو خود کو پیش نظر رکھے اور خوف و ڈر کے سبب یہ تصور کرے کہ یہ خود ان آیات کا مخاطب ہے۔ اسی لئے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمایا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِظُلْمِي وَكُفْرِي لِعَنِي أَلَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! میں اپنے ظلم اور کفر سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔“ ان سے عرض کی گئی: ”ظلم تو معلوم ہے، کفر سے کیا مراد ہے؟“ تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی:

ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ط (پ ۱۳، ابراہیم: ۳۳)

①..... اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوبانِ خدا سے تو سُل کرنا ان سے مدد مانگنا وغیرہ بھی تو حید خالص کے منافی ہے کیونکہ محبوبانِ خدا کی طرف نظر کرنا (ان سے تو سُل کرنا اور مدد مانگنا وغیرہ) حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی نظر کرنا ہے نہ کہ غیر کی طرف۔ چنانچہ، دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 65 پر سیدی اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فرماتے ہیں: ”محبوبانِ خدا سے تو سُل نظر بخدا ہے نہ کہ نظر بغیر (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک بندوں کو اپنی حاجت روائی کے لئے وسیلہ بنانا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے نہ کہ کسی اور سے)۔“

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے پوچھا گیا: ”جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”میں 70 بار اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔“

جب انسان تلاوت قرآن کے وقت خود کو کوتاہی کرنے والا تصور کرے گا تو یہ اس کی قربت کا سبب بنے گا کیونکہ جو شخص قرب میں دوری کو دیکھتا ہے (یعنی قریب ہوتے ہوئے بھی دوری محسوس کرتا ہے) اسے خوف عطا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ خوف اسے قرب میں دوسرے درجے کی طرف لے جاتا ہے جو پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے اور جو دوری میں قرب کو دیکھتا ہے اس سے خوف کو روک لیا جاتا ہے، پھر وہ پہلے سے بھی نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔

جب انسان اپنے نفس کی طرف رضا کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا نفس ہی اس کے لئے حجاب بن جاتا ہے اور جب تلاوت قرآن میں نفس کی طرف التفات کرنے سے تجاوز کر کے صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو پیش نظر رکھتا ہے تو اس کے لئے ملکوت کے اسرار کھل جاتے ہیں۔

### حکایت: جنتی پھول:

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدَسَ سِرُّهُ النَّوَرَانِی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا ابن ثوبان عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمَنَّان نے اپنے ایک بھائی سے وعدہ کیا کہ رات کو کھانا ان کے پاس کھائیں گے لیکن کسی سبب سے تشریف نہ لاسکے حتیٰ کہ صبح ہوگئی۔ اگلے دن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: ”آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ رات کو کھانا میرے پاس کھائیں گے پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”اگر میرا تجھ سے وعدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ بتاتا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا! جب میں نے عشا کی نماز پڑھی تو سوچا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے وتر پڑھ لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آجائے۔ چنانچہ، جب میں دعائے قنوت پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغیچہ لایا گیا جس میں طرح طرح کے جنتی پھول تھے، میں اسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ صبح ہوگئی۔“

### خلاصہ کلام:

مکاشفات، نفس اور اس کی خواہشات کی طرف التفات کرنے سے براءت ظاہر کئے بغیر حاصل نہیں ہوتے پھر یہ مکاشفات اس شخص کے احوال کے اعتبار سے خاص ہوتے ہیں جس پر کشف ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ امید والی آیات



تلاوت کرتا اور اس کے حال پر بشارت غالب ہوتی ہے تو اس کے لئے جنت کی صورت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ اسے ایسے دیکھتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جب اس کے حال پر خوف غالب ہوتا ہے تو اس پر دوزخ منکشف ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کے مختلف قسم کے عذابات دیکھتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کلام الہی آسان و خوشگوار، سخت اور امید و خوف والی باتوں پر مشتمل ہے اور یہ اس کے اوصاف کے اعتبار سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں رحمت، مہربانی، انتقام اور پکڑ بھی ہے تو کلمات اور صفات کا مشاہدہ کرنے کے اعتبار سے دل مختلف حالات میں بدلتا رہتا اور ہر حالت کے اعتبار سے اس کے مناسب امر کے مشاہدے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، اس لئے کہ یہ محال ہے کہ سننے والے کی ایک ہی حالت رہے اور جو سنا جا رہا ہے وہ بدلتا رہے حالانکہ اس میں رضا و غضب والے کا کلام بھی ہے اور انعام کرنے والے، انتقام لینے والے اور جبار و متکبر کا کلام بھی ہے جو بے پرواہ ہے اور مہربانی و احسان کرنے والے کا کلام بھی ہے جو بے کار نہیں چھوڑتا۔



### {..... چھ افراد پر لعنت .....}

فرمان مصطفیٰ: ”چھ طرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اُن پر لعنت فرماتا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، چھ اشخاص یہ ہیں (۱) کتاب اللہ عَزَّوَجَلَّ میں اضافہ کرنے والا (۲) تقدیر کو جھٹلانے والا (۳) میری امت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذلیل کیا اور اس کو ذلیل کرتا ہے جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عزت عطا فرمائی (۴) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حرم (یعنی حرم مکہ) کو حلال ٹھہرانے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے اس کو پامال کرنے والا اور (۶) میری سنت کو چھوڑنے والا۔“

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، الحدیث ۹۵۷۱، ج ۷، ص ۵۰۱)

## باب نمبر 4: فہم قرآن اور تفسیر بالرائے کا بیان

شاید تم کہو کہ گزشتہ بحث میں اسرار قرآن کو سمجھنے اور پاکیزہ دل والوں کے لئے منکشف ہونے والے معانی کی عظمت بیان کی گئی ہے، یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ لِعِنِّ جَوْ قُرْآنَ كِي تَفْسِيرِ اِپْنِي رَاِئِي سَے كَرِے وَه اِپْنَا تُهْكَا نَا جَهَنَّمِ مِيں بِنَاِے (۱)۔“ (۲)

یہی وجہ ہے کہ ظاہری تفسیر کرنے والے اہل علم حضرات نے مفسرین میں سے ان اہل تصوف پر اعتراض کیا ہے جو حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام مفسرین کے خلاف، بطریقہ تصوف کلمات قرآن کی تاویل کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کفر ہے۔ اگر یہ صحیح ہو جو ظاہری تفسیر کرنے والوں نے کہا ہے تو پھر سوائے تفسیر یاد کرنے کے قرآن پاک کو سمجھنے کا کیا معنی؟ اور اگر درست نہ ہو تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ ”جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے“ کا کیا معنی؟

جان لیجئے! جس نے یہ گمان کیا ہے کہ قرآن پاک کے صرف وہی معانی ہیں جو ظاہری تفسیر بیان کرے تو وہ اپنی ذات کی حد کے بارے میں خبر دیتا ہے اور وہ اپنی ذات کے بارے میں خبر دینے میں سچا ہے لیکن تمام مخلوق کو اپنے جیسا سمجھنے میں خطا پر ہے۔

### معانی قرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے:

اخبار و آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عقل والوں کے لئے قرآن پاک کے معانی کا دائرہ بہت وسیع

①..... مُفَسِّرٌ شَيْهَرٌ حَكِيمٌ الْأَمَّتْ حَضْرَتِ مَفْتِي أَحْمَدِ يَارْحَانِ عَلِيمٍ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 1، ص 208 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے، خیال رہے کہ قرآن کی بعض چیزیں نقل پر موقوف ہیں جیسے شان نزول، ناسخ منسوخ، تجوید کے قواعد انہیں رائے سے بیان کرنا حرام ہے وہی یہاں مراد ہے اور بعض چیزیں شرعی عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہیں جیسے آیات کے علمی نکات اچھی اور صحیح تاویلیں، پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات وغیرہ ان میں نقل لازم نہیں غرضکہ قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے اور تاویل بالرائے علمائے دین کے لیے باعث ثواب یا اس کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق اور مرقاة میں اسی مقام پر دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ“ معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر و تفکر کا حکم ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ علماء کو قرآنی تاویلات کی اجازت ہے جہلا کو یہ بھی حرام، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو فقط ترجمہ قرآن سے غلط مسئلے مستنبط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں حدیث و قرآن کے فقط ترجمے بغیر فقہ کی روشنی کے عوام کے لیے زہر قاتل ہیں۔

②..... مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث ۲۳۴، ج ۱، ص ۶۵، معنًا۔

ہے۔ چنانچہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا: ”مگر یہ کہ اللہ عزوجل کسی بندے کو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرمادے۔“<sup>(۱)</sup> اگر منقول شدہ ترجمے کے سوا قرآن پاک کے اور کوئی معانی نہیں ہیں تو پھر اس ”سمجھ“ سے کیا مراد ہے؟

حضور نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معرفت نشان ہے: ”إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَحَدًّا وَمَطْلَعًا“ یعنی بے شک قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی ایک حد ہے اور ایک مطلع۔“  
پس ظاہر و باطن اور حد و مطلع (ابتدا و انتہا) کا کیا معنی ہے؟

### سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا: ”لَوْ شِئْتُ لَأَوْقَرْتُ سَبْعِينَ بَعِيرًا مِنْ تَفْسِيرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ یعنی اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھردوں۔“ اس کا کیا معنی ہے حالانکہ اس کی ظاہری تفسیر تو نہایت مختصر ہے؟

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ حَتَّىٰ يَجْعَلَ لِلْقُرْآنِ وَجُوهًا“ یعنی بندہ اس وقت تک فقیر نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کو کئی وجوہ سے نہ جان لے۔“

### قرآن پاک کتنے علوم پر مشتمل ہے؟

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ نے فرمایا: ”ہر آیت کے 60 ہزار مفہوم ہیں اور جو سمجھنے سے رہ گئے وہ اس سے زیادہ ہیں۔“

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ نے فرمایا: ”قرآن پاک 77 ہزار 200 علوم پر مشتمل ہے کیونکہ ہر کلمہ ایک علم ہے پھر یہ چار گنا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک حد ہے اور ایک مطلع۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کو 70 مرتبہ دہرانا بھی اسی لئے تھا کہ اس کے باطنی معانی میں غور و فکر کریں وگرنہ اس کا ترجمہ اور تفسیر تو ظاہر ہے اور اس قسم کی آیت کو بار بار دہرانے کی حاجت نہیں ہوتی۔

①.....شرح السنة، کتاب القصاص، باب لا یقتل مؤمن بکافر، الحدیث: ۲۵۲، ج ۵، ص ۳۸۸۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ“ یعنی جو اولین و آخرین کے علوم جاننا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرے۔“ یہ چیزیں صرف تفسیر ظاہری سے حاصل نہیں ہوتیں۔

### خلاصہ کلام:

تمام علوم اللہ عزَّ وَجَلَّ کے افعال و صفات میں داخل ہیں اور قرآن پاک میں اس کی ذات، افعال اور صفات کی شرح ہے۔ ان علوم کی کوئی انتہا نہیں اور قرآن پاک میں ان تمام علوم کی طرف اجمالی طور پر اشارہ ہے، ان کی تفصیل کی گہرائی قرآن پاک کو سمجھنے پر موقوف ہے، صرف ظاہری تفسیر اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ ہر وہ چیز جو غور و فکر کرنے والوں پر مشکل ہے اور اس کے بارے میں مخلوق کے نظریات و معقولات میں اختلاف ہے تو قرآن پاک میں ان کی طرف اشارے اور دلائل ہیں جن کا ادراک اہل علم ہی کو ہوتا ہے تو ظاہری ترجمہ و تفسیر اسے کیسے پورا کر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَہٗ یعنی قرآن پاک پڑھو اور اس کے عجائبات تلاش کرو۔“<sup>(۱)</sup>

### مضبوط رسی، نور مبین اور نفع بخش شفا:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْہَہُ الْکَرِیْمَ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میری امت اصل دین اور جماعت سے ہٹ کر 72 فرقوں میں بٹ جائے گی جو تمام کے تمام گمراہ اور گمراہ گروں کے وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، جب ایسا ہو تو تم پر قرآن پاک کی پیروی لازم ہے کیونکہ اس میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے، جو تمکبر اس کی مخالفت کرے گا اللہ عزَّ وَجَلَّ اسے ہلاک کر دے گا اور جو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں علم تلاش کرے گا اللہ عزَّ وَجَلَّ اسے گمراہ کر دے گا، یہ اللہ عزَّ وَجَلَّ کی مضبوط رسی، نور مبین اور نفع بخش شفا ہے، جو اسے مضبوط تھا مے اس کے لئے عصمت ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی قراءۃ القرآن..... الخ، الحدیث: ۲۲۹، ج ۲، ص ۴۷۔

نجات ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہو اور نہ ہی کسی طرف مائل ہوتا ہے کہ درست کیا جائے اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی بار بار پڑھنا سے پرانا کرتا ہے۔“ (۱)

### راہ نجات:

حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے بعد اختلاف اور فرقوں کی خبر دی تو میں نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا نصیحت فرماتے ہیں؟“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے مضامین پر عمل کرو کہ اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔“ حضرت سیدنا حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے تینوں بار یہی جواب ارشاد فرمایا کہ ”قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اس کے مضامین پر عمل کرو کہ اسی میں نجات ہے۔“ (۲)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے فرمایا: ”مَنْ فَهَمَ الْقُرْآنَ فَسَرَبَهُ جَمَلَ الْعِلْمِ یعنی جس نے قرآن پاک کو سمجھ لیا وہ اس کے ذریعے تمام علوم بیان کر سکتا ہے۔“ اس فرمان سے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی مراد یہ ہے کہ قرآن پاک تمام علوم کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کرتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے اس فرمان: ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (البقرة: ۲۶۹) ترجمہ کنز الایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم کی سمجھ ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَفَهَّمَهَا سَلِيمًا ۚ وَكَلَّا تَبَيَّنًا حُكْمًا وَعِلْمًا

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں

کو حکومت اور علم عطا کیا۔

(پے ۱، الانبیاء: ۷۹)

①..... سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۱، ج ۴، ص ۴۱۵، مفہومًا۔

قوت القلوب، الفصل السادس عشر، فی ذکر معاملۃ العبد فی تلاوتہ..... الخ، ج ۹، ص ۹۰۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب ذکر الفتن ودلائلہا، الحدیث: ۴۲۴، ج ۴، ص ۱۳۱، مفہومًا۔

قوت القلوب، الفصل السادس عشر، فی ذکر معاملۃ العبد فی تلاوتہ..... الخ، ج ۹، ص ۹۰۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ حضرت سیدنا داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا اس کا نام علم و حکمت رکھا اور ان کی سمجھ داری کو جس میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام منفرد تھے خاص طور پر ”فہم“ کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا اور اسے علم و حکمت پر مقدم فرمایا۔

یہ تمام امور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے معانی سمجھنے میں بہت زیادہ کشادگی و وسعت ہے اور جو کچھ ظاہری تفسیر سے منقول ہے وہ قرآن پاک کے معانی سمجھنے کی انتہا نہیں۔ رہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ”جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے“<sup>(۱)</sup> نیز تفسیر بالرائے سے ممانعت<sup>(۲)</sup> اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ ”اگر میں قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا؟“ اور ان کے علاوہ اخبار و آثار میں سے دیگر اقوال کہ جن میں اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنے سے منع کیا گیا ہے، دو حال سے خالی نہیں یا تو اس سے مراد ہوگا کہ صرف اور صرف منقول شدہ اور اپنے سنے ہوئے پر اکتفا کیا جائے، استنباط اور خود سمجھنے کو چھوڑ دیا جائے یا پھر ان سے مراد کچھ اور ہوگی۔

## منقول تفسیر پر اکتفا کرنا کیسا؟

یہ مراد لینا کہ ”منقول تفسیر کے علاوہ کوئی شخص قرآن میں کلام نہ کرے“ چند وجوہ سے باطل ہے:

﴿۱﴾..... سننے میں یہ شرط ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گیا ہو اور آپ ہی کی طرف منسوب ہو اور یہ بات قرآن پاک کے بعض حصے میں ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا جو کچھ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کہا ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہئے اور اسے بھی تفسیر بالرائے کہنا چاہئے کیونکہ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ ہے۔

﴿۲﴾..... صحابہ کرام اور مفسرین نے بعض آیات کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے، ان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں جن میں تطبیق نہیں دی جاسکتی اور ان تمام کار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سننا بھی محال ہے، اگر ایک قول سنا گیا

①.....مشکاۃ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۲۳۴، ج ۱، ص ۶۵، مفہومًا۔

②.....مشکاۃ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۲۳۴-۲۳۳، ج ۱، ص ۶۵۔

ہو تو باقی رد ہو جائیں گے، اس سے یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ ہر مفسر نے وہ معنی بیان کیا ہے جو بحث و استنباط کے ذریعے اس پر ظاہر ہوا حتیٰ کہ انہوں نے سات سورتوں کے ابتدائی حروف کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال کہے جن کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ ”الر“ لفظ ”الرْحْمٰن“ کے بعض حروف ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”الف“ سے اللہ، ”لام“ سے لطیف اور ”راء“ سے مراد رحیم ہے، اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں اور ان تمام میں تطبیق دینا ناممکن ہے لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام اقوال حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنے ہوئے ہوں؟

﴿3﴾..... مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے لئے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللّٰهُمَّ فَفِّهْ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ“ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! اسے دین کی سمجھ بوجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔“ (۱) اگر الفاظ کی طرح قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی ہوئی اور محفوظ ہو تو پھر حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو اس کے ساتھ خاص کرنے کا کیا معنی ہے؟

﴿4﴾..... ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَعَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ ط  
ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ان سے اُس کی حقیقت جان لیتے یہ  
جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔  
(پ ۵، النساء: ۸۳)

اس آیت مقدسہ میں اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے علم والوں کے لئے استنباط کو ثابت کیا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ استنباط سنی ہوئی باتوں کے علاوہ میں ہوتا ہے اور وہ تمام آثار جو ہم نے قرآن پاک سمجھنے کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں وہ اس خیال کے خلاف ہیں، لہذا تفسیر میں سنے ہوئے ہونے کی شرط لگانا باطل ہو گیا اور ہر صاحب علم کہ جسے اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے علوم قرآن پر قدرت عطا فرمائی اس کے لئے جائز ہو گیا کہ وہ قرآن کریم سے اپنی سمجھ اور عقل کی حد کے مطابق معنی اخذ کرے۔

**تفسیر بالرائے سے ممانعت کی وجوہ:**

بہر حال جہاں تک (تفسیر بالرائے) سے ممانعت کا تعلق ہے تو وہ دو صورتوں میں سے کسی ایک میں ہوگی:

﴿1﴾..... آدمی کی کسی شے کے بارے میں کوئی رائے ہو اور اس کی طبیعت و خواہش کا میلان بھی اسی طرف ہو پھر وہ اپنی رائے و خواہش کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کرے تاکہ اس سے اپنی غرض کے صحیح ہونے پر دلیل پکڑ سکے، اگر

①..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، دعا للنبي لابن عباس، الحديث ۶۳۴، ج ۲، ص ۲۸۸۔

اس بارے میں اس کی یہ رائے و خواہش نہ ہوتی تو اس کے لئے قرآن پاک سے یہ معنی ظاہر نہ ہوتا۔ کبھی تو علم ہونے کے باوجود وہ ایسا کرتا ہے جیسے کوئی شخص قرآن پاک کی بعض آیات سے اپنی بدعت کے صحیح ہونے پر دلیل پکڑتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں لیکن وہ اس کے ذریعے اپنے مد مقابل کو دھوکا دینا چاہتا ہے۔

کبھی جہالت کی وجہ سے ایسا معنی بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر آیت اس معنی کا احتمال رکھتی ہو اور اس کی فہم اس طرف مائل ہو جائے جو اس کی غرض کے موافق ہے اور وہ اپنی رائے و خواہش کی وجہ سے اسے ترجیح دے دے تو اس وقت وہ رائے سے تفسیر کرنے والا ہوگا یعنی اس کی رائے نے اسے اس طرح تفسیر پر ابھارا کہ اگر اس کی رائے نہ ہوتی تو اس کے نزدیک یہ معنی ترجیح نہ پاتا۔

کبھی اپنی کسی صحیح غرض کی وجہ سے قرآن پاک سے کوئی دلیل تلاش کرتا ہے اور اس پر ایسی آیت وغیرہ سے استدلال کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں، جیسا کہ کوئی شخص سحری کے وقت استغفار کی طرف بلائے اور اس فرمان مصطفیٰ سے استدلال کرے کہ ”سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔“<sup>(۱)</sup> اور گمان کرے کہ سحری سے مراد ذکر ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد کھانا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی سخت دل کو مجاہدہ کی طرف بلائے اور اس فرمان باری تعالیٰ سے دلیل پکڑے: ”إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ“ (ب: ۱۶، طہ: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: فرعون کے پاس جا اس نے سراٹھایا۔“ اور اس سے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے کہ فرعون سے مراد یہی ہے۔ یہ طریقہ بعض واعظ صحیح مقاصد کے حصول کے لئے کلام کو خوبصورت بنانے اور سامعین کو رغبت دلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ممنوع ہے۔

اس طریقے کو فرقہ باطنیہ والوں نے اپنے فاسد مقاصد کے حصول کے لئے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر کے انہیں اپنے باطل مذہب کی طرف بلانے کے لئے اختیار کیا۔ وہ اپنی رائے و مذہب کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کرتے حالانکہ قطعی طور پر جانتے تھے کہ اس سے یہ مراد نہیں۔

یہ تفسیر بالرائے سے ممانعت کی ایک صورت ہے اور یہاں پر رائے سے مراد وہ فاسد رائے ہوگی جو خواہش کے

①..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۹۹، ج ۳، ص ۴۱۵۔



مطابق ہونہ کہ وہ جو اجتہاد صحیح کے مطابق ہو۔ رائے صحیح اور فاسد دونوں طرح کی ہوتی ہے عام طور پر جو خواہش کے مطابق ہو اس کے ساتھ ”رائے“ کا نام خاص کر دیا گیا ہے۔

﴿2﴾..... ظاہری عربی الفاظ کی طرف نظر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کرنے میں جلدی کرے، قرآن پاک کے عجائبات اور اس میں جو مبہم و مبدل الفاظ، اختصار، حذف، اضمار، تقدیم و تاخیر ہیں، ان میں مسموع و منقول روایات سے مدد نہ لے۔

جسے قرآن پاک کی ظاہری تفسیر میں پختگی حاصل نہ ہو، وہ صرف عربی سمجھ لینے کے ساتھ قرآن پاک کے معانی کے استنباط کرنے میں جلدی کرے تو بہت غلطیاں کرے گا اور تفسیر بالرائے کرنے والوں میں شامل ہوگا، لہذا اولاً ظاہری تفسیر میں مسموع و منقول روایات کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے غلطی کی جگہوں سے بچا جاسکے، اس کے بعد فہم و استنباط میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔

قرآن پاک کے وہ عجائبات جو بغیر سماع کے سمجھ میں نہیں آسکتے بہت ہیں، ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کی مثل دیگر عجائبات پر استدلال کیا جاسکے اور معلوم ہو جائے کہ اولاً ظاہری تفسیر کو یاد کرنے میں سستی ولا پرواہی کرنا جائز نہیں اور ظاہری علم کو مضبوط کئے بغیر باطن تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، لہذا جو شخص قرآن پاک کے اسرار کو سمجھنے کا دعویٰ کرے حالانکہ اسے ظاہری تفسیر میں پختگی حاصل نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر کے دروازے سے گزرنے سے پہلے اس کے اندر پہنچ جانے کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص تریوں کے کلام سے ان کے مقاصد سمجھنے کا دعویٰ کرے حالانکہ اسے ترکی زبان نہ آتی ہو۔ ظاہری تفسیر لغت سیکھنے کے قائم مقام ہے جو کسی بھی بات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

﴿یہاں حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِی نے چند امور اور ان کی مثالیں بیان کی ہیں جن میں ظاہری تفسیر کے لئے مسموع یعنی سنا ہوا ہونا ضروری ہے، انہیں حذف کر دیا گیا ہے، علمی ذوق رکھنے والے اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ علمہ﴾

## راخ فی العلم حضرات کا حصہ:

قرآن پاک کے معانی کے اسرار صرف راخ فی العلم حضرات کے لئے اتنی ہی مقدار میں منکشف ہوتے ہیں جتنا ان کے علوم کی کثرت، دلوں کی صفائی، غور و فکر کی طرف بلانے والے امور کی کثرت اور ان کی طلب میں اخلاص ہوتا

ہے۔ ہر کسی کے لئے ایک درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف ترقی کی ایک حد ہوتی ہے لیکن تمام درجات کو طے کر لینا ممکن نہیں کیونکہ اگر تمام سمندر سیاہی اور تمام درخت قلمیں بن جائیں تب بھی کلمات الہی کے اسرار کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی ظاہری تفسیر کو جاننے میں مشترک ہونے کے باوجود اس کے معانی کو سمجھنے میں مخلوق باہم مختلف ہے کیونکہ ظاہری تفسیر اسرار قرآن کو سمجھنے سے بے نیاز نہیں کرتی۔

## ایک مثال:

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حالتِ سجدہ میں یہ دعا فرمائی: ”اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوذُ بِمِعَاْفَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ لَعِنَیْ تِیْرٰی نَارِضٰی سَیْرٰی رِضَا كِیْ اُورِیْرٰی سَازَیْرٰی عَافِیْتِ كِیْ پَنَاهَ مَآلِكْتَا هُوں، تِیْرٰی تَجْهَ سَیْرٰی پَنَاهَ مَآلِكْتَا هُوں، تِیْرٰی حَمْدِیْ نَہِیْ كَرَسَلْتَا تُو اِیْسَا ہِیْ ہَے جِیْسِی تُو نَے خُود اِپْنِیْ حَمْدِیْ“ (۱)

## دعا کے اسرار و رموز:

بعض اربابِ قلوب نے اس دعا سے یہ سمجھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سجدے کے ذریعے قربِ خداوندی کا حکم ہوا تو آپ نے سجدے میں قرب کو پایا، پھر صفات باری تعالیٰ کی طرف نظر کی تو بعض سے بعض کی پناہ طلب کی، کہ رضا و ناراضی دو وصف ہیں (تو ناراضی سے رضا کی پناہ طلب کی)، پھر مزید قرب بڑھا تو پہلا قرب اس میں داخل ہو گیا اور صفات سے ذات کی طرف ترقی ہوئی تو فرمایا: ”اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ“ میں تجھ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ پھر قرب میں زیادتی ہوئی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بساطِ قرب میں پناہ طلب کرنے سے حیا کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تعریف و توصیف کی طرف توجہ فرمائی تو یوں ثابت فرمایا کی: ”لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ لَعِنَیْ مِیْن (جیسی چاہئے ویسی) تِیْرٰی ثَنَائِہِیْ كَرَسَلْتَا۔“ پھر اس کو تاہی کو (کہ شایان شان تیری ثنائی نہیں کر سکتا) جان کر عرض کی: ”اَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ لَعِنَیْ تُو اِیْسَا ہِیْ ہَے جِیْسَا كَر تُو نَے خُود اِپْنِیْ تَعْرِیْفِیْ فَرَمَائِیْ۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۴۷، ص ۲۵۲۔

## اختتامی کلمات:

یہ وہ تفکرات و خیالات ہیں جو اربابِ قلوب پر ہی کھلتے ہیں۔ پھر ان اسرار و رموز کی گہرائیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً قرب کے معنی سمجھنا، قرب خاص سجدے میں ہونا، ایک صفت کے ساتھ دوسری سے پناہ مانگنا، پھر ذات کی پناہ لینا وغیرہ۔ اس کے اسرار بہت ہیں جن پر لفظ کی ظاہری تفسیر دلالت نہیں کرتی اور یہ ظاہری تفسیر کے خلاف بھی نہیں بلکہ وہ تو اسے مکمل کرنے والے اور اس کے ظاہر سے مغز تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ باطنی معنی سمجھنے سے ہماری مراد یہی ہے نہ کہ وہ جو ظاہری تفسیر کے خلاف ہو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ  
وَعَلَى كُلِّ عَبْدٍ مُّصْطَفَى مِنْ كُلِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



## {..... جنت میں لے جانے والے اعمال.....}

حضرت سپدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ایسے لوگ تو اس وقت بہت ہیں۔“ ارشاد فرمایا: ”عقرب میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔“

(المستدرک، الحدیث ۱۵۵، ج ۵، ص ۱۴۲)

## ذکر اللہ اور دعاؤں کا بیان

تمام خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے جس کی مہربانی سب کو شامل، جس کی رحمت عام اور جس کا ذکر کرنے والے بندے کا اس کی بارگاہ میں چرچا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمان عالیشان ہے ”قَدْ كُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ (البقرة: ۱۵۴) ترجمہ کنز الایمان: تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اس نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں سوالی بننے اور دست دعا دراز کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ“ (بقرہ: ۲۱۰) ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اس نے نیک و بد اور بارگاہ عالی سے قریب ہونے والے اور دوری اختیار کرنے والے ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ ہونے اور جھولیاں پھیلانے کی دعوت دی کہ وہ ان کی حاجتوں اور خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ“ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (البقرة: ۱۸۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔“ کثیر درود و سلام ہوں سردار انبیا محبوب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر جو منتخب اور بہترین بندگان خدا میں سے ہیں۔

تلاوت قرآن کے بعد ذکر اللہ اور حاجت برآری کے لئے بارگاہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعا سے بڑھ کر کوئی زبانی عبادت نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ تفصیل کے ساتھ ذکر کے فضائل اور مختلف اذکار بیان کئے جائیں اور ساتھ ہی دعا کے فضائل و آداب اور اس کی شرائط اور دینی و دنیوی مقاصد کی تکمیل کے لئے آیات و روایات میں منقول طلب مغفرت و طلب پناہ کے لئے مخصوص جامع دعاؤں کا بھی ذکر ہو۔ اس کی تفصیل پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔

باب نمبر 1: قرآن و حدیث اور اقوال اسلاف سے ذکر اللہ کے فضائل و فوائد کا بیان۔

باب نمبر 2: استغفار، درود اور دعا کے فضائل و آداب۔

باب نمبر 3: انبیائے کرام و بزرگان دین سے منقول 16 دعائیں۔

باب نمبر 4: قرآن و حدیث میں وارد نماز کے بعد کی دعائیں۔

باب نمبر 5: مختلف مواقع کی مسنون دعائیں۔



# قرآن وحدیث اور اقوال اسلاف سے ذکر اللہ کے فضائل و فوائد کا بیان

باب نمبر: ۱

(اس میں پانچ فصلیں ہیں)

پہلی فصل: ذکر اللہ کی فضیلت

ذکر کی فضیلت پر مشتمل ۹ فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (پ۲، البقرة: ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔

حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ التورانی فرماتے ہیں: ”مجھے اس ساعت کا علم ہے جس میں میرا رب عزوجل میرا ذکر فرماتا ہے۔“ حاضرین جھنجھلا کر کہنے لگے: ”یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟“ فرمایا: ”جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا چرچا کرتا ہے۔“

﴿۲﴾

أَذْكُرُوا لِلَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا (پ۲۲، الاحزاب: ۴۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو بہت یاد کرو۔

﴿۳﴾

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْكُمْ (پ۲، البقرة: ۱۹۸)

ترجمہ کنز الایمان: توجہ عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔

﴿۴﴾

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ تُبَآئِعُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (پ۲، البقرة: ۲۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ۔

﴿۵﴾

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (پ، ۴، ال عمران: ۱۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔

﴿۶﴾

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (پ، ۵، النساء: ۱۰۳)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس کا معنی یہ ہے کہ ”دن رات، خشکی و تری، سفر و حضر، غربت و مالداری، مرض و صحت اور پوشیدہ و علانیہ ہر حالت میں اس کا ذکر کرو۔“

﴿۷﴾

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (پ، ۵، النساء: ۱۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔

﴿۸﴾

وَإِذْ كُنتُمْ فِي نَفْسِكُمْ تَضُرَّعًا وَخِيْفَةً وَذُنُوجًا جَاهِلِينَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ، ۹، الاعراف: ۲۰۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری (عاجزی) اور ڈر سے اور بے آواز نکلنے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا۔

﴿۹﴾

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ، ۲۱، العنکبوت: ۴۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مذکورہ آیت مبارکہ کی دو تفسیریں ہیں: ”(۱)..... تم اللہ عزوجل کو یاد کرتے ہو اس سے عظیم تر بات یہ ہے کہ اللہ عزوجل تمہارا ذکر فرماتا ہے۔ (۲)..... تمام عبادتوں سے افضل عبادت اللہ عزوجل کا ذکر ہے۔“

اس کے علاوہ بھی آیات ذکر کی فضیلت کا مفہوم ادا کرتی ہیں۔

## ذکر کی فضیلت پر مشتمل 11 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾.....ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الْهَشِيمِ. یعنی غافلوں میں ذکر اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک جنگل میں سرسبز درخت۔ (۱)

﴿2﴾.....ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ بَيْنَ الْفَارِسِ. یعنی غافلوں میں اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والا (میدانِ جہاد سے) بھاگنے والوں میں مجاہد کی مانند ہے۔ (۲)

﴿3﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”أَنَا مَعَ عَبْدِي مَاذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَايَ بِي“. یعنی میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لئے ہلتے رہیں۔“ (۳)

﴿4﴾.....کسی بندے نے ذکر اللہ سے بڑھ کر عذابِ الہی سے نجات دلانے والا کوئی عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! كَيْفَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كِي رَاهٍ فِي جِهَادٍ بِي نَهَيْتُ؟“ ارشاد فرمایا: ”جہاد بھی نہیں، مگر یہ کہ تم اپنی تلوار سے کفار کو مارو یہاں تک تلوار ٹوٹ جائے پھر مارو پھر ٹوٹ جائے۔“ (۴)

﴿5﴾.....مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَكْثُرْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. یعنی باغِ جنت میں آسودگی کا خواہش مند ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ (۵)

﴿6﴾.....بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”کون سا عمل افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”مرتے دم تک تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔“ (۶)

﴿7﴾.....تَوْصِيحٌ وَشَامٌ أَيْ زَبَانُ ذِكْرِ اللَّهِ سَ تَرَكْهُ (اس کی برکت سے) تیرے صبح و شام گناہوں سے پاک گزریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ”صبح و شام اللہ عزوجل کا ذکر جہاد میں تلواریں توڑنے اور فیاضی سے مال خیرات

①.....شعب الایمان للبيهقي، باب في محبة الله، فصل في اقامة ذكر الله، الحديث: ۵۶: ۵، ج ۱، ص ۱۱۴۔

②.....شعب الایمان للبيهقي، باب في محبة الله، فصل في اقامة ذكر الله، الحديث: ۵۶: ۵، ج ۱، ص ۱۱۴، بتغير۔

③.....سنن ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل الذكر، الحديث: ۳۹۴: ۳، ج ۴، ص ۲۴۳۔

④.....المعجم الكبير، الحديث: ۳۵۲: ۳، ج ۲۰، ص ۱۶۷۔ ⑤.....المعجم الكبير، الحديث: ۳۲۶: ۳، ج ۲۰، ص ۱۵۷۔

⑥.....شعب الایمان للبيهقي، باب في محبة الله، فصل في اقامة ذكر الله، الحديث: ۵۱: ۵، ج ۱، ص ۳۹۳۔

کرنے سے بہتر ہے۔“ (۱)

﴿8﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تہنید کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر جمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں (۲)۔“ (۳)

مذکورہ حدیث پاک میں ”دوڑنے“ سے مراد بندے کی فریادرسی اور قبولیت دعا میں جلدی کرنا ہے۔

﴿9﴾..... سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی سات شخص وہ ہیں کہ جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اس دن اپنے سایہ میں رکھے گا (۴) جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا (ان میں سے) ایک وہ ہے جو تہنیدی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں۔ (۵)

﴿10﴾..... کیا میں تمہیں ایسا بہترین عمل نہ بتاؤں جو رب عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک بہت ستھرا، تمہارے درجے بلند کرنے والا اور تمہارے لئے سونا، چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو اور تمہارے لئے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ضرور“ ارشاد فرمایا: ”ہر وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہنا۔“ (۶)

①..... الزهد لابن المبارك، الجزء التاسع، الحديث ۱۱۱، ص ۳۹۴۔

②..... مُفسِّرُ شہیرِ حَکیمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِحِ، ج 3، ص 307 پر فرماتے ہیں: ”یہ کلام بطور مثال سمجھانے کیلئے ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری طلب سے ہماری رحمت سبقت لے گئی ہے، اگر تم ایسے معمولی اعمال کرو جن سے بدیر ہم تک پہنچ سکو تو ہم تم کو اپنے کرم سے بہت جلد اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔“

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: یحذرکم اللہ نفسہ، الحدیث: ۴۰: ۴، ج ۴، ص ۵۴۱۔

④..... مُفسِّرُ شہیرِ حَکیمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِحِ، ج 2، ص 435 پر فرماتے ہیں: ”یعنی اپنی رحمت کے سایہ میں یا عرش اعظم کے سایہ میں تاکہ قیامت کی دھوپ سے محفوظ رہے۔“ بروز قیامت سایہ عرش پانے والے خوش نصیبوں کے متعلق جاننے کے لئے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 88 صفحات پر مشتمل کتاب ”سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟“ کا مطالعہ فرمائیے!

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل اخفاء الصدقة، الحدیث: ۱۰۳، ص ۵۱۴، دون ”من خشية اللہ۔“

⑥..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۳۸، ج ۵، ص ۲۴۶۔



﴿11﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسَالَتِي أُعْطِيَتهَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ. یعنی جسے میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا (۱)۔ (۲)

## گھڑی بھر رب تعالیٰ کو یاد کرنا:

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّابِ فرماتے ہیں: ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! تو مجھے فجر و عصر کے بعد گھڑی بھر یاد کر لیا کر میں تجھے ان دو ساعتوں کے درمیان (یعنی دن رات کے تمام اوقات) میں کفایت کروں گا۔“

بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”جب میں کسی بندے کے دل کو اپنی یاد میں محو پاتا ہوں تو اس کے تمام امور کو سنوا دیتا، اس کی نشست و کلام کو اپنی رحمت عطا کرتا اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔“

## ذکر اللہ سے متعلق تین اقوال بزرگان:

﴿1﴾.....حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”ذکر دو قسم کے ہیں: (۱)..... جو صرف بندے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہو (کوئی اور اس پر مطلع نہ ہو)۔ یہ یاد بھی کیا ہی خوب اور عظیم اجر والی ہے۔ (۲)..... اور اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یاد رکھے (یعنی حرام کام کا خیال آتے ہی رب تعالیٰ کو یاد کرے اور حرام کاری سے باز رہے)۔“

﴿2﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والے کے علاوہ ہر شخص دنیا سے پیاسا رخصت ہوگا۔

﴿3﴾.....حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو یادِ الہی سے غفلت میں گزری۔“

①..... تین خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے: (۱)..... ذکر الہی کرنے والا (۲)..... تلاوت قرآن کرنے والا اور (۳)..... درود پاک کی کثرت کرنے والا۔ تفصیل کے لئے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ ”فضائل دعا“ سے صفحہ 228 تا 232 کا مطالعہ کیجئے!

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ، فصل فی اقامة ذکر اللہ، الحدیث ۵۴، ج ۱، ص ۱۳۔

## مجالس ذکر کی فضیلت

دوسری فصل:

### مجالس ذکر سے متعلق 9 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... جو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی

ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں کے سامنے ان کا چرچا کرتا ہے۔ (۱)

﴿2﴾..... جو لوگ محض رضائے الہی کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے

کہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ جاؤ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے ہیں۔ (۲)

﴿3﴾..... جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے اور نہ ہی مجھ پر درود پاک پڑھے

تو بروز قیامت یہ مجلس ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی۔ (۳)

﴿4﴾..... مروی ہے کہ حضرت داؤد عَلَیْہِ السَّلَام نے دعا مانگی: ”یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذاکرین کی

محفل چھوڑ کر غافلین کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرے پاؤں ضائع فرما دینا یہ بھی تیرا مجھ پر ایک انعام ہوگا۔“

﴿5﴾..... سرکارِ دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”الْمَجْلِسُ الصَّالِحُ يَكْفِرُ عَنِ

الْمُؤْمِنِ الْفَقِي الْمَجْلِسِ مِنَ مَجَالِسِ السُّوءِ. یعنی اچھی محفل مومن کے لئے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہے۔“ (۴)

﴿6﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”جن گھروں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہوتا ہے اہل

آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔“

﴿7﴾..... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جب لوگ ذکر اللہ کے لئے جمع ہوتے ہیں تو

شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں، شیطان دنیا سے کہتا ہے: ”تو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟“ دُنیا کہتی ہے:

”انہیں چھوڑ دے، جونہی یہ ذکر سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گی۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب فضل الاجتماع علی تلاوة..... الخ، الحدیث: ۲۷۰، ص ۱۴۴۸۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۴۵، ج ۴، ص ۲۸۶۔

③..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی القوم یجلسون ولا یذکرون اللہ، الحدیث: ۳۳۹، ج ۵، ص ۲۴۷۔

④..... فردوس الاخبار للذہبی، باب الألف، الحدیث: ۵۸۷، ج ۱، ص ۹۷، بتغییر۔

﴿۸﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا: ”لوگو! میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں حالانکہ مسجد میں سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔“ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے مگر انہیں کوئی میراث بٹی دکھائی نہ دی، انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ”ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: ”پھر تم نے وہاں کیا دیکھا؟“ بولے: ”ہم نے دیکھا وہاں کچھ لوگ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔“ (۱)

﴿۹﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سیاحت (سیر) کرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے اور کہتے ہیں: ”اپنے مطلوب کی طرف آؤ۔“ پھر وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور اہل ذکر کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ (اختتام محفل کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”میرے بندو کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”یا اللہ عزوجل! وہ تیری حمد، تیری بزرگی اور تسبیح بیان کر رہے تھے۔“ ارشاد فرماتا ہے: ”کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”نہیں۔“ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ تیری تسبیح و تحمید بیان کریں۔“ ارشاد فرماتا ہے: ”وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟“ عرض کرتے ہیں: ”جہنم سے۔“ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”نہیں۔“ ارشاد فرماتا ہے: ”اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟“ عرض کرتے ہیں: ”اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے بھاگیں اور نفرت کریں۔“ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”وہ جنت طلب کر رہے تھے۔“ ارشاد فرماتا ہے: ”کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟“ عرض کرتے ہیں: ”نہیں۔“ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ”اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”اس کی طلب میں اور زیادہ

①..... المعجم الاوسط، من اسمہ احمد، الحدیث: ۱۲۲۹، ج ۱، ص ۳۹۰، مفہومًا۔

کوشش کرتے۔“ ارشاد فرماتا ہے: ”میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو (ذکر کے لئے نہیں بلکہ) اپنی کسی ضرورت کے لئے آیا تھا۔“ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔“ (۱)

تیسری فصل: کلمہ توحید پڑھنے کے فضائل

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے متعلق 15 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ادا کیا وہ یہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔“ (۲)

﴿2﴾..... جو شخص روزانہ 100 باریہ کلمات ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھتا ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی اور 100 گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں، وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی اور کا عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ باریہ کلمات پڑھے۔ (۳)

﴿3﴾..... جو شخص کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ (۴)

﴿4﴾..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والے کو قبر و حشر میں کوئی وحشت نہ ہوگی، اور گویا میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ صور پھونکا جا رہا ہے اور یہ لوگ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ“۔ یعنی سب خوبیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا، بلاشبہ ہمارا رب عَزَّوَجَلَّ بخشنے والا اور قادر کرنے والا ہے۔ (۵)

①..... سنن الترمذی، احادیث شتی، باب ماجاء ان لله ملائكة سياحين..... الخ، الحدیث: ۳۶۱، ج ۵، ص ۳۴۴، بتقدم و تاخیر۔

②..... سنن الترمذی، احادیث شتی، باب فی دعاء یوم عرفة، الحدیث: ۳۵۹، ج ۵، ص ۳۳۹۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب فضل التهلیل والتسبیح، الحدیث: ۲۶۹، ص ۱۴۴۵۔

④..... سنن ابی داود، کتاب الطہارة، باب ما یقول الرجل اذا توضأ، الحدیث: ۱۶۹، ج ۱، ص ۹۰، بتغییر۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الایمان باللہ، الحدیث: ۱۰، ج ۱، ص ۱۱۱، باختصار۔

﴿5﴾..... اے ابو ہریرہ! قیامت کے دن تمہاری ہر نیکی تولی جائے گی سوائے اس کلمے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے۔ صدقِ دل سے پڑھا ہو اکلمہ اگر میزانِ عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب رکھ دیا جائے تو بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔<sup>(۱)</sup>

﴿6﴾..... سچے دل سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھنے والا اگر زمین بھر گناہ لے کر آئے پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی مغفرت فرمادے گا۔<sup>(۲)</sup>

﴿7﴾..... اے ابو ہریرہ! اپنے مُردوں کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کیا کرو کہ یہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے۔“ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! یہ تو مُردوں کے لئے ہے، زندوں کے لئے کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”هِيَ أَهْدَمُ هِيَ أَهْدَمُ۔ یعنی یہ (گناہوں کو) زیادہ مٹانے والا ہے، یہ زیادہ مٹانے والا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

﴿8﴾..... جس نے اخلاص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ داخل جنت ہوا۔<sup>(۴)</sup>

﴿9﴾..... تم میں سے ہر ایک داخل جنت ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے اور بارگاہِ خداوندی سے اس طرح بھاگے جیسے اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہے۔ عرض کی گئی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! یہ انکار کرنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دور ہونے والا کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں کہتا۔ تم یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے (یعنی موت آجائے) یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، یہ پاکیزہ کلمہ ہے، یہ دعوتِ حق ہے، یہ محکمِ گرہ ہے، یہ جنت کی قیمت ہے۔“<sup>(۵)</sup>

اللہ عَزَّوَجَلَّ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ (پ۲، الرحمن: ۶۰) اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں احسانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے، جس کے بدلہ آخرت میں جنت ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴿١١﴾ (یونس: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان:

①..... المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر..... الخ، فضل لا اله الا الله..... الخ، الحدیث: ۱۹، ج ۲، ص ۲۱۶، باختصار۔

②..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ والاستغفار..... الخ، الحدیث: ۳۵۵، ج ۵، ص ۳۱۹، مفہومًا۔

③..... کنز العمال، کتاب الموت، الباب الثانی فی امور قبل الدفن، الحدیث: ۴۲۱۹، ج ۱۵، ص ۲۲۱، مفہومًا۔

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۰۷۴، ج ۵، ص ۱۹۷۔

⑤..... المستدرک، کتاب التوبۃ والاناہ، باب کلکم یدخل الجنة..... الخ، الحدیث: ۷۷، ج ۵، ص ۳۵۱، باختصار۔

بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔

﴿10﴾..... ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے

والے کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (۱)

﴿11﴾..... جو شخص دن میں 200 مرتبہ یہ کلمات کہے لے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ تو اس کے درجے کو نہ کوئی پہلے والا پاسکتا ہے اور نہ بعد والا گروہ جو اس سے افضل عمل کرے۔ (۲)

﴿12﴾..... جو شخص کسی بازار میں یہ کلمات پڑھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ تو اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے

اور جنت میں اس کے لئے ایک گھر بنایا جائے گا۔ (۳)

﴿13﴾..... جب بندہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں جو گناہ پاتا

ہے اسے مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی مثل نیکی پا کر اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ (۴)

﴿14﴾..... جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کئے۔ (۵)

﴿15﴾..... جو شخص رات بھر جاگ کر یہ کلمات پڑھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پھر عرض

کرے: ”يَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! میری مغفرت فرما!“ تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یا کوئی دعا کرے تو قبول کی جائے گی

اور اگر نماز پڑھے تو قبول کی جائے گی۔ (۶)

①..... المستدرک، کتاب الدعاء والتكبير..... الخ، باب من قال لا اله الا الله وحده..... الخ، الحديث ۱۸۸۵، ج ۲، ص ۱۷۶۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث ۷۰۲، ج ۲، ص ۶۷۱۔

③..... سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاسواق ودخولها، الحديث ۲۲۳۵، ج ۳، ص ۵۳-۵۴۔

④..... مجمع الزوائد، كتاب الاذكار، باب ماجاء في فضل لا اله الا الله، الحديث ۱۶۸۰، ج ۱۰، ص ۸۸، مفهوماً۔

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الذكرو الدعاء..... الخ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، الحديث ۲۶۹، ص ۱۲۲۶۔

⑥..... صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فضلي، الحديث ۱۱۵۳، ج ۱، ص ۳۹۱، بتقدم و تاخر۔

چوتھی فصل: سُبْحَنَ اللّٰهُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور دیگر اذکار کے فضائل

سُبْحَنَ اللّٰهُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور دیگر اذکار کے متعلق 22 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سُبْحَنَ اللّٰهُ 33 مرتبہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور 33 مرتبہ اللّٰهُ اَكْبَرُ کہا، پھر 100 کا

عدد پورا کرنے کے لئے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔<sup>(۱)</sup>

﴿2﴾..... جو ایک دن میں 100 مرتبہ سُبْحَنَ اللّٰهُ وَبِحَمْدِهِ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر

کے جھاگ کے برابر ہوں۔<sup>(۲)</sup>

﴿3﴾..... ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ! دُنْيَانِي

مَجِّهِ سَمْنَةً مَّوْضُلِيًّا اَوْ مِيرَامَالًا كَمِمْ بَرَّيَا هِي“ حضور نبی کریم، رُؤْفَتِ رَحِيمِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”تم فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے۔“ عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ! وَهِيَ كَيْفَا هِي؟“ ارشاد فرمایا: ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ طُلُوعِ فَجْرِ اَوْ

نَمَازِ فَجْرِ كِي دَرْمِيَانِ 100 مَرْتَبَةً يَهِي كَلِمَاتٍ بَرَّهَا كَرُو دُنْيَا تَهَارِي رِي پَاسِ ذَلِيلٍ وَحَقِيرٍ هُو كَرَأِي كِي اَوِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هَر كَلِي

سِي اِي كِي فَرِشْتِي بِي دَر مَآئِي كَا جَوْ قِيَا مَت تَكِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كِي تَسْبِيحِ بِيَا ن كَر تَارِي هِي كَا جِس كَا ثَوَابِ تَهَارِي نَامِي اَعْمَالِ مِي

لِكْهَا جَاتَارِي هِي كَا“<sup>(۳)</sup>

﴿4﴾..... جب بندہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کہتا ہے تو یہ (کلمہ) زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کہتا ہے تو سوتوں آسمان سے لے کر تحت الثریٰ تک کو بھر دیتا ہے اور جب تیسری مرتبہ ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“

کہتا ہے تو اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”سَوَالِ كَر تَجَّ عَطَا كِيَا جَائِي كَا“

1..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، الحدیثہ ۵۹، ص ۳۰۱۔

2..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل التسبیح، الحدیثہ: ۶۴۰، ج ۴، ص ۲۱۹۔

3..... اللالی المصنوعہ، کتاب الذکر والدعاء، ج ۲، ص ۲۸۷، بتغییر۔

﴿5﴾..... حضرت سید نافع بن رافع زرقی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ایک دن ہم حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا تو پیچھے سے کسی شخص کی آواز آئی ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نماز کے بعد استفسار فرمایا: ”یہ (کلمات) کس نے ادا کئے؟“ اس نے عرض کی: ”يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میں نے۔“ تو اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔“ (۱)

﴿6﴾..... ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ (۲)

﴿7﴾..... زمین پر رہنے والا جو بھی شخص یہ کلمات پڑھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (۳)

﴿8﴾..... جو لوگ اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے جلال، تسبیح، تکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کلمات عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی جھنپٹ کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ہمیشہ تمہارا تذکرہ ہوتا رہے؟ (۴)

﴿9﴾..... ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ (۵)

①..... صحیح البخاری، کتاب الآذان، الحدیث ۷۹۹، ج ۱، ص ۲۸۰۔

②..... الدر المنثور، الجزء الخامس عشر، سورة الكهف، ج ۵، ص ۳۹۶، بتقدم و تاخر۔

③..... المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر..... الخ، باب افضل الذکر لا اله الا الله..... الخ، الحدیث: ۱۸، ج ۲، ص ۱۷۹۔

④..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل التسیب، الحدیث: ۳۸۰، ج ۶، ص ۲۵۳، مفہومًا۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب فضل التهلیل والتسیب والدعاء، الحدیث: ۲۶۹، ج ۶، ص ۱۲۴۔



ایک روایت میں ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کا اضافہ ہے اور آخر میں ہے کہ ”یہ دنیا و مافیہا (یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے) سے بہتر ہے۔“

﴿10﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کو چار کلمات بہت زیادہ پسند ہیں: (۱).....سُبْحَانَ اللَّهِ (۲).....وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (۳).....وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۴).....وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں۔ (۱)

﴿11﴾..... صفائی ایمان کا حصہ ہے، الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے پس وہ خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یا اپنے آپ کو خریدنے والا ہوتا ہے پس خود کو (جہنم سے) آزاد کر لیتا ہے۔ (۲)

﴿12﴾..... دو کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمن عَزَّوَجَلَّ کو محبوب ہیں: (۱).....سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (۲).....سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (۳)

﴿13﴾..... حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”بارگاہِ الہی میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ملائکہ کے لئے خاص کر لیا یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔“ (۴)

﴿14﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کلام میں سے (ان کلمات) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کو چن لیا ہے۔ چنانچہ، جب بندہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہتا ہے تو اس کے لئے 20 نیکیاں لکھی جاتی اور 20 گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اور جب اللہ أَكْبَرُ کہتا ہے تو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ (راوی کہتے ہیں: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بقیہ کلمات کی بھی یہی فضیلت ارشاد فرمائی۔ (۵)

①..... صحیح مسلم، کتاب الادب، باب کراهة التسمية بالاسماء القبيحة..... الخ، الحديث: ۲۱۳، ص ۱۱۸۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، الحديث: ۲۲۳، ص ۱۴۰، دون ”مشر نفسہ“۔

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: ونضع الموازين..... الخ، الحديث: ۷۵۶۲، ج ۴، ص ۶۰۰، بتقدم و تاخیر۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل سبحان اللہ و بحمده، الحديث: ۲۷۳، ص ۱۲۶۲، مفہوماً۔

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحديث: ۸۰۹، ج ۳، ص ۱۸۲۔

﴿15﴾..... جو سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ کہتا ہے اس کے لئے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ (۱)

﴿16﴾..... فقرانے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آخِرَتِ كَأَثَابِ تَوْسَبِ امِيرُونَ نِي لِيَا كِيُونَكَمْ هَمَارِي طِرْحِ وَهَبْهُ نِمَازِ رُوزِي كِي پَابَنْدِي كِرْتِي هِيں اُور اِس كِي سَاَتَه سَاَتَه اِپْنِي زَانِدِ اِمْوَالِ مِيں سِي صَدَقَه وَخِيَرَاتِ بَهِي كِرْتِي هِيں۔“ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي اِرْشَادِ فَرَمَايَا: ”كِيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نِي تَهْمَارِي لِي صَدَقَه كَا سَبَبِ نِي هِيں بِنَايَا؟ سُبْحَانَ اللَّهِ كِهِنَا صَدَقَه هِي، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كِهِنَا صَدَقَه هِي، لِآلِ اللَّهِ اِلَّا اللَّهُ كِهِنَا صَدَقَه هِي، اَللَّهُ اَكْبَرُ كِهِنَا صَدَقَه هِي۔ نيكي كِي دَعْوَتِ دِي نَا صَدَقَه هِي، بَرَايِي سِي مَنَعِ كِرْنَا صَدَقَه هِي، تَمِ مِيں سِي كُوْنِي اِپْنِي اِهْلِيهِ كِي مَنِي مِيں لَقْمَه رَهْتَا هِي تُو يِه بَهِي اِس كِي لِي صَدَقَه هِي اُور اِپْنِي بِيُوِي سِي مَلَا قَاتِ كِرْنَا بَهِي صَدَقَه هِي۔“ انہوں نِي عَرَضِ كِي: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! اِكْرُ كُوْنِي شَخْصِ اِپْنِي بِيُوِي سِي شَهْوَتِ كِي سَاَتَه مَلَا قَاتِ كِرِي تُو كِيَا اِس مِيں بَهِي اِس كِي لِي اَجْرِ هِي؟“ فَرَمَايَا: ”كِيُونِ نِي هِيں! اِكْرُو هِ حَرَامِ طَرِيْقِي سِي شَهْوَتِ پُورِي) كِرْتَا تُو كِيَا گِنَا گَارِنَه هُوْتَا؟“ انہوں نِي عَرَضِ كِي: ”جِي هَاں!“ اِرْشَادِ فَرَمَايَا: ”اِسِي طِرْحِ جَبِ وَهَبْ حَلَالِ طَرِيْقِي سِي شَهْوَتِ پُورِي) كِرِي گَا تُو اَجْرِ پَانِي گَا۔“ (۲)

﴿17﴾..... حضرت سَيِّدُنا ابُو ذَرِّضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نِي بارگاہ رسالت میں عرض كِي: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! مَا لِدَارِ لَوْگِ اَجْرِ وَثَوَابِ مِيں بُذْهَ گِي كِيُونَكَمْ وَهَبْ هَمَارِي هِي طِرْحِ عِبَادَتِ كِرْتِي هِيں اُور مَا لِي خِرْجِ كِرْتِي هِيں اُور هَمِ اِس كِي اسْتِطَاعَتِ نِي هِيں رَهْتِي۔“ تُو حَضُورِ نَبِي پَاكِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي فَرَمَايَا: ”كِيَا مِيں تَهْمِيں اِسِي چِيْزِ نِي سَكْهَاؤِنِ جِس كِي ذَرِيْعَتِ تَمِ اَكْلُوں اُور پِيچْهَلُوں كِي اَجْرِ كُو پَالُو اُور اَجْرِ مِيں تَهْمَارِي بَرَابَرِ كُوْنِي نِي هُو سَكِي مَكْرُ جُو تَهْمَارِي مِثْلِ كِي۔ (وَهِي هِي كِي) هَرِ نِمَازِ كِي بَعْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ اُور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 33، 33 بَارِ اُور اَللَّهُ اَكْبَرُ 34 بَارِ پُڑْهِي لِيَا كِرُو۔“ (۳)

﴿18﴾..... تَسْبِيْحِ تَهْلِيلِ اُور تَقْدِيْسِ كُو خُودِ پَرِ لَازِمِ كِرُو اِس سِي كَبْهِي غَفْلَتِ نِي بَرْتِنَا (۴) اُور اَنگِيُوں پَرِ شَارِكِيَا كِرُو كِيُونَكَمْ اِنِيں

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث ۳۳۷۵، ج ۵، ص ۲۸۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد..... الخ، الحدیث ۵۹: ۵۹، ص ۳۰۰ باختصار۔

③..... سنن ابن ماجه، کتاب اقامه الصلاة..... الخ، باب ما يقال بعد التسليم، الحدیث ۹۲، ج ۱، ص ۴۹۸، مفہومًا۔

④..... تسبیح یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ، تَهْلِيلُ یعنی لِآلِ اللَّهِ اِلَّا اللَّهُ، اُور تَقْدِيْسِ یعنی سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ يَا سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ۔

بولنے کی قوت عطا کی جائے گی۔<sup>(۱)</sup> یعنی وہ بروز قیامت گواہی دیں گی۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے دیکھا۔“<sup>(۲)</sup>

﴿19﴾..... جب بندہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ“ یعنی میں ہی معبود ہوں اور میں سب سے بڑا ہوں۔“ اور جب بندہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ کہتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے نے سچ کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي“ یعنی اکیلا میں ہی معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔“ اور جب بندہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي“ یعنی میں ہی معبود ہوں اور نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت میری ہی طرف سے ہے۔“ اور جو شخص بوقت موت ان کلمات کو پڑھ لے گا اُسے آگ نہ چھوئے گی۔<sup>(۳)</sup>

﴿20﴾..... صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟“ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی: ”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو کوئی 100 مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہے تو اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی اور ایک ہزار گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔“<sup>(۴)</sup>

﴿21﴾..... کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھو گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: ”میرے بندے نے سر تسلیم خم کیا اور نجات پا گیا۔“<sup>(۵)</sup>

﴿22﴾..... جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، ”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا“ یعنی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

①..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التسبیح بالحصى، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۱۵-۱۱۶، عن یسیرة۔

②..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التسبیح بالحصى، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۱۶۔

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب فضل لاله الا لله، الحدیث: ۳۷۹۴، ج ۴، ص ۲۴۴۔

④..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۷۷۴، ج ۵، ص ۲۸۶، بتغییر الفاظ۔

⑤..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی ان القدر خیرہ وشرہ من اللعزوجل، الحدیث: ۱۹۳، ج ۱، ص ۲۱۶، بتقدم و تاخر۔

نبی و رسول ہونے پر راضی ہوں۔“ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بروز قیامت اسے خوش کرے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔

## گھر سے نکلتے وقت شیاطین سے حفاظت:

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں: جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ”تو نے ہدایت پائی۔“ جب وہ ”تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ“ یعنی میں نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا“ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ”تجھے کفایت کرے گا۔“ اور جب ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: ”تو محفوظ ہو گیا۔“ پھر شیاطین یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ ”تمہارا اُس شخص سے کیا واسطہ جو ہدایت، کفایت اور حفاظت سے نوازا گیا، اب تمہارا اس پر کوئی بس نہیں چل سکتا۔“

پانچویں فصل: حقیقتِ ذکر اور اس کے فوائد

## ایک اعتراض اور اس کا جواب:

اگر تو یہ کہے کہ ذکر اللہ زبان پر آسان اور مشقت میں کم ہے تو پھر یہ دیگر عبادات سے افضل و مفید تر کیوں؟ حالانکہ اُن میں مشقت زیادہ ہے۔ تو جان لے کہ اس کی حقیقتِ حال پر آگاہی تو علمِ مکاشفہ سے ہی ممکن ہے۔ ہاں! علمِ معاملہ کی رُو سے صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ موثر و مفید ذکر وہی ہے جو حضور دل کے ساتھ ہمیشہ ہو۔ اگر زبان ذکر اور دل غافل ہو تو نفع کم ہوتا ہے۔ اس بات کی تائید احادیثِ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ (۲) اسی طرح کسی لمحے دل کا حاضر ہونا اور پھر دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو جانا بھی نفع کم کر دیتا ہے۔ کل وقت یا اکثر اوقات حضورِ قلب کے ساتھ ذکر الہی تمام عبادات پر مقدم بلکہ سب سے افضل ہے اور عملی عبادات کا انتہائی نتیجہ ہے۔

ذکر کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، اس کی ابتدا بھی اُنس و محبت لازم کرتی ہے اور انتہا بھی اور یہی دو چیزیں مطلوب

①..... کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب الثامن فی الدعاء، الحدیث: ۳۵۶۲، ج ۲، ص ۷۰، بتقدم و تاخیر۔

②..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دُعا مانگو اور یاد رکھو! اللہ عزوجل کھیلنے والے غافل دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول نہیں

فرماتا۔ (سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۲۹، ج ۵، ص ۲۹۲، مفہومًا)

ہیں۔ رضائے الہی کا ارادہ کرنے والا ابتدا میں اپنی زبان و دل کو بہ تکلف و وساوس سے بچا کر ذکر اللہ میں مشغول رکھتا ہے اور اگر اسے اس عمل پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور مذکورہ محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور یہ بات کوئی حیران کن نہیں، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کے سامنے کسی اجنبی اور غیر موجود شخص کا ذکر اور اس کے اوصاف کا بار بار تذکرہ کیا جائے تو اس کے دل میں جذبات محبت ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے اوصاف اور کثرتِ ذکر کی بنا پر اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ پھر وہی ذکر جس کی کثرت ابتداءً تکلیف کا باعث تھی اب جب اس کا عاشق ہو گیا تو اسی ذکر کی کثرت پر یہ ایسا مجبور ہوتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ کیونکہ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا كَثُرَ ذِكْرُهُ۔ یعنی بندہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کا تذکرہ بھی کثرت سے کرتا ہے اور جو کسی چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے بہ تکلف ہی سہی (آخر کار) اسے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح شروع میں تکلف کے ساتھ ذکر کا نتیجہ اُنس و محبت ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے باز رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز نتیجہ تھی اب وہ سب بن جاتی ہے۔ اور اکابرین کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ”میں نے 20 سال تک قرآن پاک (پڑھنے میں) ریاضت کی اور 20 سال تک اس سے نفع اندوز ہوا۔“

اس لطف اندوزی کا صدور اُنس و محبت سے ہی ہوتا ہے اور اُنس و محبت کا حصول تب ہوتا ہے جب کوشش دائمی ہو اور طویل مدت تک تکلف سے کام لیا جائے حتیٰ کہ تکلف طبیعت میں شامل ہو جائے اور یہ امر بعید از قیاس نہیں کہ انسان کوئی ناپسند کھانا اولاً بتکلف کھاتا ہے تو مُشَقَّت برداشت کرتا ہے لیکن جب یہی کھانا مسلسل کھانے لگ جاتا ہے تو وہ اس کو اس آجاتا ہے حتیٰ کہ اب اس سے اس کھانے کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ الغرض نفس پر جو چیز تکلف کے ساتھ لازم کی جائے وہ اس کا متحمل اور عادی بن جاتا ہے۔ ”هِيَ النَّفْسُ مَا عَوَّدْتَهَا تَتَعَوَّدُ“ یعنی نفس کو تو جس چیز کی عادت ڈالے گا وہ اس کا عادی بن جائے گا۔“ خلاصہ یہ کہ ابتدا میں جو چیز اس کے لئے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ بعد میں اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔

پھر جب بندہ ذکر اللہ سے اُنس پالیتا ہے تو غیر اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اور غیر اللہ سے مراد وہ چیز ہے جو موت کے وقت جدا ہو جائے اور قبر میں اس کا ساتھ نہ دے۔ گھر، مال، اولاد اور عہدہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا سوائے ذکر اللہ کے پس اگر اسے ذکر اللہ سے اُنس تھا تو اب وہ اس سے نفع اٹھائے گا اور ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں کی جدائی سے لذت پائے گا۔ کیونکہ دنیوی زندگی میں ضروریات پوری کرنے والی اشیاء ذکر اللہ سے رکاوٹ بنتی ہیں

لیکن موت کے بعد یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا اس کے اور محبوب کے درمیان حائل قید خانے سے نجات مل گئی اب وہ ہے اور اس کا محبوب۔ اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول خدا، محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”بے شک جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس سے محبت کرنی ہے کر لو بالآخر آپ اسے چھوڑنے والے ہیں۔“ (۱)

مذکورہ حدیث پاک میں مراد ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق دنیا سے ہو کیونکہ مرتے ہی یہ چیزیں اس کے حق میں فنا ہو جاتی ہیں۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے ربِّ عَزَّ وَجَلَّ کی ذاتِ عظمت اور بزرگی والا۔ پس مرنے والے کے حق میں دنیا فانی ہو چکی یہاں تک کہ مخصوص مدت کے بعد بذاتِ خود دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ اب یہ (ذکر اللہ سے) انس و محبت ہی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جس سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جوارِ رحمت میں جگہ پالیتا ہے اور ذکر سے ترقی کرتا ہو ملاقات کی منزل تک جا پہنچتا ہے اور اس اجر کا ظہور قبروں سے اٹھنے اور نیتوں کے سامنے آنے کے بعد ہوگا۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

کوئی یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد بندے کے ساتھ ذکرِ الہی نہیں رہ سکتا کیونکہ موت تو عدم کا نام ہے، اس کے ساتھ ذکر اللہ کا رہنا ممکن نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کیونکہ موت کوئی ایسا عدم نہیں جو ذکر اللہ کے لئے رکاوٹ بنے، بلکہ موت تو صرف دنیا اور ظاہری عالم سے معدوم کرتی ہے، عالمِ غیب سے نہیں۔ ہماری اس بات کا ثبوت درج ذیل فرامینِ مصطفیٰ سے ملتا ہے:

﴿1﴾.....”الْقَبْرِ أَمَا حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ أَوْ رُوضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. یعنی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔“ (۲)

﴿2﴾.....”أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضِرَ. یعنی شہداء کی روہیں سبز پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں۔“ (۳)

①..... المعجم الاوسط، الحديث ۴۸۴، ج ۳، ص ۳۲۲، مفہومًا۔

②..... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، الحديث ۲۴۶۸، ج ۴، ص ۲۰۹، بتقدم و تاخر۔

③..... صحيح مسلم، کتاب الامارة، باب بيان ان ارواح الشهداء..... الخ، الحديث ۱۸۸، ص ۱۰۴،

”حواصل طيور“ بدله ”جوف طير“۔

﴿3﴾..... محبوب پروردگار، غیبیوں پر خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے مشرک مشقتوں کے نام لے لے کر فرمایا: اے فلاں! اے فلاں! تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا جان لیا؟ میں تو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے کئے ہوئے وعدے کو سچ پاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سنیں گے اور جواب دیں گے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ لوگ میری بات تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن جواب دینے پر قادر نہیں۔<sup>(۱)</sup> یہ صحیح کی روایت ہے اور یہ حدیث پاک مشرکین کے متعلق ہے۔ جبکہ مومنین و شہدائے متعلق ارشاد فرمایا: ”شہدائے کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں عرش کے نیچے معلق رہتی ہیں۔“ (۲)

مذکورہ روایات سے معلوم ہونے والی کیفیت و حالت بھی ذکر اللہ سے مانع نہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں  
مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی  
پاتے ہیں۔ (پ ۴، ال عمران: ۱۶۹)

ذکر اللہ کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مرتبہ شہادت بھی عظیم ٹھہرا، کیونکہ مقصود خاتمہ ہے اور خاتمے سے ہماری مراد دنیا کو چھوڑنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہونا ہے کہ دل یا دالہی میں ڈوبا ہو اور غیر خدا سے ٹوٹا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنے دل کو یاد الہی میں مستغرق کرنے پر قادر ہو تو اس حالت پر مرنے کی قدرت سوائے میدان جہاد میں صف آرا ہونے کے کسی اور طرح حاصل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ میدان جنگ میں جان و مال، گھر اور اولاد بلکہ پوری دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ یہ چیزیں تو وہ اپنی زندگی کے لئے چاہتا تھا اور اب حُبِّ الہی اور رضائے الہی کی خاطر

①..... صحیح مسلم، کتاب الجنة..... الخ، باب عرض مقعد المیت سن..... الخ، الحدیث ۲۸۴، ص ۵۳، بتغییر الفاظ۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب بیان ان ارواح الشهداء فی الجنة..... الخ، الحدیث ۱۸۸، ص ۱۰۳،

”حواصل طیور“ بدلہ ”جوف طیر“۔

سن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فیما یقال عند المریض..... الخ، الحدیث ۱۲۴: ۹، ج ۲، ص ۱۹۶، مفہومًا۔

زندگی ہی داؤ پر لگادی۔ خدا تعالیٰ کے ہی ہو رہنے کی اس سے بڑھ کر اور کوئی صورت نہیں، اسی وجہ سے شہادت کا معاملہ عظیم ٹھہرا اور اس کے کثیر فضائل وارد ہوئے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے۔

## شہید کو بے حجاب رب تعالیٰ کا دیدار:

جب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”اے جابر! کیا میں تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں؟“ عرض کی: ”کیوں نہیں! اللہ عزوجل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھلائی کی بشارتیں عطا فرمائے۔“ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے تیرے والد کو زندگی عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں اس طرح بٹھایا کہ اس کے اور اللہ عزوجل کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا اور ارشاد فرمایا: ”اے میرے بندے! اپنی چاہت مجھ سے بیان کر میں تجھے عطا کروں گا۔“ (تیرے والد نے) عرض کی: ”اے رب عزوجل مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تیری اور تیرے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضا کی خاطر شہید کر دیا جاؤں۔“ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”یہ میں پہلے مقرر کر چکا ہوں کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔“ (۱)

پھر قتل اس جیسی پسندیدہ حالت پر مرنے کا باعث ہے۔ کیونکہ اگر وہ قتل نہ ہو اور مزید کچھ عرصہ زندہ رہے تو عین ممکن ہے کہ دنیاوی خواہشات اس کی طرف لوٹ آئیں اور ذکر اللہ میں مگن دل پر غلبہ پالیں۔ اسی وجہ سے عارفین برے خاتمے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیونکہ دل خواہ کتنا ہی ذکر الہی میں مشغول رہتا ہو پلٹنے، دنیاوی خواہشات کی طرف مائل ہونے اور کوتاہی میں پڑنے سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آخری وقت میں دل اسی طرح دنیا کے قبضے میں ہو، اور اسی حالت پر موت آجائے اور یہ قبضہ برقرار رہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا اس لئے کہ اس کا آخرت میں حصہ کم ہوگا۔ کیونکہ انسان کی موت اس حال پر آتی ہے جس پر زندگی گزارتا ہے اور روز محشر اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس پر موت آئی ہوگی۔ ان تمام خطرات سے حفاظت شہادت کی موت میں ہے۔ جبکہ

①.....سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة آل عمران، الحدیث: ۳۰۲، ج ۵، ص ۱۲، مفہوماً۔



شہادت سے مقصود جاہ و مال وغیرہ نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> بلکہ رضائے الہی اور دین حق کی سر بلندی محبوب ہو اور یہی وہ حالت ہے جسے درج ذیل آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ  
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ <sup>(ب ۱۱، التوبة: ۱۱۱)</sup>  
اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے۔

اور اسی طرح کا شخص آخرت کے بدلے دنیا بیچ دیتا ہے اور شہید کی حالت لآلِہِ إِلَّا اللَّهُ کے اس معنی کے موافق ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ شہید اپنی زبان حال سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ اس کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں۔ جو لوگ یہ کلمہ طیبہ زبان سے تو پڑھیں لیکن ان کی حالت اس کے مطابق نہ ہو تو ایسے لوگوں کا معاملہ پُرْخَطَر اور اللہ ربُّ العزت کی مشیت پر منحصر ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے لآلِہِ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر کو سب اذکار پر فائق بیان کیا <sup>(۲)</sup> اور بطور ترغیب اس بات کو مطلق ذکر فرمایا، پھر بعض مقامات پر صدق و اخلاص کی بھی شرط لگائی۔ جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا: ”مَنْ قَالَ لآلِہِ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ لآلِہِ إِلَّا اللَّهُ پڑھا۔“ اور اخلاص کا مطلب ہے کہ حالت قول کے مطابق ہو۔

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دُعا گو ہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ ان لوگوں جیسا کرے جو حال و قال اور ظاہر و باطن سے لآلِہِ إِلَّا اللَّهُ والے ہیں۔ تاکہ ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ دل حُبِّ دُنیا سے خالی اور تنگ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کا شائق ہو۔ کیونکہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ اور جو اس سے ملاقات ناپسند جانتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ یہ ہیں مطالب ذکر کے اسرار و رموز، علم معاملہ میں اس سے زیادہ بیان کرنا مشکل ہے۔



۱..... حضرت سپیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی: ایک شخص غنیمت کی خاطر جہاد کرتا ہے اور ایک شہرت کی خاطر اور ایک اس لئے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مرتبہ دیکھا جائے تو مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ فرمایا: جو صرف دین حق کی سر بلندی کے لئے جہاد کرے درحقیقت وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الحديث: ۲۸۱، ج ۲، ص ۲۵۶)

۲..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، الحديث: ۳۳۹۶، ج ۵، ص ۲۲۸، مفہومًا۔

## باب نمبر ۲: استغفار، درود اور دعا کے فضائل و آداب

(اس میں چار فصلیں ہیں)

پہلی فصل: دعا کی فضیلت

فضیلت دعا سے متعلق چار فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ  
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب! جب تم سے میرے بندے  
مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے  
والے کی جب مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں۔  
(پ ۲، البقرة: ۱۸۶)

﴿۲﴾

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۵﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ  
بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔  
(پ ۸، الاعراف: ۵۵)

﴿۳﴾

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ  
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ  
جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ۗ ﴿۲۳﴾  
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو  
میں قبول کروں گا بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے  
(تکبر کرتے) ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔  
(پ ۲۳، المؤمن: ۲۰)

﴿۴﴾

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ اللَّهِ وَأَدْعُوا الرَّحْمَنَ ۗ أَيُّهَا الَّذِينَ  
دَعَاؤُا فَادْعُوا ۗ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿۱۱۰﴾  
ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ  
کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔  
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱۰)

فضیلت دعا سے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ. یعنی دعا بھی عبادت ہے۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت

فرمائی: اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (پ ۲۴، المؤمن: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ (۱)

﴿2﴾.....الدُّعَاءُ مَعْرُوبَةٌ الْعِبَادَةِ. یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ (۲)

﴿3﴾.....خدا عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ (۳)

﴿4﴾.....بندے کی دعائیں چیزوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوتی یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا

فوراً اسے کوئی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے یا اس کے لئے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ (۴)

حضرت سیدنا ابوذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”دعائیکل میں اس طرح کفایت کرتی ہے جس طرح کھانے میں نمک۔“

﴿5﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور بہترین

عبادت (صبر کے ساتھ) فریاضی کا انتظار ہے۔ (۵)

دوسری فصل: دُعا کے دس آداب (۶)

پہلا آداب:

دعا کے لئے اچھے اوقات کا خیال رکھا جائے جیسے 9 ذُو الْحِجَّةِ کا دن، ماہِ رَمَضَانَ، روزِ جُمُعَةِ اور سحر کا وقت۔

وقتِ سحر کے تین فضائل:

﴿1﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۸﴾ (پ ۲۶، الذریت: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

①.....سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المؤمن، الحدیث: ۳۲۵، ج ۵، ص ۱۶۶۔

②.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، الحدیث: ۳۳۸، ج ۵، ص ۲۲۳۔

③.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، الحدیث: ۳۳۸، ج ۵، ص ۲۲۳۔

④.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری، الحدیث: ۱۱۱۳، ج ۴، ص ۳۷، مفہوماً۔

⑤.....سنن الترمذی، احادیث شتی، باب انتظار الفرج وغیر ذلک، الحدیث: ۳۵۸، ج ۵، ص ۳۳۳۔

⑥.....دعا کے فضائل سے متعلق مزید معلومات کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب ”فضائل دعا“ کا مطالعہ کیجئے!

﴿2﴾..... حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ آسمان دنیا پر خاص توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دوں۔“ (۱)

﴿3﴾..... حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے (اپنے بیٹوں سے) جو کلام فرمایا تھا رب تعالیٰ نے بعینہ اسے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ (پ ۱۳، یوسف: ۹۸) ترجمہ کنز الایمان: جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ اس سے آپ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کا مقصود بوقت سحر دعا کرنا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ سحر کے وقت کھڑے ہو کر دعائیں مشغول ہو گئے اور بیٹے آپ کے پیچھے آمین کہتے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی کہ میں نے انہیں بخش دیا اور عہدہ نبوت سے سرفراز کیا۔ (۲)

دوسرا آدب:

دعا مانگنے والا مقتداس احوال سے بھی فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ،

قبولیت دعا کے اوقات:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: ”راہِ خدا میں صف بندی، بارش اور فرض نماز ادا کرتے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، لہذا ان اوقات میں تم خوب دعا مانگا کرو۔“

﴿2﴾..... حضرت سیدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَّاحِدِ فرماتے ہیں: ”نمازیں بہترین اوقات میں مقرر کی گئی ہیں، لہذا نمازوں کے بعد دعا مانگنا خود پر لازم کر لو۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء..... الخ، الحديث: ۵۵، ص ۳۸۱۔

②..... مُفَسِّرُ شَہِیرِ حَکِیْمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ جَاءَ الْحَقُّ، ص ۳۵۲ پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: جمہور علماء نے انہیں پیغمبر نہ مانا۔ ہاں ایک جماعت نے کچھ ضعیف دلائل سے ان کی نبوت کا وہم کیا ہے اسی لئے ہم نے مقدمہ میں عرض کیا کہ انبیاء کرام کا نبوت سے پہلے بد عقیدگی سے پاک ہونا اجماعی مسئلہ ہے اور گناہ کبیرہ سے پاک ہونا جمہور کا قول ہے اور بعد نبوت گناہ کبیرہ سے پاک ہونے پر بھی اجماع ہے۔ ان حضرات کی نبوت کسی صریحی آیت یا حدیث یا قول صحابہ سے ثابت نہیں۔

﴿3﴾.....رحمتِ عالم، نورِ مجسمِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ قبولیتِ نشان ہے: ”الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ لَا يَرُدُّ“ یعنی اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”الصَّائِمُ لَا تَرُدُّ دُعُوْتَهُ“ یعنی روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔“ (۲)

درحقیقت بہترین اوقات بھی بہترین احوال کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے بوقتِ سحر دل صاف، مخلص اور فکروں سے خالی ہوتا ہے۔ نوذو والِحجَّہ اور جمعہ کا دن عزائم میں پختگی لانے اور رحمتِ الہی کے حصول کے لئے دلوں کے متفق ہونے کے اوقات ہیں۔ یہ اوقات کی فضیلت کا ایک سبب ہے اور بابرکت اوقات میں اس کے علاوہ اسرار بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کی خبر کسی بشر کو نہیں ہوتی۔

### سجدے میں دُعا کی کثرت کرو:

حالتِ سجدہ میں بھی قبولیتِ دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمتِ نشان ہے: اقْدَبْ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَكَثِّرْ وَا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ. یعنی بندہ سجدے کی حالت میں اپنے ربَّ عَزَّوَجَلَّ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے تم سجدے میں بکثرت دُعا کیا کرو (۳)۔ (۴)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما روایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم، نورِ مجسمِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”مجھے رکوع و سجود میں قراءت سے منع کیا گیا ہے، رکوع میں تم اپنے پروردگار کی عظمت کا ذکر کیا کرو

①.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیة، الحدیث: ۳۶۰، ج ۵، ص ۳۲۲، بتقدم و تاخر۔

②.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۶۰۹، ج ۵، ص ۳۲۳، مفہوماً۔

③.....صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۴۸۴، ص ۲۵۰۔

④.....مُفْتِیْ رَہْمَیْرَہِ حَکِیْمُ الْاُْمَمَتِ حَضْرَتِ مُفْتِیْ اَحْمَدِ یَارْحَانَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 2، ص 82، 83 پر فرماتے ہیں: خیال رہے کہ نوافل کے سجدوں میں ہمیشہ دعائے گنہگار کے قرائت کے سجدوں میں کبھی کبھی۔ بعض لوگ سجدے میں گنہگار کی عظمت کا ذکر کیا کروا کے لئے سجدہ کرتے ہیں ان کا ماخذ یہ حدیث ہے۔

اور سجدے میں خوب دعا کیا کرو کیونکہ یہ قبولیت دعا کے زیادہ لائق ہے۔“ (۱)

تیسرا ادب:

دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے اور ہاتھ اس قدر اٹھائے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔

دعا قبلہ رخ ہو کر مانگیے:

حضرت سیّدنا جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا بیان ہے کہ ”حضور سیّد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میدانِ عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر تا غروبِ آفتاب دعا مانگتے رہے۔“ (۲)

حضرت سیّدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تمہارا رب حیا فرمانے والا اور بہت عطا کرنے والا ہے، حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔“ (۳)

دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ:

حضرت سیّدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ”حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دعا میں اس قدر ہاتھ بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی اور انگلی سے اشارہ نہ فرماتے۔“ (۴)

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر رہا جو دورانِ دعا ہاتھ کی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارے کر رہا تھا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”أَحَدٌ أَحَدٌ“ یعنی ایک انگلی کے اشارے پر ہی انکفار کو (۵)۔“ (۶)

①.....صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب النهی عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، الحديث ۴۷۵، ص ۲۴۹۔

②.....صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجة النبي، الحديث ۱۲۱۸، ص ۶۳۷، ”واقفاً“ مکان ”یدعو“۔

③.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحديث ۳۵۶۷، ج ۵، ص ۳۲۶، بتغییر۔

④.....صحیح مسلم، کتاب الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء، الحديث ۸۹۰۵، ص ۴۴۴، دون قوله: ولا یشیر باصبعه۔

⑤.....مُفَسِّرُ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمُنَاجِحِ، ج ۲، ص ۹۴ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرو بائیں ہاتھ کی کوئی انگلی نہ اٹھاؤ۔

⑥.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحديث ۳۵۶۸، ج ۵، ص ۳۲۶، مفہوماً۔

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان ہاتھوں کو (دعا کے لئے) اٹھاؤ اس سے پہلے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

**دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا:**

اختتام دعا پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لینا چاہئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول کریم، رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں چہرے پر پھیرنے سے پہلے نیچے نہیں لاتے تھے۔“<sup>(۲)</sup>

**دعا میں ہاتھ بلند کرنے کا طریقہ:**

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”اللہ عزَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تو ہتھیلیاں ملاتے اور ان کا پیٹ اپنے رُخِ انور کی طرف رکھتے۔“<sup>(۳)</sup> یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔

دوران دعا آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہئے، سرکارِ مدینہ قرآنی قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: ”جو لوگ دعائیں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں وہ باز آجائیں ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی۔“<sup>(۴)</sup>

**چوتھا ادب:**

دعا مانگتے وقت آواز نہ تو اتنی آہستہ ہو کہ خاموشی کہلائے اور نہ ہی زیادہ بلند ہو۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم حضور نبی اکرم، رسول مختتم، شاہِ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ جا رہے تھے، جب مدینہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، لوگوں نے خلاف عادت بلند آواز سے تکبیر کہی تو سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے لوگو!

①.....تفسیر قرطبی، سورة الانسان: ۴، ج ۱۰، جزء ۱۹، ص ۹۱۔

②.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی رفع الایدی عند الدعاء، الحدیث ۳۳۹، ج ۵، ص ۲۵۰۔

③.....المعجم الکبیر، الحدیث ۱۲۲۳۴، ج ۱۱، ص ۳۴۴، باختصار۔

④.....صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب النهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلاة، الحدیث ۴: ۲۴، ص ۲۲۹۔

تم کسی بہرے یا غائب کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان بھی ہے (۱)۔ (۲)

## دُعائیں آواز پست رکھنے کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ:



وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا  
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ۔ (پ ۱، بنی اسرائیل: ۱۱۰)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس آیت میں صَلَوة سے مراد دعا ہے۔ (۳)  
آہستہ آواز میں دعا کرنے پر ہی اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ فرمایا:



إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (پ ۱۶، مریم: ۳)  
ترجمہ کنز الایمان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔



أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (پ ۸، الاعراف: ۵۵)  
ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ۔

پانچواں ادب:

## دعائیں ہم وزن و مسجع لفظوں کا تکلف کرنے کی ممانعت:

دعائیں ہم وزن الفاظ لانے کا تکلف نہ کیا جائے کیونکہ دعا گو کی حالت عاجزی و انکساری والی ہونی چاہئے یہاں تکلف مناسب نہیں۔ رسول خدا، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عنقریب ایسے لوگ ہوں گے  
①..... مُفَسِّرٌ شَرِيحٌ حَكِيمٌ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المَنان مِرَاةُ الْمُنَاجِيحِ، ج 3، ص 341 پر اسی مفہوم کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں: اس لئے چیخ کر اللہ کا ذکر کرنا، خدا تعالیٰ آہستہ ذکر نہیں سکتا منع ہے بلکہ بد عقیدگی ہے ذکر بالجہر تو اپنے نفس اور دوسرے غافلوں کو جگانے، شیطان کو بھگانے درود یوار کو اپنے ایمان کا گواہ بنانے کیلئے ہوتا ہے، خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا علم، قدرت، رحمت قریب ورنہ حق تعالیٰ قریب مکانی سے پاک ہے۔ (ملنقطہ)

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۲، ج ۲، ص ۱۲۴۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب التوسط فی القراءة فی الصلوٰۃ الجہریۃ، الحدیث: ۴۴، ص ۲۳۵۔





تھا۔ بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: بارگاہِ خدا میں مبالغہ آرائی کرتے ہو؟ گواہ رہو! میں نے حضرت حبیبِ عجمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِيِّ کو دیکھا آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی دعا میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے تھے: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا جِيدِينَ اللَّهُمَّ لِاتْفِضِحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِلْخَيْرِ. یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمیں مخلص بندہ بنا، اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمیں روزِ قیامت رسوا ہونے سے بچانا۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔“

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قبولیتِ دعا کے حوالے سے مشہور تھے اور اطراف کے لوگ آپ کی معیت میں دعائیں مانگتے تھے۔

بعض بزرگانِ دین فرماتے ہیں: دعا عاجزی اور محتاجی کی زبان سے مانگو، فصاحت و بلاغت کی زبان سے نہیں۔ منقول ہے: علما و ابدال کی دعاسات کلمات سے زیادہ نہ ہوتی۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں <sup>(۱)</sup> کیونکہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے کسی بھی مقام پر بندوں کو اس سے زیادہ دعا تعلیم نہیں فرمائی۔

جان لیجئے! سب (یعنی قافیہ بندی) سے مراد پُر تکلف کلام کرنا ہے جو کہ عجز و احتیاج کے خلاف ہے۔ ہاں! مسنون دُعاؤں میں بھی ہم وزن کلمات ہوتے ہیں لیکن ان میں تکلف نہیں ہوتا جیسا کہ سرورِ کائنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تعلیم کردہ درج ذیل دعا اور اس کی مثل اور دعائیں: ”أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ مِنْ يَوْمِ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةِ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرُّسُلِ السُّجُودِ الْمُؤَفِّينَ بِالْعَهْدِ أَنْتَ رَحِيمٌ وَوَدَّ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ“ یعنی (اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ) میں روزِ جزا امن کا اور بیشکی کے دن مقربین و شاہدین اور رکوع و سجود کرنے والوں اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں بے شک تو رحم فرمانے والا اور محبت کرنے والا ہے اور تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“ <sup>(۲)</sup>

①..... سورہ بقرہ میں اللہ عزَّ وَّجَلَّ نے اپنے مومن بندوں کو دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوں عرض کی جائے: رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْرَاسَنَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ البقرة: ۲۸۶ ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہماری پکڑ نہ کرا اگر ہم بھولیں یا چوکیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارہ نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

②..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۳، ج ۵، ص ۲۶۵۔

لہذا مسنون و منقول دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہئے یا بغیر کسی تسبیح و تکلف کے عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عاجزی پسند فرماتا ہے۔

چھٹا ادب:

دعا کو عاجزی و انکساری کرنے والا اور امید و خوف رکھنے والا ہو۔

خوف و امید سے دعا مانگنے کے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي لُخَيْرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ط (پ ۱، الانبیاء: ۹۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے۔

﴿۲﴾

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط (پ ۸، الاعراف: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ۔

حدیث پاک میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے بتلائے آلام کر دیتا ہے تاکہ اس کی گریہ وزاری سنے۔“ (۱)

ساتواں ادب: دعا کی قبولیت کا یقین اور امید و اثق ہو۔

کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ:

﴿۱﴾..... جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما!“ بلکہ اسے کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہئے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ (۲)

﴿۲﴾..... جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو خوب رغبت ظاہر کرے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں۔ (۳)

①..... فردوس الاخبار للذیلمی، باب الالف، الحدیث ۹۷۵، ج ۱، ص ۱۵۱۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب العزم بالدعاء..... الخ، الحدیث ۲۶۷۹، ص ۱۴۴۰۔

③..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب الادعیة، الحدیث ۸۹۴، ج ۲، ص ۱۲۷۔

﴿۳﴾.....اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نافلِ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ (۱)

حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں: تم اپنی ذات میں کوئی برائی پا کر دعا سے باز نہ رہو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سب سے بری مخلوق شیطان کی بھی دعا قبول فرمائی۔ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکایت ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۵﴾ (پ: ۸، الاعراف: ۱۴، ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔

آٹھواں آدب:

سوال کرنے میں اصرار کرے اور اپنی دعا تین مرتبہ دہرائے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”رسول کریم، رؤوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب بھی دعا یا سوال کرتے تین مرتبہ کرتے۔“ (۲)

قبولیت دعا میں تاخیر نہ سمجھے جیسا کہ سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”جب تک تم جلد بازی کرتے ہوئے یوں نہ کہو کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی اس وقت تک تمہاری دعا قبول کی جاتی رہے گی، جب دعا مانگو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بہت زیادہ سوال کرو کیونکہ تم کریم ذات کو پکار رہے ہو۔“ (۳)

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”میں 20 سال سے بارگاہِ الہی میں ایک دعا کر رہا ہوں اگرچہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی لیکن مجھے اس کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ وہ مجھے بے مقصد کاموں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمادے۔“

**دعا کی قبولیت ظاہر ہونے یا نہ ہونے پر پڑھے جانے والے کلمات:**

حضور پر نور، شافع یوم النشور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ تقرب نشان ہے: تم میں سے جب کوئی اپنے

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۳۹، ج ۵، ص ۲۹۲۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسير، باب مالقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۷۹۴، ص ۹۹۱۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب بیان انہ يستجاب الدعای..... الخ، الحدیث: ۲۷۳۵، ص ۱۲۶۳، باختصار۔

رَبِّ عَزَّوَجَلَّ سے دعا مانگے اور اس کے قبول ہونے کا علم ہو جائے تو یوں کہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. یعنی تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔“ اور جسے تاخیر محسوس ہو تو وہ کہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. یعنی ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ہے۔“ (۱)

### نوالِ ادب:

دعا کا آغاز ذکر اللہ سے کیا جائے نہ کہ سوال سے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو دعا کا آغاز انہی کلمات سے کرتے سنا: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ. یعنی میرا رب پاک بلند اور عطا فرمانے والا ہے۔ (۲)

### دُعا کی قبولیت کا سبب:

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قَدِسَ سِرُّهُ التُّورَانِي فرماتے ہیں: ”جو شخص بارگاہِ ربِّ العزت میں اپنی کوئی حاجت پیش کرنا چاہے تو وہ اپنی دعا کے اول و آخر دُرُودِ پاک پڑھے، بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ درود شریف قبول فرماتا ہے تو اس کی یہ شان نہیں کہ وہ بیچ کی دعا رد کر دے۔“

ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم، رُؤُوفِ رَحِيمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو ابتداءً مجھ پر درود بھیجو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شانِ کریمی ایسی نہیں کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں وہ ایک کو تو پورا فرمادے اور دوسری کو رد کر دے۔“ (۳)

یہ روایت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں نقل کی ہے۔

### دسواں ادب:

اس ادب کا تعلق باطن سے ہے اور قبولیت دعا میں یہی اصل ہے یعنی توبہ کرنا، ظلماً لیا ہوا مال واپس کرنا اور اپنی پوری کوشش سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا قریبی سبب ہے۔

①.....کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب الثامن فی الدعاء، الحدیث: ۳۱۷۹، ج ۲، ص ۳۳۔

②.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند المدنیین، الحدیث: ۱۶۵۴، ج ۵، ص ۵۶۱۔

③.....قوت القلوب، الفصل الثالث فی ذکر عمل المرید.....الخ، ج ۱، ص ۱۵، ”یقضی“ بدلہ ”یعطی“۔

## قحط سالی کے متعلق 12 حکایات

### چغل خوری کا وبال:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا کعب الاحبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عَلَي نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بنی اسرائیل کی ہمراہی میں بارش کے لئے دعا مانگنے چلے لیکن بارش نہ ہوئی آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے تین دن تک یہی معمول رکھا لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ! میں تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عَلَي نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے عرض کی: ”اے پروردگار عَزَّ وَجَلَّ! وہ کون ہے تاکہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں۔“ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف سے جواب ملا: ”اے موسیٰ! میں تو بندوں کو اس سے روکتا ہوں۔“ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عَلَي نَبِيِّنا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم سب بارگاہ رب العزت میں چغلی سے توبہ کرو۔ جب سب نے توبہ کی تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے انہیں بارش عطا فرمادی۔

### قحط سالی دور ہوگئی:

﴿2﴾..... حضرت سیدنا سعید بن جبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے زمانے میں خشک سالی ہوگئی انہوں نے بارش کے لئے دعا مانگی۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ ”یا تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ ہمیں بارش عطا فرمائے گا یا ہم اسے اذیت دیں گے۔“ لوگوں نے کہا: ”تمہارے لئے ایسا کیونکر ممکن ہے؟ اس کی قدرت تو آسمانوں کو محیط ہے۔“ اس نے کہا: ”میں اس کے ولیوں اور برگزیدہ بندوں کو قتل کروں گا جو اس کے لئے باعث اذیت ہے۔“<sup>(۱)</sup> چنانچہ، اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے انہیں بارش عطا فرمادی۔

### ظلم کا انجام:

﴿3﴾..... حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کا بادشاہ کا یہ قول لوگوں کو کامل توجہ کے ساتھ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ (اتحاف السادة المتقين، ج ۵، ص ۲۶۳)

سات سال تک قحط سالی میں مبتلا رہے حتیٰ کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے مردار اور بچوں تک کو کھا گئے اور پہاڑوں کی طرف نکل کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس دور کے انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ ”(اپنی قوم کو بتادو) اگر تم میری بارگاہ کی طرف اتنا چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں اور ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں اور دعا مانگتے مانگتے تمہاری زبانیں تھک جائیں تب بھی میں کسی کی دعا قبول کروں گا نہ کسی رونے والے پر رحم کروں گا حتیٰ کہ تم ظلماً لیا ہو مال حق دار کو لوٹا نہ دو۔ ان لوگوں نے جو نبی اس بات پر عمل کیا اسی وقت انہیں بارش عطا کر دی گئی۔“

### گناہوں کی نحوست:

﴿4﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارِ فرماتے ہیں: ایک دفعہ بنی اسرائیل پر قحط پڑ گیا۔ متعدد بار بارش کے لئے دعا کی (لیکن بارش نہ ہوئی) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس وقت کے نبی عَلَیْہِ السَّلَام کی طرف وحی فرمائی کہ ”ان لوگوں کو بتادو کہ میری بارگاہ میں پیش ہونے والے تمہارے جسم گندے ہیں، دعا کے لئے اٹھنے والے تمہارے ہاتھ ناحق خون سے رنگین ہیں اور تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں تم میری بارگاہ سے بہت زیادہ دوری اور میرے شدید غضب کا شکار ہو چکے ہو۔“

### چیونٹی کی فریاد:

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابوصدیق ناجی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے دعا مانگنے کے ارادے سے چلے کہ راستے میں ایک چیونٹی نظر آئی جس کی پیٹھ زمین سے لگی ہوئی اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، وہ عرض کر رہی تھی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم بھی تیری ایک مخلوق ہیں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں، پس تو ہمیں دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈال۔“ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے لوگوں سے فرمایا: ”لوٹ چلو! دوسروں کی دعاؤں کے صدقے تم پر بارش برے گی۔“

### بارگاہ الہی میں مقبولیت:

﴿6﴾..... حضرت سیدنا عبدالرحمن اوزاعی عَلَیْہِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ایک بار لوگ بارش کی دعا کے لئے نکلے۔ ان میں حضرت سیدنا بلال بن سعد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے، حمد و ثنائے الہی کے بعد حاضرین کو

مخاطب کر کے پوچھا: ”کیا تم خود کو گناہ گار تسلیم کرتے ہو؟“ لوگوں نے کہا: ”ہاں۔“ چنانچہ، آپ نے بارگاہِ الہی میں دستِ سوال دراز کرتے ہوئے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم نے تیرا یہ فرمان سنا: ”مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ“ (پ۰۱، التوبة: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔“ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیری مغفرت ہم جیسوں کے لئے ہی ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما اور ہم پر بارش برسسا۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اور حاضرین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ بارش برسنے لگی۔

**بارش میں تاخیر نہیں بلکہ.....!**

﴿7﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَفَّارِ سے لوگوں نے عرض کی: ”آپ بارگاہِ خداوندی میں ہمارے لئے دعا فرمائیں۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”تم سمجھ رہے ہو کہ بارش میں تاخیر ہو رہی ہے جبکہ میں تو (برے اعمال کے سبب) پتھر برسنے میں تاخیر دیکھ رہا ہوں۔“

**ایک آنکھ والا آدمی:**

﴿8﴾..... منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ رُوحِ اللَّهِ عَلَي نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بارش کی دعا مانگنے کے لئے نکلے۔ جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صحرا میں پہنچے تو اعلان فرمایا: ”میرے ساتھ ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔“ یہ سن کر سوائے ایک شخص کے سب لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اس سے پوچھا: ”تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟“ اس نے جواب دیا: ”حضور! مجھے اپنا کوئی گناہ یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا پاس سے ایک عورت گزری تو میں نے اسے اس آنکھ سے دیکھا، اس کے گزر جانے کے بعد (مجھ پر ندامت غالب آئی اور) میں نے اُنکی سے وہ آنکھ نکال کر اس عورت کے پیچھے پھینک دی۔“

یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے فرمایا: ”تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کرو میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا۔“ جب انہوں نے دعا مانگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی اور لوگ سیراب ہو گئے۔

**علمائے کرام کی اہمیت:**

﴿9﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ عَسْمَانِي قَدَسَ سِرُّهُ النَّوْرَانِي فرماتے ہیں: حضرت سیدنا داؤد عَلَي نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے مبارک دور میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے دعا کے لئے تین علما منتخب کئے۔ جب وہ بارش کی دعا کے لئے نکلے تو ایک



عالم صاحب نے بارگاہ الہی میں عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے تورات شریف میں فرمایا کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دو۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں معاف فرما دے۔“ دوسرے عالم صاحب نے یوں دعا کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے تورات میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں کو آزاد کرو۔ تو اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم تیرے غلام ہیں ہمیں آزاد فرما دے۔“ تیسرے عالم صاحب نے دعا مانگتے ہوئے کہا: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے تورات میں حکم فرمایا کہ جب دروازے پر مسکین آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم تیرے مسکین بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں ہمیں خالی نہ لوٹانا۔“ اس دعا کے فوراً بعد بارش برسنے لگی۔

### سعدون مجنون کی دعا:

﴿10﴾..... حضرت سیدنا عطاء سلمیٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سے بارش روک دی گئی، ہم دعا کے لئے باہر نکلے تو دیکھا کہ سعدون مجنون قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے: ”اے عطا! آج قیامت کا دن ہے یا لوگ قبروں سے نکل آئے ہیں۔“ میں نے کہا: ”ایسا نہیں ہے بلکہ بارش نہیں ہو رہی، لہذا ہم دعا کے لئے نکلے ہیں۔“ سعدون نے کہا: ”اے عطا! کس دل سے دعا مانگنے چلے ہوز مینی یا آسمانی؟“ میں نے کہا: ”آسمانی۔“ سعدون نے کہا: ”اے عطا! فسوس! کھوٹے سکے چلانے کی کوشش کرنے والوں کو بتا دو کھوٹے سکے نہ چلاؤ کہ پرکھنے والا بہت بصارت رکھتا ہے۔“ پھر انہوں نے گن آنکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر (بارگاہ خداوندی میں) عرض کی: ”اے میرے معبود! میرے آقا! اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کر بلکہ اپنے ناموں کے پوشیدہ رازوں اور پردوں میں چھپی نعمتوں کے وسیلے سے ہمیں کثیر میٹھا پانی عطا فرما جس سے شہر سیراب ہو جائیں اور تیرے بندے زندہ رہ سکیں۔ اے ہرچاہے پر قادر!“ حضرت سیدنا عطاء سلمیٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: سعدون مجنون کی دعا ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان گرجنے چمکنے لگا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر سعدون یہ کہتے چل دیئے:

اَفْلَحَ الزَّاهِدُونَ وَالْعَابِدُونَ      اِذْ لِمَوْلَاهُمْ اَجَاعُوا الْبُطُونَ  
 اَسْهَرُوا الْاَعْيُنَ الْعَلِيلَةَ حَبًّا      فَاَنْقَضَى لَيْلَهُمْ وَهُمْ سَاهِرُونَ  
 شَغَلَتْهُمْ عِبَادَةُ اللّٰهِ حَتَّى      حَسِبَ النَّاسُ اَنْ فِيْهِمْ جُنُونًا

ترجمہ: زاہدین و عابدین کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے فاقے کئے۔ انہوں نے حُبِّ مولیٰ

میں بیمار آنکھوں کے ساتھ راتیں جاگ کر گزاریں اور عبادتِ الہی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ لوگ انہیں مجنوں گمان کرنے لگے۔

## حبشی غلام کی دعا:

﴿11﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: میں سخت قحط سالی کے ایام میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، لوگ بارش کی دعا کے لئے نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ اس دوران ایک حبشی غلام آیا اور میرے پاس ہی بیٹھ گیا، اس کے پاس دو چادریں تھیں ایک کا تہ بند باندھ رکھا تھا اور دوسری اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں یوں دعا گو ہے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! برے اعمال اور کثرتِ گناہ کے سبب یہ چہرے تیری بارگاہ میں رسوا ہو گئے۔ اس کی پاداش میں بارش روک کر تو اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ اے بردباری فرمانے والے! تیرے بندوں نے تجھ سے اچھائی اور بھلائی کی ہی امید لگا رکھی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو ان کو اسی وقت بارش عطا فرما دے۔“ وہ یہی کہتا رہا: ”السَّاعَةَ السَّاعَةَ. یعنی اسی وقت اسی وقت۔“ حتیٰ کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور ہر طرف بارش ہونے لگی۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّاب کے پاس گیا، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے: ”تم افسردہ دکھائی دیتے ہو۔“ میں نے کہا: ”ایک شخص کسی معاملے میں ہم سے آگے نکل گیا اور اس معاملے کا والی بن گیا۔“ پھر میں نے گزشتہ سارا واقعہ بیان کیا۔ سن کر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّاب نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔

## وسیلے کی برکت:

﴿12﴾..... مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضور صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے چچا حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی۔ جب حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دعا مانگ چکے تو حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بارگاہِ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوئے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! آسمان سے بلائیں گناہوں کے سبب نازل ہوتی ہیں اور توبہ کے سبب ان سے نجات ملتی ہے۔ تیرے نبی صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا رشتہ دار ہونے کے ناطے لوگوں نے تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کیا۔ گناہوں سے

آلودہ ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز ہیں۔ پیشانیاں توبہ کے لئے جھکی ہیں۔ تو والی ہے تو بھٹکے ہوؤں سے بے خبر نہیں۔ شکستہ حال کو ضائع ہونے کے مقام پر نہیں چھوڑتا۔ اب چھوٹے فریادی اور بڑے گریہ کنناں ہیں۔ فریاد کے لئے آوازیں بلند ہیں۔ تورا زوں اور چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اے باری تعالیٰ! اس سے پہلے کہ لوگ مایوس ہو کر ہلاکت میں پڑ جائیں تو ان کو ان کی آہ و زاری کے بدلے بارش عطا فرما دے۔ تیری رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے۔“ راوی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی دعا بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ آسمان پہاڑ جیسے بادلوں سے بھر گیا۔

## تیری فضل: درود پاک کی فضیلت اور عظمت مصطفیٰ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا  
تَسْلِيمًا ﴿۵۶﴾ (الاحزاب: ۵۶)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نبی) پر اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔

## فضیلت درود سے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... مروی ہے کہ ایک دن رسول محتشم، شافع ام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا: ”اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر دس مرتبہ سلام نازل کروں۔“ (۱)

﴿2﴾..... جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ (۲)

﴿3﴾..... إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ. یعنی میرا زیادہ قرب اسے نصیب ہوگا جو مجھ پر درود کی کثرت کرتا ہوگا۔ (۳)

①..... سنن النسائی، کتاب السهو، باب الفضل فی الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث: ۱۲۹۴، ص ۲۲۲۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث: ۹۰۴، ج ۱، ص ۴۹۰۔

③..... سنن الترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی فضل الصلاة..... الحدیث: ۲۸۴، ج ۲، ص ۲۷۔

﴿4﴾..... کسی مومن کے بخیل ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔<sup>(۱)</sup>

﴿5﴾..... اَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. یعنی روز جمعہ مجھ پر درودِ پاک کی کثرت کرو۔<sup>(۲)</sup>

﴿6﴾..... میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھتا ہے اس کے لئے 10 نیکیاں لکھی جاتیں اور 10 گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿7﴾..... جو شخص اذان و اقامت کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

﴿8﴾..... جس نے کتاب میں مجھ پر درودِ پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔<sup>(۵)</sup>

﴿9﴾..... إِنَّ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يَبْلُغُونَ عَنِّي السَّلَامَ. یعنی زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری اُمت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔<sup>(۶)</sup>

﴿10﴾..... لَيْسَ أَحَدٌ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. یعنی جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ عزوجل میری روح لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔<sup>(۷)</sup> (۸)

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب قول رسول اللہ رغم انف رجل، الحدیث: ۳۵۵، ج ۵، ص ۳۲۱، مفہومًا۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة..... الخ، الحدیث: ۱۰۴، ج ۱، ص ۳۹۱، بتقدم و تاخر۔

③..... سنن النسائی، کتاب السهو، باب الفضل فی الصلاة علی النبی اللہ علیہ وسلم الحدیث: ۱۲۹۴، ص ۲۲۲، مفہومًا۔

④..... صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، الحدیث: ۶۱، ج ۱، ص ۲۲۳، ملتقطًا۔

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۸۳۵، ج ۱، ص ۴۹۔

⑥..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب الادعية، الحدیث: ۹۱، ج ۲، ص ۱۳۳، بتقدم و تاخر۔

⑦..... سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب زیارة القبور، الحدیث: ۲۰۴، ج ۲، ص ۳۱۵۔

⑧..... مُقَرَّرٌ شَهِيرٌ حَكِيمٌ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَدِيَارْخَانَ عَلَيهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 2، ص 101 پر فرماتے ہیں: ”یہاں روح سے مراد تو جو ہے نہ وہ جان جس سے زندگی قائم ہے۔ حضور تو نبیات دائمی زندہ ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ میں ویسے تو بے جان رہتا ہوں کسی کے درود پڑھنے پر زندہ ہو کر جواب دیتا رہتا ہوں ورنہ ہر آن حضور پر لاکھوں درود پڑھے جاتے ہیں تو لازم.....

﴿۱۱﴾..... رسول اکرم، نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے پوچھا گیا کہ ”ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟“ تو ارشاد فرمایا: ”یوں پڑھو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ“۔<sup>(۱)</sup>

## خصائص مصطفیٰ

محبوب ربِّ ذوالجلال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصال پر ملال کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فراقِ رسول میں روتے ہوئے کہنے لگے: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے منبر بنوایا تاکہ لوگ (بآسانی) خطبہ سن سکیں۔ آپ کے فراق میں اُس تنے نے گریہ وزاری کی تو آپ نے دست مبارک پھیر کر تسلی دی تو وہ چپ ہو گیا۔ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ کی جدائی میں آپ کی اُمت پر اس تنے سے زیادہ رونے کا حق بنتا ہے۔

يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! بارگاہِ الہی میں آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

ترجمہ کنز الایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔

(پ ۵، النساء: ۸۰)

يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! آپ پر میرے ماں باپ قربان! اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ہاں آپ کی اس قدر فضیلت ہے کہ آپ کی لغزش کی خبر دینے سے پہلے آپ کے لئے عفو کی نوید سنائی اور فرمایا:

..... آئے گا کہ ہر آن لاکھوں بار آپ کی روح نکلتی اور داخل ہوتی رہے۔ خیال رہے کہ حضور ایک آن میں بیٹھارے درودخوانوں کی طرف یکساں توجہ رکھتے ہیں سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے ایسے آسمان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود و سلام سن بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہ ہو کہ مظہر ذات کبریا ہیں رب تعالیٰ بیک وقت سب کی دعائیں سنتا ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، الحدیث ۳۳۶۹، ج ۲، ص ۲۲۹، ملقطاً۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں کیوں

اذن دے دیا۔

(پ ۱۰، التوبة: ۲۳)

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر صدقے! رب تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس درجہ کی فضیلت حاصل ہے کہ اس نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا لیکن ذکر سب سے پہلے کیا:

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب! یاد کرو جب ہم نے نبیوں

سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم سے۔

مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ (پ ۲۱، الاحزاب: ۷)

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ نے بارگاہِ الہ میں اتنی فضیلت پائی کہ جہنمی جہنم کے مختلف طبقات میں جل رہے ہوں گے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے پر غم و حسرت کا اظہار کرتے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے یوں بیان فرمایا:

يَلِيَّتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝٦٦

ترجمہ کنز الایمان: ہائے! کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا

اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۶۶)

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے پتھر عطا فرمایا جس سے نہریں پھوٹ پڑیں لیکن اس سے زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمادیئے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہما الصلوٰۃ والسلام کے بس میں ایسی ہوا کر دی جس کے ذریعے صبح و شام ایک ایک مہینے کا فاصلہ طے کیا جاسکتا تھا اور اس سے بھی عجیب تر آپ کا براق تھا جس پر آپ نہ صرف ساتویں آسمان تک پہنچے بلکہ نماز فجر وادی اُح میں ادا فرمائی۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! اگر حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کو اللہ عزوجل نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو اس سے زیادہ تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ زہرا لود بھی ہوئی بکری کے شانے نے آپ سے کلام کیا اور عرض کی: مجھے تناول نہ فرمائیے کیونکہ مجھ میں زہر ملا یا گیا ہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان! حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح بیان فرمایا:

رَبِّ لَا تَذْرُ عَلَيَّ الْأَمْرُضَ مِنَ الْكُفْرَيْنِ  
ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں  
دَيَّارًا ﴿۳۶﴾ (پ ۲۹، النوح: ۲۶)

اگر آپ بھی اسی کی مثل بارگاہ الہ میں التجا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے۔ آپ کی پیٹھ مبارک کو روند گیا، رخ انور کو خون آلود کیا گیا، داندان مبارک شہید کئے گئے۔ لیکن آپ نے ان کے لئے بھلائی ہی مانگی اور بارگاہ الہی میں یوں التجا کی: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری قوم کو معاف فرما یہ مجھے نہیں جانتے۔“

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کی عمر مبارک اور زمانہ تبلیغ کم لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ حضرت سیدنا نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی عمر اور زمانہ تبلیغ زیادہ لیکن ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی۔

### رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی عاجزی:

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! میرے ماں باپ آپ پر فدا! اگر آپ اپنے ساتھ صرف اپنے برابر کے لوگوں کو بٹھاتے تو ہمیں نہ بٹھاتے۔ اگر آپ اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرنا چاہتے تو ہمارے خاندان میں آپ کا نکاح نہ ہوتا۔ اگر آپ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے تو ہمارے ساتھ نہ کھاتے۔ لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! آپ نے ہمیں اپنی ہم نشینی کا شرف بخشا، ہمارے خاندان میں شادی کی۔ ہمیں کھانے میں ساتھ بٹھایا، اون کا لباس زیب تن فرمایا، دراز گوش کو سواری بنایا، سواری پر اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھایا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا، بطور تواضع اپنی انگلیاں چاٹیں۔

### درود ہمیشہ مکمل پڑھیں یا لکھیں:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں حدیث شریف کی کتابت کرتا تھا اور جہاں مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نام مبارک آتا میں صرف درود لکھتا سلام نہ لکھتا۔ ایک بار مجھے خواب میں سرکارِ عالی وقار، شہنشاہ ابرار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا دیدار نصیب ہوا، آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”تم اپنی کتاب میں مکمل درود

کیوں نہیں لکھتے؟“ وہ بزرگ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد میں نے درود کے ساتھ سلام لکھنے کا بھی معمول بنا لیا۔“  
 حضرت سیدنا ابوالحسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ایک دفعہ میں خواب میں محبوب رَبُّ الْعِزَّتِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي نے کتاب ”الرِّسَالَةَ“ میں جو لکھا ہے: صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ انہیں اس کا کیا عوض عطا ہوگا؟“ تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”انہیں اس کے انعام میں حساب و کتاب کے لئے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔“

### پوچھی فصل: استغفار کی فضیلت

حضرت سیدنا علقمہ اور حضرت سیدنا اسود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: قرآن پاک میں یہ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر گناہگار ان کی تلاوت کر کے رب عَزَّ وَجَلَّ سے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے:

﴿۱﴾

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
 ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ  
 ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر  
 ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۳۵)

﴿۲﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ  
 يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا  
 ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو  
 پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

(پ ۵، النساء: ۱۱۰)

﴿۳﴾

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ  
 تَوَّابًا  
 ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو  
 اور اس سے بخشش چاہو۔ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(پ ۳۰، النصر: ۳)





وَالْمُتَّغِرِينَ بِإِلَاحِارِهَا (ب) مال عمدن (۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔

## استغفار سے متعلق 19 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اکثر یہ پڑھا کرتے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ تیری ذات پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لئے ہیں اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری مغفرت فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“ (۱)

﴿2﴾..... جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کے لئے نجات کی راہ نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ (۲)

﴿3﴾..... بلاشبہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں (۳)۔ (۳)

حالانکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صدقے اگلے پچھلے لوگوں نے بھی مغفرت کی نعمت پائی۔

﴿4﴾..... میرے دل پر کبھی (انوار الہی کے غلبہ سے ابر چھا جاتا ہے) اور میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں (۵)۔ (۴)

﴿5﴾..... سوتے وقت جو یہ کلمات: ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ“. یعنی میں عظمت و بزرگی والے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ زندہ اور دوسروں کو قائم

1..... کتاب الدعاء للطبرانی، القول فی السجود، الحدیث ۵۹، ص ۱۹۳، دون ”الرحیم“۔

2..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث ۱۵۱۸، ج ۲، ص ۱۲۲، بتغییر۔

3..... مُفَسِّرُ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَدِ يَارْحَانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 3، ص 353 پر فرماتے ہیں: توبہ و استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے اسی لئے حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس پر عامل تھے یا عمل ہم گنہگاروں کی تعلیم کے لئے ہے ورنہ حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معصوم ہیں گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔

4..... کتاب الدعاء للطبرانی، فصل الاستغفار فی ادبار الصلوة، الحدیث ۱۸۳، ص ۵۱۶، بتقدم و تاخیر۔

5..... مُفَسِّرُ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَدِ يَارْحَانَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 3، ص 353 پر فرماتے ہیں: اس پردے کے متعلق شارحین نے بہت خامہ فرسائی کی ہے مگر حق یہ ہے کہ یہاں غین (پردے) سے مراد اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر غم فرمانا ہے۔ اور استغفار سے مراد ان گنہگاروں کے لئے استغفار کرنا ہے۔ (ملنقطاً)

6..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب استحباب الاستغفار..... الخ، الحدیث: ۲۷۰، ص ۱۴۴۔

رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“ تین مرتبہ پڑھ لے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ یا ریت کے ذرات یا درخت کے پتوں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔<sup>(۱)</sup>

ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص مذکورہ کلمات پڑھ لے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ میدانِ جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔<sup>(۲)</sup>

﴿6﴾..... حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سخت کلامی کیا کرتا تھا۔ (ایک روز) بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُجِّهٌ خَوْفٍ آتَا هَيْهَاتَ كَيْسَ مِيرَى زَبَانِ مِيرَى لِي جَهَنَّمَ كَابَاعِثَ نَهْ بِنِ جَائِي“۔ یہ سن کر محبوب رب ذوالجلال، نبی بی آمنہ کے لال صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم استغفار کیوں نہیں کرتے میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔“<sup>(۳)</sup>

﴿7﴾..... ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے ارشاد فرمایا: ”اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک ندامت اور طلبِ مغفرت کا نام توبہ ہے۔“<sup>(۴)</sup>

﴿8﴾..... تاجدار رسالت، مخزنِ جود و سخاوت صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (تعلیم امت کے لئے) اس طرح استغفار کرتے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا نَسِيتُ مِنْ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هُزْلِي وَجِدِّي وَخَطِيئِي وَعَمَدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا نَسِيتُ مِنْ أَمْرِي أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلِيٌّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری خطا، نادانی، اپنے معاملات میں حد سے تجاوز اور میرے متعلق جو بھی تو جانتا ہے اسے معاف فرما۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! مذاق میں، سنجیدگی میں، بھولے میں یا جان بوجھ کر مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے اگلے پچھلے، جلوت و خلوت کے گناہ اور جن کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے معاف فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے لانے والا ہے اور تو سب کچھ کر سکتا ہے۔“<sup>(۵)</sup>

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۰۸، ج ۵، ص ۲۵۵، بتقدم و تاخیر۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۱۴، ج ۲، ص ۱۲۱۔

③..... سنن الدارمی، ومن کتاب الرقاق، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۲۷۲۳، ج ۲، ص ۳۹۱، بتغییر۔

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجات کل ذنب بالتوبة، الحدیث: ۷۰۲، ج ۵، ص ۳۸۲۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب التعود من شرماعمل، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۲۵۔

﴿۹﴾..... حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: میں وہ شخص ہوں کہ جب نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر و رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنتا ہوں تو اللہ عزوجل جتنا چاہتا ہے مجھے اس سے نفع عطا فرماتا ہے اور جب کوئی صحابی رسول مجھے حدیث رسول سناتا ہے تو میں اس سے قسم لیتا ہوں اور جب وہ قسم کھاتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور مجھے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور سچ فرمایا کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ”جو بندہ گناہ کر بیٹھے تو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں ادا کرے پھر اللہ عزوجل سے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر  
ظلم کریں۔ (۱)

﴿۱۰﴾..... بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ (۲)

یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا ہے:

كَلَّا بَلْ سَوَّيْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا  
ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا  
ہے ان کی کمائیوں نے۔ (۳)

﴿۱۱﴾..... اللہ عزوجل جنت میں بندے کو ایک درجہ عطا فرمائے گا، بندہ عرض کرے گا: ”اے مولیٰ عزوجل! یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟“ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: ”اس استغفار کے بدلے جو تیرے بیٹے نے تیرے لئے کیا۔“ (۳)

﴿۱۲﴾..... ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ اہل بیت، شفیع روز شمار

①..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۲، ج ۲، ص ۱۲۲-۱۲۳۔

②..... سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ ویل للمطففین، الحدیث: ۳۳۴، ج ۵، ص ۲۲۰، مفہومًا۔

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۱۰۶۱، ج ۳، ص ۵۸۲۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا بَارِكًا فِيهِ رُبُّ الْعِزَّةِ فِي يَوْمِ عَرَضِ كِي: ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا. یعنی یا اللہ عزوجل! مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور اگر خطا کر بیٹھیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔“ (۱)

﴿13﴾..... بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے پھر کہے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. یعنی یا اللہ عزوجل! مجھے معاف فرما۔“ تو اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”میرے بندے سے گناہ ہو گیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے اور بخش بھی دیتا ہے۔ اے میرے بندے! جو چاہے کر میں نے تیری بخشش فرمادی۔“ (۲)

﴿14﴾..... معافی مانگ لینے والا گناہ پر اڑا رہنے والا نہیں اگر چہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ (۳)

﴿15﴾..... ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی ایک روز آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا: ”بے شک میرا ایک پروردگار ہے، اے میرے اللہ عزوجل! میری مغفرت فرما۔“ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تجھے بخش دیا۔“ (۴)

﴿16﴾..... جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ یقین رکھے کہ اللہ عزوجل میری اس خطا پر مطلع ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اگرچہ وہ استغفار بھی نہ کرے۔ (۵)

﴿17﴾..... فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جسے میں محفوظ رکھوں، لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو میں تمہاری مغفرت فرمادوں گا اور تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت فرمادوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔“ (۶)

﴿18﴾..... جو شخص یہ کلمات کہے: ”سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءًا فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی (یا اللہ عزوجل!) تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برے عمل کئے، پس تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الأدب، باب الاستغفار، الحدیث: ۳۸۲، ج ۴، ص ۲۵۸۔

②..... صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب قبول التوبہ من الذنوب..... الخ، الحدیث: ۲۷۵۵، ص ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۴، بتقدم و تاخر۔

③..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب الاستغفار، الحدیث: ۱۵۱۴، ج ۲، ص ۱۲۱۔

④..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، حسن الظن بالله، الحدیث: ۱۰، ج ۱، ص ۱۰۴، مفہومًا۔

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۴۷۳، ج ۳، ص ۲۴۴۔

⑥..... سنن الترمذی، کتاب صفة القيامة، الحدیث: ۲۵۰۳، ج ۴، ص ۲۲۲، مفہومًا۔

بخشنے والا کوئی نہیں۔“ تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگرچہ چیونٹیوں کی تعداد کے برابر ہوں۔<sup>(۱)</sup>

﴿19﴾..... روایت میں ہے کہ افضل استغفار یہ ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ  
بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤُكَ عَلَيَّ نَفْسِي بِذَنْبِي فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي مَا قَدَّمْتُ مِنْهَا وَمَا أَخَّرْتُ فَإِنَّهُ  
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا إِلَّا أَنْتَ. یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں بقدر طاقت  
تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کئے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری دی ہوئی نعمت اور اپنی جان کے خلاف گناہوں کا  
بھی اقرار کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، پس میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے  
کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے محبوب بندے:

حضرت سیدنا خالد بن معدان عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کا بیان ہے کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میرے محبوب بندے وہ  
ہیں جو مجھ سے محبت کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے دل مساجد میں لگے رہتے ہیں اور وقتِ سحر استغفار  
کرتے ہیں۔ جب میں اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے اُن سے پھیر دیتا ہوں۔“

## استغفار کی فضیلت پر مشتمل 11 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾..... حضرت سیدنا قتادہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں: ”قرآن پاک تمہاری بیماری کی تشخیص کرتا اور اس کے  
لئے دوا تجویز فرماتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار اس کا علاج ہے۔“

﴿2﴾..... امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے ارشاد فرمایا: ”تجرب ہے اس شخص پر جو  
سامانِ نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔“ پوچھا گیا: ”سامانِ نجات کیا ہے؟“ فرمایا: ”استغفار۔“

﴿3﴾..... انہی سے مروی ہے کہ ”اللہ جبار و قہار جسے عذاب دینے کا ارادہ فرمالتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔“

①..... کنز العمال، کتاب الاذکار، باب فی الدعاء، الحدیث: ۵۰۴۹، ج ۲، ص ۲۸۷، مفہومًا۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، الحدیث: ۶۳۰، ج ۴، ص ۱۹۰، باختصار۔

﴿4﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّزَّاقِ فرماتے ہیں: بندہ ”اَسْتَغْفِرُ اللهُ“ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ (مولیٰ!) مجھے بخش دے۔

﴿5﴾..... علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہوتا ہے۔ ان دونوں کے لئے الْحَمْدُ لِلَّهِ اور اَسْتَغْفِرُ اللهُ ہے (یعنی حصولِ نعمت پر حمد و ثناء اور ارتکابِ گناہ پر توبہ و استغفار کرے)۔

﴿6﴾..... حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے: ”اَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ“ یعنی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔“ کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا (یعنی استغفار نہ کیا) تو یہ جھوٹ اور گناہ ہوگا۔ ہاں! یوں کہنا چاہئے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ“ یعنی یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری مغفرت فرما اور توبہ قبول فرما۔“

﴿7﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَهَّابِ فرماتے ہیں: ”ترکِ گناہ کے بغیر توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔“

﴿8﴾..... حضرت سیدنا رابعہ عدویہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهَا فرماتی ہیں: ہماری توبہ کو بھی بہت سی توبہ کی ضرورت ہے۔

﴿9﴾..... حکماء کا کہنا ہے: نادم ہوئے بغیر توبہ کرنے والا گویا لاعلمی میں اللہ رب العزت سے مذاق کرنے والا ہے۔

﴿10﴾..... ایک اعرابی کو غلافِ کعبہ سے لپٹ کر یہ کہتے سنا گیا:

اللَّهُمَّ إِنَّ اِسْتِغْفَارِي مَعَ اِصْرَارِي لِلَّوْمِ وَإِنَّ تَرْكِي اِسْتِغْفَارَكَ مَعَ عَلَمِي بِسَعَةِ عَفْوِكَ لَعَجْزٌ فَمَكَ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاكَ عَنِّي وَكَمْ اَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ يَا مَنْ اِذَا وَاوَعَدَ وَفِي وَاِذَا اُوْعِدَ اُدْخِلْ عَظِيمَ جُرْمِي فِي عَظِيمِ عَفْوِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر میں گناہ پر اصرار کے باوجود تجھ سے مغفرت طلب کروں تو یہ ملامت ہے اور تیرے عفو و درگزر کی وسعتوں کا یقین رکھتے ہوئے استغفار نہ کروں تو یہ میری کمزوری ہے۔ تو مجھ پر کتنے ہی انعام و اکرام فرما کر مجھے دوست رکھتا ہے حالانکہ تجھے میری کوئی ضرورت نہیں جبکہ میں تیرا محتاج ہونے کے باوجود تیری نافرمانیاں کر کے تیرے غضب کا شکار ہوتا ہوں۔ اے وعدہ پورا کرنے والے! وعید سنا کر معاف کرنے والے! اے رحم کرنے والے مولیٰ! میرے بڑے جرموں کو اپنے عظیم عفو سے مٹا دے۔

﴿11﴾..... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ وراق عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّزَّاقِ فرماتے ہیں، اگر تیرے گناہ پانی کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو بارگاہِ الہی میں خلوصِ دل سے یہ دعا کر تیرے گناہ مٹا دیئے جائیں گے:

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تَبَّتْ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدَّتْ فِيهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَاوَعَدْتَكَ بِهِ مِنْ نَفْسِي وَكَمْ

أَوْفٍ لَكَ بِهِ، وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ آتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَا أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمٍ. یعنی: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور ان خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں جن کے ترک کا تجھ سے وعدہ کر کے پھر ان میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس عمل سے بھی توبہ کرتا ہوں جو کرنا تو میری رضا کے لئے چاہتا ہوں لیکن اس میں غیر کا خیال شامل ہو جاتا ہے۔ میں اس بات سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے نعمت عطا کرتا ہے اور میں اس سے تیری ہی نافرمانی پر مدد حاصل کرتا ہوں۔ اے ظاہر و باطن کو جاننے والے! اے حلم والے! میں تجھ سے سب گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں چاہے وہ دن کی روشنی میں کیے ہوں یا رات کی تاریکی میں، جلوت میں ہوں یا خلوت میں، علانیہ ہوں یا پوشیدہ۔

منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم و حضرت سیدنا خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کی دعائے استغفار بھی یہی ہے۔



### {..... قبر کا رفیق.....}

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 54 صفحات پر مشتمل کتاب، ’’نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول‘‘ صفحہ 51 پر ہے: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم! نیکی کر کیونکہ یہ جنت کی چابی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ برائی سے اجتناب کر کیونکہ یہ جہنم کی چابی ہے اور اسی کی طرف لے جائے گی۔ اے ابن آدم! یہ بات اچھی طرح جان لے! کہ خرابی پر تجھے تنبیہ (کی جاتی) ہے۔ بے شک تیری عمر خراب ہونے کے لئے، جسم مٹی کے لئے، اور جو کچھ تو نے جمع کیا ہے وہ ورتا کے لئے اور عیش و آرام دوسروں کے لئے ہے جب کہ حساب و کتاب تجھ پر لازم اور سزا و ندامت تیرے لئے ہے۔ اور ’’قبر میں تیرا رفیق‘‘ صرف تیرا عمل ہی ہے لہذا تو خود اپنا محاسبہ کر قبل اس سے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ میری اطاعت کو لازم کر لے، میری نافرمانی سے رُک جا اور میری عطا پر راضی ہو کر شکر گزاروں میں سے ہو جا۔

(مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، المواعظ فی الاحادیث القدسیہ، ص ۵۷)

## باب نمبر 3: انبیائے کرام و بزرگان دین سے منقول 16 دعائیں

﴿1﴾..... دعائے مصطفیٰ بعد از سنتِ فجر:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ایک مرتبہ شام کے وقت میرے والد گرامی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بارگاہ رسالت میں بھیجا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ (میں نے دیکھا کہ) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے رہے پھر فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے بارگاہِ خداوندی میں یوں التجا کی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِيهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِيهَا شَمْلِي وَتَلْمُ بِهَا شَعْبِي وَتَرُدُّ بِيهَا الْفِتْنَ عَنِّي وَتَصَلِّحُ بِيهَا دِينِي وَتَحْفَظُ بِيهَا غَايِبِي وَتَرْفَعُ بِيهَا شَاهِدِي وَتُرْزِقُنِي بِهَا عَمَلِي وَتَبَيِّضُ بِيهَا وَجْهِي وَتَهْلِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتُعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمَرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ ضَعُفَ رَأْيِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَقَصُرَ عَمَلِي وَأَفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاسْأَلُكَ يَا كَافِي الْأُمُورِ وَيَا شَافِي الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْقُبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نَيْبِي وَأَمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرِ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ حَرِيًّا لِأَعْدَائِكَ وَسَلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ نُحِبُّ بِحَبْلِكَ مَنْ أَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِي بَعْدَ أَوْتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ذِي الْجَبَلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرَّكْعَ السُّجُودِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَهْدِ أَنْتَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْوَعْدُ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي تَعْطَفُ بِالْمَجْدِ وَتَكْرُمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي



نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي لِحْيِي وَنُورًا فِي دُمِي وَنُورًا فِي عِظَامِي وَنُورًا مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا وَأَعْطِنِي نُورًا وَأَجْعَلْ لِي نُورًا.

یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کی برکت سے میرا دل ہدایت پر قائم کر دے، میرے متفرق امور جمع فرما اور میرے معاملات درست فرما۔ مجھ سے فتنے دور فرما۔ میرے دین کی اصلاح فرما۔ میرے باطن کی حفاظت، ظاہر کو بلند اور اعمال کو ستھر فرما۔ میرا چہرہ روشن فرما۔ نیکی کی ہدایت عطا فرما، ہر برائی سے بچا۔ اے اللہ عزوجل! مجھے ایمان صادق اور یقین (کامل) عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو اور رحمت عطا فرما جس کے ذریعے میں دونوں جہاں میں تیرے فضل و کرم سے مشرف ہو سکوں۔ یا الہی عزوجل! میں تجھ سے موت کے وقت کامیابی، درجات شہدا، سعادت مندوں جیسی زندگی، دشمنوں پر غلبہ اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! میں اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں اگرچہ میری رائے کمزور، عمل ناقص اور کوشش کوتاہ ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اے معاملات کو کفایت کرنے اور دلوں کو شفا دینے والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو سمندروں کو ملنے سے بچاتا ہے اسی طرح مجھے بھڑکتی آگ کے عذاب، ہلاکت کی آواز اور قبر کی آزمائش سے بچالے۔ اے اللہ عزوجل! جس امر خیر میں میری رائے ناقص اور عمل کم ہو یا وہ میری نیت و خواہش میں شامل نہ ہو اور وہ بھلائی تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے کا وعدہ فرمایا ہو یا وہ بھلائی تو اپنے کسی بندے کو عطا کرنے والا ہو تو اس خیر کی طلب مجھے بھی ہے، اے کل عالم کے پروردگار! میں تجھ سے اس بھلائی کا سوالی ہوں۔ یا اللہ عزوجل! ہمیں رہنمائی کرنے والا اور ہدایت والا بنا، گمراہ اور گمراہ کن نہ بنا۔ تیرے دشمنوں سے لڑنے اور تیرے دوستوں سے صلح کرنے والا بنا۔ تجھ سے محبت کے سبب تیرے فرمانبردار بندوں سے محبت اور تیرا حکم نہ ماننے والے تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا بنا۔ یا اللہ عزوجل! یہ دعا قبول فرمانا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ کوشش ہے اور بھروسہ تجھی پر ہے۔ ہم اللہ عزوجل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت بلندی و عظمت والے اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے۔ اے دین متین اور سیدھی راہ کے مالک! میں تجھ سے روز جزا امن کا اور بیشکگی کے دن مقربین و شاہدین اور رکوع و سجود کرنے والوں اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں بے شک تو رحم اور محبت کرنے والا ہے اور تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو صاحب عزت ہے اور اس کے سبب ہر ایک پر غالب ہے۔ پاک ہے وہ جو بزرگ ہو اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی کی پاکی بیان

کرنا جائز نہیں۔ پاک ہے وہ جو فضل و انعام فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو عزت و کرم والا ہے۔ پاک ہے جس کے علم میں ہر شے کا شمار ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے دل میں نور بھر دے، میری قبر کو نور کر دے، میری سماعت و بصارت نورانی بنا دے، میرے بال، گوشت، خون اور ہڈیوں میں نور ڈال دے۔ میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے نور کر دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے نور میں اضافہ فرما، مجھے نور عطا فرما اور مجھے نور بنا دے۔<sup>(۱)</sup>

## ﴿۲﴾..... جامع اور کامل دعا:

سردارانِ نبیاء، محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: ”جامع اور کامل دعائیں مانگا کرو اور یوں عرض گزار ہوا کرو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر بھلائی کا طالب ہوں وہ بھلائی چاہے جلدی ہو یا دیر سے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے ہر برائی سے پناہ چاہتا ہوں چاہے وہ جلد آنے والی ہو یا تاخیر سے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے قریب کرنے والے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے خاص بندے اور رسول حضرت محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے کیا اور اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے خاص بندے اور رسول حضرت محمد (صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے پناہ چاہی۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے بارے میں تو نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کا انجام بخیر ہو۔<sup>(۲)</sup>

## ﴿۳﴾..... دُعَاۓ دَافِعِ رُجْحٍ وَالمِوْغَمِ:

پیکرِ حسن و جمال، نبیِ آمنہ کے لال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: اے فاطمہ! میری نصیحت سننے سے

①..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب الدعاء بعد رکعتی الفجر، الحدیث: ۱۱۱، ج ۲، ص ۱۶۶-۱۶۷، بتغییر۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، الحدیث: ۳۸۴، ج ۴، ص ۲۷۱، مفہومًا۔

تمہیں کچھ مانع تو نہیں؟ پس یوں کہا کرو: ”يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكْلِيْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ دُ شَأْنِيْ كَمَا تَهْتَدِيْ الْعُرْوَةُ لِغَلِيظِ الشَّجَرِ“۔ یعنی اے زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے! میں تیری رحمت کے بھروسے مدد مانگ رہی ہوں پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب کام بنادے۔“ (۱)

#### ﴿4﴾..... دُعَاةُ صِدِّيقِ الْكَبِيْر:

حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے امير المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو یہ دعا سکھائی:

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِمِحْمَدٍ نَبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوسَى نَجِيْبِكَ وَعِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوْحَكَ وَبِتُوْرَاةِ مُوسَى وَاِنْجِيْلِ عِيسَى وَزَبُوْرٍ دَاوُدَ وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحِيْتَهُ اَوْ قَضَاءِ قَضِيَّتِهِ اَوْ سَائِلِ اَعْطَيْتَهُ اَوْ غَنِيٍّ اَفْقَرْتَهُ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهُ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَهُ عَلَيَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ بَثَّتْ بِهِ اَرْزَاقَ الْعِبَادِ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَيَّ الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَيَّ السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَيَّ الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ اسْتَقَلَّ بِهِ عَرْشُكَ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوَتْرِ الْمُنَزَّلِ فِيْ كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّوْرِ الْمُبِيْنِ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ وَضَعْتَهُ عَلَيَّ النَّهَارِ فَاسْتَبَارَ وَعَلَيَّ اللَّيْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظَمَتِكَ وَكِبَرِيَاةِكَ وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ بِهِ وَتَخْلِطَ لِيْ بِلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصْرِيْ وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِيْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَانَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! تیرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام کے وسیلے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبور، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے قرآن، تیری ہر نازل کردہ وحی، تیرے فرمائے ہوئے ہر فیصلے، جسے تو نے عطا کیا اس سائل، جس غنی کو تو نے فقیر کیا، جس محتاج کو تو نے امیر کیا اور جس گمراہ کو تو نے ہدایت دی (ان تمام) کے وسیلے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تیرے اس نام کے وسیلے سے جسے تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، تیرے اس نام کے وسیلے سے جس کے صدقے تو مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے۔ تیرے اس نام کے واسطے سے جسے تو نے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۷۶، ج ۱، ص ۷۶۔

زمین پر رکھا تو وہ قرار پڑ گئی۔ تیرے اس نام کے طفیل جسے تو نے آسمانوں میں رکھا تو وہ بلند ہو گئے، تیرے اس نام کے وسیلے جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے اور تیرے اس نام کے صدقے سوال کرتا ہوں جس سے عرش قائم ہے۔ تیرے اس نام کے واسطے دعا کرتا ہوں جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، یکتا ہے، تیری نازل شدہ کتاب میں تیری طرف سے جو روشن نور ہے اس کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ پیش کرتا ہوں جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ تیری عظمت و کبریائی اور تیرے وجہ کریم کے نور کے وسیلے دُعا گو ہوں کہ مجھے قرآن یاد کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے میرے گوشت، خون اور سماعت و بصارت میں ملادے اور اپنی قوت و توفیق سے میرے بدن کو اس کے مطابق استعمال فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق تیری ہی طرف سے ہے۔<sup>(۱)</sup>

### ﴿۵﴾.....اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟

مروی ہے کہ تاجدارِ کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: ”اے بریدہ! میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جنہیں صرف وہ سیکھ پاتا ہے جس کے ساتھ اللہ عزَّ وَّجَلَّ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ انہیں کبھی بھولنا مت۔“ عرض کی: ”ضرور! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔“ فرمایا، پڑھو: ”اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوٍ فِي رِضَاكَ ضَعِيفٌ وَخَذُّ إِلَى الْخَيْرِ بِنِاصِيئَتِي وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوٍ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَاعْزِزْنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! میں کمزور ہوں اپنی رضا حاصل کرنے پر مجھے قوت دے۔ میری پیشانی بھلائی کی طرف پھیر دے۔ میری رضا صرف دین اسلام بنا دے، اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! میں ناتواں ہوں تو انا کر دے۔ ذلیل ہوں عزت عطا کر۔ محتاج ہوں غنی کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!“<sup>(۲)</sup>

### ﴿۶﴾.....کوڑھ، برص، فالج سے نجات دینے اور داخل جنت کرنے والے کلمات:

حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے کلمات بتائیں جنہیں اللہ عزَّ وَّجَلَّ میرے لئے نافع بنا دے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کئی ایسے اعمال جو پہلے میں کیا کرتا تھا اب ان سے عاجز آچکا ہوں۔“ رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

①.....جامع الاصول، الفصل التاسع في دعاء الحفظ، الحديث: ۲۳۰، ج ۴، ص ۲۲۹، مختصراً۔

②.....المعجم الاوسط، الحديث: ۶۵۸۵، ج ۵، ص ۶۲، دون قوله: يا ارحم الراحمين۔

فرمایا: تمہاری دنیا (کی بہتری) کے لئے یہ دعا ہے بعد نماز فجر اسے تین مرتبہ پڑھ لیا کرو ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“. یعنی اللہ عزوجل پاک ہے اور تعریفیں اسی کے لئے ہیں، اللہ عزوجل پاک ہے عظمت والا۔ گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت عظمت و بلندی کے مالک اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے۔“ (۱)

پس اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی تو تم غم، کوڑھ، برص اور فالج سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

اور تمہاری آخرت کے لئے (مفید) دُعا یہ ہے: ”اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ“. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی جناب سے ہدایت عطا فرما، اپنے فضل سے بہرہ مند فرما، مجھ پر اپنی رحمت برسا اور اپنی برکتیں نازل فرما۔“

اس کے بعد رسول کریم، محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو ان کلمات کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا بروز قیامت اس کے لئے جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“

### ﴿7﴾..... ہر نقصان سے حفاظت کی دعا:

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں ایک دفعہ آگ لگ گئی کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا ہے۔ فرمایا: ”اللہ عزوجل ایسا نہیں ہونے دے گا۔“ انہیں تین بار یہ خبر دی گئی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں یہی کہتے اللہ عزوجل ایسا نہیں ہونے دے گا۔ پھر ایک شخص نے آکر بتایا: ”اے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ! محلے میں لگنے والی آگ جب آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو بجھ گئی۔“ یہ سن کر فرمایا: ”مجھے معلوم تھا۔“ پوچھا گیا: ”آپ کی بات حیران کن ہے اصل معاملہ کیا ہے؟“ فرمایا: ”میں نے رحمت عالمیان، سرور انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جو شخص دن یارات میں یہ کلمات پڑھ لے گا اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور میں نے پڑھ لئے تھے۔“ وہ کلمات یہ ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ

①..... المعجم الكبير، من اسمه قبضة، الحديث: ۹۴، ج ۱، ص ۳۶۸، باختصار۔

کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب الثامن فی الدعاء، الحديث: ۳۷۰، ج ۲، ص ۸۴، مفہومًا۔

شَىءٍ عَدَدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تو بڑے عرش کا مالک ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت عظمت و بلندی کے مالک اللہ عزوجل کی طرف سے ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ عزوجل ہرچاہے پر قادر ہے۔ بے شک اس کا علم ہر چیز کو محیط اور ہر چیز اس کے شمار میں ہے۔ اے اللہ عزوجل! میں اپنے نفس اور زمین پر چلنے والی ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی چوٹی تیرے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب عزوجل سیدھے راستے پر ملتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### ﴿8﴾..... سارے دن کے شکرانے کی دعا:

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے: ”اللَّهُمَّ هَذَا خَلْقٌ جَدِيدٌ فَاقْتَحِرْ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَاخْتِمِ لِي بِمَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ وَأَرْزُقْنِي فِيهِ حَسَنَةً تَقْبَلُهَا مِنِّي وَرِزْقَهَا وَضَعْفَهَا لِي وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاعْفُرْهَا لِي إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَدُودٌ كَرِيمٌ. یعنی اے اللہ عزوجل! یہ (صبح) ایک نیا آغاز ہے اس میں مجھ پر اپنی اطاعت کے راستے کھول دے اور اس کا اختتام اپنی رضا و بخشش کے ساتھ فرما۔ آج کے دن مجھے نیکی کی توفیق دے اور پھر اسے قبول اور پاک فرما اور میرے نامہ اعمال میں (اس کا اجر) دگننا فرما اور مجھ سے ہونے والی برائی معاف فرما۔ بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔“

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: جس شخص نے بوقت صبح یہ دعا پڑھ لی اس نے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔

### ﴿9﴾..... دعائے عیسیٰ:

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام یوں دعا فرمایا کرتے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي وَأَصْبَحْتُ مَرْتَهَنًا بِعَمَلِي فَلَا فُقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَلَا تُسَيِّءْ بِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مِنْ لَدُنِّي يَا حَيُّ

①..... الدعاء للطبرانی، القول عند الصباح والمساء، الحديث ۳۴۳، ص ۱۲۸-۱۲۹، دون قوله: واحصى كل شئى عددا۔

يَا قَيُّوْمُ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں ناپسندیدہ چیز کو دور نہیں کر سکتا اور جس نفع کا طلبگار ہوں اس کا مالک نہیں۔ معاملہ کسی اور (یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ) کے دستِ قدرت میں ہے اور میری جان (گویا) گروی ہے میرے اعمال کے بدلے۔ مجھ سے زیادہ کوئی بھی محتاج نہ ہوگا۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا اور مجھ سے میرے دوست پریشان نہ ہوں۔ مجھے دینی مصائب سے محفوظ فرما اور (حصول) دنیا میرا مقصد نہ بنا۔ اے زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے! مجھ پر کوئی ایسا (حاکم) نہ بنانا جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

### ﴿10﴾..... ڈوبنے اور چوری سے حفاظت کی دعا:

منقول ہے کہ ایام حج میں جب حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علیہما السلام کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ کلمات پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے: ”بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ اِلَّا اللّٰهُ. یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے اس کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے ہر بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہی دستِ قدرت میں ہے، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے برائیوں کو ٹالنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی نہیں۔“

جو یہ دعا صبح تین مرتبہ پڑھ لے گا جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔

### ﴿11﴾..... دین و دنیا کی بھلائی کے حصول کی دعا:

حضرت سیدنا محمد بن حسان علیہ رحمۃُ الغنّان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا معروف کرخنی علیہ رحمۃُ اللہ القوی نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں 10 کلمات نہ سکھاؤں جن میں سے پانچ دنیوی (بہتری) کے لئے اور پانچ اخروی (بہتری) کے لئے ہیں؟ جو ان کلمات کے ذریعہ اللہ رب العزت عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کرے گا ان (کلمات) کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں پائے گا۔“ حضرت سیدنا محمد بن حسان علیہ رحمۃُ الغنّان نے فرمایا: ”مجھے یہ لکھ دیجئے۔“ فرمایا: نہیں! میں تمہارے سامنے ان کلمات کی تکرار کرتا ہوں جس طرح بکر بن حنیس رحمۃُ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سامنے کی تھی:

حَسْبِيَ اللّٰهُ لِيَدِينِي حَسْبِيَ اللّٰهُ لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللّٰهُ الْكُرَيْمُ لِمَا اَهْمَنِي حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللّٰهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ حَسْبِيَ اللّٰهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللّٰهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِيَ اللّٰهُ

الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یعنی میرے دین و دنیا کے لئے مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کافی ہے۔ غموں سے چھٹکارے کے لئے مجھے خدائے کریم کافی ہے۔ جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے لئے حلم و قوت و الارباب کریم کافی ہے۔ جو میری طرف برائی بڑھائے اس کے لئے سخت پکڑ فرمانے والا رب عَزَّوَجَلَّ کافی ہے۔ موت کے وقت مجھے رحم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کافی ہے۔ قبر میں (منکر نکیر کے) سوالات کے وقت مجھے مہربان خدائے عَزَّوَجَلَّ کافی ہے۔ حساب و کتاب کے وقت کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے کافی ہے۔ لطف و کرم فرمانے والا پروردگار عَزَّوَجَلَّ مجھے میزانِ عمل پر کافی ہے۔ قدرت و الارباب عَزَّوَجَلَّ مجھے پل صراط پر چلتے وقت کافی ہے۔ مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کافی ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

حضرت سیدنا ابودرداء عَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں: جَوْشَنُ يَهُدَا "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۹) ترجمہ کنز الایمان: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔" روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تمام اُخروی امور میں کفایت کرے گا اگر چہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔<sup>(۱)</sup>

## ﴿12﴾..... جنت میں داخلے کی دعا:

حضرت سیدنا عتبہ غلامِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ رَبِّ الْأَنْكَامِ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی تو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اس سے فرمایا، میں ان کلمات کی برکت سے داخل جنت ہوا ہوں: "اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضَلِّينَ وَيَا رَاحِمَ الْمُدْنِيِّينَ وَيَا مَقْبِلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْأَخْيَارِ وَالْمُرْزُوقِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے! اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے! اے خطاکاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے! بڑے خطرات میں گھرے اپنے بندے پر اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں پسندیدہ، خوش نصیب اور جن پر تو نے فضل کیا یعنی انبیاء،

صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار! میری دعا قبول فرما۔" (۲)

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۱، مفہومًا۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۲۔



### ﴿13﴾..... رنج و الم اور محتاجی سے نجات کی دعا:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول کرنا چاہی تو آپ علیہ السلام نے سات مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اس وقت کعبہ کی عمارت نہ تھی بلکہ وہاں ایک سرخ ٹیلہ تھا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر دو رکعت نفل ادا کئے اور یوں دعا کی: ”اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مُعْذِرَتِي وَتَعْلَمْ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ عَلَيَّ وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتَهُ لِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ” یعنی اے اللہ عزوجل! تو میرے ظاہر و باطن سے واقف ہے میرا عذر قبول فرما۔ میری حاجت جانتا ہے میرا سوال پورا فرما۔ میرے دل میں کیا ہے تو اس سے بھی باخبر ہے میری لغزشیں معاف فرما۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے پختہ ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سو اس کے جو تو نے (اپنے علم ازل سے) میرے مقدر میں لکھ دی۔ اے عظمت و بزرگی والے! تو نے میری جو قسمت بنائی ہے اس پر راضی رہنے کی تو یقین عطا فرما۔“

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی یہ کلمات پڑھ کر مجھ سے دعا مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کے غم و الم دور کر دوں گا اور اس کے سامنے سے فقر دور کر دوں گا، ہر تاجر سے زیادہ اسے نفع عطا فرماؤں گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہتا ہوگا۔

### ﴿14﴾..... تسبیحات باری تعالیٰ:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول خدا، احمد مجتہبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل روزانہ اپنی بزرگیوں بیان فرماتا ہے:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَفْوُ الْغَفُورُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّيَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خَالِقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، الْفَرْدُ الْوَتَرُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ

الْبَارِي الْمَصُورُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى الْمُقْتَدِرُ الْقَهَّارُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَعْلَمُ السِّرِّ وَأَخْفَى، الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ فَوْقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ.

یعنی بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنہار۔ بلاشبہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہوں۔ میں ہی رب ہوں عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے مجھ عظمت و بلندی والے کے۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ میں اللہ ہوں معاف کرنے والا، بخشنے والا میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تحقیق میں ہی رب ہوں ہر چیز کو آغاز دینے والا اور ہر چیز میری ہی طرف لوٹے گی، سوائے میرے کوئی معبود نہیں۔ عزت و حکمت والا ہوں۔ بڑا مہربان رحمت والا ہوں۔ روز جزا کا مالک ہوں۔ خیر و شر اور جنت و دوزخ کا خالق ہوں۔ ایک ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، وہ ذات ہوں جس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، تنہا اور طاق ہوں۔ ظاہر و چھپا سب جانتا ہوں۔ بادشاہ، نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت کرنے والا، عزت و عظمت اور تکبر والا ہوں۔ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہوں۔ بڑا، بلند، قدرت والا، غلبے والا، بردبار اور کرم فرمانے والا ہوں۔ ثنا اور بزرگی کے لائق ہوں۔ میں پوشیدہ اور مخفی امور کو خوب جانتا ہوں۔ قدرت والا اور رزق عطا کرنے والا ہوں۔ مخلوق و تخلیق سے بالا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

یہاں ہر کلمہ سے پہلے ”اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا“ مذکور ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جو شخص ان اسمائے حسنیٰ کے ساتھ دعا مانگنا چاہے وہ ”اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا“ کے بجائے ”اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ“ پڑھے بقیہ کلمات اسی طرح پڑھے۔ جو آدمی یہ دعا مانگے وہ ان سجدہ کرنے والوں اور عاجزی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے جو روز قیامت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور دیگر انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کے پڑوس میں ہوں گے، اسے زمین و آسمان میں عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔

## ﴿15﴾..... بارگاہِ رب العزت میں بلند مرتبہ تسبیحات:

رُوم کے علاقے میں شہید ہونے والے ایک شخص کو حضرت سیدنا یونس بن عبیدرحمۃ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ نے خواب میں

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس فی ذکر الادعیۃ المختارۃ..... الخ، ج، ص ۲۷-۲۸، باختصار۔

دیکھ کر پوچھا: تم نے اس جہاں میں کس عمل کو افضل پایا؟ شہید نے جواب دیا: حضرت سیدنا سلیمان بن معتمر تیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی جو تسبیحات پڑھا کرتے تھے انہیں میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بلند درجہ پایا وہ تسبیحات یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَمِلءَ مَا خَلَقَ وَمِلءَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَمِلءَ سَمَوَاتِهِ وَمِلءَ أَرْضِهِ وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ حَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقَهُ فِي جَمِيعِ مَاضِي وَعَدَدَ مَا هُمُ ذَاكِرُونَ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ وَشَمِّ وَنَفْسٍ مِنَ الْأَنْفَاسِ وَأَبَدٍ مِنَ الْأَبَادِ مِنْ أَبَدٍ إِلَى أَبَدٍ الدُّنْيَا وَأَبَدٍ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ. یعنی اللہ عزوجل پاک ہے، سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت و بلندی والے اللہ عزوجل کی طرف سے ہے۔ وہ جو کچھ پیدا فرما چکا اور جو پیدا فرمائے گا اس کی تعداد، وزن اور ان کی جگہوں کی مقدار بھر، زمین و آسمان کی مقدار بھر، اس کے برابر اور اس سے دگنا، اس کی مخلوق کی تعداد، عرش کے وزن، اس کی انتہائے رحمت، اس کے کلمات کی روشنائی، اس کی رضا حاصل کرنے تک اور جب وہ راضی ہو، تمام مخلوق نے جو ذکر کیا اور جو کرے گی اس کی تعداد برابر، ہر سال، مہینے، جمعے اور شب و روز کے اوقات اور ہر ساعت، ہر سانس اور دنیا آباد رہنے اور آخرت باقی رہنے تک اور اس سے بھی زیادہ، نہ اس کا آغاز ٹوٹے نہ آخر ختم ہو (تنی تعداد و مقدار میں اللہ عزوجل کی تسبیح کرتا ہوں)۔

## ﴿16﴾..... دعائے ابراہیم بن ادہم:

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے خادم حضرت ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر جمعہ کی صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَرْيَدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِيدِ وَالْكَاتِبِ وَالشَّهِيدِ يَوْمَنَا هَذَا يَوْمَ عِيدِ أَوْ كُتِبَ لَنَا فِيهِ مَا نَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ الرَّفِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَالِ فِي خَلْقِهِ مَا يَرِيدُ، أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مُصَدِّقًا وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا وَمِنْ ذُنُوبِي مُسْتَغْفِرًا وَلِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ خَاضِعًا وَلِسُؤْيِ اللَّهِ فِي الْإِلَهَةِ جَاحِدًا وَاللَّهِ فَقِيرًا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلًا وَاللَّهِ مُنِيبًا أَشْهَدُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيََاءَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَمَنْ خَلَقَهُ وَمَنْ خَلَقَهُ بِأَنَّهُ هُوَ خَالِقُهُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ



پیدا فرما چکا اور جو پیدا فرمائے گا ان تمام کو گواہ بناتا ہوں کہ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، بے شک جنت و دوزخ، حوض کوثر، شفاعت اور منکر کبیر کے سوالات حق ہیں، (اے اللہ عزوجل) تیرا وعدہ سچا ہے، تیری وعید درست ہے، تجھ سے ملاقات سچ ہے۔ بیشک قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ عزوجل قبر والوں کو (روز قیامت) اٹھائے گا۔ میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں، اسی پر مروں گا اور اسی پر (روز محشر) اٹھایا جاؤں گا اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ۔ اے اللہ عزوجل! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے اور ہر شریک کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پس تو میرے گناہ بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ مجھے اخلاقِ حسنہ اپنانے کی توفیق مرحمت فرما کہ یہ توفیق بھی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہے۔ مجھ سے بد اخلاقی کو دور فرما کہ یہ دوری پیدا کرنا بھی صرف تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ عزوجل! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہر بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، تجھ ہی سے لوگی ہوئی ہے، تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! تو نے جو رسول مبعوث فرمائے اور جو کلام نازل فرمایا میں ان سب پر ایمان لایا اور جو کچھ میں نے کہا اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ اللہ عزوجل کی رحمت اور خوب سلام ہو امی نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام انبیاء و رسل پر۔ اے کل جہاں کے پروردگار! عزوجل میری عرض قبول فرما۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر آنے کی سعادت نصیب فرما، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے سے ایسا مشروب پلا جو خوب عمدہ اور سیراب کرنے والا ہے، اس کے بعد ہم پر کبھی پیاس طاری نہ ہو۔ بغیر کسی ذلت کے ہمارا حشر گروہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فرمانا۔ ہم نہ وعدہ خلاف بنیں، نہ شکی، نہ فتنے میں پڑیں، نہ تیرے غضب کا شکار ہوں اور نہ ہی گمراہ ہوں۔ اے اللہ عزوجل! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما اور اپنی مشیت و رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے سب احوال درست فرما دے۔ دُنیا و آخرت میں کلمہ شہادت پر استقامت عطا فرما۔ اگرچہ میں زیادتی کرنے والا ہوں لیکن مجھے گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ تو پاک ہے، اے عظیم، اے باری، اے رحیم، اے عزیز، اے جبار۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح تمام آسمانوں کے ہر کوئے میں بیان کی جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح سمندر اپنی موجوں سمیت بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح پہاڑ اپنی گونج سے کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح مچھلیاں اپنی زبانوں سے کرتی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح آسمانوں میں ستارے اپنے بروجوں سے بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ

ذات جس کی تسبیح درخت اپنے پھولوں اور جڑوں سے بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اپنے اندر موجود اشیاء سے بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح ہر مخلوق کرتی ہے۔ تو برکت والا ہے، بلند و بالا ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو پاک ہے۔ اے زندہ! اے دوسروں کو قائم رکھنے والے! اے علم والے! اے بردبار! تو پاک ہے، تو ہی معبود ہے۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو خود زندہ ہے تجھے کبھی موت نہ آئے گی۔ خیر صرف تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ بے شک تو ہر چاہے پر قادر ہے۔



### {..... آٹھ (8) روحانی علاج .....}

- ❁..... هُوَ اللَّهُ الرَّحِيمُ - جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اُس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔
- ❁..... يَا مَلِكُ - 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ غربت سے نجات پا کر مالدار ہو۔
- ❁..... يَا قُدُّوسُ - کا جو کوئی دورانِ سفر ورد کرتا رہے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تھکن سے محفوظ رہے گا۔
- ❁..... يَا عَزِيزُ - 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔
- ❁..... يَا بَارِئُ - 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اُس کو بیٹا عطا ہوگا۔
- ❁..... يَا قَتَاتِرُ - 70 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مستجاب الدعوات ہوگا (یعنی ہر دعا قبول ہوا کرے گی)۔
- ❁..... يَا حَكِيمُ - 80 بار جو روزانہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔
- ❁..... يَا جَبَلِيْلُ - 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ چوری سے محفوظ رہے۔ (ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے) (فیضان سنت، ج ۱، ص ۶۸ تا ۷۰ املتنقطاً)

## قرآن و حدیث میں وارد نماز کے

باب نمبر 4:

### بعد کی دعائیں

طالبِ آخرت کے لئے مستحب ہے کہ صبح کے وقت اس کا پسندیدہ وظیفہ دُعا ہونی چاہئے، اس کا مزید بیان ”کتاب الاوراد“ میں آئے گا۔ تو اگر تم آخرت کی کھیتی اور دُعا میں حبیبِ خدِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے خواہشمند ہو تو نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں کا آغاز ان کلمات سے کرو۔

### نماز کے بعد مانگی جانے والی 27 دعائیں:

﴿۱﴾.....سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی میرا پروردگار عَزَّوَجَلَّ پاک، بلند، اعلیٰ اور بہت عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں، وہ تہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی، تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱)

﴿۲﴾.....یہ کلمات تین مرتبہ پڑھو: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. یعنی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ (۲)

﴿۳﴾.....الْهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهٗ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے! ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے! ہر شے کے پروردگار و مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں۔ میں نفس و شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

﴿۴﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَأَقِلْ عَثْرَاتِي

①.....صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، الحدیث: ۵۹، ص ۲۹۸، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل الخامس فی ذکر الادعية المختارة..... الخ، ج ۱، ص ۱۹۔

②.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، الحدیث: ۱۸۹۹، ج ۷، ص ۱۲۔

③.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۰۳، ج ۵، ص ۲۵۲۔

وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے دین و دنیا، اہل عیال اور اپنے مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ عزوجل! میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مجھے خوف سے امن عطا فرما، میری خطائیں معاف فرما، دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھے نیچے سے ہلاک کیا جائے۔ (۱)

﴿۵﴾..... اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنِي مُكْرَكَ وَلَا تَوْلِيِي غَيْرَكَ وَلَا تَنْزِعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تَنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے غافل نہ کر، مجھے غیروں کے حوالے نہ کر، مجھ سے اپنا پردہ نہ چھین، مجھے اپنا ذکر نہ بھلا اور غافل لوگوں میں شامل نہ فرما۔ (۲)

﴿۶﴾..... يه دعائین مرتبہ پڑھے: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤُ بَدَنِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّكَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کئے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری دی ہوئی نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں پس میرے گناہ بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ (۳)

﴿۷﴾..... يه دعا بھی تین مرتبہ پڑھے: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! میرے جسم اور میری سماعت و بصارت کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ (۴)

﴿۸﴾..... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ أَوْ أَكْسِبَ خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تقدیر پر راضی رہنے، موت کے بعد راحت بھری زندگی پانے، تیرے کرم والے چہرے

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما يدعوه الرجل..... الخ، الحدیث: ۳۸۷، ج ۴، ص ۲۸۵، بتغییر۔

②..... المقاصد الحسنة، حرف الهمزة، الحدیث: ۱۷۳، ص ۱۰۰، دون "ولاتولی غیرک"۔

قوت القلوب، الفصل الثالث عشر فیہ کتاب جامع..... الخ، ج ۲، ص ۶۲۔

③..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، الحدیث: ۶۳۰، ج ۴، ص ۱۹۰، دون "ثلاث مرات"۔

④..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا..... الخ، الحدیث: ۵۰۹، ج ۴، ص ۲۱۹۔



کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور بغیر کسی تکلیف اور گمراہ کن فتنے کے تجھ سے شوقِ ملاقات کا سوال کرتا ہوں۔ ظالم و مظلوم بننے، زیادتی کرنے اور زیادتی کئے جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس گناہ یا خطا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو تو نہ بخشے۔ (۱)

﴿۹﴾..... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَالْعَزِیْمَةَ فِی الرَّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا سَلِیْمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِیْمًا وَّلِسَانًا صَادِقًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعَلَّمُ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمُ فَانْتَكَ تَعَلَّمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے امورِ دینیہ پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختہ مزاجی کا سوال کرتا ہوں۔ تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور احسن طریقے سے تیری عبادت بجالانے کا سوال کرتا ہوں۔ عاجزی و سلامتی والا دل، اچھے اخلاق، سچی زبان اور مقبول عمل کا سوالی ہوں۔ میں تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا اور برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے اور خطاؤں سے معافی کا طلبگار ہوں جنہیں تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو سب غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ (۲)

﴿۱۰﴾..... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا سَرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا نَتَّ اَعْلَمُ بِہِ مِنْیْ فَانْتَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَعَلٰی كُلِّ غَیْبٍ شَہِیْدٌ. یعنی اے اللہ عزوجل! میرے اگلے پچھلے، علانیہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما اور انہیں بھی بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ آنے والے اور پیچھے ہٹانے والے تو ہی ہے اور تو ہر چاہے پر قادر اور ہر پوشیدہ امر کو جانتا ہے۔ (۳)

﴿۱۱﴾..... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِیْمَانًا لَا یَرْتَدُّ وَنَعِیْمًا لَا یَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَیْنِ الْاَبَدِ وَمَرَاْفَقَةَ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ اَعْلٰی جَنَّةِ الْخُلْدِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے اس ایمان کا طالب ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو اور اس نعمت کا جو ختم نہ ہو اور میں تجھ سے آنکھوں کی دائمی ٹھنڈک اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے اعلیٰ درجے میں تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ (۴)

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث زید بن ثابت، الحدیث: ۲۱۷۴، ج ۸، ص ۱۵۶-۱۵۷۔

②..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۱۸، ج ۵، ص ۲۵۹، بحذفِ قلیل۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب التعوذ من شر ما..... الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۔

دون قولہ: وعلی کل غیب شہید۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۶۶، ج ۲، ص ۳۱، مفہومًا۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۹، ج ۲، ص ۶۰، دون قولہ: وقرة عین الابد۔

﴿۱۲﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبَّبَ الْمَسَاكِينَ أَسْأَلُكَ حَبْلِكَ وَحَبَّ مَنْ أَحْبَبَكَ وَحَبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حَبْلِكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُونٍ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے پاکی، نیک افعال، ترک گناہ اور محبت مساکین کا سوالی ہوں۔ میں تجھ سے تیری، تجھ سے محبت کرنے والوں کی اور تیری محبت کی طرف راغب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ میری التجا ہے کہ تو میری توجہ قبول فرما، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے کسی فتنے میں ڈالے بغیر وہاں سے اٹھالے۔ (۱)

﴿۱۳﴾.....اللَّهُمَّ بَعْلَمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرَ وَكَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَ الشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَاللَّهْمَّ زِينَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَأَجْعَلْنَا هِدَاةً مُهْتَدِينَ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے علم غیب اور مخلوق پر قدرت کے صدقے مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو موت عطا فرما، میں تجھ سے جلوت و خلوت میں ڈرنے، خوشی و غمی میں دامن عدل تھامے رہنے، امیری و غربتی میں میانہ روی اختیار کرنے، تیری زیارت کا لطف پانے اور تیری ملاقات کا شوق رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تکلیف اور گمراہ کن فتنے سے۔ اے اللہ عزوجل! ہمیں زینتِ ایمان سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا۔ (۲)

﴿۱۴﴾.....اللَّهُمَّ أَقْسَمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلِغُنَا بِهِ جَنَّاتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوُونَ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہمیں اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اپنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور ہمیں یقین کی دولت عطا کر کہ پھر ہمیں دنیا و آخرت کے مصائب کی پرواہ نہ رہے۔ (۳)

﴿۱۵﴾.....اللَّهُمَّ أَمَلًا وَجُوهَنَا مِنْكَ حَيَاءً وَقُلُوبَنَا مِنْكَ فَرَقًا وَأَسْأَلُكَ فِي نَفْسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ مَا تَدْلِيلُ بِهِ جَوَارِحُنَا لِيُخَلِّمَتِكَ وَأَجْعَلْكَ اللَّهُمَّ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّنْ سِوَاكَ وَأَجْعَلْنَا أَحْسَنَى لَكَ مِمَّنْ سِوَاكَ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہمارے چہروں کو حیا

①.....سنن الترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة ص، الحدیث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۵۹، باختصار۔

کتاب الدعاء للطبرانی، ماکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوه فی..... الخ، الحدیث: ۱۲۱۴، ص ۴۱۸، لم یذکر فیہ "الطیبات"۔

②.....سنن النسائی، کتاب السہو، نوع آخر، الحدیث: ۱۳۰، ص ۲۲۵۔

③.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۵۱۴، ج ۵، ص ۳۰۱۔

سے اور ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے بھر دے۔ ہمارے اندر اپنی عظمت و جلالت اس قدر ڈال دے کہ ہمارے اعضاء تیرے فرمانبردار بن جائیں۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمیں غیروں کے بجائے سب سے زیادہ اپنی محبت و خوف عطا فرما۔

﴿۱۶﴾..... اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً وَمَغْفِرَةً. یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! ہمارے آج کے دن کا آغاز اصلاح، وسط کامرانی اور اختتام کامیابی کے ساتھ فرما۔ اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! آج کے دن کی ابتداء رحمت، درمیان نعمت اور آخرت و مغفرت کے ساتھ ہو۔ (۱)

﴿۱۷﴾..... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعُ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَاسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَأَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ وَتَصَاغَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكِبْرِيَّاتِهِ. یعنی سب خوبیاں اللہ عزَّ وَّجَلَّ کو جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سرنگوں ہے، جس کی عزت کے آگے ہر شے سر جھکائے ہوئے ہے، جس کی سلطنت میں ہر چیز اس کے تابع ہے اور جس کی قدرت کے سامنے ہر ایک سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔ سب خوبیاں اس خدا کو جس کے جلال کے باعث ہر شے ساکن ہے، جس نے ہر شے کو اپنی حکمت سے ظاہر فرمایا اور جس کی بڑائی کے سامنے ہر شے چھوٹی ہے۔ (۲)

﴿۱۸﴾..... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل، اولاد اور ازواج پر اور برکت دے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل، اولاد اور ازواج کو جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو دونوں جہاں میں برکت دی، بے شک تو ہی سب خوبیوں والا عزت والا ہے۔ (۳)

﴿۱۹﴾..... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ رَسُولِكَ الْأَمِينِ وَأَعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ يَوْمَ الدِّينِ. یعنی اے اللہ عزَّ وَّجَلَّ! رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے خاص بندے، نبی اور

①..... الزهد لابن المبارك، الجزء الثامن، الحديث ۱۰۸۵، ص ۳۸۲، باختصار۔

قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج ۱، ص ۲۵، مفہومًا۔

②..... المعجم الكبير، الحديث ۱۳۵۶۲، ج ۱۲، ص ۳۲۴، باختصار۔

③..... صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء، الحديث ۳۳۶۹، ج ۲، ص ۴۲۹، ملخصًا۔

رسول ہیں وہ تیرے امی نبی اور امانت دار رسول ہیں، تو انہیں اپنے وعدے کے مطابق روز قیامت مقام محمود عطا فرما۔<sup>(۱)</sup>

﴿۲۰﴾.....اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَانِكَ الْمُتَّقِينَ وَجَزِبْكَ الْمُفْلِحِينَ وَعَبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَاتِكَ عْنَا وَوَقِّنَا لِمَحَابَّتِكَ مِنَّا وَصَرِّفْنَا بِحُسْنِ اخْتِيَارِكَ لَنَا. یعنی اے اللہ عزوجل! ہمارا شمار اپنے پرہیزگار اولیا، کامیاب گروہ اور نیک بندوں میں فرما، ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں لگا دے، اپنی محبت عطا کر اور اپنی پسند کی راہ پر چلا کر اپنی بارگاہ میں لوٹا۔<sup>(۲)</sup>

﴿۲۱﴾.....نَسْتُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ وَفَوَاتِحِهِ وَخَوَاتِمِهِ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کا جمع آغاز و اختتام کے سوال کرتے ہیں اور تمام برائیوں سے جمع آغاز و اختتام کے پناہ چاہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

﴿۲۲﴾.....اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ تَبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَبِحِلْمِكَ عَنِّي أَعْفُ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ الْحَلِيمُ وَبِعِلْمِكَ بِي أَرْفُقْ بِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَبِمِلْكِكَ لِي مَلِكِي نَفْسِي وَلَا تَسْلِطْهَا عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھ پر اپنی قدرت کے صدقے میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اپنے حلم کے طفیل مجھے معاف فرما بے شک تو بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو میری حالت سے باخبر ہے مجھ پر نرمی فرما بے شک تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو میرا مالک ہے مجھے نفس پر غالب کر نفس کو مجھ پر غلبہ نہ دے، بے شک تو ہی عظمت والا بادشاہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

﴿۲۳﴾.....سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو پاک ہے، سب خوبیاں تیرے لئے، سوا تیرے کوئی معبود نہیں، میں نے گناہ کئے اور اپنی جان پر ظلم کیا پس تو میرے گناہ معاف فرما، بے شک تو ہی میرا پروردگار ہے اور گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔<sup>(۵)</sup>

﴿۲۴﴾.....اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي. یعنی اے اللہ عزوجل! میرے دل میں بھلائی کی بات ڈال دے اور مجھے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔<sup>(۶)</sup>

﴿۲۵﴾.....اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَلَالًا لَا تُعَاتِبْنِي عَلَيْهِ وَقِنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَاسْتَعْمِلْنِي بِهِ صَالِحًا تَقْبَلَهُ مِنِّي. یعنی اے اللہ

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۶۔

②..... المرجع السابق، مفہومًا۔ ③..... المرجع السابق۔ ④..... المرجع السابق۔ ⑤..... المرجع السابق۔

⑥..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث ۳۴۹۴، ج ۵، ص ۲۹۴، ”وقنی“ بدلہ ”واعذنی“۔

قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۶۔

عَزَّوَجَلَّ! مجھے رزقِ حلال عطا فرما اور اس کا حساب نہ لے اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس پر قناعت کی توفیق عطا فرما اور اس کے ذریعے مجھے نیک کاموں میں لگا اور پھر انہیں قبول فرما۔ (۱)

﴿۲۶﴾..... اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْبُقْيَيْنِ وَالْمَعَاوَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یعنی (اے اللہ عزَّوَجَلَّ!) میں تجھ سے درگزر، عافیت، حسن یقین اور دنیا و آخرت میں معافی کا سوالی ہوں۔ (۲)

﴿۲۷﴾..... يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَضُرُّكَ وَأَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ. یعنی اے وہ ذات جسے گناہ کوئی تکلیف دے سکے نہ مغفرت کوئی نقصان! مجھے وہ عطا فرما جو تیرے لئے مضرت نہیں اور وہ بھی عطا فرما جس میں تیرا کوئی نقصان نہیں۔ (۳)

## نماز کے بعد مانگی جانے والی 12 قرآنی دعائیں:

﴿۱﴾..... رَبَّنَا آفِرْ عَمَّا صَلَّيْنَا صِدْرًا وَتَوَقَّأْنَا مَسْلَبِينَ ﴿۱﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۶). یعنی اے رب ہمارے! ہم پر صبراً نڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔

﴿۲﴾..... أَنْتَ وَوَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۲﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۱). یعنی تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قربِ خاص کے لائق ہیں۔

﴿۳﴾..... أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغُفْرِينَ ﴿۳﴾ وَارْتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ﴿۴﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۵). یعنی (اے اللہ عزَّوَجَلَّ!) تو ہمارا مولیٰ ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر (رحم و کرم) کرا اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔

﴿۴﴾..... رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۴﴾ (پ ۲۸، الممتحنة: ۴). یعنی اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿۵﴾..... رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا قِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾ (پ ۱۱، یونس: ۸۵). یعنی الہی! ہم کو ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا۔

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج ۱، ص ۲۶۔

③..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج ۱، ص ۲۷۔

﴿۶﴾..... رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۸﴾ (الممتحنة: ۵)

یعنی اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔

﴿۷﴾..... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۴﴾

(پ ۲، مال عمرن: ۱۴)۔ یعنی اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں اور ہمارے قدم جمادے اور ہمیں ان کافروں کو پر مدد دے۔

﴿۸﴾..... رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۸﴾ (الحشر: ۱۰)۔ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے

اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے! بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔

﴿۹﴾..... رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۵﴾ (الكهف: ۱۰)۔ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں

اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی (راہ پانے) کے سامان کر۔

﴿۱۰﴾..... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰﴾ (البقرة: ۲۰۱)۔ یعنی اے رب

ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا۔

﴿۱۱﴾..... رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُدَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْآبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿۱۹﴾

(پ ۲، مال عمرن: ۱۹۳، ۱۹۴)۔ یعنی اے رب ہمارے! ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ

تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔

اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک

تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

﴿۱۲﴾..... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ﴿۲۸﴾ (البقرة: ۲۸۶)۔ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے! اور ہم پر بھاری

بو جھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بو جھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار (طاقت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر ہر (رحم) کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

## 20 مسنون دعائیں اور مختلف استعاذے:

﴿۱﴾..... رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَرِوَالِدَيَّ وَارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّبْتَنِيْ صَغِيْرًا وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ. یعنی اے میرے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور تمام زندہ و فوت شدہ مسلمان مردوں اور عورتوں اور ایمان والے اور ایمان والیوں کی مغفرت فرما۔ (۱)

﴿۲﴾..... رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ. یعنی اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور جن خطاؤں کو تو جانتا ہے معاف فرما اور تو سب سے زیادہ عزت والا، کرم والا، سب سے بڑھ کر رحم والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ (۲)

﴿۳﴾..... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّْنَ وَاِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. یعنی ہم اللہ کا مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، بدی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف بلندی و عظمت والے اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ عزوجل کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور خوب کثرت کے ساتھ اللہ رب الانام کی رحمت و سلامتی ہوں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر۔

﴿۴﴾..... اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرْدَّ اِلَيَّ اُرْدَالِ الْعُمْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں بخل، بزدلی، ایسی لمبی عمر جس میں دانائی جاتی رہے، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

﴿۵﴾..... اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَّهْدِيْ اِلَى طَبَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ فَيُغَيِّرُ طَمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لَا مَطْمَعٍ. یعنی اے اللہ

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۷ مفہومًا۔

②..... قوت القلوب، الفصل الخامس في ذكر الادعية المختارة..... الخ، ج، ص ۲۷۔

③..... صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب التعوذ من البخل، الحديث ۶۳۷، ج ۴، ص ۲۰۹۔

عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی خواہش سے جو عیب دار بنا دے اور بے مقصد خواہش اور بے فائدہ چیز کی خواہش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۱)

﴿۶﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يُنْسُ الضَّجِيعَ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بُسْتِ الْبِطَانَةِ وَمِنَ الْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْبُغِينِ وَالْهَرَمِ وَمِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو عاجزی نہ کرے، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے (جو عبادت سے روکے) کیونکہ اس کا ساتھ بہت برا ہے اور خیانت سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت برا ہم نشین ہے اور سستی، بخل، بزدلی، بڑھاپے اور ایسی لمبی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں دانائی جاتی رہے اور دجال، عذاب قبر اور موت و حیات کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

﴿۷﴾.....اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قَلُوبًا أَوْاهَةً مُخْبِتَةً مُنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہم تجھ سے ایسے دل کا سوال کرتے ہیں جو نرم، عاجزی والا اور تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہو۔

﴿۸﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثِمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری بخشش کے اعمال، تیری رحمت کے اسباب، ہر گناہ سے حفاظت، ہر نیکی میں غنیمت، جنت کے ساتھ کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ (۲)

﴿۹﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْغَرَقِ وَالْهَدَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا. یعنی اے اللہ عزوجل! میں گر کر مرنے، غمگین ہونے، ڈوبنے اور عمارت گرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت کے وقت تیرے راستے سے پھرنے اور دنیا کی طلب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۲۰۸، ج ۸، ص ۷۳۷،

بلفظ "استعيذوا بالله".

②.....المستدرک، کتاب العلم، التعوذ من علم لا ينفع، الحدیث: ۳، ج ۱، ص ۳۰۰، مختصراً.

③.....سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستعاذة، الحدیث: ۱۵۵۲، ج ۲، ص ۱۳۲،

دون قوله: واعوذ بك ان اموت في تطلب الدنيا.



﴿۱۰﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ. یعنی اے اللہ عزوجل! جو برائی میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا (سب سے) تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۱)

﴿۱۱﴾.....اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَدْوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے برے اخلاق، برے اعمال، امراض اور بری خواہشات سے محفوظ فرما۔ (۲)

﴿۱۲﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں سخت آزمائش، نامرادی، برے فیصلے اور دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

﴿۱۳﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالذِّمَنِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر، قرض اور محتاجی سے اور عذاب نار اور فتنہ دجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۴)

﴿۱۴﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِي. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ لیتا ہوں کان، آنکھ اور دل و زبان کے شر اور شرمگاہ کے شر سے۔ (۵)

﴿۱۵﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَاوِدَةِ يَتَحَوَّلُ. یعنی الہی! میں بستی کے برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ جنگل کا پڑوسی تو بدلتا رہتا ہے۔ (۶)

﴿۱۶﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقُسُوفِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعِيَلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَضَيْقِ الْأَرْزَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْعُمَى وَالْجُنُونِ وَالْجَدَامِ وَالْبُرْصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت دلی غفلت، ہاتھ کی تنگی، رسوائی اور مسکینی سے۔ الہی! میں کفر، محتاجی، نامرمانی، عداوت، منافقت، برے اخلاق، رزق کی تنگی، شہرت اور ریا کاری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور

①.....صحیح مسلم، کتاب الذکر.....الخ، باب التعوذ من شر ما عمل.....الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۶، بتغییر۔

②.....المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر.....الخ، باب التعوذ من الهدم والتردی، الحدیث: ۱۹۵، ج ۲، ص ۲۲۱، بتقدم و تاخیر۔

③.....صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء.....الخ، باب فی التعوذ من سوء.....الخ، الحدیث: ۲۷۰، ص ۱۴۵۲، بتقدم و تاخیر۔

④.....سنن النسائی، کتاب الاستعاذة، الحدیث: ۵۴۷۲-۵۴۷۳-۵۵۱۵، ص ۸۶۷، ۸۷۳۔

⑤.....سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستعاذة، الحدیث: ۱۵۵۱، ج ۲، ص ۱۳۲۔

⑥.....سنن النسائی، کتاب الاستعاذة، الاستعاذة من جار السوء، الحدیث: ۵۵۱، ص ۸۷۳۔

میں تیری پناہ مانگتا ہوں اندھا، بہرا، گونگا ہونے اور پاگل پن، کوڑھ، برص اور بری بیماریوں میں مبتلا ہونے سے۔<sup>(۱)</sup>

﴿۱۷﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ. یعنی اے اللہ عزوجل! تیری نعمتوں کے زوال، تیری عافیت کے پھر جانے، ناگہانی آفات اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۲)

﴿۱۸﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں عذابِ جہنم، فتنہِ جہنم، عذابِ قبر، فتنہِ قبر سے اور امیری و غریبی کے فتنے کے شر اور فتنہِ مسیحِ دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قرض اور گناہ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

﴿۱۹﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَصَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا تَسْتَجَابُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْغَمِّ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے دل سے جو عجزی نہ کرے، ایسی نماز سے جو نفع نہ دے، ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور سینے کے فتنوں کے شر سے۔ (۴)

﴿۲۰﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ العُدُوِّ وَشِمَاتَةِ الأَعْدَاءِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض سے، دشمنوں کے غلبہ اور ان کے مجھ پر ہنسنے سے۔ (۵)

اللہ عزوجل کی رحمت ہو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام جہانوں کے ہر برگزیدہ بندے پر۔ (امین)



①.....المستدرک، کتاب الدعاء والتكبير.....الخ، التعوذ من الجين وغيره، الحديث: ۱۹، ج ۲، ص ۲۱۹۔

②.....صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء.....الخ، باب اكثر اهل الجنة الفقراء.....الخ، الحديث: ۲۷۳، ص ۱۲۶۵۔

③.....صحيح البخاري، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، الحديث: ۸۳۴، ج ۱، ص ۲۹۱، ملخصاً۔

④.....صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء.....الخ، باب التعوذ من شرما.....الخ، الحديث: ۲۷۲، ص ۱۲۵۷، مختصراً۔

⑤.....سنن النسائي، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من غلبة الدين، الحديث: ۵۴۸۵، ص ۸۶۹۔

## مختلف مسنون دعائیں

باب نمبر ۵:

یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب تم صبح کی اذان سنو تو تمہارے لئے اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت اور وضو کی دعائیں ہم نے ”کتاب الطہارت“ میں بیان کر دی ہیں۔

### مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا:

﴿۱﴾..... اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اعْطِنِيْ نُوْرًا. یعنی اے اللہ عزوجل! میرے دل و زبان کو پر نور کر دے، اور میری سماعت و بصارت نورانی بنا دے اور میرے آگے پیچھے اور اوپر و پر نور کر دے۔ اے اللہ عزوجل! مجھے نور عطا فرما۔ (۱)

﴿۲﴾..... اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مُمْشَايْ هَذَا اِلَيْكَ فَاِنِّيْ لَمْ اُخْرِجْ اَشْرًا وَّ لَا بَطْرًا وَّ لَا رِيَاءً وَّ لَا سَمْعَةً خَرَجْتُ اِتِّقَاءً سَخِطِكَ وَاَبْتِغَاءً مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُنْقِذَنِيْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تُغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہموال کرنے والوں اور تیری راہ میں چلنے والوں کے حق کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ میرا یوں تیرے گھر طرف نکلنا غرور، تکبر، دکھاوے اور شہرت پانے کے لئے نہیں بلکہ تیری ناراضی سے بچنے اور تیری رضا حاصل کرنے کے لئے ہے۔ (اے اللہ عزوجل!) تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے نارنجہنم سے بچالے اور میرے گناہ معاف فرما، بے شک تو ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ (۲)

### گھر سے نکلتے وقت کی دعا:

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُّجْهَلَ عَلَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ التُّكْلَانُ عَلَيَّ اللّٰهُ. یعنی اللہ عزوجل کے نام سے شروع، اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی دینی معاملے میں کوتاہی کروں یا مجھ سے کرائی جائے۔ اللہ عزوجل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بڑی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی توفیق بلند و بزرگ اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے،

①..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء اذ انتبه بالليل، الحديث: ۶۳۱، ج ۴، ص ۱۹۳، مفہومًا۔

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب المساجد والجماعات، باب المشى الى الصلاة، الحديث: ۷۷۸، ج ۱، ص ۲۹، ”تنقذنی“ بدلہ ”تعیننی“۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع بھروسا کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر۔ (۱)

## مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي وَاْفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! رحمت و سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرے تمام گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ (۲)

جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ دعا پڑھیں پھر دایاں پاؤں اندر رکھیں۔

اگر مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتے دیکھو تو یہ دعا پڑھو: لَا اَرِيحُ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ. یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے تجارت میں نفع نہ دے۔ (۳)

جب مسجد میں کسی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو یہ دعا پڑھو، جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے: لَا رَدَّهَا اللّٰهُ إِلَيْكَ. یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے وہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ (۴)

## رُكُوع کی دعا:

(نوافل کے) رُكُوع میں یہ دعا پڑھئے: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ لَكَ خَشَعْتُ وَ لَكَ أَمَنْتُ وَ لَكَ أَسَلْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعْتُ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ وَ مَخِيْ وَ عَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ وَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میرا رُكُوع اور میری عاجزی تیرے لئے ہے، میں تجھ ہی پر ایمان لایا اور خود کو تیرے سپرد کیا، تجھ ہی پر بھروسا کیا، تو ہی میرا رب ہے۔ میری سماعت و بصارت اور میری ہڈیاں، مغز اور پٹھے اور میرے پاؤں پر لدا بوجھ تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے عاجز ہے۔ (۵)

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا خرج من بیتہ، الحدیث ۵۰۹، ج ۴، ص ۴۲۰۔

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما یدعو بہ الرجل اذا خرج من بیتہ، الحدیث ۳۸۸، ج ۴، ص ۲۹۲، مختصراً۔

②..... سنن الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء ما یقول عند دخول المسجد، الحدیث ۳۱، ج ۱، ص ۳۳۹، مختصراً۔

③..... سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب النهی عن البیع فی المسجد، الحدیث ۱۳۲، ج ۳، ص ۵۹۔

④..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب النهی عن نشد..... الخ، الحدیث ۵۶، ص ۲۸۲۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین و قصرها..... الخ، باب الدعاء فی صلاة..... الخ، الحدیث ۷۷، ص ۳۹۰، باختصار۔

اگر چاہے تو تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ یعنی پاک ہے میرا رب عظمت والا، کہے۔<sup>(۱)</sup> یا کہے ”سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ یعنی فرشتوں اور روح الامین کا پروردگار پاک اور مقدس ہے۔“<sup>(۲)</sup>

## رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالُ الْعَبْدُ وَكُلَّمَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدُّ. یعنی اللہ عزوجل نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، اے ہمارے رب! تو اس تعریف کا مستحق ہے جس سے تمام آسمان وزمین بھر جائیں اور تیری حمد و بزرگی بیان کرنے والوں کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔ تو ہی اس کا حقدار ہے جو تیرے بندے نے کہا۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا، تیرے مقابل غنی کو غنا نفع نہیں پہنچاتی۔<sup>(۳)</sup>

## سجدے میں جاتے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَّرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ سَجَدُ لَكَ سَوَادِي وَخِبَالِي وَأَمَنَ بِكَ فُؤَادِي أَبُوؤُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤُ بِنِذْنِي وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَلَيَّ نَفْسِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں نے تیرے ہی لئے سجدہ کیا، تجھ ہی پر ایمان لایا اور خود کو تیرے سپرد کیا۔ میرا چہرہ اس ذات کے لئے جھکا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اللہ عزوجل بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ میرا وجود و خیال تیرے حضور سر بسجود ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، تو نے مجھے نعمتیں عطا کیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔<sup>(۴)</sup>

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، الحدیث: ۸۸۶، ج ۱، ص ۳۳۶۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۴۸، ص ۲۵۲۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقول اذا رفع راسه من الركوع، الحدیث: ۴۷۷-۴۷۸، ص ۲۴۸-۲۴۷۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الدعاء فی صلاة اللیل وقیامہ، الحدیث: ۷۷، ص ۳۹۰-۳۹۱، مختصراً۔

المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر..... الخ، الدعاء الجامع..... الخ، الحدیث: ۲۰، ج ۲، ص ۲۲۲، مختصراً۔

یا تین مرتبہ یہ کہے: ”سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی. یعنی پاک ہے میرا پروردگار بلندی والا۔“ (۱)

## نماز کے بعد کی دُعا:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. یعنی اے اللہ عزوجل تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے اے عظمت و بزرگی والے! (۲) نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں یہ دعا بھی مانگ لیا کریں۔

## مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سَوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل تیری ذات پاک اور لائق حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میں نے گناہ کئے اور اپنی جان پر ظلم کیا، پس تو میری مغفرت فرما کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ (۳)

جب تم مجلس برخواست کرو اور اس میں ہونے والی لغویات کا کفارہ چاہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

## بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لئے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اس کو ہرگز موت نہ آئے گی، تمام بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ (۴)

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً. یعنی اللہ عزوجل کے نام سے شروع، اے اللہ عزوجل میں تجھ سے اس بازار اور

①.....سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، الحديث: ۸۸، ج ۱، ص ۳۳۶۔

②.....صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة.....الخ، الحديث: ۵۹، ص ۲۹۷۔

③.....المستدرک، كتاب الدعاء والتكبير.....الخ، باب دعاء كفارة المجالس، الحديث: ۲۰، ج ۲، ص ۲۲۹۔

④.....سنن الترمذی، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق، الحديث: ۳۳۳۹، ج ۵، ص ۲۷۱۔

جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بازار اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کے شر سے۔ الہی! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جھوٹی قسم کھاؤں یا گھائے کا سودا کروں۔ (۱)

## ادائیگی قرض کی دعا:

اگر مقروض ہیں تو یہ دعا پڑھئے: اللّٰهُمَّ اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے حلال رزق عطا فرما حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ (۲)

## نیالباس پہننے وقت کی دعا:

اللّٰهُمَّ كَسَوْتَنِي هَذَا التَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اسْتَلَّكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صَنَعَكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ. یعنی اے اللہ عزوجل! تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی برائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ (۳)

## جب کوئی شگون (۴) دل میں کھٹکے تو یہ دعا پڑھئے:

اللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيَنِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو ہی بھلائیاں عطا فرماتا اور برائیاں دور کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عزوجل ہی کی مدد سے ہے۔ (۵)

①.....المستدرک، کتاب الدعاء والتكبير.....الخ، باب دعاء دخول السوق، الحديث: ۲۰۲، ج ۲، ص ۲۳۲۔

②.....سنن الترمذی، احادیث شتى، الحديث: ۳۵۷، ج ۵، ص ۳۲۹۔

③.....سنن ابی داود، کتاب اللباس، باب مايقول اذا لبس ثوبا جديدا، الحديث: ۴۰۲، ج ۴، ص ۵۹۔

④.....ایک حدیث پاک جس میں شگون کا ذکر کیا گیا اس کے تحت مُفْتَّر شَهِير حَكِيمُ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 6، ص 266 پر فرماتے ہیں: فال سے مراد نیک فال ہے جو اچھی بات ہے اچھا نام سننے سے لی جائے۔ یعنی یہ جائز ہے لیکن کوئی شخص کسی کام کو جاتے وقت ناپسندیدہ چیز دیکھے یا سنے جس سے بدشگونی لی جائے تو وہ محض اس وجہ سے اپنے کام سے واپس نہ ہو۔ اللہ توکل کرے اور کام کو جائے۔ اس کے بارے میں مزید صفحہ 255 پر فرماتے ہیں: ”نیک فال لیناست ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور بدفالی لینا ممنوع کہ اس میں رب سے ناامیدی ہے۔ امید اچھی ہے ناامیدی بری۔ ہمیشہ رب سے امید رکھو۔“

⑤.....شعب الایمان للبيهقي، باب التوكل والتسليم، الحديث: ۱۱۶، ج ۲، ص ۶۲۔

## نیا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا:

﴿۱﴾.....اللَّهُمَّ اهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَالْحِفْظِ عَمَّنْ تَسْخُطُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ. یعنی اے اللہ عزوجل! اسے ہم پر امن، ایمان، نیکی، سلامتی، اسلام اور اس چیز کی توفیق کا چاند بنا کر چمکا جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے اور اس چیز سے حفاظت کا چاند بنا کر چمکا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ (اے چاند!) میرا اور تیرا پروردگار اللہ عزوجل ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿۲﴾.....چاند دیکھ کر تین دفعہ ”اللہ اکبر“ کہئے اور پھر یہ دُعا پڑھئے: هَلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرِ أَمْنٍ بِخَالِقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ وَاعْوُذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحُشْرِ. یعنی ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو میں اس پر ایمان لایا جو تیرا خالق ہے۔<sup>(۲)</sup> اے اللہ عزوجل میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور اچھی تقدیر کا سوال کرتا ہوں اور روزِ محشر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔<sup>(۳)</sup>

## آندھی کے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرَّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. یعنی الہی! میں تجھ سے اس آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی۔<sup>(۴)</sup>

## کسی کے انتقال کی خبر سن کر پڑھی جانے والی دعا:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اَكْتُبْهُ فِي الْمُحْسِنِينَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَاخْلُفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ. یعنی بے شک ہم اللہ عزوجل کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ عزوجل! اس کا نام نکو کاروں میں لکھ دے اور اس کا نام

①.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول عند رؤية الهلال، الحدیث: ۳۴۶۴، ج ۵، ص ۲۸۱، مختصراً۔

المعجم الكبير، الحدیث: ۱۳۳۳، ج ۱۲، ص ۲۷۳، مختصراً۔

②.....سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا رای الهلال، الحدیث: ۵۰۹۴، ج ۴، ص ۴۲۰، بتغییر۔

③.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الانصار، الحدیث: ۲۲۸۵، ج ۸، ص ۴۲۴، بتغییر۔

④.....سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی النهی عن سب الرياح، الحدیث: ۲۲۵۵، ج ۴، ص ۱۱۱، بتغییر۔



اعمال علیین میں کر دے اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں کی حفاظت و نگہبانی فرما۔ اے اللہ عزوجل ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد آزمائش میں مبتلا نہ کر اور ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ (۱)

## صدقہ دیتے وقت کی دعا:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۷﴾ (پ ۱، البقرة: ۱۷۴)۔ یعنی اے رب ہمارے! ہم سے قبول فرما بیشک تو

ہی ہے سنتا جانتا۔

## کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھئے:

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۲۷﴾ (پ ۲۹، القلم: ۳۲)۔ یعنی امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس

سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔

## جائز کام شروع کرتے وقت کی دعا:

﴿۱﴾..... رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۰﴾ (پ ۱۵، الكهف: ۱۰)۔ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں

اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی (راہ پانے) کے سامان کر۔

﴿۲﴾..... رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۱۶﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۱۷﴾ (پ ۱۶، طه: ۲۵، ۲۶)۔ یعنی اے میرے رب! میرے لئے میرا

سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر۔

## آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا:

﴿۱﴾..... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۱﴾ (پ ۴، ال عمران: ۱۹۱)۔ یعنی اے ہمارے رب! تو

نے یہ بیکار نہ بنایا یا کی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

﴿۲﴾..... تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿۶۱﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۱)۔ یعنی بڑی

برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔

①..... کنز العمال، کتاب الموت، الحدیث: ۴۲۲۱، ج ۱۵، ص ۲۲۳۔

## بادل کے گرجنے پر پڑھی جانے والی دعا:

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یعنی پاک ہے وہ ذات گرج اسے سرائتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے

اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ (۱)

## جب آسمانی بجلی چمکے تو یہ دعا پڑھئے:

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ ابْنِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ. یعنی الہی عزوجل! ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور

اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے معاف فرما۔ (۲)

## بارش کے وقت کی دعا:

﴿۱﴾..... اللَّهُمَّ سَقِيَا هَيْبِنَا وَصَبِيًّا تَائِعًا. یعنی اے ہمارے رب! ایسی بارش ہو جو سیراب کرنے والی، بابرکت اور بہت مفید ہو۔ (۳)

﴿۲﴾..... اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبَ رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهُ صَيِّبَ عَذَابٍ. یعنی اے اللہ عزوجل! اس بارش کو باعشر رحمت بنا، عذاب کا

باعشر نہ بنا۔ (۴)

## جب کسی پر غصہ آجائے تو یہ دعا پڑھئے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی اے اللہ عزوجل! میرے گناہ معاف فرما،

میرے دل کے غصے کو دور فرما اور مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ (۵)

## کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. یعنی اے اللہ عزوجل! ہم ان کے مقابل تجھے کرتے ہیں اور ان

①.....الموطا للامام مالک، کتاب الکلام، باب القول اذا سمعت الرعد، الحديث: ۱۹۴، ج ۲، ص ۴۷۰۔

②.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما يقول اذا سمع الرعد، الحديث: ۳۲۶، ج ۵، ص ۲۸۱۔

③.....صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب ما يقال اذا امطرت، الحديث: ۱۰۳۲، ج ۱، ص ۳۵۳، مختصراً۔

مشكاة المصابيح، کتاب الصلاة، باب فی الرياح، الحديث: ۱۵۲، ج ۱، ص ۲۹۲، مختصراً۔

④.....السنن الكبرى للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلة باب ما يقول اذا كشفه الله، الحديث: ۱۰۷۵۴، ج ۶، ص ۲۲۷۔

⑤.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ام سلمة زوج النبی، الحديث: ۲۶۶۳، ج ۱، ص ۹۳۔

کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## کفار سے جہاد کے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو مجھے قوت دینے والا اور مددگار ہے، تیرے ہی بھروسے

میں جہاد کرتا ہوں۔<sup>(۲)</sup>

## کان بجتے ہوں تو.....!

جب کان بجتے ہوں تو درودِ پاک پڑھ کر یہ کلمات پڑھئے: ”ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ“. یعنی اللہ عزوجل اس کا چرچا فرمائے جو مجھے بھلائی کے ساتھ یاد کرے۔

## دعا کی قبولیت پر یہ دعا پڑھئے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ تَنَمُّ الصَّالِحَاتِ. یعنی سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے جس کی عزت و بزرگی کے صدقے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں۔<sup>(۳)</sup>

اور دعا میں تاخیر محسوس ہو تو کہئے: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ“ یعنی اللہ عزوجل کا شکر ہے ہر حال میں۔“<sup>(۴)</sup>

## اذانِ مغرب کے وقت کی دعا:

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ أَسْئَلُكَ أَنْ تُغْفِرَ لِي. یعنی اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا ہے، یہ تیری طرف بلانے والوں کی صدائیں ہیں اور تیری نمازوں کے لئے حاضر ہونے کا وقت ہے، (اے اللہ عزوجل!) میں تجھ سے اپنی مغفرت کا سوالی ہوں۔<sup>(۵)</sup>

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا خاف قوماً، الحدیث: ۱۵۳، ج ۲، ص ۱۲۷۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب ما یدعی عند اللقاء، الحدیث: ۲۶۳۴، ج ۳، ص ۵۹۔

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۹۵۸، ج ۱، ص ۳۲۲، بتقدم و تاخر۔

④..... کنز العمال، کتاب الاذکار، الباب الثامن فی الدعاء، الحدیث: ۳۱۷۴، ج ۲، ص ۳۳، دون قولہ: بعزته و جلالہ۔

⑤..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ما یقول عند اذان المغرب، الحدیث: ۵۳، ج ۱، ص ۲۲۳،

دون قولہ: و حضور صلواتک اسالک۔

## کوئی غم پہنچے تو یہ دعا پڑھئے:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيْبِعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ غَيْبِي وَذَهَابَ حُزْنِي وَهَيْبِي. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے۔ تیرا حکم جاری رہنے والا تیرا فیصلہ عین انصاف ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کی برکت سے جو تو نے اپنا رکھا یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارا یا جو نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا جو نام اپنے پاس پر وہ غیب میں پوشیدہ رکھا یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کی دوا اور میرے رنج و الم کو دور کرنے والا بنا دے۔ (۱)

نمگسار امت، شفع روز قیامت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمان عافیت نشان ہے: ”جو نمگین اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ عزوجل اس کے غم کو فرحت میں بدل دے گا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کیا ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں! جو یہ دعا سنے اسے چاہئے کہ اسے یاد بھی کر لے۔“ (۲)

### جسم میں درد ہو تو یہ دعا پڑھئے:

اگر تمہیں یا کسی اور کو جسم میں درد ہو تو شفع ام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے اس کا علاج کرو کہ جب کسی کو پھوڑا یا زخم وغیرہ ہوتا تو رسول ذی وقار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھتے پھراٹھا کر یہ کلمات پڑھتے: ”بِسْمِ اللّٰهِ تَرْبِيَةٌ اَرْضِنَا بِرَقِيَّةٍ بَعْضِنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا يَا ذَن رَّبِّنَا“. یعنی اللہ عزوجل کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے دم کے سبب ہمارے بیمار کو ہمارے پروردگار عزوجل کے حکم سے شفا دیتی ہے۔ (۳)

جب جسم میں درد ہو تو در والی جگہ پر انگلی رکھ کر تین مرتبہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھئے: ”اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ“. یعنی میں اللہ عزوجل کی عزت و قدرت سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں پاتا ہوں

①.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۱۷۷۱، ج ۲، ص ۴۱۔

②.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۱۷۷۱، ج ۲، ص ۴۲۔

③.....صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين.....الخ، الحدیث: ۲۱۹، ص ۱۲۰۶۔

اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ (۱)

## مصیبت کے وقت کی دعا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  
یعنی بلند اور بردبار اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بڑے عرش کے پروردگار عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساتوں  
آسمانوں اور عزت والے عرش کے پروردگار عزوجل کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ (۲)

## سوتے وقت کے اور ادا اور دعائیں:

جب سونے کا ارادہ ہو تو با وضو اور قبلہ رو ہو کر سیدھی کروٹ لیٹئے اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ  
33 مرتبہ الحمد للہ پڑھئے اور یوں دعا کیجئے:

﴿۱﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْلُغَ  
ثَنَاءً عَلَيْكَ وَكُوْ حَرَصْتُ وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ. یعنی الہی! میں تیری رضا کی تیری ناراضی سے، تیرے غنودرگزر کی  
تیری سزا سے اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے مولیٰ عزوجل! اگر میں چاہوں تب بھی تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا بس تیری ذات  
کے لائق تو وہ تعریف ہے جو تو نے خود اپنی فرمائی۔ (۳)

﴿۲﴾.....اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتتا (سوتا اور جاگتا) ہوں۔ (۴)  
﴿۳﴾.....اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهَ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيئِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ  
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب استحباب وضع یدہ علی موضع الالم مع الدعاء، الحدیث: ۲۲۰، ص ۱۲۰۹۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب دعاء الکر، الحدیث: ۲۷۳، ص ۱۴۶۱۔

③..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب التسبیح اول النهار..... الخ، الحدیث: ۲۷۴، ص ۱۴۶۰، بتغییر۔

السنن الكبرى للنسائي، كتاب الوتر، مايقول في آخر وتره، الحدیث: ۱۴۴، ج ۱، ص ۴۵۲، مختصراً۔

④..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب مايقول عند النوم..... الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۴۔

یعنی اے اللہ عزوجل! اے زمین و آسمان اور ہر چیز کے پروردگار و مالک! دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے! تورات، انجیل اور قرآن مجید کو نازل کرنے والے! میں تجھ سے ہر شریر کے شر اور ہر جانور کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو باطن ہے تجھ سے دور کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے قرض دور کر اور محتاجی سے نجات عطا فرما۔ (۱)

﴿۴﴾.....اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَقَّأَهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنَّ أَمْتَهَا فَأَغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یعنی اے اللہ عزوجل! تو نے ہی میری جان پیدا کی اور تو ہی اسے موت دے گا۔ موت و حیات کا تو ہی مالک ہے۔ اے اللہ عزوجل! جب تو اسے موت دے تو اسے بخش دے اور اگر زندگی عطا کرے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے دونوں جہاں کی عافیت کا طلبگار ہوں۔ (۲)

﴿۵﴾.....بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ذَنْبِي. یعنی میرے پروردگار عزوجل! تیرے نام کے ساتھ کروٹ لیتا ہوں پس میرے گناہ معاف فرما۔ (۳)

﴿۶﴾.....اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ. یعنی اے اللہ عزوجل! روزِ محشر مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ (۴)

﴿۷﴾.....اللَّهُمَّ اسَلِّمْ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجِّهْ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَانِّ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، اپنا رخ تیری طرف کیا اور اپنے معاملات تیرے سپرد کئے۔ میں اپنی پشت تیری پناہ میں دی تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیری بارگاہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی جائے نجات نہیں۔ میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لایا۔ (۵)

①.....صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء.....الخ، باب ما یقول عندالنوم.....الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۵-۱۴۵۴۔

②.....صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء.....الخ، باب ما یقول عندالنوم.....الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۴۔

③.....کنز العمال، کتاب المعیشتہ والعیادت، الحدیث: ۴۱۹۶۳، ج ۱۵، ص ۲۱۱۔

④.....سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول عندالنوم، الحدیث: ۵۰۴، ج ۴، ص ۴۰۴، ”تجمع“ بدلہ ”تبعث“۔

الشمائل المحمدیة للترمذی، باب ماجاء فی صفة نوم رسول اللہ، الحدیث: ۲۴، ص ۱۵۷۔

⑤.....صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء.....الخ، باب ما یقول عندالنوم.....الخ، الحدیث: ۲۷۱، ص ۱۴۵۳-۱۴۵۴، بتقدم و تاخر۔

سوتے وقت کے اور اد میں سے یہ دعا آخر میں مانگنی چاہئے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
وآلہ وسلم نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا اور اس سے پہلے یہ دعا مانگئے:

﴿۸﴾..... اَللّٰهُمَّ اَيُّقْظِنِيْ فِيْ اَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ وَاسْتَعْمِلْنِيْ بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَيْكَ تَقْرِيْبِيْ اِلَيْكَ زُلْفَى وَتُبْعِدْنِيْ مِنْ  
سَخَطِكَ بَعْدًا اَسْئَلُكَ فَتُعْطِنِيْ وَاسْتَغْفِرْكَ فَتَغْفِرْ لِيْ وَاَدْعُوْكَ فَتَسْتَجِيبْ لِيْ. یعنی اے اللہ عزوجل! مجھے اس گھڑی بیدار فرما جو  
تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اور ان کاموں میں مشغول فرما جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ، تیرا قرب عطا کرنے والے اور تیرے غضب کو  
دور کرنے والے ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے عطا کر، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میری مغفرت فرما، تیری بارگاہ میں  
دعا گو ہوں میری دعا قبول فرما۔ (۱)

## نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعائیں:

﴿۱﴾..... اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اٰحْيَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاٰلِيْهِ الشُّوْر. یعنی سب خوبیاں اللہ عزوجل کو جس نے ہمیں موت (نیند) کے  
بعد حیات (بیداری) عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ (۲)

﴿۲﴾..... اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلّٰهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلّٰهِ. یعنی ہم نے اور اللہ عزوجل کے ملک نے صبح  
کی، عظمت و بادشاہت اور عزت و قدرت اللہ عزوجل ہی کے لئے ہے۔ (۳)

﴿۳﴾..... اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَّةِ اٰبِيْنَا اِبْرٰهِيْمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. یعنی ہم نے صبح کی اس حال میں کہ ہم اسلام اور کلمہ توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنے نبی حضرت  
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہیں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے  
اور مشرکوں سے نہ تھے۔ (۴)

﴿۴﴾..... اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْر. یعنی الہی! ہم نے تیری مہربانی سے صبح کی،

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج، ص ۶۴۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء..... الخ، باب ما یقول عند النوم..... الخ، الحدیث: ۱، ۲، ص ۱۴۵۳۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج، ص ۶۳۔

④..... المسند للام احمد بن حنبل، مسند المکین، الحدیث: ۱۵۳۶، ج ۵، ص ۲۳۸۔

تیری ہی مہربانی سے شام کریں گے اور تیری ہی مہربانی سے جنیں گے اور تیرے ہی فضل سے موت سے ہمکنار ہوں گے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ (۱)

﴿۵﴾.....اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَبْعَثَنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرِحَ فِيهِ سُوءًا أَوْ نَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ. یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں ہر خیر کی طرف اٹھا اور ہم کسی برائی میں پڑنے یا کسی مسلمان کو برائی میں مبتلا کرنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

کیونکہ تو خود اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ج (پ ۷، الانعام: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روئیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو۔

﴿۶﴾.....اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ. یعنی اے اللہ عزوجل! تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والے! رات کو چین کا ذریعہ بنانے والے! سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے۔ میں تجھ سے اس دن اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے اس دن اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ (۲)

﴿۷﴾.....بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ (۳) رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا (۴) رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. یعنی اللہ عزوجل کے نام سے شروع جو اللہ عزوجل چاہے اس کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ عزوجل چاہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، جو اللہ عزوجل چاہے ہر بھلائی اللہ عزوجل کے ہی دست قدرت میں ہے، جو اللہ عزوجل چاہے برائیوں کو ٹالنے والا اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں۔ میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی

①.....سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، الحدیث ۵۰۶۸، ج ۴، ص ۴۱۲، "الیک النشور" مکان "الیک المصیر"۔

②.....قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع.....الخ، ج ۱، ص ۶۳۔

③.....قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع.....الخ، ج ۱، ص ۶۳۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، الخضر، ج ۱، ص ۴۲، دون "الخير كله بيد الله"۔

④.....سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، الحدیث ۵۰۷۲، ج ۴، ص ۴۱۳۔



ہونے پر راضی ہوں۔ اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

## شام کے وقت کی دعا:

شام کے وقت بھی نیند سے بیداری کی تمام دعائیں پڑھئے البتہ لفظ (أَصْبَحْنَا) یعنی ہم نے صبح کی (کی جگہ) (أَمْسَيْنَا) یعنی ہم نے شام کی (پڑھیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَبِرَأً وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ  
بِنَاصِيئِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی میں اللہ عزوجل کے تمام کلمات اور اس کے تمام اسمائے حسنیٰ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں  
ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے وجود بخشا اور جسے اس نے پیدا کیا اور ہر شریر کے شر سے اور زمین پر رہنے والی ہر اس چیز کے شر سے  
جس کی چوٹی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ (۱)

## آئینہ دیکھتے وقت کی دعا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَلَهُ وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِهِ وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یعنی سب خوبیاں اللہ عزوجل  
کو جس نے میری تخلیق برابر اور اعتدال کے ساتھ فرمائی اور میرے چہرے کو عزت اور اچھی صورت بخشی اور مجھے مسلمان بنایا۔ (۲)

## کوئی چیز خریدتے وقت کی دعا:

جب کوئی جانور یا کوئی اور چیز خریدیں تو اس کی پیشانی پکڑ کر یہ کلمات پڑھئے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا  
جَبِلَ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبِلَ عَلَيْهِ۔ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے اس کی اور جس فطرت پر اسے رکھا گیا ہے  
اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر اور جس فطرت پر اسے رکھا گیا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (۳)

## نکاح کی مبارک باد دیتے وقت کی دعا:

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ۔ یعنی اللہ عزوجل تجھے برکت دے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور تم

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر كتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۳۔

تاریخ دمشق لابن عساکر، ذکر من اسمه كعب، كعب بن مانع بن هيسوع..... الخ، ج ۵، ص ۱۶۶۔

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۷۸۴، ج ۱، ص ۲۳۰۔

③..... سنن ابی داود، كتاب النكاح، باب فی جامع النكاح، الحديث: ۲۱۶، ج ۲، ص ۳۶۲۔

دونوں کو بھلائی کے ساتھ جمع رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## قرض ادا کرتے وقت کی دعا:

قرض ادا کرتے ہوئے قرض خواہ کو یہ دعا بھی دیجئے: ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تِيرَ اِبْلِ دَمَالٍ فِي بَرَكَةِ عَطَا فَرَمَائِي“۔ کیونکہ رحمت عالمیان، سرور ذی شان صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمان ہے کہ ”قرض کا عوض شکر یہ اور ادا ہوگی ہے۔“<sup>(۲)</sup>

مذکورہ بالا دعائیں وہ ہیں کہ راہِ آخرت کے مسافر کے لئے انہیں یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مزید جیسے سفر، وضو اور نماز وغیرہ کی دعائیں ”كِتَابُ الْحَجِّ، كِتَابُ الصَّلَاةِ اور كِتَابُ الطَّهَارَةِ“ میں بیان کی جا چکی ہیں۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے حالانکہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی؟ تو جان لیجئے کہ دعا کے صدقے بلاؤں کا دور ہونا بھی تقدیر سے ہے۔ لہذا دعا بلائیں دور کرنے اور رحمت پانے کا ایک سبب ہے جیسے ڈھال تیر سے بچانے کا اور پانی زمین سے سبزیاں اُگانے کا ایک ذریعہ ہے، تو جس طرح ڈھال تیر سے بچاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل آجاتی ہیں اسی طرح دعا اور بلا بھی ایک دوسرے کے مقابل رہتی ہیں۔ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی تقدیر پر ایمان لانے سے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، ایسا نہیں بلکہ خود اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا حکم ہے: ”خُلِّدُوا حَتَّى تَمُوتُوا“ (پ ۵، النساء: ۱۰۳) ترجمہ کنز الایمان: اپنی پناہ لئے رکھو۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر تو زمین میں بیج بو کر اسے پانی ہی نہ دیا جائے اور یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اگر مقدّر میں سبزی کا اگنا ہو تو اُگ آئے گی اگر تقدیر میں نہیں تو نہیں اُگے گی۔ مُسَبَّب کا سبب سے مربوط ہونا ہی پہلی تقدیر ہے جو پلک جھپکنے بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پھر بتدریج سبب کے ساتھ ساتھ مُسَبَّب کا ترتیب ہوتا ہے اور تقدیر یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ ہو چکا یوں کہ خیر کو کسی سبب کے ساتھ اور شر کو اسے دور کرنے والے کسی سبب کے ساتھ مقدر فرمایا گیا ہے۔

۱..... سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب ما یقال للمتزوج، الحدیث: ۲۱۳، ج ۲، ص ۳۵۱۔

۲..... سنن النسائی، کتاب البیوع، الاستقراض، الحدیث: ۴۶۹، ص ۷۵۳۔

پھر دعا کے دیگر فوائد بھی ہیں جنہیں فضائل ذکر کے تحت بیان کیا جا چکا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کے سبب دل میں اخلاص پیدا کیا جاتا ہے اور عبادت سے اصل مقصود بھی یہی ہے۔ سید العابدین، محبوب رب العالمین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دلنشین ہے: ”الدُّعَاءُ مَخْرَجُ الْعِبَادَةِ دَعَا عِبَادَتٍ كَامِفْرَةٍ“ (۱)

عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مخلوق کے دل ذکر اللہ کی طرف اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب وہ کسی حاجت برآری کے طالب یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لہذا حاجت برآری کے لئے دعا کی ضرورت مُسَلَّم ہے اور دعا دل کو عاجزی و مسکینی کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ نیز دعا ذکر الہی کا ذریعہ ہے جس کا شمار اشرف عبادت میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیائے کرام و اولیائے عظام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور دیگر مقررین بارگاہ پر حسب مراتب زیادہ مصائب نازل ہوتے ہیں۔ کیونکہ مصائب دل کو محتاجی اور عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں اس کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ جبکہ مالدار عموماً تکبر کا سبب بنتی ہے، کہ بندہ جب خود کو غنی سمجھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔

جن اذکار اور دعاؤں کو بیان کرنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ بھلائی کی توفیق اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی دیتا ہے۔ کھانے، سفر اور عیادت وغیرہ جیسی دیگر دعائیں اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ اپنے اپنے مقام پر بیان کی جائیں گی۔ ذات الہی پر ہی بھروسہ ہے۔ اذکار و دعاؤں کا بیان پایہ تکمیل کو پہنچا اس کے بعد وظائف و اوراد کا بیان آئے گا۔

اِنْ شَاءَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



①.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، الحدیث: ۳۳۸۴، ج ۵، ص ۲۴۳۔

## اوراد کی ترتیب اور شب بیداری کی تفصیل کا بیان

ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں پر اس کی کثیر حمد کرتے ہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں جو دل میں تکبر و غرور کو نہیں رہنے دیتا، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دن ذکر و شکر کا ارادہ کرنے والے کے لئے رات کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا اور درود بھیجتے ہیں اُس کے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور درود بھیجتے ہیں ان کی آل و اصحاب پر کہ جنہوں نے عبادت میں صبح و شام کوششیں کیں حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک دین میں ہدایت دینے والا ستارہ اور روشن چراغ بن گیا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زمین کو اپنے بندوں کے تابع اس لئے نہیں کیا کہ وہ بلند و بالا مکانوں (کو دائمی ٹھکانا سمجھ کر اس) میں سکونت پذیر ہو جائیں بلکہ اس لئے تابع بنایا کہ وہ اسے (مسافر کی طرح) قیام گاہ جانیں اور محض اتنا زاد راہ لیں جو وطنِ اصلی (یعنی آخرت) کے سفر میں ان کے کام آئے، اس کے جالوں و ہلاکتوں سے بچتے ہوئے اپنے لئے عمل و فضل کے تحفے ذخیرہ کریں اور یقین کر لیں کہ عمر انہیں ایسے لئے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو۔ لوگ دُنیا میں مسافر ہیں، ان کی پہلی منزل جھولا اور آخری قبر ہے، ان کا وطن جنت یا جہنم، عمر سفر کی مسافت، سال سفر کے مراحل، مہینے سفر کے فرسنگ<sup>(۱)</sup>، دن سفر کے میل، سانس سفر کے قدم، اطاعت سفر کے لئے زادہ راہ، اوقات سفر کا اصل سرمایہ اور شہوات و اغراض راستے کے ڈاکو ہیں۔ اس کا نفع جنت میں بڑی سلطنت اور نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کامیاب ہونا اور اس کا نقصان جہنم کے طبقات میں بیڑیوں، طوقوں اور دردناک عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ تو جو ایک سانس کے معاملے میں بھی غفلت کرتا اور اُسے قرب الہی کا سبب بننے والی اطاعت کے بغیر گزارتا ہے تو قیامت کے دن اُسے بے انتہا نقصان و حسرت کا سامنا ہوگا۔ اسی بڑے خطرے اور ہولناک امر کی وجہ سے توفیق یافتہ لوگ محنت و کوشش کے لئے تیار ہو گئے اور لذاتِ نفسانی کو یکسر چھوڑ دیا، اپنی بقیہ عمر کو نعمتِ جانِ کر دین رات ذکرِ الہی میں بسر کرنے کے شوق، قرب الہی کے حصول اور دارالقرار (یعنی آخرت) کی طرف کوشش کرتے ہوئے

①..... ایک فرسنگ تین میل کا ہوتا ہے۔ (ملقطاً فتاویٰ رضویہ، ج ۸، ص ۲۵۵)

مختلف اوقات کے اعتبار سے جدا جدا اور ادو وظائف مرتب کئے۔ لہذا طریق آخرت کے علم میں یہ ضروری ہے کہ تقسیم اوراد کی تفصیل بیان کی جائے، نیز عبادات کہ جن کی تشریح پیچھے گزر چکی انہیں مختلف اوقات کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ یہ دو ابواب سے واضح ہوگا۔

**پہلا باب:** اوراد کی فضیلت اور رات دن میں ان کی ترتیب کے بیان پر مشتمل ہے۔

**دوسرا باب:** شب بیداری کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس سے تعلق رکھنے والی باتوں کے بیان پر مشتمل ہے۔



### {..... نیکیوں کا ذخیرہ .....}

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹئے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے ”نیکیوں کا ذخیرہ“ اکٹھا کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

## باب نمبر ۱: اوراد کی فضیلت اور ترتیب و احکام کا بیان

اوراد کی فضیلت اور ان کی پابندی کا بیان کہ یہی بارگاہ الہی تک رسائی کا ذریعہ ہے

جان لیجئے کہ نور بصیرت سے مشاہدہ کرنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کے سوا کہیں نجات نہیں اور ملاقات کا راستہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، اسے معرفت الہی بھی حاصل ہو۔ محبوب کے دائمی ذکر اور اس پر مواظبت کے بغیر اس سے محبت و انس حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی ذات و صفات اور افعال میں دائمی غور و فکر کے بغیر اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ذات باری تعالیٰ اور اس کے افعال کے سوا کسی کا وجود نہیں، دنیا اور اس کی شہوات کو چھوڑے بغیر اور اس میں سے بقدرِ ضرورت لینے پر اکتفا کئے بغیر دائمی ذکر و فکر میسر نہیں ہوتا اور یہ اُسی وقت ہوگا جب بندہ اپنے دن رات کو ذکر و فکر کے وظائف میں مصروف رکھے۔ نفس چونکہ فطری طور پر تھکاوٹ و اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے وہ ذکر و فکر کے معین اسباب میں سے کسی ایک پر صبر نہیں کرتا بلکہ اگر اسے ایک ہی طریقے پر رکھا جائے تو وہ بوجھ و اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ (مروی ہے کہ) اللہ عَزَّوَجَلَّ مال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑو (۱)۔ (۲)

### اوراد کو مختلف اقسام میں تقسیم کرنے کی وجہ:

ذکر و فکر میں لطف پانے کے لئے ضروری ہے کہ ہر وقت کے اعتبار سے ایک طریقے سے دوسرے طریقے اور ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ منتقل ہونے سے ذکر و فکر کی لذت زیادہ ہو اور رغبت میں اضافہ ہو اور جوں جوں رغبت میں اضافہ ہوگا ذکر و فکر پر پیشگی حاصل ہوگی اسی وجہ سے اوراد کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا۔

①..... مُقَرَّر شہیر حکیمُ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِحِ، ج ۲، ص ۲۶۴ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: اگر تم خود ملال و مشقت والے کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ روزانہ سورکعت پڑھنے یا ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مان لو تو تم پر یہ چیزیں واجب ہو جائیں گی پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے مگر یہ مشقت رب نے نہ ڈالی تم نے خود اپنے پڑاؤلی یہ معنی نہیں کہ اللہ ملال میں نہیں پڑتا حتیٰ کہ تم ملال میں پڑو رب تعالیٰ ملال کرنے سے پاک ہے۔

②..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدیدی فی العبادۃ، الحدیث: ۱۱۵، ج ۱، ص ۳۹۰۔

## نفس کی فطرت:

بہتر یہ ہے کہ نفس تمام اوقات ذکر و فکر میں مصروف رہے کیونکہ یہ فطری طور پر دنیاوی لذت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ اپنے اوقات کا آدھا حصہ دنیاوی تدبیروں اور اس کی جائز خواہشات میں مصروف رکھے اور آدھا عبادات میں تو نفس کا میلان دنیا کی طرف ترجیح پاجائے گا کیونکہ فطری طور پر بھی وہ اسی کے موافق ہے اگرچہ دونوں کا وقت برابر ہے لیکن نفس فطری طور پر دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوگا اس لئے کہ دنیاوی معاملات پر ظاہر و باطن موافق ہوتے ہیں اور دل دنیا کو طلب کرنے کے لئے خوب صاف اور فارغ ہوتا ہے جبکہ دل کو عبادات کی طرف پھیرنے میں مشقت ہوتی ہے اس لئے عبادات میں دل کی حضوری و اخلاص کبھی کبھی ہی میسر ہوتی ہے۔

## نجات کے خواہش مند کا جدول:

جو شخص بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا خواہش مند ہو اسے چاہئے کہ اپنے تمام اوقات کو اطاعت میں بسر کرے، جو نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنا زیادہ وقت اطاعت میں گزارے اور جو اچھے و برے دونوں قسم کے اعمال اختیار کرے اس کا معاملہ خطرے میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اس کے کرم سے معافی کا منتظر رہے، قریب ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرمادے۔ یہ وہ ہے جو نور بصیرت سے دیکھنے والوں کے لئے منکشف ہوا اور اگر تم اہل بصیرت میں سے نہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو اپنے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے خطاب فرمایا اس سے استفادہ کر لو۔

## چند فرامین باری تعالیٰ:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندوں میں سے اپنے سب سے زیادہ مقرب اور بلند درجہ ہستی (یعنی حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) سے ارشاد فرمایا:



ترجمہ کنز الایمان: بیشک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ وَاذْكُرْ  
اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۗ

(پ ۲۹، زممل: ۸۰۷)

﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيلاً ﴿۲۵﴾ وَ مِنْ  
الْبَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴿۲۶﴾

(پ ۲۹، ۲۵: الدھر: ۲۶، ۲۵)

﴿۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿۳۹﴾  
وَ مِنْ الْبَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿۴۰﴾

(پ ۲۶، ۳۹: ق: ۳۹، ۴۰)

﴿۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۴۸﴾ وَ مِنْ  
الْبَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ اَدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۴۹﴾

(پ ۲، الطور: ۴۸، ۴۹)

﴿۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: بے شک رات کا اٹھنا، وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

اِنَّ نَاشِئَةَ الْبَيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَ اَقْوَمُ  
قِيلاً ﴿۶﴾ (پ ۲۹، مزمل: ۶)

﴿۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس اُمید پر کہ تم راضی ہو۔

وَ مِنْ اَنَامِي الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَ اطْرَافِ النَّهَارِ  
لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۱۳﴾ (پ ۱۶، طہ: ۱۳)

﴿۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ دُرُفَا مِّنَ الْبَيْلِ ط  
اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ط (پ ۱۲، ہود: ۱۱۳)



## فلاح پانے والوں کی تعریف میں وارد آیات:

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کامیاب بندوں کی کس طرح اور کس کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:



ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا  
يَحْدُرُ الْأَخْدَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ط قُلْ  
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ ط (پ ۲۳، الزمر: ۹)



ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ  
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ط (پ ۲۱، السجد: ۱۶)



ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝۱۴  
(پ ۱۹، الفرقان: ۶۳)



ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۷  
وَبِالْآسَاسِ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ ۝۱۸  
(پ ۲۶، الذریت: ۱۸، ۱۷)



ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝۱۷  
(پ ۲۱، الروم: ۱)

﴿۶﴾

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَىٰ  
 الْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ (پ ۷، الانعام: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے  
 ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے۔

سورج اور چاند کا خیال رکھنے والے:

ان تمام آیات سے واضح ہوا کہ بارگاہ الہی تک رسائی کا راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوقات کی حفاظت کرے اور  
 پابندی کے ساتھ انہیں اور ادو وظائف میں صرف کرے اسی وجہ سے رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ  
 وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بندوں میں سے اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو ذکر الہی  
 کے لئے سورج، چاند اور سایوں کا خیال رکھتے ہیں (۱)۔“ (۲)

(سورج و چاند کا تذکرہ کرتے ہوئے) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۱﴾ (پ ۲، الرحمن: ۵)

ترجمہ کنز الایمان: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔

﴿۲﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَكُو  
 شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ  
 دَلِيلًا ﴿۴۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۴۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب! کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا  
 کہ کیسا پھیلا یا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا پھر ہم  
 نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی  
 طرف سمیٹا۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۴۵، ۴۶)

﴿۳﴾

وَالْقَمَرِ قَدَرًا مِّنْهُ مَنَازِلَ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، یس: ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کیں۔

①..... یعنی وہ ان کے ذریعے وقت داخل ہونے کی تاک میں رہتے ہیں تاکہ مخصوص اوقات میں اللہ عزوجل کا ذکر کریں۔  
 (اتحاف السادة المتقين، ج ۵، ص ۲۰۵)

②..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب مراعاة ادلة المواقيت، الحديث ۱۷۸، ج ۱،

ص ۵۵۸، ”احب“ بدل ”ان خيار“۔



وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا  
فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ط (پ ۷، الانعام: ۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے  
بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔

اس سے ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ سورج اور چاند کے ایک منظوم و مرتب حساب کے مطابق چلنے اور سائے، روشنی اور ستاروں کے پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان سے مدد لی جائے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے اوقات کی مقدار معلوم کر کے انہیں اطاعت اور در آخرت کی تجارت میں صرف کیا جائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ مبارک فرمان بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَن  
أَسْرَادَ أَنْ يَدَّ كَسْرًا أَوْ أَسْرَادَ شُكْرًا ۝۲۶

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی  
رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۲۶)

یعنی اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ اگر ان میں سے کسی ایک وقت میں کوئی عمل رہ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لیا جائے۔ نیز یہ بھی بیان فرمادیا کہ یہ ذکر و فکر اور شکر کے لئے ہے نہ کہ کسی اور چیز کے لئے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن  
أَبْصَرْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّتَبْتَغُوا  
فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ ط (پ ۱۵، بقرہ: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو  
رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کی کہ  
اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔

اس آیت مبارکہ میں جس فضل کی تلاش کا حکم ہے وہ ثواب اور مغفرت ہی ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

﴿.....صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ.....﴾

## آورد کی تعداد اور ترتیب کا بیان

جان لیجئے! دن کے وظائف سات ہیں: (۱)..... طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ایک وظیفہ ہے۔ (۲، ۳)..... طلوع آفتاب سے زوال تک دو وظیفے ہیں۔ (۴، ۵)..... زوال سے لے کر عصر کے وقت تک بھی دو وظیفے ہیں۔ (۶، ۷)..... عصر سے مغرب تک بھی دو وظیفے ہیں۔

رات کو چار وظائف میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱، ۲)..... مغرب سے لے کر لوگوں کے سونے تک دو وظیفے ہیں۔ (۳، ۴)..... رات کے دوسرے نصف سے لے کر طلوع فجر تک بھی دو وظیفے ہیں۔

## دن کے وظائف کی تفصیل

### پہلا وظیفہ:

طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک۔ یہ وقت فضیلت و شرافت والا ہے اور اس کی فضیلت و شرافت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۸﴾ (پ ۳۰، التکویر: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور (قسم ہے) صبح کی جب دم لے۔

اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا:

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ﴿۷﴾ (پ ۷، الانعام: ۹۶) ترجمہ کنز الایمان: تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔

(ایک جگہ) ارشاد فرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ (پ ۳۰، الفلق: ۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا

کرنے والا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس وقت میں سائے کو سمیٹنے سے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا:

ثُمَّ قَبَّضَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۴۱﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔

یہ وہ وقت ہے جس میں رات کا سایہ سمیٹ کر سورج کی روشنی کو پھیلا یا جاتا ہے اور اس وقت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ

نے لوگوں کی تسبیح کی طرف راہنمائی فرمائی۔ چنانچہ، ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۷﴾  
(پ ۲۱، الروم: ۱)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو سراہتے (تعریف کرتے) ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا مِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ  
وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۳۰﴾  
(پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح وشام یاد کرو۔  
وَإِذْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَكَلَّمْنَا دَاوُدَ وَنُوحًا  
وَأَنبَايَا كَثِيرًا وَوَضَعْنَا عَنَّا تَابِعَاتٍ  
وَأَنبَايَا كَثِيرًا وَوَضَعْنَا عَنَّا تَابِعَاتٍ  
وَأَنبَايَا كَثِيرًا وَوَضَعْنَا عَنَّا تَابِعَاتٍ  
ترتیب: اس وظیفے کو نیند سے بیدار ہونے کے وقت سے شروع کر دے۔

بیدار ہونے کے بعد کی دعا:

جب سو کر اٹھے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے ابتدا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا  
بَعْدَ مَا مَاتْنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں موت (نیند) کے بعد حیات (بیداری) عطا فرمائی اور  
ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔<sup>(۱)</sup>

اس کے علاوہ وہ تمام دعائیں و آیات پڑھے جنہیں ہم نے ”دعاؤں کے بیان“ میں بیدار ہوتے وقت کی دعاؤں میں ذکر کیا ہے۔ اسی دوران لباس پہنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی بجا آوری کے لئے ستر عورت اور عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت کرے، ریا کاری و تکبر مقصود نہ ہو۔ اگر ضرورت ہو تو بیت الخلاء کی طرف متوجہ ہو اور پہلے اپنا بایاں پاؤں داخل کرے اور وہ دعائیں پڑھے جو ہم نے ”طہارت کے بیان“ میں بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کے سلسلے میں ذکر کی ہیں۔ پھر سنت کے مطابق مسواک کرے اور ان تمام سنتوں و دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے جنہیں ہم ”طہارت کے بیان“ میں ذکر کر آئے ہیں۔ ماقبل ہم نے تمام عبادات کو فرداً فرداً اس لئے ذکر کر دیا

①..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب وضع الید الیمنی تحت الخد الایمن، الحدیث: ۶۳، ج ۴، ص ۱۹۲۔

تاکہ یہاں صرف ترکیب اور ترتیب کا ذکر کریں۔ جب وضو سے فارغ ہو تو فجر کی سنتیں گھر میں ہی پڑھے کہ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

## فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا:

سنتیں خواہ گھر میں ادا کی ہوں یا مسجد میں، ادا کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی یہ دعا پڑھے: **اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ.....** یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے ذریعے میرے دل کو ہدایت عطا فرما۔<sup>(۱)</sup> (پوری دعا کتاب الاذکار باب نمبر 3 صفحہ 937 پر ہے) پھر گھر سے نکل کر مسجد کا رخ کرے اور مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا کو نہ بھولے، نماز کے لئے دوڑتا نہ جائے بلکہ سکون اور وقار سے چلے جیسا کہ مروی ہے۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے، مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کرے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھے جو حدیث شریف میں آئی ہے، اگر وسعت پائے تو پہلی صف کی کوشش کرے، نہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ ہی کسی سے مزاحمت کرے جیسا کہ ”جمعہ کے بیان“ میں گزرا، اگر گھر میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو اب پڑھ لے اور ذکر کردہ دعا میں مشغول ہو جائے، اگر سنتیں پڑھ چکا ہے تو دو رکعت تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ پڑھے کہ<sup>(۲)</sup> جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے، فجر کی جماعت اندھیرے میں قائم کرنا مستحب ہے کہ ”حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صبح کی نماز اندھیرے میں ادا فرمایا کرتے تھے“<sup>(۳)</sup>۔<sup>(۴)</sup>

## مقبول حج و عمرے کا ثواب:

نماز باجماعت خصوصاً فجر و عشا کی جماعت کبھی ترک نہ کرے کہ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا

- ①..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، الحديث: ۱۱۱، ج ۲، ص ۱۶۶۔
- ②..... احناف کے نزدیک طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک سوائے دو رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۵۵)
- ③..... احناف کے نزدیک: فجر میں تاخیر کر کے اُجالے میں پڑھنا مستحب ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۱، ص ۲۵۱) نیز ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز فجر خوب اُجالا کر کے پڑھو کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔“ (جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ماجاء فی الاسفار بالفجر، الحديث: ۱۵۴، ج ۱، ص ۲۰۲)
- ④..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب التبکیر بالصبح..... الخ، الحديث: ۶۲، ص ۳۲۳۔

انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِيمٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے نماز فجر کے متعلق ارشاد فرمایا: ”جس نے وضو کیا پھر مسجد کی طرف متوجہ ہوا تا کہ نماز ادا کرے اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا اور اس نیکی کی مثل مزید 10 نیکیاں ملیں گی، جب نماز پڑھ کر طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور حج مقبول کے ساتھ واپس لوٹے گا، اگر وہیں بیٹھا رہے حتیٰ کہ چاشت کی نماز بھی پڑھے تو اس کے لئے ہر رکعت کے بدلے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے عشا کی نماز ادا کی تو اس کے لئے بھی اسی کی مثل ثواب ہے اور وہ مقبول عمرے کے ساتھ لوٹے گا۔“ (۱)

## راہ خدا میں جہاد کے برابر عمل:

طلوع فجر سے پہلے ہی مسجد میں چلے جانا بزرگوں کی عادت تھی۔ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں: میں طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہوا تو میری ملاقات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہوئی، انہوں نے مجھ پر سبقت کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا: ”اے بھتیجے! کس چیز کے لئے اس وقت تو اپنے گھر سے نکلا؟“ میں نے عرض کی: ”صبح کی نماز کے لئے۔“ فرمایا: ”تیرے لئے خوشخبری ہے، اس وقت گھر سے نکل کر مسجد میں بیٹھنے کو ہم راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر سمجھتے ہیں۔“ یا اس طرح فرمایا: ”اس وقت گھر سے نکل کر مسجد میں بیٹھنے کو ہم رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی معیت میں جہاد کے برابر سمجھتے ہیں۔“

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ فرماتے ہیں: ایک رات حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس تشریف لائے میں اور حضرت فاطمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سوئے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا: ”تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: ”یا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ہماری جانیں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب وہ ہمیں بیدار کرنا چاہے گا کر دے گا۔“ آپ واپس تشریف لے گئے۔ میں نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو واپس تشریف لے جاتے (اپنا ہاتھ) ران پر مار کر یہ (آیت طیبہ تلاوت) کرتے سنا:

①.....تاریخ مدینہ دمشق لابن عساکر، سعید بن خالد بن ابی طویل، الحدیث: ۴۷۱، ج ۲، ص ۴۷-۴۸۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدًّا لَا (۵۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ (۱)

(پ ۱، الکہف: ۵۴)

بہتر یہ ہے کہ سنت فجر اور دعا کے بعد جماعت قائم ہونے تک استغفار و تسبیح میں مشغول رہے۔ 70 مرتبہ یہ پڑھے: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ يَعْنِي فِيهِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

100 مرتبہ یہ پڑھے: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ يَعْنِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ پاک ہے، تمام تعریفیں اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے، اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ سب سے بڑا ہے۔

پھر ان تمام ظاہری و باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے فرض ادا کرے جنہیں ہم ”کتاب الصلوٰۃ“ میں ”نماز و اقتدا کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ جب فرض پڑھ چکے تو طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر اللّٰہ میں مصروف رہے، عنقریب ہم اس کی ترتیب بیان کریں گے۔

## چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب عمل:

مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کا ذکر کروں۔“ (۲)

نیز مروی ہے کہ ”حضور نبی اکرم، نور مجسم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے کی جگہ پر ہی تشریف فرما رہتے۔“ (۳)

بعض روایات میں ہے کہ ”پھر دو رکعتیں ادا فرماتے۔“ یعنی طلوع آفتاب کے بعد دو رکعتیں ادا فرماتے۔ (۴)

اس نماز کی فضیلت میں اتنی روایات مروی ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت سپدنا امام حسن بصری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: وہ چیزیں کہ جنہیں حضور نبی کریم، رءوف رحيم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کی

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ماروی فیمن نام اللیل..... الخ، الحدیث ۷۷۵، ص ۳۹۲۔

②..... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث ۳۶۶، ج ۳، ص ۴۵۲۔

③..... صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس فی مصلاہ..... الخ، الحدیث ۶۸۴، ص ۳۳۔

④..... قوت القلوب، الفصل السابع فی ذکر اوراد النهار، ج ۱، ص ۳۲۔



رحمت میں سے ذکر فرمایا کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابن آدم! تو نمازِ فجر و عصر کے بعد ایک، ایک ساعت میرا ذکر کر میں ان دونوں وقتوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔“ (۱)

## نمازِ فجر کے بعد کے وظائف:

جب اس کی فضیلت ظاہر ہو چکی تو چاہئے کہ نمازِ فجر کے بعد طلوعِ آفتاب تک بیٹھا رہے اور کسی سے کلام نہ کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب تک اس کا وظیفہ ان چار اقسام پر مشتمل ہو: (۱)..... دعائیں پڑھے۔ (۲)..... اذکار کو بار بار دہراتا رہے۔ (۳)..... قرآنِ پاک کی تلاوت اور (۴)..... غور و فکر میں مصروف رہے۔

## ﴿1﴾..... دُعائیں:

جب بھی نماز سے فارغ ہو تو یہ پڑھے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَتِيمَ يَعُودُ السَّلَامُ حِينَ رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِيَعْنِيَ أَعْلَى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اور تیری طرف ہی سلامتی لوٹتی ہے۔ اے ہمارے رب عَزَّوَجَلَّ! ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر (یعنی جنت) میں داخل فرما۔ تو برکت والا ہے اے جلال و بزرگی والے۔

پھر وہ دعا پڑھے جو رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پڑھا کرتے تھے، جو یہ ہے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْتِنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یعنی میرا رب عَزَّوَجَلَّ پاک ہے جو بلند و بالا اور بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کے لئے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، تمام بھلائیاں اسی کے دستِ قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نعمت و فضل اور اچھی ثناء والا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر پڑے

①..... حلیۃ الاولیاء، محمد بن صبیح بن السماک، الحدیث: ۱۹۸، ج ۸، ص ۲۳۳۔

برامین کافر۔<sup>(۱)</sup>

پھر وہ دعائیں پڑھے جنہیں ہم ”دعاؤں کے بیان“ کے تیسرے اور چوتھے باب میں ذکر کر آئے ہیں۔ اگر قدرت ہو تو وہ تمام دعائیں پڑھے یا ان میں سے وہ دعایاں کر لے جسے اپنے حال کے زیادہ موافق، دل کو زیادہ نرم کرنے والی اور زبان پر زیادہ ہلکی جانے۔

## ﴿2﴾..... بار بار کئے جانے والے اذکار:

یہ وہ کلمات ہیں جنہیں بار بار پڑھنے کے فضائل آئے ہیں۔ انہیں ذکر کر کے ہم کلام کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کم از کم تین یا سات مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 70 یا 100 مرتبہ پڑھے جبکہ درمیانی مقدار 10 مرتبہ ہے۔ لہذا اپنی فراغت و وقت کی وسعت کے مطابق ان اذکار کو بار بار دہرائے، زیادہ کی فضیلت زیادہ ہے مگر درمیانی مقدار ہی راہ اعتدال ہے اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے اور ہمیشہ پڑھے، یہی زیادہ لائق ہے کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ قلیل ہو۔ ہر وہ وظیفہ جس کی کثرت پر مواظبت ممکن نہ ہو اس کی قلیل مقدار ہی افضل ہوگی جبکہ بیشگی کے ساتھ ہو اور دل میں اس کثرت سے زیادہ اثر کرنے والی ہوگی جو کبھی کبھی ہو۔ ہمیشہ کئے جانے والے عمل قلیل کی مثال پانی کے ان قطروں کی سی ہے جو مسلسل زمین پر گرتے رہتے ہیں آخر کار زمین میں گڑھا ہو جاتا ہے اگرچہ یہ پتھر پر ہی گریں اس کے برعکس وہ عمل جو کثرت کے ساتھ ہو لیکن مسلسل نہ ہو اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ایک ہی مرتبہ گر جائے یا چند بار متفرق جگہوں پر مختلف اوقات میں گرے تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

## بار بار پڑھے جانے والے دس کلمات:

(۱)..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ہے بادشاہی اور اسی کے لئے حمد ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند المدنیین، الحدیث: ۱۶۵۴، ج ۵، ص ۵۶۱۔

سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا سلم، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۱۸، مفہومًا۔

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔<sup>(۱)</sup>

(۲).....سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یعنی اللہ عزوجل پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لئے ہیں اور اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

(۳).....سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ یعنی وہ پاک مقدس ہے فرشتوں اور روح کا مالک۔<sup>(۳)</sup>

(۴).....سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ یعنی پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف۔<sup>(۴)</sup>

(۵).....اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ یعنی میں عظمت والے اللہ عزوجل سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔<sup>(۵)</sup>

(۶).....اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ یعنی الہی جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا تیرے مقابل غمی کو غنا نفع نہیں پہنچاتی۔<sup>(۶)</sup>

(۷).....لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سچا اور واضح بادشاہ ہے۔<sup>(۷)</sup>

①.....سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب ما یقول الرجل اذا سلم، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۱۸،

دون قولہ: یحییٰ ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر۔

②.....المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر.....الخ، بیان الباقیات الصالحات، الحدیث: ۱۹۴، ج ۲، ص ۱۹۳۔

③.....صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۴۸، ص ۲۵۲۔

④.....صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء.....الخ، باب فضل التهلیل والتسبیح.....الخ، الحدیث: ۲۶۹، ص ۱۴۵۔

⑤.....سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۰۸، ج ۵، ص ۲۵۵، "اسأله التوبة" بدله "توب اليه"۔

⑥.....مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان مراءۃ المناجیح، ج ۲، ص ۷۲ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: یعنی کوئی شخص اپنے نسب یا غنا کی وجہ سے تیری پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ خیال رہے کہ مخلوق جو کچھ نفع، نقصان پہنچاتی ہے وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی خدا کا مقابلہ کرے کسی کو نفع نقصان پہنچائے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے لہذا یہ الفاظ انبیاء اور اولیاء کے باذن الہی نفع پہنچانے کے خلاف نہیں۔

⑦.....صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلاة، الحدیث: ۸۴، ج ۱، ص ۲۹۳۔

⑧.....حلیۃ الاولیاء، سالم الخواص، الحدیث: ۲۳۱، ج ۸، ص ۳۰۹۔

(۸)..... بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَهُ اَسْمُهُ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ یعنی اللہ عزوجل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سنتا جانتا ہے۔ (۱)

(۹)..... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِیِّ الْاَمْرِیِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے امی رسول، نبی اور بندے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ (۲)

(۱۰)..... اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ۔ یعنی میں، اللہ عزوجل جو سنتا جانتا ہے، کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے رب عزوجل! میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ لیتا ہوں، اے میرے رب عزوجل! میں شیاطین کے حاضر ہونے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ (۳)

ان دس کلمات میں سے جب ہر ایک کو دس مرتبہ پڑھا جائے گا تو 100 کی تعداد حاصل ہوگی، یہ اس سے افضل ہے کہ ایک ہی ذکر کو 100 مرتبہ پڑھے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک الگ فضیلت ہے اور دل کو ہر ایک نوع کے ساتھ تنبیہ اور لذت حاصل ہوتی ہے اور نفس کو ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کی طرف منتقل ہونے میں راحت حاصل ہوتی اور اکتاہٹ سے امن ملتا ہے۔

### ﴿3﴾..... قرآن پاک کی تلاوت:

ایسی تمام آیات پڑھنا مستحب ہیں احادیث میں جن کی فضیلت آئی ہے۔ وہ یہ ہیں:

(۱)..... سورہ فاتحہ (۴)۔ (۲)..... آیۃ الکرسی (۵)۔ (۳)..... سورہ بقرہ کی آخری آیات ”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ“ سے آخر تک (۶)۔ (۴)..... ”شَهِدَ اللّٰهُ“ پوری آیت (پ ۳، ال عمران: ۱۸)۔ (۵)..... ”قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِکَ الْمَلِکِ“

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا اصبح و اذا امسى، الحدیث: ۳۳۹۹، ج ۵، ص ۲۵۱۔

②..... تاریخ بغداد، الوضاح ابو عوانة ۴۳۲۶، ج ۱۳، ص ۲۶۲، دون قوله: وعلى آله وصحبه وسلم۔

③..... سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، الحدیث: ۲۹۳، ج ۲، ص ۲۲۳، مختصراً۔

سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۵۳۹، ج ۵، ص ۳۱۳، مختصراً۔

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة..... الخ، الحدیث: ۸۰، ص ۴۰۲۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسی، الحدیث: ۸۱، ص ۴۰۵۔

⑥..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة..... الخ، الحدیث: ۸۰، ص ۴۰۲۔

⑦..... تفسیر البغوی، پ ۳، آل عمران، تحت آلیة ۲، ج ۱، ص ۲۲۲۔

دو آیات (پ ۳، آل عمران: ۲۶-۲۷) (۱)۔ (۶)..... ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ آخرتک (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۸)۔  
 (۷)..... ”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ“ آخرتک (پ ۲۶، الفتح: ۲۷)۔ (۸)..... ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ  
 يَتَّخِذْ وَلَدًا“ ایک آیت (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱۱) (۲)۔ (۹)..... سورہ حدید کی ابتدائی پانچ آیات۔ (۱۰).....  
 سورہ حشر کی آخری تین آیات (۳)۔ (۱۱)..... اگر ان ”مسیباتِ عشرہ“ کو بھی پڑھے جو حضرت سیدنا خضر علی  
 نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ القوی کو تحفہ دے کر صبح شام پڑھنے کی وصیت فرمائی، تو  
 فضیلت مکمل ہو جائے گی اور تمام دعاؤں کی مذکورہ فضیلت جمع ہو جائے گی۔

### حکایت: سعادت مندوں کا عمل:

حضرت سیدنا کرز بن وبرہ حارثی علیہ رحمۃ اللہ القوی ابدال میں سے تھے، فرماتے ہیں: اہل شام میں سے میرا  
 ایک بھائی میرے پاس آیا اور مجھے ایک تحفہ دے کر کہا: ”اے کرز! اسے قبول کر لو یہ بہت ہی اچھا تحفہ ہے۔“ میں نے  
 کہا: ”اے بھائی! تجھے یہ تحفہ کس نے دیا؟“ کہا: ”حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ القوی نے۔“ میں نے کہا:  
 ”کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ انہیں یہ تحفہ کس نے دیا؟“ کہا: کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں ایک دفعہ کعبۃ  
 اللہ المشرفہ کے صحن میں بیٹھ کر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ“ پڑھنے اور اللہ عزوجل کی بزرگی بیان کرنے میں  
 مصروف تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور سلام کر کے میرے دائیں جانب بیٹھ گیا، میں نے ان سے زیادہ  
 خوبصورت چہرہ، ان کے لباس سے زیادہ خوبصورت لباس، ان سے زیادہ نورانی اور خوشبودار شخص پوری زندگی میں کبھی  
 نہ دیکھا تھا، میں نے ان سے کہا: اے اللہ کے بندے! آپ کون ہیں؟ اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے  
 فرمایا: میں خضر ہوں۔ میں نے کہا: ”آپ میرے پاس کیسے تشریف لائے؟“ فرمایا: ”تمہیں سلام کرنے کے لئے آیا  
 ہوں اور تم سے محض رضائے الہی کے لئے محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک تحفہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ تمہیں  
 دے دوں۔“ میں نے پوچھا: ”وہ کیا ہے؟“ فرمایا: سورج کے طلوع ہونے، اس کے زمین پر پھیلنے اور غروب ہونے

①..... تفسیر البغوی، پ ۳، آل عمران، تحت آلیۃ ۲، ج ۱، ص ۲۲۴۔

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند المکیین، حدیث معاذ بن انس الجہنی، الحدیث: ۱۵۶۴، ج ۸، ص ۳۱۲۔

③..... سنن الترمذی، کتاب فضائل القرآن، الحدیث: ۲۹۳، ج ۴، ص ۲۲۳۔

سے پہلے سات سات مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور آیتہ الکرسی پڑھ کر، سات بار یہ پڑھو: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یعنی اللہ عزوجل پاک ہے، سب خوبیاں اللہ عزوجل کو، اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے۔ پھر سات بار بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجو، پھر سات بار اپنے لئے، اپنے والدین اور تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت کی دعا کرو پھر سات بار یہ پڑھو:

اللَّهُمَّ افْعَلْ بِيْ وَيَهْمُ عَاجِلًا وَآجِلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ یعنی اے اللہ عزوجل! میرے اور ان سب کے ساتھ ابھی اور بعد میں، دین، دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ معاملہ فرمانا جو تیری شایان شان ہے وہ معاملہ نہ فرمانا جس کے ہم مستحق ہیں بے شک تو بخشنے والا، بردبار، جواد، کرم فرمانے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس وظیفے کو صبح و شام پڑھنا منت چھوڑنا۔“

حضرت سپدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: ”آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا؟“ فرمایا: ”مجھے یہ تحفہ حضرت سپدنا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔“ میں نے کہا: ”اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیے۔“ فرمایا: ”جب تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان سے اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھ لینا وہ اس کا ثواب بتادیں گے۔“ حضرت سپدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ایک دن میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے حتیٰ کہ جنت میں داخل کر دیا میں نے جنتی نعمتیں اور بڑے بڑے امور دیکھ کر فرشتوں سے پوچھا: ”یہ کس کے لئے ہے؟“ جواب دیا: ”اس کے لئے جو آپ کے عمل کی مثل عمل کرے۔“ فرماتے ہیں: میں نے جنتی پھل کھائے اور اس کے مشروبات پیئے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 170 نبیائے کرام اور فرشتوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی 70 صفوں کے جھرمٹ میں میرے پاس تشریف لائے ہر صف مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے جتنی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام سے نوازا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! حضرت سپدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ حدیث سنی ہے۔“ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبار ارشاد فرمایا: ”حضرت خضر نے سچ کہا اور جو کچھ انہوں نے بتایا حق ہے، وہ اہل زمین کے عالم

اور ابدال کے سردار اور زمین پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکر میں سے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! جو کوئی یہ عمل کرے اور جو میں نے خواب میں دیکھا وہ نہ دیکھے کیا اسے بھی اس میں سے کچھ دیا جائے گا؟“ تو ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق سے مبعوث فرمایا! جو بھی یہ عمل کرے گا اسے اسی کی مثل دیا جائے گا اگرچہ اس نے مجھے اور جنت کو نہ دیکھا ہو، اس کے تمام کبیرہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے کئے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے اپنا غضب اور عذاب دور فرما دے گا اور بائیں جانب والے فرشتے کو حکم فرمائے گا کہ ایک سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! اس عمل کو وہی کرے گا جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سعادت مندی سے سرفراز فرمایا اور وہی ترک کرے گا بدبختی جس کا مقدر ہوگی۔“ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي نے جو چار ماہ تک کچھ کھایا نہ پیا شاید یہ اس خواب کے بعد کا واقعہ ہے۔

یہ قراءت کا وظیفہ ہے اگر اس پر کچھ اضافہ کر لے یا اسی قدر پر اکتفا کرے دونوں طرح بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک ذکر و فکر اور تمام دعاؤں کی فضیلت کا جامع ہے جبکہ غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ اس کی فضیلت اور آداب ہم ”تلاوت کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔

#### ﴿4﴾..... غور و فکر کرنا:

اپنے وظائف میں اسے بھی ایک وظیفہ بنانا چاہئے، عنقریب نجات دینے والے امور کے ضمن میں ”غور و فکر کے بیان“ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ کس بارے میں غور و فکر کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہو؟ لیکن اس کا مجموعہ دونوں کی طرف لوٹتا ہے:

**فِتْنِ اَوَّل:** نفع بخش معاملات کے بارے میں غور و فکر کرے یوں کہ اپنی کوتاہیوں پر نفس کا محاسبہ کرے، آنے والے دن کے لئے وظائف کو ترتیب دے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی تدبیر کرے جو نیکی سے روکتی ہیں، اپنی کوتاہی اور اعمال میں خلل ڈالنے والی چیزوں کو یاد کرے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے، اپنے اعمال اور دیگر مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں اپنے دل میں اچھی اچھی نیتیں حاضر کرے۔

**فِتْنِ دُوْم:** اس امر کے بارے میں ہے جو علم مکاشفہ میں نفع کا باعث بنتا ہے یوں کہ ایک بار اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں اور ظاہری و باطنی نشانیوں کے مسلسل آنے کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ اس کے ذریعے معرفت الہی میں

اضافہ ہو اور اس پر جتنا ہو سکے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سزاؤں کے بارے میں غور و فکر کرے تاکہ معبود کی قدرت و بے نیازی کی پہچان میں اضافہ ہو اور ان سزاؤں سے ڈرنے میں زیادتی ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں بعض لوگوں کو غور و فکر کرنے کی استطاعت ہوتی ہے اور بعض کو نہیں، اسے ہم ”غور و فکر کے بیان“ میں ذکر کریں گے۔

### سب سے بلند رتبہ عبادت:

جب غور و فکر کرنا آسان ہو جائے تو عبادات میں یہ سب سے بلند رتبہ عبادت ہے کیونکہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو امر مزید پائے جاتے ہیں: (۱)..... معرفتِ الہی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ غور و فکر کرنا معرفت و کشف کی چابی ہے۔ (۲)..... محبتِ الہی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ دل اسی سے محبت کرتا ہے جس کی تعظیم کا وہ اعتقاد رکھتا ہے۔ نیز عظمت و جلالِ الہی بھی منکشف ہوتے ہیں جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات، قدرت اور افعال کے عجائبات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا غور و فکر سے معرفت، معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت حاصل ہوتی ہے۔

### انس و محبت میں فرق:

ذکر بھی اُنس کا باعث ہے، اُنس محبت ہی کی ایک قسم ہے لیکن معرفت کے سبب حاصل ہونے والی محبت زیادہ قوی، زیادہ ثابت اور زیادہ عظیم ہوتی ہے۔

### عارف کی محبت اور ذاکر کے انس میں نسبت:

عارف کی محبت اور مکمل طور پر دیکھے بغیر نورِ عرفان سے اُنس حاصل کرنے والے ذاکر کے اُنس کے درمیان نسبت ایسے ہے جیسے وہ شخص جس نے کسی کے جمال کو آنکھوں سے دیکھا، اس کے حسنِ اخلاق، حسنِ افعال، فضائل و خصائل حمیدہ پر تجربہ کی روشنی میں مطلع ہوا، اس کے عشق کی نسبت اس شخص کے اُنس سے ہو جس کے کانوں پر کسی ایسے شخص کی اچھی سیرت و صورت کے اوصاف بغیر تفصیل کے بار بار بیان کئے جاتے رہے ہوں جو اس کی آنکھوں سے غائب ہے، اس کی محبت اس شخص کی محبت کی طرح نہیں جس نے دیکھ کر محبت کی ہے اور نہ ہی خبر مشاہدہ کی طرح ہوتی ہے۔



وہ بندے جو اللہ عزوجل کے ذکر پر دل و زبان سے ہمیشگی اختیار کرتے اور رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو لے کر آئے ہیں صرف ایمان تقلیدی سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے پاس صفات باری تعالیٰ کی خوبیوں میں سے چند ایسے مجمل امور کے سوا کچھ نہیں جنہیں یہ اس شخص کی تصدیق سے مانتا ہے جس نے اسے ان کے سامنے بیان کیا جبکہ عارفین وہ ہیں جنہوں نے اس کے جلال و جمال کا باطنی بصیرت کی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری بصارت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اس کے جلال و جمال کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر قادر نہیں۔ البتہ، ہر شخص اسی قدر مشاہدہ کرتا ہے جس قدر حجاب اس سے اٹھایا جاتا ہے۔ جمال الہی کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کے حجابات کی کوئی حد ہے، صرف ان حجابوں کی تعداد 70 ہے جو نور کھلانے کے حقدار ہیں اور ان تک پہنچنے والا یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ وہ اصل تک پہنچ گیا ہے۔

## نور کے 70 حجابات:

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ لَّوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ كُلَّ مَا أَدْرَكَ بَصَرُهُ لِعَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ کے لئے نور کے 70 حجابات ہیں اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کی ذات کے انوار ہر اس چیز کو جلا دیں جس تک اس کی نظر پہنچے۔“<sup>(۱)</sup>

ان حجابوں میں بھی ترتیب ہے۔ ان انوار میں آپس میں مرتبہ کے اعتبار سے ایسے تفاوت پایا جاتا ہے جیسے سورج، چاند اور ستاروں کے درمیان تفاوت ہے۔ پہلے وہ نور ظاہر ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے۔ اسی بنا پر بعض صوفیائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ نے اس کے درجات بیان کئے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ترقی کرنے میں ظاہر ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ“ اس کی تفسیر میں صوفیائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”یعنی جب ان پر معاملہ پوشیدہ ہو گیا تو ”مَرَّا كَوْ كَبَابًا“ (پ، الانعام: ۷۶) یعنی نور کے حجابات میں سے ایک حجاب تک پہنچ گئے اور اسے تارے سے تعبیر کیا۔

اس سے یہ چمکتے ہوئے جسم مراد نہیں کیونکہ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اللہ عزوجل جسم و جسمانیت سے پاک ہے بلکہ یہ بات تو پہلی ہی نظر میں جان لی جاتی ہے تو جس چیز سے عوام گمراہ نہیں ہوتے، اس چیز سے خلیل اللہ حضرت سیدنا

①..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله علیہ السلام ان اللہ لا ینام..... الخ، الحدیث: ۱۷۴، ص ۱۰۹، مفہومًا۔

ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کیسے راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔

اور وہ جنابات جنہیں انوار کا نام دیا گیا ہے ان سے مراد یہ روشنی نہیں جو آنکھ کے ساتھ دیکھی جاتی ہے بلکہ ان سے

مراد وہ نور ہے جو اللہ عزوجل کے اس فرمان میں مراد ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِ ۝۱

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا اس کے

نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ (پ ۱۸، النور: ۳۵)

ہمیں ان معانی سے چشم پوشی کرتے ہوئے گزر جانا چاہئے کیونکہ یہ علم معاملہ سے خارج ہیں اور بغیر کشف کے

ان کی حقیقت تک نہیں پہنچا جاسکتا اور وہ کشف، خالص غور و فکر کے تابع ہے اور کم ہی لوگوں کے لئے یہ دروازہ کھلتا

ہے۔ عوام کو وہی غور و فکر میسر ہوتی ہے جو علم معاملہ میں فائدہ دیتی ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ اور بڑا نفع ہے۔

### خلاصہ کلام:

ہر طالب آخرت کو نماز فجر کے بعد یہ چار وظائف کرنے چاہئیں یعنی دعا، ذکر، تلاوت قرآن اور غور و فکر کرنا بلکہ

ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں وظیفہ بنائے کہ نماز کے بعد ان چار وظائف کے سوا کوئی وظیفہ نہیں۔ اس

وظیفہ پر اس وقت قادر ہوا جاسکتا ہے جب ہتھیار اور ڈھال پکڑے ہوئے ہوں اور روزہ وہ ڈھال ہے جو شیطان کے

راستوں کو تنگ کر دیتا ہے اور شیطان ایسا دشمن ہے جو ہدایت کے راستے سے بھٹکانے والا ہے۔

طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک فجر کی دو سنتوں اور فرضوں کے علاوہ کوئی (نفل) نماز جائز نہیں۔

پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وقت ذکر و اذکار میں صرف

کرتے تھے اور یہی بہتر ہے۔ البتہ، فجر کے فرائض سے پہلے نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز کے سوا کسی اور چیز سے دور نہ ہوتا

ہو، اس وجہ سے (نفل) نماز پڑے تو کوئی حرج نہیں (عند الشوافع)۔

### دوسرا وظیفہ:

طلوع آفتاب سے چاشت کے وقت تک۔ چاشت کے وقت سے مراد طلوع آفتاب سے زوال کے درمیان کا

نصف وقت ہے۔ مثلاً دن کے 12 گھنٹے فرض کئے جائیں تو تین گھنٹے گزرنے تک یہ وقت ہوگا اور یہ دن کا چوتھائی

حصہ ہے، اس حصے میں دو وظیفے زائد ہیں:

﴿۱﴾..... نمازِ چاشت: اسے ہم ”نماز کے بیان“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اشراق کے وقت دو رکعتیں پڑھے اور یہ وہ وقت ہے جب دھوپ زمین پر پھیل جائے اور سورج نصف نیزہ کی مقدار بلند ہو جائے اور جب زمین کے گرم ہونے کی وجہ سے اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں اور قدم سورج کی گرمی سے تپش محسوس کرنے لگیں تو اس وقت (چاشت کی) چار، چھ یا آٹھ رکعتیں پڑھے۔ (اشراق کی) دو رکعتوں کا وقت تو وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں مراد ہے:

يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿۱۸﴾ (پ: ۲۳، ص: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔

یہ سورج کے چمکنے کا وقت ہے اس وقت زمین کی سطح سے اٹھنے والے بخارات اور غبار سے سورج کے بلند ہونے کے باعث اس کی روشنی مکمل طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بخارات وغیرہ اس کے مکمل طور پر چمکنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں اور چار رکعات کا وقت، چاشت کا وقت ہے۔ اس کی قسم بیان کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَالصُّبْحِ ﴿۱﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿۲﴾ (پ: ۳۰، الضحیٰ: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔

## رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت:

ایک مرتبہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشراق کے وقت صحابہ کرام رَضُوا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ کے پاس تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں بلند آواز سے پکار کر ارشاد فرمایا: ”جان لو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب گرم زمین کی وجہ سے اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔“ ﴿۱﴾ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب ایک ہی مرتبہ نماز پڑھنے پر اکتفا کرنا چاہے تو چاشت کا وقت افضل ہے اگرچہ اصل فضیلت وقتِ کراہت کے دنوں کناروں کے درمیان نماز پڑھنے سے بھی حاصل ہو جائے گی، وقتِ کراہت کے کنارے یہ ہیں: (۱)..... سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے اندازاً نصف نیزہ کی مقدار بلند ہونے تک (۲)..... زوال کے وقت سے پہلے جب سورج آسمان کے درمیان ٹھہرتا ہے۔ لفظ ”چاشت“ کا اطلاق اس تمام وقت پر ہوتا ہے گویا کہ اشراق کی دو رکعتیں اس وقت ہوتی ہیں جب وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد وقتِ غیر مکروہ کی

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الاوابین حين..... الخ، الحدیث: ۷۴، ص ۳۷۔

ابتدا ہوتی ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، جب بلند ہو جاتا ہے تو سینگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔“<sup>(۱)</sup> سورج کے بلند ہونے کی کم سے کم مقدار یہ ہوگی کہ وہ زمین کے بخارات اور غبار سے بلند ہو جائے اور اس میں اندازے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

﴿۲﴾..... اس وقت کا دوسرا وظیفہ وہ نیک کام ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے اور ان کا صبح کے وقت کرنا رائج ہے مثلاً مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، نیکی و تقویٰ پر مدد کرنا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا اور اس کے قائم مقام دیگر کام جیسے مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرنا وغیرہ۔

اگر ان میں سے کوئی کام نہ ہو تو ان چار وظائف کی طرف لوٹ آئے جنہیں ہم نے پیچھے ذکر کیا یعنی دعائیں، ذکر، تلاوت قرآن اور غور و فکر کرنا۔ اگر چاہے تو ان کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھے کہ وہ نمازِ فجر کے فوراً بعد مکروہ ہے اب مکروہ نہیں۔ لہذا جو اس وقت میں نماز بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لئے اس وقت کے وظائف میں سے نماز پانچواں وظیفہ ہو جائے گا۔ فجر کے فرضوں کے بعد ہر وہ نماز مکروہ ہے جس کا کوئی سبب موجود نہ ہو۔ طلوع فجر کے بعد بہتر یہ ہے کہ فجر کی دو سنتوں اور (عند الشواغ) تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ پر ہی اکتفا کرے اس کے علاوہ دیگر نوافل میں مشغول نہ ہو بلکہ ذکر، تلاوت قرآن، دُعا اور غور و فکر میں مشغول رہے۔

## تیسرا وظیفہ:

یہ چاشت کے وقت سے لے کر زوال تک کے لئے ہے، چاشت کے وقت سے ہماری مراد نصف دن اور اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے کیونکہ ہر تین گھنٹوں کے بعد نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ جب طلوع فجر کے بعد تین گھنٹے گزر جائیں تو اس وقت اور اس کے گزرنے سے پہلے نمازِ چاشت کا وقت ہے، جب تین گھنٹے اور گزر جائیں تو نمازِ ظہر ہے، جب تین گھنٹے اور گزر جائیں تو نمازِ عصر ہے، جب تین گھنٹے اور گزر جائیں تو نمازِ مغرب ہے۔ لہذا نمازِ چاشت کا مرتبہ

①..... سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، الحديث ۵۵۷، ص ۹۹۔

②..... یہ وقت آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے لے کر اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ ہونے لگے جس کی مقدار کنارہ چمکنے سے ۲۰

منٹ تک ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۴۳)

طلوع اور زوال کے درمیان ایسے ہے جیسے زوال اور غروب کے درمیان نمازِ عصر کا مرتبہ مگر نمازِ چاشت فرض نہیں کی گئی کیونکہ یہ لوگوں کا اپنے کاموں میں مصروف رہنے کا وقت ہے، اس لئے لوگوں پر آسانی کر دی گئی۔

## اس وقت کا وظیفہ:

اس وقت میں وہ چار اقسام (یعنی دعا، ذکر، تلاوتِ قرآن، غور و فکر) اور مزید دو امر ہیں:

﴿۱﴾..... کام کاج، تدبیر معیشت اور بازار کی حاضری میں مشغول ہو، اگر تاجر ہے تو سچائی و امانت داری سے تجارت کرے، اگر ہنرمند ہے تو خیر خواہی و شفقت کو پیش نظر رکھے اور اپنی تمام مشغولیات میں ذکرِ الہی کو نہ بھولے۔ اگر روزانہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے تو ہر روز اتنی کمائی پر ہی اکتفا کرے جتنی اسے اس دن میں حاجت ہے، جب ایک دن کا رزق حاصل کر لے تو مسجد کی طرف لوٹ آئے اور آخرت کے لئے زاد راہ تیار کرے کیونکہ زواہِ آخرت کی حاجت زیادہ سخت اور اس کا نفع دائمی ہے۔ لہذا اس کی تیاری میں مشغول ہونا وقتی حاجت سے زائد کمانے سے زیادہ اہم ہے۔

## مومن کے ملنے کی تین جگہیں:

منقول ہے کہ مومن تین جگہوں میں ہی پایا جاتا ہے: (۱)..... مسجد میں، جس کو نماز کے ذریعے آباد کرتا ہے۔ (۲)..... گھر میں، جو اسے چھپاتا ہے۔ (۳)..... کسی ایسی حاجت میں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ حاجت کی مقدار کتنی ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، اکثر لوگ غیر ضروری کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں مفلسی کا اندیشہ دلاتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لہذا وہ مفلسی کے ڈر سے شیطان کی طرف مائل ہو کر اسے بھی جمع کرتے ہیں جسے وہ کھاتے نہیں اور بخشش و فضل کا وعدہ کرنے والے خدا رحمن عَزَّوَجَلَّ سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی طرف راغب نہیں ہوتے۔

﴿۲﴾..... ”قیلولہ“ کرے اور یہ سنت بھی ہے، اس کے ذریعے رات کے قیام پر مدد ملی جاتی ہے جیسا کہ سحری سنت ہے اور اس کے ذریعے دن کے روزے پر مدد ملی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو قیام تو نہیں کرتا لیکن اگر اس وقت نہ سونے کا تو نیکی میں بھی مشغول نہیں ہوگا اور بسا اوقات غافل لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان سے بات چیت

کرے گا تو جب وہ مذکورہ اوراد و وظائف کی طرف رجوع کرنے کے لئے نہیں جاگتا تو اس کے لئے سونا بہتر ہے کیونکہ نیند میں خاموشی و سلامتی ہے (لہذا ایسی حالت میں اس کے حق میں سونا بہتر ہے)۔  
بعض بزرگ فرماتے ہیں: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے تمام اعمال میں افضل عمل خاموشی اور نیند ہوں گے۔“

بہت سے عابد ایسے ہیں کہ ان کی بہترین حالت، نیند ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ ریا کے لئے عبادت کرے اور اس میں اخلاص نہ ہو، تو پھر غافل فاسق کی کیا حالت ہوگی؟  
حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں: ”اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ فارغ اوقات میں سلامتی طلب کرنے کے لئے سو جائیں۔“

### نیند بھی عبادت ہے:

پس جب نیند سلامتی کو طلب کرنے اور رات کے وقت قیام کرنے کی نیت سے ہو تو اس کی یہ نیند بھی عبادت ہو گی، لیکن زوال سے اتنی دیر پہلے بیدار ہو جانا چاہئے جس میں وہ وقت نماز داخل ہونے سے پہلے پہلو وضو اور مسجد میں حاضر ہونے کے ذریعے نماز کی تیاری کر سکے کہ یہ اعمال کے فضائل میں سے ہے۔

### دن کے اعمال میں سب سے افضل عمل:

اگر اس وقت نہ سوئے اور نہ ہی کسبِ معاش میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مشغول رہے تو یہ دن کے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں لوگ یادِ الہی سے غافل ہوتے اور اپنے دنیوی رنج و افکار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ دل جو اُس وقت اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے فارغ ہوتا ہے جس وقت لوگ اس کی بارگاہ سے اعراض کرتے ہیں، وہ اس لائق ہے کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے پاک و صاف فرمائے اور اسے اپنے قرب و معرفت کے لئے چن لے۔ اس کی فضیلت شب بیداری کی فضیلت کی طرح ہے کیونکہ رات نیند کی وجہ سے غفلت کا وقت ہے اور یہ (یعنی چاشت سے زوال تک کا) وقت اپنی خواہشات کی اتباع اور دنیوی رنج و افکار میں مشغولیت کے سبب غفلت کا وقت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً لِّمَنۡ  
 أَرَادَ أَنْ يَدَّكُرَ ﴿١٩﴾ (الفرقان: ۶۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی  
 رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے۔

اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے فضیلت میں ایک کو دوسرے کے پیچھے رکھا، ایک معنی یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے رکھا کہ اگر ایک میں کوئی عمل رہ جائے تو دوسرے میں اس کا تدارک کر لیا جائے۔

### چوتھا وظیفہ:

زوال سے لے کر نماز ظہر اور اس کی سنتوں سے فارغ ہونے تک کے لئے ہے، یہ دن کے وظائف میں سے سب سے چھوٹا اور افضل وظیفہ ہے۔ جب زوال سے پہلے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو اور سورج ڈھل جائے اور مؤذن اذان کہنا شروع کرے تو اذان کے جواب سے فارغ ہونے تک صبر کرے، پھر اذان و اقامت کے درمیان عبادت کے لئے کھڑا ہو جائے کہ یہی وہ دو پہر کا وقت ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں مراد ہے:

وَحِينَ تَضَاهُرُونَ ﴿١٨﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب تمہیں دو پہر ہو۔

اس وقت میں چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھے۔ دن کی تمام نمازوں میں سے یہی ایک نماز ہے جس کے بارے میں بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ نے فرمایا: ”اسے ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔“

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَافِي كَامَوْقِفِ يَهْ كَه تَمَام نَوَافِلِ كِي طَرَحْ اَنِّهِي سَبْحِي دَوْدُو كَر كِي پڑھا جائے گا، صحیح روایات اسی کے بارے میں وارد ہیں۔<sup>(۱)</sup>

یہ چار رکعتیں لمبی کر کے پڑھی جائیں کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے ”نفل نمازوں کے بیان“ میں اس کے بارے میں ایک روایت ذکر کی ہے۔ اس میں سورہ بقرہ یا 100، 100 آیات والی دو سورتیں یا 100 سے کم آیات والی چار سورتیں پڑھے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، نیز پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ آپ کا کوئی عمل ان گھڑیوں میں بارگاہِ خداوندی کی طرف اٹھایا جائے۔

①.....سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب صلاة اللیل مثنی مثنی، الحدیث: ۱۳۲، ج ۲، ص ۵۴۔

حتی الامکان ان چار رکعات کو کبھی ترک نہ کرے، جب مذکورہ طریقے کے مطابق لمبی لمبی یا پھر چھوٹی چھوٹی چار رکعتیں پڑھ لے تو نمازِ ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرے، ظہر کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھے، پھر چار رکعتیں پڑھے کیونکہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز کے بعد بغیر فاصلے کے اسی قسم کی نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا۔

ان نوافل میں آیۃ الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور وہ آیات پڑھنا مستحب ہیں جنہیں ہم ”پہلے وظیفہ“ میں ذکر کر چکے ہیں تاکہ یہ دعا، ذکر، تلاوت قرآن، نماز اور تسبیح و تحمید سب کو جامع ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی فضیلت بھی حاصل ہو۔

### پانچواں وظیفہ:

نمازِ ظہر کے بعد سے نمازِ عصر تک کے لئے ہے، اس دوران مسجد میں ذکر و نماز یا دیگر نیک کاموں میں مشغول رہتے ہوئے اعتکاف کرنا مستحب ہے اور یہ اعتکاف نماز کے انتظار میں ہو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی فضیلت والے اعمال میں سے ہے اور بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو وہ شہد کی مکھی کی بھینٹا ہٹ کی طرح نمازیوں کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنتا۔ اگر اسے گھر میں دین کی سلامتی اور دل جمعی زیادہ حاصل ہوتی ہو تو اس کے حق میں گھر ہی افضل ہے۔

### تین چیزوں پر اللہ عزوجل غضب فرماتا ہے:

اس وظیفہ کی فضیلت بھی تیسرے وظیفہ کی طرح ہے کیونکہ یہ بھی لوگوں کے غافل ہونے کا وقت ہے، جو شخص زوال سے پہلے سوچا ہو اس کے لئے اس وقت میں سونا مکروہ ہے کیونکہ دن میں دو بار سونا مکروہ ہے۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ عزوجل غضب فرماتا ہے: (۱)..... تعجب خیز بات کے بغیر ہنسنا۔ (۲)..... بغیر بھوک کے کھانا۔ (۳) بغیر شب بیداری کے دن میں سونا۔

### نیند کی مقدار:

رات اور دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ نیند میں اعتدال یہ ہے کہ رات اور دن میں آٹھ گھنٹے سوئے پھر اگر اتنے گھنٹے



رات میں ہی سوچکا ہو تو دن میں سونے کا کوئی مطلب نہیں اور اگر کچھ مقدار کم ہے تو اسے دن میں پورا کر لے۔ ابن آدم اگر 60 برس تک زندہ رہے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی عمر میں سے 20 برس کم ہو جائیں جبکہ وہ آٹھ گھنٹے سوتا ہو کہ آٹھ گھنٹے، 24 گھنٹوں کا تہائی (1/3) ہے لہذا اس کی عمر میں سے ایک تہائی حصہ کم ہو جائے گا۔ چونکہ نیند روح کی غذا ہے جیسے کھانا اجسام کی اور علم و ذکر دل کی تو نیند کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں اور درمیانی مقدار یہ ہے (جو کہ بیان کی گئی یعنی 8 گھنٹے)، اس سے کمی کرنا بسا اوقات جسم کے بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے مگر شب بیداری کر کے بتدریج جس کی عادت بن گئی ہو تو وہ بغیر اضطراب و پریشانی کے آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔

یہ وظیفہ لمبے لمبے وظائف میں سے ہے اور بندوں کے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق ”آصال“ سے مراد یہی وقت ہے، جس کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے:

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظَلَمَهُم بِالْعُدُوِّ وَالْاِصْحٰبِ  
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں  
ہر صبح و شام۔ (پ ۱۳، الرعد: ۱۵)

جب جمادات بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک عقل رکھنے والا شخص عبادت کی مختلف اقسام سے غافل رہے۔

### چھٹا وظیفہ:

جب عصر کا وقت شروع ہو جائے تو چھٹے وظیفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جس کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم یا فرمائی ہے: ”وَالْعَصْرِ“ (پ ۳۰، العصر: ۱) آیت کا ایک معنی یہی ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق ”آصال“ سے بھی یہی مراد ہے اور یہی ”عَشِي“ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: ”وَعَشِيًّا“ (پ ۱۶، مريم: ۶۲) ایک مقام پر ہے: ”بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ“ (پ ۲۳، ص: ۱۸)۔

اس وظیفہ میں اذان و اقامت کے درمیان چار رکعتوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں جیسا کہ ظہر میں گزر چکا ہے، پھر عصر کے فرض ادا کر کے ان چار اقسام میں مشغول ہو جائے جو پہلے وظیفے میں مذکور ہوئیں حتیٰ کہ دھوپ دیواروں

کے اوپر سروس تک پہنچ جائے اور سورج زرد ہو جائے، اس وقت جب نماز پڑھنا ممنوع ہو جائے تو غور و فکر اور معانی کے سمجھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ہے کہ یہ ذکر و فکر اور دعائیتوں کی جامع ہے لہذا اس قسم میں تین اقسام کے اکثر مقاصد داخل ہو جائیں گے۔

### ساتواں وظیفہ:

جب سورج زرد ہو جائے بایں طور کہ زمین کے قریب ہو جائے یعنی اس کی روشنی کو سطح زمین سے اٹھنے والے بخارات اور غبار چھپالیں اور اس کی روشنی میں زردی دیکھی جائے تو اس وظیفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، یہ وظیفہ پہلے وظیفہ کی طرح ہے جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک تھا، جیسے وہ طلوع آفتاب سے پہلے تک تھا ایسے ہی یہ غروب آفتاب سے پہلے تک ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی وقت مراد ہے:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب

صبح ہو۔

(پ ۲۱، الروم: ۱)

اور یہی وہ دوسری طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مراد ہے:

فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور دن کے کناروں پر (اس کی پاکی بولو)۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”اکابرین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ دن کے پہلے حصے سے زیادہ شام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔“

بعض بزرگ فرماتے ہیں: ”اکابرین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينِ دن کے پہلے حصے کو دنیا کے لئے اور آخری حصے کو آخرت کے لئے قرار دیتے تھے۔“

لہذا اس وقت میں وہ تمام اور اخصوصاً تسبیح و استغفار کرنا مستحب ہے جنہیں ہم نے پہلے وظیفہ میں ذکر کیا ہے مثلاً یہ کہے: ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“ یعنی میں اللہ عزَّ وَّجَلَّ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، پاکی ہے اللہ عزَّ وَّجَلَّ عظمت والے کو اور اسی کی حمد ہے۔“ یہ کلمات اس فرمان باری تعالیٰ سے ماخوذ ہیں:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنُوبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۵۵﴾ (پ ۲۴، المؤمن: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور  
اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔  
قرآن پاک میں جتنے اسمائے حسنیٰ ذکر کئے گئے ہیں ان کے ساتھ استغفار کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔

**توبہ و استغفار سے متعلق چند فرامین باری تعالیٰ:**

﴿۱﴾

إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾  
(پ ۲۹، نوح: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا  
معاف فرمانے والا ہے۔

﴿۲﴾

وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾  
(پ ۳۰، النصر: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت  
توبہ قبول کرنے والا ہے۔

﴿۳﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۸﴾  
(پ ۱۸، المؤمنون: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور  
تو سب سے برتر رحم کرنے والا۔

﴿۴﴾

فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۹۹﴾  
(پ ۹۹، الاعراف: ۱۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربان (رحم و کرم)  
کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

غروب آفتاب سے پہلے ”وَالشُّسُوسِ وَصُحُهَا“، ”وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ“ پوری سورتیں اور مَعُوذَتَيْنِ (یعنی سورہ  
فلق اور سورہ ناس) کی تلاوت کرنا مستحب ہے تاکہ اس پر سورج اس حالت میں غروب ہو کہ وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہو۔

## مغرب کی اذان کے وقت کی دعا:

جب (مغرب کی) اذان سنے تو یہ پڑھے: اَللّٰهُمَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاَدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ لِيَعْنِي اے  
اللہ عزوجل! یہ تیری رات کے آنے، تیرے دن کے جانے اور تیری طرف بلانے والوں کی آوازوں کا وقت ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزر

چکا ہے۔ پھر اذان کا جواب دے اور نمازِ مغرب میں مشغول ہو جائے۔ غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی دن کے وظائف بھی ختم ہو چکے ہیں۔

## محاسبہ نفس:

بندے کو چاہئے کہ اپنے احوال کی طرف نظر کرے اور نفس کا محاسبہ کرے کہ اس کے راستے کی ایک منزل گزر چکی ہے، اگر اس کا یہ دن پچھلے دن کے برابر ہو تو نقصان میں ہے اور اگر پچھلے دن سے بدتر ہو تو برکت سے محروم ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لَا بُورِكَ لِيْ فِيْ يَوْمٍ لَا اَزْدَادُ فِيْہِ خَيْرًا“ یعنی مجھے اس دن میں برکت نہیں دی گئی جس میں، میں بھلائی میں اضافہ نہ کروں۔“<sup>(۱)</sup>

اگر وہ اپنے نفس کو پورا دن بھلائی میں کوشش کرنے والا اور مشقت برداشت کرنے والا پائے تو اس کے لئے خوشخبری ہے۔ لہذا اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دی اور اسی پر قائم رکھا۔ اگر دوسری حالت میں دیکھے تو پھر رات دن کا خلیفہ ہے۔ لہذا اس میں سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرے کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیز کوتاہیوں کے تدارک میں مشغول ہونے کے لئے پوری رات جسمانی صحت اور عمر کے باقی رہنے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالائے اور دل میں تصوّر کرے کہ یہ اس کی عمر کا آخری دن ہے، جس میں زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا پھر طلوع نہیں ہوگا اور اس وقت کوتاہیوں کے تدارک اور عذرخواہی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ زندگی چند روز کی ہے یقیناً یہ تمام کے تمام ایک ایک کر کے گزر جائیں گے۔

## {.....فرائض نماز.....}

سات چیزیں نماز میں فرض ہیں: (۱)..... تکبیر تحریمہ (۲)..... قیام (۳)..... قراءت (۴)..... رکوع

(۵)..... سجدہ (۶)..... قعدہ اخیرہ (۷)..... خروج بَصْنَعِہ - (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۰۷)

①.....مجمع الزوائد، کتاب العلم، باب فیمن مرعلیہ یوم..... الخ، الحدیث: ۵۷۵، ج ۱، ص ۳۵۱، ”خیر“ بدلہ ”علم“۔

## رات کے وظائف کا بیان

رات کے وظائف پانچ ہیں:

### پہلا وظیفہ:

جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب پڑھنے کے بعد مغرب اور عشا کے درمیانی وقت کو عبادت میں صرف کرے، اس وظیفہ کا آخری وقت وہ ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے، شفق سے مراد وہ سرخی ہے جس کے غائب ہونے کے ساتھ ہی عشا کا وقت شروع ہو جاتا ہے (عند الشوافع)۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿۱۶﴾ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ہے شام کے اُجالے کی۔

اس وقت کی نماز کو ”نَاشِئَةُ اللَّيْلِ“ کہتے ہیں کیونکہ یہ رات کی ساعتیں آنے کا اوّل وقت ہے اور یہ وقت ان

اوقات میں سے ہے جو اس فرمان باری تعالیٰ میں مذکور ہیں:

وَمِنْ اَنَامِي الْبَيْتِ فَسَبِّحْ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو۔

یہی ”صلوة الادایین“ ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ سے بھی یہی مراد ہے:

تَتَجَانَفُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي سے مروی ہے۔ ابن ابی زیاد نے اسے رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی طرف منسوب کیا ہے کہ آپ سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”الْصَّلَاةُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ“ یعنی یہ نماز مغرب و عشا کے درمیان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَانْهَارًا تَذْهَبُ بِمَلَائِكَةِ النَّهَارِ وَتَهْتَدُ بِأَحْرَاةٍ“ یعنی تم پر مغرب و عشا کے درمیان نماز پڑھنا لازم ہے کیونکہ یہ دن کے لغویات کو لے جاتی ہے اور اس کے آخر کو صاف کر دیتی ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مغرب و عشا کے درمیان سونے والے شخص کے بارے میں

پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جو اس فرمان باری تعالیٰ سے مراد لی گئی ہے:

①.....فردوس الاخبار للديلمي، باب العين، الحديث ۳۸۴، ج ۲، ص ۵۹۔

ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔

تَتَجَانَفِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

(پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

عنقریب دوسرے باب میں مغرب و عشا کے درمیان عبادت کرنے کی فضیلت کا بیان آئے گا۔

## اس وظیفہ کی ترتیب:

مغرب کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھے، ان میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ پڑھے، یہ دو رکعتیں مغرب کے فوراً بعد کوئی کلام یا کام کئے بغیر پڑھے، پھر لمبی لمبی چار رکعتیں پڑھے، پھر شفق غائب ہونے تک جس قدر آسانی ہو نماز پڑھتا رہے۔ اگر مسجد گھر کے قریب ہے اور اس کا ارادہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا نہیں تو پھر گھر میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر نماز عشا کے انتظار میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کرے تو یہی افضل ہے جبکہ بناوٹ اور ریاضی کا اندیشہ نہ ہو۔

## دوسرا وظیفہ:

یہ وظیفہ نماز عشا کا وقت شروع ہونے سے لے کر لوگوں کے سونے تک ہے اور یہ اندھیرے کے اچھی طرح چھا جانے کا پہلا وقت ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی قسم یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿۷﴾ (پ ۳۰، الانشعاق: ۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور (مجھے قسم ہے) رات کی اور جو چیزیں اس

میں جمع ہوتی ہیں۔

مزید فرماتا ہے:

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴿۵﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)

ترجمہ کنزالایمان: رات کی اندھیری تک۔

اس وقت رات چھا جاتی اور اس کی تاریکی پختہ ہو جاتی ہے۔

## اس وظیفہ کی ترتیب:

اس وظیفہ کی ترتیب میں تین امور کی رعایت کی جائے گی:

﴿۱﴾..... عشا کے فرضوں کے علاوہ مزید 10 رکعتیں پڑھے، چار رکعتیں فرائض سے پہلے تاکہ اذان و اقامت کا

درمیانی وقت بھی عبادت میں گزرے، چھ رکعتیں فرائض کے بعد بایں طور کہ پہلے دو رکعتیں پڑھے پھر چار اور ان میں قرآن کریم کی مخصوص آیات کی تلاوت کرے مثلاً سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات۔

﴿۲﴾..... تیرہ رکعتیں پڑھے جن کے آخر میں وتر ہو کیونکہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رات کی نماز کے بارے میں اکثر روایات اسی طرح ہیں۔ عقل مند لوگ اپنے وظیفہ کے اوقات رات کے ابتدائی حصے میں مقرر کرتے ہیں جبکہ مضبوط و طاقتور لوگ آخری حصے میں مقرر کرتے ہیں اور احتیاط یہ ہے کہ شروع میں ہی مقرر کر لے کیونکہ کبھی کبھی بندہ بیدار نہیں ہو پاتا یا اس پر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے مگر جب اس کی عادت ہو جائے تو پھر اس کے لئے رات کا آخری حصہ افضل ہے۔ اس نماز میں ان مخصوص سورتوں میں سے 300 آیات کی مقدار تلاوت کرے جن کی حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً سورہ یسین، سجدہ، لقمان، دُخان، مُلک، زُمر اور سورہ واقعہ۔<sup>(۱)</sup>

اگر یہ نماز نہ بھی پڑھے تو بھی سونے سے پہلے ان تمام یا ان میں سے بعض سورتوں کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات جو کچھ تلاوت فرمایا کرتے تھے تین احادیث میں مروی ہے، زیادہ مشہور سورہ سجدہ، مُلک، زُمر اور واقعہ ہے۔ ایک روایت میں سورہ زمر اور بنی اسرائیل ہے۔

## ہزار آیات سے افضل:

ایک روایت میں ہے کہ ہر رات ”مسجات“ (یعنی سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن) تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے: ”فِيهَا آيَةٌ أَضَلُّ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ لِعَنِي أَنْ فِيهَا آيَةٌ لِي“ (۲)

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ کا اضافہ کرتے ہوئے چھ کی تعداد مقرر کرتے ہیں

①..... قوت القلوب، الفصل الثامن فی ذکر اوراد اللیل الخمسة، ج، ص ۴۰۔

②..... قوت القلوب، الفصل الثامن فی ذکر اوراد اللیل الخمسة، ج، ص ۳۹۔

سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۱، ج ۵، ص ۲۵۹۔

سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۴۱، ج ۵، ص ۲۵۹، ”خیر“ بدلہ ”افضل“۔

کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ کو پسند فرماتے اور وتر کی تین رکعتوں میں یہ تین سورتیں تلاوت فرماتے: ”(۱)..... سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“۔ (۲)..... قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“۔ اور (۳)..... سورۃ اخلاص۔ وتر سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ کہتے: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“۔ (۱)

﴿۳﴾..... وتر، اگر رات کو قیام کی عادت نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَيَّ وَتُرَاعَى بِيَارِي مَصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيَّ مَجْهُودٍ وَصِيَّتْ فَرَمَائِي هِيَ وَتُرَاعَى بِيَارِي بَعْدَ نِيَّ مَجْهُودٍ“۔ (۲) البتہ، اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو تو تاخیر کرنا ہی افضل ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”رات کی نماز دو دور کعتیں ہیں پھر جب تم میں سے کوئی صبح کا خوف کرے تو ایک رکعت اور پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے۔“ (۳)

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی وتر پڑھے ہیں، درمیانی میں بھی اور آخر میں بھی اور آپ کے وتر سحر پر منتہی ہوئے (۴)۔“ (۵)

وتروں سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھنا مستحب ہے: ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلَتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعِظْمَةِ وَالْجَبْرُوتِ وَتَعَزَّزَتْ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَرَتْ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ“ یعنی میں نہایت پاک بادشاہ کی پاکی بیان کرتا

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، ومن مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۴۴، ج ۱، ص ۲۰۶۔

سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنة فیہا، باب ماجاء فیما یقرأ فی الوتر، الحدیث: ۱۱۷۱، ج ۲، ص ۴۷، مفہومًا۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب استحباب صلاۃ الضحی..... الخ، الحدیث: ۴۲، ص ۳۶۲، عن ابی الدرداء۔

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب صلاۃ اللیل مثنی مثنی..... الخ، الحدیث: ۴۴، ص ۳۷۷۔

④..... مُفَسِّرُ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج ۲، ص ۲۷۳ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشا کے وقت وتر پڑھ لئے اور کبھی عشا پڑھ کر سوائے اور درمیان رات جاگ کر تہجد وتر پڑھے مگر آخری عمل یہ رہا کہ صبح صادق کے قریب تہجد کے بعد وتر پڑھے مسلمان جس پر عمل کرے گا سنت کا ثواب پائے گا اگرچہ آخر رات پڑھنا افضل ہے۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات..... الخ، الحدیث: ۴۴، ص ۳۷۷۔



ہوں جو ملائکہ اور جبرائیل امین کا رب ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے آسمانوں اور زمین کو عظمت و جبروت کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے اور تو اپنی قدرت کے ساتھ عزت والا ہے اور تو نے اپنے بندوں کو موت کے ذریعے قابو کر رکھا ہے۔“

مروی ہے کہ ”آقائے دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وصال ظاہری تک فرائض کے علاوہ دیگر نمازیں اکثر اوقات بیٹھ کر ادا فرماتے۔“<sup>(۱)</sup>

مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت نصف ثواب ہے اور لیٹ کر پڑھنے والے کے لئے بیٹھ کر پڑھنے والے کی بنسبت نصف ثواب ہے (۲)۔“<sup>(۳)</sup> یہ فرمان عالیشان اس پر دلالت کرتا ہے کہ لیٹ کر نوافل پڑھنا درست ہے۔

### تیسرا وظیفہ:

سونا (آرام کرنا)۔ نیند کو وظائف میں شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جب اس کے آداب کی رعایت کی جائے گی تو یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔

منقول ہے کہ بندہ جب طہارت و پاکیزگی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر پر سوتا ہے تو بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے، اس کے لباس میں ایک فرشتہ داخل ہو جاتا ہے، اگر حالت نیند میں حرکت کرتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کے لئے دعا مانگتا اور مغفرت طلب کرتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

حدیث پاک میں ہے: ”اِذَا نَامَ عَلٰی طَهَارَةٍ رَفَعَ رُوحَهُ اِلَى الْعَرْشِ یعنی جب بندہ با وضو سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے۔“<sup>(۵)</sup>

①..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب صلاة القاعد..... الخ، الحدیث ۱۶۵، ص ۲۸۸، ”مات“ بدلہ ”قبض“۔

②..... مُقَدِّمٌ شَہِیْرٌ حَکِیْمٌ اَلْاُمَمَتِ حَضْرَتِ مُفْتٰی اَحْمَدِ یَارْحٰنَ عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج ۲، ص ۲۶۶ پر اس کے تحت فرماتے ہیں: جو شخص نقلی نماز قیام پر قادر ہوتے ہوئے بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھا ثواب ملے گا فرض نماز بلا عذر بیٹھ کر نہیں ہوگی۔

③..... صحیح البخاری، کتاب تقصیر الصلاة، باب صلاة القاعد، الحدیث ۱۱۱۵، ج ۱، ص ۳۷۹۔

④..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۷۔

الزهد لابن المبارک، الجزء العاشر، الحدیث ۱۲۴، ص ۴۴، مفہوماً۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۷، ”رفع روحہ“ بدلہ ”عرج بروحہ“۔

## عالم کا سونا عبادت ہے:

یہ تو عوام کے بارے میں ہے، خواص، علما اور پاک و صاف دل رکھنے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر نیند کے عالم میں اسرار منکشف ہوتے ہیں اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نَوْمُ الْعَالَمِ عِبَادَةٌ وَنَفْسُهُ تَسْبِيحٌ“ یعنی عالم کا سونا عبادت اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا: ”آپ شب بیداری کیسے کرتے ہیں؟“ فرمایا: ”پوری رات قیام کرتا ہوں تھوڑی دیر بھی نہیں سوتا اور وقفے وقفے سے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔“ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”لیکن میں سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں اور اپنی نیند کو قیام کی طرح باعث ثواب شمار کرتا ہوں۔“ پھر دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق عرض کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”(اے ابوموسیٰ!) معاذ تم سے بڑا فقیہ ہے۔“ (۲)

## سونے کے 10 آداب:

﴿۱﴾..... وضو اور مسواک کر کے سونے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب بندہ با وضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگر با وضو نہ سونے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔“ (۳) طہارت سے ظاہری و باطنی دونوں قسم کی طہارت مراد ہے، طہارت باطنی ہی غیب کے پردوں کے منکشف ہونے میں مؤثر ہوتی ہے۔

﴿۲﴾..... اپنے سرہانے مسواک اور وضو کا پانی رکھے اور بیدار ہوتے وقت عبادت کے لئے کمر بستہ ہونے کی نیت کرے، جب بھی بیدار ہو تو مسواک کرے کہ بعض بزرگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نیز مروی ہے کہ ”حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے، ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی۔“ (۴)

①..... فردوس الاخبار للديلمي، باب النون، الحديث ۶۹۹، ج ۲، ص ۳۶۵۔

②..... قوت القلوب، الفصل الرابع عشر في ذكر تقسيم قيام الليل..... الخ، ج ۴، ص ۴۔

③..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر كتاب جامع..... الخ، ج ۲، ص ۶۷۔

④..... صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث ۲۵، ص ۱۵۳، مفہومًا۔

اگر وضو کرنا دشوار ہو تو پانی سے اعضاء پر مسح کر لینا مستحب ہے۔ اگر وضو کے لئے پانی میسر نہ ہو تو قبلہ رو بیٹھ کر ذکر و دعا اور اللہ عزوجل کی قدرت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جائے تو یہ رات کے قیام کے قائم مقام ہو جائے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اپنے بستر پر آتے وقت، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی نیت کرے پھر اس پر نیند غالب آجائے حتیٰ کہ صبح ہو جائے تو اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اللہ عزوجل کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔“ (۱)

### اسے کلام کی اجازت نہ دی جائے گی:

﴿۳﴾..... جس نے کوئی وصیت کرنی ہو وہ وصیت لکھ کر اپنے سر ہانے رکھے بغیر نہ سوئے کیونکہ حالت نیند میں روح کے قبض ہونے سے امن نہیں ہے تو اگر یہ بغیر وصیت کئے مر گیا تو برزخ سے لے کر روز قیامت تک اس کو کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، دیگر فوت شدہ لوگ اس سے ملنے کے لئے آئیں گے، اس سے باتیں کریں گے لیکن یہ ان سے کلام نہ کر سکے گا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: ”یہ مسکین بندہ بغیر وصیت کے ہی مر گیا ہے۔“ لہذا اچانک موت کے خوف سے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اچانک موت ہلکی ہوتی ہے مگر اس کے لئے نہیں جو موت کے لئے تیار نہیں کہ اس کی پیٹھ پر لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہے۔

﴿۴﴾..... تمام گناہوں سے توبہ کر کے سوئے، تمام مسلمانوں کے بارے میں دل صاف ہو، دل میں کسی کے ظلم کو بیان نہ کرے اور نہ ہی بیدار ہونے کے بعد کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اپنے بستر میں اس حالت میں آئے کہ نہ تو کسی پر ظلم کی نیت ہو اور نہ ہی کسی سے بغض و کینہ رکھتا ہو تو اس کے سابقہ جرموں کو بخش دیا جائے گا۔“ (۲)

﴿۵﴾..... نرم و ملائم بستر بچھا کر عیش پرستی میں نہ پڑے بلکہ اسے بالکل ترک کر دے یا پھر درمیانی قسم کا بستر اختیار کرے کہ بعض بزرگ سونے کے لئے بستر بچھانے کو مکروہ سمجھتے اور اسے تکلف خیال کرتے تھے۔ نیز اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے اور مٹی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ کرتے اور فرماتے: ”ہم اسی سے پیدا کئے گئے

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاة والسنة فیہا، باب ماجاء فیمن نام عن..... الخ، الحدیث: ۱۳۴، ج ۲، ص ۱۳۳۔

②..... تاریخ دمشق لابن عساکر، محمد بن صالح ابو نصر العسقلانی، الحدیث: ۱۱۲۴، ج ۵۳، ص ۲۴۳، باختصار۔

ہیں اور اسی میں لوٹائے جائیں گے۔“ نیز اسے رقت قلبی میں اضافے کا باعث اور تواضع کے زیادہ لائق خیال کرتے تھے۔ لہذا جس کے لئے یہ ممکن نہ ہو تو وہ درمیانہ راستہ اختیار کرے۔

﴿۶﴾..... اس وقت تک نہ سوئے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو، جب رات کے آخری حصے میں عبادت کی نیت نہ ہو تو نیند کو لانے میں بھی تکلف نہ کرے۔

## اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کی تین خصالتیں:

ہمارے اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ نیند کے غلبے کے وقت سوتے، بھوک کی شدت کے وقت کھاتے اور ضرورت کے مطابق کلام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ”وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔“ اگر نیند کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ نماز اور ذکر سے روک دے اور یہ حالت ہو جائے کہ جو کچھ کہتا ہے اسے سمجھتا نہیں تو اتنی دیر آرام کر لے کہ جو کہتا ہے سمجھنے لگے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بیٹھ کر سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ ”رات کے وقت مشقت نہ چھیلو۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ”فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، جب اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک رسی کو تھام لیتی ہے۔“ آپ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رات میں نماز پڑھے تو اتنی دیر پڑھے جتنی دیر آسانی سے پڑھ سکے، جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”عمل میں بقدر طاقت مشقت برداشت کرو کیونکہ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ملامت نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملامت میں پڑو۔“ (۳) ایک روایت میں ہے کہ ”خَيْرُ هَذَا الدِّينِ اَيْسَرُهُ“ یعنی اس دین میں سب سے بہتر چیز وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔“ (۴)

①..... فردوس الاخبار للديلمي، باب اللام الف، الحديث ۷۶۲۲، ج ۲، ص ۲۲۰۔

②..... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب امر من نعى في..... الخ، الحديث: ۷۸، ص ۳۹۵، مفهوماً۔

③..... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم..... الخ، الحديث: ۷۸، ص ۳۹۵، بتغير۔

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند الكوفيين، الحديث: ۱۸۹۹، ج ۷، ص ۱۵۔

بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ”فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، سوتا نہیں، روزہ رکھتا ہے، ترک نہیں کرتا۔“ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”اس دین سے مقابلہ مت کرو، بے شک یہ مضبوط و پختہ ہے جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا، یہ اس پر غالب آجائے گا۔ لہذا اپنے نفس کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کو ناپسندیدہ نہ ٹھہراؤ۔“ (۲)

﴿۷﴾ ..... قبلہ رو ہو کر سوئے۔ قبلہ رخ ہونے کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت وہ ہے جو قریب الموت شخص کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے (یعنی گدی) پر چیت لیٹے ہوئے ہوتا ہے اس صورت میں قبلہ رو ہونا اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرہ اور پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں (احناف کے نزدیک قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا کر وہ ہے)۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جس طرح قبر میں قبلہ کی طرف رُخ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کروٹ کے بل اس طرح لیٹے کہ چہرہ اور بدن کا سامنے والا حصہ قبلہ کی طرف ہو یہ اس وقت ہوگا جب سیدھی کروٹ پر لیٹے۔

## سوتے وقت کی دعا:

﴿۸﴾ ..... سوتے وقت یہ دعا پڑھے: ”بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِيَّ وَبِسْمِكَ أَرْفَعُهُ“ یعنی اے رب عَزَّوَجَلَّ! میں تیرے ہی نام سے اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھاتا ہوں۔“ نیز ”دعاؤوں کے بیان میں“ ذکر کردہ دعائے ماثورہ بھی پڑھے۔ (۳) مخصوص آیات مثلاً آیۃ الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع وغیرہ پڑھنا مستحب ہے۔

## وہ قرآن نہ بھولے گا:

درج ذیل آیات پڑھنا بھی مستحب ہے:

① ..... صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه اليه..... الخ، الحدیث: ۱۴۰، ص ۷۵،

دون الالفاظ ”هذه سنتي“۔

② ..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب القصد في العبادة..... الخ، الحدیث: ۴۷۴۳-۴۷۴۴، ص ۲۷۸-۲۷۹۔

③ ..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما يقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۵، ج ۴، ص ۴۰۶۔

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اُتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

وَالْهَيْكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِسَائِفِ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(پ ۲، البقرة: ۱۶۳، ۱۶۴)

منقول ہے کہ جو شخص سوتے وقت مذکورہ آیات پڑھے گا اللہ عزَّ وَّجَلَّ اس پر قرآن پاک کو محفوظ رکھے گا (یعنی اسے قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا) وہ کبھی بھی قرآن پاک نہیں بھولے گا۔

سورہ اعراف کی یہ آیات بھی تلاوت کرے:

ترجمہ کنز الایمان: بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سُن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اُسے پسند نہیں اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا

اس کے سنورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۴ تا ۵۶)

سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیتیں بھی پڑھے:

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے ایتھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لئے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّهَا مَدْعُوا فَا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿۱۱۰﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلَىٰ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿۱۱۱﴾ (پ ۵، بنی اسرائیل: ۱۱۰، ۱۱۱)

تو اس کے لباس میں ایک فرشتہ داخل ہوگا جو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کیا گیا ہوگا، وہ فرشتہ اس کے لئے دعائے مغفرت کرے گا۔

پھر معوذتین (یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس) پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور دونوں ہاتھوں کو چہرے اور پورے جسم پر پھیر لے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اسی طرح مروی ہے۔<sup>(۱)</sup> نیز سورہ کہف کے شروع اور آخر سے دس دس آیات پڑھے۔ یہ آیات رات کو عبادت کے واسطے جاگنے کے لئے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عَزَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فرمایا کرتے: ”میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر سو جائے۔“

پھر پچیس پچیس مرتبہ یہ کلمات کہے: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ تا کہ سب کا مجموعہ 100 ہو جائے۔ ﴿۹﴾..... سوتے وقت یہ بات یاد کرے کہ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے اور بیدار ہونا مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی قسم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، الحدیث: ۵۰۱، ج ۳، ص ۴۰۷۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَمَاتِهَا (پ ۲۴، الزمر: ۴۲)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ

(پ ۷، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔

ان آیات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نیند کو موت کا نام دیا ہے۔ جیسے جو شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے لئے ایسے مشاہدات منکشف ہوتے ہیں جو حالت نیند میں اس کے احوال کے مناسب نہیں ہوتے، ایسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے والا وہ کچھ دیکھے گا جس کا دل میں کبھی خیال بھی نہ آیا ہوگا اور نہ ہی اسے کبھی دیکھا ہوگا۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کی مثال ایسے ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ۔

## انمول موتی:

حضرت سیدنا لقمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: ”اے بیٹے! اگر تجھے موت کے بارے میں شک ہے تو مت سونا کہ جیسے تو سوتا ہے ایسے ہی تو مرے گا بھی اور اگر قیامت کے دن اٹھائے جانے میں شک ہے تو سونے کے بعد بیدار مت ہونا کہ جیسے تو سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔“

حضرت سیدنا کعب الاحبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”سیدھی کروٹ اور چہرہ قبلہ رُو کر کے سویا کرو کہ یہ بھی موت ہے۔“

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: سوتے وقت پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا آخری کلام یہ ہوا کرتا تھا: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ لِيَعْنِي اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ! ساتوں زمینوں اور عظمت والے عرش کے رب! ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور مالک۔ سوتے وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ رخسار مبارک داہنے ہاتھ پر ہوتا تھا اور یہ خیال فرماتے کہ اسی رات وصال فرما جائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

یہ مکمل دعا ”دعاؤں کے بیان میں“ گزر چکی ہے۔

①..... قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۔



## بندہ سوتے وقت تین باتوں پر غور کرے:

بندے پر حق ہے کہ سوتے وقت دل سے تین باتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے: (۱)..... وہ کس بات پر سو رہا ہے؟ (۲)..... اس کے دل پر کس چیز کی محبت غالب ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس سے ملاقات کی یاد دنیا کی؟ (۳)..... یہ یقین کرے کہ موت اسی حالت پر ہوگی جو دل میں غالب ہے اور اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر موت واقع ہوگی کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔

## بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے:

﴿۱۰﴾..... بیدار ہوتے وقت بھی دعا پڑھے۔ چنانچہ، جب بیدار ہو تو ادھر ادھر کروٹیں بدلتے ہوئے وہ پڑھے جو مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پڑھا کرتے تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ یعنی معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحبِ عزت بڑا بخشنے والا۔<sup>(۱)</sup>

کوشش کرے کہ سوتے وقت دل پر جو آخری چیز جاری ہو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہو اور بیدار ہوتے وقت جو چیز سب سے پہلے دل پر وارد ہو وہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہو کہ یہ محبت کی علامت ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دل میں وہی چیز ہوگی جو اس پر غالب ہے۔ لہذا دل کو اس کے ذریعے آزمائے کہ یہ محبت کی علامت ہے اور یہ علامت دل کے باطن سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اذکار صرف اس لئے مستحب ہیں تاکہ دل ذکر الہی کی طرف چل پڑے۔

## بیدار ہونے کے بعد کی دعا:

جب بیدار ہو تو یہ کہتے ہوئے اٹھے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الشُّوْرُ یعنی تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے جس نے ہمیں موت (نیند) کے بعد حیات (بیداری) عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔<sup>(۲)</sup> پوری دعا ہم نے ”بیدار ہونے کی دعاؤں کے بیان میں“ ذکر کر دی ہے۔

①..... السنن الكبرى للنسائي، كتاب النعوت، العزيز الغفار، الحديد ۶۸۵، ج ۴، ص ۴۰۰۔

②..... سنن ابی داود، كتاب الادب، باب ما يقول عند النوم، الحديث ۵۰۴۹، ج ۴، ص ۴۰۵۔

## چوتھا وظیفہ:

یہ وظیفہ رات کے پہلے نصف سے لے کر اس وقت تک ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے، اس وقت بندہ نماز تہجد کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لفظ ”تہجد“ اس نماز کے ساتھ خاص ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ وقت رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اور یہ وظیفہ اس وظیفہ کے مشابہ ہے جو زوال کے بعد ہوتا ہے کیونکہ وہ دن کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قسم یاد کرتے ہوئے اللہ عزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿۲﴾ (ب۳۰، الضحیٰ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی (قسم) جب پردہ ڈالے۔

یعنی جب ساکن ہو جائے اور اس کا ساکن ہونا اسی وقت میں ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ جاگتی باقی نہیں رہتی سوائے اس کے جو حسی و قیوم ہے، جسے نہ اُنکھ آئے نہ نیند۔ منقول ہے کہ ”سَجَىٰ“ کا معنی پھیلنا اور لمبا ہونا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے، ”اندھیرا ہونا ہے۔“

## عبادت کے لئے کون سا وقت افضل ہے؟

مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”رات کے کس حصے میں دُعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جَوْفُ اللَّيْلِ یعنی رات کے درمیانی حصے میں۔“ (۱)

حضرت سیدنا ناداؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی: ”الہی! میں تیری عبادت کرنا پسند کرتا ہوں کون سا وقت افضل ہے؟“ اللہ عزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی: ”اے داؤد! رات کے پہلے اور آخری حصے میں عبادت نہ کر کہ جو پہلے حصے میں عبادت کرتا ہے وہ دوسرے حصے میں سو جاتا ہے اور جو آخری حصے میں عبادت کرتا ہے وہ پہلے حصے میں نہیں کرتا بلکہ رات کے درمیانی حصے میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ تنہا ہوں اور اپنی حاجتیں مجھ تک پہنچا۔“

مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نِصْفُ اللَّيْلِ الْغَابِرِ یعنی رات کا دوسرا نصف حصہ۔“ (۲)

①.....سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب من رخص فیہما.....الخ، الحدیث ۱۲۷۴، ج ۲، ص ۳۷۔

②.....قوت القلوب، الفصل الثامن فی ذکر اورار اللیل.....الخ، ج ۱، ص ۴۱۔

رات کے دوسرے نصف کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں، مثلاً: اس وقت عرش جھومتا ہے، جنات عدن سے ہوائیں چلتی ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے وغیرہ۔

## اس وظیفے کی ترتیب:

اس وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ بیدار ہونے کی دعاؤں سے فارغ ہو کر وضو کی سنتوں، آداب اور دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے پھر جائے نماز کی طرف متوجہ ہو اور قبلہ رو ہو کر یہ پڑھے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اور صبح و شام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے پاکی ہے۔“

پھر دس بار یہ پڑھے: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔ پھر یہ پڑھے: اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعُظْمَى وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہی و طاقت، عظمت و کبریائی اور جلال و قدرت والا ہے۔

## تہجد کے لئے اٹھے تو یہ پڑھے:

یہ کلمات بھی کہے کیونکہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے تہجد کے لئے قیام کے وقت ان کلمات کا پڑھنا مروی ہے: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَمِنْكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ - اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا - اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْبَائِسِ الْمُسْكِينِ وَادْعُوكَ دَعَاءَ الْمُفْتَقِرِ الدَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِي رءُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْسِلِينَ وَأَكْرَمَ الْمُعْطِينَ -

یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا جمال ہے۔ تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ تیرے ہی لئے حمد ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور

جو کچھ ان پر ہے تو ہی ان کا قائم رکھنے والا ہے۔ تو ہی حق ہے۔ تجھی سے حق ہے۔ تجھ سے ملنا حق ہے۔ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ قیامت کے دن اٹھنا حق ہے۔ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حق ہیں اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حق ہیں۔ اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! تیرے لئے میں اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسا کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے بھروسے پر میں کفار سے لڑتا ہوں، تجھ سے فیصلہ چاہتا ہوں، میرے اگلے پچھلے، چھپے کھلے گناہ اور میری زیادتیاں بخش دے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تو ہی معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ (۱) اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک کر دے کہ تو بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا والی و مولیٰ ہے۔ (۲) اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! مجھے اچھے اعمال کی طرف ہدایت عطا فرما کہ تو ہی اچھے اعمال کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے، اور برائیوں کو مجھ سے پھیر دے کہ تیرے سوا برائیوں کو مجھ سے کوئی نہیں پھیرتا۔ (۳) میں خستہ حال مسکین کی طرح تجھ سے سوال کرتا اور ذلیل و خوار حاجت مند کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اے میرے رب! مجھے نامراد نہ لو نا اور مجھ پر رُءُوف و رحیم ہو جا، اے ان سب سے بہتر ذات جن سے سوال کیا جاتا ہے اور اے عطا کرنے والوں میں سب سے معزز ذات! (۴)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جب رات میں اٹھتے اور نماز شروع کرتے تو یہ کہتے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَاسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ یعنی اے اللہ! اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کا ان چیزوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ جھگڑتے ہیں، مجھے

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة..... الخ، الحديث: ۶۹، ص ۳۸۹، بتغییر۔

قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۸۔

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، الحديث: ۲۵۸۱۵، ج ۱۰، ص ۲۷۔

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل..... الخ، الحديث: ۷۷۱، ص ۳۹۰۔

قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۸، ”لاحسن الاخلاق“ بدله ”لاحسن الاعمال“۔

④..... المعجم الصغير، من اسمه عبدالملك، الحديث: ۶۹۷، ج ۱، ص ۲۴۷، بتغییر۔

قوت القلوب، الفصل الثالث عشر کتاب جامع..... الخ، ج ۱، ص ۶۸۔

اپنے کرم سے اس حق کی ہدایت دے جس میں اختلاف ہے تو جسے چاہے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔<sup>(۱)</sup>  
 پھر نماز شروع کرے اور ہلکی ہلکی (یعنی چھوٹی سورتوں کے ساتھ) دو رکعتیں پڑھے پھر جس قدر آسانی ہو دو دو رکعتیں پڑھتا رہے اور اگر وتر نہ پڑھے ہوں تو وتر پر اختتام کرے۔ دو نمازوں کے درمیان سلام پھیرنے کے بعد 100 تسبیح کی مقدار فاصلہ کرے تاکہ راحت حاصل ہو اور مزید نماز کے لئے چستی پیدا ہو۔

حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رات کی نماز کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ پہلے دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے پھر دو طویل رکعتیں ادا فرماتے پھر کمی فرماتے جاتے حتیٰ کہ تیرہ رکعتیں ہو جاتیں۔<sup>(۲)</sup>  
 ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے استفسار کیا گیا کہ ”حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کی نماز میں بلند آواز سے قراءت فرماتے تھے یا آہستہ آواز میں؟“ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے فرمایا: ”کبھی بلند آواز سے کبھی آہستہ آواز سے۔“<sup>(۳)</sup>

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، پھر جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو (دو رکعتوں کے ساتھ) ایک اور رکعت ملا کر وتر بنا لو۔“<sup>(۴)</sup>  
 ایک روایت میں ہے کہ ”نماز مغرب دن کی نمازوں کو طاق بنا دیتی ہے تو تم رات کی نماز کو بھی طاق بنا لو۔“<sup>(۵)</sup>  
 حضور پر نور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رات کی نماز کے بارے میں مروی صحیح روایات میں سے اکثر میں تیرہ رکعات کا ذکر ہے۔<sup>(۶)</sup> ان رکعات میں اپنا قرآن پاک کا وظیفہ پڑھے یا وہ مخصوص سورتیں پڑھے جو اس پر آسان ہوں، یہ اس وظیفہ کا حکم ہے جو رات کے آخری چھٹے حصے کے قریب قریب ہے۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل..... الخ، الحديث: ۷۷۰، ص ۳۹۰۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة..... الخ، الحديث: ۷۶۵، ص ۳۸۸، باختصار۔

③..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب في وقت الوتر، الحديث: ۱۴۳، ج ۲، ص ۹۵۔

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى..... الخ، الحديث: ۷۴۹، ص ۳۷۷۔

⑤..... السنن الكبرى للنسائي، کتاب الوتر، الامر بالوتر، الحديث: ۱۳۸، ج ۱، ص ۴۳۵۔

⑥..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل..... الخ، الحديث: ۷۴۳، ص ۳۷۲۔

## پانچواں وظیفہ:

رات کا آخری چھٹا حصہ ہے اور یہ سحری کا وقت ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

(پ ۲۶، اللہ ریت: ۱۸)

منقول ہے کہ یہاں استغفار کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے (اور نماز کو استغفار کا نام اس لئے دیا گیا ہے) کیونکہ اس میں استغفار بھی ہوتا ہے۔ یہ وقت فجر کے قریب ہوتا ہے کیونکہ یہ رات کے فرشتوں کے جانے اور دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہے۔

## ہر حق والے کو اس کا حق دو:

حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے جس رات ملاقات کی تو انہیں اسی وظیفے کا حکم دیا۔ ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نماز کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”سو جا۔“ آپ سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر جانے لگے تو انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ ”سو جا۔“ آپ پھر سو گئے۔ پھر صبح کے قریب حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے فرمایا: ”اب اٹھو۔“ پھر دونوں نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے فرمایا: ”بے شک تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے اور تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔“ یہ انہوں نے اس وجہ سے فرمایا کیونکہ حضرت سیدنا ابودرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی زوجہ محترمہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو خبر دی تھی کہ یہ ساری رات سوتے نہیں۔ پھر دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”سلمان نے سچ کہا۔“<sup>(۱)</sup>

یہی پانچواں وظیفہ ہے۔ اس وقت میں سحری کرنا مستحب ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب طلوع فجر کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ان دونوں وظیفوں میں یہی نماز کا وظیفہ ہے۔

①.....صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من اقسام علی اخیہ.....الخ، الحدیث: ۱۹۶، ج ۱، ص ۶۲۷، ۶۲۸۔



مغفرت کر دی جائے گی۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (۲) اگر ان میں سے بعض کے کرنے کا موقع ملے اور بعض سے عاجز آجائے (کہ کسی وجہ سے نہ کر پائے) تو اسے اس کی نیت کے اعتبار سے تمام کا ثواب ملے گا۔

## اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ کا ناپسندیدہ عمل:

اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ یہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا گزرے جس میں انہوں نے صدقہ نہ کیا ہو اگرچہ ایک کھجور یا پیاز یا روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رحمت عالم، نور مجسم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”الرَّجُلُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ لِعَنَى (بروز قیامت) بندہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔“ (۳)

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ لِعَنَى (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی قاش سے (۴)۔“ (۵)

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نے سائل کو انگور کا ایک دانہ دیا تو حاضرین میں سے بعض ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہوا؟ اس میں بہت سے ذرات ہیں۔“ اسلاف، سائل کو (خالی ہاتھ) لوٹانا ناپسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اخلاق مصطفیٰ میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کچھ مانگتا تو آپ ”لا“ (یعنی نہیں) نہ فرماتے اگر وہ چیز آپ کے پاس نہ ہوتی

①..... قوت القلوب، الفصل الخامس عشر فی ذکر ورد العبد، الخ، ج، ص ۸۰۔

②..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب من جمع الصدقة..... الخ، الحدیث: ۱۰۲۸، ص ۵۱۳۔

③..... المستدرک، کتاب الزکاة، کل امرئ فی ظل صدقة..... الخ، الحدیث: ۱۵۵، ج ۲، ص ۴۳، مفہومًا۔

④..... مُفَرِّشُ شَهِيرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِيحِ، ج 7، ص 383 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: دوزخ سے بچنے کا اعلیٰ ذریعہ صدقہ و خیرات ہے صدقہ اگرچہ معمولی ہو اخلاص سے وہ بھی آگ سے بچالے گا وہاں صدقہ کی مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں صدقہ والے کی نیت پر نظر ہوتی ہے کھجور کی قاش کی ہی خیرات کر دو شاید وہی دوزخ سے بچالے یا یہ مطلب ہے کہ کسی کا معمولی حق بھی نہ مارو کہ وہ جہنم میں بھیج دے گا کسی کی کھجور کی قاش اس کی بغیر اجازت نہ لو۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة..... الخ، الحدیث: ۱۰۱، ص ۵۰۔



تو خاموش رہتے۔“ (۱)

## دور کعتیں تمام کے برابر:

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ابن آدم اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔“ (۲) اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں تو تیرائی کی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، کمزور کا بوجھ اٹھانا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے اور (راستے سے) تکلیف دہ چیز دور کر دینا صدقہ ہے۔“ حتیٰ کہ تسبیح و تہلیل کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا: ”ان سب کے ساتھ چاشت کی دور کعتیں بھی پڑھ لو۔ یا فرمایا: یہ دور کعتیں سب کو جامع ہوں گی۔“

## احوال بدلنے سے وظائف کا بدل جانا

جاننا چاہئے کہ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اور اس راہ پر چلنے والا چھ حالتوں سے خالی نہ ہوگا: (۱)..... یا تو وہ عابد ہوگا (۲)..... یا عالم (۳)..... یا طالب علم (۴)..... یا حکمران (۵)..... یا پیشہ ور (۶)..... یا پھر موجد ہوگا کہ غیر اللہ سے اعراض کر کے یکتا و بے نیاز ذات (کی معرفت) میں مستغرق ہوگا۔

﴿۱﴾..... عابد: وہ شخص ہے جو خود کو عبادت الہی کے لئے بالکل فارغ کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہو کہ اگر عبادت کو ترک کر دے تو بالکل بے کار ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کے وظائف کی ترتیب وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ اس کے وظائف میں تبدیلی ہونا کچھ بعید نہیں کیونکہ اس کے اکثر اوقات یا تو نماز یا تلاوت قرآن یا پھر تسبیحات میں گزریں گے۔

## صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات:

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وظیفہ ایک دن میں 12 ہزار تسبیحات پڑھنا تھا، بعض کا 30 ہزار تسبیحات کا تھا۔ بعض 300 سے لے کر 600 اور ہزار تک نوافل پڑھتے تھے۔ ان سے نماز کے وظیفہ میں سے جو کم سے کم مقدار مروی ہے وہ دن رات میں 100 رکعتیں ہیں۔ بعض کا اکثر وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتا تھا، کوئی دن

①..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب مسائل رسول اللعلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۲۳۱، ص ۱۲۶۵، باختصار۔

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک بن النضر، الحدیث: ۱۲۹، ج ۴، ص ۳۸۰، مفہومًا۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحی..... الخ، الحدیث: ۷۴، ص ۳۶۳، مفہومًا۔

میں ایک بار قرآن پاک ختم کرتا، بعض سے دو مرتبہ بھی مروی ہے، جبکہ بعض دن رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔

حضرت سیدنا کرز بن وبراء رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَكْرَمَةٌ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا میں مقیم تھے، ہر دن اور ہر رات 70، 70 مرتبہ طواف کرتے، اس کے ساتھ ساتھ دن رات میں دو بار قرآن پاک ختم کرتے۔ جب اس کا حساب کیا گیا تو روزانہ کی مسافت دس فرسنگ ہوئی اور ہر چکر پر دو رکعتیں ہوتی ہیں تو روزانہ 280 رکعتیں، دو ختم قرآن اور دس فرسنگ (یعنی 30 میل) مسافت ہوئی۔

### ایک سوال اور اس کا جواب:

اگر تم کہو کہ اپنے اکثر اوقات کو ان وظائف میں سے کس میں صرف کرنا بہتر ہے؟ تو جان لو کہ نماز میں کھڑے ہو کر غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تمام کو جامع ہے لیکن بسا اوقات اس پر مواظبت (بیشگی) اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ یہ وظائف آدمی کی حالت کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائیں۔

### اورادو وظائف سے مقصود:

اورادو وظائف کا مقصد دل کو پاک و صاف کرنا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے اسے مانوس و مزین کرنا ہے۔ لہذا آخرت کا ارادہ رکھنے والے کو چاہئے کہ اپنے دل کی طرف نظر کرے، جس وظیفے کو زیادہ اثر کرنے والا خیال کرے اسی پر مواظبت اختیار کرے اور جب اس سے اکتاہٹ محسوس کرے تو دوسرے وظیفے کی طرف منتقل ہو جائے۔

اسی لئے ہم اکثر مخلوق کے لئے یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان وظائف کو مختلف اوقات پر تقسیم کر دیں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے اور ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف منتقل ہوتے رہیں کیونکہ طبیعت پر اکتاہٹ غالب آجاتی ہے، نیز ایک آدمی کی حالتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب وظائف کا مقصد و راز سمجھ لے تو اس معنی کی پیروی کرے مثلاً: اگر تسبیح سنے اور دل میں اس کے لئے کوئی آواز محسوس کرے تو جب تک آواز محسوس ہو اس کا تکرار کرتا رہے۔

### حکایت: مرنے سے پہلے جنت کا نظارہ:

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَم سے ایک ابدال کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک رات

دریا کے کنارے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے تسبیح پڑھنے کی آواز سنی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پوچھا: ”آپ کون ہیں میں آپ کی آواز تو سنتا ہوں لیکن شکل و صورت نہیں دیکھتا؟“ کہا: ”میں ایک فرشتہ ہوں جو اس دریا پر مقرر ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح کر رہا ہوں۔“ پوچھا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“ کہا: ”مہلبیانیل۔“ پوچھا: ”جو اس تسبیح کو پڑھے اس کا ثواب کیا ہے؟“ جواب دیا: جو 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے یا اسے دکھانہ دی جائے۔“ وہ تسبیح یہ ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّيَّانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الشَّدِيدِ الْأَرْكَانِ سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ الْمُتَّانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ یعنی پاکی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جو بلند، بدلہ دینے والا ہے، پاکی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ مضبوط ارکان والے کو، پاکی ہے اسے جو رات کو لے جاتا اور دن کو لاتا ہے، پاکی ہے اسے جسے کوئی کام دوسرے کام سے نہیں پھیر سکتا، پاکی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ حَنَّان، مُتَّان کو، پاکی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جس کی ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے۔

چنانچہ، جب آخرت کا ارادہ کرنے والا یہ اور اس طرح کی دیگر تسبیحات سنے اور اپنے دل میں کوئی آہٹ پائے تو اسے لازم پکڑ لے اور جس عمل کے پاس دل کو پائے اور دل کے لئے اس میں خیر و برکت کا دروازہ کھلے تو اس پر مواظبت اختیار کر لے۔

﴿۲﴾..... عالم: وہ شخص ہے کہ فتویٰ، تدریس یا تصنیف میں اس کے علم سے لوگ نفع اٹھائیں۔

اس کے وظائف کی ترتیب عابد کی ترتیب کے مخالف ہے کیونکہ اسے کتابوں کا مطالعہ کرنے، تصنیف کرنے اور فائدہ پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان چیزوں کے لئے لازمی طور پر اسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اگر اسے اپنا تمام وقت اسی میں لگا دینا ممکن ہو تو اس کے لئے فرائض اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد اسی میں مشغول رہنا افضل ہے۔ اس پر وہ تمام روایات دلالت کرتی ہیں جنہیں ہم کتاب العلم کے تحت سیکھنے، سکھانے کے بیان میں ذکر کر آئے ہیں۔ نیز ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ علم میں ذکر الہی پر مواظبت، اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فرامین میں غور و فکر کرنا پایا جاتا ہے، اس میں مخلوق کی منفعت اور راہ آخرت کی طرف ہدایت حاصل ہوتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کوئی مسئلہ سیکھتا ہے تو اس سے اس کی عمر بھر کی عبادت درست ہو جاتی ہے اگر وہ اسے نہ سیکھتا تو اس کی یہ تمام کوشش بے کار جاتی۔

## عبادت پر مقدم علم سے کون سا علم مراد ہے؟

عبادت پر مقدم علم سے ہماری مراد وہ علم ہے جس سے لوگ آخرت کی طرف راغب ہوں اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں یا اس سے مراد وہ علم ہے کہ جب آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد لینے کی نیت سے اسے سیکھا جائے تو وہ اس میں ان کی مدد کرے۔ وہ علوم مراد نہیں جن کے ذریعے مال و جاہ اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی رغبت میں زیادتی ہوتی ہے۔

## عالم کے وقت کی تقسیم:

عالم کے لئے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو تقسیم کر لے کیونکہ تمام اوقات کو علم کی ترتیب میں مشغول رکھنے کو طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ لہذا مناسب ہے کہ بعد صبح سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو اور دو وظائف کے ساتھ خاص کر دے جیسا کہ ہم نے پہلے وظیفہ کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد سے چاشت تک کے وقت کو فائدہ پہنچانے اور تعلیم دینے کے ساتھ خاص کر دے جبکہ اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو آخرت کے لئے علم سیکھتا ہو اور اگر ایسا کوئی نہ ہو تو اس وقت کو غور و فکر میں صرف کرے اور ان مسائل دینیہ میں غور و فکر کرے جو اس پر مشکل ہیں کیونکہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیوی رنج و افکار میں مشغول ہونے سے پہلے جو دل کی صفائی ہے وہ ان مشکلات کو سمجھنے میں معاون ہوگی۔ چاشت کے وقت سے وقت عصر تک تصنیف اور مطالعہ کرنے میں مصروف رہے، کھانے، طہارت، فرض نماز اور اگر دن بڑا ہو تو ہلکے سے قیلولہ کے علاوہ کسی وقت اسے ترک نہ کرے۔ وقت عصر سے سورج کے زرد ہونے تک تفسیر، حدیث اور جو علم نافع اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اسے سنے۔ سورج زرد ہونے سے غروب ہونے تک ذکر، استغفار اور تسبیح وغیرہ میں مصروف رہے۔ یوں اس کا پہلا وظیفہ جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے وہ زبان کا عمل ہوگا، دوسرا وظیفہ جو چاشت تک ہے وہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے قلبی عمل ہوگا، تیسرا وظیفہ جو عصر تک ہے وہ مطالعہ کرنے اور لکھنے کی وجہ سے آنکھوں اور ہاتھوں کا عمل ہوگا، چوتھا وظیفہ جو عصر کے بعد ہے وہ سماعت کا عمل ہوگا تاکہ اس وقت آنکھیں اور ہاتھ آرام پائیں کیونکہ بعض اوقات عصر کے بعد مطالعہ کرنا اور لکھنا آنکھوں کے لئے مضر ہوتا ہے، سورج کے زرد ہونے کے وقت وہ پھر زبان کے ذکر کی طرف لوٹ جائے گا۔ لہذا دن کا کوئی حصہ اعضاء کے

اعمال سے خالی نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اوقات میں حضور قلب بھی حاصل ہوگا۔

رات کے بارے میں حضرت سیّدنا امام محمد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْكَافِي کی تقسیم کتنی اچھی ہے کہ وہ رات کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے: پہلا تہائی مطالعہ کے لئے، درمیانی تہائی نماز کے لئے اور آخری تہائی سونے کے لئے۔ سردیوں میں یہ تقسیم آسان ہے لیکن گرمیوں میں نفس بعض اوقات اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا مگر جبکہ دن کے وقت زیادہ سوئے۔ یہ وہ ہے جسے ہم عالم کے اور دو وظائف کی ترتیب میں سے مستحب جانتے ہیں۔

﴿۳﴾..... طالب علم: علم سیکھنے میں مشغول ہونا ذکر اور نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے، وظائف کی ترتیب میں طالب علم کا حکم بھی عالم کے حکم کی طرح ہے لیکن جہاں عالم فائدہ دینے میں مصروف ہوتا ہے یہ فائدہ لینے میں مصروف ہوتا ہے، جہاں عالم تصنیف و تالیف میں مصروف ہوتا ہے یہ لکھنے اور یاد کرنے میں مصروف ہوتا ہے، اس کے اوقات کو اسی طرح ترتیب دیا جائے گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ کتاب العلم میں سیکھنے اور سیکھانے کے بیان میں ہمارا ذکر کردہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ افضل ہے، اگر کوئی شخص ان معنوں میں عالم نہ بھی ہو کہ وہ لکھتا اور یاد کرتا ہوتا کہ عالم بن جائے بلکہ عوام میں سے ہو تو بھی اس کا ذکر، وعظ اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا ان اور اد میں مشغول ہونے سے بہتر ہے جنہیں ہم نے صبح کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اور بقیہ اوقات میں ذکر کیا ہے۔

حضرت سیّدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ ”إِنَّ حُضُورَ مَجْلِسٍ ذِكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رُكْعَةٍ وَشَهْرٍ أَلْفِ جَنَازَةٍ وَعِبَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ“ یعنی مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز پڑھنے، ہزار جنازوں میں شرکت کرنے اور ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے۔<sup>(۱)</sup>

ایک روایت میں ہے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم جنت کے باغات دیکھو تو ان میں سے کچھ چن لیا کرو۔“ عرض کی گئی: ”یا رسولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! جنت کے باغات کیا ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”ذکر کے حلقے۔“<sup>(۲)</sup>

حضرت سیّدنا عبد الاحبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”اگر علما کی مجالس کا ثواب لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو وہ

①..... قوت القلوب، باب ذکر الفرق بین علماء الدنيا..... الخ، ج ۲، ص ۲۵۷، بتقدم و تاخر۔

②..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، الحدیث: ۳۵۲، ج ۵، ص ۳۰۴، ”رایتم“ بدلہ ”مررتم“۔

اس پر ایک دوسرے سے لڑیں حتیٰ کہ ہر حکومت والا اپنی حکومت اور ہر دکاندار اپنی دکان کو ترک کر دے۔“

### معزز مقام:

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”ایک شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلتا ہے کہ اس پر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں، جب وہ کسی عالم (کے بیان) کو سنتا ہے تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا تم علما کی مجالس سے جدائی اختیار نہ کرو کیونکہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے سطح زمین پر مجالسِ علما سے زیادہ معزز کوئی جگہ نہیں بنائی۔“

ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: ”ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو۔“

### حکایت: محفل ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت:

حضرت سیدنا مسکینہ طفویہ ان عورتوں میں سے تھیں جو ذکر کے حلقوں پر ہمیشگی اختیار کرتی تھیں، عمار زاہد نے انہیں خواب میں دیکھ کر کہا: ”اے مسکینہ! خوش آمدید۔“ انہوں نے کہا: ”دور ہو! مسکینی چلی گئی، مالداری آگئی۔“ عمار زاہد نے کہا: ”وہ کیسے؟“ جواب دیا: ”اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے لئے تمام کی تمام جنت مباح کر دی گئی۔“ پوچھا: یہ کس سبب سے ہوا؟“ جواب دیا: ”اہل ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔“

### حاصل کلام:

جس اچھے کلام اور پاک سیرت والے واعظ کے وعظ کی برکت سے دل سے دنیا کی محبت کی گرہ کھل جاتی ہے تو اس کا وعظ ان بہت سی رکعات سے زیادہ بلند مرتبہ اور نفع دینے والا ہے جن کے باوجود دل میں دنیا کی محبت باقی رہے۔

﴿۴﴾..... پیشہ ور: جو اپنے اہل و عیال کے لئے کمانے کا محتاج ہو اس کے لئے اہل و عیال سے بے پرواہی برت کر اپنے تمام اوقات کو عبادت میں صرف کرنا جائز نہیں بلکہ کام کاج کے وقت اس کا وظیفہ بازار کی حاضری اور کام کاج میں مصروف ہونا ہے لیکن اپنے کام کاج کے دوران بھی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذکر کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات، ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت پر ہمیشگی اختیار کرے کہ کام کے ساتھ ان اعمال کو جمع کرنا ممکن ہے لیکن نماز کو کام کے ساتھ اکٹھا کرنا

آسان نہیں، البتہ اگر وہ باغبان ہو تو اس وقت باغبانی کے ساتھ ساتھ نماز کے وظائف کو بھی قائم کر سکتا ہے۔

## صدقہ کی نیت سے زائد مال کمانا کیسا؟

جب بقدر کفایت روزی کمانے سے فارغ ہو جائے تو اپنے وظائف کی ترتیب کی طرف لوٹ آئے لیکن اگر مزید کمانے پر ہیئگی اختیار کرے اور حاجت سے زائد مال کو صدقہ کر دے تو یہ ان تمام وظائف سے افضل ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا کیونکہ وہ عبادات جن کا فائدہ متعدی ہوتا (یعنی دوسروں تک بھی پہنچتا) ہے ان عبادات سے زیادہ نفع مند ہوتی ہیں جن کا فائدہ غیر متعدی ہوتا ہے (یعنی دوسروں تک نہیں پہنچتا)۔ صدقہ کی نیت سے کمانا بذات خود اس کے لئے بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے پھر اس سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مسلمانوں کی دعاؤں کی برکات اسے شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔

﴿۵﴾..... حکمران: مثلاً اہام المسلمین، قاضی اور متولی کہ یہ مسلمانوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لہذا ان کا اخلاص کے ساتھ، شریعت کے مطابق مسلمانوں کی حاجات اور ان کے امور سرانجام دینا مذکورہ اوراد میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔

## اپنے اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری:

ان کا حق یہ ہے کہ یہ دن کے وقت لوگوں کے حقوق میں مشغول ہوں اور صرف فرض نمازوں پر اکتفا کریں اور اوراد مذکورہ کورات میں پورا کر لیں جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سپیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اور فرماتے: ”مجھے نیند سے کیا واسطہ؟ اگر میں دن کے وقت سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کر دوں گا اور اگر رات کے وقت سوؤں تو اپنا حق ضائع کر دوں گا۔“

## عبادت بدنہ پر دو چیزیں مقدم ہوں گی:

ہمارے گزشتہ بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عبادت بدنہ پر دو چیزوں کو مقدم کیا جائے گا: (۱)..... علم (۲)..... مسلمانوں کے ساتھ نرمی (اور ان کے مصالح میں غور و فکر) کرنا۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک بذات خود عمل خیر اور ایسی عبادت ہے جسے تمام عبادات پر اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ ان کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا اور نفع پھیلتا ہے۔

لہذا یہ دونوں بقیہ عبادات پر مقدم ہوں گے۔

﴿۶﴾..... موحد: جو یکتا و بے نیاز ذات (یعنی ذات باری تعالیٰ کی معرفت) میں مستغرق رہے، جس کی صبح اس حال میں ہو کہ اس کی ایک ہی فکر ہو، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے محبت نہ کرے اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرے، جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی سے رزق کی امید نہ رکھے، جس چیز کی طرف بھی دیکھے اس میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔<sup>(۱)</sup> تو جو شخص اس درجہ تک پہنچ جائے اسے طرح طرح کے وظائف کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ فرض نمازوں کے بعد اس کا ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس کا دل ذات باری تعالیٰ کے حضور حاضر رہے، اس کے دل میں جو خیال بھی آتا، کانوں میں جو آواز بھی پڑتی اور آنکھوں کو جو شے بھی دکھائی دیتی ہے ان کے لئے اس میں عبرت، غور و فکر اور مزید احوال ہوتے ہیں، اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی انہیں حرکت دیتا اور ساکن کرتا ہے۔

یہ تمام احوال اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے لئے (بصیرت اور معنی مقصود کے ظہور میں) زیادتی کا سبب ہوں۔ لہذا ان کے نزدیک ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز نہیں ہوتی اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف بھاگ گئے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۶۹﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ط  
ترجمہ کنزالایمان: کہ تم دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو۔

(پ ۲، الدُّرُیْتُ: ۵۰، ۴۹)

انہیں پر یہ فرمان خداوندی بھی صادق آتا ہے:

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَوَاعِبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ  
سَّحَابَتِهِ ﴿۱۵﴾ (پ ۱، الکہف: ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اس فرمان باری تعالیٰ میں بھی انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے:

①..... اس کی مثال یوں سمجھئے کہ کوئی شخص آئینہ خانہ میں داخل ہو تو وہ ہر طرف اپنے آپ کو بھی دیکھے گا اس لئے کہ یہی اصل اور بقیہ جتنی صورتیں ہیں سبھی اس کے عکس ہیں بلا تمثیل و جوہستی بالذات واجب تعالیٰ کے لئے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں اس کی ظلِ پَسْرَتُو (یعنی عکس) ہیں لہذا صاحب مرتبہ ہر شے میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (ملخصاً ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۱۰۹، ۱۱۰)



إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾

ترجمہ کنز الایمان: میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں  
اب وہ مجھے راہ دے گا۔

(پ ۲۳، الصُّفَّت: ۹۹)

یہ صدیقین کے درجات کی انتہا ہے، وظائف کی ترتیب اور ایک طویل زمانے تک ان کی پابندی کے ذریعے ہی اس درجہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔

جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اسے یہ باتیں سن کر دھوکا نہیں کھانا چاہئے کہ وہ اپنے نفس کے لئے اس کا دعویٰ کرنے لگ جائے اور اپنی عبادت کے وظائف سے راہ فرار اختیار کرے۔

### صدیقین کے مرتبے پر فائز شخص کی علامات:

جو شخص اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ نہ تو اس کے دل میں وسوسے آئیں، نہ اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے، نہ پریشانیوں کا نجوم اسے اپنی جگہ سے ہٹا سکے اور نہ ہی بڑے بڑے اور اہم معاملات اسے اس کی جگہ سے ہلا سکیں۔ لہذا یہ مرتبہ ہر ایک کو کیسے مل سکتا ہے؟

پس تمام لوگوں پر وظائف کی ترتیب لازم ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور وہ تمام امور جو ہم نے ذکر کئے اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ چنانچہ، ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِرَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٩﴾ (پ ۱۵، ابنی السراویل: ۸۴)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ سب اپنے کینڈے (انداز) پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔

یہ تمام ہدایت یافتہ ہیں۔ البتہ بعض بعض سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔

حدیث پاک میں ہے: ”الْإِيمَانُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ وَثَلَاثٌ مِائَةٌ طَرِيقَةٌ مِنْ لَقَى اللَّهَ تَعَالَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقٍ مِّنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ یعنی ایمان کے ۳۳۳ راستے ہیں جو شخص ان میں سے کسی راستے پر بھی گواہی دیتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملے گا داخل جنت ہوگا۔“ (۱)

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ نے فرمایا: ”ایمان رسولوں کی تعداد کے مطابق ۳۱۳ اوصاف پر ہے تو جو کوئی

①.....شعب الایمان للبیہقی، باب فی حسن الخلق، الحدیث: ۸۵۴، ج ۶، ص ۳۶۶، بتغییر۔

ان میں سے ایک وصف پر بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ راہ خدا پر چلنے والا ہے۔“ پس تمام مؤمنین سیدھی راہ پر ہیں اگرچہ عبادت میں ان کے طریقے مختلف ہیں۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ  
إِلَىٰ سَرَائِمٍ أُولَٰئِكَ أَقْرَبُ  
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔

ان میں فرق صرف قرب کے درجات میں ہے، اصل قرب میں کوئی فرق نہیں۔ ان میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ قریب وہ ہے جسے معرفت الہی زیادہ حاصل ہے اور جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زیادہ معرفت حاصل ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عبادت بھی زیادہ کرے کیونکہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل کر لی وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔

### وظائف میں اصل ان پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے:

انسانوں کی تمام اقسام کے حق میں وظائف میں اصل چیز ان پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ باطنی صفات تبدیل ہو جائیں اور اعمال علیحدہ علیحدہ طور پر بہت کم اثر کرتے ہیں بلکہ ان کے اثر کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اثر صرف مجموعے پر مرتب ہوتا ہے لہذا ایک عمل پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تو جب اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا عمل نہیں لائے گا تو پہلا اثر مٹ جائے گا۔ یہ اس فقیہ کی طرح ہوگا جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ فقیہ النفس ہو، وہ فقیہ النفس اسی وقت ہوگا جب کثرت کے ساتھ تکرار کرے، اگر وہ ایک رات تکرار کرنے میں خوب مبالغہ کرے، پھر ایک مہینہ یا ایک ہفتہ تک تکرار نہ کرے، پھر اس کی طرف لوٹے اور ایک رات تکرار کرنے میں خوب مبالغہ کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر اتنی ہی مقدار کو پے درپے راتوں پر تقسیم کر دے تو اس کا اثر ضرور ہوگا۔

اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب البیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ لِعَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كَمَا نَزَلَتْ فِيهِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ“ (۱)

①.....صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضيلة العمل الدائم.....الخ، الحديث: ۷۸۳، ص ۳۹۴۔

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: ”میرے سرتاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا تھا اور جب کوئی عمل کرتے اسے برقرار رکھتے (یعنی ہمیشہ کرتے)۔“ (۱)

اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جسے اللہ عزوجل نے کسی عبادت کا عادی بنایا پھر اس نے اکتاہٹ کی وجہ سے اسے ترک کر دیا تو اللہ عزوجل اس سے ناراض ہے۔“ (۲)

نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا بھی یہی سبب ہے کہ ایک وفد کے معاملات میں مشغولیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کی ظہر کے بعد) کی دو رکعتیں رہ گئیں تو بعد عصر ادا پڑھ لیں، اس کے بعد ہمیشہ نماز عصر کے بعد یہ دو رکعتیں پڑھتے رہے لیکن گھر میں پڑھا کرتے تھے مسجد میں نہیں تاکہ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ یہ روایت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔

## ایک سوال اور اس کا جواب:

کیا کوئی شخص اس عمل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر سکتا ہے حالانکہ اس وقت میں نفل نماز جائز نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں نماز کے مکروہ ہونے کے جو اسباب ہم نے پیچھے ذکر کئے ہیں کہ (۱)..... سورج کی عبادت کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔ (۲)..... شیطان کا سینگ ظاہر ہونے کے وقت سجدہ کرنا۔ (۳)..... اکتا جانے کے خوف سے عبادت سے کچھ دیر آرام کرنا۔ یہ تینوں اسباب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں متحقق نہیں۔ لہذا آپ پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر دلیل آپ کا یہ مبارک فعل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دو رکعتوں کو اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص پیروی نہ کرے۔



①..... صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضیلة العمل الدائم..... الخ، الحدیث: ۸۰-۸۳، ص ۳۹۴۔

②..... قوت القلوب، الفصل التاسع فیہ ذکر وقت الفجر..... الخ، ج ۱، ص ۴۴، بتغییر قلیل۔

## باب نمبر 2: قیام اللیل میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب، شب بیداری کے لئے مستحب راتیں، مغرب و عشا کے درمیانی وقت اور شب بیداری کی فضیلت اور رات کے اوقات کی تقسیم کا بیان مغرب و عشا کے درمیانی وقت کی فضیلت بیس یا چالیس سال کے گناہ معاف:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میرے سر تاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک افضل نماز، مغرب کی نماز ہے، اسے نہ تو مسافر سے کم کیا اور نہ ہی مقیم سے، اس کے ذریعے رات کی نماز کو شروع فرمایا اور دن کی نماز کو ختم فرمایا تو جس شخص نے نماز مغرب پڑھی اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے گا۔<sup>(۱)</sup> راوی کا بیان ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ دو محل سونے کے ہوں گے یا چاندی کے۔ جس نے چار رکعتیں پڑھیں اللہ عزوجل اس کے 20 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ یا فرمایا: 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔“<sup>(۲)</sup>

### گویا شب قدر میں نماز پڑھی:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے نماز مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیں تو یہ اس کے حق میں پورا

①..... تفسیر القرطبی، پ ۲، البقرة، تحت الآية ۲۳۸، ج ۲، جزء ۳، ص ۱۵۹، بذکر ”قصر“۔

قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۔

تفسیر القرطبی، پ ۲، البقرة، تحت الآية ۲۳۸، ج ۲، جزء ۳، ص ۱۵۹۔

سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یا فرمایا: گویا اس نے شب قدر میں نماز پڑھی۔“ (۱)

## جنتی محل:

حضرت سیدنا ثوبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو مغرب و عشا کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی، دونوں کے درمیان اس کے لئے درخت لگائے گا کہ اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے۔“ (۲)

ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے مغرب و عشا کے درمیان 10 رکعتیں پڑھیں اللہ عَزَّ وَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔“ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: ”یا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! تب تو ہمارے محل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔“ ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّ وَجَلَّ سب سے زیادہ کثرت و فضل فرمانے والا ہے۔ یا فرمایا: سب سے زیادہ پاک ہے۔“ (۳)

## نماز مغرب کے بعد دو رکعت پڑھنے کی فضیلت:

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو کوئی نماز مغرب باجماعت ادا کرے اور کوئی دنیاوی بات کئے بغیر دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات اور درمیان سے یہ دو آیات پڑھے:

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٦٦﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
اٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي  
الْبَحْرِ بِسَائِفِ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ

①..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۸۔

②..... قوت القلوب، الفصل الحادى عشر فيه كتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۸۔

③..... الزهد لابن المبارك، الجزء العاشر، الحديد، ۱۲۶، ص ۴۴۶۔

سے پانی اُتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ  
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لَا يَتْلُوهُمُ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾ (پ ۳، البقرة: ۱۶۳، ۱۶۴)

پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع اور سجدہ کرے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور اس کے

بعد کی یہ دو آیات پڑھے:

ترجمہ کنز الایمان: کچھ زبردستی نہیں دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گراہی سے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا  
يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  
مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٥٧﴾ (پ ۳، البقرة: ۲۵۶، ۲۵۷)

پھر سورہ بقرہ کی آخری تین آیات پڑھے:

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَان  
تُبَدُوْا مٰفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا يَحٰسِبِكُمْ بِاللّٰهِ  
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ  
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٥﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا  
اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنٍ

اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا جو کیں اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے انگوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (طاقت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر (رحم) کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ  
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سُبْحٰنَا  
أَطْعَمَنَا غَفَرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٧٨﴾  
لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا  
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَتَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا  
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا  
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ  
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٩﴾

(پ ۳، البقرة: ۲۸۳ تا ۲۸۶)

پھر 15 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ (۱) تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ شمار سے باہر ہے۔

## خواب میں زیارت رسول سے مشرف ہو:

حضرت سیدنا کرز بن و برہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ابدال میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی: ”مجھے ایسی چیز سکھائیے جس پر میں ہر رات عمل کیا کروں۔“ انہوں نے فرمایا: ”جب تم نماز مغرب پڑھو تو عشا کے وقت تک کسی سے کلام کئے بغیر نماز پڑھتے رہو، جو نماز پڑھ رہے ہو اس کی طرف متوجہ رہو اور ہر دو رکعتوں پر سلام پھیر دو۔ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ اور کسی سے کلام نہ کرو پھر دو رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرو اور اس میں سات مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار کرو، پھر سات بار یہ کہو: سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (ترجمہ

۱..... قوت القلوب، الفصل الحادی عشر فیہ کتاب فضل الصلاة..... الخ، ج، ص ۵۸۔

ماقبل میں گزر چکا ہے) پھر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو اٹھا کر یوں دعا کرو: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلَهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَجِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اِلَهَ يَا اِلَهَ يَا اِلَهَ (ترجمہ ماقبل میں گزر چکا ہے) پھر اسی حالت میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اسی طرح دعا کرو، پھر جہاں چاہو قبلہ رخ ہو کر اپنی سیدھی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔“

حضرت سیدنا کرز بن وبرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں: میں نے عرض کی: ”مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ دعا کن سے سنی ہے؟“ فرمایا: ”جب رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ دعا سکھائی اس وقت میں وہاں حاضر تھا اور جب آپ پر یہ دعا وحی کی گئی تب بھی میں خدمت میں حاضر تھا، یہ سب میری موجودگی میں ہوا۔ لہذا میں نے یہ دعا اسی وقت سیکھ لی تھی۔“

منقول ہے کہ ”جو شخص مذکورہ دعا و نماز کو حسن یقین اور صدق نیت کے ساتھ ہمیشہ پڑھا کرے وہ مرنے سے پہلے پہلے خواب میں پیارے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔“ بعض حضرات نے ایسا کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل کئے گئے، وہاں انہوں نے آقائے دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ ساتھ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کی زیارت بھی کی۔ نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے کلام بھی فرمایا اور تعلیم بھی فرمائی۔

### خلاصہ کلام:

مغرب و عشا کے درمیان عبادت کرنے کی فضیلت میں کثیر روایات مروی ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عبید اللہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا: ”کیا حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے؟“ فرمایا: ”مغرب اور عشا کے درمیان نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مغرب و عشا کے درمیان کی

①.....المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبید مولیٰ النبی، الحدیث: ۲۳۷۱، ج ۹، ص ۱۶۵۔



نماز، اور امین (یعنی بہت توبہ کرنے والوں) کی نماز ہے۔“ (۱)

حضرت سیدنا سود بن یزید نخعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَالِیُّ فرماتے ہیں: میں مغرب و عشا کے درمیان جب بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں نماز پڑھتے پایا۔ جب اس کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ غفلت کا وقت ہے (اس لئے نماز پڑھتا ہوں)۔“

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہُ اس نماز پر پیشگی اختیار فرماتے اور فرمایا کرتے: یہ شب بیداری ہے اور فرماتے: یہ فرمان باری تعالیٰ اسی کے متعلق نازل ہوا ہے:

تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں

سے۔

(پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْبَارِیُّ فرماتے ہیں: میں نے ابو سلیمان دارانی قَدِيسَ سِرَّةِ التُّورَانِ سے عرض کی: ”میں دن میں روزہ رکھوں اور مغرب و عشا کے درمیان کھانا کھاؤں آپ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر یہ کہ میں دن میں روزہ ترک کر دوں اور مغرب و عشا کے درمیان عبادت کروں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان دونوں کو جمع کرو۔“ میں نے کہا: ”اگر انہیں جمع کرنا آسان نہ ہو تو۔“ فرمایا: ”روزہ ترک کر دو اور اس دوران عبادت کرو۔“

## شب بیداری کی فضیلت

### شب بیداری کی فضیلت سے متعلق 6 فرامین باری تعالیٰ:

﴿۱﴾

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب۔

(پ ۲۹، مزمل: ۲۰)

﴿۲﴾

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا ۖ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

(پ ۲۹، مزمل: ۶)

①..... الزهد لابن المبارك، الجزء العاشر، الحديد ۱۲۵، ص ۲۴۵۔

﴿۳﴾

تَتَجَانَفُ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

(پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں

- سے -

﴿۴﴾

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آنَاءَ اللَّيْلِ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں

گزریں -

﴿۵﴾

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۴﴾

(پ ۱۹، الفرقان: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے

لئے سجدے اور قیام میں -

﴿۶﴾

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴿۵﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو -

منقول ہے کہ جس پر صبر کر کے مجاہدہ نفس پر مدد طلب کی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہے -

## شب بیداری کی فضیلت پر مشتمل 18 فرامین مصطفیٰ:

﴿1﴾..... جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی (یعنی گردن کے پچھلے حصے) پر تین گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ

پر یہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سو جا، پھر اگر بندہ بیدار ہو جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی

ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ خوش دل

پاک نفس صبح کرتا ہے وگرنہ پلید طبیعت اور سست صبح پاتا ہے (۱)۔ (۲)

①..... مُقَسِّرُ شَيْبَرِ حَكِيمِ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِي أَحْمَد يَارْخَانَ عَلَيهِ رَحْمَةُ الْمَنَانِ مِرَاةُ الْمُنَاجِيحِ، ج 2، ص 253 پر ”تین گرہیں لگا دیتا

ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: یہاں گرہ کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں بلاوجہ تاویل کی ضرورت نہیں جاوے گا گرہاگے یا بالوں میں کچھ دم

کر کے گرہ لگا دیتے ہیں جس کا اثر محسوس ہو جاتا ہے ایسے ہی شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی تین

گرہیں لگا دیتا ہے اسی لئے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان تین گرہوں کو کھولنے کے لئے

تین عمل ارشاد فرمائے۔

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ماروی فیمن نام اللیل..... الخ، الحدید: 44، ص 392، بتغیر الفاظ۔

﴿2﴾..... بارگاہ رسالت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا نماز کے لئے نہ اٹھا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔“ (۱)

﴿3﴾..... شیطان کے پاس سونگھنے، چاٹنے اور آنکھ میں ڈالی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ کسی بندے کو کچھ سُنْگھاتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب وہ اس کو کچھ چٹاتا ہے تو وہ فحش گو ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھوں میں کچھ ڈالتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ (۲)

﴿4﴾..... وہ دو رکعتیں جنہیں بندہ رات کے وسط (درمیان) میں ادا کرتا ہے، اس کے لئے دنیا و ما فیہا (دنیا اور جو کچھ اس میں ہے) سے بہتر ہیں، اگر میں اپنی اُمَّت پر اسے مشکل خیال نہ کرتا تو ان پر اسے فرض کر دیتا۔ (۳)

﴿5﴾..... رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں مسلمان بندہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی بھلائی کا سوال کرتا ہے اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ (۴)

ایک روایت میں ہے کہ اس گھڑی میں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سے دُنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرے، یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ (۵)

﴿6﴾..... حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے قیام فرمایا حتیٰ کہ قدیم شریفین میں ورم آگیا۔ عرض کی گئی: ”یا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! کیا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے سبب امت کے اگلے، پچھلے گناہوں کو معاف نہیں فرمادیا؟“ ارشاد فرمایا: ”کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ (۶)

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ماروی فیمن نام اللیل..... الخ الحدیث: ۷۷۴، ص ۳۹۲۔

②..... قوت القلوب، الفصل الرابع عشر فی ذکر تقسیم قیام اللیل..... الخ، ج ۶، ص ۷۶۔

المعجم الكبير، الحدیث ۶۸۵۵، ج ۷، ص ۲۰۶، باختصار۔

③..... الزهد لابن المبارك، الجزء العاشر، الحدیث ۱۲۸۹، ص ۴۵۶۔

④..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فی اللیل ساعة..... الخ، الحدیث: ۷۵، ص ۳۸۰۔

⑤..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فی اللیل ساعة..... الخ، الحدیث: ۷۵، ص ۳۸۰۔

⑥..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی..... الخ، الحدیث: ۱۱۳، ج ۱، ص ۳۸۴، بتغییر۔

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد زیادتی رتبہ سے کتنا یہ ہے کیونکہ شکر مزید انعام ملنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (پ ۱۳، ابراہیم: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔

﴿7﴾ ..... حضور پر نور، شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سپیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”اگر تم چاہتے ہو کہ حالتِ حیات و وفات اور قبر و حشر میں تم پر اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی رحمت ہو؟ تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اور ربَّ عزَّ وَّجَلَّ کی رضا تلاش کرو۔ اے ابو ہریرہ! اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تو آسمانوں میں تمہارے گھر کا نور اس طرح ہوگا جیسے اہل دنیا کے نزدیک ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔“

﴿8﴾ ..... تم رات میں اٹھنا لازم پکڑ لو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوں کا طریقہ ہے اور ربَّ عزَّ وَّجَلَّ کی طرف قربت کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے والا اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔<sup>(۱)</sup>

﴿9﴾ ..... جس شخص کرات میں نماز پڑھنے کا معمول ہو پھر (کسی دن) اس پر نیند غالب آجائے تو اس کے لئے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور نیند اس پر صدقہ ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

﴿10﴾ ..... حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سپیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”اگر تم سفر کا ارادہ کرو تو اس کے لئے کوئی تیاری کرو گے؟“ عرض کی: ”جی ہاں۔“ ارشاد فرمایا: ”قیامت کے سفر کا کیا حال ہے؟ اے ابو ذر! کیا میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں اس دن نفع پہنچائیں گی؟“ عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان! ضرور۔“ ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن کے لئے سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت کے لئے رات کے اندھیرے میں دو رکعتیں پڑھو، بڑے بڑے (پیش آنے والے) امور کے لئے حج کرو اور کسی مسکین کو کوئی چیز دے کر یا حق بات کہہ کر یا کسی برے کلمے سے خاموش رہ کر صدقہ کرو۔“<sup>(۳)</sup>

①..... سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعا النبی، الحدیث: ۳۵۶، ج ۵، ص ۳۲۲، ”للذنوب“ بدلہ ”اللسیئات“۔

②..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام، الحدیث: ۱۳۱، ج ۲، ص ۵۱۔

③..... موسوعة الامام ابن ابی الدنيا، التهجد وقيام الليل، الحدیث: ۱، ج ۱، ص ۲۴۔

﴿11﴾..... زمانہ رسالت میں ایک شخص کا معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو وہ نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور بارگاہِ الہی میں عرض کرتا: ”يَا رَبَّ النَّارِ اجْرِنِي مِنْهَا یعنی اے آگ کے رب عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس سے نجات عطا فرما۔“ بارگاہِ رسالت میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب پھر ایسا ہو تو مجھے اطلاع دینا۔“ (چنانچہ، جب اطلاع دی گئی تو) آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کی باتوں کو سنا۔ جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جنت کا سوال کیوں نہ کیا؟“ اس نے عرض کی: ”یا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میرا اتنا مقام کہاں اور نہ ہی میرے اعمال اس قابل ہیں۔“ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اسے خبر دیجئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔“

﴿12﴾..... مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ابن عمر اچھے آدمی ہیں اگر وہ رات میں نماز پڑھا کریں۔“ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

حضرت سیدنا نافع رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمَا رات میں نماز پڑھا کرتے اور مجھ سے فرماتے: ”اے نافع! کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟“ میں عرض کرتا: ”نہیں۔“ پھر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ پھر فرماتے: ”اے نافع! کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟“ میں عرض کرتا: ”جی ہاں۔“ تو آپ بیٹھ جاتے اور طلوعِ فجر تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے۔

﴿13﴾..... حضرت سیدنا علی بن ابوالخیر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا عَلَیْہِ السَّلَام نے الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے ایک بار جو کی روٹی سیر ہو کر کھائی تو صبح تک سوئے رہے اور اوراد و وظائف رہ گئے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”اے یحییٰ! کیا تو نے میرے گھر سے اچھا گھر پالیا ہے؟ یا مجھ سے اچھا پڑوس پالیا ہے؟ اے یحییٰ! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! اگر تم جنت کو دیکھ لو تو اس کے (حصول کے) شوق میں تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان نکل جائے اور اگر تم جہنم کو دیکھ لو تو تمہاری چربی پگھل جائے اور اتارو کہ آنسوؤں کے بعد پیپ بہنے لگے

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب فضل قیام اللیل، الحدیث: ۱۱۴، ج ۱، ص ۳۸۲۔

اور تم اُن کے بعد چڑے کا لباس پہننے لگو۔“

﴿14﴾ ..... بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی: ”فلاں شخص رات میں تو نماز پڑھتا ہے جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا

ہے۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عنقریب اس کا یہ عمل اسے چوری سے روک دے گا (۱)۔“ (۲)

﴿15﴾ ..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز

پڑھے لے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ پھر فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں

اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے کہ وہ بھی پڑھے لے اگر وہ نہ مانے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔ (۳)

﴿16﴾ ..... جب کوئی شخص رات میں اپنی زوجہ کو جگائے پھر دونوں دو رکعتیں پڑھ لیں تو وہ ذکر کرنے والوں اور

والیوں میں لکھے جائیں گے۔ (۴)

﴿17﴾ ..... فرض نماز کے بعد رات کی نماز افضل ہے۔ (۵)

﴿18﴾ ..... جو اپنے رات کے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے پھر فجر و ظہر کے درمیان پڑھے لے تو ایسا ہی لکھا

۱..... مُفَرَّرٌ شَہْرِ حَکِیْمٍ الْأَمَّتِ حَضْرَتِ مُفْتِیِّ اَحْمَدِ یَارْحَمَہُ اللہُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ مِرَاةُ الْمَنَاجِیْحِ، ج 2، ص 261 پر اس کے تحت فرماتے

ہیں: نماز کی برکت سے وہ ان عیوب سے توبہ کرے گا یہ حدیث اس بات کی شرح ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

(ب) ۲۱، العنکبوت: ۴۵، ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم فرماؤ بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے) خیال رہے کہ سارے

صحابہ عادل ہیں کوئی فاسق نہیں یعنی گناہ پر قائم کوئی نہ رہا۔ بعض تو پہلے ہی سے گناہوں سے محفوظ تھے جیسے ابو بکر صدیق اور بعض سے گناہ

سرزد ہوئے اور بعد میں تاب ہو گئے جیسے یہ شخص جس کی شکایت ہوئی یہ بھی خیال رہے کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نہ تو اس چور

کے ہاتھ اس وقت کٹوائے، کیونکہ چوری کا ثبوت شرعی نہ ہوا، نہ شکایت کرنے والے کو غیبت پر کوئی تنبیہ فرمائی کیونکہ وہ غیبت نہ کر رہے

تھے، بلکہ ان کی اصلاح کے خواہاں تھے، جیسے شاگرد کی شکایت استاد سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تم فلاں گناہ کرتے ہو تو تمہیں

داڑھی رکھنے یا نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، سخت غلط ہے اِنَّ شَآءَ اللہُ یہ نیکیاں گناہ چھڑادیں گی۔ گناہ کی وجہ سے نیکیوں کو نہ چھوڑو بلکہ

نیکیوں کی وجہ سے گناہ چھوڑ دو۔

۲..... صحیح ابن حبان، کتاب الصلاة، فضل فی قیام اللیل، ذکر استحباب الاکتاف..... الخ، الحدیث ۲۵۵، ج ۴، ص ۱۱۶۔

۳..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب قیام اللیل، الحدیث ۱۳۰۸، ج ۲، ص ۴۹۔

۴..... سنن ابی داؤد، کتاب الوتر، باب فاتحة الكتاب، الحدیث: ۱۴۵، ج ۲، ص ۱۰۰۔

۵..... صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث ۱۱۶۳، ص ۵۹۱، ”المکتوبہ“ بدلہ ”الفرضیہ“۔

جائے گا گویا اس نے رات میں پڑھا۔<sup>(۱)</sup>

## شب بیداری کی فضیلت پر مشتمل 24 اقوال بزرگان دین:

﴿1﴾..... مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رات میں وظائف پڑھتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے تو زمین پر گر پڑے حتیٰ کہ کئی روز تک ان کی عیادت کی جاتی رہی جیسے مریض کی کی جاتی ہے۔

﴿2﴾..... جب لوگ سو جاتے تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کھڑے ہو جاتے اور صبح تک شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی۔

﴿3﴾..... منقول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے ایک رات سیر ہو کر کھانا کھا لیا پھر فرمایا: ”جب گدھے کے چارے میں زیادتی کی جاتی ہے تو اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔“ چنانچہ، اس رات آپ صبح تک نماز پڑھتے رہے۔

﴿4﴾..... حضرت سیدنا طاووس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اس پر بے چینی کے ساتھ اس طرح کروٹیں بدلتے جیسے کڑاہی میں دانہ اُلٹ پلٹ ہوتا ہے پھر اچھل کر کھڑے ہو جاتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے پھر فرماتے: ”جہنم کے ذکر نے عابدین کی نیندیں اڑا دی ہیں۔“

﴿5﴾..... حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”ہمارے نزدیک رات کی مشقت اور کار خیر میں مال خرچ کرنے سے زیادہ دشوار کوئی عمل نہیں۔“ عرض کی گئی: ”کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟“ فرمایا: ”چونکہ انہوں نے رَحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ کے لئے تنہائی اختیار کی تو اس نے بھی انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا۔“

﴿6﴾..... ایک بزرگ کسی سفر سے واپس لوٹے تو ان کے لئے بستر بچھایا گیا، وہ اس پر سو گئے حتیٰ کہ ان کے رات کے وظائف رہ گئے تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کبھی بھی بستر پر نہیں سوئیں گے۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابورواد عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد پر جب رات چھا جاتی تو بستر کے پاس آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر فرماتے: ”تو نرم ضرور ہے لیکن اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بستر ہیں۔“

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل..... الخ، الحدیث: ۷۴، ص ۳۷۶۔

پھر پوری رات نماز پڑھتے رہتے۔

﴿8﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَهَّابِ نے فرمایا: ”جب رات آتی ہے تو شروع میں اس کی طوالت مجھے ڈراتی ہے پھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوتی۔“

﴿9﴾..... حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے فرماتے ہیں: ”گناہوں کے سبب بندے کو رات میں اٹھ کر عبادت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“

﴿10﴾..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَهَّابِ نے فرماتے ہیں: ”اگر تم رات میں اٹھ کر عبادت کرنے اور دن کے وقت روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہو تو جان لو کہ تم محروم ہو اور تمہاری خطائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔“

﴿11﴾..... تابعی بزرگ حضرت سیدنا صلہ بن اشیم عدوی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی پوری رات نماز پڑھتے جب سحری کا وقت ہوتا تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے: ”اے اللہ عَزَّ وَجَلَّ! میرے جیسے آدمی کو یہ لائق نہیں کہ وہ تجھ سے جنت طلب کرے لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔“

﴿12﴾..... ایک شخص نے کسی دانا (عقل مند) سے کہا: ”میں رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے سے عاجز ہوں۔“ دانا شخص نے فرمایا: ”اے بھائی! دن میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی نافرمانی نہ کر پھر شب بیداری نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

﴿13﴾..... حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے پاس ایک باندی تھی جسے انہوں نے بیچ دیا، جب رات کا درمیانی حصہ آیا تو وہ لوٹدی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی: ”اے گھر والو نماز، نماز۔“ وہ کہنے لگے: ”کیا صبح ہو گئی؟ کیا فجر طلوع ہو گئی؟“ باندی نے کہا: ”کیا تم صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہو؟“ کہا: ”ہاں!“ تو باندی نے حضرت سیدنا حسن بن صالح رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”اے میرے آقا! آپ نے مجھے ایسی قوم کو بیچا ہے جو صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہیں، لہذا مجھے واپس لے لیجئے۔“ چنانچہ، آپ نے اسے واپس لے لیا۔

﴿14﴾..... حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان مرادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِی نے فرماتے ہیں: ”میں نے حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَافِی کے گھر کئی راتیں گزاری ہیں، (دیکھا ہے کہ) آپ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔“



﴿15﴾..... حضرت سیدنا ابو جریہ عبد الحمید بن عمران کوفی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِیِّ فرماتے ہیں: ”میں چھ ماہ حضرت سیدنا

امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی صحبت میں رہا، ان چھ ماہ میں ایک رات بھی انہیں سوتے نہ دیکھا۔“

(منقول ہے کہ) حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ

لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہیں یہ کہتے سنا کہ ”یہ پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ

نے فرمایا: ”میں اس سے حیا کرتا ہوں کہ میری طرف ایسی بات منسوب کی جائے جس پر میں عمل نہیں کرتا۔“ اس کے

بعد سے آپ پوری رات عبادت کرنے لگے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْرَمِ کے پاس رات

گزارنے کے لئے کوئی بستر نہیں تھا۔

﴿16﴾..... کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارِ نے ایک رات اس طرح گزار لی کہ صبح

تک یہ آیت پڑھتے رہے:

ترجمہ کنز الایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے

ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے

کام کئے کہ ان کی ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے کیا ہی

براعلم لگاتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ

نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا

سَاءَ مَا مَجِئَهُمْ وَمَمَا تَهُمْ سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ (الباقیة: ۲۱)

﴿17﴾..... حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْحَسِیْبِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار

عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارِ کو دیکھا، انہوں نے نماز عشا کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے گئے اور اپنی داڑھی پکڑ

لی (اور رونے لگے) حتیٰ کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کا سانس رک گیا، پھر بارگاہِ الہی میں عرض کرنے لگے: ”اے اللہ

عَزَّ وَجَلَّ! مالک کے بڑھاپے کو آگ پر حرام فرمادے۔ الہی! تو جانتا ہے کون جنت میں اور کون جہنم میں رہے گا؟ مالک

کہاں رہے گا؟ اس کا گھر کون سا ہے (جنت یا جہنم)؟“ طلوع فجر تک یہی کہتے رہے۔

﴿18﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَفَّارِ فرماتے ہیں: ایک رات میں اپنا رات کا وظیفہ کرنا بھول گیا

اور سو گیا، میں نے خواب میں ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا اس نے کہا: ”کیا آپ اسے

اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں!“ اس نے وہ خط مجھے دے دیا اس میں یہ اشعار لکھے تھے:

أَلْهَيْتَكَ اللَّذَائِدُ وَالْأَمَانِي  
عَنِ الْبَيْضِ الْأَوَانِسِ فِي الْجَنَانِ  
تَعِيشُ مُخَلَّدًا لَا مَوْتَ فِيهَا  
وَتَلْهُو فِي الْجَنَانِ مَعَ الْحَسَانِ  
تَنْبَهُ مِنْ مَنَامِكَ أَنَّ خَيْرًا  
مِنَ النَّوْمِ التَّهَجُّدُ بِالْقُرْآنِ

**ترجمہ:** (۱)..... کیا لذات اور خواہشات نے تجھے جنت میں رہنے والی خوبصورت حوروں سے غافل کر دیا ہے؟

(۲)..... تو اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی اور جنتوں میں حسین و جمیل حوروں کے ساتھ کھیلے گا۔

(۳)..... نیند سے بیدار ہو کہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے۔

﴿19﴾..... منقول ہے کہ حضرت سیدنا مسروق بن اجدع رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے حج کیا تو کوئی رات بغیر سجدہ کرتے نہ گزاری۔

﴿20﴾..... حضرت سیدنا زہر بن مغیث رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جو عابدوں میں سے تھے، فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی، میں نے اس سے کہا: ”تم کون ہو؟“ اس نے جواب دیا: ”حور۔“ میں نے کہا: ”مجھ سے شادی کر لو۔“ اس نے کہا: ”میرے آقا کو نکاح کا پیغام دو اور مہر بھی ادا کر دو۔“ میں نے کہا: ”تمہارا مہر کیا ہے؟“ کہا: ”رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔“

﴿21﴾..... حضرت سیدنا یوسف بن مہران عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: ”مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ ہے، اس کے پنجے موتیوں کے اور کلغی سبز زبرجد کی ہے، جب تہائی رات گزرتی ہے تو وہ پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور کہتا ہے: عابدوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو پھر پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور کہتا ہے: تہجد پڑھنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے تو پھر پروں کو پھڑ پھڑا کر کہتا ہے: نمازیوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر پروں کو پھڑ پھڑا کر کہتا ہے: غافلوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ ان پر (گناہوں کا) بوجھ ہے۔“

﴿22﴾..... منقول ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قَدِيسَ سِرَّةِ النَّوْرَانِي نے 30 سال تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا۔ فرمایا کرتے تھے: ”مجھے اپنے گھر میں شیطان کو دیکھنا تکلیف دیکھنے سے زیادہ پسند ہے کیونکہ تکلیف نیند کی طرف بلاتا ہے۔“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے پاس چمڑے کا ایک تکیہ تھا جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اس پر رکھ کر کچھ دیر سو جاتے

پھر نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔

﴿23﴾..... ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں خواب میں دیدار الہی سے مشرف ہوا تو میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یہ کہتے سنا: ”مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان تیمی کو اچھا ٹھکانا عطا فرماؤں گا کیونکہ اس نے 40 سال میری خوشنودی کے حصول کے لئے عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔“ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان تیمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي کا موقف یہ تھا کہ جب نیند دل پر چھا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

﴿24﴾..... بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”میرا سچا بندہ وہ ہے جو رات کو اٹھنے میں مرغ کے بولنے کا انتظار نہیں کرتا۔“

## شب بیداری میں آسانی کے ظاہری و باطنی اسباب

جو شخص شب بیداری کو آسان کرنے والے ظاہری و باطنی اسباب کا لحاظ نہیں کرتا اس کے لئے رات میں عبادت کرنا مشکل ہے۔

### چار ظاہری اسباب:

﴿1﴾..... زیادہ کھانے سے پرہیز: کیونکہ شب بیداری کرنے والا اگر زیادہ کھانا کھائے گا تو پانی بھی زیادہ پئے گا یوں اس پر نیند غالب آجائے گی اور شب بیداری مشکل ہو جائے گی۔ بعض شیوخ ہر رات دسترخوان پر کھڑے ہو کر فرماتے: ”اے راہ آخرت کا ارادہ کرنے والے گروہ! زیادہ کھانا نہ کھاؤ کہ اس طرح تم پانی بھی زیادہ پیو گے، پھر سوؤ گے بھی زیادہ اور پھر موت کے وقت حسرت بھی زیادہ کرو گے۔“

یہ (شب بیداری و تندرستی کا) بہت بڑا ضابطہ ہے کہ معدے کو کھانے کے بوجھ سے ہلکا رکھا جائے۔

﴿2﴾..... دن کے وقت نفس کو نہ تھکانا: شب بیداری کے خواہش مند کو چاہئے کہ دن کے اوقات میں نفس کو زیادہ نہ تھکائے کیونکہ دن کے وقت نفس کو ایسے اعمال کے ذریعے تھکا دینا بھی نیند کا سبب ہے کہ جن کی وجہ سے اعضاء عاجز آجاتے اور اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔

﴿3﴾..... دن کے وقت قیلولہ کرنا: دن میں قیلولہ بھی ترک نہ کرے کہ یہ شب بیداری میں مدد لینے کے لئے سنت ہے۔

﴿4﴾..... دن میں گناہوں سے اجتناب کرنا: دن میں گناہوں سے اجتناب کرے کیونکہ یہ دل کی سختی کا باعث بنتے اور اسبابِ رحمت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔

### گناہوں کا قیدی:

ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي سے عرض کی: ”اے ابوسعید! میں رات عافیت میں (یعنی سو کر) گزارتا ہوں حالانکہ میں شب بیداری کو پسند کرتا ہوں، اسی لئے وضو کا پانی بھی تیار رکھتا ہوں، پھر بھی نجانے کیا وجہ ہے کہ میں شب بیداری نہیں کر پاتا؟“ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے فرمایا: ”تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔“

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي جب بازار میں داخل ہوتے تو لوگوں کا شور اور فضول گفتگو سن کر فرماتے: ”میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی رات بہت بری ہے کیونکہ یہ دن کے وقت قیلولہ نہیں کرتے۔“

### شب بیداری سے محرومی کا سبب:

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي فرماتے ہیں: ”میں ایک خطا کے سبب پانچ ماہ تک شب بیداری سے محروم کر دیا گیا۔“ عرض کی گئی: ”وہ کون سی خطا تھی؟“ فرمایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ یہ ریا کاری کر رہا ہے۔“

### ایک گناہ کی سزا:

ایک بزرگ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا کرزبن وَبَر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ کے پاس گیا انہیں روتے دیکھ کر پوچھا: ”کیا اہل و عیال میں سے کسی کی موت کی خبر آئی ہے؟“ فرمایا: ”اس سے بھی سخت بات ہے۔“ میں نے پوچھا: ”کیا کہیں درد ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟“ فرمایا: ”اس سے بھی سخت معاملہ ہے۔“ پوچھا: ”کیا معاملہ ہے؟“ فرمایا: ”میرا دروازہ بند ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے اور میں نے گزشتہ رات اپنا وظیفہ نہیں پڑھا، یہ محرومی میرے ایک گناہ کی سزا ہے۔“ یہ انہوں نے اس وجہ سے فرمایا کیونکہ نیکی، نیکی کو لاتی اور برائی، برائی کو لاتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی مقدار بھی کثرت کی طرف لے جاتی ہے۔

## جماعت فوت ہونے کا سبب:

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدس سرُّہ التُّوراکِی فرماتے ہیں: ”کسی کی جماعت کا فوت ہو جانا اس کے کسی گناہ کے سبب ہے۔“ مزید فرماتے ہیں: ”رات میں احتلام ہونا ایک سزا اور جنابت (رحمت الہی سے) دوری کا سبب ہے۔“ بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں: ”اے مسکین! جب تو روزہ رکھے تو غور کر کہ کس کے پاس اور کس چیز پر افطار کرتا ہے کیونکہ بندہ جو لقمہ بھی کھاتا ہے اس سے اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹتا۔“

## خلاصہ کلام:

الغرض تمام گناہ قساوت قلبی (یعنی دل کی سختی) کا باعث اور شب بیداری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جو گناہ بالخصوص دل پر اثر کرتا ہے وہ لقمہ حرام ہے جبکہ لقمہ حلال دل کی صفائی اور اسے بھلائی کی طرف راغب کرنے میں اتنا اثر کرتا ہے کہ کوئی اور شے اتنا اثر نہیں کرتی۔ اہل مراقبہ نے شریعت کی گواہی کے بعد تجربہ کے ذریعے بھی اس چیز کو جانا ہے۔ اسی وجہ سے ان میں سے بعض حضرات نے فرمایا: ”کتنے ہی لقمے ایسے ہیں جو شب بیداری سے روک دیتے ہیں اور کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت سے روک دیتی ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات بندہ کوئی (حرام کا) لقمہ کھاتا، یا (حرام) کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے ایک سال تک شب بیداری سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“ جس طرح نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اسی طرح بے حیائی نماز اور تمام نیک کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ جیل کے ایک داروغہ کا بیان ہے کہ میں 30 سال سے زیادہ عرصہ (دینور میں) جیلر رہا، رات کے وقت جب بھی کوئی نیا قیدی آتا تو میں اس سے پوچھتا: ”کیا تم نے نمازِ عشا باجماعت پڑھی ہے؟“ تو وہ یہی کہتا کہ ”نہیں۔“ یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ جماعت کی برکت بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے۔

## چار باطنی اسباب:

﴿1﴾..... دل کا سلامت ہونا: اس سے مراد یہ ہے کہ دل مسلمانوں کے بغض و کینہ، بدعتوں اور فضول قسم کے دنیوی خیالات سے پاک و صاف ہو کیونکہ جو دنیا کی تدبیر کرنے کی فکر میں مگن ہو اس کے لئے شب بیداری کرنا آسان نہیں،

اگر کر بھی لے تو نماز میں غور و فکر نہیں کر پاتا بلکہ دنیوی کاموں کے بارے میں سوچتا رہتا اور اسی کے وسوسوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی قسم کی حالت کے بارے میں کہا گیا ہے:

يُخْبِرُنِي الْبَوَّابُ أَنَّكَ نَائِمٌ      وَأَنْتَ إِذَا اسْتَيْقَظْتَ أَيُّضًا فَنَائِمٌ

**ترجمہ:** دربان نے مجھے خبر دی کہ تو سویا ہوا تھا اور تو جاگتے ہوئے بھی سویا ہوتا ہے۔

﴿2﴾..... **دل پر خوف طاری ہو:** دل پر خوف کا غلبہ جبکہ امید کم ہو کیونکہ جب یہ آخرت کی ہولناکیوں اور جہنم کے درجات کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کی نیند اڑ جائے گی اور خوف میں زیادتی ہوگی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمانی قَدَسَ سِرُّهُ التُّورَاقِي فرماتے ہیں: ”جہنم کے ذکر نے عابدین کی نیندیں اڑادی ہیں۔“

### توصہیب کو نیند نہیں آتی:

اسی طرح بصرہ کے صہیب نامی ایک غلام کا واقعہ ہے کہ وہ پوری رات نماز پڑھا کرتا تھا، اس کی مالکہ نے اس سے کہا: ”تیرا پوری رات نماز پڑھنا تیرے دن کے وقت کام میں نقصان دہ ہے۔“ اس نے کہا: ”صہیب کو جب جہنم یاد آتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی۔“

ایک اور غلام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی پوری رات نماز پڑھا کرتا تھا، اسے جب ایسا کہا گیا تو اس نے جواب دیا: ”جب مجھے جہنم کا خیال آتا ہے تو میرا خوف بڑھ جاتا ہے اور جب جنت کا خیال آتا ہے تو میرا شوق بڑھ جاتا ہے، لہذا مجھے سونے پر قدرت نہیں ہوتی۔“

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: قرآن پاک نے (بندوں کو) اپنے وعدہ و وعید کے ذریعے رات میں سونے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے عظمت و بزرگی والے بادشاہ کا کلام سمجھ لیا تو اس کی بارگاہ میں عاجزی کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔

اسی مفہوم کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: اے لمبی نیند اور غفلت میں پڑنے والے! نیند کی کثرت حسرت پیدا کرتی ہے۔ بے شک مرنے کے بعد جب تو قبر میں منتقل ہوگا تو قبر میں لمبی نیند ہے۔ اس میں تیرے لئے اسی کا بستر بچھایا جائے گا جو تو نے گناہ یا نیکیاں کی ہیں۔ کیا تو رات کے وقت اچانک ملک الموت عَلَيهِ السَّلَام کے آنے سے بے خوف ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سے بے خوف تھے وہ ان کے پاس جا پہنچے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو نیک لوگ محنت (یعنی عبادت) میں لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ خوف نے ان کی نیندیں اُڑادی تو وہ عبادت کے لئے کمر بستہ ہو گئے جبکہ بے خوف لوگ سوئے ہوئے ہیں۔

﴿3﴾..... شب بیداری کی فضیلت میں وارد آیات، احادیث اور آثار صحابہ و تابعین پیش نظر ہوں: کہ اس کے سبب حصول ثواب کے لئے امید و شوق مضبوط ہوگا اور پھر شوق مزید مقامات تک طلب اور جنت کے درجات میں رغبت کی طرف ابھارے گا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ ایک بزرگ جہاد سے واپس آئے تو زوجہ بستر بچھا کر ان کا انتظار کرنے لگی، وہ بزرگ مسجد میں گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ زوجہ نے عرض کی: ”میں آپ کی تشریف آوری کی کب سے منتظر تھی، آپ آئے ہیں تو صبح تک نماز میں ہی مشغول رہے ہیں۔“ فرمایا: ”خدا کی قسم! میں اس طویل رات میں جنت کی حوروں میں سے ایک حور کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، تمہارے اور گھر کے متعلق کچھ خیال ہی نہ آیا اور ساری رات اس کے شوق میں نماز پڑھتا رہا۔“

﴿4﴾..... ذات باری تعالیٰ پر پختہ ایمان اور اس کی کامل محبت دل میں ہو: یہ سب سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس بات پر پختہ ایمان ہو کہ حالت قیام میں یہ جو کچھ بھی کہتا ہے ہر حرف کے ذریعے بارگاہِ الہی میں مناجات کر رہا ہے اور وہ اس پر آگاہ ہے۔ نیز (دوسوں سے خالی) جو خیالات دل میں آئیں ان کا بھی مشاہدہ کرے اور یقین رکھے یہ خطرات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے اسے خطاب ہیں۔ کیونکہ جب کوئی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرے گا تو وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کرے گا اور اس سے مناجات کرنے کی لذت پائے گا اور حبیب کے ساتھ مناجات کرنے کی لذت زیادہ دیر قیام کرنے پر ابھارے گی۔

اس لذت کو کوئی بعید نہ سمجھے کیونکہ اس پر عقل و نقل دونوں گواہ ہیں:

عقلی دلیل: اس شخص کے حال سے سبق حاصل کر جو کسی انسان سے اس کے حسن و جمال، یا بادشاہ سے اس کے انعام و اکرام کی بدولت محبت کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تہائی اور ہمکلامی سے کیسے لذت پاتا ہے حتیٰ کہ رات دیر تک اسے نیند بھی نہیں آتی۔

## سوال جواب:

(۱)..... اگر یہ وسوسہ آئے کہ خوبصورت شخص کی طرف دیکھ کر لذت حاصل کی جاتی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ تو نظر نہیں آتا (پھر کیوں کر لذت حاصل ہوگی)؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حسین و جمیل محبوب پر دے کے پیچھے ہو یا اندھیرے کمرے میں ہو تو پھر بھی محبت اسے دیکھے بغیر صرف اس کی گفتگو سے لذت پاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش بھی نہیں کرتا، اس پر اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اپنی زبان سے اس کا ذکر کر کے اسے سنا کر خوش ہوتا ہے اگرچہ یہ باتیں محبوب کو پہلے سے ہی معلوم ہوں۔

(۲)..... اگر یہ وسوسہ آئے کہ حسین و جمیل شخص کے جواب کا انتظار ہوتا ہے پھر اس کا جواب سن کر لذت حاصل ہوتی ہے لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام نہیں سنا جاتا (پھر کیوں کر لذت حاصل ہوگی)؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ شخص جانتا ہو کہ محبوب جواب نہیں دے گا بلکہ خاموش رہے گا تب بھی محبوب پر اپنے احوال ظاہر کرنے اور راز اس تک پہنچانے میں اسے لذت ہی حاصل ہوتی ہے (تو پھر مناجات کرنے والے کو کیسے لذت حاصل نہ ہوگی) حالانکہ یقین کامل رکھنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہر وہ بات سنتا ہے جو مناجات کے دوران اس کے دل پر وارد ہوتی ہے تو وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ جیسے وہ کہ جو کسی بادشاہ کے ساتھ خلوت میں ہو اور رات کے کسی حصے میں بادشاہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرے تو وہ انعام کی امید میں اس سے لذت پائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے امید رکھی جائے اور جو اس کے پاس ہے وہ بہتر، باقی رہنے والا اور دوسروں سے زیادہ نفع مند ہے تو پھر تنہائی میں بارگاہِ الہی میں اپنی حاجات پیش کرنے سے کیوں کر لذت حاصل نہ ہوگی؟

**نقلی دلیل:** مناجات کی لذت حاصل ہونے پر راتوں کو قیام کرنے والوں کے احوال شاہد ہیں کہ وہ رات کے قیام کے ذریعے لذت پاتے ہیں اور رات کو یوں چھوٹا خیال کرتے ہیں جیسے محبت، محبوب سے ملاقات کی رات کو بہت چھوٹی سمجھتا ہے۔

## شب بیداروں کے واقعات و اقوال:

..... منقول ہے کہ ایک شب بیدار سے پوچھا گیا: ”آپ کی رات کیسی گزرتی ہے؟“ تو جواب ملا: ”میں نے



رات کا کبھی لحاظ نہیں رکھا وہ مجھے اپنا چہرہ دکھا کر پلٹ جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں غور نہیں کرتا۔“  
 ..... ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”میں اور رات، مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں کبھی تو وہ مجھے فجر تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی مجھے غور و فکر سے محروم کر دیتی ہے۔“

..... کسی شب بیدار سے پوچھا گیا: ”آپ پر رات کیسے گزرتی ہے؟“ فرمایا: ”رات ایسی گھڑی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں: جب وہ آتی ہے تو اس کے اندھیرے سے خوش ہوتا ہوں ابھی خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح طلوع ہونے کا غم لاحق ہو جاتا ہے۔“

..... حضرت سیدنا علی بن بگا رَعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَظْمَا فرماتے ہیں: ”40 سال سے صبح طلوع ہونے کے علاوہ کسی اور چیز نے مجھے غمگین نہیں کیا۔“

..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَعَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَهَّاب فرماتے ہیں: ”جب سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرے کی وجہ سے میں خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ اس وقت میں رب عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہوں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگوں کے اپنے پاس آنے کی وجہ سے غمزہ ہو جاتا ہوں۔“

..... حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدَّسَ سِرُّهُ السُّورَکِی فرماتے ہیں: ”راتوں میں قیام کرنے والے راتوں میں کھیل کود کرنے والوں کی بنسبت زیادہ لذت پاتے ہیں اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔“ مزید فرماتے ہیں: ”اگر رات میں قیام کرنے والوں کو ان کے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت دے دی جائے جو وہ رات کے قیام میں پاتے ہیں تو یہ ان کے اعمال کے ثواب سے زیادہ ہوگی۔“

..... بعض علمائے کرام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام فرماتے ہیں: ”عاجزی وانکساری کرنے والے اپنے دل میں جو مناجات کی لذت پاتے ہیں اس کے سوا دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جو جتنی نعمتوں کے مشابہ ہو۔“

..... منقول ہے کہ ”مناجات کی لذت دنیاوی نہیں بلکہ جنتی نعمتوں میں سے ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ صرف اپنے اولیائے عظام رَحْمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کے لئے ظاہر فرماتا ہے ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔“

..... حضرت سیدنا محمد بن منکدر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ”دنیاوی لذت میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں: (۱)..... رات کا قیام۔ (۲)..... مسلمان بھائیوں سے ملاقات۔ (۳)..... نماز باجماعت۔“

.....! بعض عارفین رَحِمَهُمُ اللهُ الْعَمِيقُ فرماتے ہیں: ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سحری کے وقت جاگنے والوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے تو انہیں انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے۔ فوائد ان کے دلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، جو انوار ان کے دلوں سے زائد ہوتے ہیں وہ غافلین کے دلوں میں پھیل جاتے ہیں۔“

## محبت الہی و محبوب الہی کی علامات:

متقدمین علمائے سے کسی کا قول ہے کہ ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نے ایک صدیق کی طرف الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں۔ وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ وہ میری طرف نظر کرتے ہیں، میں ان کی طرف نظر فرماتا ہوں۔ اگر تو ان کے راستے پر چلا تو میں تجھے محبوب بنا لوں گا اور اگر ان سے منہ پھیرا تو میں تجھ پر شدید غضب کروں گا۔“ صدیق نے عرض کی: ”اے ربَّ عَزَّ وَجَلَّ! ان کی علامت کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ دن کے وقت سایہ پر اس طرح دھیان دیتے ہیں جس طرح چرواہا بکریوں پر توجہ دیتا ہے اور غروب آفتاب کی طرف شوق کے ساتھ اس طرح مائل ہوتے ہیں جیسے اس وقت پرندے اپنے گھونسلے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب رات انہیں چھپا لیتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر حبیب اپنے حبیب کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے چہروں کو میرے لئے بچھا دیتے اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے مناجات کرتے ہیں۔ میرے انعامات کے سبب میری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہیں۔ کوئی چیختا ہے تو کوئی روتا ہے۔ کوئی آہیں بھرتا ہے تو کوئی شکایت کرتا ہے۔ وہ میری وجہ سے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں اور میری محبت کی وجہ سے جو شکایت کرتے ہیں اسے سنتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں انہیں عطا کرتا ہوں وہ میرا نور ہے کہ جب وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں تو وہ میرے بارے میں بتانے لگتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ دوسری چیز جو انہیں عطا کرتا ہوں یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ان کے میزان میں ہوں تو بھی ان کے حق میں اسے قلیل جانتا ہوں۔ تیسری چیز جو انہیں عطا کرتا ہوں یہ ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہوں اور جس کی طرف میں خصوصی توجہ کرتا ہوں تو کسی کو کیا خبر کہ میں نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟“

..... حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّارِ فرماتے ہیں: ”جو بندہ تہجد پڑھنے کے لئے اٹھتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ (اپنی رحمت کے ساتھ) اس سے قریب ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ اپنے دلوں میں جو نرمی، حلاوت اور انوار پاتے ہیں اس کی وجہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا قرب جانتے ہیں۔“ یہ ایک راز اور حقیقت ہے عنقریب ”محبت کے بیان میں“ اس کی طرف اشارہ آئے گا۔

..... مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے بندے! میں اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہو اور تو نے غیب میں میرے نور کو دیکھا۔“

## بخشش کے جھونکے:

ایک شاگرد نے اپنے استاذ سے رات دیر تک جاگنے کی شکایت کی اور نیند لانے کی کوئی ترکیب پوچھی تو استاذ نے کہا: ”اے بیٹے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس رات اور دن میں بخشش کے کچھ جھونکے ہیں جو بیدار دلوں کو پہنچتے ہیں اور سوئے ہوئے دلوں سے گزر جاتے ہیں، تم ان جھونکوں کو حاصل کرنے کے درپے رہو۔“ شاگرد نے کہا: ”یا سیدی! آپ نے مجھے اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ میں نہ رات کو سو سکتا ہوں، نہ دن کو۔“

جان لیجئے کہ رات کے وقت ان جھونکوں کی زیادہ امید ہوتی ہے کیونکہ قیام اللیل میں دل کی صفائی ہوتی اور دنیاوی مشاغل دور ہوتے ہیں۔

## قبولیت کی گھڑی:

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”رات میں ایک گھڑی ہے کہ جسے کوئی بندہ مومن پا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے وہ ضرور دیتا ہے۔“ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ”اس ساعت میں بندہ مومن دنیا و آخرت میں سے جس بھلائی کا بھی سوال کرتا ہے

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب في الليل ساعة..... الخ، الحديث: ۷۵، ص ۳۸۰۔

اللہ تعالیٰ وہ اسے ضرور دیتا ہے اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔“ (۱)

رات میں قیام کرنے والوں کا مطلوب اس ساعت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ ساعت پوری رات میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جس طرح لیلة القدر پورے ماہ رمضان میں پوشیدہ ہوتی ہے یا جس طرح جمعہ کے دن کی ساعت ہے کہ یہ بھی ان بخشش کے جھونکوں میں سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شب کے اوقات کی تقسیم کا طریقہ:

جاننا چاہئے کہ مقدار کے اعتبار سے شب بیداری کے سات مراتب ہیں:

﴿1﴾..... پوری رات شب بیداری: یہ ان مضبوط لوگوں کی شان ہے جنہوں نے خود کو فقط عبادت کے لئے فارغ کر رکھا ہے اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے سے لذت پاتے ہیں۔ یہی ان کی غذا اور ان کے دلوں کی زندگی ہے۔ لہذا یہ دیر تک قیام کرنے سے تھکتے نہیں، نیند کو دن کے وقت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جبکہ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينُ کے ایک گروہ کا طریقہ تھا کہ وہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

## عشا کے وضو سے فجر ادا کرنے والے:

حضرت سیدنا امام ابو طالب محمد بن علی کی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَكْبِی فرماتے ہیں: چالیس تابعین سے تو اتر و شہرت کے طور پر منقول ہے کہ وہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے چالیس سال تک اس کی پابندی کی۔ ان میں سے چند یہ ہیں: (۱)..... حضرت سیدنا سعید بن مسیب مدنی۔ (۲)..... حضرت سیدنا صفوان بن سلیمان مدنی۔ (۳)..... حضرت سیدنا فضیل بن عیاض مکی۔ (۴)..... حضرت سیدنا وہیب بن زردکی۔ (۵)..... حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان یمنی۔ (۶)..... حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمنی۔ (۷)..... حضرت سیدنا ابو یزید ربیع بن خثیمہ کوفی۔ (۸)..... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ حکم بن عتیبہ کوفی۔ (۹)..... حضرت سیدنا ابوسلیمان احمد بن عبد الرحمن دارانی شامی۔ (۱۰)..... حضرت سیدنا ابوالحسن علی بن یگار شامی۔ (۱۱)..... حضرت سیدنا ابو عبد اللہ خواص عبادی۔ (۱۲)..... حضرت سیدنا ابو عاصم عبادی۔ (۱۳)..... حضرت سیدنا ابو محمد حبیب بن محمد عجمی فارسی۔

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فی اللیل ساعة..... الخ، الحدیث: ۷۵، ص ۳۸۰۔

(۱۳)..... حضرت سیدنا ابو جابر سلمانی فارسی۔ (۱۵)..... حضرت سیدنا ابو یحییٰ مالک بن دینار بصری۔ (۱۶)..... حضرت سیدنا ابو المعتمر سلیمان بن طرخان تمیمی بصری۔ (۱۷)..... حضرت سیدنا یزید بن ابان رقاشی بصری۔ (۱۸)..... حضرت سیدنا حسیب بن ابوثابت بصری۔ (۱۹)..... حضرت سیدنا یحییٰ بن مسلمہ بکاء بصری اور (۲۰)..... حضرت سیدنا ابو عثمان کھمس بن منہال بصری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ۔ مؤخر الذکر شخصیت کے بارے میں منقول ہے کہ مہینے میں ۹۰ قرآن پاک ختم فرماتے، دوران تلاوت اگر کسی آیت کو سمجھ نہ پاتے تو دوبارہ پڑھتے۔ اہل مدینہ میں سے حضرت سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار اور حضرت سیدنا محمد بن منکدر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا بھی انہیں میں سے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

﴿۲﴾..... آدھی رات شب بیداری: سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ میں جو آدھی رات شب بیداری پر پیشگی اختیار کرتے تھے ان کی تعداد شمار سے باہر ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کا پہلا تہائی اور آخری چھٹا حصہ سویا جائے اور درمیان والے نصف حصے میں قیام کیا جائے، یہی افضل ہے۔

﴿۳﴾..... ایک تہائی رات شب بیداری: اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے نصف اور آخری چھٹے حصے میں سویا جائے۔

**خلاصہ کلام:** یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سونا پسندیدہ عمل ہے کہ یہ صبح کے وقت کی اُونگھ کو دور کرتا ہے اور اسلاف صبح کے وقت کی اُونگھ کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نیز یہ چہرے کی زردی اور اس کے سبب شہرت کو بھی کم کرتا ہے۔ لہذا اگر اکثر رات قیام کرے اور سحری کے وقت سو جائے تو اس کے چہرے کی زردی اور صبح کے وقت اُونگھ کم ہوگی۔

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: ”میرے سر تاج، صاحب معراج صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرماتے، پھر اگر حاجت ہوتی تو اذان میں سے کسی سے قربت فرماتے وگرنہ مصلے پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ حضرت بلال آ کر نماز کے لئے اذان کہتے۔“ (۱)

انہی سے مروی ایک روایت میں ہے، فرماتی ہیں: ”میں نے سحری کے بعد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو

①..... سنن النسائي، كتاب قيام الليل..... الخ، باب وقت الوتر، الحديث ۱۶۴، ص ۲۹۱، باختصار۔

سنن ابی داود، كتاب التطوع، باب الاضطجاع بعدها، الحديث ۱۲۶۲، ج ۲، ص ۳۲، باختصار۔

ہمیشہ آرام کرتے ہی پایا۔“ (۱)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”صبح سے پہلے یہ سونا سنت ہے۔“ (۲)

اس وقت کی نیند غیب کے پردوں کے آگے کشف اور مشاہدہ کرنے کا سبب ہے اور یہ اربابِ قلوب کے لئے ہوتا ہے۔ نیز اس وقت کی نیند میں آرام ہے جو دن کے وظائف میں سے پہلے وظیفے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

رات کے دوسرے نصف میں کل رات کا ایک تہائی قیام کرنا اور آخری چھٹے حصے میں آرام کرنا حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔

﴿4﴾..... رات کا چھٹا یا پانچواں حصہ قیام کرنا: اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ قیام دوسرے نصف میں اور رات کے آخری چھٹے حصے سے پہلے ہو۔

﴿5﴾..... کسی اندازے کو ملحوظ نہ رکھا جائے: یہ بات صرف انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے آسان ہوتی ہے اس لئے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یا اس کے لئے آسان ہے جو چاند کی منزلوں کو جانتا ہو اور پھر اس پر کسی کو نگران مقرر کرے جو اس کی نگرانی کرتا رہے اور وقت پر اسے جگا دے پھر بھی بسا اوقات بادل والی راتوں میں یہ معاملہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے چاہئے کہ رات کے پہلے حصے میں قیام کرے جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، بیدار ہو تو پھر قیام کرے، پھر نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے یوں اس کے لئے رات میں دو نیندیں اور دو قیام ہوں گے، یہ رات کی مشقت میں سے ہے۔ سب سے سخت اور سب سے افضل ہے۔ نیز یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر، اولوالعزم صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت کا بھی یہی طریقہ تھا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ”نیند پہلی ہی مرتبہ ہے، جب میں بیدار ہو جاؤں اور دوبارہ سونا چاہوں تو اللہ عزوجل مجھے نہ سلائے۔“

مقدار کے اعتبار سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قیام فرمانا ایک ترتیب پر نہیں تھا بلکہ کبھی نصف رات قیام فرماتے، کبھی دو تہائی اور کبھی رات کا چھٹا حصہ۔ آپ کا یہ طریقہ راتوں کے اعتبار سے بدلتا رہتا تھا۔ اس پر

①..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة اللیل..... الخ، الحدیث: ۷۴، ص ۷۳، مفہومًا۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالیشان دلالت کرتا ہے جو سورہ مزمل کے شروع اور آخر میں ہے:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ  
الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ (ب: ۲۹، مزمل: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی۔

ام المؤمنین حضرت سیدہ ثناء عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: ”میرے سر تاج، صاحبِ معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں اس وقت اٹھتے جب مرغ کی اذان سنتے۔“<sup>(۱)</sup> یہ رات کے چھٹے حصے سے تھوڑا سا کم وقت ہے۔

**رات میں بیدار ہو تو اس سنت پر عمل کرے:**

مروی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں: میں نے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھا کہ عشا کے بعد کافی رات تک لیٹے رہے، پھر جاگے تو آسمان کے کنارے میں نظر کی اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی:

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے! تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ اے رب ہمارے! بیشک جسے تو دوزخ میں لے جائے اُسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے! ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے نداء فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما (مثلاً) دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رُسوانہ کر بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا  
عَذَابَ النَّٰرِ ﴿۹۱﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ  
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۹۲﴾  
رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَمْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ  
أٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا  
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۹۳﴾  
رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا  
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ﴿۹۴﴾

(پ: ۴، آل عمران: ۱۹۱ تا ۱۹۴)

پھر بستر کے نیچے سے مسواک نکال کر مسواک کی، پھر وضو کر کے نماز ادا فرمائی حتیٰ کہ میں نے کہا آپ جتنی دیر

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب من نام عند السحر، الحدیث: ۱۱۳۲، ج ۱، ص ۳۸۵۔

سوئے تھے اتنی ہی دیر نماز پڑھی ہے، پھر لیٹ گئے اور جتنی دیر نماز پڑھی اتنی ہی دیر آرام فرمایا، پھر بیدار ہو کر وہی پڑھا جو پہلی مرتبہ پڑھا تھا اور وہی کیا جو پہلی مرتبہ کیا تھا۔<sup>(۱)</sup>

﴿6﴾..... دو یا چار رکعتوں کی مقدار قیام کرنا: یہ سب سے کم مقدار ہے، پھر اگر اس کے لئے طہارت کرنا مشکل ہو تو ایک ساعت کے لئے ذکر و دعائیں مشغول ہو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت اور اس کے فضل سے اس کے لئے تمام رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”رات کے وقت نماز پڑھو اگرچہ بکری کا دودھ دوہنے کی مقدار ہی سہی۔“<sup>(۲)</sup>

﴿7﴾..... رات کے دونوں کناروں میں قیام کرنا: اگر رات کے وسط (درمیان) میں قیام کرنا مشکل ہو تو مغرب و عشا کے مابین جو وقت ہے اسے اور عشا کے بعد والے وظیفہ کو نہ چھوڑے، پھر سحری کے وقت بیدار ہو جائے تاکہ صبح صادق کو سوتے میں نہ پائے اور رات کے دونوں کناروں میں قیام ہو۔

یہ رات کو تقسیم کرنے کے طریقے ہیں۔ مرید کو چاہئے کہ جس طریقے کو خود پر آسان سمجھے اسے اختیار کر لے۔ جب ان مراتب کو مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو ان کی ترتیب وقت کے طویل اور کم ہونے کے اعتبار سے ہوگی لیکن پانچویں اور ساتویں مرتبے میں مقدار کو ملحوظ نہیں رکھا گیا کہ آگے اور پیچھے ہونے کی وجہ سے ان میں یہ ترتیب جاری نہیں ہو سکتی، ساتواں مرتبہ مقدار میں چھٹے مرتبے سے کم نہیں اور نہ ہی پانچواں چوتھے سے کم ہے۔

## فضیلت والی راتیں:

جان لیجئے کہ سال میں 15 مخصوص راتیں ہیں جن کی فضیلت کے زیادہ ہونے کے سبب ان میں شب بیداری کا مستحب ہونا زیادہ مؤکد ہے۔ طالبِ آخرت کو ان سے غافل نہیں رہنا چاہئے کہ یہ نیکیاں کرنے کے موسم اور تجارت کی منڈیاں ہیں اور جب تاجر موسموں سے غافل رہتا ہے تو وہ نفع نہیں پاتا اسی طرح اگر طالبِ آخرت مختلف اوقات کے فضائل سے غافل ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔

①..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل..... الخ، ہای شیئ تستفتح صلاة اللیل؟، الحدیث: ۱۶۲، ص ۲۸۲، بتغیر۔

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع والامامة، من كان يامر بقيام اللیل، الحدیث: ج ۲، ص ۱۷۳۔



چھ راتیں تو ماہ رمضان میں ہی ہیں: (۱ تا ۵)..... رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتیں کیونکہ ان میں لیلة القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ (۶)..... ماہ رمضان کی سترہویں رات۔ یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو یوم الفرقان کہتے ہیں کہ اس دن واقعہ بدر پیش آیا اور دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے۔ حضرت سپید ناعبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”یہی رات لیلة القدر ہے۔“

بقیہ 9 راتیں یہ ہیں: (۷)..... محرم الحرام کی پہلی رات (۸)..... عاشورا (دس محرم الحرام) کی رات (۹، ۱۰، ۱۱)..... رجب المرجب کی پہلی، پندرہویں اور ستائیسویں رات۔ مؤخر الذکر معراج کی رات ہے۔

## 100 سال کی نیکیوں کا ثواب:

معراج کی رات نماز پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس (یعنی ستائیسویں رجب کی) رات عمل کرنے والے کے لئے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو اس رات بارہ رکعتیں، دو دو کر کے پڑھے، سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ کہے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر 100 بار استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے اور دنیا و آخرت کے معاملات میں سے اپنے لئے جو چاہے دعا کرے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عزوجل اس کی پوری کی پوری دعا قبول فرمائے گا سوائے گناہ کی دعا کے۔“ (۱)

(۱۲)..... شعبان کی پندرہویں رات۔ اس رات میں 100 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اکابرین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْبُيِّنِ اسے ترک نہیں کیا کرتے تھے ”نفل نماز کے بیان میں“ ہم اسے ذکر کر چکے ہیں۔ (۱۳)..... عرفہ (نَوْدَى الْحِجَّةِ) کی رات (۱۴، ۱۵)..... عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔

## دل زندہ رہے گا:

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے عیدین کی رات (یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ) طلب ثواب کے لئے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، جس دن (لوگوں کے) دل مرجائیں گے۔“ (۲)

①..... شعب الايمان للبيهقي، باب في الصيام، تخصيص شهر رجب بالذكر، الحديث: ۳۸۱، ج ۳، ص ۳۷۴۔

②..... سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب فيمن قام في ليلتي العيدين، الحديث: ۷۸۴، ج ۲، ص ۳۲۵، بتغير قليل۔

## فضیلت والے ایام:

فضیلت والے دن جن میں خاص طور پر وظائف پڑھنا مستحب ہے 19 ہیں: (۱)..... یومِ عرفہ (۲)..... یومِ عاشورا (۳)..... رجب المبارک کا ستائیسواں دن۔ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔

## 60 ماہ کے روزوں کا ثواب:

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور، شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ستائیسویں رجب کو روزہ رکھا اللہ عزوجل اس کے لئے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔“<sup>(۱)</sup> یہ وہ دن ہے جس میں حضرت سیدنا جبرئیل علیہ السلام مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت لے کر اترے۔ (۴)..... رمضان المبارک کا سترہواں دن، جس دن واقعہ بدر پیش آیا۔ (۵)..... شعبان المعظم کا پندرہواں دن (۶)..... جمعہ کا دن (۷، ۸)..... عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن (۹ تا ۱۷)..... ایام معلومہ، یہ ذوالحجہ کے دس دن ہیں (چونکہ عرفہ کا دن پہلے گزر گیا ہے اس لئے یہاں 9 دن مراد ہوں گے)۔ (۱۸، ۱۹)..... ایام معدودہ، یہ ایام تشریق ہیں۔

## پورا ہفتہ اور پورا سال گناہوں سے سلامتی:

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کئی مدنی سلطان، رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جمعہ کا دن سلامتی والا ہو تو تمام دن سلامتی گزریں گے اور ماہ رمضان سلامتی والا ہو تو پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔“<sup>(۲)</sup> (۳)

## آخرت کی لذت سے محرومی کا باعث:

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں: ”جو دنیا میں پانچ روز لذتوں میں رہے گا وہ آخرت کی لذت

- ①..... تاریخ مدینہ دمشق لابن عساکر، علی بن ابی طالب، الحدیث: ۸۷۳: ۸، ج ۴، ص ۲۳۴۔
- ②..... اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر بندہ جمعہ کے دن گناہوں سے بچا رہے تو پورا ہفتہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اگر رمضان المبارک میں گناہوں سے بچا رہے تو پورا سال گناہوں سے بچا رہتا ہے۔
- ③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فصل فی لیلۃ القدر، الحدیث: ۳۷۰، ج ۳، ص ۳۴۰، بتقدم و تاخر۔

نہیں پائے گا۔ پانچ دنوں سے ان کی مراد یہ ہیں: (۲،۱)..... عید الفطر عید الاضحیٰ کا دن (۳)..... جمعہ کا دن (۴)..... عرفہ کا دن اور (۵)..... عاشورا کا دن۔

ہفتے کے دنوں میں فضیلت والے دن جمعرات اور پیر کا دن ہیں کہ ان میں بارگاہِ الہی میں اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزے کے لئے جو دن اور مہینے فضیلت والے ہیں انہیں ہم ”روزوں کے بیان میں“ میں ذکر کر چکے ہیں۔ لہذا دوبارہ انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى كَلِّ عَبْدٍ مُّصْطَفٰى مِنْ كَلِّ الْعٰلَمِيْنَ



### {..... فضائل قرآن کریم .....}

فرمانِ مصطفیٰ: ”یہ قرآن مجید اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ضیافت ہے تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اُس کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک یہ قرآن مجید، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مضبوط رسی، نورِ مبین، نفع بخش شفا، جو اسے اختیار کرتا ہے اس کے لئے ڈھال اور جو اس پر عمل کرے اُس کے لئے نجات ہے۔ یہ حق سے نہیں پھرتا کہ اس کے ازالے کے لئے تھکانا پڑے اور یہ ٹیڑھی راہ نہیں کہ اسے سیدھا کرنا پڑے۔ اس کے فوائد ختم نہیں ہوتے اور کثرتِ تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا (یعنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے)۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کرو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ ”الف“ ایک حرف ”لام“ ایک حرف اور ”میم“ ایک حرف ہے۔“

(المستدرک، الحدیث: ۲۰۸، ج ۲، ص ۲۵۶)

## فہرست حکایات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
798	پسندیدہ حاجی	124	موٹاپے کا نقصان
840	حاکم مدینہ کی عاجزی	447	دھوکے باز
845	خوش نصیب قاری قرآن	471	سیدنا خلف بن ایوب علیہ الرحمۃ کا خوف خدا
850	اس بارگاہ سے کیسے پھروں	529	خشوع، خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی حکایات
873	جنتی پھول	529	آنکھوں کا قفل مدینہ
919	قط سالی کے متعلق 12 حکایات	529	سیدنا ربیع علیہ رحمۃ اللہ البدیع کا خوف خدا
919	﴿1﴾.....چغلی خوری کا وبال	530	سیدنا عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خشوع
919	﴿2﴾.....قط سالی دور ہوگی	530	تکلیف کا احساس تک نہ ہوا
919	﴿3﴾.....ظلم کا انجام	531	وسوسوں کے خوف سے نماز مختصر پڑھی
920	﴿4﴾.....گناہوں کی نحوست	532	ایک بھی نماز نہیں پڑھی
920	﴿5﴾.....چیوٹی کی فریاد	533	باعث نجات اور قرب کا ذریعہ
920	﴿6﴾.....بارگاہ الہی میں مقبولیت	533	دل نماز میں حاضر نہیں
921	﴿7﴾.....بارش میں تاخیر نہیں بلکہ.....	559	بیٹے کی تربیت
921	﴿8﴾.....ایک آنکھ والا آدمی	568	کس حکمران سے دوری اختیار کی جائے
921	﴿9﴾.....علمائے کرام کی اہمیت	593	گویا وہ مردہ ہے
922	﴿10﴾.....سعدون مجنوں کی دعا	692	صدقہ ظاہر کرنے کی فضیلت
923	﴿11﴾.....حبشی غلام کی دعا	692	اللہ دیکھ رہا ہے!
923	﴿12﴾.....وسیلے کی برکت	714	انسانی گوشت خور روزہ دار
998	سعادت مندوں کا عمل	731	جنت میں داخلے کی بشارت
1035	مرنے سے پہلے جنت کا نظارہ	732	خواب میں دیدار الہی
1039	محفل ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت	742	حفاظت دین کی فکر

## تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
55	دوسری فصل: علم حاصل کرنے کی فضیلت	1	ضمنی فہرست
55	حصول علم کی فضیلت پر مشتمل دو فرامین باری تعالیٰ	5	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
55	حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ	6	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ كَاتَرَف (از امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ)
56	حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 11 اقوال بزرگان دین	8	پہلے اسے پڑھ لیجئے!
59	تیسری فصل: علم سکھانے کی فضیلت	14	تعارف مصنف
59	علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل چھ فرامین باری تعالیٰ	36	<b>ابتدائیہ</b>
60	علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل 17 فرامین مصطفیٰ	36	وجہ تصنیف
63	علم سکھانے کی فضیلت پر مشتمل 12 اقوال بزرگان دین	37	کتاب کی ترتیب اور ابواب بندی
66	چوتھی فصل: علم کی فضیلت پر عقلی دلائل	38	کتاب کے مشمولات پر ایک نظر
66	فضیلت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	39	کتاب کی چند خصوصیات
66	علم کی عقلی فضیلت	40	کتاب چار حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ
67	مرغوب اشیاء کی اقسام اور ان کی مثالیں	40	علم مکاشفہ و علم معاملہ کی تعریف
67	علم کا اخروی فائدہ	41	علم معاملہ کی اقسام
68	بارگاہ الہی تک رسائی کا ذریعہ	42	<b>علم کا بیان</b>
68	انسانی اعضاء کی اقسام	42	باب نمبر 1: علم، تعلیم اور تعلم کی فضیلت
69	حکمت عملی کے مراتب	42	اور اس کے عقلی و نقلی دلائل کا بیان
69	نبوت کے بعد سب سے افضل عمل	42	پہلی فصل: علم کی فضیلت
70	عبادت الہی اور خلافت الہی	42	علم کی فضیلت پر مشتمل 14 فرامین باری تعالیٰ
	باب نمبر 2: محمود و مذموم علوم اور ان کی	45	علم کی فضیلت پر مشتمل 28 فرامین مصطفیٰ
71	اقسام و احکام	49	علم کی فضیلت پر مشتمل 20 اقوال بزرگان دین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
93	فلسفہ اور اس کی اقسام	71	پہلی فصل: فرضِ عینِ علم کا بیان
94	علم کلام کی حیثیت	71	کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟
95	ایک سوال اور اس کا جواب	73	عوارض کی اقسام اور مثالیں
96	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی افضلیت کا ایک سبب	76	ہلاکت میں ڈالنے والے اُمور
97	علم کے دس حصوں میں سے نو حصے اُٹھ گئے	78	دوسری فصل: فرضِ کفایہ علم کا بیان
97	شیخین کریمین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کی شہرت و فضیلت	78	غیر شرعی علوم کی اقسام
98	شہرت اور فضیلت میں فرق	79	علوم شرعیہ کی اقسام
98	فقہاء اور متکلمین کی اقسام	81	ایک سوال اور اس کا جواب
98	عمل کا دار و مدار نیت پر ہے	81	علم فقہ کا حاصل
98	جن اعمال سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے	82	ایک سوال اور اس کا جواب
99	مقتدا و پیشوا فقہاء	84	تقویٰ کے مراتب
100	سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُفَيِّ کے فضائل و مناقب	86	ایک سوال اور اس کا جواب
100	﴿1﴾..... عبادت و ریاضت	86	فقہ کی طب پر فضیلت
100	تمام مسلمانوں کے لئے رحمت و نجات کی دعا	87	تیسری فصل: علمِ طریقِ آخرت کی اقسام
101	شکم سیری کی آفات	87	علم مکاشفہ کا نور جب دل میں ظاہر ہوتا ہے تو!
101	عظمتِ الہی	89	علم مکاشفہ سے مقصود
101	زبان کی حفاظت	89	آئینہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ
102	کانوں اور زبان کا نقلِ مدینہ	89	برے افعال کی بنیادیں اور نیک اعمال کا سرچشمہ
103	﴿2﴾..... زہد و تقویٰ	92	متقین علمائے ظاہر کی عاجزی
103	آپ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِہِ کی سخاوت	92	علم حدیث کے بعد علم تصوف حاصل کرو
103	زہد کی حقیقت و بنیاد	93	ایک سوال اور اس کا جواب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
116	آخرت کی سزا پر دنیاوی سزا کو ترجیح	104	زمانے کا افضل شخص
116	10 ہزار درہم قبول نہ کئے	104	کامل الایمان ہونے کی علامت
117	منصب و عہدہ قبول نہ کیا	106	﴿3﴾..... اسرارِ قلب اور علومِ آخرت کے عالم
117	طریقِ آخرت کے عالم	106	خود پسندی میں مبتلا کو نصیحت
118	ہمیشہ فکرِ آخرت میں مگن	106	علم کسے نفع نہیں دیتا؟
118	مناقبِ امام احمد بن حنبل اور امام ثوری	108	آدمی عالم کب بنتا ہے؟
108	باب نمبر 3: ان مذموم علوم کا بیان جنہیں	108	﴿4﴾..... علمِ فقہ سے مقصود
119	لوگ اچھا سمجھتے ہیں	109	دُنیا کے لئے آفتاب اور لوگوں کے لئے عافیت
119	پہلی فصل: بعض علوم کے مذموم ہونے کا سبب	111	سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ العالی کے فضائل و مناقب
119	جادو کے برا ہونے کا سبب	111	حدیث رسول کی تعظیم
120	جھوٹ بولنا کیسا؟	111	حصولِ علم دین سے مقصود
121	علمِ نجوم سے ممانعت کی وجوہات	112	عالم کی شان
123	بے فائدہ علم	112	چمکتے ستارے
124	حکایت: موٹاپے کا نقصان	112	کوڑے کھا کر بھی حدیث بیان کی
124	اتباعِ سنت میں سلامتی ہے	113	زُہد و تقویٰ
126	علومِ درختوں اور پھلوں کی مانند ہیں	113	میں چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا
126	دوسری فصل: الفاظِ علوم میں تبدیلی کا بیان	114	مدینے کی مٹی کا ادب و احترام
126	تفصیل	114	پیا سکانویں کے پاس جاتا ہے نہ کہ کنواں
128	سب سے بڑا فقیہ	115	سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے فضائل و مناقب
128	غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل	115	ساری رات عبادت
129	کامل فقیہ کی علامات	116	زُہد و تقویٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
149	نام نہاد علماء اور علمائے آخرت	131	حقیقی توحید
150	باطنی کے بجائے ظاہری اعمال اختیار کرنے کی وجہ	131	توحید کے فوائد و ثمرات
150	سب سے بڑا احمق	132	حقیقی توحید سے خارج امور
151	تفسیر میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ	133	توحید کا مرکز و سرچشمہ
151	حدیث میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ	134	محافل ذکر کی فضیلت
152	فقہ میں بقدر کفایت، متوسط اور اعلیٰ	135	قصہ گو و اعظین کی مذمت
152	علم کلام کا مقصود	136	ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی فضیلت
153	علمائے تعصب کو عادت و آلہ کار بنالیا	137	تکلف سے کلام کرنے کی ممانعت
153	صرف دو رکعت نے فائدہ دیا	139	میرے رفقا تو خاص لوگ ہیں
139	باب نمبر 4: لوگوں کے اختلاف میں پڑنے	139	شطح سے کیا مراد ہے؟
142	کی وجہ، مناظرہ کی آفات کی تفصیل	142	لوگوں کے لئے قننہ
155	اور اس کے جواز کی شرائط	142	جاہل اور ظالم
155	مقدمہ: لوگ اختلافات کی طرف کیوں مائل ہوتے؟	142	طامات کیا ہیں؟
156	طالب مطلوب اور معزز ذلیل ہو گئے	143	اہل طامات کی تاویلات کی مثالیں
156	اختلافی مسائل و مناظروں میں مشغول ہونے کی وجہ	144	مذکورہ تاویلوں کا بطلان
146	پہلی فصل: مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور	146	بدترین مخلوق
147	اسلاف کے مذاکروں سے مشابہت دینا	147	غریب کون ہیں؟
157	دھوکا ہے	147	حقیقی عالم کی ایک علامت
157	طلب حق کے لئے مناظرے کی شرائط و علامات	147	تیسری فصل: اچھے علوم کی قابل تعریف
160	طالب حق ایسا ہوتا ہے	148	مقدار کا بیان
163	شیطان کا کھلونا	149	علم کے درجات



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
186	منزل، سواری اور مقصد حقیقی		دوسری فصل: مناظرے کی آفات اور اس سے جنم
186	مراتب علم مثال کے آئینے میں	164	لینے والی ہلاکت خیز عادات
188	ایک سوال اور اس کا جواب	164	مناظرے کے باعث پیدا ہونے والی بری صفات
188	حاصل کلام	168	مربوطہ رشتہ
190	دوسری فصل: راہنما استاذ کے فرائض	171	ہمیشہ کی ہلاکت و بربادی یا حیات جاودانی
190	مال کے اعتبار سے انسان کی حالتیں	171	ایک سوال اور اس کا جواب
190	علم کے اعتبار سے انسان کی حالتیں	172	آگ اور شمع کی مثل
190	علم پر عمل کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال	172	علماء کی اقسام
191	<b>استاذ کے آداب</b>	173	باب نمبر 5: شاگرد اور استاذ کے آداب
192	استاذ کا مقصود صرف رضائے الہی ہو	173	پہلی فصل: طالب علم کے آداب
193	مال و دولت خادم جبکہ علم مخدوم ہے	173	بھونکنے والے کتے
194	ہمیں لوگوں نے تجارت گاہ بنا لیا	174	ایک شبہ کا ازالہ
195	استاذہ کی بری عادات	174	شکاری کتا، ظالم بھیڑیا، چیتا اور شیر
196	لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو	175	ایک سوال اور اس کا جواب
197	خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار	176	ایک سوال اور اس کا جواب
199	استاذ اور شاگردوں کی مثال	177	علماء کا برین اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ
200	عالم اور جاہل کا دھوکا	179	ایک سوال اور اس کا جواب
	باب نمبر 6: علم کی آفات، علمائے آخرت اور	179	عالم کے حقوق
201	<b>علمائے سوء کی علامات کا بیان</b>	180	سمندر میں جو خاصیت ہے وہ کوزے میں نہیں
201	پہلی فصل: علمائے سوء کی نشانیاں	183	پر حکمت تحریر
201	آفات علم کے متعلق آٹھ فرامین مصطفیٰ	184	علم آخرت کے مقابلے میں دیگر علوم کی حیثیت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
220	علم پر عمل نہ کرنے والے کی مثال	202	آفاتِ علم کے متعلق نواتوال بُورگان دین
221	عالم کی لغزش باعثِ ہلاکت ہے	204	بے عمل عالم کا انجام
222	عالم اور قاضی	206	برے علماء کی مثال
222	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دشمن	207	دوسری فصل: علمائے آخرت کی 12 نشانیاں
223	علم کی حفاظت کا نسخہ کیمیا	207	دنیا و آخرت کی مثال
224	نزولِ قرآن کا مقصد	208	دنیا دار عالم کی کم سے کم سزا
225	آٹھ انمول ہیرے	209	علم نور اور گناہ تاریکی ہے
228	سیدنا حاتم علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَحْمَدِ کا اندازِ نصیحت	209	اے اصحابِ علم! شریعتِ محمدیہ کہاں ہے؟
230	نصیحت کا انوکھا انداز	210	معرفتِ الہی سے محرومی کا سبب
230	تین خصلتیں	211	علم دنیا اور عملِ آخرت ہے
231	دنیا سے بچنے کا طریقہ	211	وہ عالم نہیں
231	یہ تو فرعون کا شہر ہے	212	<b>علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے اوصاف</b>
232	سیدنا یحییٰ بن یزید علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَجِیدِ کا خط	213	دنیا کی خاطر علم دین سیکھنے والوں کا انجام
233	سیدنا امام مالک علیہ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَالِقِ کا جواب	213	عالم دو طرح کے ہیں
235	فتنوں کی جگہیں	214	دین کے بدلے دنیا طلب کرنے کا انجام
235	علماء ہندوں پر رسولوں کے امین ہیں	214	علماء اور جہنم کے طبقات
236	بدترین علماء اور بہترین امرا	216	کس عالم کی صحبت اختیار کی جائے
236	آگ کے سمندر میں غوطے لگانے والا	218	قبروں کی شکایت
237	علمائے بنی اسرائیل سے زیادہ برے	218	سات بار ہلاکت
237	حکمرانوں کی صحبتِ منافقت کا باعث ہے	218	تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی
240	آدھا علم	219	نصیحت آموز عمارت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
260	علم کا وزیر، باپ اور لباس	240	عالم کی ڈھال
260	جس عمل میں رضائے الہی مقصود نہ ہو وہ مردود ہے	240	عالم کی خاموشی شیطان کی بے ہوشی
261	سپاہی سے زیادہ برے	241	زمین کا بہترین اور بدترین حصہ
261	سب سے برے لوگ	243	ایشیا صحابہ
262	سب سے بڑا جاہل	243	صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پسندیدہ کام
263	اُستاذ و شاگرد کی تین عمدہ خصلتیں	244	عام و خاص عالم میں فرق
263	قرآن سے پہلے ایمان	244	دریائے دجلہ اور بیٹھے کنوئیں کی مانند
264	پانچ اچھے اخلاق	245	سیدنا ابو برداء رضی اللہ عنہ کو نصیحت
265	”یَسْرَحُ صَدْرَهُ“ سے مراد	245	فلاں سے پوچھو
266	واضح نقصان	247	علم تو تمہارے دلوں میں ہے
266	کلام انبیاء کے مشابہ کلام	247	قرب الہی کے جلوے
267	رازدار صحابی	250	علماء زندہ رہتے ہیں
268	علم یقین، احوال قلب اور باطنی صفات کے عالم	251	یقین کی اہمیت و فضیلت
269	وہ علم کا برتن ہے نہ کہ عالم	252	نور تو حید اور شرک کی آگ
270	سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے استاذ	253	ایک سوال اور اس کا جواب
270	صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فضیلت دینے کی وجہ	253	یقین کے متعلق متکلمین کی اصطلاح
270	تصنیف و تالیف کی ابتدا کب سے ہوئی	255	یقین کے متعلق فقہاء و صوفیہ کی اصطلاح
271	قرآن پاک کتابی صورت میں	256	یقین کی اقسام
271	اسلام میں تصنیف کی جانے والی ابتدائی کتب	256	ایک سوال اور اس کا جواب
273	حق کے زیادہ قریب کون؟	259	علماء کی اقسام
274	بری رائے والا اور دنیا کا پجاری	260	متقین کا امام

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
284	عقل کی فضیلت و عظمت میں وارد 14 فرامین مصطفیٰ ﷺ	274	کلام اور سیرت
285	ایک سوال اور اس کا جواب	274	خوش بخت کون؟
289	دوسری فصل: عقل کی حقیقت اور اس کی اقسام	275	اچھے شخص کی پہچان
289	عقل کے چار معانی	275	آج کے دور کی نیکی گزشتہ زمانے کی برائی
291	عقل مند کی پہچان	276	مساجد میں چٹائی بچھانا کس کی ایجاد؟
295	دل کا اندھا پن زیادہ نقصان دہ ہے	276	لوگوں سے بدعت کے بارے میں نہ پوچھو!
296	تیسری فصل: عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس	277	منبر رکھنا بدعت نہیں
296	میں تفاوت	277	ہرنیا کام جو دین سے نہ ہو مردود ہے
296	عقل کا لشکر اور سامان جہاد	278	شفاعت سے محرومی کا سبب
299	عرش سے بڑھ کر عظمت والی چیز	278	خلاف سنت بدعت جاری کرنے والے کی مثال
299	ایک سوال اور اس کا جواب	279	شیطان کا لشکر اور گروہ صحابہ و تابعین
301	عقائد کا بیان	280	ایک سوال اور اس کا جواب
301	پہلی فصل: پہلے اسلامی رکن کلمہ شہادت کے	281	سب سے بڑی معصیت
301	متعلق عقیدہ اہلسنت کی وضاحت	281	لوگوں سے زیادہ میل جول باعث ہلاکت ہے
302	کلمہ شہادت کے پہلے جز عقیدہ توحید کی وضاحت	282	انسان کی بہترین حالت
302	ہر عیب و نقص سے پاک ذات	282	دعا
303	صفات بارق تعالیٰ	282	باب نمبر 7: عقل، اس کی عظمت، حقیقت اور
303	حیات و قدرت	283	اقسام کا بیان
303	علم الہی	283	پہلی فصل: عقل کی عظمت
304	ارادہ خداوندی	283	بوڑھے شخص کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟
304	سمیع و بصیر	284	عقل کی فضیلت و عظمت میں وارد چار فرامین باری تعالیٰ ﷻ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
315	سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کا نظریہ	305	کلام الہی
315	سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ	305	افعال الہیہ
315	سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا نظریہ	306	کلمہ شہادت کے دوسرے جز کی وضاحت
316	متاخرین محدثین رحمہم اللہ المبین کا نظریہ	307	منکر تکبیر کے سوالات
316	مؤیدین علم کلام کے دلائل	307	میزان عمل
317	مدلل اور مناظرانہ انداز گفتگو کے متعلق قرآنی دلائل	308	پل صراط
319	توحید، نبوت اور بعثت کے متعلق قرآنی دلائل	308	حوض کوثر
320	صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کے مناظروں کی چند مثالیں	308	حساب و کتاب
321	مناظرانہ انداز میں اسلاف کا طرز عمل	309	مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا
322	مجادلہ و مناظرہ کے طریقے وضع کرنے کا مقصد	309	عقیدہ شفاعت
322	ایک سوال اور اس کا جواب	309	صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کا مقام و مرتبہ
323	علم کلام کے متعلق مصنف کا نظریہ	310	اہلسنت کی پہچان
323	علم کلام کے نقصانات	310	دوسری فصل: مرحلہ وار رہنمائی کرنے کی وجہ
324	علم کلام کے فوائد	310	اور اعتقاد کے درجات کا بیان
324	علمائے کرام کی ذمہ داری	311	ایک احتیاط
324	علم کلام کے استعمال کے طریقے	311	عام نیک لوگوں کے اور مناظرین و متکلمین کے عقیدے میں فرق
326	بے فائدہ علم کلام کی اقسام	312	بلند درجات کے حصول کا سبب
327	ایک سوال اور اس کا جواب	313	علم کلام سیکھنا کیسا؟
327	علم کلام دو اور علم فقہ غذا کی مثل ہے	313	علم کلام اور متکلمین کے بارے میں علما کی آراء
327	علم کلام کسے سکھایا جائے؟	313	سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کا نظریہ
328	بعض احکام میں تبدیلی کا ایک سبب	314	سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کا نظریہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
346	تیسری فصل: الرسالة القدسیہ فی قوائد العقائد	329	علمی وسعتیں پانے کا نسخہ
346	ایمان کے چار بنیادی آرکان	329	ایک سوال اور اس کا جواب
347	پہلے رکن کی تفصیل	329	علوم کی تقسیم پر دلائل شرعیہ
347	وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل	332	مومن کامل
349	وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل	332	ایک سوال اور اس کا جواب
351	ایک سوال اور اس کا جواب	333	خواص کے اسرار کی اقسام
353	دوسرے رکن کی تفصیل	334	اللہ عَزَّوَجَلَّ اور مخلوق کے علم و قدرت میں فرق
355	تیسرے رکن کی تفصیل	335	بے دینی کا باعث
356	مشیت الہی کا ثبوت نقلی دلائل سے	336	درزی اور جولہا
358	بعثت انبیا	336	”مسجد سکر تہی ہے“ سے مراد
359	خاتم النبیین	336	گدھے جیسا منہ
360	چوتھے رکن کی تفصیل	337	مرادی معنی کی پہچان کا طریقہ
361	ایک سوال اور اس کے دو جواب	340	زبان حال اور زبان قال میں فرق اور ان کی مثالیں
361	ایک سوال اور اس کا جواب	341	ظاہر بین اور اہل بصیرت کے علمی مقام میں فرق
364	دُعا	341	حد سے بڑھنے والے
343	چوتھی فصل: ایمان اور اسلام کے مابین اتصال و	343	تاویل کرنے سے روکنے کی وجہ
343	انفصال، ان کے گھٹنے بڑھنے اور اسلاف	343	لفظ ”استواء“ کے متعلق عقیدہ
344	کا اس میں (لا شئ الا للہ کے ساتھ) استثنا کرنے	344	میانہ روی اختیار کرنے والا گروہ
365	کی وجہ کا بیان	344	تاویلات کے متعلق معتزلہ اور فلاسفہ کا نظریہ
365	مسئلہ: ایمان و اسلام دو چیزیں ہیں یا ایک؟	344	قول فیصل
365	مصنف کا موقف	345	مذکورہ تمام بحث کا مقصود

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
386	قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ	365	پہلی بحث: لغوی معنی کا بیان
386	جن دو کاشک سے تعلق ہے	366	دوسری بحث: معنی شرعی کا بیان
387	عمل کے متعلق پانچ فرامین باری تعالیٰ	366	دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثالیں
388	عمل کے متعلق دو فرامین مصطفیٰ	367	دونوں کے جدا جدا معنی میں استعمال ہونے کی مثالیں
388	<b>نفاق کی مذمت میں وارد 19 روایات و اقوال</b>	368	دونوں کے ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہونے کی مثالیں
392	فاروقی و دارانی تقویٰ	368	تیسری بحث: حکم شرعی کا بیان
392	نفاق کی اقسام	369	اعمالِ صالحہ جزو ایمان نہیں
393	یارب! وقت موت سلامتی ایمان نصیب فرما!	372	غور طلب مسائل
394	ایمان پر ملنے والی موت کو شہادت پر ترجیح	373	فرقہ مرجئہ کاشبہ اور ان کے دلائل
396	<b>طہارت کا بیان</b>	374	مذکورہ دلائل کے جوابات
396	طہارت کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ	376	معتزلہ کاشبہ اور ان کے دلائل
397	طہارت کے درجات	377	مذکورہ دلائل کے جوابات
398	بلند مقام پر فائز ہونے سے مانع عمل	378	ایک سوال اور اس کا جواب
398	سب سے پہلی بدعتیں	379	مسئلہ ۲: ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں
399	جو تے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟	380	ایمان گھٹنے بڑھنے کی کیفیت جاننے والا
400	برائی نیکی اور نیکی برائی بن گئی	380	عالم ظاہر اور عالم غیب
401	ایک سوال اور اس کا جواب	381	چمکتا نشان اور سیاہ نقطہ
401	اشیاء کا مباح، مذموم اور محمود ہونا	382	مسئلہ ۳: ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ کیساتھ اپنے مومن ہونیکا اقرار کرنا
402	اہل علم و عمل کے اوقات قیمتی جو ہر ہیں	383	اے حسن! تو جھوٹا ہے
403	فضول خرچی پر مددگار	384	جن دو کاشک سے تعلق نہیں
403	دنیا و مافیہا سے فضل	385	براج

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
417	وضو سے پہلے کی دُعا	404	طاہری طہارت کی اقسام
417	ہاتھ دھونے سے پہلے کی دُعا	405	باب نمبر 1: نجاست سے طہارت حاصل کرنا
418	کلی کرتے وقت کی دُعا	405	پہلی فصل: زائل کی جانے والی نجاست کا بیان
418	ناک میں پانی پہنچاتے وقت کی دُعا	405	حیوانات کے اجزا کی اقسام اور ان کا حکم
419	ناک صاف کرتے وقت کی دُعا	408	دوسری فصل: نجاست زائل کرنے والی چیز
419	چہرہ دھوتے وقت کی دُعا	409	تیسری فصل: نجاست زائل کرنے کے طریقے
420	دایاں بازو دھوتے وقت کی دُعا		باب نمبر 2: نجاست حکمی سے پاکی حاصل کرنا
420	بایاں بازو دھوتے وقت کی دُعا	410	قضائے حاجت کے آداب
421	سر کا مسح کرتے وقت کی دُعا	410	کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو
421	کانوں کا مسح کرتے وقت کی دُعا	411	وسو سے پیدا ہونے کا سبب
422	گردن کا مسح کرتے وقت کی دُعا	412	بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دُعا
422	دایاں پاؤں دھوتے وقت کی دُعا	412	بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دُعا
422	بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دُعا	413	ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت
422	وضو کے بعد کی دُعا	413	استنجا کا طریقہ
423	وضو کے مکر وہات	414	پتھر استعمال کرنے کا طریقہ
424	وضو میں وسو سے ڈالنے والا شیطان	414	استنجا سے فراغت کے بعد کی دُعا
425	وضو کے فضائل پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ	415	اہل قبا کی فضیلت
427	<b>غسل کا طریقہ</b>	415	<b>وضو کا طریقہ</b>
428	غسل کے فرائض	416	مسواک کے متعلق سات فرامین مصطفیٰ
428	وضو کے فرائض	416	مسواک کا طریقہ
428	غسل فرض ہونے کے اسباب	417	



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
443	سرمہ لگانے کا مسنون طریقہ	428	ان مواقع پر غسل کرنا سنت ہے
444	ایک سوال اور اس کا جواب	428	جن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے
446	داڑھی کے مکروہات	429	<b>تَّيْمَمٌ كَا بِيَان</b>
447	سیاہ خضاب سے ممانعت کی روایات	429	تیمم کے جواز کی صورتیں
447	حکایت: دھو کے باز	429	تیمم کا طریقہ
447	خوشبوئے جنت سے محروم لوگ	429	باب نمبر 3: ظاہری نجاستوں سے پاکی
448	سرخ یا زرد رنگ کا خضاب لگانے کا حکم	431	<b>حاصل کرنا</b>
448	فضیلت کا باعث علم ہے نہ کہ بڑی عمر	432	آ قَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي دَاڑْهِى مَبَارِك
449	آ قَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كے سفید بال	432	اچھی نیت سے زیب و زینت اختیار کرنا
449	کم عمری میں عہدہ قضا	433	بری نیت سے زیب و زینت اختیار کرنا
450	بکرے کی بھی داڑھی ہوتی ہے	435	سب سے بہتر اور سب سے بدتر گھر
450	بوڑھا طالب علم	435	حمام میں داخل ہونے والے پر واجب امور
450	حصول علم کی جستجو	436	حمام میں داخل ہونے کی دس سنتیں
451	مومن کا نور	437	حمام میں داخل ہونے سے پہلے کی دُعا
451	فرشتوں کی قسم کا انداز	438	راہِ آخرت کے مسافر کی پہچان
452	باریش جنتی	439	چند مفید باتیں
453	دو شرکِ خفی	441	صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ كِي يَادِنَا زِه هُو كُئِي
453	احادیث سے ماخوذ بارہ سنتیں	441	یہود کی مخالفت کرو
454	<b>نماز کا بیان</b>	442	شیطان کے بیٹھنے کی جگہ
455	<b>باب نمبر 1: نماز، سجود، جماعت اور اذان</b>	442	ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ
	<b>وغیرہ کے فضائل</b>	443	پاؤں کے ناخن تراشنے کا احسن طریقہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
470	نماز ہو تو ایسی	455	پہلی فصل: اذان کی فضیلت
470	عافل خواہش مند	455	اذان کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین مصطفیٰ
471	حکایت: سیدنا خلف بن ایوب علیہ الرحمۃ کا خوف خدا	456	اذان کے بعد کی دعا
471	سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الفقار اور نماز	456	فرشتے مقتدی
471	نماز امانت ہے	457	دوسری فصل: فرض نماز کی فضیلت
472	سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمۃ اللہ المبین اور نماز	457	فرض نماز کی فضیلت پر مشتمل 14 فرامین مصطفیٰ
472	اللہ عزوجل کے گھر میں رہنے والا خوش نصیب	460	تیسری فصل: ارکان نماز پورا کرنے کی فضیلت
472	سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اور نماز	460	چھ فرامین مصطفیٰ
473	پوری رات عبادت سے بہتر عمل	462	چوتھی فصل: نماز باجماعت کے فضائل
474	ساتویں فصل: مسجد اور جائے نماز کی فضیلت	462	فضیلت جماعت پر مشتمل پانچ فرامین مصطفیٰ
474	مسجد کی فضیلت پر مشتمل سات فرامین مصطفیٰ	463	تین چیزوں کا شوق
475	مسجد کی فضیلت پر مشتمل آٹھ اقوال بزرگان دین	464	عراق کی بادشاہت سے زیادہ محبوب
477	باب نمبر 2: ظاہری اعمال کی کیفیت و آداب	464	نفاق اور آگ سے آزادی کا پروانہ
477	کابیان	464	سورج، چاند اور ستاروں کی مانند چمکتے چہرے
477	پہلی فصل: نماز میں ظاہری اعمال کی کیفیت	465	پانچویں فصل: فضائل مسجد
477	اور تکبیر تحریمہ سے ابتدا کرنا	465	سجدے کی فضیلت پر مشتمل چار فرامین مصطفیٰ
477	نماز کا طریقہ	466	بہت زیادہ سجدے کرنے والے
477	پہلا رکن قیام	467	چھٹی فصل: خشوع کی فضیلت
478	نیت نماز	467	خشوع کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ
478	ہاتھ اٹھانے کے آداب	468	کس کی نماز مقبول ہے؟
478	دوسرا رکن تکبیر تحریمہ	469	بغیر ترجمان کے اللہ عزوجل سے ہم کلامی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	پہلی فصل: خشوع، خضوع اور حضور قلب	479	تکبیر کب کہی جائے
495	کئی شرائط	479	فیصلہ غزالی
495	خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے سے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ	480	تیسرا رکن قراءت
495	خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے سے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	481	چوتھا رکن رکوع اور اس کے متعلقات
497	نماز میں قراءت و اذکار سے مقصود	482	پانچواں رکن سجدہ
498	رکوع و سجود سے مقصود	484	چھٹا رکن قعدہ
498	ایک سوال اور اس کا جواب	484	ساتواں رکن سلام
501	حاصل کلام	485	امام و مقتدی کے لئے مستحب امور
501	دوسری فصل: نماز مکمل کرنے والے باطنی امور	487	دوسری فصل: ممنوعات نماز
501	ان امور کی تفصیل	487	مذکورہ امور کی تفصیل
502	مذکورہ امور کے اسباب	490	نماز میں سات چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں
504	حاصل کلام	490	نماز میں چار چیزیں ظلم سے ہیں
505	ذکر الہی کے وقت اعضاء کی کیفیت	491	تیسری فصل: فرائض و سنن میں فرق
505	نافرمان میرا ذکر نہ کریں	491	نماز کے فرائض
505	دل کے متعلق ذکر کردہ معانی کا اختلاف اور لوگوں کی اقسام	492	نماز کی سنتیں
507	تیسری فصل: حضور قلب میں نفع بخش دو	492	اذکار کی سنتیں
507	دلی خیالات کا سبب	492	ایک سوال اور اس کا جواب
509	آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری	493	اعضائے جسم کے درجات
510	کفارے میں باغ صدقہ کر دیا	493	عبادت کے ظاہری ارکان
512	چوتھی فصل: نماز میں حضور قلب کی تفصیل	494	نماز کی اسباب سے پہلا دشمن
512	نماز کی شرائط و فرائض	495	باب نمبر 3: اعمال قلب کی باطنی شرائط

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
526	فرشتوں کے تعجب کرنے کی وجہ	512	اذان
527	بااعتبار ترقی درجات انسان فرشتوں سے مختلف ہے	512	طہارت
528	دُعا	513	ستر عورت
529	پانچویں فصل: خشوع، خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی حکایات	513	استقبالِ قبلہ
529	آنکھوں کا قفل مدینہ	513	حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت
529	سیدنا ربیع علیہ رحمۃ اللہ البیہ کا خوف خدا	514	سیدھا کھڑا ہونا
530	سیدنا عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خشوع	514	اللہ عزوجل سے کیسے حیا کریں
530	تکلیف کا احساس تک نہ ہوا	515	نیت
531	وسوسوں کے خوف سے نماز مختصر پڑھی	515	تفسیر تحریمیہ
532	ایک بھی نماز نہیں پڑھی	515	دعائے آغاز
532	آیت مبارکہ کی تفسیر	517	قلعہ الہی
533	باعث نجات اور قرب کا ذریعہ	517	قرائت
533	دل نماز میں حاضر نہیں	517	تلاوت کے معانی کی تفصیل
535	باب نمبر 4: امامت کا بیان	520	نماز میں مسلسل کھڑے رہنا
521	پہلی فصل: امام پر نماز سے پہلے کر، نیز قرائت،	521	دل حاکم اور اعضاء رعایا ہیں
535	ارکان اور سلام کے بعد کے لازم امور	521	رکوع و سجود
535	کن کی نماز مقبول نہیں ہوتی	522	تشہد
535	ایک سوال اور اس کا جواب	524	نماز کو آفات سے محفوظ رکھنے کی فضیلت
536	امامت افضل ہے یا مؤذنی	525	اہل قلوب کے مکاشفہ کا انکار مناسب نہیں
537	بلا حساب جنت میں داخلہ	525	اللہ عزوجل نمازی بندے پر فخر فرماتا ہے
		526	فرشتے کس پر تعجب کرتے ہیں؟

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
551	یَوْمَ الْمَزِيدِ	537	70 سالہ عبادت سے افضل
553	جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت	537	انبیاء و علماء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد افضل
554	دوسری فصل: جمعہ کی شرائط	538	خلافت صدیقی پر ایک دلیل
554	جمعہ صحیح ہونے کی شرائط	538	مقتدی بنی بن جاؤ
555	جمعہ کی سنتیں	539	کثرت جماعت کے لئے نمازیوں کا انتظار کرنا کیسا؟
556	جمعہ واجب ہونے کی شرائط	540	امامت پر اجرت لینے کا حیلہ
556	ترک جمعہ کے پانچ اعذار	541	کن کی اقتدا میں نماز جائز نہیں؟
541	تیسری فصل: عبادت کی ترتیب کے مطابق	541	اذان و اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہو؟
557	آداب جمعہ کا بیان	542	دوسری فصل: قراءت میں امام کی ذمہ داری
557	﴿1﴾..... جمعرات کو جمعہ کی تیاری کرنا	544	سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز
558	﴿2﴾..... طلوع فجر کے بعد غسل کرنا	545	خلاصہ کلام
558	غسل جمعہ کے متعلق روایات	545	تیسری فصل: ارکان نماز میں امام و مقتدی کی
559	روز جمعہ غسل نہ کرنے کا جواز	545	ذمہ داریاں
559	ایک ہی نیت کافی ہے	546	با اعتبار ثواب لوگوں کی نماز
559	حکایت: بیٹے کی تربیت	546	امام کسی آنے والے کے لئے رکوع کو طول دینا
560	دوبارہ غسل کا حکم دینے کی توجیہ	548	﴿3﴾..... زینت اختیار کرنا
560	روز جمعہ ناخن تراشنے کی فضیلت	549	نماز فجر میں دعائے قنوت
560	مردوں اور عورتوں کی پسندیدہ خوشبو	550	باب نمبر 5: جمعۃ المبارک کا بیان
561	غم دور اور عقل میں اضافہ ہو	550	پہلی فصل: جمعہ کی فضیلت
561	جمعہ کے دن عمامہ باندھنے کی فضیلت	550	بلا عذر شرعی جمعہ نہ پڑھنے کا وبال

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
571	﴿9﴾..... نماز جمعہ کے آداب	561	﴿4﴾..... جامع مسجد کی طرف جلدی جانا
571	بعد نماز جمعہ سورہ فاتحہ، اخلاص اور معوذتین پڑھنے کی فضیلت	562	جمعہ کے لئے جلد آنے کی فضیلت
572	مخلوق سے بے نیازی اور حصول رزق کی دعا	562	تین بہترین عمل
573	﴿10﴾..... مسجد میں ٹھہرے رہنا	563	فرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں
573	پچھی نصل: جمعہ کی سنتیں اور آداب	563	فرشتوں کی دعا
574	علم کی مجلس میں حاضر ہونے کی فضیلت	563	پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ
575	قصہ گوئی بدعت ہے	564	﴿5﴾..... مسجد میں داخل ہونے کے آداب
575	فضیلت والی گھڑی کونسی ہے؟	564	جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے پر وعید
577	80 سال کے گناہ معاف	565	﴿6﴾..... حاضرین کا ادب
577	شفاعتِ مصطفیٰ	565	نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے
579	خلاصہ کلام	567	﴿7﴾..... پہلی صف کی کوشش کرنا
579	شب جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت	567	دور بیٹھنے میں ہی عافیت ہے
580	مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے	567	دلوں کا قرب مطلوب ہے نہ کہ اجسام کا
581	جمعہ کے دن وقت کی تقسیم	568	حکایت: کس حکمران سے دوری اختیار کی جائے
582	اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے	568	ایثار کا انوکھا انداز
582	جو دعائے قبول ہوگی	569	مسجدوں میں نماز کے لئے جگہ مخصوص کر لینا کیسا؟
583	حاصل کلام	569	﴿8﴾..... خطبہ کے آداب
584	باب نمبر 6: متفرق مسائل کا بیان	570	توجہ سے خطبہ سننے کی فضیلت
584	عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی	570	دوران خطبہ کلام کرنے پر وعید
584	حالت نماز میں جوں اور پوسمانے کا حکم	570	دوران خطبہ اشارے سے خاموش کرانے کا حکم
585	جو تے پہننے نماز پڑھنے کی دلیل	571	چار کمروہ اوقات

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
599	ابتدائے وقت مغرب	587	جانب قبلہ تھو کتنا کیسا؟
600	(۵).....عشا کی سنتیں	587	اتصال صفوف
601	(۶).....نماز وتر	588	مسیبوق کے احکام
602	وتر کتنی رکعت پڑھنا افضل ہے؟	589	قضاء اور باجماعت نماز کے احکام
603	وتر کے معانی	589	دوران نماز یا بعد نماز کپڑوں پر نجاست نظر آنا
603	(۷).....نماز چاشت	590	سجدہ سہو کے احکام
604	چاشت کا وقت	590	نماز کی نیت کرتے وقت وسوسے آنا
604	(۸).....صلوۃ الاوابین	591	اقتدا کے احکام
605	صلوۃ الاوابین پڑھنے کی فضیلت	592	صفیں درست کرنا اور دائیں جانب کی فضیلت
605	﴿2﴾.....ہفتہ وار شب و روز کے نوافل	593	حکایت: گویا وہ مردہ ہے
605	اقوار کے نوافل	594	باب نمبر 7: نوافل کا بیان
605	جنت میں خالص کستوری کا شہر	594	اضافت کے اعتبار سے نوافل کی تقسیم
606	چار رکعت پڑھنے کی فضیلت	595	﴿1﴾.....وہ نمازیں جو ہر دن رات پڑھی جاتی ہیں
606	پیسر کے نوافل	595	(۱).....فجر کی سنتیں
606	تمام گناہ معاف	596	(۲).....ظہر کی سنتیں
606	فرشتے استقبال کریں گے	596	ظہر کی چار سنتوں کی فضیلت
607	منگل کے نوافل	597	ہر روز بارہ رکعت سنت ادا کرنے کی فضیلت
607	شہادت کی موت	597	زوال کے وقت کی پہچان
607	بدھ کے نوافل	598	ابتدائے وقت عصر
607	عذاب قبر اور قیامت کی سختیوں سے نجات	598	(۳).....عصر کی سنتیں
608	جمعرات کے نوافل	598	(۴).....مغرب کی سنتیں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
613	﴿3﴾..... سالانہ نوافل	608	مؤمنین و متوکلین کی تعداد کے برابر نیکیاں
615	قربانی کا وقت	608	جمعہ کے نوافل
615	نماز عید کا طریقہ	608	نیکیاں ہی نیکیاں
616	قربانی	609	ہفتہ کے نوافل
616	تراویح تہا پڑھنا افضل ہے یا باجماعت	609	عرش الہی کے سائے میں انبیاء و شہدا کا ساتھ
617	مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے افضل عمل	609	شب اتوار کے نوافل
617	وضاحت	609	انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ
618	خلاصہ کلام	610	شب پیر کے نوافل
618	ماہِ رجب المرجب کے نوافل	610	صلوٰۃ الحاجت پڑھنے کی فضیلت
618	اہل خانہ کے 700 افراد کی شفاعت کا حق	610	شب منگل کے نوافل
619	ماہِ شعبان المعظم کے نوافل	611	جہنم سے آزادی
619	70 بار نظرِ رحمت	611	شب بدھ کے نوافل
920	﴿4﴾..... اسباب سے متعلق نوافل کا بیان	611	چار لاکھ 90 ہزار ملائکہ کا نزول
620	(1)..... گریہ کی نماز	611	اہل خانہ کے 10 افراد کی شفاعت کا حق
620	نمازِ گریہ کا طریقہ و وقت	611	70 سال کے گناہ معاف
621	(2)..... نماز استسقا	612	شب جمعرات کے نوافل
622	دُعا	612	شہدا و صدیقین کا مرتبہ
622	(3)..... نمازِ جنازہ	612	شب جمعہ کے نوافل
624	جنازہ میں 40 لوگوں کے شریک ہونے کی برکت	612	12 سال شب و روز عبادت کی مثل
624	قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ	613	شب قدر کی عبادت کا ثواب
624	دفن کرنے کے بعد کی دعا	613	شب ہفتہ کے نوافل



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
640	بکری کی زکوٰۃ	625	(4)..... تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ
640	نصاب میں شریک مالکوں کی زکوٰۃ کی صورت	625	حدیث سے حاصل شدہ دونوں اند
641	﴿2﴾..... زمینی پیداوار کی زکوٰۃ	626	خلاصہ کلام
641	زمینی پیداوار میں شریک مالکوں کے عشر کی صورت	627	(5)..... تَحِيَّةُ الْوُضُو
642	زمینی پیداوار میں عشر کب واجب ہوگا؟	627	(6)..... گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت کے نوافل
642	عشر واجب ہونے کا وقت	628	(7)..... نمازِ استخارہ
642	﴿3﴾..... سونے چاندی کی زکوٰۃ	629	(8)..... نمازِ حاجت
643	﴿4﴾..... مالِ تجارت کی زکوٰۃ	630	دعا ضرور قبول ہو
644	﴿5﴾..... دینوں اور معدنیات کی زکوٰۃ	630	جسے چار نعمتیں ملیں وہ چار سے محروم نہ ہوگا
645	﴿6﴾..... صدقہ فطر	631	(9)..... صَلَاةُ التَّسْبِيحِ اور اس کی فضیلت
646	دوسری فصل: زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی ظاہری	631	صَلَاةُ التَّسْبِيحِ کا عمدہ طریقہ
646	وباطنی شرائط	633	اوقاتِ مکروہہ میں ممانعت نماز کی وجوہات
646	﴿1﴾..... نیت کرنا	635	<b>زکوٰۃ کے اسرار کا بیان</b>
647	﴿2﴾..... سال پورا ہونے پر ادائیگی میں جلدی کرنا	635	زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام
647	﴿3﴾..... مال کی جگہ قیمت نہ دینا	637	پہلی فصل: زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے وجوب کے
648	﴿4﴾..... زکوٰۃ دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کرنا	637	اسباب
648	﴿5﴾..... مصارفِ زکوٰۃ کی تعداد کے مطابق مال زکوٰۃ تقسیم کرنا	637	﴿1﴾..... جانوروں کی زکوٰۃ
649	زکوٰۃ کے باطنی آداب کی باریکیاں	637	مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط
649	وجوب زکوٰۃ کی تین وجوہات	638	تفصیل
650	اللہ ورسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کافی ہیں	639	اونٹ کی زکوٰۃ
651	مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں	640	گائے کی زکوٰۃ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
667	زکوٰۃ لینے والے کو کیسا ہونا چاہئے؟	653	بخل سے بچنے کا طریقہ
668	ہر حال میں نظر مسبب الاسباب پر ہو	653	مالی نعمتوں کا شکر
669	کفار کا طریقہ	653	ادائیگی زکوٰۃ کے افضل اوقات
670	سفید پوش مستحق کو صدقہ دینے کا ثواب	654	رمضان نہیں بلکہ ماہ رمضان کہو
671	ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب	654	چھپا کر صدقہ کرنے کی فضیلت
672	تیسری فصل: زکوٰۃ لینے والے، مستحق ہونے کے	655	چھپا کر صدقہ دینے کا فائدہ
672	اسباب اور قبضہ کے وظائف	656	صدقے میں نمود و نمائش سے بچنے کے طریقے
672	مستحق زکوٰۃ ہونے کے اسباب	656	بخل اور ریا کاری سانپ اور چکھو کی صورت میں
674	کتاب کی ضرورت کے مقاصد	657	صدقہ ظاہر کر کے دینے کی صورت
677	ایک سوال اور اس کا جواب	658	احسان جتانے اور ایذا دینے کی حقیقت
677	زکوٰۃ لینے والے کی ذمہ داری	658	احسان جتانے کی بنیاد
678	حاصل شدہ مال میں محتاج کی نیت	659	اذیت پہنچانے کا ظاہر
679	زکوٰۃ لینے والا دینے والے کو یوں دعا دے	660	اذیت پہنچانے کا باطن اور اس کی بنیاد
679	عطیہ دینے اور لینے والے کی نیت	660	مال دار شخص محتاج کا خادم ہے
681	صدقات سے لی جانے والی مقدار کے حکم میں مختلف موقف	661	سوال جواب
683	کھجوروں کا باغ صدقہ کر دیا	663	نیکی کی تکمیل
683	قول فیصل	664	بخل اور خود پسندی کا علاج
684	چوتھی فصل: نفلی صدقہ کے فضائل اور لینے	664	خوش بخت شخص
684	دینے کے آداب	666	زکوٰۃ متقی و پرہیزگار حاجت مند کو دو
684	فضائل صدقہ کے متعلق 18 فرامین مصطفیٰ	666	اولیا میں سے ایک ولی
687	فضائل صدقہ کے متعلق 17 اقوال بزرگان دین	667	اپنے مال سے علما کی مدد کرنے کا جذبہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
708	تفصیل	689	صدقہ کو چھپانا اور ظاہر کرنا
709	روزے کا کفارہ	689	پوشیدہ طور پر دینے میں پانچ حکمتیں
710	روزے کی سنتیں	690	اسلاف ظاہر آدی گئی چیز قبول نہ کرتے
711	اعتکاف کے احکام	692	ظاہری طور پر دینے میں چار حکمتیں
	دوسری فصل: روزے کے اسرار اور اس کی باطنی	692	حکایت: صدقہ ظاہر کرنے کی فضیلت
712	شرائط	692	حکایت: اللہ دیکھ رہا ہے!
712	تفصیل	694	فیصلہ غزالی
714	حکایت: انسانی گوشت خور روزہ دار	696	کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا کیسا؟
715	حرام زہر جبکہ حلال دوا ہے	697	حرف آخر
715	شرح حدیث	697	صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ
716	روزے کی روح اور راز	698	فیصلہ غزالی
717	مقابلے کا میدان	699	دعا
717	ایک سوال اور اس کا جواب	700	<b>روزوں کا بیان</b>
717	روزے کا مقصد	700	فضائل روزہ کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ
718	پہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل و راجح	703	دیگر عبادات پر روزے کی افضلیت کی وجہ
719	گناہوں میں ملوث رہنے والے روزہ دار کی مثال		پہلی فصل: روزے کے واجبات، ظاہری سنتیں
719	اعضاء بھی امانت ہیں	705	اور روزہ توڑنے والے لازم امور کا بیان
	تیسری فصل: نفلی روزے اور ان میں وظائف کی	705	ظاہری واجبات
720	ترتیب	705	نیت کے متعلق احکام
720	ایک روزہ 30 روزوں سے افضل	707	تقے کے احکام
721	900 سال کی عبادت کا ثواب	708	روزہ توڑنے سے لازم ہونے والے امور

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
734	ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت	721	فضیلت و حرمت والے مہینے
735	طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی بخشش	722	راہ خدا میں جہاد سے افضل عمل
735	کعبہ اور قرآن اٹھائے جانے کا وقت	722	کچھ صوم دہر کے بارے میں
736	مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنا کیسا؟	723	سب سے افضل روزے
737	حرم میں ارادہ گناہ پر بھی مواخذہ ہے	725	دُعا
738	ازالہ وہم	726	<b>حج کا بیان</b>
739	مدینہ منورہ کی فضیلت	727	باب نمبر 1: فضائل حج کا بیان
739	ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر	727	پہلی فصل: حج، بیت اللہ، مکہ و مدینہ کے فضائل
739	شفاعت کی بشارت	727	اور مساجد کی جانب سفر کرنے کا بیان
740	زیارت قبور کے لئے سفر کرنے کا حکم	727	حج کی فضیلت
741	مزارات اولیا کی زیارت کا حکم	728	فضائل حج پر مشتمل 11 فرامین مصطفیٰ
742	حکایت: حفاظت دین کی فکر	728	ایک بزرگ اور شیطان کا مکالمہ
743	میں کہاں رہائش اختیار کروں؟	730	دو عمیریں
743	تین وصیتیں	731	حکایت: جنت میں داخلے کی بشارت
743	دوسری فصل: وجوب حج کی شرائط، ارکان کی	731	فضائل حج پر مشتمل اقوال بزرگان دین
744	درستی اور واجبات و منہیات کا بیان	732	چھ کے صدقے چھ لاکھ کا حج قبول
744	حج کی شرائط	732	حکایت: خواب میں دیدار الہی
744	حج کا وقت	733	بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کے فضائل
744	فرض حج ادا ہونے کی شرائط	733	حجرا سود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی
745	حج نفل ادا ہونے کی شرائط	734	حجرا سود کو بوسہ دیتے وقت کی دعا
745	حج واجب ہونے کی شرائط	734	ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
761	﴿3﴾.....دخول مکہ سے طواف تک کے آداب	746	استطاعت کی اقسام
762	حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا	747	استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کا حکم
762	مکہ شریف میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنت	748	حج کے ارکان
762	بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت کی دعا	748	حج کے واجبات
763	بیت اللہ کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھے	750	حج و عمرہ کی ادائیگی کے طریقے
764	حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ دعا پڑھے	750	تمتع کی شرائط
764	﴿4﴾.....طواف کے آداب	751	حج و عمرہ کے ممنوعات
765	<b>طواف کا طریقہ</b>		<b>باب نمبر 2: ابتدائے سفر سے واپسی تک</b>
765	مقام ابراہیم کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے	753	<b>کے دس آداب</b>
766	میزاب رحمت کے پاس یہ دعا پڑھے	753	﴿1﴾.....گھر سے نکلنے سے لے کر احرام تک کے آداب
767	طواف کے بعد کی دعا	754	کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا
768	دور کعت طواف کے بعد کی دعا	754	سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کی دعا
769	غلام آزاد کرنے کا ثواب	755	ردانہ ہوتے وقت کی دعا
769	﴿5﴾.....سعی کے آداب	756	سوار ہوتے وقت کی دعا
770	صفا پر چڑھے تو یہ دعا پڑھے	756	کسی منزل پر ٹھہرے تو یہ دعا پڑھے
771	﴿6﴾.....وقوف عرفہ اور اس سے پہلے کے آداب	757	رات کے وقت یہ دعا پڑھے
772	منیٰ میں پہنچ کر یہ دعا پڑھے	758	دشمن یا کسی درندہ کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے
772	عرفات کی جانب جائے تو یہ دعا پڑھے	759	ڈر خوف محسوس ہو تو یہ دعا پڑھے
773	وقوف عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعائیں	759	﴿2﴾.....احرام باندھنے سے لے کر دخول مکہ تک کے آداب
773	دعائے خضر	760	احرام باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھے
774	﴿7﴾.....حج کے بقیہ اعمال و آداب	761	کوئی چیز اچھی لگے تو یہ پڑھو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
784	مسجد نبوی کے آداب	774	مزدلفہ کی دعا
784	روضہ اقدس پر حاضری	776	مشعر حرام میں یہ دعا پڑھے
786	بارگاہ رسالت میں کسی کا سلام پہنچانے کا طریقہ	776	کنکریاں مارنے کا طریقہ
786	بارگاہ صدیقی و فاروقی میں ہدیہ سلام	777	تکبیر تشریق
787	حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے وسیلے سے دعا	778	ذبح کرنے کے بعد کی دعا
788	ریاض الجنہ کی فضیلت	778	بہترین قربانی
788	جنت البقیع میں حاضری	778	ایک دنبہ دو دنبوں سے افضل
789	ایک عمرے کا ثواب	778	وہ عیب کہ جن کے سبب قربانی جائز نہیں
790	مدینہ منورہ سے واپسی کے آداب	779	حلق کرانے کے بعد کی دعا
791	سفر سے واپسی کے آداب	779	طواف زیارت کا وقت
792	حج مقبول کی علامت	779	احرام سے نکلنے کے اسباب
793	باب نمبر 3: حج کی باریکیاں اور باطنی اعمال	780	حج کے خطبات
793	دس قابل توجہ آداب	781	﴿8﴾..... عمرہ اور طواف و دایع تک کے دیگر آداب
793	ایک حج کے بدلے تین کا جنت میں داخلہ	781	میرے قدم تو اس قابل بھی نہیں.....!
794	حج پر اجرت لینے والے کی مثال	782	زمزم پئے اور یہ دعا مانگے
795	اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں	782	﴿9﴾..... طواف و دایع کے آداب
795	سخی ہونے کی ایک علامت	782	مکہ مکرمہ سے رخصتی کے آداب
796	سفر کو سفر کہنے کی وجہ	783	﴿10﴾..... زیارت مدینہ اور اس کے آداب
796	ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر	783	زیارت سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ
797	تطبیق	783	مدینہ منورہ کے درود یوار پر نظر پڑے تو یہ پڑھو!
797	جو نفس پر گراں گزرتا ہو وہ عمل افضل ہے	784	مدینہ منورہ کے آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
809	رواگی	797	سوار ہونے سے متعلق آداب
810	جنگل و بیابان کا سفر	798	حکایت: پسندیدہ حاجی
810	میقات سے احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا	798	حاجی کو کیسا ہونا چاہئے؟
810	کہیں ”لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ“ نہ کہہ دیا جائے	800	سواری کے متعلق آداب
811	مکہ مکرمہ میں داخلہ	800	خلاصہ کلام
811	بیت اللہ شریف پر پہلی نظر	800	تقویٰ ہو تو ایسا
812	طواف خانہ کعبہ	801	سیدنا فاروق اعظم اور 300 دینار
813	حجر اسود کا استلام	802	بقرہ عید کے دن سب سے افضل نیکی
813	دایاں دست قدرت	803	سفر حج میں مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت
813	غلاف کعبہ سے لپٹنا اور ملتزم سے چمٹنا	803	قبولیت حج کی ایک علامت
813	صفا و مروہ کی سعی	803	باطنی اعمال اور اخلاص
814	وقوف عرفہ	804	حج کا مفہوم
815	جمرات کو کنکریاں مارنا	804	سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد
815	قربانی کرنا	805	اعمال حج اور دیگر عبادات میں فرق
816	مدینہ طیبہ کی حاضری	805	حکمت الہی کا تقاضہ
818	زیارتِ روضہ رسول	806	حج کا شوق
818	درود و سلام بارگاہ تک پہنچتا ہے	806	حج کا عزم
819	ایک کے بدلے دس	807	تمام تر خیالات سے دل کو پاک کرنا
819	اختتامی کلمات	808	زاورہ
821	<b>تلاوتِ قرآن کا بیان</b>	808	سواری
823	<b>باب نمبر 1: قرآن اور قارئ قرآن کی فضیلت</b>	808	احرام کے کپڑے خریدنا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
840	حکایت: حاکم مدینہ کی عاجزی	823	فضائل تلاوت کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ
841	بلند آواز سے قراءت مستحب	825	17 اقوال بزرگان دین
842	مذکورہ روایات میں تطبیق	827	غفلت سے تلاوت کرنے والوں کی مذمت
842	بلند آواز سے پڑھنے کے فوائد	829	کیا تیرے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہی نہیں؟
842	جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ	831	باب نمبر 2: تلاوت کے ظاہری آداب
843	کثرت تلاوت کے سبب.....؟	831	﴿1﴾..... قاری قرآن کی حالت
843	صبح تک اسے بند نہیں کرتا	831	ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں
843	﴿10﴾..... خوش الحانی و عمدگی سے قراءت کرنا	831	﴿2﴾..... قراءت کی مقدار
844	سیدنا سالم رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی	832	ختم قرآن کے سلسلے میں درجات
844	سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی	833	خلاصہ کلام
844	سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی خوش الحانی	833	﴿3﴾..... مقدار قراءت کی تقسیم
845	حکایت: خوش نصیب قاری قرآن	834	﴿4﴾..... کتابت قرآن کے آداب
846	باب نمبر 3: تلاوت کے باطنی آداب	835	قرآن پر اعراب کس نے لگوائے؟
846	﴿1﴾..... کلام کی عظمت و بلندی کو سمجھنا	835	﴿5﴾..... ترتیل قرآن کے آداب
847	کلام الہی کے معانی کو اس مثال سے سمجھو	836	﴿6﴾..... رونا
848	خلاصہ کلام	836	سب سے بڑی مصیبت
848	﴿2﴾..... متکلم کی تعظیم	837	﴿7﴾..... آیات کے حق کی رعایت کے آداب
849	﴿3﴾..... حضور قلب کے آداب	837	سجدہ تلاوت کا طریقہ
849	قرآن سے زیادہ محبوب کچھ نہیں	838	﴿8﴾..... قراءت شروع کرنے کے آداب
849	باغات، حجرے، لہنیں اور ریشمی لباس وغیرہ	840	﴿9﴾..... بلند آواز سے قراءت کرنا
850	﴿4﴾..... غور و فکر کرنا	840	آہستہ آواز سے قراءت مستحب



صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
868	اچھی آواز سے تلاوت کرنے والا کون؟	850	انمول موتی
868	صرف چھ حافظ قرآن	850	حکایت: اس بارگاہ سے کیسے پھروں
870	تلاوت قرآن کا حق	851	تلاوت ہو تو ایسی
870	﴿9﴾..... ترقی	852	﴿5﴾..... سمجھنا
870	تلاوت قرآن کے درجات	852	صفات باری تعالیٰ
871	گو یا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سن رہا ہوں	853	افعال الہیہ
872	﴿10﴾..... براءت کا اظہار	854	انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے احوال
873	حکایت: جنتی پھول	855	جھٹلانے والوں کا تذکرہ
873	خلاصہ کلام	856	﴿6﴾..... معافی سمجھنے میں رکاوٹ بننے والے اسباب کا خاتمہ
<b>باب نمبر 4: فہم قرآن اور تفسیر بالرائے</b>		856	قرآن کے معنی سمجھنے میں حائل رکاوٹیں
875	<b>کابیان</b>	858	أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ نہ کرنے کا نقصان
875	معانی قرآن کا دائرہ بہت وسیع ہے	859	﴿7﴾..... تخصیص
876	سَيِّدٌ نَاعِلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالْعِلْمِ	861	قرآن کس نیت سے پڑھا جائے
876	قرآن پاک کتنے علوم پر مشتمل ہے؟	862	قرآن بہا رہے
877	خلاصہ کلام	862	﴿8﴾..... تاثر
877	مضبوط رسی، نور مبین اور نفع بخش شفا	863	اس کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے
878	راہِ نجات	864	یوں تلاوت کرے
879	منقول تفسیر پر اکتفا کرنا کیسا؟	864	کلام الہی حکایت کی نیت سے نہ پڑھا جائے
880	تفسیر بالرائے سے ممانعت کی وجوہ	866	میرے کلام کو بھی چھوڑ دے
882	راخ فی العلم حضرات کا حصہ	866	تلاوت کرنے والے نافرمان کی مثال
883	ایک مثال	867	اکتاہٹ محسوس ہو تو تلاوت نہ کرو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
905	شہید کو بے حجاب رب تعالیٰ کا دیدار	883	دعا کے اسرار و رموز
	باب نمبر 2: استغفار، درود اور دعا کے فضائل	884	اختتامی کلمات
907	وآداب	885	ذکر اللہ اور دُعاؤں کا بیان
907	پہلی فصل: دعا کی فضیلت		باب نمبر 1: قرآن و حدیث اور اقوال اسلاف
907	فضیلت دعا سے متعلق چار فرامین باری تعالیٰ	886	سے ذکر اللہ کے فضائل و فوائد کا بیان
907	فضیلت دعا سے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ	886	پہلی فصل: ذکر اللہ کی فضیلت
908	دوسری فصل: دعا کے دس آداب	886	ذکر کی فضیلت پر مشتمل نو فرامین باری تعالیٰ
908	وقتِ سحر کے تین فضائل	888	ذکر کی فضیلت پر مشتمل 11 فرامین مصطفیٰ
909	قبولیت دعا کے اوقات	890	گھڑی بھر رب تعالیٰ کو یاد کرنا
910	سجدے میں دعا کی کثرت کرو	890	ذکر اللہ سے متعلق تین اقوال بزرگان
911	دعا قبلہ رخ ہو کر مانگئے	891	دوسری فصل: مجالس ذکر کی فضیلت
911	دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ	891	مجالس ذکر سے متعلق نو فرامین مصطفیٰ
912	دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا	893	تیسری فصل: کلمہ توحید پڑھنے کے فضائل
912	دعا میں ہاتھ بلند کرنے کا طریقہ	893	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے متعلق 15 فرامین مصطفیٰ
913	دُعائیں آواز پست رکھنے کے متعلق تین فرامین باری تعالیٰ		چوتھی فصل: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اور دیگر اذکار
913	دعا میں ہم وزن و مسجع لفظوں کا تکلف کرنے کی ممانعت	896	کے فضائل
914	قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے منقول دعا کے الفاظ	896	سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور دیگر اذکار کے متعلق 22 فرامین مصطفیٰ
916	خوف و امید سے دعا مانگنے سے متعلق دو فرامین باری تعالیٰ	901	گھر سے نکلتے وقت شیاطین سے حفاظت
916	کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنے سے متعلق تین فرامین مصطفیٰ	901	پانچویں فصل: حقیقتِ ذکر اور اس کے فوائد
917	دعا کی قبولیت ظاہر ہونے یا نہ ہونے پر پڑھے جانے والے کلمات	901	ایک سوال اور اس کا جواب
918	دعا کی قبولیت کا سبب	903	ایک سوال اور اس کا جواب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
934	اللہ عزوجل کے محبوب بندے	919	<b>تحط سالی کے متعلق 12 حکایات</b>
934	استغفار کی فضیلت پر مشتمل 11 اقوال بزرگان دین	919	﴿1﴾..... چغل خوری کا وبال
	باب نمبر 3: انبیائے کرام و بزرگان دین سے	919	﴿2﴾..... قسط سالی دور ہو گئی
937	<b>منقول 16 دعائیں</b>	919	﴿3﴾..... ظلم کا انجام
937	﴿1﴾..... دعائے مصطفیٰ بعد از سنن فجر	920	﴿4﴾..... گناہوں کی نحوست
939	﴿2﴾..... جامع اور کامل دعا	920	﴿5﴾..... چیونٹی کی فریاد
939	﴿3﴾..... دعائے دافع رنج و الم و غم	920	﴿6﴾..... بارگاہ الہی میں مقبولیت
940	﴿4﴾..... دعائے صدیق اکبر	921	﴿7﴾..... بارش میں تاخیر نہیں بلکہ.....
941	﴿5﴾..... اللہ عزوجل کس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟	921	﴿8﴾..... ایک آنکھ والا آدمی
	﴿6﴾..... کوڑھ، برص، فالج سے نجات دینے اور داخل جنت	921	﴿9﴾..... علمائے کرام کی اہمیت
941	کرنے والے کلمات	922	﴿10﴾..... سعدون مجنون کی دعا
942	﴿7﴾..... ہر نقصان سے حفاظت کی دعا	923	﴿11﴾..... حبشی غلام کی دعا
943	﴿8﴾..... سارے دن کے شکرانے کی دعا	923	﴿12﴾..... وسیلے کی برکت
943	﴿9﴾..... دعائے عیسیٰ		<b>تیسری فصل: درود پاک کی فضیلت اور عظمت</b>
944	﴿10﴾..... ڈوبنے اور چوری سے حفاظت کی دعا	924	<b>مصطفیٰ</b>
944	﴿11﴾..... دین و دنیا کی بھلائی کے حصول کی دعا	924	فضیلت درود سے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ
945	﴿12﴾..... جنت میں داخلے کی دعا	926	<b>خصائص مصطفیٰ</b>
946	﴿13﴾..... رنج و الم اور محتاجی سے نجات کی دعا	928	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی
946	﴿14﴾..... تسبیحات باری تعالیٰ	928	دروود ہمیشہ مکمل پڑھیں یا لکھیں
947	﴿15﴾..... بارگاہ رب العزت میں بلند مرتبہ تسبیحات	929	<b>چوتھی فصل: استغفار کی فضیلت</b>
948	﴿16﴾..... دعائے ابراہیم بن ادہم	930	استغفار سے متعلق 19 فرامین مصطفیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
970	صدقہ دیتے وقت کی دعا		باب نمبر 4: قرآن وحدیث میں وارد نماز کے
970	کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھئے	952	بعد کی دعائیں
970	جائز کام شروع کرتے وقت کی دعا	952	نماز کے بعد مانگی جانے والی 27 دعائیں
970	آسمان کی طرف دیکھتے وقت کی دعا	958	نماز کے بعد مانگی جانے والی 12 قرآنی دعائیں
971	بادل کے گرجنے پر پڑھی جانے والی دعا	960	20 مسنون دعائیں اور مختلف استعاذے
971	جب آسمانی بجلی چمکے تو یہ دعا پڑھئے	964	باب نمبر 5: مختلف مسنون دعائیں
971	بارش کے وقت کی دعا	964	مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا
971	جب کسی پر غصہ آجائے تو یہ دعا پڑھئے	964	گھر سے نکلتے وقت کی دعا
971	کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا	965	مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا
972	کفار سے جہاد کے وقت کی دعا	965	رُکوع کی دعا
972	کان بچتے ہوں تو.....!	966	رُکوع سے اٹھتے وقت کی دعا
972	دعا کی قبولیت پر یہ دعا پڑھئے	966	سجدے میں جاتے وقت کی دعا
972	اذان مغرب کے وقت کی دعا	967	نماز کے بعد کی دعا
973	کوئی غم پہنچے تو یہ دعا پڑھیں	967	مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا
973	جسم میں درد ہو تو یہ دعا پڑھئے	967	بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا
974	مصیبت کے وقت کی دعا	968	ادائیگی ترض کی دعا
974	سوتے وقت کے اور اداور دعائیں	968	نیالباس پہنتے وقت کی دعا
976	نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعائیں	968	جب کوئی شگون دل میں کھلے تو یہ دعا پڑھئے
978	شام کے وقت کی دعا	969	نیا چاند کیکھ کر پڑھی جانے والی دعا
978	آئینہ دیکھتے وقت کی دعا	969	آندھی کے وقت کی دعا
978	کوئی چیز خریدتے وقت کی دعا	969	کسی کے انتقال کی خبر سن کر پڑھی جانے والی دعا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
994	نماز فجر کے بعد کے وظائف	978	نکاح کی مبارک باد دیتے وقت کی دعا
994	﴿1﴾..... دُعا نین	979	قرض ادا کرتے وقت کی دعا
995	﴿2﴾..... بار بار کئے جانے والے اذکار	979	ایک سوال اور اس کا جواب
995	بار بار پڑھے جانے والے دس کلمات	<b>اوراد کی ترتیب اور شب بیداری</b>	
997	﴿3﴾..... قرآن پاک کی تلاوت	981	<b>کی تفصیل کا بیان</b>
998	حکایت: سعادت مندوں کا عمل	<b>باب نمبر 1: اوراد کی فضیلت اور ترتیب و</b>	
1000	﴿4﴾..... غور و فکر کرنا	983	<b>احکام کا بیان</b>
1001	سب سے بلند رتبہ عبادت	983	اوراد کو مختلف اقسام میں تقسیم کرنے کی وجہ
1001	انس و محبت میں فرق	984	نفس کی فطرت
1001	عارف کی محبت اور ذاکر کے انس میں نسبت	984	نجات کے خواہش مند کا جدول
1002	نور کے 70 حجابات	984	چند فرامین باری تعالیٰ
1003	خلاصہ کلام	986	فلاح پانے والوں کی تعریف میں وارد آیات
1003	دوسرا وظیفہ	987	سورج اور چاند کا خیال رکھنے والے
1004	رجوع کرنے والوں کی نماز کا وقت	989	<b>اوراد کی تعداد اور ترتیب کا بیان</b>
1005	تیسرا وظیفہ	989	<b>دن کے وظائف کی تفصیل</b>
1006	اس وقت کا وظیفہ	989	پہلا وظیفہ
1006	مومن کے ملنے کی تین جگہیں	990	بیدار ہونے کے بعد کی دعا
1007	نیند بھی عبادت ہے	991	فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا
1007	دن کے اعمال میں سب سے افضل عمل	991	مقبول حج و عمرے کا ثواب
1008	چوتھا وظیفہ	992	راہ خدا میں جہاد کے برابر عمل
1009	پانچواں وظیفہ	993	چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب عمل

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
1026	بندہ سوتے وقت تین باتوں پر غور کرے	1009	تین چیزوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ غضب فرماتا ہے
1026	بیدار ہوتویہ دعا پڑھے	1009	نیز کی مقدار
1026	بیدار ہونے کے بعد کی دعا	1010	چھٹا وظیفہ
1027	چوتھا وظیفہ	1011	ساتواں وظیفہ
1027	عبادت کے لئے کون سا وقت افضل ہے؟	1012	توبہ و استغفار سے متعلق چند فرامین باری تعالیٰ
1028	اس وظیفے کی ترتیب	1012	مغرب کی اذان کے وقت کی دعا
1028	تہجد کے لئے اٹھے تو یہ پڑھے	1013	محاسبہ نفس
1031	پانچواں وظیفہ	1014	<b>رات کے وظائف کا بیان</b>
1031	ہر حق والے کو اس کا حق دو	1014	پہلا وظیفہ
1032	ایک دن میں چار جمع کرنے پر مغفرت کی بشارت	1015	اس وظیفہ کی ترتیب
1033	اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کا ناپسندیدہ عمل	1015	دوسرا وظیفہ
1034	دو رکعتیں تمام کے برابر	1015	اس وظیفے کی ترتیب
1034	احوال بدلنے سے وظائف کا بدل جانا	1016	ہزار آیات سے افضل
1034	صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَانُ کے معمولات	1018	تیسرا وظیفہ
1035	ایک سوال اور اس کا جواب	1019	عالم کا سونا عبادت ہے
1035	اورادو وظائف سے مقصود	1019	سونے کے 10 آداب
1035	حکایت: مرنے سے پہلے جنت کا نظارہ	1020	اسے کلام کی اجازت نہ دی جائے گی
1037	عبادت پر مقدم علم سے کون سا علم مراد ہے؟	1021	اسلاف کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَامُ کی تین خصلتیں
1037	عالم کے وقت کی تقسیم	1022	سوتے وقت کی دعا
1039	معزز مقام	1022	وہ قرآن نہ بھولے گا
1039	حکایت: محفل ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت	1025	انمول موتی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
1051	شب بیداری کی فضیلت پر مشتمل 18 فرامین مصطفیٰ	1039	حاصل کلام
1056	شب بیداری کی فضیلت پر مشتمل 24 اقوال بزرگان دین	1040	صدقہ کی نیت سے زائد مال کمانا کیسا؟
	<b>شب بیداری میں آسانی کے ظاہری</b>	1040	اپنے اور مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری
1060	<b>و باطنی اسباب</b>	1040	عبادت بدنیہ پر دو چیزیں مقدم ہوں گی
1060	چار ظاہری اسباب	1042	صدیقین کے مرتبے پر فائز شخص کی علامات
1061	گناہوں کا قیدی	1043	وظائف میں اصل ان پر ہیبتگی اختیار کرنا ہے
1061	شب بیداری سے محرومی کا سبب	1044	ایک سوال اور اس کا جواب
1061	ایک گناہ کی سزا		<b>باب نمبر 2: قیام اللیل میں آسانی پیدا</b>
1062	جماعت فوت ہونے کا سبب		<b>کرنے والے اسباب، شب بیداری کے</b>
1062	خلاصہ کلام		<b>لئے مستحب راتیں، مغرب و عشا کے</b>
1062	چار باطنی اسباب		<b>درمیانی وقت اور شب بیداری کی فضیلت</b>
1063	توصیہ کونینہ نہیں آتی	1045	<b>اور رات کے اوقات کی تقسیم کا بیان</b>
1065	سوال و جواب	1045	<b>مغرب و عشا کے درمیانی وقت کی فضیلت</b>
1065	شب بیداروں کے واقعات و اقوال	1045	بیس یا چالیس سال کے گناہ معاف
1067	محبت الہی و محبوب الہی کی علامات	1045	گویا شب قدر میں نماز پڑھی
1068	بخشش کے جھونکے	1046	جنتی محل
1068	قبولیت کی گھڑی	1046	نماز مغرب کے بعد دو رکعت پڑھنے کی فضیلت
1069	شب کے اوقات کی تقسیم کا طریقہ	1048	خواب میں زیارت رسول سے شرف ہو
1069	عشا کے وضو سے فجر ادا کرنے والے	1049	خلاصہ کلام
1072	رات میں بیدار ہو تو اس سنت پر عمل کرے	1050	<b>شب بیداری کی فضیلت</b>
1073	فضیلت والی راتیں	1050	شب بیداری کی فضیلت سے متعلق چھ فرامین باری تعالیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
1075	آخرت کی لذت سے محرومی کا باعث	1074	100 سال کی نیکیوں کا ثواب
1077	حکایات کی فہرست	1074	دل زندہ رہے گا
1078	تفصیلی فہرست	1075	فضیلت والے ایام
1114	ماخذ و مراجع	1075	60 ماہ کے روزوں کا ثواب
1119	الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ کی کتب کا تعارف	1075	پورا ہفتہ اور پورا سال گناہوں سے سلامتی



### {..... سنت کی بھاریں.....}

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ در رسول عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بھاریں“ لوٹئے۔ دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر اسفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!



## مأخذ ومراجع

مطبوعہ	مصنف/مؤلف	نام کتاب
مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۳ھ	کلام باری تعالیٰ	قرآن پاک
مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۳ھ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۴۰ھ	ترجمہ کنز الایمان
دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۲ھ	امام عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۱۰ھ	تفسیر النسفی
داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ	فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۰۶ھ	التفسیر الکبیر
کوئٹہ پاکستان	امام شیخ اسماعیل حقی البروسوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۱۳۷ھ	تفسیر روح البیان
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۴ھ	امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۱۶ھ	تفسیر البغوی
صدیقیہ کتب خانہ	امام علامہ علی بن محمد بن ابراہیم خازن رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۴۱ھ	تفسیر الخازن
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۶ھ	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۲۸ھ	تفسیر غرائب القرآن .....
داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ	علامہ ابو فضل شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۷۰ھ	روح المعانی
دارالفکر بیروت ۱۴۰۳ھ	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۹۱۱ھ	تفسیر الدر المنثور
دارالفکر بیروت ۱۴۲۰ھ	ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۷۱ھ	تفسیر القرطبی
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۹ھ	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	صحیح البخاری
دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ	امام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۶۱ھ	صحیح مسلم
داراحیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۵ھ	سنن ابی داؤد
دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ	امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۹ھ	سنن الترمذی
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	سنن النسائی
دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	امام محمد بن یزید القزوینی الشہرستانی ماجو رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۷۳ھ	سنن ابن ماجہ
دارالمعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	امام مالک بن انس اصبحی حمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۷۹ھ	الموطا
ملتان پاکستان	امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۲۵۶ھ	الادب المفرد
المکتب الاسلامی ۱۳۹۰ھ	امام ابو بکر محمد بن اسحاق نیشاپوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۱۱ھ	صحیح ابن خزیمہ
دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ	امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۳۰۳ھ	السنن الکبریٰ
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	السنن الکبریٰ
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	دلائل النبوة
دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۵۸ھ	شعب الایمان

مؤسسة الكتب الثقافية ١٢١هـ	امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ	الزهدي الكبير
دار احياء التراث العربي ١٢٢هـ	حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ	المعجم الكبير
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ	المعجم الاوسط
دار الكتب العلمية ١٢٠٢هـ	حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ	المعجم الصغير
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ	كتاب الدعاء
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام حافظ ابو بكر عبدالرزاق بن همام رحمة الله عليه متوفى ٢١١هـ	المصنف
دار الفكر بيروت ١٢١هـ	حافظ عبدالله محمد بن ابي شيبه عيسى رحمة الله عليه متوفى ٢٣٥هـ	المصنف
دار الكتب العلمية بيروت	امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعي رحمة الله عليه متوفى ٢٠٢هـ	المسند
دار الفكر بيروت ١٢١هـ	امام ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه متوفى ٢٤١هـ	المسند
المكتبة الشاملة	حافظ حارث بن ابي اسامه متوفى ٢٨٢هـ	المسند
المكتبة العصرية ١٢٢هـ	ابو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيا رحمة الله عليه متوفى ٢٨١هـ	الموسوعة
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	امام ابو يعلى احمد بن علي موصلي رحمة الله عليه متوفى ٣٠٤هـ	مسند ابي يعلى
دار الكتب العربية ١٢٠هـ	امام عبد الله بن عبد الرحمن رحمة الله عليه متوفى ٢٥٥هـ	سنن الدارمي
ملتان باكستان	امام علي بن عمر دارقطني رحمة الله عليه متوفى ٢٨٥هـ	سنن الدارقطني
دار المعرفة بيروت ١٢١هـ	امام ابو عبدالله محمد بن عبد الله حاكم رحمة الله عليه متوفى ٢٠٥هـ	المستدرک
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	امام حافظ محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفى ٣٥٣هـ	الاحسان بترتيب.....
دار الفكر بيروت ١٢٢هـ	علامه ولي الدين تبريزي رحمة الله عليه متوفى ٤٢٢هـ	مشكاة المصابيح
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام حافظ معمر بن راشد ازدي رحمة الله عليه متوفى ١٥١هـ	الجامع
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام ابو محمد حسين بن مسعود بغوي رحمة الله عليه متوفى ٥١٦هـ	شرح السنة
مكتبة العلوم والحكم ١٢٢هـ	امام ابو بكر احمد بن عمرو بزار رحمة الله عليه متوفى ٢٩٢هـ	البحر الزخاري بمسند البزار
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة طحاوي حنفي رحمة الله عليه متوفى ٣٢١هـ	شرح معاني الآثار
دار الكتب العلمية ١٢٠هـ	حافظ شيرويه بن شهر دار بن شيرويه ديلمى رحمة الله عليه متوفى ٥٠٩هـ	الفردوس الاخبار
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	امام ابو السعادات مبارك بن محمد ابن اثير رحمة الله عليه متوفى ٦٠٦هـ	جامع الاصول
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام ابو بكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ	معرفة السنن والآثار
مكتبة الرشد رياض ١٢١هـ	امام احمد بن ابي بكر بن اسماعيل بوصيري رحمة الله عليه متوفى ٨٢٠هـ	إتحاف الخيرة المهرة
مكتبة الامام البخاري	ابو عبدالله محمد بن علي بن حسن حكيم ترمذي رحمة الله عليه متوفى ٣٦٠هـ	نوادراصول
دار خضر بيروت ١٢٢هـ	ضياء الدين ابو عبدالله محمد بن عبد الواحد حنبل رحمة الله عليه متوفى ٦٣٣هـ	الاحاديث المختارة

دار الفكر بيروت ١٤٢٠هـ	حافظ نور الدين علي بن ابو بكر هيثمى رحمه الله عليه متوفى ٨٠٤هـ	مجمع الزوائد
دار الفكر بيروت ١٤١٨هـ	امام زكى الدين عبدالعظيم منذرى رحمه الله عليه متوفى ٦٥٦هـ	الترغيب والترهيب
دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ	امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٩١١هـ	الجامع الصغير
دار احياء التراث العربى بيروت	امام محمد بن عيسى ترمذى رحمه الله عليه متوفى ٢٤٩هـ	الشامائل المحمدية
دار الكتب العلمية ١٤١١هـ	حافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادى رحمه الله عليه متوفى ٢٦٢هـ	تاريخ بغداد
دار الفكر بيروت ١٤١٦هـ	حافظ ابو القاسم علي بن حسن ابن عساكر شافعى رحمه الله عليه متوفى ٥٤١هـ	تاريخ مدينة دمشق
دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى رحمه الله عليه متوفى ٤٢٨هـ	تذكرة الحفاظ
دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ	امام حافظ ابو نعيم اصفهاني رحمه الله عليه متوفى ٢٣٠هـ	معرفة الصحابة
المكتبة الشاملة	محبى الدين ابو ذكريا يحيى بن شرف نووى رحمه الله عليه متوفى ٦٤٦هـ	تهذيب الاسماء واللغات
دار ابن جوزى ١٤٢٨هـ	حافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادى رحمه الله عليه متوفى ٢٦٢هـ	الفقيه والمتفقه
دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ	علامه علي متقى بن حسام الدين برهان پورى رحمه الله عليه متوفى ٩٤٥هـ	كنز العمال
دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ	امام حافظ ابن حجر عسقلانى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٨٥٢هـ	تلخيص الحبير
المكتبة الشاملة	حافظ ابو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله عليه متوفى ٢٢٢هـ	الظهور
مكتبة المعارف رياض ١٤٠٣هـ	حافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادى رحمه الله عليه متوفى ٢٦٢هـ	الجامع لاخلاق الراوى
مكتبة القرآن قاهرة	امام حافظ ابو بكر عبدالرزاق بن همام رحمه الله عليه متوفى ٢١١هـ	الامالى فى آثار الصحابة
دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ	امام ابو احمد عبد الله بن عدى جرجانى رحمه الله عليه متوفى ٣٦٥هـ	الكامل فى ضعفاء الرجال
المكتبة الشاملة	حافظ ابو الشيخ عبد الله بن محمد اصبهاني رحمه الله عليه متوفى ٣٦٩هـ	طبقات المحدثين
دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ	امام حافظ ابن حجر عسقلانى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٨٥٢هـ	فتح البارى
دار الفكر بيروت ١٤١٨هـ	امام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني رحمه الله عليه متوفى ٨٥٥هـ	عمدة القارى
دار الكتب العلمية	محبى الدين ابو ذكريا يحيى بن شرف نووى رحمه الله عليه متوفى ٦٤٦هـ	شرح النووى على صحيح مسلم
پشاور ١٩٨٥ء	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى رحمه الله عليه متوفى ٤٢٨هـ	الكبائر
دار المعرفة بيروت ١٤١٩هـ	امام شهاب الدين احمد بن حجر مكى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٩٤٢هـ	الزواجر عن اقتراف الكبائر
دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ	امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٩١١هـ	جمع الجوامع
دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ	امام حافظ ابن حجر عسقلانى شافعى رحمه الله عليه متوفى ٨٥٢هـ	المطالب العلية
دار الكتاب العربى ١٤٢٥هـ	امام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن سخاوى رحمه الله عليه متوفى ٩٠٢هـ	المقاصد الحسنة
دار الفكر بيروت ١٤٢٢هـ	علامه علي بن سلطان محمد قارى رحمه الله عليه متوفى ١٠١٣هـ	مرقاة المفاتيح
دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ	سليمان بن محمد بن عموتوفى ١٢٢١هـ	تحفة الحبيب على .....

المكتبة الشاملة	امام حافظ ابو نعيم اصفهاني رحمه الله عليه متوفى ٣٣٠هـ	حديث ابي نعيم
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام محمد عبد الرؤوف مناوي رحمه الله عليه متوفى ١٠٣١هـ	فيض القدير
دار الفكر بيروت ١٢١هـ	امام حافظ ابن حجر عسقلاني شافعي رحمه الله عليه متوفى ٨٥٢هـ	تهذيب التهذيب
دار الصميعي رياض ١٢٢٠هـ	ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى عقيل بن حمزة رحمه الله عليه متوفى ٣٢٢هـ	كتاب الضعفاء
دار الصميعي رياض ١٢٢٠هـ	امام حافظ محمد بن حبان رحمه الله عليه متوفى ٣٥٢هـ	المجروحين
مكتبة رشيديه كوئته	علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي رحمه الله عليه متوفى ١٢٥٢هـ	منحة الخالق.....
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	علامه ابو بكر عثمان بن محمد دمياطي بكرى رحمه الله عليه متوفى ١٣٠٢هـ	حاشية اعادة الطالبين
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام بدر الدين محمد بن عبد الله زر كشي رحمه الله عليه متوفى ٤٩٢هـ	البحر المحيط.....
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	امام حافظ ابو نعيم اصفهاني رحمه الله عليه متوفى ٣٣٠هـ	حلية الاولياء
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	امام محمد بن يوسف صالحى شامى رحمه الله عليه متوفى ٩٣٢هـ	سبل الهدى والرشاد
دار الكتب العلمية بيروت	امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله عليه متوفى ٢٢١هـ	الزهد
دار الكتب العلمية	امام عبد الله بن المبارك مرزوى رحمه الله عليه متوفى ١٨١هـ	الزهد
المكتب الاسلامى ١٣٠٦هـ	حافظ ابو هلال حسن بن عبد الله عسكرى رحمه الله عليه متوفى ٣٩٠هـ	الحث على طلب العلم
دار الكتب العلمية	علامه سيد محمد بن محمد حسيني زبيدي رحمه الله عليه متوفى ١٢٠٥هـ	اتحاف السادة المتقين
مركز اهل سنت بركات رضاهند	امام ابو فضل عياض بن موسى بن عياض مالكن رحمه الله عليه متوفى ٥٢٢هـ	الشفاه
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	شيخ ابو طالب محمد بن علي مكي رحمه الله عليه متوفى ٣٨٦هـ	قوت القلوب
المكتبة الشاملة	احمد بن محمد بن قدامه رحمه الله عليه متوفى ٤٣٢هـ	مختصر منهاج القاصدين
دار احياء التراث العربى	نور الدين علي بن احمد سمهودى رحمه الله عليه متوفى ٩١١هـ	وفاء الوفاء
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	امام ابو عبد الله محمد بن محمد عبد رى رحمه الله عليه متوفى ٤٣٤هـ	المدخل
المكتبة الشاملة	محمد بن حسن بن محمد بن علي بن حمدون رحمه الله عليه متوفى ٥٦٢هـ	التذكرة الحمدونية
دار الفكر بيروت ١٢١٩هـ	شهاب الدين محمد بن ابي احمد ابي فتح رحمه الله عليه متوفى ٨٥٠هـ	المستطرف
دار الكتب العلمية ١٢١هـ	كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ديمري رحمه الله عليه متوفى ٨٠٨هـ	حياة الحيوان الكبرى
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمه الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	صفة الصفوة
مكتبة نزار مصطفى الباشا ١٢٢٥هـ	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمه الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	صيد الخاطر
دار الفكر بيروت	محيى الدين ابو ذكريا يحيى بن شرف نووى رحمه الله عليه متوفى ٦٤٦هـ	المجموع شرح المذهب
دار الكتب العلمية ١٢٢هـ	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمه الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	بستان الواعظين
مكتبة الكتاب والسنة پشاور	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمه الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	ذم الهوى

دارالكتب العلمية ١٣١٨هـ	ابو محمد عبد الله بن مسلم قتيبيه دينورى رحمة الله عليه متوفى ٢٤٦هـ	عيون الاخبار
دارالمعرفة بيروت ١٣٠٦هـ	ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمة الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	التذكرة فى الوعظ
دارالكتب العلمية ١٣٢هـ	امام اسمعيل بن محمد بن هادى عجلونى رحمة الله عليه متوفى ١١٦٢هـ	كشف الخفاء
كتب خانة مجديه ملتان	علامه محمد طاهر بن علي هندى پثنى رحمة الله عليه متوفى ٩٨٦هـ	تذكرة الموضوعات
دارالكتب العلمية ١٣٠هـ	ابو الحسن علي بن محمد بن عراق كنانى رحمة الله عليه متوفى ٩٦٣هـ	تنزيه الشريعة
دارالكتب العلمية ١٣١هـ	امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعى رحمة الله عليه متوفى ٩١١هـ	الآلائى المصنوعة
دارالكتب العلمية ١٣٢هـ	ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمة الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	العلل المتناهية
دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ	مولى مصطفى بن عبد الله رومى حنفى رحمة الله عليه متوفى ١٠٦٤هـ	كشف الظنون
دارصادر بيروت ٢٠٠٠هـ	علامه شيخ عبدالقادر بن شيخ بن عبد الله عيد روس رحمة الله عليه متوفى ١٠٣٨هـ	تعريف الاحياء
دارصادر بيروت ٢٠٠٠هـ	امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعى رحمة الله عليه متوفى ٩١١هـ	تشبيد الاركان
دارالنشر ١٣١٣هـ	تاج الدين عبدالوهاب بن علي سبكي رحمة الله عليه متوفى ٤٤١هـ	الطبقات الشافعة الكبرى
مؤسسة الكتب الثقافية ١٣٠٠هـ	ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد جوزى رحمة الله عليه متوفى ٥٩٤هـ	الثبات عند الممات
دارالكتب العلمية ١٣١هـ	احمد بن محمد عبد ربه اندلسى رحمة الله عليه متوفى ٣٢٨هـ	العقد الفريد
دارالقلم دمشق ١٣١٦هـ	امام راغب ابو قاسم حسين بن محمد اصفهانى رحمة الله عليه متوفى ٥٠٢هـ	مفردات الفاظ القرآن
دارالكتب العلمية ١٣٩هـ	امام حافظ محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفى ٣٥٢هـ	روضة العقلاء
المكتبة الفيصلية مكة المكرمة	عبدالرحمن بن شهاب الدين بن رجب حنبلى رحمة الله عليه متوفى ٤٩٥هـ	جامع العلوم والحكم
دارالكتب العلمية ١٣٢٨هـ	حافظ ابو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر رحمة الله عليه متوفى ٣٦٣هـ	جامع بيان العلم وفضله
دارالكتب العلمية ١٣٢هـ	عبد الرحمن بن محمد جزيرى	كتاب الفقه.....
المكتبة الشاملة	ابو عبد الله محمد بن مفلح مقدسى رحمة الله عليه متوفى ٦٣هـ	الآداب الشرعية
دارالكتب العلمية بيروت	امام يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر رحمة الله عليه متوفى ٣٦٣هـ	الانتقاء فى فضائل الثلاثة.....
دارالكتب العلمية ١٣٢١هـ	حافظ ابوبكر احمد بن مروان دينورى مالكي رحمة الله عليه متوفى ٣٣٣هـ	المجالسة وجواهر العلم
دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ	امام شمس الدين محمد بن احمد ذهبى رحمة الله عليه متوفى ٤٣٨هـ	سير اعلام النبلاء



## مجلس المدینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ 221 کتب و رسائل

### مع عنقریب آنے والی 19 کتب و رسائل

﴿شعبہ کتب اعلیٰ حضرت﴾

#### اردو کتب:

- 01..... راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (رَأْدُ الْقَحْطِ وَالْوَبَاءِ بِدَعْوَةِ الْجَبْرَانِ وَمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 02..... کرنسی نوٹ کے شرعی احکامات (كِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ فِي أَحْكَامِ قُرْطَاسِ الدَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 03..... فضائل دعا (أَحْسَنُ الْوَعَاءِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمَدْعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 04..... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَشَاءُ الْجِيدِ فِي تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 05..... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُوقُ لَطَرَحِ الْعُقُوقِ) (کل صفحات: 125)
- 06..... المملووظ المعروف بالمعروف بملفوظات اعلیٰ حضرت (کمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 07..... معاش ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 08..... ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ) (أَلْيَقُوتَةُ الْوَأَسْطَه) (کل صفحات: 60)
- 09..... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (اظهار الحق الجلی) (کل صفحات: 100)
- 10..... شریعت و طریقت (مقالہ عمر فابا عزاز شرع و علمنا) (کل صفحات: 57)
- 11..... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (أَعْجَبُ الْإِمْدَادِ) (کل صفحات: 47) 12..... اَلْوُظَيْفَةُ الْكُرَيْمَةُ (کل صفحات: 46)
- 13..... ثبوت ہلال کے طریقے (طُرُقُ اثْبَاتِ هَلَالِ) (کل صفحات: 63) 14..... ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 15..... کنز الایمان مع خزائن العرفان (کل صفحات: 1185) 16..... اولاد کے حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَادِ) (کل صفحات: 31)

#### عربی کتب:

- 21 تا 17..... جَدُّ الْمُتَمَتَّرِ عَلَي رَدِّ الْمُتَمَتَّرِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) (کل صفحات: 570، 672، 713، 650، 483)
- 22..... التعلیق الرضوی علی صحیح البخاری (کل صفحات: 458)
- 23..... كِفْلُ الْفَقِيهِ الْفَاهِمِ (کل صفحات: 74)
- 24..... الْإِحْزَانُ الْمَبْتَنِي (کل صفحات: 62)
- 25..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60)
- 26..... الرِّمَزَةُ الْقُمْرِيَّةُ (کل صفحات: 93)
- 27..... الْفَضْلُ الْمُوَهَّبِي (کل صفحات: 46)
- 28..... تَمْهِيدُ الْإِيمَانِ (کل صفحات: 77)
- 29..... أَجَلِي الْإِعْلَامِ (کل صفحات: 70)

#### عنقریب آنے والی کتب

01..... جَدُّ الْمُتَمَتَّرِ جلد ۵، ۶، ۷

## ﴿شعبہ تراجم کتب﴾

- 01..... مدنی آقا کے روشن فیصلے (الْبَاهِرُ فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (کل صفحات: 112)
- 02..... سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟... (تَمْهِيدُ الْفُرْشِ فِي الْبُخْصَالِ الْمُوجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ) (کل صفحات: 28)
- 03..... نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قُرَّةُ الْعِيُونِ وَمُفْرَحُ الْقُلُوبِ الْمَحْزُونِ) (کل صفحات: 142)
- 04..... نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول (الْمَوَاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ) (کل صفحات: 54)
- 05..... جنت میں لے جانے والے اعمال (الْمُتَجَرُّ الرَّابِحُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ) (کل صفحات: 743)
- 06..... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الْزُّوْجُ وَالْأَجْرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايَرِ) (کل صفحات: 1012)
- 07..... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) (الْزُّوْجُ وَالْأَجْرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكِبَايَرِ) (کل صفحات: 853)
- 08..... امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی وصیتیں (وصایا امام اعظم علیہ الرحمہ) (کل صفحات: 46)
- 09..... اصلاح اعمال (جلد اول) (الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ فِي شَرْحِ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ) (کل صفحات: 866)
- 10..... اللہ والوں کی باتیں (حلیۃ الاولیاء و طبقات الصفیاء) جلد اول (کل صفحات: 896)
- 11..... نیکی کی دعوت کے فضائل (الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ) (کل صفحات: 98)
- 12..... عاشقانِ حدیث کی حکایات (الرَّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (کل صفحات: 105)
- 13..... فیضانِ مزاراتِ اولیا (كَشْفُ الثُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) (کل صفحات: 144)
- 14..... دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزُّهُدُ وَقَصْرُ الْأَمَلِ) (کل صفحات: 85)
- 15..... راہِ علم (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ طَرِيقَ التَّعَلُّمِ) (کل صفحات: 102)
- 16..... احیاء العلوم کا خلاصہ (بَابُ الْإِحْيَاءِ) (کل صفحات: 641)
- 17..... حکایتیں اور نصیحتیں (الرُّوضُ الْفَائِقُ) (کل صفحات: 649)
- 18..... احیاء العلوم مترجم (جلد اول) (کل صفحات: 1124)
- 19..... عیون الحکایات (مترجم، حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 20..... عیون الحکایات (مترجم، حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 21..... اچھے برے عمل (رسالة المداكرة) (کل صفحات: 122)
- 22..... شکر کے فضائل (الشُّكْرُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) (کل صفحات: 122)
- 23..... حسن اخلاق (مكارم الاخلاق) (کل صفحات: 102)
- 24..... آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300)
- 25..... آدابِ دین (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ) (کل صفحات: 63)
- 26..... شاہراہ اولیا (منهاج العارفين) (کل صفحات: 36)
- 27..... 152 رحمت بھری حکایات (کل صفحات: 326)
- 28..... بیٹے کو نصیحت (أَيُّهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- 29..... اَلدَّعْوَةُ إِلَى الْفِكْرِ (کل صفحات: 148)

## عنقرب آنے والی کتب

02..... حلیۃ الاولیا (جلد دوم)

01..... قوت القلوب (جلد اول)

## ﴿شعبہ درسی کتب﴾

- 01.....مراح الارواح مع حاشیہ ضیاء الصباح (کل صفحات: 241) 02.....الاربعین النوویہ فی الأحادیث النبویہ (کل صفحات: 155)
- 03.....انتقان الفراسہ شرح دیوان الحماسہ (کل صفحات: 325) 04.....اصول الشاشی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 299)
- 05.....نورالایضاح مع حاشیة النور والضیاء (کل صفحات: 392) 06.....شرح العقائد مع حاشیة جمع الفرائد (کل صفحات: 384)
- 07.....الفرح الكامل علی شرح مئة عامل (کل صفحات: 158) 08.....عناية النحو فی شرح هداية النحو (کل صفحات: 280)
- 09.....صرف بهائی مع حاشیہ صرف بهائی (کل صفحات: 55) 10.....دروس البلاغہ مع شمس البراعہ (کل صفحات: 241)
- 11.....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضیہ (کل صفحات: 119) 12.....تفسیر الجلالین مع حاشیہ انوار الحرمین (کل صفحات: 405)
- 13.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (کل صفحات: 175) 14.....نحو میرمع حاشیہ نحو منیر (کل صفحات: 203)
- 15.....تلخیص اصول الشاشی (کل صفحات: 144) 16.....نصاب النحو (کل صفحات: 288)
- 17.....نصاب اصول حدیث (کل صفحات: 95) 18.....نصاب التجوید (کل صفحات: 79)
- 19.....المحادثة العربیہ (کل صفحات: 101) 20.....تعريفات نحویہ (کل صفحات: 45)
- 21.....خاصیات ابواب (کل صفحات: 141) 22.....شرح مئة عامل (کل صفحات: 38)
- 23.....نصاب الصرف (کل صفحات: 343) 24.....نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
- 25.....انوار الحدیث (کل صفحات: 466) 26.....نصاب الادب (کل صفحات: 184)

## ﴿شعبہ نثر﴾

- 01.....صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق رسول (کل صفحات: 274)
- 02.....بہار شریعت (جلد اول، حصہ 1 تا 6) (کل صفحات: 1360)
- 03.....بہار شریعت (جلد دوم، حصہ 7 تا 13) (کل صفحات: 1304)
- 04.....أمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن (کل صفحات: 59)
- 05.....جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)
- 06.....بہار شریعت جلد سوم (کل صفحات: 1332)
- 07.....عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)
- 08.....گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
- 09.....بہار شریعت (سولہواں حصہ) (کل صفحات: 312)
- 10.....تحقیقات (کل صفحات: 142)
- 11.....مجھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
- 12.....جنتی زیور (کل صفحات: 679)
- 13.....علم القرآن (کل صفحات: 244)
- 14.....سوانح کربلا (کل صفحات: 192)
- 15.....اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
- 16.....کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
- 17.....منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
- 18.....اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
- 19.....آئینہ قیامت (کل صفحات: 108)
- 20 تا 26.....فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)
- 27.....حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)



- 28..... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249)  
 30..... کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)  
 32..... سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)  
 34..... فیضانِ نماز (کل صفحات: 49)  
 29..... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)  
 31..... اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)  
 33..... 19 دُرُود و سلام (کل صفحات: 16)  
 35..... آئینہ عبرت (کل صفحات: 133)

### ﴿شعبہ فیضان صحابہ﴾

- 01..... حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (کل صفحات: 132)  
 02..... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (کل صفحات: 89)  
 03..... حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (کل صفحات: 56)  
 04..... حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (کل صفحات: 60)  
 05..... حضرت سیدنا زبیر بن عوام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (کل صفحات: 72)

### عنقریب آنے والی کُتب

- 01..... حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### ﴿شعبہ اصلاحی کُتب﴾

- 01..... غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَالْحَالَات (کل صفحات: 106)  
 02..... تکبر (کل صفحات: 97)  
 03..... 40 فرامینِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (کل صفحات: 87)  
 04..... بدگمانی (کل صفحات: 57)  
 05..... تیر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)  
 06..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)  
 07..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)  
 08..... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)  
 09..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)  
 10..... ریا کاری (کل صفحات: 170)  
 11..... قومِ حجّت اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)  
 12..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)  
 13..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)  
 14..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)  
 15..... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)  
 16..... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)  
 17..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)  
 18..... ٹی وی اور موعود (کل صفحات: 32)  
 19..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)  
 20..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)  
 21..... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)  
 22..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)  
 23..... نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)  
 24..... خوفِ خدا عَزَّ وَجَلَّ (کل صفحات: 160)  
 25..... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)  
 26..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)

- 27..... حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات (کل صفحات: 590) 28..... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)  
 29..... نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696) 30..... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)  
 31..... آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62) 32..... تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)  
 33..... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325) 34..... حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)  
 35..... جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152) 36..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)

## عنقریب آنے والی کتب

- 01..... فیضانِ دعا (غار کے قیدی) 02..... قسم کے احکام 03..... فیضانِ اسلام  
 04..... جلد بازی 05..... حسد 06..... بخل

### ﴿شعبہ امیر اہلسنت﴾

- 01..... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102) 02..... قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)  
 03..... حقوق العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47) 04..... گوڈا کا مبلغ (کل صفحات: 55)  
 05..... مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48) 06..... نادان عاشق (کل صفحات: 32)  
 07..... سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49) 08..... بابرکت روٹی (کل صفحات: 32)  
 09..... 25 کرچین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33) 10..... آنکھوں کا تارا (کل صفحات: 32)  
 11..... دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24) 12..... بدکردار کی توبہ (کل صفحات: 32)  
 13..... گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 23) 14..... میں نیک کیسے بنا (کل صفحات: 32)  
 15..... وضو کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48) 16..... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)  
 17..... اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32) 18..... میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)  
 19..... تذکرہ امیر اہلسنت قسط سوم (سنت نکاح) (کل صفحات: 86) 20..... چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات: 32)  
 21..... آداب مرشدِ کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275) 22..... خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)  
 23..... بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 24..... کرچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)  
 25..... پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 26..... کرچین کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 32)  
 27..... دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220) 28..... صلوة و سلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)  
 29..... میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 32) 30..... ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32)  
 31..... نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32) 32..... فیضانِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)  
 33..... ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32) 34..... ساس بہو میں صلح کاراز (کل صفحات: 32)

- 36.....گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33)
- 38.....نا کام عاشق (کل صفحات: 32)
- 40.....جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
- 42.....غافل درزی (کل صفحات: 36)
- 44.....مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
- 46.....کفن کی سلامتی (کل صفحات: 33)
- 48.....بد نصیب دولہا (کل صفحات: 32)
- 50.....بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)
- 52.....ہیروئن کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 54.....مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
- 56.....فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 58.....قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 60.....شرابی، مؤذن کیسے بنا (کل صفحات: 32)
- 35.....تذکرہ امیر اہلسنت قط (2) (کل صفحات: 48)
- 37.....مخالفت محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
- 39.....چمکتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 41.....تذکرہ امیر اہلسنت قط (1) (کل صفحات: 49)
- 43.....تذکرہ امیر اہلسنت قط (4) (کل صفحات: 49)
- 45.....چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
- 47.....معذور بچی مبلغہ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
- 49.....عطاری جن کا غسل میت (کل صفحات: 24)
- 51.....نومسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
- 53.....قاتل امامت کے مصلے پر (کل صفحات: 32)
- 55.....انگوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- 57.....سینما گھر کا شیدائی (کل صفحات: 32)
- 59.....خونفک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)

## عنقریب آنے والی کتب

01.....انجمنی کا تحفہ

02.....جیل کا گویا



### ﴿گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن﴾

”دعوت اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے ”مدنی قافلوں“ میں سفر اور روزانہ ”فکر مدینہ“ کے ذریعے ”مدنی انعامات“ کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے (دعوت اسلامی کے) ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے ”پابند سنت“ بننے، ”گناہوں سے نفرت“ کرنے اور ”ایمان کی حفاظت“ کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## سُنَّتِ كِي بہاریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی سُنَّتِ قرآن و سُنَّتِ کي عالکیر فیہر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے چبکے چبکے مدنی ماحول میں بکثرت سُنَّتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر شہرات معرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سُنَّتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے اٹھی اٹھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بہتیت ثواب سُنَّتوں کی ترتیت کیلئے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پُر کر کے ہر مدنی ماہ کے ایچائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمے دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے، اِن سُنَّتِ اللہ عَلَیْہِ اَسْرَہُ اِسْ کي بَرکت سے پابند ستم بننے سُنَّتا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے گولہ سنے کا ذمہ بنے گا۔

ہر اسلامی بھائی اپنا بیہ ذمہ بنائے کہ ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِن سُنَّتِ اللہ عَلَیْہِ اَسْرَہُ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مدنی انعامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مدنی قافلوں“ میں سفر کرنا ہے۔ اِن سُنَّتِ اللہ عَلَیْہِ اَسْرَہُ

### مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

- کراچی: شہید سید محمد اکرم اور فون: 021-32203311
- لاہور: داتا گاندی پارک گیت گنج کلاں روڈ۔ فون: 042-37311679
- سرور آباد (ٹھٹھل آباد): اٹکن چور بازار۔ فون: 041-2632625
- کشمیر: چوک شہید ابراہیم بصر۔ فون: 058274-37212
- حیدرآباد: فیضان مدینہ تعلیمی ناؤں۔ فون: 022-2620122
- مٹان: نور عثمانی والی شہرہ اندرون بوہڑ گیت۔ فون: 061-4511192
- اٹک: کاشی بازار انتظامیہ شہرہ نور تحصیل کوشل پال۔ فون: 044-2550767
- راولپنڈی: فضل اور بازارہ کئی چوک، اقبال روڈ۔ فون: 051-5553765
- پشاور: فیضان مدینہ گلبرگ نمبر 1 اور شریعت، صدر۔
- خان پور: ڈرامائی چوک شہر کرا۔ فون: 068-5571686
- قراچ: پتھر بازار نزد MCB۔ فون: 0244-4362145
- سکس: فیضان مدینہ صراف روڈ۔ فون: 071-5619195
- گوجرانوول: فیضان مدینہ شہرہ ہوز، گوجرانوول۔ فون: 055-4225653
- گلزار علیہ (سرگودھا): فیضان مدینہ، ہانڈال پانچ سہو سہو ماہلی ٹا۔ فون: 048-6007128



فیضان مدینہ، محلہ سودا گران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

فون: 021-34921389-93 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net

مکتبۃ المدینہ  
(دعوت اسلامی)